الموسوعة

المسمی بہ

سرُّ اللہ الاعظم
فی الصلاۃ والسلام علی
سیدنا ومولانا محمد خیر الانام

درُود وسلام

کی نادر کتب کا انسائیکلوپیڈیا

(Encyclopedia)

ترتیب

افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق وطباعت

محمد ذیشان انجم قادری

جلد اول

بسم الله الرحمن الرحيم


ورفعنا لك ذكرك



اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ

وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ



بیرونی واندرونی منظر مزارِ پُر انوار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ



الموسوعة

المسمی بہ

سرّ اللہ الاعظم فی الصلاۃ والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الانام

درود وسلام

کی نادر کتب کا انسائیکلوپیڈیا

(Encyclopedia)

ترتیب
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق وطباعت
محمد ذیشان انجم قادری

جلد اوّل

نام انسائیکلوپیڈیا (عربی):	**الموسوعة المسمی به سرُّ اللہ الاعظم فی الصلاۃ و السلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الانام**
نام انسائیکلوپیڈیا (اُردو):	درُود و سلام کی نادر کتب کا انسائیکلوپیڈیا
موضوع:	درُود و سلام
ترتیب:	افتخار احمد حافظ قادری
تحقیق و تقدیم:	ڈاکٹر محمد ذیشان انجم قادری
نظر ثانی و تصحیح:	محمد شہزاد بیگ قادری/ محمد جمیل نقشبندی/ محمد حسین قادری شیرازی
کمپوزنگ:	محمد شہزاد بیگ قادری/ عاطف اقبال/ ولید اخلاق
پیشکش:	المکتبۃ القادریہ، واہ ماڈل ٹاؤن، واہ کینٹ، پاکستان
سالِ اشاعت:	1435ھ/2014ء
تعدادِ اشاعت:	محدود نسخہ جات
ہدیہ کتاب:	کثرت سے درُود و سلام کا وِرد

برائے ایصالِ ثواب **جمیع اُمتِ محمدیہ ﷺ**

خصوصاً

راجہ علی اصغر قادری شاذلی نقشبندی (مرحوم)

بانی واہ ماڈل ٹاؤن، واہ کینٹ، پاکستان

بانی نویدِ سحر ویلفیئر ٹرسٹ، واہ کینٹ، پاکستان

برائے رابطہ

المكتبة القادرية

HOUSE # 18, LANE # 25-A, PHASE-II,
WAH MODEL TOWN, WAH CANTT. PAKISTAN
Cell : 0092-3335187573, 0092-3445009536
E-mail : info@salat-o-salam.com
salat.o.selam@gmail.com
Website : www.salat-o-salam.com

الموسوعة

المسمی بہ

سرُّ اللّٰہ الاعظم
فی الصلاۃ والسلام علی
سیدنا ومولانا محمد خیر الانام

دُرود وسلام

کی نادر کتب کا انسائیکلوپیڈیا

(Encyclopedia)

بأجازت

فضیلۃ الشیخ سیدی خلیفہ الحیزم
الحسنی الحسینی مد ظلہ العالی / تیونس

حضرت الشیخ سیدی تیسیر محمد یوسف
الحسنی السمہودی مد ظلہ العالی

بفیضانِ نظر

عاشقِ رسول ﷺ وفنا فی شیخہ

حضرت صوفی غلام محمد قادری سعیدی شکوری رحمۃ اللہ علیہ

(مزارِ مبارک، واہ ماڈل ٹاؤن، فیز-I، واہ کینٹ)

زیرِ نظر

جناب فقیر امیر نواز چشتی نظامی المعروف حضرت باباجی مدظلہ العالی
خلیفۂ مجاز دربارِ عالیہ سید دلاور شاہ المعروف لیونے باچا رحمۃ اللہ علیہ
شگئی شریف، پشاور شہر

1435 ہجری / 2014 عیسوی

فہرست



قطبِ وقت حضرت سیدی عبدالسلام مشیش رضی اللہ عنہ
(جبل علم، المغرب)



مزارِ پُر انوار بانی و سرخیلِ سلسلۂ شاذلیہ حضرت سیدی ابوالحسن الشاذلی رضی اللہ عنہ
(وادی حمیثرہ، عیذاب، مصر)

انتساب انسائیکلوپیڈیا بنام
ENCYCLOPEDIA

سیدۃ حوا علیہا السلام سے لے کر قیامت تک کی عظیم خواتین

بالخصوص

سیدۃ آمنہ رضی اللہ عنہا (والدۂ ماجدہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم)

جمیع اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن

بالخصوص
سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صاحبزادیاں

خصوصاً خاتونِ جنت سیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا

سیدۃ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا (والدۂ ماجدہ مولائے کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ)

سیدۃ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا

سیدۃ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا

سیدۃ فاطمہ اُم الخیر رضی اللہ عنہا
(والدۂ ماجدہ سرکارِ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ)

اور

مرحومہ فضل نیشان رحمۃ اللہ علیہا (زوجہ حافظ فقیر محمد قادری مرحوم)
(والدۂ ماجدہ افتخار احمد حافظ قادری)

محترمہ مہرُ النساء (زوجہ راجہ علی اصغر قادری مرحوم)
محترمہ فوقیہ ناہید (" ")
(والدۂ ماجدہ محمد ذیشان انجم قادری چشتی نظامی)

مرحومہ روبینہ اصغر (بنت راجہ علی اصغر قادری مرحوم)

مرحومہ پروین اختر (بنت حافظ فقیر محمد قادری مرحوم)

المقدمة

ان الله تعالی امر المؤمنین ان یصلوا علی نبیه المختار و یسلموا بقوله. "ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین اٰمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما" و هی عبارة النص علی امره تعالی بالصلاة علی سید الانبیاء و المرسلین و السلام کثیر لمن اراد الفوز العظیم عند الملك الرحیم. ولا شك فی ان الصلاة علیه عبادة مقبولة علی کل حال و هی من خصوصیة هذه الامة کما قال حضرة العلامة السید محمود عباس الالوسی البغدادی فی تفسیره "روح المعانی" انه لم تؤمر امة من الامم بالصلاة علی نبیها سوی هذه الامة المحمدیة فهی من خصوصیاتها. و عند القاضی عیاض المالکی علیه اجماع الامة اذ هو قال "الاجماع منعقد علی ان فی هذه الآیة من تعظیم النبی صلی الله علیه و آله و سلم و التنویة به ما لیس فی غیرها.

و ما هی المرتبة العلیا الا ثابت لسیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم. ان الله تعالی ذکر اسمه باسمه فی الکلمة و الاذان و الصلوٰة و غیر ذلك و کتب اسمه علی عرشه المجید کما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تعالی "یا محمد! جعلتك ذکرا من ذکری فمن ذکرك فقد ذکرنی و من احبك فقد احبنی" و هکذا امر الله تعالی ان یتبعوا نبیه من اراد ان ینال ان یحب او محبته تعالی بقوله "قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله" ولا شك فی ان الاتباع بدون المحبة محال فجعل تعالی محبته فی اتباع نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. و فی المقام الآخر قال "من یطع الرسول فقد اطاع الله" فعلم ان محبة الله و اطاعته محبة الرسول و اطاعته و ایضًا ذکره مرفوعا من الله تعالی کما جاء فی الوحی المتلوّ "و رفعنا لك ذکرك" قال الامام اسماعیل الحقی الحنفی فی تفسیره "روح البیان" و جعل طاعته طاعة تعالی و صلی علیه و ملائکته و امر المؤمنین بالصلاة علیه و قال الامام الحسن البصری فی تفسیر هذه الایة "الا تری ان الله تعالی لا یذکر فی موضع الا ذکر معه نبیه".

عن مجاهد رضی الله عنه فی قوله تعالی "و رفعنا لك ذکرك" لا اذکر الا ذکرت معی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و عن ابی سعید الخدری عن النبی ﷺ قال "اتانی جبریل فقال ان ربی عز و جل یقول کیف رفعت ذکرك؟ قلت الله اعلم فقال اذا ذُکِرتُ ذُکِرتَ معی" و اخرج احمد فی مسنده عن ابن عباس "رفع الله ذکره فلا یذکر الا یذکر معه" و قد روی الامام جریر فی تفسیره بسند عن قتادة "رفع الله ذکره فی الدنیا و الاخرة فلا خطیب ولا متشهد ولا صاحب الصلاة الا ینادی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله".

اورد السیوطی فی "الدر المنثور" عن الضحاك فی قوله تعالی "و رفعنا لك ذکرك" قال "اذا ذُكِرتُ ذُكِرتَ معی ولا یجوز خطبة ولا نكاح الا بذكرك" و قال ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبی فی "الجامع لاحكام القران" عن الضحاك عن ابن عباس "قال یقول له لا ذُكِرتُ اِلّا ذُكِرتَ معی الاذان و الاقامة و التشهد و یوم الجمعة علی المنابر و فی یوم الفطر و یوم الاضحی" و اخرج البیهقی فی سننه عن الحسن فی قوله "و رفعنا لك ذکرك" قال "اذا ذکر الله ذکر رسوله" ورد فی تفسیر ابی مسعود فی قوله تعالی "و رفعنا لك ذکرك، قرن اسمه باسمه تعالی فی كلمة الشهادة و الاذان و الاقامة و جعل طاعته طاعة تعالی و صلی علیه هو و ملائكته و امر المؤمنین بالصلاة علیه" و قال الامام الرازی فی تفسیره "قرن ذکر محمد بذکره فی كلمة الشهادة و فی الاذان و فی التشهد و لم یكن ذکر سائر الانبیاء كذلك" و فی تفسیر "مقاتل بن سلیمان" كلما ذکر الله تعالی ذکر معه رسول الله حتی فی خطبة النساء" و قال البیهقی فی سننه الكبری عن الحسن "اذا ذکر الله ذکر رسول الله"۔

و قال صاحب التاج العروس فی قوله تعالی "و رفعنا لك ذکرك" ای شرّفك و قیل معناه اذا ذُكِرتُ ذُكِرتَ معی و ذکر الصلاة لله تعالی و الدعاء الیه و الثناء علیه" و قال الشیخ احمد بن مبارك المالكی فی كتابه "الابریز، سمعت سیدی عبد العزیز الدباغ یقول ان الصلاة علی النبی صلی الله علیه و اله و سلم مقبولة قطعًا" و مرة سئل سیدی محمد بن یوسف السنوی عن قبولیة الصلاة علی النبی صلی الله علیه و اله و سلم فاجاب "ان الصلاة علی النبی صلی الله علیه و اله و سلم مقبولة علی كل حال" و عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم قال من صلی عَلَیَّ فی كتاب لم تزل الملائكة تستغفرون له ما بقی اسمی فی ذلك الكتاب"۔

اذا هكذا الفضائل الثابتة من السنة فقد القی فی قلوبنا ان نقدم باقات الصلاة و السلام فی خدمة حبیبه ﷺ بصورة كتب مطبوعة، و فی شهر اكتوبر 2000ء كنت فی مدینة الرسول ﷺ قد اعطانی سیدی و مرشدی السید تیسیر محمد یوسف الحسنی السمهودی مد ظله العالی كتابین (1) الكنوز المحمدیة لرؤیة خیر البریة (2) الكنوز المحمدیة فی الصلاة علی خیر البریة، و قال لی ان نطبعهما فی الباكستان و بحمد الله و حول قدرته نطبعهما فی الباكستان ثم نشرنا علی احباب رسول الله ﷺ۔

و بعد ذلك طبعنا فی طبعة ملونة كتابین للعلامة یوسف اسماعیل النبهانی (1) افضل الصلوات علی سید السادات ﷺ (2) سعادة الدارین فی الصلاة علی سید الكونین ﷺ۔ و نشرنهما علی احباب رسول الله ﷺ فی الباكستان و خارج الباكستان، فقد شرفنا الله تعالی بوصول المكاتیب

الكثيرة الينا من اطراف العالم و اكنافها حاملة بالبشرى۔

و فی عام 2010ء ان الكتاب افضل الصلوات على سيد السادات قد لخصت فی اللغة الاردوية و سميته " تكميل الحسنات فی تلخيص افضل الصلوات على سيد السادات " و تمت طبعه بالكتابة الحسنة الملونة الجميلة و نشرناها فی اطراف العالم۔ و بعد ذلك وفقنا الله سبحانه و تعالى بان نطبع كتابا اخرا باسم " انوار الحق فی الصلاة على سيد الخلق " للعارف بالله تعالى الشيخ محمد مقصود السالم و وزعناها بدون قيمة فی الباكستان و خارجها۔ و فی شهر جمادی الثانی من عام 1431ھ شرفنا الله تعالى بان نقدم باقة الصلوات و التسليمات باسم " كنز فی الصلاة و السلام على سيدنا و مولانا شفيع الانام " فی خدمة الحبيب ﷺ۔

و قد وفقنا الله تعالى بطبع اثنا عشرا (12) كتابا فی الصلاة و السلام على خير الانام ﷺ۔ و نشرناها على احباب رسول ﷺ۔ ثم خيل فی قلوبنا ان نجمع الكتب النادرة فی صيغ الصلاة و السلام فی صورة موسوعة و ايضا نقدمها فی خدمة حبيبنا و شفيعنا ﷺ۔ و لانجاز هذا العمل العظيم و الكبير بدانا ان نجمع الكتب من الباكستان و خارجها خاصة من البلاد العربية و بعون الله سبحانه و تعالى قد جمعنا خمسين كتابا و قد اصطفينا منها اربعين كتابا باتباع اية قرانية (فتم ميقات ربه اربعين ليلا) و رتبناها بترتيب جديد حسن بشكل موسوعة و نقدمها بمناسبة عيد مولد النبی الشريف ﷺ فی عام 1435ھ الموافق 2014ء مع رجاء ان هذا العمل سيكون مقبولا عند الحبيب ﷺ۔ و سببا لمغفرتنا و لمغفرة مشائخنا و والدينا و لجميع امة محمد صلى الله عليه و اله و سلم امين۔

بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه و اله و سلم۔

طالب دعواتكم الصادقة


محمد ذيشان انجم قادری

افتخار احمد حافظ قادری
۱۴۲۵/۲/۱۲ھ



مزارِ مبارک صاحبِ دلائل الخیرات شریف

حضرت سیدی محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی (**مراکش، المغرب**)



اِس حجرۂ مبارکہ میں حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی السملالی الشاذلی رضی اللہ عنہ

نے دلائل الخیرات شریف تحریر فرمائی



مزارِ پُر انوار شیخِ اکبر سیدی محی الدین بن العربی رضی اللہ عنہ

(دمشق، شام)



مزارِ مبارک غوثِ وقت حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ عنہ

(فاس، المغرب)

مقدمہ

وَرَفَعۡنَا لَکَ ذِکۡرَکَ

معارج النبوۃ (فارسی) میں ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم سے فرمایا کہ ابھی آپ اِس ظاہری دُنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کردیا تھا۔ ''ھنوز تو نبودی کہ ما ثنای تو گفتیم کہ ورفعنا لک ذکرك''

نبی اکرم، نُورِ مجسم، شفیعِ معظم، مالکِ کون ومکاں سیدنا ومولانا محمد ﷺ نہ صرف تمام مخلوقات سے افضل واعلیٰ ہیں بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ ﷺ کو جملہ انبیاء ورُسل کے درمیان خصوصی طور پر منتخب فرمایا اور آپ ﷺ سیدُ الانبیاء والمرسلین کے منصب پر فائز ہوئے۔ سرکارِ دوعالم ﷺ کی تخلیقِ مبارکہ اگر مقصود نہ ہوتی تو پھر اِس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ حدیثِ قدسی ''لَوۡ لَاکَ لَمَا خَلَقۡتُ الۡاَفۡلَاکَ'' کے مطابق صرف اور صرف آپ ﷺ کی ذاتِ مبارکہ ہی وجہِ تخلیقِ کائنات ہے۔

قافلہ سالارِ عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ نے اِس حدیثِ قدسی کو انتہائی خوبصورت انداز میں اِس طرح بیان فرمایا کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا سرکارِ دوعالم ﷺ کے ساتھ عشق کا اٹوٹ رشتہ ہے اور اِسی عشق کے سبب اللہ تبارک وتعالیٰ نے ''لولاك'' اِرشاد فرمایا۔

با محمد ﷺ بود عشقِ پاك جفت
بہرِ عشق اُو را خدا ''لولاك'' گفت

''خدا وند فرمود ای محمد ﷺ! اگر بہ خاطر تو نہ بود جہان را نمی آفریدم''

[کتاب احادیث وقصص مثنوی (فارسی)، بدیع الزمان فروزانفر، ص484]

صحابی رسول ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ''سَأَلۡتُ رُسُوۡلَ اللّٰہِ ﷺ عَنۡ اَوَّلِ شَیۡءٍ خَلَقَ اللّٰہُ تَعَالٰی'' کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آقا! اللہ تبارک وتعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ سرکارِ دوعالم ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا ''ھُوَ، نُوۡرُ نَبِیِّكَ یَا جَابِرُ خَلَقَهُ اللّٰہُ ....''، اے جابر! سب سے پہلے اللہ تبارک وتعالیٰ نے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔

[المصنف، تالیف، الحافظ الکبیر ابی بکر عبدالرزاق بن ھمام الصنعانی، المتوفی 211ھ]

معارج النبوۃ میں تحریر ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سرکارِ دوعالم ﷺ کو اپنے نورِ مبارک سے تخلیق فرمایا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو آب وگِل سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کا سایہ تھا مگر آپ ﷺ کے وجودِ مبارکہ کا سایہ نہ تھا۔ ''آدم را سایہ بودو خواجہٴ ما سایہ نبود''۔ اِسی وجہ سے اندھیری رات میں سرکارِ دوعالم کا جسدِ مبارک روشنی پھیلاتا تھا۔

آپ ﷺ تمام آسمانوں کی بلندیوں سے ماورٰی اِس لئے چلے گئے کہ آپ کا جسمِ مبارک نور سے تخلیق ہوا تھا اور اگر آب و گل سے ہوتا تو ایسا ممکن نہ ہوسکتا تھا۔ آپ ﷺ اپنے آگے یا پیچھے دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہ فرماتے تھے، اِسی طرح آپ ﷺ کی بیداری و نیند یکساں تھی، آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے "میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے"۔

سرکارِ دوعالم ﷺ اِس کائنات کے ماتھے کا جھومر اور اُس کا حُسنِ بے مثال ہیں۔ کائنات کا وہ مقدس و معطر مقام جہاں پر آپ ﷺ آرام فرما ہیں وہ کعبہ شریف اور عرشِ اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ (وفاء الوفاء، جلد اول، باب دوم، فصل اول)

سمجھا نہیں ہنوز میرا عشقِ بے ثبات

تو ﷺ کائناتِ حُسن ہے یا حُسنِ کائنات

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، "**مَا رَأَیْتُ اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰہِ** ﷺ **کَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِیْ فِیْ عَیْنَیْہِ**" کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ ﷺ کی آنکھوں میں سورج گردش کر رہا ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ یارسول اللہ ﷺ! آپ تو اِس کائنات کا نور، روح اور جان ہیں، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو روزِ محشر گناہگاروں اور مجرموں کی شفاعت فرمائیں گے۔

سید و سرور محمد ﷺ نورِ جان

مہتر و بہتر شفیعِ مجرمان

اللہ تبارک وتعالیٰ نے سرکارِ مدینہ ﷺ کی آمد سے قبل کون ومکاں کی اِس بزم کو سجایا، پھر آپ ﷺ کی اِس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اعلان فرمادیا کہ اے حبیب! ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کردیا۔

حضرت سیدی علی وفا الشاذلی رضی اللہ عنہ، سرکارِ دوعالم ﷺ کے حسنِ مبارک کے متعلق فرماتے ہیں کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی حسن پایا جاتا ہے وہ آپ کے حُسن کا پرتو ہے اور نیکی کرنے والا کوئی بھی ہو آپ کو اُس کی نیکیاں ملیں گی۔

اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ "**اَلَمْ نَشْرَحْ**" کی مذکورہ بالا آیۃ کریمہ میں نبی اکرم ﷺ کو خوشخبری سنادی کہ اے حبیب! ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کیلئے بلند کردیا۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ اپنی مشہورِ زمانہ کتاب "**اَلشِّفَاءُ بِتَعْرِیْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰی** ﷺ" میں بلندیٔ ذکر سے متعلق حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا "**أَتَانِیْ جِبْرِیْلُ** علیہ السلام **فَقَالَ اِنَّ رَبِّیْ وَ رَبَّکَ یَقُوْلُ: أَتَدْرِیْ کَیْفَ رَفَعْتُ ذِکْرَکَ**" کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح تمہارا ذکر بلند کیا؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، "**اِذَا ذُکِرْتُ ذُکِرْتَ مَعِیْ**" کہ اے حبیب ﷺ! جہاں میرا ذکر کیا جائے گا، وہاں میرے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔

[کتاب، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ، تالیف، العلامہ القاضی ابی الفضل عیاض بن موسیٰ الیحصبی]

رفع ذکر کیلئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے کلمہ، اذان، اقامت، تشہد، خطبہ.......... وغیرہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کریم ﷺ کے اسمِ مبارک کو ملا دیا۔ اپنی اطاعت کے ساتھ آپ ﷺ کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا "اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ" ﴿سورۃ آل عمران آیت نمبر 132﴾ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے رسول ﷺ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ "اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ" ﴿سورۃ الحدید آیت نمبر 7﴾ صرف لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے اقرار سے ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک مُحَمَّدٌ" رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ پر دل وجان سے یقین واقرار نہ کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مِنْ فَضِیْلَتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ اِنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَه، فَقَالَ تَعَالٰی "مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ" ﴿سورۃ النساء آیت نمبر 80﴾ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں آپ ﷺ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور قرآنِ پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا کہ "جو کوئی بھی رسول اللہ ﷺ اطاعت کرتا ہے درحقیقت وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہی اطاعت کرتا ہے"۔

[کتاب الشفاء، صفحہ نمبر 63]

سرکارِ دوعالم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے محمد! میں نے تجھے اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا، پس جس نے آپ کا ذکر کیا تحقیق اُس نے میرا ذکر کیا اور جس نے تجھ سے محبت کی تحقیق اُس نے مجھ سے محبت کی۔

مذکورہ بالا آیۃ کریمہ کی تفسیر جاننے کیلئے اُردو تفاسیر کے علاوہ بحمدہ تعالیٰ 55 سے زائد عربی تفاسیر سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ چند ایک مشہور تفاسیر سے اس آیۂ مبارکہ کی تفسیر اور قریب ترین اُردو مفہوم پیش ہے۔

تفسیر الحسن البصری	
مصنف	حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ (المتوفی 110ھ)
تفسیر	اَلَا تَرٰی اَنَّ اللّٰهَ لَا يُذْكَرُ فِیْ مَوْضِعٍ اِلَّا ذُكِرَ مَعَه، نَبِيُّه،
ترجمہ	کیا تم دیکھتے نہیں کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی پاک ﷺ کا ذکر نہ کیا ہو۔
تفسیر القشیری	
مصنف	امام ابی القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری النیسابوری الشافعی (المتوفی 465ھ)
تفسیر	رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بِقَوْلِ النَّاسِ مُحَمَّدٌ" رَّسُوْلُ اللّٰهِ
ترجمہ	ہم نے آپ کا ذکر لوگوں کی زبانوں سے اِس طرح بلند کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔
التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب	
مصنف	امام فخر الدین محمد بن عمر البکری الرازی الشافعی رضی اللہ عنہ (المتوفی 604ھ)

تفسير	وَ شُهرَتُه، فِی الاَرضِ وَالسَّمٰوٰتِ، اِسمُه، مَکتُوب'' عَلَی العَرشِ وَ انتِشَارُ ذِکرِه، فِی الآفَاقِ وَ جَعَلَ ذِکرَه، فِی القُرآنِ مَقرُونًا بِذِکرِهٖ اِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ اِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللّٰه
ترجمه	آپ ﷺ کی شہرت کے ڈنکے زمینوں اور آسمانوں میں بج رہے ہیں۔ آپ کا اسمِ مبارک عرش پر تحریر ہے۔ آپ کا ذکر آفاق میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملایا ہوا ہے۔ ''بے شک جنھوں نے آپ ﷺ کی بیعت کی گویا اُنہوں نے اللہ کی ہی بیعت کی''۔

تفسير عرائس البيان فی حقائق القرآن

مصنف	ابو محمد روزبهان بن ابی نصر البقلی الشيرازی رضی اللہ عنہ (المتوفی606ھ)
تفسير	وَسِعَ صَدرَه، اَوَّلًا بِکَشفِ المُشَاهَدَةِ
ترجمه	مشاہدات کیلئے آپ ﷺ کے سینۂ مبارک کو پہلے وسیع (کھلا) کیا گیا۔

تفسير الخطيب الشربينی

مصنف	امام محمد بن احمد الخطيب الشربينی المصری رضی اللہ عنہ (المتوفی977ھ)
تفسير	اَعلَينَا ذِکرَکَ فَذَکَرنَاکَ فِی الکُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَی الاَنبِيَاءِ قَبلَکَ، وَاَمَرنَاهُم بِالبَشَارَةِ بِکَ
ترجمه	ہم نے آپ کے علوِ مرتبہ کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کتابوں میں آپ کا ذکر کیا اور اُن سب کو آپ کی آمد کی بشارت دی۔

روح البيان فی تفسير القرآن

مصنف	امام اسماعيل حقی بن مصطفیٰ الحنفی الخلوتی رضی اللہ عنہ (المتوفی1127ھ)
تفسير	وَجَعَلَ طَاعَتَه، طَاعَةَ تَعَالٰی وَ صَلّٰی عَلَيهِ وَ مَلَائِکَتُه، وَ اَمَرَ المُؤمِنِينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيهِ
ترجمه	اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنے فرشتوں کے ہمراہ آپ ﷺ پر دُرود پڑھا اور مومنین کو اُن پر دُرود وسلام پڑھنے کا حکم دیا۔

أضواء البيان فی ايضاح القرآن بالقرآن

مصنف	الشيخ محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی1393ھ)
تفسير	ذِکرَه، فِی کُتُبِ الاَنبِيَاءِ قَبلَه، حَتّٰی عُرِفَ لِلاُمَمِ المَاضِيَةِ قَبلَ مَجِيئِه

ترجمہ	آپ ﷺ کی تشریف آوری سے قبل سابقہ انبیاء کی کتابوں میں آپ ﷺ کا تذکرہ کیا گیا تا کہ آپ ﷺ کی آمد سے قبل پہلی قوموں میں آپ کا تعارف ہوجائے۔

تفسیر حدائق الروح والریحان

مصنف	محمد الامین بن عبداللہ الارمی العلوی الھرری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر	رُفِعَ ذِکْرُہ، بِاَخْذِ مِیْثَاقِہٖ عَلَی النَّبِیِّیْنَ وَاَلْزَمَھُمُ الْاِیْمَانَ بِہٖ وَالْاِقْرَارَ بِفَضْلِہٖ
ترجمہ	آپ ﷺ کے ذکر کو بلند کرنے کیلئے انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ وہ اُن پر ایمان لائیں گے اور اُن کی فضیلت کا اقرار کریں گے۔

فتح القدیر

مصنف	محمد بن علی بن محمد الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر	اَمَرَہ، بِالصَّلَاۃِ وَالسَّلَامِ عَلَیْہِ وَاَخْبَارَہ، عَنِ اللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّ مَنْ صَلّٰی عَلَیْہِ وَاحِدً، صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ بِھَا عَشْرًا وَ اَمَرَ اللّٰہُ بِطَاعَتِہٖ
ترجمہ	اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ ﷺ پر دُرود وسلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بے شک جو آپ ﷺ پر ایک بار دُرودِ پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک وتعالیٰ اُس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور آپ ﷺ کی اطاعت کا حکم فرمایا۔

آیت ''وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ'' کی مذکورہ بالا تفاسیر کی روشنی میں سرکارِ دوعالم ﷺ کا ذکرِ مبارک آفاق میں بلند ہورہا ہے، آپ ﷺ کی شہرت کے ڈنکے زمینوں اور آسمانوں میں بج رہے ہیں۔

سرکارِ مدینہ ﷺ کی وہ شانِ عظیم ہے کہ رب تعالیٰ نے عرشِ بریں پر آپ ﷺ کے اسمِ مبارک کو تحریر فرمایا ہے، اپنے فرشتوں کے ہمراہ آپ ﷺ پر دُرود بھیج رہا ہے اور مؤمنین کو بھی دُرود وسلام پیش کرنے کا حکم دیا جس سے ہمیشہ آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ سن 2 ہجری شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں آیتِ دُرود وسلام نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی وہ عظمت وشان بیان کی جو کسی دوسری آیت میں موجود نہیں ہے۔

آیتِ دُرود وسلام

حضرت امام سہل بن محمد بن سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سرکارِ مدینہ ﷺ کو اس آیت مبارکہ سے جو شرف عظیم بخشا وہ اُس شرف سے زیادہ اور جامع ہے کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کیلئے ''اَمَرَ الْمَلَائِکَۃَ لَہ، بِالسُّجُوْدِ'' فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو اس عزت وتکریم میں اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرشتوں کے ہمراہ شامل ہونا جائز نہ تھا۔ ''لِاَنَّہ، لَا یَجُوْزُ اَنْ یَّکُوْنَ اللّٰہُ مَعَ الْمَلَائِکَۃِ فِیْ ذٰلِکَ التَّشْرِیْفِ'' لیکن جب اپنے حبیب ﷺ کی عظمت وشان اور بلند مرتبہ کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا ''تحقیق اللہ اور اُس کے فرشتے

نبی پاک ﷺ پر دُرود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی اُن پر دُرود اور خوب سلام پیش کرو"۔

[کتاب، سعادۃ الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین ﷺ، تالیف، القاضی الشیخ یوسف بن اسماعیل النبھانی]

حضرت علامہ حافظ شمس الدین محمد بن عبدالرحمٰن السخاوی الشافعی (المتوفی 902ھ) حضرت امام فاکہانی سے نقل کرتے ہیں "اِنَّہ، لَیسَ فِی القُرآنِ وَلَا غَیرِہ، فِیمَا عَلِمَ صَلَاۃً مِنَ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلٰی غَیرِ نَبِیِّنَا فَھِیَ خَصُوصِیَّۃٌ" اِختَصَّہُ اللّٰہُ بِھَادُوْنَ سَائِرِ الْاَنبِیَاءِ "، "کہ نہ ہی تو قرآن پاک میں اور نہ ہی کہیں اور سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے کسی اور پر دُرود بھیجا ہو، یہ خصوصیت صرف اور صرف تمام انبیاء میں ہمارے نبی اکرم ﷺ کو عطا ہوئی"۔

[کتاب، سعادۃ الدارین، صفحہ 70]

حضرت علامہ محمود الالوسی البغدادی اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن "روح المعانی" میں ارشاد فرماتے ہیں "اِنَّہ، لَم تُؤمَرُ اُمَّۃٌ" مِنَ الْاُمَمِ بِالصَّلَاۃِ عَلٰی نَبِیِّھَا سِوٰی ھٰذِہِ الْاُمَّۃِ الْمُحَمَّدِیَّۃِ فَھِیَ مِنْ خَصُوصِیَّاتِھَا " "اللہ تبارک وتعالیٰ نے امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام پر دُرود بھیجیں پس یہ اُمتِ محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔

[کتاب، سعادۃ الدارین، صفحہ 70]

حضرت علامہ قاضی ابی الفضل عیاض بن موسیٰ الیحصبی (متوفی 544ھ) فرماتے ہیں کہ "اَلْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ" عَلٰی اَنَّ فِی ھٰذِہِ الْاٰیَۃِ مِنْ تَعْظِیمِ النَّبِیِّ ﷺ وَالتَّنوِیہِ بِہٖ مَا لَیسَ فِی غَیرِھِمَا "، کہ "اِس بات پر اجماع ہے کہ اِس آیۂ کریمہ میں سید العالمین ﷺ کی وہ عظمت وشان بیان کی گئی ہے جو کسی دوسری آیت میں موجود نہیں ہے"۔

[کتاب، سعادۃ الدارین، صفحہ 66]

حضرت علامہ حافظ سخاوی الشافعی اِس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں "اِنَّ اللّٰہَ اَخبَرَ عِبَادَہ، بِمَنْزِلَۃِ نَبِیِّہٖ عِندَہُ فِی الْمَلَاءِ الْاَعْلٰی بِاَنَّہ، یُثْنِی عَلَیہِ عِندَ الْمَلَائِکَۃِ الْمُقَرَّبِینَ وَ اَنَّ الْمَلَائِکَۃَ یُصَلُّونَ عَلَیہِ "، کہ "اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے نبی کریم ﷺ کی اُس قدر و منزلت سے آگاہ فرما رہا ہے جو اُس کے حضور ملاء الاعلیٰ میں ہے کہ وہ مقربین فرشتوں میں آپ کی ثناء بیان کر رہا ہے اور فرشتے آپ پر دُرود بھیج رہے ہیں"۔ پھر عالمِ سُفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ ﷺ پر دُرود و سلام بھیجیں تا کہ آپ ﷺ پر دونوں عالموں (عالم علوی اور عالم سُفلی) کی ثناء جمع ہو جائے۔

حضرت قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "اِعْلَمْ اَنَّ الصَّلَاۃَ عَلَی النَّبِیِّ ﷺ فَرْضٌ" عَلَی الْجُمْلَۃِ غَیرِ مُحَدَّدٍ بِوَقْتٍ لِاَمْرِ اللّٰہِ تَعَالٰی بِالصَّلَاۃِ عَلَیہِ "، کہ "جان لو نبی اکرم ﷺ پر دُرود بھیجنا فرض ہے اور یہ (عمل) کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے"۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ ﷺ پر دُرود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔

حضرت ابن عبدالبر فرماتے ہیں "اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلٰی اَنَّ الصَّلَاۃَ فَرْضٌ" عَلٰی کُلِّ مُؤْمِنٍ لِقَوْلِہٖ تَعَالٰی لِلْاٰیَۃِ الشَّرِیفَۃِ وَ عَلَیہِ الْاِمَامُ اَبُوحَنِیفَۃَ وَ مَالِکٌ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمَا وَ جَمٌّ" غَفِیرٌ" مِنَ الْعُلَمَاءِ "، کہ "اِس آیہ مبارکہ کے مطابق ہر مومن پر دُرود و سلام پڑھنا فرض ہے، اِس پر حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام مالک

اور علماء کا ایک جم غفیر متفق ہے''۔

نبی اکرم ﷺ پر دُرود و سلام پیش کرنا تمام عبادات سے افضل ہے۔ تمام عبادات کا حکم اللہ تبارک وتعالیٰ نے خود دیا ہے لیکن اِس میں شریک نہیں، لیکن جب نبی پاک ﷺ پر دُرود بھیجنے کا حکم دیا تو اُس کی ابتداء خود کی ''وَاَمَرَ الْمَلَائِکَۃَ بِالصَّلَاۃِ عَلَیْہِ ، ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ بِاَنْ یُّصَلُّوْا عَلَیْہِ''، اور فرشتوں کو آپ ﷺ پر دُرود بھیجنے کا حکم دیا، پھر مؤمنین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ ﷺ پر دُرود و سلام بھیجیں جس سے ثابت ہوگیا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت نبی اکرم ﷺ پر دُرود و سلام بھیجنا ہے۔ دُرود و سلام سب سے افضل وظیفہ بلکہ سید الوظائف ہے اور اسرار و رموز کا وہ خزانہ ہے جو ہر صورت میں قبول و منظور ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیۃ مبارکہ (اِنَّ اللّٰہَ وَ مَلَائِکَتَہٗ..........) نازل ہوئی تو آپ ﷺ کے چہرۂ مبارک کا رنگ انار کے دانوں کی طرح انتہائی خوشی سے کھل گیا اور آپ ﷺ فرمانے لگے کہ مجھے مبارک باد پیش کرو کہ مجھ پر آج وہ آیت نازل ہوئی جو میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خوشخبری سنتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مبارک باد دیتے ہیں، جس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ﷺ اِس آیۃ کریمہ کی تفسیر بیان فرما دیں تاکہ ہم لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دریافت کرلیا ہے حالانکہ یہ علم مکنونی ہے اور اگر تم لوگ مجھ سے نہ پوچھتے تو میں کسی کو نہ بتاتا۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جب کوئی مؤمن جہاں کہیں بھی مجھ پر دُرود و سلام پڑھتا ہے تو وہ دو فرشتے اُس کیلئے دُعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تیری بخشش و مغفرت کرے۔ پھر اللہ تبارک وتعالیٰ اِن دو فرشتوں کے جواب میں اپنے تمام فرشتوں سمیت آمین کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان میرا نام سن کر دُرود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے اُس کیلئے کہتے ہیں کہ اللہ تیری بخشش و مغفرت نہ کرے، جس پر اللہ تبارک وتعالیٰ اور اُس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔

معارج النبوۃ (فارسی) میں ہے کہ بعض بزرگانِ دین نے اللہ تبارک وتعالیٰ کا نبی پاک ﷺ پر دُرود بھیجنے میں یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ جب ملائکہ کو سیدنا آدم علیہ السلام کے سجدہ پر مامور کیا گیا تو انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام مسجودِ ملائکہ ہونے کی وجہ سے حضور پُر نور ﷺ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ جس پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے حبیب کی فضیلت کو اُن پر دُرود بھیج کر ممتاز اور نمایاں کروں گا اور اب میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میرے محبوب پر دُرود پڑھو تاکہ فضیلتِ محمدی ﷺ ظاہر ہو جائے جبکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے صرف ایک بار سجدہ کیا، مگر میں بذاتِ خود تمہیں اور مؤمنین کو ازل سے ابد تک دُرود بھیجنے کا حکم دیتا ہوں۔

حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ''عَلَامَۃُ اَھْلِ السُّنَّۃِ کَثْرَۃُ الصَّلَاۃِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ'' اہل سنت کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر کثرت سے دُرود بھیجتے ہیں۔

سنن دارقطنی میں ایک حدیثِ نبوی ﷺ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ''اگر کوئی شخص فرض نماز میں نبی اکرم ﷺ پر دُرودِ پاک نہ پڑھے تو اُس کی نماز ہی نہ ہوگی''۔ ایک دوسری حدیث جس کو ''دارقطنی'' اور ''بیہقی'' نے روایت کیا ہے جس میں

رسول اللہ ﷺ نے اِرشاد فرمایا ''جس نے نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درُود نہ پڑھا تو اُس کی نماز قبول نہ ہو گی''۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے دُرود پڑھا کرو اور جو اِس پر عمل کرے گا روزِ محشر میں اُس کی گواہی دینے کے ساتھ اُس کی شفاعت کروں گا۔ سید الاولین والآخرین کا اِرشادِ مبارک ہے کہ بندہ کی دُعا اُس وقت تک پردۂ حجاب میں رہتی ہے جب تک دُعا مانگنے والا مجھ پر درُود نہ پڑھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''جب کسی شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درُود نہ پڑھے تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا''۔

سرکارِ مدینہ ﷺ کا اِرشادِ مبارک ہے کہ تین شخص میری زیارت سے محروم ہوں گے، پہلا اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا میری سنت کا تارک اور تیسرا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درُود نہ پڑھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درُود و سلام کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درُود پڑھنا قیامت کے دن پلِ صراط کے اندھیرے میں تمہارے لئے نور ہو گا اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اُسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے تو وہ مجھ پر کثرت سے دُرود پڑھا کرے۔ آپ ﷺ کا اِرشادِ مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ ہزار مرتبہ دُرود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔

حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہ کا فرمانِ مبارک ہے کہ دُرودِ پاک کے پڑھنے سے اُس کے پڑھنے والے کو اور اُس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ سیدنا ابو العباس تیجانی رضی اللہ عنہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر درُود و سلام پڑھنا خیر و برکت کی چابی ہے، انوار و اسرار و معارف کی چابی ہے۔ جو شخص اِس سے الگ ہو گیا وہ کٹ جائے گا اور دھتکارا جائے گا۔

حضرت سیدی شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دُرودِ پاک کی جو برکات دیکھی ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا، میں نے اُسے خواب میں دیکھا، اُس کے احوال دریافت کئے جس پر اُس نے بتایا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے عزت و اکرام سے نوازا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ پر ہمارا حال بھی کچھ ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اُس نے جواب دیا اے بھائی تجھے بشارت ہو کہ تو اللہ تبارک وتعالیٰ کے نزدیک صدیقین میں سے ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ اُس نے جواب دیا کہ تو نے دُرود و سلام کے متعلق جو کتاب لکھی ہے یہ اس وجہ سے ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کا اِرشادِ مبارک ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ایک عظیم فرشتہ جس کو تمام مخلوقات کی سماعت عطا فرمائی ہے وہ میری قبر پر کھڑا ہے اور جہاں بھی کوئی شخص مجھ پر درُود و سلام پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد ﷺ! فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ ﷺ پر درُود و سلام پیش کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک وتعالیٰ اُس شخص پر ہر دُرود کے بدلے دس بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ سرکارِ مدینہ ﷺ اِرشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے دو پر ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، جب کوئی بندہ محبت سے مجھ پر درُود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر جب باہر آتا ہے تو اُس سے پانی کے جو قطرے گرتے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ گرنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اُس دُرود پڑھنے والے کیلئے استغفار کرتا رہتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر ایک بار درُود و سلام پڑھتا ہے تو پہلے آسمان پر منادی کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تجھ پر سو بار رحمت فرمائے۔ جب دوسرے آسمان والے یہ ندا سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تجھ پر

دوسو بار رحمت فرمائے، جب تیسرے آسمان والے یہ آواز سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تجھ پر ہزار بار رحمت فرمائے۔ جب چوتھے آسمان والے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تجھ پر دو ہزار بار رحمت فرمائے۔ جب پانچویں آسمان والے یہ ندا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر چار ہزار مرتبہ رحمت فرمائے، جب چھٹے آسمان والے یہ ندا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر چھ ہزار مرتبہ رحمت فرمائے اور جب ساتویں آسمان والے یہ ندا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تجھ پر سات ہزار مرتبہ رحمت نازل فرمائے، پھر اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ''دَعُوْا ثَوَابَ هٰذَا الْعَبْدَ عَلَيَّ كَمَا عَظَّمَ نَبِيِّ وَ صَلّٰى عَلَيْهِ بِنَفْسٍ طَيِّبَةٍ'' ''کہ اِس بندے کا ثواب مجھ پر چھوڑ دو اُس نے میرے نبی کا احترام کرتے ہوئے اُن پر خلوصِ دل اور محبت سے دُرود پڑھا، میں اُس کے گناہ بخش دوں گا۔ [کتاب سعادۃ الدارین، علامہ یوسف اسماعیل النبھانی]

بانی سلسلۂ تیجانیہ حضرت سیدی ابوالعباس احمد التیجانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ پر ایک بار دُرود بھیجے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اُس ایک دُرود کے بدلے اُس پر دس دُرود بھیجنے کا ضامن ہے، اِس میں دو راز ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ جو شخص ہمارے نبی پاک ﷺ پر دُرود وسلام بھیجے تو نبی اکرم ﷺ پر اُس کا انعام دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اِس اصول کی رو سے کہ کریم تو کرم ہی کرتا ہے، پس جو کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے نبی کی جگہ اُس پر دس دُرود بھیج کر توجہ فرماتا ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب ﷺ سے عظیم محبت وعنایت ہے۔ پس جس کو اللہ تبارک وتعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ محبوب پر دُرود وسلام بھیج کر آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ بھی اُس سے محبت کرتے ہوئے اُس کی طرف التفات فرماتے ہیں اور یہ محبت اور التفات اُس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ آپ ﷺ پر دُرود وسلام بھیجتا رہتا ہے۔ [کتاب سعادۃ الدارین، صفحہ 470]

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا عبور کرتے وقت دس بار اپنا عصاء دریا پر مارا لیکن دریا نہ پھٹا، پھر اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ محمد ﷺ اور اُن کی آل پر دُرود بھیجیں، پس جب اُنہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ پر ہدیۂ دُرود پیش کیا تو دریا پھٹ گیا اور اُس نے راستہ دے دیا۔ [کتاب، سعادۃ الدارین (عربی) صفحہ 106]

اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ سے سوال کیا اے موسیٰ! کیا تو چاہتا ہے؟ کہ تجھے روزِ قیامت کی شدتِ پیاس محسوس نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مثبت میں جواب عرض کیا، جس پر رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا ''پس تو محمد ﷺ پر دُرودِ پاک کی کثرت کر''۔ [کتاب، سعادۃ الدارین (عربی) صفحہ 105]

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''مجھ پر دُرود پڑھ کر اپنی مجالس کو سجاؤ، بے شک تمہارا مجھ پر دُرود پڑھنا قیامت کے دن نُور ہوگا''۔ [کتاب، سعادۃ الدارین (عربی) صفحہ 88]

جنت میں ایک حور ہے جس کی تخلیق چار چیزوں سے ہوئی ہے، پاؤں سے لے کر گھٹنوں تک، زعفران سے، گھٹنوں سے ناف تک، مسک سے، ناف سے سینے تک کافور سے، سینے سے گردن تک سُرخ یاقوت سے، اور اُس کی پیشانی پر نُور سے دو سطریں تحریر ہیں، پہلی سطر میں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه اور دوسری سطر میں مُحَمَّدٌ'' رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ وہ آواز لگاتے ہوئے اپنی زبانِ حال سے کہہ رہی ہے ''مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّتَزَوَّجَ بِسَبْعِيْنَ مِثْلِيْ فِي الْجَنَّةِ فَالْيُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ'' کہ جو

مجھ جیسی ستر حوروں سے جنت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو پس وہ نبی اکرم ﷺ پر دُرود وسلام کی کثرت کرے۔

[کتاب، السفینہ القادریہ (عربی) تالیف سیدی محمد المنلا ص 9]

ایک حدیث نبوی ﷺ ہے کہ مجھ پر نامکمل دُرود مت پڑھو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ کہ نامکمل دُرود کون سا ہے؟ جس پر آپ ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ تم صرف مجھ پر دُرود پڑھنے کے بعد رُک جاتے ہو، مکمل دُرود اِس طرح دُرود پڑھا کرو، ''**اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ**''۔ اِس حدیثِ مبارکہ سے واضح ہوگیا کہ آپ ﷺ کی آل کا ذکر کئے بغیر جو دُرودِ پاک پڑھا جائے وہ نامکمل ہوتا ہے۔

قبولیتِ دُرود وسلام

حضرت شیخ احمد بن مبارک السلجماسی المالکی اِرشاد فرماتے ہیں کہ میں نے غوثِ وقت سیدی عبدالعزیز الدباغ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ''**اِنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ مَقْبُوْلَة**'' **قَطْعًا**''، سرکارِ دوعالم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں بھیجا جانے والا دُرود یقینی طور پر مقبول ہوتا ہے۔ [کتاب، الابریز، (عربی)]

حضرت شیخ ابوسلیمان الدارانی کا قول ہے کہ ''**اَلصَّلَاةُ عَلَی النَّبِی لَا تُرَدُّ**'' نبی اکرم ﷺ پر پڑھا جانے والا دُرود وسلام کبھی رد نہیں ہوتا۔

قبولیت دُرود وسلام کے بارے میں ولی کامل سیدی محمد بن یوسف السنوسی سے سوال کیا گیا، جس پر آپ نے جواب دیا کہ ''**اَنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ مَقْبُوْلَة**'' **فِیْ کُلِّ حَالٍ**'' نبی اکرم ﷺ پر بھیجا جانے والا دُرود قبول ومنظور ہے۔

نا قبولِ بارگاہِ حق کبھی ہوتا نہیں
غور کے قابل ہے یہ تخصیص و تفرید دُرود

دُرود وسلام تحریر کرنے کے فیوضات وبرکات

سرکارِ دوعالم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں جس طرح زبان سے دُرود وسلام کا نذرانہ پیش کرنے پر عظیم اجر وثواب ہے اسی طرح دُرود وسلام تحریر کرنے کے بھی بے شمار فیوضات وبرکات ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اِرشاد فرمایا ''**مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ فِیْ کِتَابٍ لَّمْ تَزِلِ الْمَلَائِکَةُ تَسْتَغْفِرُ لَه**' **مَا بَقِیَ اِسْمِیْ فِیْ ذٰلِكَ الْکِتَابِ**'' جس نے کتاب میں مجھ پر دُرود لکھا، پڑھا تو جب تک میرا نام اُس کتاب میں باقی رہے گا فرشتے اُس (لکھنے والے) کیلئے استغفار کرتے رہیں گے۔ [کتاب الشفاء، (عربی)، صفحہ 568]

حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ''**مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ فِیْ کِتَابٍ لَّمْ تَزِلِ الصَّلَاةَ جَارِیَّة**'' **لَه**' **مَا دَامَ اِسْمِیْ فِیْ ذٰلِكَ الْکِتَابَ**''، جس نے کسی کتاب میں مجھ پر دُرود لکھا، پڑھا تو جب تک اُس کتاب میں میرا نام رہے گا، اُس کی طرف سے دُرود بھی جاری رہے گا۔ [جلاء الافہام، (عربی)، صفحہ 68]

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَلْكُنُوْزُ الْمُحَمَّدِيَّةُ لِرُؤْيَةِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ﷺ

تالیف

السید تیسیر محمد یوسف الحسنی السمهودی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو

افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم

محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادریة 1 الباکستان

0092-3335187573

زیارتِ حبیب ﷺ


اکتوبر 2000ء میں سرکارِ مدینہ ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اسی حاضری کے دوران شب معراج شریف 26 رجب المرجب 1421ھ بمطابق 23 اکتوبر 2000ء مسجد نبوی شریف میں اصحابِ صفہ کے چبوترہ پر فضیلۃ الشیخ، ولی کامل، عاشقِ رسول ﷺ حضرت السید تیسیر محمد یوسف الحسنی السمہو دی المدنی مدظلہ العالی کے دستِ مبارک پر بیعت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔


سیدی ومرشدی نے اس بندۂ ناچیز (افتخار احمد حافظ قادری) کو عربی زبان میں چند کتابیں عنایت کیں اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اِن کا اُردو ترجمہ کر کے آپ ﷺ کے محبین اور عاشقین میں تقسیم کر دیا جائے۔ سو یہ شرف اِس بندہ کے حصے میں آیا اور عربی کتاب ''**الکنوز المحمدیة لرؤیة خیر البریة**'' کا مختصر اُردو ترجمہ کرنے اور اُس کا پہلا ایڈیشن بنام ''زیارتِ حبیب ﷺ'' رمضان المبارک 1421ھ بمطابق دسمبر 2000ء میں شائع کروا کر تقسیم کیا۔

زیارتِ نبوی ﷺ کیلئے چند وظائف پر مشتمل یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس میں آیاتِ قرآنیہ، مدحیہ اشعار، دُعائیں اور دُرودِ پاک کے مجموعوں کا ایک گلدستہ پیش کیا گیا ہے۔ اِن میں چند دُرودِ پاک ایسے بھی ہیں جو سرکار ﷺ کے محبوبوں کو القائی طور پر عطا ہوئے ہیں۔

الحمد للہ! کتاب ''زیارتِ حبیب ﷺ'' کے چار ایڈیشن مختلف انداز میں شائع ہو چکے ہیں اور پانچویں بار اُس کتاب کے صیغہ ہائے دُرود و سلام اِس مجموعہ میں شامل کئے جا رہے ہیں۔

''**الکنوز المحمدیة لرؤیة خیر البریة**'' اور ''زیارتِ حبیب ﷺ'' کے چوتھے ایڈیشن کے سرورق کے عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔





اَلْكُنُوْزُ الْمُحَمَّدِيَّةُ لِرُؤْيَةِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ﷺ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْجَامِعِ لِاَسْرَارِكَ الدَّالِّ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

6 صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔

7 {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ رَبِّيْ وَ سَعْدَيْكَ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَ الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَ مَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ رُّوْحُهٗ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ وَ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْكَوْنِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَلَاْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مَّسْرُوْرًا مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ۔

10 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

11 اَللّٰهُمَّ ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اِمَامِ اَنْبِيَآئِكَ سَيِّدِ رُسُلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ جَمِيْعِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَآ اَللّٰهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بَابَهٗ وَ تُسْمِعُنَا لَذِيْذَ خِطَابِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ وَ آلِهٖ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ الرَّحْمٰنِ وَ سَيِّدِ الْاَكْوَانِ وَ الْحَاضِرِ مَعَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ فِىْ كُلِّ زَمَانٍ وَّ مَكَانٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ وَ لَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ اَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ خَزَآئِنِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ فَهُمْ مِنْهُ وَ اِلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ اِلٰى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ اَفْنَيْتَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ وَ تِرْيَاقِ الْاَغْيَارِ وَ مِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَارِ وَ آلِهِ الْاَطْهَارِ وَ اَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ عَدَدَ نِعَمِ اللّٰهِ وَ اَفْضَالِهٖ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اللَّطِيْفَةِ الْاَحَدِيَّةِ شَمْسِ سَمَآءِ الْاَسْرَارِ وَ مَظْهَرِ الْاَنْوَارِ وَ مَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ وَ قُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ اَللّٰهُمَّ بِسِرِّهٖ لَدَيْكَ وَ بِسَيْرِهٖ اِلَيْكَ آمِنْ خَوْفِىْ وَ اَقِلْ عَثْرَتِىْ وَ اَذْهِبْ حُزْنِىْ وَ حِرْصِىْ وَ كُنْ لِّىْ وَ خُذْنِىْ اِلَيْكَ مِنِّىْ وَ ارْزُقْنِى الْفَنَآءَ عَنِّىْ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَفْتُوْنًا بِنَفْسِىْ مَحْجُوْبًا بِحِسِّىْ وَ اكْشِفْ لِىْ عَنْ كُلِّ سِرٍّ مَّكْتُوْمٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِىْ وَ السِّرِّ السَّارِىْ فِىْ سَآئِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ

مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهٰى وَلَا انْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ۔

22 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا، عَلٰى اَشْرَفِ الْخَلَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ، وَ مَجْمَعِ الْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ، وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ، وَ مَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِيِّيْنَ، وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ قَآئِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، وَ اَفْضَلِ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى، وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ، وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ، وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ، مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ، وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ، رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ الْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ اَجْمَعِيْنَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ، الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ وَ عَلٰى آلِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَابِ الْمَفْتُوْحِ لِلطَّالِبِيْنَ وَ الْفَضْلِ الْمَمْنُوْحِ لِلْوَاصِلِيْنَ، وَاجْمَعْنَا بِهٖ فِي الدُّنْيَا وَ الدِّيْنِ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ صَلَاةً نَّسْعَدُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ الدِّيْنِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْجَمَالِ وَ الْكَمَالِ وَ اَرِنِيْ وَجْهَهُ الصَّبِيْحَ فِي الْحَالِ۔

28 اَللّٰهُمَّ يَا كَرِيْمُ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ الْكَرِيْمِ وَ صَلِّ يَا رَؤُوْفُ يَا رَحِيْمُ عَلٰى عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، بِقَدْرِ عِزَّتِكَ وَ حَقِّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ {فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ}۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَلّٰى عَلَيْهِ بِهَا مُحِبٌّ وَّ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ يَا رَبِّ وَ اجْعَلْ اَوَّلَ ثَوَابِيْ عَلَيْهَا دَوَامَ صَلَاتِيْ بِهَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ اِلٰهِيْ بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ وَ مَكَانَتِهٖ

لَدَيْكَ وَ مَحَبَّتِكَ لَه وَ مَحَبَّتِهٖ لَكَ وَ السِّرِّ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه. اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ، وَ ضَاعِفِ اللّٰهُمَّ مَحَبَّتَنَا فِيْهِ وَ عَرِّفْنَا بِحَقِّهٖ وَ رُتْبَتِهٖ، وَ وَفِّقْنَا لِاتِّبَاعِهٖ وَ الْقِيَامِ بِآدَابِهٖ وَ سُنَّتِهٖ وَ اجْمَعْنَا بِهٖ وَ مَتِّعْنَا بِرُؤْيَتِهٖ وَ قَرِّبْنَا مِنْ حَضْرَتِهٖ وَ اَسْعِدْنَا بِمُكَالَمَتِهٖ وَ ارْفَعْ عَنَّا الْعَلَآئِقَ وَ الْعَوَآئِقَ وَ الْوَسَآئِطَ وَ الْحِجَابَ، وَ شَنِّفْ سَمْعَنَا مِنْهُ بِلَذِيْذِ الْخِطَابِ وَ هَيِّئْنَا لِتَلَقِّيْ مِنْهُ وَ اَهِّلْنَا لِلْاَخْذِ عَنْهُ وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ نُوْرًا فَآئِضًا مَّاحِيًا عَنَّا كُلَّ ظُلْمَةٍ وَّ ظُلْمٍ وَّ شَكٍّ وَّ شِرْكٍ وَّ اِفْكٍ وَّ غَفْلَةٍ وَّ اجْعَلْهَا سَبَبًا لِّلتَّمْحِيْصِ وَ مِرْقًا لِّاَعْلٰى مَرَاتِبِ التَّخْصِيْصِ حَتّٰى لَا تَبْقٰى فِيْنَا رَبَّانِيَّةٌ لِغَيْرِكَ وَ حَتّٰى نَصْلُحَ لِحَضْرَتِكَ وَ نَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ خُصُوْصِيَّتِكَ مُتَمَسِّكِيْنَ مِنْ آدَابِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْحَبْلِ الْمَتِيْنِ، مُسْتَمِدِّيْنَ مِنْ حَضْرَتِهِ الْعُلْيَا فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ، يَآ اَللهُ، يَا نُوْرُ، يَا حَقُّ، يَا مُبِيْنُ، يَآ اَللهُ، يَا نُوْرُ، يَا حَقُّ، يَا مُبِيْنُ، يَآ اَللهُ، يَا نُوْرُ، يَا حَقُّ، يَا مُبِيْنُ، يَآ اَللهُ، يَا نُوْرُ، يَا حَقُّ، يَا مُبِيْنُ، اَشْهَدُ اَنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا۔

30 اِلٰهِىْ بِجَاهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَكَ، وَ مَكَانَتِهٖ لَدَيْكَ، وَ مَحَبَّتِكَ لَه، وَ مَحَبَّتِهٖ لَكَ، وَ السِّرِّ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه، اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ، وَ اَنْ تَرْزُقَنَا حُبَّه، وَ حُبَّ مَنْ يُّحِبُّه، وَ اَنْ تَرْزُقَنَا اِتِّبَاعَه، وَ الْاِقْتِدَآءَ بِآدَابِهٖ وَ سُنَّتِهٖ، وَ اَنْ تَسْكُبَ عَلَيْنَا مَا سَكَبْتَه، عَلَيْهِ مِنْ نُّوْرٍ وَّ ضِيَآءٍ وَّ خَشْيَةٍ وَّ مِنْ حُبٍّ حَتّٰى تُصْبِحَ رَبَّانِيِّيْنَ لَا نُصْلِحُ اِلَّا لِحَضْرَتِكَ۔

31 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِ اللهِ الْعَظِيْمِ، وَ قَامَتْ بِهٖ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيْمِ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ وَ عَلٰى آلِ نَبِيِّ اللهِ الْعَظِيْمِ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيْمِ، فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيْمِ تَعْظِيْمًا لِّحَقِّكَ يَا مَوْلَانَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اجْمَعْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَه، كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوْحِ وَ النَّفْسِ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا يَّقْظَةً وَّ مَنَامًا وَّ اجْعَلْه، يَا رَبِّ رُوْحًا لِّذَاتِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ يَا عَظِيْمُ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَآئِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ عَلَى الْاَوْلِيَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَه، عِلْمُكَ آمِيْنَ۔


33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً تَعْدِلُ جَمِيْعَ صَلَوَاتِ اَهْلِ مَحَبَّتِكَ، وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ سَلَامًا يَّعْدِلُ سَلَامُهُمْ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ، وَ اَكْمَلَ تَسْلِيْمَاتِكَ الزَّاكِيَاتِ الزَّاهِيَاتِ، وَ اَعْظَمَ بَرَكَاتِكَ الْعَاطِرَاتِ الْعَابِقَاتِ، وَ اَشْرَفَ رَحْمَاتِكَ الْمُتَوَالِيَاتِ السَّاطِعَاتِ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ اَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ وَ اَشْرَفَهَا، وَ اَكْثَرَهَا وَ اَكْبَرَهَا وَ اَتَمَّهَا وَ اَعَمَّهَا، وَ اَهْنَأَهَا وَ اَضْوَأَهَا، وَ

اَجْمَعَهَا وَ اَجْمَلَهَا وَ اَكْمَلَهَا، وَ بَارِكْ عَلٰى حَضْرَتِهٖ اَوْفَرَ الْبَرَكَاتِ وَ اَسْعَدَهَا وَ اَدْوَمَهَا وَ اَعْظَمَهَا، وَ اَسْمَاهَا وَ اَزْهَاهَا وَ اَجْلَاهَا، وَ اَبْهَاهَا وَ اَوْفَاهَا وَ اَزْكَاهَا وَ اَصْفَاهَا وَ اَرْقَاهَا وَ اَبْقَاهَا صَلَاةً زَاهِيَةً، طَاهِرَةً ظَاهِرَةً، بَاهِرَةً عَامِرَةً، عَالِيَةً نَّامِيَةً، بَاهِيَةً سَامِيَةً، شَافِعَةً شَارِحَةً، رَّابِحَةً نَّافِحَةً، صَافِيَةً نَّاجِحَةً، فَائِقَةً نَّقِيَّةً، سَنِيَّةً عَلِيَّةً، رَائِعَةً زَكِيَّةً، مَشْمُوْلَةً، بِرُوْحِ الْحُبِّ الْكَامِلِ وَ الْاِخْلَاصِ الشَّامِلِ، وَ الرِّضَاءِ الْاَتَمِّ، وَ الْقَبُوْلِ الْاَعَمِّ، وَ الثَّوَابِ الْعَمِيْمِ، وَ النَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ.

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعِبَادِ وَ بِجَاهِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَلِّغْنَا الْمُرَادَ.





وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ

اَلصَّلَوَاتُ الۡمَدَنِيَّةُ
عَلٰى صَاحِبِ الطَّلۡعَةِ الۡبَهِيَّةِ ﷺ

جمع و ترتیب

ابو الزہراء اویس بن عبد اللہ المجتبی الحسینی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسۡلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبۃ القادریۃ 2 الباکستان
0092-3335187573

کتاب مذکورہ بالا **ابو الزھراء اویس عبداللہ المجتبی الحسینی** نے ترتیب دے کر بارگاہِ نبوی ﷺ میں ہدیۂ عقیدت پیش کیا ہے۔ دورانِ مطالعہ کتاب مذکورہ کا جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا، اُس کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

اَلصَّلَوَاتُ الْمَدَنِيَّة
عَلٰى
صَاحِبِ الطَّلْعَةِ الْبَهِيَّة

جمع و ترتیب

أَبُو الزَّهْرَاء أُوَيْس بن عَبْدِ اللهِ الْمُجْتَبٰي الْحُسَيْنِي

اَلصَّلَوٰاتُ الْمَدَنِيَّةُ

عَلٰى صَاحِبِ الطَّلْعَةِ الْبَهِيَّةِ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ بِاِسْمِكَ الْمَكْنُوْنِ الْمَخْزُوْنِ صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا لِاُمَّتِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَانَ مِنْ ذُنُوْبٍ وَّ مَا يَكُوْنُ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

2 اَللّٰهُمَّ يَا عَظِيْمُ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ هُوَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا لِاُمَّةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَانَ مِنْ ذُنُوْبٍ عَلٰى هٰذَا الْاَدِيْمِ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ، زِنَةَ مَا خَرَجَ مِنَ النُّوْنِ، وَ عَدَدَ مَا سَطَرَ قَلَمُكَ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ، وَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ مَا اَنْتَ خَالِقٌ، بِالْكَافِ وَ النُّوْنِ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

4 اَللّٰهُمَّ يَا غَفَّارُ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ، صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا لِاُمَّةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّ ذَنْبٍ يُّوْجِبُ عَذَابَ النَّارِ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُخْتَارِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ، صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا لِاُمَّةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّ ذُنُوْبِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حُرُوْفِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا، وَّ عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا، وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَفْرَاحِ، وَ عَدَدَ الْاَحْزَانِ، وَ عَدَدَ الْاَنْفَاسِ، وَ عَدَدَ اَلْحَاظِ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، وَ جَمِيْعِ مَا خَلَقْتَ يَا رَحْمٰنُ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّهُوْرِ وَ الْاَزْمَانِ، وَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْهَا مِنْ حَرَكَاتِ وَ سَكَنَاتِ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّتَضَاعَفُ بِهَا حُبُوْرُهٗ، وَ يُشْرِقُ بِهَا عَلٰى لَطَآئِفِنَا نُوْرُهٗ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

10 اَللّٰهُمَّ يَا مُيَسِّرُ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ وَ الشُّكْرَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُيَسِّرُ بِهَا عَلَيْنَا بِالْيُسْرِ الَّذِيْ يَسَّرْتَ بِهٖ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا اٰدَمَ وَ اُمِّنَا حَوَّآءَ، وَ سَيِّدِنَا نُوْحٍ وَّ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ سَيِّدِنَا مُوْسٰى وَ سَيِّدِنَا هُوْدٍ وَّ سَيِّدِنَا عِيْسٰى وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ مَا بَيْنَهُمْ مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اٰلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَدَدَ الْعَدَدِ، وَ مَدَدَ الْمَدَدِ، صَلَاةً لَّا اِنْقِطَاعَ لَهَا اَبَدَ الْاٰبِدِ تَكْتُبُ لَنَا بِهَا نُوْرًا وَّ حُبًّا وَّ رِضًا لَّا يَزِيْدُ عَلَيْنَا فِيْهِ اَحَدٌ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْكَامِلِ، وَ افْتَحْ لَنَا بِجَاهِهٖ اَبْوَابَ الْمَحَبَّةِ وَ حُبَّ النَّوَافِلِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَرِيْمِ النَّسَبِ، وَيَسِّرْ لَنَا بِحُبِّكَ وَحُبِّهٖ كُلَّ سَبَبٍ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْكَامِلِ، وَ بِحُبِّكَ وَ حُبِّهٖ اَطْوِ لَنَا الْمَقَامَاتِ وَ الْمَنَازِلَ، وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ اِنْسَانٍ، صَلَاةً تَهَبُنَا بِهَا حِفْظَ الْقُرْاٰنِ وَ الْعَمَلَ بِالْقُرْاٰنِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ سِرَاجِ الرَّحْمٰنِ، صَلَاةً تَكْفِيْنَا بِهَا وَسَاوِسَ النَّفْسِ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّيْطَانِ وَعَلٰى آلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبِيْنِ لِلْقُرْاٰنِ، صَلَاةً تَهَبُنَا بِهَا عِلْمًا وَّ فَهْمًا وَّ كَشْفًا لَّا لَبْسَ فِيْهِ وَلَا خِذْلَانَ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاَعْظَمِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ، الْكَاشِفِ بِدُعَائِهِ الْغَمَّ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْحَبِيْبِ صَلَاةً تُيَسِّرُ بِهَا مَطْلُوْبَنَا فِيْ وَقْتٍ قَرِيْبٍ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ ضَجَّ مِنْ ضَيْقٍ وَّ حَرَجٍ، فَاسْتَغَاثَ بِاللّٰهِ وَ تَوَسَّلَ بِرَسُوْلِهٖ فَاَتَاهُ الْعَوْنُ وَ الْمَطْلُوْبُ وَ الْفَرَجُ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

21 اَللّٰهُمَّ يَا مُنَزِّلَ الْقُرْاٰنِ، وَ يَا مُعَلِّمَ الْبَيَانِ، يَسِّرْ لِيْ حِفْظَ وَ فَهْمَ الْقُرْاٰنِ، بِحُبِّ حَبِيْبِكَ مِنْ وَّلَدِ عَدْنَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

22 اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، يَا حَبِيْبَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، زِدْنِيْ حُبًّا فِيْ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ اَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ اَزْوَاجِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بِقَدْرِ مَشِيْئَتِكَ مِنْ دَوَامِ صَلَاتِكَ عَلَيْهِ، صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوْبَنَا وَ تَسْتُرُ بِهَا عُيُوْبَنَا، وَ تُفَرِّجُ بِهَا كُرُوْبَنَا، وَ تَرْحَمُ بِهَا مَوْتَانَا، وَ تُعَافِيْ بِهَا مُبْتَلَانَا، وَ تَكْتُبُ بِهَا بِفَضْلِكَ فِي الدَّارَيْنِ غِنَانَا، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُلْهِمُنَا بِهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ، وَ تَكْتُبُنَا بِهَا مِنْ اَهْلِ قُرْبِكَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ صَلَاةً تَكْشِفُ بِهَا لَنَا بِخَيْرٍ كُلَّ مَحْجُوْبٍ، يَا اَللّٰهُ

يَا عَلَّامَ الْغُيُوْبِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاصِرِ بِكَ، صَلَاةً تَنْصُرُنَا بِهَا عَلٰى عَدُوِّنَا وَ عَدُوِّكَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُلْهِمُنَا بِهَا سِرَّ سِرِّكَ مِنِ اسْمِكَ الَّذِىْ خَصَصْتَ بِهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْ خَلْقِكَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنَنْتَ بِهٖ عَلَيْنَآ اَعْظَمَ الْمِنَّةِ، صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَآ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَدَدْتَ بِهِ الْاَوْلِيَآءَ وَ الْاَنْبِيَآءَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، صَلَاةً تَعْدِلُ صَلَاةَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَتْحِ الْمُبِيْنِ، صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا فُتُوْحَ الْعَارِفِيْنَ، وَ تُبَلِّغُنَا فِيْهَا مَقَامَ التَّمْكِيْنِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ صَلَاةً تُبَارِكُ لَنَا بِهَا فِى الذُّرِّيَّةِ، وَ تَحْفَظُنَا وَ اِيَّاهُمْ مِّنْ كُلِّ اَذِيَّةٍ، وَّ تَصْرِفُ بِهَا عَنَّا وَ عَنْهُمْ كُلَّ فِتْنَةٍ وَّ بَلِيَّةٍ، وَّ تَجْعَلُنَا بِهَا وَ اِيَّاهُمْ عِنْدَكَ مِنَ السَّابِقِيْنَ اَهْلِ الْاَوَّلِيَّةِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَيَّدْتَهٗ بِالْمَلَآئِكَةِ ذَوِى الْقُوَّةِ، صَلَاةً نَبْرَأُ بِهَا مِنْ حَوْلِنَا وَ الْقُوَّةِ، وَ نَلْجَأُ بِهَآ اِلٰى حَوْلِكَ وَ طَوْلِكَ، وَ تَهَبُنَا بِهَا الْعَوْنَ عَلٰى طَاعَتِكَ وَ الْقُوَّةَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ۔

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا هَادِىْ يَا وَدُوْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا عَزِيْزُ يَا حَكِيْمُ ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّفِيْعِ الدَّرَجِ، صَلَاةً تُؤْتِيْنَا بِهَا الْيُسْرَ وَ الْفَرَجَ، وَ تُذْهِبُ بِهَا عَنَّا الضِّيْقَ وَ الْحَرَجَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ ۔

34 اَللّٰهُمَّ يَا نُوْرُ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَامِلِ النُّوْرِ عَدَدَ الْاَزْمِنَةِ وَ الدُّهُوْرِ، صَلَاةً تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا جَمِيْعَ الْاٰثَامِ وَ الشُّرُوْرِ، وَ تَهَبُنَا بِهَا نُوْرًا عَلٰى نُوْرٍ ۔

35 اَللّٰهُمَّ يا نور صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَامِلِ النُّوْرِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْبُدُوْرِ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَبِيْبِكَ عَيْنِ اِنْسَانِ الْوُجُوْدِ، بِلِسَانِ الْاَبَدِيَّةِ وَ الْخُلُوْدِ، صَلَاةً يُّرَدِّدُهَا كُلُّ مَخْلُوْقٍ وَّ مَوْلُوْدٍ، وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ، صَلَاةً تَهَبُنَا بِهَا سَعْدَ السُّعُوْدِ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِ اَهْلِ وِدَادِكَ، قَاسِمِ اِمْدَادِكَ، بَيْنَ عِبَادِكَ، مِفْتَاحِ الْيَسَارَيْنِ فِى الدَّارَيْنِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى شَمْسِ نُوْرِ الْهِدَايَةِ، الْهَادِيْ إِلٰى رَبِّهٖ مِنَ الْبِدَايَةِ إِلٰى مَا لَا نِهَايَةَ، مُحَقِّقِ غَرَضِ الْوُجُوْدِ، وَ إِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ، مَعْدِنِ الْكَرَمِ وَ الْجُوْدِ، مِنْ مُّفِيْضِ الْجُوْدِ وَ الْوُجُوْدِ، قَآئِمِ حَقِيْقَةِ الْعَبْدِيَّةِ وَ الْعُبُوْدِيَّةِ لِلذَّاتِ الْإِلٰهِيَّةِ، صَاحِبِ الْعُبُوْدِيَّةِ الْأَوْفٰى وَ الْمَحَبَّةِ وَ الْمُحِبِّيَّةِ الْأَصْفٰى، مَنْ جَعَلْتَهٗ هِدَايَةً لِّلضَّآلِّيْنَ، وَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، سَبَبَ رَفْعِ أَعْمَالِ الْأَنَامِ، بِذِكْرِهٖ فِي الْبِدَايَةِ وَ الْوَسَطِ وَ التَّمَامِ، إِحَاطَةِ الْعِنَايَةِ وَ الرِّعَايَةِ، لِمَنْ كَتَبَ اللهُ لَهُ الْوُقُوْفَ تَحْتَ الرَّأْيَةِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

39 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَنْزَ الْوَرٰى، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ الْهُدٰى، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِلْئَ الْأَرْضِ وَ السَّمَآءِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَدَدَ التَّهْلِيْلِ وَ التَّسْبِيْحِ وَ الذِّكْرِ وَ الدُّعَآءِ مَا كَانَ وَ يَكُوْنُ مِنْ خَلْقِ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَ السَّمَآءِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ ذَوِي الْحِجَا وَ النُّهٰى، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ صَلَاةً تُخْرِجُ بِهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْهُدٰى، وَ عَلٰى آلِكَ وَ أَزْوَاجِكَ وَ أَصْحَابِكَ، وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔


40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْأَحْمَدِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْحَامِدِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمَحْمُوْدِ، أَعْظَمِ مَظَاهِرِ رَحْمَتِكَ وَ كَرَمِكَ وَ الْجُوْدِ، الْعَبْدِ الْكَامِلِ الْهَادِيْ لِرَبِّهِ الْوَاحِدِ الْمَعْبُوْدِ، مُنْذُ بَدْءِ الْوُجُوْدِ، السَّابِقِ الْخَاتَمِ، سَيِّدِ كُلِّ حَامِدٍ وَّ ذَاكِرٍ، وَّ سَاجِدٍ وَّ رَاكِعٍ وَّ قَآئِمٍ، مَنْ شَهِدَتْ بِفَضْلِهِ الْأَفْلَاكُ وَ الْأَمْلَاكُ حَبِيْبِكَ الْأَعْظَمِ، مُجْتَبَاكَ الْمُكَرَّمِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فِي الْأَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى، إِمَامِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَرْزَخِ وَ السَّمَآءِ، عَلَامَةِ وَ بِشَارَةِ الْأَوَّلِيْنَ إِمَامِ وَ مُرْشِدِ الْآخِرِيْنَ، رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، مَنِ اصْطَفَيْتَهُ اصْطِفَآءً، وَّ جَعَلْتَهُ أَكْثَرَ خَلْقِكَ بِرًّا وَّ رَحْمَةً وَّ رَأْفَةً وَّ وَفَآءً، مَا مِنْ مَّقَامٍ إِلَّا جَعَلْتَ مِنْهُ الْمُفِيْضَ وَ جَعَلْتَ حُبَّهٗ سَبَبًا لِّلْمَزِيْدِ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِحُبِّهِ الْإِيْمَانُ، وَ إِذَا تَضَلَّعَ بِحُبِّهِ الْجِنَانُ وَ الْوِجْدَانُ، عَيْنِ عُيُوْنِ دَوَآئِرِ الْإِمْكَانِ، مَآ أَخْلَيْتَ مِنْ ذِكْرِهٖ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ زَمَانٌ، خَلَعْتَ عَلَيْهِ حُلَّةَ الْمَحَبَّةِ فَقُلْتَ لَهٗ كُنْ حَبِيْبِيْ فَكَانَ، فَأَفِضْ عَلَيْنَا مِمَّآ أَفَضْتَ عَلَيْهِ حَتّٰى نَبْلُغَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ الْمَحْبُوْبِيَّةِ وَ الرِّضْوَانِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ فِي الْخَلْقِ، وَ الْآخِرِ فِي الْبَعْثِ، وَ الظَّاهِرِ فِي الرِّسَالَةِ، وَ الْبَاطِنِ بِالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ، مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ اهْتَدٰى وَ نَجَا، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

43 اَللّٰهُمَّ يَا كَافِيْ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْأَمِيْنِ الْمُؤْتَمَنِ صَلَاةً تَكْفِيْنَا بِهَا صُرُوْفَ الزَّمَنِ وَ شُرُوْرَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ تُؤَمِّنَا بِهَا فِي الْحِلِّ وَ التِّرْحَالِ وَ الْوَطَنِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔





وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ

مُفَرِّحُ الۡقُلُوۡبِ وَمُفَرِّجُ الۡكُرُوۡبِ

تالیف

السيد محمد عبد السلام

المشہور بہ سیدی امان بوستة

صِيۡغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسۡلِيۡمَاتِ

ترتیب نو

افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم

محمد ذیشان انجم قادری

المكتبة القادرية 3 الباكستان


0092-3335187573

مفرح القلوب و مفرج الکروب

دُرود وسلام کا یہ نادر گلدستہ حضرت سیدی محمد بن عبد السلام کا بارگاہِ نبوی ﷺ میں ہدیۂ عقیدت ہے۔ آپ کتابِ مذکورہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ حروفِ مقطعات جو قرآنی سورتوں کے شروع میں موجود ہیں وہ قرآنِ پاک کے اسرار و رموز کا خزانہ ہیں اور اُن کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور یہ اسرار اولیائے کاملین میں مشہور ہیں۔

سرکارِ دوعالم ﷺ کا اِرشادِ مبارک ہے کہ بندہ کی دُعا زمین و آسمان کے درمیان اُس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک وہ مجھ پر دُرود وسلام نہ پڑھے۔ حضرت سیدی محمد بن عبد السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اِن حروفِ مقطعات کو دُرود وسلام کے صیغوں میں سجا دیا ہے تاکہ ان صیغوں کے ہمراہ بارگاہِ رب العالمین میں اپنی جملہ حاجات، غموں اور پریشانیوں کو پیش کرسکوں۔

کتاب مذکورہ کے جس نسخے سے ہم نے استفادہ کیا، اُس کے سرِ ورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔



مفرح القلوب
و مفرج الكروب

لمحمد بن عبد السلام
المشهور بـ (سدي اماق بوستة)
رحمه الله

مُفَرِّحُ الْقُلُوْبِ وَ مُفَرِّجُ الْكُرُوْبِ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَاتِحَةِ اَذْكَارِ اَهْلِ الْمَحَبَّةِ الَّذِيْنَ هُمْ بِالْحَقِّ يَنْطِقُوْنَ، وَ مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ لِاَهْلِ الْخَيْرِ الَّذِيْنَ هُمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ يُفَرِّقُوْنَ، وَ اَصْلِحِ اللّٰهُمَّ اَحْوَالَنَا، وَ خَلِّصْ اَعْمَالَنَا، وَ بَلِّغْنَا آمَالَنَا، وَ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ الْخَيْرِ وَ التَّيْسِيْرِ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓمّٓ ۰ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۰ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ}۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اَهْلِ الْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ، وَ مَنْ عَظَّمْتَ قَدْرَهٗ وَ نَوَّهْتَ بِهٖ فِيْ سَائِرِ كُتُبِكَ الْمُنَزَّلَةِ وَ اَظْهَرْتَ دِيْنَهٗ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ، وَ انْشُرِ اللّٰهُمَّ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ، وَ ابْسُطْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ، وَ اَعْطِنَا مِنْ خَيْرِ الدَّارَيْنِ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓمّٓ ۰ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۰ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ط مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ}۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَجْوَدِ الْاَجْوَدِ، وَ كَعْبَةِ الْوَارِدِيْنَ وَ الْقُصَّادِ، وَ يَسِّرِ اللّٰهُمَّ اُمُوْرَنَا وَ اشْرَحْ لِلْخَيْرِ صُدُوْرَنَا وَ اَغْنِنَا مِنْ فَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓمّٓصٓ}۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ كَرِيْمٍ، وَّ اِمَامِ كُلِّ صَفُوْحٍ وَّ حَلِيْمٍ، وَّ اكْشِفِ اللّٰهُمَّ هُمُوْمَنَا، وَ اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا، وَ اقْضِ عَنَّا دُيُوْنَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓرٰ ط تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ}۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ عَارِفٍ اَوَّاهٍ، وَ مَنْ قَرَّبَهٗ رَبُّهٗ اِلٰى حَضْرَةِ قُدْسِهٖ وَ بِزِيْنَةِ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَلَّاهُ، وَ اسْتُرِ اللّٰهُمَّ عَوْرَاتِنَا، وَ آمِنْ رَوْعَاتِنَا، وَ حَسِّنْ نَتَائِجَنَا، وَ اقْضِ حَوَائِجَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓرٰ ۰ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۰ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ}۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَلِّهِيْنَ فِيْ عَظَمَتِكَ وَ الْمُحِبِّيْنَ، وَ اِمَامِ الْمُقَرَّبِيْنَ عِنْدَكَ وَ الْمُجْتَبِيْنَ، وَ اجْعَلْنَا اللّٰهُمَّ مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُمْ لِحَضْرَتِكَ، وَ سَقَيْتَهُمْ كَاْسَ وِدَادِكَ وَ مَحَبَّتِكَ، وَ اَغْنَيْتَهُمْ بِبَسْطِ نِعْمَتِكَ، وَ تَوَلَّيْتَهُمْ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓرٰ ط تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ}۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَحْبَابِ، وَ مَنْ فَضَّلْتَ نَسَبَهٗ وَ طَهَّرْتَهٗ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْسَابِ، وَ آمِنَّا اللّٰهُمَّ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ، وَ عُضَالِ الدَّاءِ، وَ

اشْفِنَا وَاكْفِنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓمّٓرٰ ط تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ}۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ بَيَّنَ السُّنَّةَ وَالْفَرْضَ، وَشَفِيْعِ الْخَلَآئِقِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالْعَرْضِ، وَاسْتُرْنَا اللّٰهُمَّ بِسِتْرِكَ الْجَمِيْلِ، وَاَظْهِرْ عَلَيْنَا فَضْلَكَ الْجَلِيْلَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الْحَامِدِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ لَكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓرٰ ۚ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۚ اَللّٰهُ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ}۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ، وَحَبِيْبِكَ الْمُصْطَفَى الْمَكِيْنِ، وَاَدْخِلْنَا اللّٰهُمَّ دَآئِرَةَ الْاَلْطَافِ، وَآمِنَّا مِنْ كُلِّ مَا يُخَافُ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَسَطْتَ عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ فِى الدَّارَيْنِ وَاَكْرَمْتَهُمْ فِيْهِمَا بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓرٰ ط تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِيْنٍ}۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَوْثِ الْعِبَادِ، وَاِمَامِ اَهْلِ الْجِدِّ وَالْاِجْتِهَادِ، وَاشْفِ اللّٰهُمَّ اَمْرَاضَنَا، وَاقْضِ حَوَآئِجَنَا وَاَغْرَاضَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {كٓهٰيٰعٓصٓ}۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الرَّحِيْمِ الْاَتْقٰى، وَحَبِيْبِكَ الْمُتَمَسِّكِ بِمَا هُوَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى، وَحَسِّنِ اللّٰهُمَّ اَخْلَاقَنَا، وَوَسِّعْ اَرْزَاقَنَا وَاجْعَلْهَا لَنَا عَوْنًا عَلٰى طَاعَتِكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى}۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَاصِرٍ لِّلْحَقِّ وَمُعِيْنٍ، وَّرَحْمَتِكَ الْمُهْدَاةِ لِلْعَالَمِيْنَ، وَانْصُرْنَا اللّٰهُمَّ عَلَى الْاَعْدَآءِ، وَاَزِلْ عَنَّا مَا عَرَضَ مِنْ دَآءٍ، وَّاَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ بَحْرِ كَرَمِكَ وَجُوْدِكَ مَا تُغْنِيْنَا بِهٖ عَنْ خَلْقِكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {طٰسٓمّٓ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ}۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُهْتَدِيْنَ، وَقَامِعِ اَهْلِ الزَّيْغِ الْمُعْتَدِيْنَ، وَاجْعَلْنَا اللّٰهُمَّ مِمَّنِ اهْتَدٰى بِهُدَاهُ، وَفَازَ بِمَحَبَّتِهٖ وَرِضَاهُ، وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ النَّجَاةِ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {طٰسٓ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ}۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُخْلِصِيْنَ لَكَ وَالْمُحْتَسِبِيْنَ، وَسَيِّدِ الْعَارِفِيْنَ الْمُلَازِمِيْنَ لِجَنَابِكَ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ، وَاجْعَلْنَا اللّٰهُمَّ مِمَّنْ يَّلْتَجِئُ فِىْ كُلِّ حَالٍ اِلَيْكَ، وَيَعْتَمِدُ فِىْ اُمُوْرِهٖ عَلَيْكَ، وَاكْفِنَا هَمَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {طٰسٓمّٓ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ}۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَصْفِيَآئِكَ

الَّذِيْنَ هُمْ بِاَمْرِكَ يَعْتَنُوْنَ، وَ عَلَمِ اِيْمَانِكَ الَّذِىْ بِهٖ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُوْنَ، وَ اجْعَلْنَا اللّٰهُمَّ مِمَّنْ وَّفَّقْتَهُمْ لِطَاعَتِكَ، وَ فَتَحْتَ لَهُمْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَ اَلْبَسْتَهُمْ مَّلَابِسَ نِعْمَتِكَ، وَ اَفَضْتَ لَهُمْ بِحَارَ جُوْدِكَ وَ مِنَّتِكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ { الٓمّٓ ۚ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ}۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَفُوْقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ، دَآئِمَةً ۢ بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً ۢ بِبَقَآئِكَ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ، وَّ اجْعَلْنَا اللّٰهُمَّ مِمَّنْ نَّفَعْتَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ كَثَّرْتَ عَلَيْهِمُ الْاَرْزَاقَ الْحِسِّيَةَ وَ الْمَعْنَوِيَّةَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓمّٓ ۚ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۚ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ }۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَ قُوْتِ اَرْوَاحِ الْعَارِفِيْنَ الْمُوْقِنِيْنَ، وَ احْفَظِ اللّٰهُمَّ اِيْمَانَنَا، وَ ثَبِّتْ عَلَى الصِّرَاطِ اَقْدَامَنَا، وَ دَاوِ عِلَلَنَا وَ اَسْقَامَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓمّٓ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ ۚ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ }۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْعَالَمِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْاَتْقِيَآءِ الْعَالَمِيْنَ، وَ صُنِ اللّٰهُمَّ اَعْرَاضَنَا، وَ اشْفِ اَمْرَاضَنَا، وَ اقْضِ حَوَآئِجَنَا وَ اَغْرَاضَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {الٓمّٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ }۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ يُّشْفِى بِبَرَكَتِهِ السَّقِيْمِ، وَ اَفْضَلِ نَبِيٍّ قَصَصْتَ عَلَيْهِ اَخْبَارَ اَهْلِ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ، وَ ارْحَمْنَا اللّٰهُمَّ بِرَحْمَتِكَ، وَ جُدْ لَنَا بِعَفْوِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ اَظْهَرْتَ عَلَيْهِمْ آثَارَ فَضْلِكَ وَ نِعْمَتِكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {يٰسٓ ۚ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ ۚ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ }۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ التِّلَاوَةِ وَ الذِّكْرِ، وَ سَيِّدِ الْعَارِفِيْنَ اَهْلِ النَّظْرِ وَ الْفِكْرِ، وَ فَرِّجِ اللّٰهُمَّ كُرُوْبَنَا، وَ طَهِّرْ قُلُوْبَنَا، وَ يَسِّرْ اُمُوْرَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {صٓ ۚ وَ الْقُرْآنِ ذِى الذِّكْرِ }۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِكَ وَلِيٌّ وَّ لَا نَصِيْرٌ، وَّ خَلِيْلِكَ الَّذِىْ هُوَ بِجَلَالِكَ وَ عَظَمَتِكَ عَارِفٌ وَّ بَصِيْرٌ، وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ بِطَاعَتِكَ اِشْتِغَالِنَا، وَ حَقِّقْ فِيْكَ آمَالَنَا، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ فَازَ مِنْكَ بِخَيْرِ الدَّارَيْنِ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۚ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ }۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَمَرِكَ الطَّالِعِ الَّذِىْ

اَرْسَلْتَهٗ مُنْذِرًا وَّ بَشِيْرًا، وَّ نُوْرِكَ اللَّامِعِ الَّذِيْ وَجَّهْتَهٗ دَاعِيًا اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا، وَّ اشْرَحِ اللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ صُدُوْرَنَا، وَ يَسِّرْ بِفَضْلِكَ اُمُوْرَنَا، وَ حَقِّقْ فِيْكَ ظُنُوْنَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۔ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا} ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ عَالِمٍ وَّ حَكِيْمٍ، وَّ مَنْ هُوَ اَعَزُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْحَرِيْمِ، وَ افْتَحِ اللّٰهُمَّ لَنَآ اَبْوَابَ حِكْمَتِكَ، وَ انْشُرْ عَلَيْنَا خَزَآئِنَ رَحْمَتِكَ، وَ اَعْطِنَا مَا سَاَلْنَاهُ مِنْكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {حٰمٓ ۔ عٓسٓقٓ ۔ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ} ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الَّذِيْنَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ يُوْقِنُوْنَ، وَ قُدْوَةِ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُوْنَ، وَ احْفَظْنَا اللّٰهُمَّ مِنْ مُّوْجِبَاتِ الْعَطَبِ، وَ اَسْبَابِ الْمَقْتِ وَ الْغَضَبِ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَسْتَجِيْبُ دُعَآءَهُمْ عَقِبَ الطَّلَبِ، وَ يَسِّرْ لَنَا مَا طَلَبْنَاهُ مِنْكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {حٰمٓ ۔ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۔ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ} ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الْوَحِيْدِ الَّذِيْ مَا دَنَاهُ اَحَدٌ فِي الْفَضْلِ وَلَا شَارَكَهٗ، وَ خَيْرِ مِقْدَامٍ تَلُوْذُ بِهِ الشُّجْعَانُ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ وَ الْمُشَابَكَةِ، وَ يَسِّرِ اللّٰهُمَّ لَنَآ اَسْبَابَ الْفَتْحِ التَّيْسِيْرِ، وَ هَوِّنْ عَلَيْنَا كُلَّ اَمْرٍ عَسِيْرٍ، وَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَآ اَعْطَيْتَنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {حٰمٓ ۔ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۔ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ} ۔


26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، وَ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ وَ الْقَلْبِ الطَّاهِرِ السَّلِيْمِ، وَ وَسِّعِ اللّٰهُمَّ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ رِزْقِيْ، وَ اجْعَلْهَا سَبَبَ نَجَاتِيْ مِنَ النَّارِ وَ عِتْقِيْ، وَ ضَاعِفْ مَحَبَّتَكَ وَ مَحَبَّتَهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ قَلْبِيْ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ} ۔


27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ النَّاسِ اَبًا وَّ اُمًّا، وَ اَفْضَلِهِمْ خَالًا وَّ عَمًّا، وَّ اجْبُرِ اللّٰهُمَّ كَسْرِيْ، وَ دَاوِ بِغِنَاكَ فَقْرِيْ، وَ اشْفِ سُقْمِيْ وَ ضُرِّيْ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۔ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى} ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الْكَامِلِ الْوَحِيْدِ، وَ حَبِيْبِكَ الَّذِيْ يُحْسِنُ الثَّنَآءَ عَلَيْكَ وَ يُجِيْدُ، وَ الْطُفِ اللّٰهُمَّ بِنَا فِيْ قَضَآئِكَ، وَ نَجِّنَا مِنْ بَلَآئِكَ، وَ اَسْعِدْنَا بِلِقَآئِهٖ وَ عِنْدَ لِقَآئِكَ، وَ اَقْبِلْ عَلَيْنَا وَقْتَ دُعَآئِكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {قٓ ۔ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ} ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الْكَرِيْمِ، وَ
رَسُوْلِكَ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، وَفَرِّجِ اللّٰهُمَّ كُرْبَتِيْ، وَ اشْفِ ضُرِّيْ وَ عِلَّتِيْ، وَ دَاوِ بِغِنَاكَ عَيْلَتِيْ، وَ اخْتِمْ لَنَا
بِخَيْرٍ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {نٓ ۚ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ۚ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ وَّاِنَّ لَكَ
لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ وَّاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ}۔

30 اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ غَمَرَ الْعِبَادَ بِنَوَالِهٖ، وَ اَمَرَهُمْ بِسُؤَالِهٖ، اَسْئَلُكَ يَا كَافِي الْمُهِمَّاتِ، وَ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ، وَ يَا
مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ، وَ يَا مُفَرِّجَ الْكُرُبَاتِ، وَ يَا سَامِعَ الْاَصْوَاتِ، وَ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ، وَ يَا غَافِرَ الْخَطِيْئَاتِ اَنْ
تُصَلِّيَ عَلٰى صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ، سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ بِالْآيَاتِ الظَّاهِرَاتِ، وَ
اَيَّدْتَهٗ بِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ، وَ عَلٰى آلِهِ الَّذِيْنَ هُمْ سَادَاتُ السَّادَاتِ، وَ صَحَابَتِهِ الْاَعْلَامِ الْقَادَاتِ،
صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْآفَاتِ، وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ
السَّيِّئَاتِ، وَ تَرْفَعُنَا بِهَآ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ
الْمَمَاتِ يَا رَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ۔





وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ

وَرَفَعۡنَا
لَكَ ذِكۡرَكَ

ترتیب و تدوین

افتخار احمد حافظ قادری

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسۡلِيمَاتِ

ترتیب نو

افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم

محمد ذیشان انجم قادری


المكتبة القادرية 4 الباكستان


0092-3335187573

ورفعنا لک ذکرک

سرکارِ مدینہ ﷺ کے اسمِ مبارک "**محمد**" ﷺ کے عددِ مبارک بحساب ابجد 92 بنتے ہیں۔ اِس نسبت سے دُرود و سلام کی قدیم عربی کتب سے 92 عدد صیغہ ہائے دُرود و سلام کا انتخاب کر کے 128 صفحات پر مشتمل جیبی سائز گلدستہ بنام "**ورفعنا لک ذکرک**" ترتیب دے کر شائع کروانے کا سہرا محمد ذیشان انجم قادری صاحب کے سر سجا، جو ہزاروں کی تعداد میں طبع ہو کر بلا ہدیہ اندرون و بیرون ملک تقسیم ہوا اور ہو رہا ہے۔ اِس بندۂ ناچیز (افتخار قادری) نے اپنے سفرِ زیاراتِ ازبکستان کے دوران خانقاہ حضرت امام بخاری، حضرت قثم ابن عباس کے مزارِ مبارک کے متولی و مفتی اعظم سمرقند، متولی خانقاہ امام اہل سنت حضرت ابو منصور ماتریدی، سرخیل سلسلۂ نقشبندیہ حضرت بہاؤ الدین نقشبندی کے امام و خطیب اور اسی خانقاہ سے ملحق ایک تبرکاتِ میوزیم اور حضرت کفلِ شاشی کے مزارِ مبارک کے زائرین کو یہ بابرکت کتاب تحفتاً پیش کی گئی۔ اِس سے اگلے سفرِ زیاراتِ ایران میں کئی عظیم و مشہور خانقاہوں اور لائبریریوں بالخصوص لائبریری سیدنا ابوالحسن الخرقانی، صوبۂ گیلان میں مزاراتِ مبارکہ والدِ ماجد و والدۂ ماجدہ حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، لائبریری سیدنا عبداللہ خفیف اور لائبریری حضرت شیخ سعدی میں کتاب مذکورہ بالا تحفتاً پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

کتاب کے سرورق کا عکس، سیدنا ابوالحسن خرقانی کی لائبریری سے وصولیٔ کتاب کی تحریر کا عکس، حضرت بہاؤ الدین نقشبندی کے مزارِ مبارک سے ملحق تبرکاتِ میوزیم میں کتاب کی موجودگی کا عکس اور حضور غوث الثقلین کی والدۂ ماجدہ کے مزارِ مبارک کی لائبریری میں کتاب کی موجودگی کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔






۱. التفکر والاعتبار
۲. افضل الصلوات
۳. انوار الحق

تاریخ : ۸۹/۸/۲۵   **رسید دریافت کالا**

احتراما در مورخه ۸۹/۸/۲۵ تعداد ۴۰ ورفعنا لک ذکرک (نام کالای اهدایی) ۲۹ جلد نشریه

به آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی توسط آقای /خانم افتخار احمد قادری از کشور (پاکستان)

به اینجانب آقا / خانم .... تحویل داده شد

اهداء کننده : افتخار احمد قادری   دریافت کننده :

تاسیس ۱۳۵۱

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيْبِنَا وَمَحْبُوْبِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى رَسُوْلِكَ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

8 صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

9 صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَوْرَاقِ الزَّيْتُوْنِ وَجَمِيْعِ الثِّمَارِ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ اَدْرِكْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً تَعْدِلُ جَمِيْعَ صَلَوَاتِ اَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَسَلِّمْ عَلٰى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ سَلَامًا يَّعْدِلُ سَلَامَهُمْ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَمْلَأُ خَزَائِنَ اللهِ نُوْرًا وَّتَكُوْنُ لَنَا فَرَجًا وَّفَرَحًا وَّسُرُوْرًا۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللهِ وَاِفْضَالِهٖ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَمَعْدِنِ الْاَسْرَارِ وَمَنْبَعِ الْاَنْوَارِ وَجَمَالِ
الْكَوْنَيْنِ وَشَرَفِ الدَّارَيْنِ وَسَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابِ قَوْسَيْنِ۔

17 صَلَوَاتُ اللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَاَنْبِيَائِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَّعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ
عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيْرًا۔

19 صَلَّى اللهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

21 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰى آلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيْ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً دَائِمًا وَّسَلِّمْ سَلَامًا اَبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ وَآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَاَيَّدْتَهٗ بِالنَّصْرِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةِ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى بِاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى رَسُوْلِكَ الْمُصْطَفٰى وَنَبِيِّكَ الْمُرْتَضٰى وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّائَةَ اَلْفِ اَلْفِ مَرَّةٍ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعِبَادِ وَبِجَاهِهٖ بَلِّغْنَا الْمُرَادَ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً وَّلِحَقِّهٖ اَدَاءً وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔

29 صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآدَمَ وَنُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ۔

33 اَللّٰهُمَّ يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ، يَا صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرٰى سَجِيَّةً، وَاغْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْعُلٰى فِيْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّائَةَ اَلْفِ اَلْفِ مَرَّةٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

35 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ اَكْرَمِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔

36 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ كَاشِفِ الْغُمَّةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ

الْاُمِّيِّ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ صَلَاةً دَائِمَةً ۢ بِدَوَامِ خَلْقِ اللهِ۔

38 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِّبْرَاسِ الْاَنْبِيَآءِ وَ نَيِّرِ الْاَوْلِيَآءِ وَ زِبْرِقَانِ الْاَصْفِيَآءِ وَنُوْرِ الثَّقَلَيْنِ وَضِيَآءِ الْخَافِقَيْنِ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَ دَوَآئِهَا وَ عَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَ شِفَآئِهَا وَ نُوْرِ الْاَبْصَارِ وَ ضِيَآئِهَا وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۢ بِعَدَدِ كُلِّ دَآءٍ وَّ دَوَآءٍ وَّ بِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّ شِفَآءٍ۔

41 صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا اَحْمَدَ مُجْتَبٰى مُحَمَّدًا مُّصْطَفٰى وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الرَّفِيْعِ مَقَامُهٗ اَلْوَاجِبِ تَعْظِيْمُهٗ وَ اِحْتِرَامُهٗ صَلَاةً لَّا تَنْقَطِعُ اَبَدًا وَّلَا تَفْنٰى سَرْمَدًا وَّلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْجَامِعِ لِاَسْرَارِكَ الدَّالِّ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْجَمَالِ وَ الْكَمَالِ وَ اَرِنِيْ وَجْهَهُ الصَّبِيْحَ فِي الْحَالِ۔

46 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ فَاَسْاَلُ الرَّحْمٰنَ يُقْضٰى حَاجَتِيْ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ وَ السِّرِّ السَّارِيْ فِيْ سَآئِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ عَدَدَ كُلِّ حَادِثٍ وَّ قَدِيْمٍ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَ كَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّ هُوَ لَهَا اَهْلٌ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْتَبُ بِهَا السُّطُوْرُ، وَ تُشْرَحُ بِهَا الصُّدُوْرُ، وَ تَهُوْنُ بِهَا جَمِيْعُ الْاُمُوْرِ بِرَحْمَةٍ مِّنْكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَآءَ نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةَ الدَّوَامِ عَلٰى مَرِّ اللَّيَالِيْ وَ الْاَيَّامِ مُتَّصِلَةَ الدَّوَامِ لَا اِنْقِضَآءَ لَهَا وَلَا اِنْصِرَامَ عَلٰى مَرِّ اللَّيَالِيْ وَ الْاَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ وَابِلٍ وَّ طَلٍّ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مُرْشِدِنَا وَ رَاحَةِ قُلُوْبِنَا وَ طَبِيْبِ ظَاهِرِنَا وَ بَاطِنِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَوْلِيَآءِ اُمَّتِهٖ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَلْبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوْبِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْكُرَمَآءِ مِنْ عِبَادِكَ وَ اَشْرَفِ الْمُنَادِيْنَ لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَ سِرَاجِ اَقْطَارِكَ وَ بِلَادِكَ صَلَاةً لَّا تَفْنٰى وَلَا تَبِيْدُ، تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَزِيْدِ۔

60 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ رِضَآءَ نَفْسِهٖ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ وَ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ وَ عَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ الَّيْلُ وَ اَضَآءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَلَاْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مَّسْرُوْرًا مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ وَ آلِهٖ۔

65 صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَزِنَةَ مَا
عَلِمْتَ وَمِلْءَ مَا عَلِمْتَ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ رُّوْحُهٗ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكَوْنِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ هُوَ
اِمَامُ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

68 عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَتَسْلِيْمَاتِهٖ وَتَحِيَّاتِهٖ وَبَرَكَاتِهٖ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ
وَيُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ وَيَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
بَارِكْ وَسَلِّمْ۔

70 يَا نُوْرُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ
الْمُنَوَّرِيْنَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بِهَا سِرِّيْ وَسَرِيْرَتِيْ وَبَصَرِيْ وَبَصِيْرَتِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَعِيَالِيْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِيْنَ وَ
صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّيْنَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ وَارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّآلَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ وَاجْزِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّآلَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ
الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ
الْآخِرَةِ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّاتِهٖ
وَاَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً وَّسَلَامًا لَّا يُحْصٰى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُمَا۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بِعَدَدِ مَا فِيْ جَمِيْعِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا وَّبِعَدَدِ
كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ اَنْبِيَآئِكَ وَاَكْرَمِ اَصْفِيَآئِكَ مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ
جَمِيْعُ الْاَنْوَارِ وَصَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ وَصَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ خَلْقِكَ وَ

سِرَاجِ اُفُقِكَ وَ اَفْضَلِ قَآئِمٍ بِحَقِّكَ الْمَبْعُوْثِ بِتَيْسِيْرِكَ وَ رِفْقِكَ صَلَاةً يَّتَوَالٰى تَكْرَارُهَا وَ تَلُوْحُ عَلَى الْاَكْوَانِ اَنْوَارُهَا۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ اُرْزُقْنِيْ خَيْرَ الذُّرِّيَّةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

80 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ مَا مَضٰى وَ تَحْفَظَنِيْ فِيْمَا بَقِيَ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ وَ تِرْيَاقِ الْاَغْيَارِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَارِ وَ آلِهِ الْاَطْهَارِ وَ اَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ عَدَدَ نِعَمِ اللّٰهِ وَ اَفْضَالِهٖ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَوْ لَاهُ مَا كَانَتْ اَرْضٌ وَّلَا سَمَآءٌ، وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ شَفِيْقٌ عَلَى الْاُمَّةِ وَ سَيِّدُ الْيَتَامٰى۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِيْ لِاَنْوَارِكَ، الْجَامِعِ لِاَسْرَارِكَ الدَّآلِّ عَلَيْكَ، وَ الْمُوْصِلِ اِلَيْكَ صَلَاةً يُّنْفَرِجُ بِهَا كُلُّ ضِيْقٍ وَّ تَعْسِيْرٍ، وَ نَنَالُ بِهَا كُلَّ خَيْرٍ وَّ تَيْسِيْرٍ وَّ تَشْفِيْنَا مِنَ الْاَوْجَاعِ وَ الْاَسْقَامِ، وَ تُخَلِّصُنَا مِنَ الْمَخَاوِفِ وَ الْاَوْهَامِ، وَ تَحْفَظُنَا فِي الْيَقْظَةِ وَ الْمَنَامِ، وَ تُنْجِيْنَا مِنْ نَّوَآئِبِ الدَّهْرِ وَ مَتَاعِبِ الْاَيَّامِ، وَ عَلٰى آلِهٖ هُدَاةِ الْاِسْلَامِ، وَ اَصْحَابِهِ السَّادَةِ الْاَعْلَامِ، وَ اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ الْكِرَامِ، وَ اَجْمَعْنَا عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا فِيْ اَعْلٰى مَقَامٍ، وَّ ارْزُقْنَا يَا مَوْلَانَا فِيْ جِوَارِهٖ حُسْنَ الْخِتَامِ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ م بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَ لَا مُنْتَهٰى وَ لَا انْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَ سَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تُنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ ، وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ عَدَدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ يَا اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ـ

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الطَّلْعَةِ الذَّاتِ الْمُطَلْسَمِ وَ الْغَيْثِ الْمُطَمْطَمِ وَ الْكَمَالِ الْمُكَتَّمِ لَاهُوْتِ الْجَمَالِ وَ نَاسُوْتِ الْوِصَالِ وَ طَلْعَةِ الْحَقِّ هُوِيَّةِ اِنْسَانِ الْاَزَلِ فِىْ نَشْرِ مَنْ لَّمْ يَزَلْ مَنْ اَقَمْتَ بِهٖ نَوَاسِيْتَ الْفَرْقِ اِلٰى طُرُقِ الْحَقِّ فَصَلِّ اَللّٰهُمَّ بِهٖ مِنْهُ فِيْهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ ـ

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْمِعْرَاجِ وَ الْبُرَاقِ وَ الْعَلَمِ دَافِعِ الْبَلَآءِ وَ الْوَبَآءِ وَ الْقَحْطِ وَ الْمَرَضِ وَ الْاَلَمِ اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَ الْحَرَمِ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ط جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ اللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَ جِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَ الْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَ الْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَ قَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَ الْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَ الْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَ الْغُرَبَآءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ يَآ اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا عَظِيْمِ الْاٰبَآءِ مِنْ سَيِّدِنَا اٰدَمَ اِلٰى سَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ هَاشِمِ ابْنِ عَبْدِ مُنَافِ ابْنِ قُصَيِّ ابْنِ حَكِيْمِ ابْنِ مُرَّةَ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ لُوَيِّ ابْنِ غَالِبِ ابْنِ فِهْرِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ النَّضْرِ ابْنِ

كِنَانَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ابْنِ مُدْرَكَةَ ابْنِ اِلْيَاسِ ابْنِ مُضَرِ ابْنِ نِزَارِ ابْنِ مَعْدِ ابْنِ عَدْنَانَ صَلَاةً تَمْلَأُ جَمِيْعَ الْاَكْوَانِ عَدَدَمَا يَكُوْنُ وَمَا قَدْ كَانَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَرِيْمِ الْاُمَّهَاتِ مِنْ سَيِّدَتِنَا السَّيِّدَةِ حَوَّآءَ اِلٰى سَيِّدَتِنَا السَّيِّدَةِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهَبِ اِبْنِ عَبْدِ مُنَافِ ابْنِ زُهْرَةَ ابْنِ حَكِيْمٍ ، بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ يَا عَلِيْمُ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اُوْلَى الشَّرَفِ وَالتَّكْرِيْمِ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَاَتَمَّ التَّسْلِيْمِ۔


اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَوْلَادِهٖ سَيِّدِنَا الْقَاسِمِ وَسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ وَسَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ يَا عَلِيْمُ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَوْلَادِهٖ سَيِّدَتِنَا السَّيِّدَةِ زَيْنَبَ وَسَيِّدَتِنَا السَّيِّدَةِ رُقَيَّةَ وَسَيِّدَتِنَا السَّيِّدَةِ اُمِّ كُلْثُوْمٍ وَسَيِّدَتِنَا السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَآءِ اُمِّ مَوْلَانَا الْاِمَامِ الْحَسَنِ وَاُمِّ مَوْلَانَا الْاِمَامِ الْحُسَيْنِ وَسَيِّدَتِنَا السَّيِّدَةِ زَيْنَبَ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفْسٍ عَدَدَمَا وَسِعَهٗ عِلْمُ اللهِ۔


اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَعَلٰى عَمَّيْهِ خَيْرِ النَّاسِ سَيِّدِنَا حَمْزَةَ وَسَيِّدِنَا الْعَبَّاسِ وَعَلَى ابْنِ عَمِّهٖ سَيِّدِنَا عَلِيِّ الْكَرَّارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ آلِ رَسُوْلِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ { اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا }۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔




قل هو الله أحد
الله الصمد
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

جَالِيَةُ الْأَكْدَارِ
وَالسَّيْفُ الْبَتَّارُ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ ﷺ

للشيخ خالد بن احمد بن حسين الشافعی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادریة 5
الباکستان
0092-3335187573

جالیة الاکدار و سیف البتار

کتاب مذکورہ بالا کے مصنف حضرت علامہ خالد شافعی مجددی (المتوفی 1242) کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہِ اقدس میں تقرب کا سب سے اعلیٰ ذریعہ درُود شریف ہی ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ ''**من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة تصلی علیه مادام اسمی فی ذلك الکتاب** '' جس نے کتاب میں مجھ پر درُود بھیجا تو جب تک وہ درُود اُس کتاب میں رہے گا فرشتے اُس کیلئے رحمت کی دُعا کرتے رہیں گے، سومیں نے بھی استخارہ کیا اور درُود وسلام کی یہ کتاب ترتیب دے دی۔

کتاب ہٰذا جو دار الکتب العلمیہ سے شائع ہوئی ہے اُس کے سرورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

جالية الأكدار والسّيف البتّار
في الصّلاة على المختار ﷺ

للشّيخ خالد بن أحمد بن حسين الشّافعي

المتوفى ١٢٤٢هـ

ضبطه وصححه وعلّق عليه

الشّيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي

الحسيني الشّاذلي الدرقاوي

جَالِيَةُ الْاَكْدَارِ وَ السَّيْفِ الْبَتَّارِ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ بِالسَّلَامِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ هُوَ عَيْنُ اِنْسَانِ الْكُلِّ فِيْ حَضْرَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَ جَمْعُ جَمْعِ الْجَمْعِ فِيْ بَدِيْعِ حِكْمَتِكَ، وَ عَرْشُ اسْتِوَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ خَزِيْنَةِ اُلُوْهِيَّتِكَ وَ لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ، الَّذِيْ كَتَبْتَ فِيْهِ بِقَلَمِ فَرْدَانِيَّتِكَ، وَ مِدَادِ صَمَدَانِيَّتِكَ تَبْشِيْرًا لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ {وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ} صَلَاةً تُدْخِلُنِي اللّٰهُمَّ يَا قُدُّوْسُ، يَا سَلَامُ، يَا مُهَيْمِنُ، جَنَّةً اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَ اَغِثْنِيْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، بِحَقِّ عَبْدِكَ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ الْاَخْنَسِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

3 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ هُوَ صَاحِبُ الْبُرْهَانِ، وَ السَّبَبُ فِيْ وُجُوْدِ كُلِّ اِنْسَانٍ، كَافُ كَرَمِ الْكِفَايَةِ، هَآءُ الْاُلُوْهِيَّةِ وَ الرِّعَايَةِ، وَ يَآءُ الْيَقْظَةِ وَ الْهِدَايَةِ، عَيْنُ الْعِصْمَةِ وَ الْعِنَايَةِ، وَ صَادُ الصِّرَاطِ الْمَنْشُوْرِ، صِرَاطِ اللهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ {اَلَآ اِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ} صَلَاةً تُسْبِلُ اللّٰهُمَّ يَا عَزِيْزُ، يَا جَبَّارُ، يَا مُتَكَبِّرُ، يَا خَالِقُ، بِهَا عَلَيَّ السِّتْرَ الْجَمِيْلَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِحَقِّ عَبْدِكَ الْاَرْقَمِ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَسْعَدِ بْنِ زَيْدٍ، اَنَسِ بْنِ مُعَاذٍ، اَنَسِ بْنِ قَتَادَةَ، اَنَسَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ، اَوْسِ بْنِ خَوْلِيِّ، اِيَاسِ بْنِ اَوْسٍ، اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

4 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ تَشَرَّفَ بِهٖ جَمِيْعُ الْاَكْوَانِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ اَظْهَرْتَ بِهٖ مَعَالِمَ الْعِرْفَانِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ شَيَّدَ اَرْكَانَ الشَّرِيْعَةِ لِلْعَالَمِيْنَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ اَوْضَحَ اَفْعَالَ الطَّرِيْقَةِ لِلسَّآئِرِيْنَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ رَمَزَ فِيْ عُلُوْمِ الْحَقِيْقَةِ لِلْعَارِفِيْنَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ اَظْهَرَ اَسْرَارَ الْغُيُوْبِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ هُوَ بَابُ كُلِّ طَالِبٍ وَّ دَلِيْلُ كُلِّ مَحْجُوْبٍ، فَصَلِّ وَ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَبْنِيْ عَلَيَّ بِهَا، يَا بَارِئُ، يَا مُصَوِّرُ، يَا غَفَّارُ، سُوْرَ اَمَانِكَ وَ سُرَادِقَ عِزِّ عَظَمَتِكَ بِحَقِّ عَبْدِكَ الْبَرَّ بْنِ مَعْرُوْرٍ، الْبُجَيْرِ بْنِ اَبِيْ بُجَيْرٍ، بَحَّاثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، بَسْبَسِ بْنِ رَبَاحٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

5 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ عَلٰى هَيْكَلِهٖ مِنْ اَنْوَارِكَ

الْقُدْسِيَّةِ، وَ اَفَضْتَ عَلٰى رُوْحِهٖ مِنْ اَسْرَارِكَ الْعَلِيَّةِ مَدَدًا قَرَّبَهٗ اِلٰى حَضْرَتِكَ السَّنِيَّةِ، وَ اَنَلْتَهٗ مِنْكَ الْقُرْبَ الْاَسْنٰى { ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى } صَلَاةً تَفْتَحُ اللّٰهُمَّ بِهَا اَقْفَالَ قَلْبِيْ بِمَفَاتِحِ حُبِّهٖ، وَ تُطَهِّرُ بِهَا سَرَآئِرَنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ وَ قُرْبِهٖ، وَ اَعِذْنِيْ بِهَا يَا قَهَّارُ، يَا وَهَّابُ، يَا رَزَّاقُ، وَ احْرُسْنِيْ بِحَقِّ تَمِيْمِ بْنِ يُعَاذَ، تَمِيْمٍ مَّوْلٰى بَنِيْ غَنْمِ بْنِ اَسْلَمَ، تَمِيْمٍ مَّوْلٰى خِرَاشٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

6 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَسْنٰى، مَظْهَرِ سِرِّ الصِّفَاتِ وَ الْاَسْمَآءِ، مَنْ فَازَ بِالْقُرْبِ الْاَسْمٰى فِيْ حَضْرَةِ الْمُسَمّٰى، فَكَانَ عَيْنَ مَظَاهِرِهَا الْوُجُوْدِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ عِلْمِكَ، وَ عَيْنَ اَسْرَارِهَا الْجُوْدِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ كَرَمِكَ، وَ عَيْنَ اِخْتِرَاعَاتِهَا الْكَوْنِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ اِرَادَتِكَ، وَ عَيْنَ مَقْدُوْرَاتِهَا الْجَبَرُوْتِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ قُدْرَتِكَ، وَ عَيْنَ نَشْاٰتِهَا الْاِحْسَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ رَحْمَتِكَ صَلَاةً تَكْفِيْنِي اللّٰهُمَّ بِهَا، يَا فَتَّاحُ، يَا عَلِيْمُ، يَا قَابِضُ، بِاَسْمَآئِكَ وَ اٰيَاتِكَ وَ كَلِمَاتِكَ، شَرَّ الشَّيْطَانِ وَ السُّلْطَانِ بِحَقِّ عَبْدِكَ ثَابِتِ بْنِ اَرْقَمَ، ثَابِتِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، ثَابِتِ بْنِ خَالِدٍ، ثَابِتِ بْنِ عَمْرٍ، ثَابِتِ بْنِ هُزَالٍ، ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنَمَةَ، ثَقِيْفِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

7 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْاَبِ الْاَوَّلِ، وَ مَنْ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ، يَعْسُوْبِ الْاَرْوَاحِ، مِفْتَاحِ الْفَتَّاحِ، بِدَايَةِ الْبِدَايَةِ، وَ نِهَايَةِ النِّهَايَةِ، السِّرِّ الْمَكْنُوْنِ الْجَامِعِ لِلْاَسْرَارِ وَ النُّوْرِ الْمَصُوْنِ، الْهَامِعِ بِفَيْضِ الْاَنْوَارِ اَكْمَلِ ظَاهِرٍ فِي الْبَاطِنِ، بِتَجَلِّي الْمَظَاهِرِ الْغَيْثِ الْمِدْرَارِ، الْقَآئِمِ عَلٰى قَدَمِ الْعُبُوْدِيَّةِ اٰنَآءَ اللَّيْلِ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ، الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ الذِّكْرِ وَ التَّنْزِيْلِ وَ التَّذْكَارِ { رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } صَلَاةً تُنْجِيْنِي اللّٰهُمَّ بِهَا، يَا بَاسِطُ، يَا خَافِضُ، يَا رَافِعُ، مِنْ عِبَادِكَ الظَّالِمِيْنَ وَ الْبَاغِيْنَ وَ الْمُعْتَدِيْنَ بِحَقِّ عَبْدِكَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، جَبْرِ بْنِ عَتِيْكٍ، جَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ، جُبَيْرِ بْنِ اِيَاسٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

8 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْضَةِ النُّوْرِ، وَ رَوْضَةِ الْحُضُوْرِ اَصْلِ الْاُصُوْلِ وَ وَصْلِ الْوُصُوْلِ، يَنْبُوْعِ الْحَقَآئِقِ وَ مَجْمَعِ الدَّقَآئِقِ، مُبِيْدِ الْفُجَّارِ، وَ قَاطِعِ الْكُفَّارِ، صَلَاةً مُّتَوَالِيَةَ التَّكْرَارِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ، تُبَلِّغُنِيْ بِهَا الْمَنَاجِحَ وَ الْاَوْطَارَ، وَ اكْفِنِيْ بِهَا اللّٰهُمَّ يَا مُعِزُّ، يَا مُذِلُّ، يَا سَمِيْعُ، خَدِيْعَةَ مَكْرِ الْاَعْدَآءِ وَ الْفُجَّارِ، اَهْلِ الْحِقْدِ وَ الْاِضْرَارِ، بِحَقِّ عَبْدِكَ الْحَارِثِ بْنِ اَنَسٍ، اَلْحَارِثِ بْنِ اَوْسِ بْنِ رَافِعٍ، اَلْحَارِثِ بْنِ اَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ، اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ، اَلْحَارِثِ بْنِ خُزَمَةَ الْخَزْرَجِيِّ، اَلْحَارِثِ بْنِ حَرَمَةَ الْاَوْسِيِّ، اَلْحَارِثِ بْنِ اَبِيْ حَرَمَةَ، اَلْحَارِثِ بْنِ عَرْفَجَةَ، اَلْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّتِ، اَلْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِ الْاَوْسِيِّ، اَلْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ نِ الْخَزْرَجِيِّ، اَلْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ، حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، حَاطِبِ ابْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ، حَاطِبِ بْنِ عَمْرٍو، اَلْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ، حَبِيْبِ بْنِ الْاَسْوَدِ، حِرَامِ ابْنِ مِلْحَانَ، حُرَيْثِ بْنِ زَيْدٍ، اَلْحُصَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ، حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ۔

9 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِيْ هُوَ مَنْبَعُ فَيْضِ اللَّاهُوْتِ وَ مَرْتَعُ

جَمْعِ الرَّحَمُوْتِ، وَ وَاسِطَةُ عِقْدِ النَّاسُوْتِ، وَ رَابِطَةُ كُنْهِ الْجَبَرُوْتِ، سِرُّ سِرِّ السِّرِّ وَ الْاَسْرَارِ، وَ النُّوْرُ الَّذِيْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ كُلُّ الْاَنْوَارِ، صَلَاةً تُذِيْقُنِي اللّٰهُمَّ بِهَا يَا بَصِيْرُ، يَا حَكَمُ، يَا عَدْلُ، لَذَّةً صَافِيْ شَرْبَةٍ مِّنْ حَوْضِهِ الْمَوْرُوْدِ بِحَقِّ عَبْدِكَ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، خَالِدِ بْنِ الْبُكَيْرِ، خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ، خَبَّابٍ مَّوْلٰى عُتْبَةَ، خُبَيْبِ بْنِ اَسَافٍ، خِرَاشِ بْنِ قَتَادَةَ، خِرَاشِ بْنِ الصِّمَّتِ، خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ، خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدٍ، خَلَّادِ بْنِ عَمْرٍو، خَلَّادِ بْنِ قَيْسٍ، خَلِيْفَةِ بْنِ عَدِيٍّ، خُنَيْسِ بْنِ خُرَافَةَ، خُلَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، خَوْلِيِّ بْنِ اَبِيْ خَوْلِيٍّ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

10 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ تَوَّجْتَهٗ عِزًّا وَّ وَقَارًا، وَّ اَمْطَرْتَ عَلٰى قَلْبِهٖ مِنْ سَحَائِبِ رَحْمَتِكَ فَيْضًا مِّدْرَارًا، وَّ وَضَعْتَ عَنْهُ اَثْقَالًا وَّ اَوْزَارًا، وَّ خَصَّصْتَهٗ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى فِيْ يَوْمٍ تَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَ مَا هُمْ بِسُكَارٰى، صَلَاةً تَحْفَظُنِي اللّٰهُمَّ بِهَا مِنَ الْاَعْدَاءِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْحُسَّادِ، يَا لَطِيْفُ، يَا خَبِيْرُ، يَا حَلِيْمُ، بِحَقِّ عَبْدِكَ ذَكْوَانَ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ، ذِي الشِّمَالَيْنِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا۔

11 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ هُوَ اِنْسَانُ عَيْنِ الْاَزَلِ، وَ حَبِيْبُ مَنْ لَّمْ يَزَلْ، اَلرَّسُوْلُ الْمُعَظَّمُ، وَ النَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ، اِمَامُ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الدَّاعِيْ اِلٰى تَوْحِيْدِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، طَبِيْبُ الْاَرْوَاحِ وَ مُنِيْلُ الْاَفْرَاحِ، خَيْرُ مَنْ م بُعِثَ بِالرَّشَادِ، وَ اَفْضَلُ مَنْ تَشَفَّعَ فِي الْخَلْقِ يَوْمَ التَّنَادِ، صَلَاةً تَكُوْنُ حِرْزًا مِّنَ الطَّرْدِ وَ الْاِبْعَادِ، وَ الْبَغْيِ وَ الْفَسَادِ، وَ اَمِنِّيْ بِهَا يَا عَظِيْمُ، يَا غَفُوْرُ، يَا شَكُوْرُ، مِنَ السُّوْءِ وَ الْغَضَبِ بِحَقِّ عَبْدِكَ رَاشِدِ بْنِ الْمُعَلّٰى، رَافِعِ بْنِ الْمُعَلّٰى، رَافِعِ بْنِ الْحَارِثَةِ، رَافِعِ بْنِ عُنْجُدَةَ، رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، رَافِعِ بْنِ يَزِيْدَ، رَبْعِيِّ بْنِ رَافِعٍ، رَبِيْعِ بْنِ اَكْثَمَ، رِحْلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، رِفَاعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، رِفَاعَةَ بْنِ عَمْرٍو، رِفَاعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

12 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَ شَمْسُ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ، الْهَادِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَ الْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ، الَّذِيْ كَانَ قَلْبُهٗ بِمَوْلَاهُ وَلِيْهًا، وَّ لِسَانُهٗ بِالْحِكْمَةِ وَ فَصْلِ الْخِطَابِ نَبِيْهًا، اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ تَكْرِيْمًا وَّ تَنْبِيْهًا {يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا} صَلَاةً تَكْسُوْنِي اللّٰهُمَّ بِهَا، يَا كَبِيْرُ، يَا حَفِيْظُ، يَا عَظِيْمُ، يَا مُعِزُّ بِتَاجِ الْمَهَابَةِ وَ الْكَرَامَةِ بِحَقِّ عَبْدِكَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، زِيَادَةَ بْنِ السَّكَنِ، زِيَادِ بْنِ عَمْرٍو، زِيَادِ بْنِ لُبَيْدٍ، زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، زَيْدِ بْنِ الْمُزَيْنِ، زَيْدِ بْنِ وَدِيْعَةٍ، زَيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

13 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ هُوَ نُوْرُ الْهُدٰى، وَ الْقُدْوَةُ لِمَنِ اقْتَدٰى، الْقَائِمُ بِالْحُدُوْدِ، وَ الْوَافِيْ بِالْعُهُوْدِ، وَ الْمُشَمِّرُ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ فِيْ بَذْلِ الْمَجْهُوْدِ لِطَاعَةِ الْحَيِّ الْمَعْبُوْدِ، النَّبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْاَبْطَحِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ، الَّذِيْ بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ، وَ تَلَا اٰيَاتِكَ، وَ اَنْفَذَ حُكْمَكَ، وَ اَمَرَ بِطَاعَتِكَ، وَ نَهٰى عَنْ مَّعْصِيَتِكَ، صَلَاةً تَخْلَعُ، اللّٰهُمَّ يَا مُقِيْتُ، يَا حَسِيْبُ، يَا جَلِيْلُ، بِهَا عَلَيَّ

خِلَعَ التَّقْوٰى وَ تَكْفِيْنِيْ بِهَا جَمِيْعَ الْبَلْوٰى بِحَقِّ عَبْدِكَ سَالِمِ بْنِ عُمَيْرٍ، سَالِمٍ مَّوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ، السَّآئِبِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، سَبْرَةَ بْنِ فَاتِكٍ، سُرَاقَةَ بْنِ عَمْرٍو، سُرَاقَةَ بْنِ كَعْبٍ، سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ، سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، سَعْدِ بْنِ زَيْدِنِ الْاَوْسِيِّ، سَعْدِ بْنِ زَيْدِنِ الْمُهَاجِرِيِّ، سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ، سَعِيْدِ بْنِ سَهْلٍ، سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، سَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ، سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، سَعْدٍ مَّوْلٰى حَاطِبٍ، سُفْيَانَ بْنِ نَسْرٍ، سَلَمَةَ بْنِ اَسْلَمَ، سَلَمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ، سَلِيْطِ بْنِ قَيْسٍ، سَلِيْمِ بْنِ الْحَارِثِ، سَلِيْمِ بْنِ عَمْرٍو، سَلِيْمِ بْنِ مِلْحَانَ، سِمَاكِ بْنِ سَعْدٍ، سِنَانِ بْنِ صَيْفِيٍّ، سِنَانِ بْنِ اَبِيْ سِنَانٍ، سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ، سَهْلِ بْنِ عَتِيْكٍ، سَهْلِ بْنِ قَيْسٍ، سُهَيْلِ بْنِ وَهْبٍ، سُهَيْلِ بْنِ رَافِعٍ، سَوَادِ بْنِ رَزِيْنٍ، سَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ، سُوَيْبِطِ بْنِ حَرْمَلَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

14 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ، وَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، الَّذِيْ آتَيْتَهٗ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمِ، صَاحِبِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ، وَ دَلِيْلِ الْخَلْقِ اِلٰى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَّكَ عَلَيْهِ سِيَادَةٌ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَدْرِ الْاَزْهَرِ، الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ الذِّكْرِ الْاَبْهَرِ {اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا . لِّيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ} صَلَاةً تُفَرِّجُ اللّٰهُمَّ يَا كَرِيْمُ، يَا رَقِيْبُ، يَا مُجِيْبُ، بِهَا كُرُوْبِيْ، وَ تَسْتُرُ بِهَا عُيُوْبِيْ، وَ تُزْلِفُ بِهَا قُرْبِيْ، وَ تُنَوِّرُ بِهَا قَلْبِيْ، بِحَقِّ عَبْدِكَ شُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ، شَرِيْكِ بْنِ اَنَسٍ، شَمَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

15 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، الصَّفُوْحِ الْحَكِيْمِ، صَاحِبِ الْفَيْضِ الْعَمِيْمِ، الَّذِيْ هَدَيْتَ بِهٖ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كَلَامِكَ الْقَدِيْمِ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ} صَلَاةً تُظْهِرُ اللّٰهُمَّ يَا وَاسِعُ، يَا حَكِيْمُ، يَا وَدُوْدُ بِهَا عَلٰى آثَارِ اَسْرَارِ الْمَحَبَّةِ بِحَقِّ عَبْدِكَ صَبِيْحٍ مَّوْلٰى اَبِي الْعَاصِ، صِنْوَانِ بْنِ وَهْبٍ، صَيْفِيِّ بْنِ سَوَادٍ، صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

16 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ قُطْبُ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ، وَ فِطْرَةُ اللّٰهِ الْحَيِّ الْمَعْبُوْدِ، مَرْكَزُ مُحِيْطِ الْاِحَاطَةِ الْعُظْمٰى، وَ مَبْدَأُ اُنْسِ الْاَسْمَا، عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ رَسُوْلُكَ وَ صَفِيُّكَ، وَ خَلِيْلُكَ، الَّذِيْ اَيَّدْتَهٗ بِالْمَجْدِ الْاَبْهٰى، وَ النُّوْرِ الْاَزْهٰى، صَلَاةً تُوَجِّهُ اللّٰهُمَّ يَا مَجِيْدُ، يَا بَاعِثُ، يَا شَهِيْدُ بِهَا وَجْهِيْ بِضِيَآءِ الْجَمَالِ بِحَقِّ عَبْدِكَ الضَّحَّاكِ بْنِ حَارِثَةَ، الضَّحَّاكِ بْنِ عَمْرٍو، ضَمْرَةَ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

17 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَصِّ مِنْ عُلُوْمِكَ بِمَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهٗ اَحَدٌ مِّنْ عِبَادِكَ عَرُوْسِ مَمَالِكِ الْعَظَمَةِ فِيْ كَآفَّةِ اَرْضِكَ وَ بِلَادِكَ، بَحْرِ اَسْرَارِكَ الَّذِيْ تَلَاطَمَتْ بِرِيَاحِ الْيَقِيْنِ اَمْوَاجُهٗ، قَآئِدِ جَيْشِ النُّبُوَّةِ الَّذِيْ تَسَارَعَتْ بِكَ اِلَيْكَ اَفْوَاجُهٗ، صَلَاةً تُجَمِّلُنِيْ بِهَا، اَللّٰهُمَّ يَا حَقُّ، يَا وَكِيْلُ، يَا قَوِيُّ بِالْفَصَاحَةِ وَ الْبَرَاعَةِ وَ الْبَلَاغَةِ، وَ احْلُلِ اللّٰهُمَّ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ بِحَقِّ عَبْدِكَ الطُّفَيْلِ

بْنِ الْحَارِثِ، الطُّفَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، اَلطُّفَيْلِ بْنِ النُّعْمَانِ، طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، طُلَيْبِ بْنِ عُمَيْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ۔

18 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَحَلَتْ بِنُوْرِ قُدْسِكَ مُقْلَتَهٗ فَرَاٰى ذَاتَكَ جِهَارًا، وَّ اَلْقَيْتَ مِنْ سِرِّ كَمَالَاتِكَ الْقَيُّوْمِيَّةِ فِيْ بَاطِنِهٖ اَسْرَارًا، وَّ فَلَقْتَ بِكَلِمَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِحَارَ جَمْعِ الْجَمْعِ وَ مَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَ جَمَالِكَ وَ خِطَابِكَ الْقَلْبَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ وَ اَخَّرْتَ عَنْ مَّقَامِهٖ تَاْخِيْرًا ذَاتِيًا كُلَّ اَحَدٍ، وَّ جَعَلْتَهٗ بِحُكْمِ اَحَدِيَّتِكَ وِتْرَ الْعَدَدِ صَلَاةً تُقَلِّدُنِيْ بِهَا، اَللّٰهُمَّ يَا مَتِيْنُ، يَا وَلِيُّ، يَا حَمِيْدُ، بِسَيْفِ الْهَيْبَةِ وَ الْقُوَّةِ وَ الشِّدَّةِ وَ الْمَنْعَةِ، بِحَقِّ عَبْدِكَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَاصِمِ بْنِ عُكَيْرٍ، عَاصِمِ بْنِ قَيْسٍ، عَاقِلِ بْنِ الْبُكَيْرِ، عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَامِرِ بْنِ اُمَيَّةَ، عَامِرِ بْنِ الْبُكَيْرِ، عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَامِرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ، عَامِرِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَامِرِ بْنِ السَّكَنِ، عَامِرِ بْنِ بِشْرٍ، عَبَّادِ بْنِ قَيْسٍ، عَبَّادِ بْنِ الصَّامِتِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْرٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيْكٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ طَارِقٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَامِرٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنَافٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْفَطَةَ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَظْعُوْنٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ حَقٍّ، عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَسْحَاسِ، عَبْسِ بْنِ عَامِرٍ، عَابِدِ بْنِ مَاعِطٍ، عُبَيْدِ بْنِ اَوْسٍ، عُبَيْدِ ابْنِ التَّيْهَانِ، عُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ، عُبَيْدِ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عُتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ، عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ، عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، اَلْعُجْلَانِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَدِيِّ بْنِ الزَّغْبَا، عُصْمَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عُصْمَةَ الْاَشْجَعِيِّ، عُصْمَةَ بْنِ نُوَيْرَةَ، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عُقْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عُقْبَةَ بْنِ وَهْبِ الْاَنْصَارِيِّ، عُقْبَةَ بْنِ وَهْبِ نِ الْمُهَاجِرِيِّ، عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ، عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ، عُمَارَةَ بْنِ زِيَادٍ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عُمَرَ بْنِ اِيَاسٍ، عُمَرَ بْنِ الْجُمُوْعِ، عُمَرَ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ، عُمَرَ بْنِ حَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ، عُمَرَ بْنِ سُرَاقَةَ، عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ، عَمْرِو بْنِ طَلْقٍ، عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَمْرِو بْنِ مَعْبَدٍ، عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ، عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ، عُمَيْرِ بْنِ حِرَامٍ، عُمَيْرِ بْنِ الْحَمَامِ، عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عُمَيْرِ بْنِ عَوْفٍ، عُمَيْرِ بْنِ وَقَّاصٍ، عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، عِيَاضِ بْنِ زُهَيْرٍ، رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ۔

19 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ هُوَ لِوَآءُ عِزَّتِكَ الْخَافِقِ، وَ لِسَانُ حُكْمِكَ النَّاطِقِ، خَلِيْفَتُكَ عَلٰى خَلِيْقَتِكَ، اَمِيْنُكَ عَلٰى جَمِيْعِ بَرِيَّتِكَ، مَنْ عَجَزَ كُلُّ نَاطِقٍ عَنْ وَّصْفِ صِفَاتِهٖ، وَ كُلُّ حَامِدٍ عَنْ اَنْ يُّؤَدِّيَ حَمْدَهٗ عَلٰى مَكَارِمِهٖ وَ هِبَاتِهٖ، الْمَحْمُوْدُ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ، وَ خَيْرُ شَافِعٍ مُّشَفَّعٍ يَّشْفَعُ لِلْخَلْقِ يَوْمَ الْعَرْضِ، صَلَاةً تُدِيْمُ عَلَيَّ اللّٰهُمَّ بِهَا يَا مُحْصِيْ، يَا مُبْدِئُ، يَا مُعِيْدُ، لَمْحَةً مَسَرَّةً ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَ يَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ۝ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴾ وَ بِحَقِّ عَبْدِكَ غَنَّامِ بْنِ اَوْمَنَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

20 وَبِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ جَمَالُ التَّجَلِّيَاتِ الْاِخْتِصَاصِيَّةِ، وَجَلَالُ التَّلْبِيَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْبَاطِنُ بِكَ فِىْ غَيَابَاتِ الْعِزِّ الْاَكْبَرِ، الظَّاهِرُ بِنُوْرِكَ فِىْ مَشَارِقِ الْمَجْدِ الْاَفْخَرِ، عَزِيْزُ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ، وَسُلْطَانُ الْمَمْلَكَةِ الْاَحَدِيَّةِ، عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ اِنْفِرَادِكَ بِذَاتِكَ كَمَا هُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ اَسْمَآئِكَ وَصِفَاتِكَ، طُوْرُ تَجَلّٰى عَظْمَتِكَ وَعِلْمِكَ، وَعُقْدَةُ نِطَاقِ دَآئِرَةِ عَفْوِكَ وَحِلْمِكَ، صَلَاةً تُنْزِلُ اللّٰهُمَّ بِهَا يَا مُحْيِىْ، يَا مُمِيْتُ، يَا حَىُّ بِقَلْبِى الْاِيْمَانِ بِحَقِّ عَبْدِكَ الْفَاكِهَةِ بْنِ بِشْرٍ، فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا۔

21 وَبِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ، الْمُؤَيَّدِ بِالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ الْمُبِيْنِ، قَاطِعِ الْكَفَرَةِ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَمُبِيْدِ الْفَجَرَةِ الْبَاغِيْنَ، الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْمُبِيْنِ {رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ} صَلَاةً تُفْرِغُ اللّٰهُمَّ يَا قَيُّوْمُ، يَا وَاجِدُ، يَا مَاجِدُ بِهَا عَلَىَّ الصَّبْرُ وَالتَّمْكِيْنَ، بِحَقِّ عَبْدِكَ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ، قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَيْسِ بْنِ عَامِرٍ، قَيْسِ بْنِ مِحْصَنٍ، قَيْسِ بْنِ مَخْلَدٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ۔

22 وَبِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هَدَيْتَ بِهٖ اَهْلَ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَكَشَفْتَ بِهٖ حِجَابَ الْغِشَاوَةِ عَنْ عُيُوْنِ اَهْلِ الْعَمَآءِ، وَجَعَلْتَ عِزَّ عَظْمَةِ اِحَاطَةِ قُدْرَتِكَ لَهٗ حِفْظًا وَّحِمًى، وَجَعَلْتَهٗ مَظْهَرَ سِرِّ اَسْرَارِ حِكْمَةِ {وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمٰى} صَلَاةً تَحْفَظُنِىْ بِهَا اللّٰهُمَّ يَا وَاحِدُ، يَآ اَحَدُ، يَا صَمَدُ، يَا قَادِرُ، مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَّمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ، وَمِنْ فَوْقِىْ وَمِنْ تَحْتِىْ، وَاحْفَظْنِىْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْنِىْ بِحَقِّ عَبْدِكَ كَعْبِ بْنِ جِمَارٍ، كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ، كَسِيْرِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ۔

23 وَبِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ صَاحِبِ السَّعَادَةِ، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَّكَ عَلَيْهِ سِيَادَةٌ، اَلَّذِىْ بَذَلَ فِىْ طَاعَتِكَ جُهْدَهٗ وَاِجْتِهَادَهٗ، وَفَازَ بِالْحَمْدِ اِصْدَارَهٗ وَاِيْرَادَهٗ، فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَأْمُوْنُ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنُ، الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْمَصُوْنِ {اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ} صَلَاةً تُثَبِّتُ اللّٰهُمَّ بِهَا يَا مُقْتَدِرُ، يَا مُقَدِّمُ، يَا مُؤَخِّرُ، قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ، وَاَمِّنِىْ يَآ اَللهُ مِنَ الزَّلَلِ، بِحَقِّ عَبْدِكَ لَبْدَةَ بْنِ قَيْسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَعَنِ الْاٰلِ وَالْاَصْحَابِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ۔

24 وَبِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّافِعِ فِى الْاُمَمِ، وَثَمَرَةِ شَجَرَةِ الْقِدَمِ، وَخُلَاصَةِ نَتِيْجَتِى الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ، اَمِيْنِكَ عَلٰى اِسْرَارِ اُلُوْهِيَّتِكَ، وَحَفِيْظِكَ عَلٰى غَيْبِ لَاهُوْتِيَّتِكَ، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ، الَّذِىْ عَرَفَكَ بِكَ مَعْرِفَةً تَآمَّةً بِلَا كَيْفَ وَلَآ اَيْنَ، نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَرَسُوْلِكَ الْمُجْتَبٰى، وَحَبِيْبِكَ الْمُرْتَضٰى، اَبِى الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، صَاحِبِ التَّاجِ وَالنَّجِيْبِ وَالْمِغْفَرِ وَالْقَضِيْبِ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كَلَامِكَ الْقَدِيْمِ {وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ} صَلَاةً تَنْصُرُنِى اللّٰهُمَّ بِهَا يَآ اَوَّلُ، يَآ آخِرُ، يَا ظَاهِرُ عَلٰى اَعْدَآئِىْ بِحَقِّ عَبْدِكَ مَالِكِ بْنِ خَوْلِىْ، مَالِكِ بْنِ الدَّخْشَمِ، مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ، مَالِكِ بْنِ رِفَاعَةَ، مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو، مَالِكِ بْنِ قُدَامَةَ، مَالِكِ بْنِ

مَسْعُوْدٍ، مَالِكِ بْنِ نُمَيْلَةَ، مُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، الْمُجْذِرِ بْنِ زِيَادٍ، مُحْرِزِ بْنِ فَضْلَةَ، مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، مِدْلَاجِ بْنِ عَمْرٍو، مُرْشِدِ بْنِ مُرْشِدٍ، مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ، مَسْعُوْدِ بْنِ اَوْسٍ، مَسْعُوْدِ بْنِ خَلْدَةَ، مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ، مَسْعُوْدِ بْنِ رَبِيْعَةَ، مَسْعُوْدِ بْنِ سَعْدٍ، مَسْعُوْدِ بْنِ عَبْدِ سَعْدٍ، مَغْضَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، مُعَاذِ بْنِ الْحَارِثِ، مُعَاذِ بْنِ الصِّمَّةِ، مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو، مُعَاذِ بْنِ مَاعِصٍ، مَعْبَدِ بْنِ عَبَّادٍ، مَعْبَدِ بْنِ قَيْسٍ، مُعَتِّبِ بْنِ عُبَيْدٍ، مُعَتِّبِ بْنِ عَوْفٍ، مُعَتِّبِ بْنِ قُشَيْرٍ، مَعْقِلِ بْنِ الْمُنْذِرِ، مَعْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ، مَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ، الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ، مُلَيْلِ بْنِ وَبْرَةَ، الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو، اَلْمُنْذِرِ بْنِ قُدَامَةَ، الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَهْجَعِ بْنِ صَالِحٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ۔

25 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ هُوَ نُوْرُكَ الْاَسْنٰى، وَ سِرُّكَ الْاَبْهٰى، وَ حَبِيْبُكَ الْاَعْلٰى، وَ صَفِيُّكَ الْاَزْكٰى، وَاسِطَةُ اَهْلِ الْقُرْبِ، وَ قِبْلَةُ اَهْلِ الْحُبِّ، رُوْحُ الْمُشَاهَدَةِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، وَ لَوْحُ الْاَسْرَارِ الْقَيُّوْمِيَّةِ، تَرْجُمَانُ الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ، لِسَانُ الْغَيْبِ الَّذِىْ لَا يُحِيْطُ بِهٖ اَحَدٌ، صَلَاةً تُؤَيِّدُنِي اللّٰهُمَّ بِهَا، يَا بَاطِنُ، يَا وَالِيُ، يَا مُتَعَالِ بِتَأْيِيْدِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحَقِّ عَبْدِكَ نَضْرِ بْنِ الْحَارِثِ النُّعْمَانِ، الْاَعْرَجِ بْنِ مَالِكٍ، اَلنُّعْمَانِ بْنِ سِنَانٍ، اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَمْرٍو، اَلنُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ خِزْمَةَ، اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَصَرٍ، اَلنُّعْمَانِ بْنِ مَالِكٍ، اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَمْرٍو، نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ۔

26 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ هُوَ صُوْرَةُ الْحَقِيْقَةِ الْفَرْدَانِيَّةِ، وَ حَقِيْقَةُ الصُّوْرَةِ الْمُزَيَّنَةِ بِالْاَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، حَبِيْبُ اللهِ الْمُخْتَصِّ بِالْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، اَحْمَدُ مَنْ حَمِدَ وَ حُمِدَ عِنْدَ رَبِّهٖ، وَ اَفْوَزُ مَنْ فَازَ بِالْفَوْزِ الْاَعْظَمِ مِنْ مَّرَاتِبِ تَرَحُّبِهٖ، صَلَاةً تَكْفِيْنِي اللّٰهُمَّ يَا بَرُّ، يَا تَوَّابُ، يَا مُنْتَقِمُ، جَمِيْعَ الْاَسْوَاۗءِ وَ الْاَدْوَاۗءِ بِحَقِّ عَبْدِكَ هَانِيْ بْنِ نِيَارٍ، هُبَيْلِ بْنِ وَبْرَةَ، هِلَالِ بْنِ الْمُعَلّٰى، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ۔

27 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَ هَادِى الْخَلْقِ اِلٰى طَرِيْقِ الْحَقِّ، اَكْرَمِ مَسْؤُوْلٍ، وَّ خَيْرِ مَاْمُوْلٍ، خَاتِمِ الْاَنْبِيَاۗءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اَقْرَبِ الْخَلْقِ اِلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، صَلَاةً تَمُنُّ اللّٰهُمَّ بِهَا يَا عَلِيُّ، يَا عَفُوُّ، يَا رَؤُوْفُ، يَا مَالِكَ الْمُلْكِ بِاِحْسَانِكَ وَ فَضْلِكَ بِحَقِّ عَبْدِكَ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرَقَةَ بْنِ اِيَاسٍ، وَدِيْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَهْبِ بْنِ سَعْدٍ، وَهْبِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ۔

28 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَفَضْتَ عَلٰى هَيْكَلِهٖ مِنَ الْاَنْوَارِ، وَ فَجَّرْتَ مِنْهُ يَنَابِيْعَ الْاَنْوَارِ، وَ طَهَّرْتَ بِهِ النُّفُوْسَ مِنَ الرَّذَائِلِ، وَ جَعَلْتَهٗ اَفْضَلَ مَنْ تَشَرَّفَ بِهٖ سَائِرُ الْقَبَائِلِ، بَهِيِّ الْبَهْجَةِ، وَ مُقِيْمِ الْحُجَّةِ، اَشْرَفُ مَنْ مَّشٰى عَلَى الثَّرٰى، وَ اَجَلُّ نَبِيٍّ شَرَّفَهُ اللهُ بَيْنَ الْوَرٰى، صَلَاةً تُلْزِمُنِي اللّٰهُمَّ بِهَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، يَا مُقْسِطُ، يَا جَامِعَ كَلِمَةِ التَّقْوٰى كَمَآ اَلْزَمْتَ حَبِيْبَكَ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَيْثُ قُلْتَ {فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ} بِحَقِّ عَبْدِكَ يَزِيْدَ بْنِ الْاَخْنَسِ،


يَزِيْدَ بْنِ الْحَارِثِ، يَزِيْدَ بْنِ حَرَامٍ، يَزِيْدَ بْنِ زَفِيْشٍ، يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ، يَزِيْدَ بْنِ الْمُنْذِرِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَعْوَرِ، اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ، اَبُوْ حَبَّةَ بْنِ ثَابِتٍ، اَبُوْ حَبَّةَ بْنِ مَالِكٍ، اَبُوْ حَبِيْبِ بْنِ يَزِيْدَ، اَبُوْ حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، اَبُوْ حَسَنِ نِ الْاَنْصَارِيِّ، اَبُوْ خَارِجَةَ، اَبُوْ خَلَّادٍ، اَبُوْ خُزَيْمَةَ، اَبُوْ دَاوٗدَ، اَبُوْ سَبْرَةَ، اَبُوْ سُلَيْطٍ، اَبُوْ سَلَمَةَ، اَبُوْ سُفْيَانَ، اَبُوْ شَيْخٍ خُرْمَةَ اَبُوْ ضِيَاحٍ، اَبُوْ طَلْحَةَ، اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، اَبُوْ عَقِيْلٍ، اَبُوْ قَتَادَةَ، اَبُوْ قَيْسِ بْنِ الْمُعَلّٰى، اَبُوْ كَبْشَةَ، اَبُوْ لُبَابَةَ، اَبُوْ مَخْشِىْ، اَبُوْ مُرْشِدٍ، اَبُوْ مَسْعُوْدِ نِ الْبَدْرِيِّ، اَبُوْ مَلِيْلِ بْنِ الْاَزْعَرِ، اَبُوْ الْهَيْثَمِ، اَبُوْ اَيَسَرَ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ، اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِهِمْ وَ بِجَاهِهِمْ عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

29 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ، مِفْتَاحِ الْعُلُوْمِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ مِصْبَاحِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ، وَ مِشْكَاةِ اللَّمْعَةِ الدَّيْمُوْمِيَّةِ، وَ نُخْبَةِ الْخِيَرَةِ النُّوْرَانِيَّةِ، الْقَائِمِ عَلٰى قَدَمِ الْعُبُوْدِيَّةِ، وَ الْحَاضِرِ فِيْكَ لَكَ بِصُنُوْفِ الْغُيُوْبِيَّةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنِيْ اللّٰهُمَّ بِهَا مِنْ كُلِّ هَمٍّ وَّ بَلِيَّةٍ وَّ تَوَلَّنِيْ بِهَا يَا غَنِيُّ، يَا مُغْنِيْ، يَا مَانِعُ بِالْوِلَايَةِ وَ الْعِنَايَةِ وَ الرِّعَايَةِ وَ السَّلَامَةِ بِحَقِّ اَهْلِ بَدْرٍ، يَا سَيِّدَنَا اَبَا اَيْمَنَ الْخَزْرَجِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَا سَيِّدَنَا اَبَا حَيَّةَ الْاَوْسِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، تَوَسَّلْتُ بِكُمْ وَ الْتَمَسْتُ فِيْكُمْ.

30 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ هُوَ عَيْنُ الْعِنَايَةِ، وَ بَاءُ الْبِدَايَةِ، وَ دَالُ الدَّوَامِ، وَ كَافُ الْكِفَايَةِ، وَ وَاوُ الْوِقَايَةِ، وَ لَامُ اللُّطْفِ، وَ كَافُ الْكَمَالِ، الشَّفِيْقِ الرَّفِيْقِ حَمِيْدِ الْخِصَالِ، صَلَاةً تُكْرِمُنِيْ بِهَا اللّٰهُمَّ يَا ضَارُّ، يَا نَافِعُ، يَا نُوْرُ بِالسَّعَادَةِ وَ السِّيَادَةِ وَ الْكَرَامَةِ بِحَقِّ اَهْلِ بَدْرٍ، يَا سَيِّدَنَا اَبَا حَرَامِ نِ الْاَوْسِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَا سَيِّدَنَا اَبَا يَزِيْدِ نِ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، تَوَسَّلْتُ بِكُمْ وَ الْتَمَسْتُ فِيْكُمْ.

31 وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْكَوْكَبِ النُّوْرَانِيِّ، وَ السِّرَاجِ الرَّبَّانِيِّ، الْمُتَوَقِّدِ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ، غَيْبِ اللهِ الَّذِيْ لَا يُحِيْطُ بِهٖ اَحَدٌ، نَاصِحِ الْاُمَّةِ وَ كَاشِفِ الْغُمَّةِ، اَكْرَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ الذِّكْرِ الْعَظِيْمِ { نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ } صَلَاةً تَتُوْبُ اللّٰهُمَّ بِهَا عَلَيَّ يَا هَادِيْ، يَا بَدِيْعُ، يَا بَاقِيْ، تَوْبَةً نَّصُوْحًا ، بِحَقِّ اَهْلِ بَدْرٍ يَا سَيِّدَنَا اَبَا سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَا سَيِّدَنَا اَبَا هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، تَوَسَّلْتُ بِكُمْ وَ الْتَمَسْتُ فِيْكُمْ وَ بِفَضْلِ اللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَّا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ، وَلَا تَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ، اَنْتَ الْبَاقِيْ بِلَا زَوَالٍ، اَنْتَ الْغَنِيُّ بِلَا مِثَالٍ، اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ مَلَاَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ، وَ بِمَا وَسِعَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَ جَلَالِكَ وَ جَمَالِكَ وَ بَهَائِكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى اَشْرَفِ مَخْلُوْقَاتِكَ وَ زَيْنِ عِبَادِكَ وَ عُبَيْدِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اٰلِ بَيْتِهٖ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضٰى نَفْسِكَ، وَ زِنَةَ عَرْشِكَ، وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ، عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ مَا تَخْلُقُ وَ مَا اَنْتَ خَالِقُهٗ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ، صَلَاةً تُسْكِنُنِيْ اللّٰهُمَّ بِهَا يَا وَارِثُ، يَا رَشِيْدُ، يَا صَبُوْرُ، جَنَّةً اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ { دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }.





وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

وِرْدُ الْجُيُوْبِ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ ﷺ

للشيخ الجزولی

صِيْغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبۃ القادریۃ 6
الباکستان
0092-3335187573

ورد الجیوب فی الصلاۃ علی الحبیب المحبوب

کتاب ''**ورد الجیوب**'' عارفِ ربانی حضرت سیدی احمد بن عبدالعزیز الجزولی الرسموقی الیقمونی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفِ مبارکہ ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اِس کتاب میں دلائل الخیرات اور ریاض الابرار سے دُرود وسلام تحریر کئے ہیں۔

مذکورہ بالا کتاب اُن لوگوں کیلئے فائدہ مند ہوگی جو دلائل الخیرات پڑھنے سے قاصر ہیں۔

ورد الجیوب
فی الصلاۃ
علی الحبیب المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم

سیدی احمد بن عبدالعزیز الجزولی الرسموقی الیقمونی رحمۃ اللہ علیہ

وِرْدُ الْجُيُوْبِ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ مَلَأَتْ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ وَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ لِسَانَهٗ مِنْ لَذِيْذِ خِطَابِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مَّسْرُوْرًا مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا مُّتَوَّجًا مَّحْبُوْرًا۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْفَاتِحِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ رَحْمَةِ اللهِ لِلْعَالَمِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ مَا وُلِدَ قَطُّ مِثْلُهٗ فِى الْوُجُوْدِ، فَاَسْئَلُكَ يَآ اَللهُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ الْحَافِظُ الرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ، يَآ اَللهُ الْحَيُّ الْجَلِيْلُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ اَنْ تَعْصِمَنِىْ فِىْ دَارِ الدُّنْيَا اَبَدًا۔

4 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَآئِلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا وَّ اَسْنٰى سَلَامِكَ اَبَدًا مُّجَدَّدًا عَلٰى اَشْرَفِ الْخَلَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ مَجْمَعِ الْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَ شَمْسِ الشَّرِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ طِرَازِ الْحُلَّةِ الْعِرْفَانِيَّةِ وَ نَاصِرِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ، وَ عَيْنِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ كَنْزِ الْهِدَايَةِ الْاِلٰهِيَّةِ مَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ عَرُوْسِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَ اَمِيْنِ الْمَمْلَكَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَ اِمَامِ الرُّسُلِ وَ الْمَلَآئِكَةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ وَ مُقَدَّمِ جُيُوْشِ الْمُرْسَلِيْنَ، قَآئِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ مَظْهَرِ سِرِّ اَسْرَارِ الْوُجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ اَلْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، اَلْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ الْجَلِيْلِ الْاَعْظَمِ وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ نَبِيِّكَ الْعَظِيْمِ وَ رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ الْهَادِىْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ عَيْشِىْ كَدًّا وَّلَا تَجْعَلْ دُعَآئِىْ رَدًّا وَّلَا تَجْعَلْنِىْ لِغَيْرِكَ عَبْدًا وَّلَا تَجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ لِسِوَاكَ وُدًّا اِنِّىْ لَآ اَقُوْلُ لَكَ ضِدًّا وَّلَا شَرِيْكًا وَّلَا نِدًّا۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ نَفْسًا قَانِعَةً ، بِعَطَآئِكَ مُوْقِنَةً ، بِلِقَآئِكَ شَاكِرَةً لِّنَعْمَآئِكَ مُحِبَّةً لِّاَوْلِيَآئِكَ بَاغِضَةً لِّاَعْدَآئِكَ ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَّ كَمَالِهٖ ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً تَزِنُ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوَاتِ وَ مَا فِيْ عِلْمِكَ عَدَدَ جَوَاهِرِ اَفْرَادِ كُوْرَةِ الْعَالَمِ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰهُمَّ كَمَا لَطُفْتَ فِيْ عَظَمَتِكَ دُوْنَ اللُّطَفَآءِ ، وَ عَلَوْتَ بِعَظَمَتِكَ عُلُوَّ الْعُظَمَآءِ وَ عَلِمْتَ مَا تَحْتَ اَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَ كَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّدُوْرِ كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ ، وَ عَلَانِيَةُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِيْ عِلْمِكَ ، وَ انْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِّعَظَمَتِكَ ، وَ خَضَعَ كُلُّ ذِيْ سُلْطَانٍ لِّسُلْطَانِكَ ، وَ كَانَ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ كُلُّهٗ بِيَدِكَ ، اِجْعَلْ لِّيْ مِنْ كُلِّ هَمٍّ اَمْسَيْتُ فِيْهِ فَرَجًا وَّ مَخْرَجًا ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذُنُوْبِيْ ، وَ تَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيْئَتِيْ ، وَ سَتْرَكَ عَنْ قَبِيْحِ عَمَلِيْ ، اَطْمَعَنِيْ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَا اَسْتَوْجِبُهٗ مِمَّا قَصَّرْتُ فِيْهِ اَدْعُوْكَ اٰمِنًا وَّ اَسْئَلُكَ مُسْتَاْنِسًا فَاِنَّكَ الْمُحْسِنُ اِلَيَّ وَ اَنَا الْمُسِيْئُ اِلٰى نَفْسِيْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ، تَتَوَدَّدُ اِلَيَّ بِالنِّعَمِ وَ اَتَبَغَّضُ اِلَيْكَ بِالْمَعَاصِيْ ، وَ لٰكِنَّ الثِّقَةَ بِكَ حَمَلَتْنِيْ عَلَى الْجُرْاَةِ عَلَيْكَ ، فَعُدَّ بِفَضْلِكَ وَ اِحْسَانِكَ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

10 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ بَرَكَاتُهٗ ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَآ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ ، بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَ لَا مُنْتَهٰى وَ لَا انْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً ، بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَاۤءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ، اَلسَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَاۤئِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً دَاۤئِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَاۤئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا دَاۤئِمًا، وَّ اَسْئَلُكَ دِيْنًا قَيِّمًا، وَّ اَسْئَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا، وَّ اَسْئَلُكَ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَّ اَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَّ اَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَ اَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَّ اَسْئَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ لَمْ اَرَهُ، فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهُ وَ ارْزُقْنِيْ صُحْبَتَهُ، وَ تَوَفَّنِيْ عَلٰى مِلَّتِهِ، وَ اسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَّوِيًّا سَاۤئِغًا هَنِيْئًا لَّا نَظْمَاُ بَعْدَهُ اَبَدًا، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنِّيْ تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا۔

اَللّٰهُمَّ وَ كَمَا اٰمَنْتُ بِهٖ وَلَمْ اَرَهُ فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهُ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اتَّصَلَتِ الْعَيْنُ بِالنَّظَرِ وَ اسْتَمَعَتِ الْاُذُنُ لِلْخَبَرِ وَ تَزَخْرَفَتِ الْاَرْضُ بِالْمَطَرِ، وَ حَجَّ حَاجٌّ وَّ اعْتَمَرَ، وَ لَبّٰى وَ حَلَقَ وَ نَحَرَ، وَ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَ قَبَّلَ الْحَجَرَ، صَلَاةً دَاۤئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ الطَّاهِرِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا رِضًا وَّ لَهٗ جَزَاۤءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَاۤءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاۤءِ وَ الصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَدَاَ مِنْهُ الْحَمْدُ وَ اِلَيْهِ يَعُوْدُ وَ كُلُّ شَيْءٍ كَذٰلِكَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ شِرْكِيْ وَ كُفْرِيْ وَ تَقْصِيْرِيْ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّ ذُنُوْبَنَا كَثِيْرَةٌ وَّ جَلَّتْ عَنِ الصِّفَةِ وَ اِنَّهَا لَصَغِيْرَةٌ فِيْ جَنْبِ عَفْوِكَ وَ اعْفُ عَنَّا يَا مَنْ هُوَ مَوْصُوْفٌ بِالْعَفْوِ وَ الْحِلْمِ وَ السِّتْرِ فَاغْفِرْ لِيْ مَا جَنَيْتُهُ مِنْ يَوْمِ سَطَرْتَهُ عَلَيَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لِيْ فَمَنْ ذَا يُرْجٰى سِوَاكَ وَلَا يَغْفِرُهَاۤ اِلَّاۤ اَنْتَ، لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ عَصَيْتُكَ بِجَهْلِيْ فَاغْفِرْ لِيْ وَ تَحَمَّلْ عَنِّيْ مَا كَانَ مِنِّيْ يَا غَفَّارُ يَا وَهَّابُ هَبْ لِّاَهْلِ تَبَاعَتِنَا مِنْكَ اِحْسَانًا وَّ اِكْرَامًا وَّ اَنْتَ اَهْلُ الْكَرَمِ وَ الْاِحْسَانِ وَ بِالْجُوْدِ مَوْصُوْفٌ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَّ كَمَالِهٖ۔

19 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْحَمْ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

20 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ۔

21 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی كُلِّ نَبِیٍّ وَّ مَلَكٍ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ۔

22 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ نَبِیِّكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضٰی نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔

23 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا سَهٰی عَنْهُ الْغَافِلُوْنَ۔

24 اَللّٰھُمَّ صَلِّ اَبَدًا اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا وَّ زِدْهُ شَرَفًا وَّ تَكْرِیْمًا وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔

25 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً ۢبِدَوَامِكَ۔

26 اَللّٰھُمَّ یَا رَبَّ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ، اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْزِ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

27 اَللّٰھُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ وَ افْعَلْ بِنَا مَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ فَاِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوٰی وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔

28 اَللّٰھُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَاةٍ عَلٰی اَفْضَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْحَبِیْبِ الشَّفِیْعِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِیْمِ الْبَشِیْرِ النَّذِیْرِ السِّرَاجِ الْمُنِیْرِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔

29 اَللّٰھُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّ سَلِّمْ سَلَامًا تَآمًّا عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِیٍّ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰی بِهِ الْحَوَآئِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَ یُسْتَسْقَی الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِیْمِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ۔

30 اَللّٰھُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّ سَلِّمْ سَلَامًا تَآمًّا عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِیَآئِكَ صَلَاةً تُرْضِیْكَ وَ تُرْضِیْهِ وَ تَرْضٰی بِهَا عَنَّا یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ، عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ جَرٰی بِهٖ قَلَمُكَ، وَ عَدَدَ الْاَمْطَارِ وَ الْاَشْجَارِ وَ الْاَحْجَارِ وَ مَلَآئِكَةِ الْجَبَّارِ وَ جَمِیْعِ مَا خَلَقَ مَوْلَانَا مِنْ اَوَّلِ الزَّمَانِ اِلٰی اٰخِرِهٖ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ، عَلٰى جَمِيْعِ نِعَمِهٖ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ، صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ سَلِّمْ كَذٰلِكَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَ اَجِرْ يَا مَوْلَانَا خَفِيَّ لُطْفِكَ فِيْ اُمُوْرِنَا وَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ مَا دَامَ مُلْكُكَ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ صَلَاةً دَآئِمَةً تَدُوْمُ بِدَوَامِ مُلْكِكَ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانُ وَ تَعَاقَبَ الْعَصْرَانُ وَ تَكَرَّرَ الْجَدِيْدَانُ وَ انْتَقَلَ الْفَرْقَدَانُ، وَ اَبْلِغْ رُوْحَهٗ وَ رُوْحَ اَهْلِ بَيْتِهٖ مِنَّا تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا وَّ بَارِكْ عَلَيْهِ كَثِيْرًا۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً لَّا نِهَايَةَ لَهَا كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَّ كَمَالِهٖ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ سَيِّدِ الْاَصْفِيَآءِ وَ مَصُوْنِ الْاَسْرَارِ وَ مَنْبَعِ الْاَنْوَارِ وَ جَمَالِ الْكَوْنَيْنِ وَ شَرَفِ الدَّارَيْنِ وَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابَ قَوْسَيْنِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ نِعَمِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَ اَفْضَالِهٖ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰدَمَ وَ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَا بَيْنَهُمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِعَظَمَةِ الْاُلُوْهِيَّةِ وَ بِاَسْرَارِ الرَّبُوْبِيَّةِ وَ بِالْعِزَّةِ السَّرْمَدِيَّةِ وَ بِحَقِّ ذَاتِكَ الْمُنَزَّهَةِ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَ الشِّبْهِيَّةِ وَ بِحَقِّ مَلَآئِكَتِكَ اَهْلِ الصِّفَةِ الْجَوْهَرِيَّةِ وَ بِعَرْشِكَ الَّذِيْ تَغْشَاهُ الْاَنْوَارُ وَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَسْرَارِ اَنْ تَرْزُقَنِيَ الْاِسْتِقَامَةَ وَ الْمَوْتَ عَلٰى دِيْنِكَ وَ عَلَى السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ فِيْ طَيْبَةٍ، يَا قُدُّوْسُ قَدِّسْنِيْ عَنِ الْعُيُوْبِ وَ الْاٰفَاتِ وَ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ اكْشِفْ يَا رَبِّ حِجَابَ الظُّلُمَاتِ وَ اَرِنِيْ بِنُوْرِكَ مَا اَظْهَرْتَهٗ لِعِبَادِكَ اَهْلِ الْقُلُوْبِ الطَّاهِرَةِ وَلَا تَجْعَلْنِيْ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ مِمَّنْ يَّغْشٰى قُلُوْبُهُمْ بِظُلَمِ

الظُّلُمَاتِ يَا مَنْ كَسٰى قُلُوْبَ الْعَارِفِيْنَ بِنُوْرِ الْاُلُوْهِيَّةِ فَلَمْ تَسْتَطِعِ الْمَلَآئِكَةُ رَفْعَ رُؤُوْسِهِمْ مِنْ سَطْوَةِ الْجَبَرُوْتِيَّةِ يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ يَا عَزِيْزُ اَكْسِنِيْ سِرَّ اَسْمَآئِكَ الْعَزِيْزَةِ وَ اَمِدَّنِيْ بِرَقِيْقَةٍ مِنْ رَّقَآئِقِكَ حَتّٰى نُشَاهِدَ سِرَّ الْاِجَابَةِ مِنْكَ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا حَمِدَكَ الْحَامِدُوْنَ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِحِفْظِكَ الْعَظِيْمِ، وَ بِحَقِّ نُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَ بِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيْمِ، وَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَ جَلَالِكَ وَ جَمَالِكَ وَ بَهَآئِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ، وَ بِحَقِّ اَسْمَآئِكَ الْمَخْزُوْنَةِ الْمَكْنُوْنَةِ الَّتِيْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَآ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَسْئَلُكَ بِالْاِسْمِ الَّذِيْ وَضَعْتَهٗ عَلَى اللَّيْلِ فَاَظْلَمَ وَ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَ عَلَى السَّمٰوٰتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَ عَلَى الْجِبَالِ فَاَرْسَتْ وَ عَلَى الْبِحَارِ وَ الْاَوْدِيَةِ فَجَرَتْ، وَ عَلَى الْعُيُوْنِ فَنَبَعَتْ وَ عَلَى السَّحَابِ فَاَمْطَرَتْ، وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبَةِ فِيْ جَبْهَةِ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبَةِ فِيْ جَبْهَةِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ، وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوْبِ عَلٰى وَرَقِ الزَّيْتُوْنِ، وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الْعِظَامِ الَّتِيْ سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ، وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَا بِهَآ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا هُوْدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَآ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا هَارُوْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَآ اِسْمَاعِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا دَاوٗدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا يَحْيٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَآ اَرْمِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَآ اِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَ عَلٰى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ

قَبْلِ اَنْ تَكُوْنَ السَّمَآءُ مَبْنِيَّةً وَّ الْاَرْضُ مَدْحِيَّةً وَّ الْجِبَالُ مَرْسِيَّةً وَّ الْبِحَارُ مُجْرَاۃً وَّ الْعُيُوْنُ مُنْفَجِرَةً وَ
الْاَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَّ الشَّمْسُ مُضْحِيَّةً وَّ الْقَمَرُ مُضِيئًا وَّ الْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيْرَةً كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ، لَا يَعْلَمُ
اَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ سَمٰوَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ اَرْضِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
مِّلْءَ عَرْشِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرٰى
بِهِ الْقَلَمُ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ سَبْعِ سَمٰوَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَنْتَ خَالِقٌ فِيْهِنَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمٰوَاتِكَ اِلٰٓى اَرْضِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ
الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُّسَبِّحُكَ وَ هَلَّلَكَ وَ يُكَبِّرُكَ وَ يُعَظِّمُكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ
الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَنْفَاسِهِمْ وَ اَلْفَاظِهِمْ وَ اَلْحَاظِهِمْ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيْهِمْ مِّنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ
الذَّارِيَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ وَ حَرَّكَتْهُ مِنَ الْاَغْصَانِ وَ الْاَشْجَارِ وَ
الْاَوْرَاقِ وَ الثِّمَارِ، وَ جَمِيْعِ مَا خَلَقْتَ عَلٰٓى اَرْضِكَ، وَ مَا بَيْنَ سَمٰوَاتِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ اَرْضِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَ اَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّآ اَنْتَ وَ مَآ اَنْتَ
خَالِقُهٗ فِيْهَآ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ سَبْعِ بِحَارِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ
مِمَّا حَمَلَتْ وَ اَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ۔

55 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَمْوَاجِ بِحَارِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ
يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

56 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصَا فِيْ مُسْتَقَرِّ الْاَرَضِيْنَ وَ سَهْلِهَا وَ جِبَالِهَا مِنْ

يَّوۡمِ خَلَقۡتَ الدُّنۡيَا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ فِىۡ كُلِّ يَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّةٍ۔

57 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اِضۡطِرَابِ الۡمِيَاهِ الۡعَذۡبَةِ وَ الۡمَالِحَةِ مِنۡ يَّوۡمِ خَلَقۡتَ الدُّنۡيَا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ فِىۡ كُلِّ يَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّةٍ۔

58 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقۡتَهٗ عَلٰى جَدِيۡدِ اَرۡضِكَ فِىۡ مُسۡتَقَرِّ الۡاَرَضِيۡنَ شَرۡقِهَا وَ غَرۡبِهَا وَ سَهۡلِهَا وَ جِبَالِهَا وَ اَوۡدِيَتِهَا وَ عَارِمِهَا وَ غَارِمِهَا اِلٰى سَآئِرِ مَا خَلَقۡتَهٗ عَلَيۡهَا وَ مَا فِيۡهَا مِنۡ حَصَاةٍ وَّ مَدَرٍ وَّ حَجَرٍ مِّنۡ يَّوۡمِ خَلَقۡتَ الدُّنۡيَا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ فِىۡ كُلِّ يَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّةٍ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ࣙالنَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ الۡاَرۡضِ مِنۡ قِبۡلِهَا وَ شَرۡقِهَا وَ غَرۡبِهَا وَ سَهۡلِهَا وَ جِبَالِهَا وَ اَوۡدِيَتِهَا وَ اَشۡجَارِهَا وَ ثِمَارِهَا وَ اَوۡرَاقِهَا وَ زُرُوۡعِهَا وَ جَمِيۡعِ مَا تَخۡرُجُ مِنۡ نَّبَاتِهَا وَ بَرَكَاتِهَا مِنۡ يَّوۡمِ خَلَقۡتَ الدُّنۡيَا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ فِىۡ كُلِّ يَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّةٍ۔

60 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعۡرَةٍ فِىۡ اَبۡدَانِهِمۡ وَ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ وَ عَلٰى رُؤُوۡسِهِمۡ مُّنۡذُ خَلَقۡتَ الدُّنۡيَا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ فِىۡ كُلِّ يَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّةٍ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيۡرِ وَ طَيَرَانِ الۡجِنِّ وَ الشَّيَاطِيۡنِ مِنۡ يَّوۡمِ خَلَقۡتَ الدُّنۡيَا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ فِىۡ كُلِّ يَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّةٍ۔

62 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيۡمَةٍ خَلَقۡتَهَا عَلٰى جَدِيۡدِ اَرۡضِكَ مِنۡ صَغِيۡرٍ اَوۡ كَبِيۡرٍ فِىۡ مَشَارِقِ الۡاَرۡضِ وَ مَغَارِبِهَا مِنۡ اِنۡسِهَا وَ جِنِّهَا وَ مِمَّا لَا يَعۡلَمُ عِلۡمَهٗ اِلَّا اَنۡتَ مِنۡ يَّوۡمِ خَلَقۡتَ الدُّنۡيَا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةِ فِىۡ كُلِّ يَوۡمٍ اَلۡفَ مَرَّةٍ۔

63 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنۡ يُّصَلِّىۡ عَلَيۡهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنۡ لَّمۡ يُّصَلِّ عَلَيۡهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الۡقَطۡرِ وَ الۡمَطَرِ وَ النَّبَاتِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَيۡءٍ۔

64 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ فِى اللَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ فِى النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الۡاٰخِرَةِ وَ الۡاُوۡلٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ شَآبًّا زَكِيًّا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ كَهۡلًا مَّرۡضِيًّا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ مُّنۡذُ كَانَ فِى الۡمَهۡدِ صَبِيًّا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبۡقٰى مِنَ الصَّلَاةِ شَيۡءٌ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَعۡطِ سَيِّدَنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدَا ࣙالۡمَقَامَ الۡمَحۡمُوۡدَ الَّذِىۡ وَعَدۡتَّهٗ، الَّذِىۡ اِذَا قَالَ صَدَّقۡتَهٗ، وَ اِذَا سُئِلَ اَعۡطَيۡتَهٗ، اَللّٰهُمَّ وَ اَعۡظِمۡ بُرۡهَانَهٗ وَ شَرِّفۡ بُنۡيَانَهٗ وَ اَبۡلِجۡ حُجَّتَهٗ وَ بَيِّنۡ فَضِيۡلَتَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ وَ تَقَبَّلۡ شَفَاعَتَهٗ فِىۡ اُمَّتِهٖ وَ اسۡتَعۡمِلۡنَا بِسُنَّتِهٖ وَ تَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ احۡشُرۡنَا فِىۡ زُمۡرَتِهٖ وَ تَحۡتَ لِوَآئِهٖ وَ اجۡعَلۡنَا مِنۡ رُّفَقَآئِهٖ وَ اَوۡرِدۡنَا حَوۡضَهٗ وَ اسۡقِنَا بِكَاۡسِهٖ وَ انۡفَعۡنَا بِمَحَبَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اٰمِيۡنَ۔

وَ اَسۡئَلُكَ بِاَسۡمَآئِكَ الَّتِىۡ دَعَوۡتُكَ بِهَآ اَنۡ تُصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَصَفۡتُ وَ مِمَّا لَا يَعۡلَمُ

عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنْ تَرْحَمَنِيْ وَ تَتُوْبَ عَلَيَّ وَ تُعَافِيَنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَ الْبَلْوَآءِ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ تَرْحَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فُلَانِ بْنِ
فُلَانٍ، الْخَاطِئِ الضَّعِيْفِ، وَ أَنْ تَتُوْبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. اَللّٰهُمَّ آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ جَلَالِكَ وَ بَهَآئِكَ وَ سُلْطَانِكَ، وَ بِحَقِّ
اِسْمِكَ الْمَخْزُوْنِ الَّذِيْ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ وَ أَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ
تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ، وَ أَسْئَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيْتَ بِهٖ أَجَبْتَ وَ إِذَا
سُئِلْتَ بِهٖ أَعْطَيْتَ، وَ أَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهٗ عَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَ عَلَى
السَّمٰوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَ عَلَى الصَّعْبَةِ فَذَلَّتْ وَ عَلَى السَّمَآءِ
فَأَمْطَرَتْ، وَ أَسْئَلُكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ نَّبِيُّكَ، وَ أَسْئَلُكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ آدَمُ نَبِيُّكَ، وَ
أَسْئَلُكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ أَنْبِيَآؤُكَ وَ رُسُلُكَ وَ مَلَآئِكَتُكَ الْمُقَرَّبِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، وَ أَسْئَلُكَ بِمَا
سَئَلَكَ بِهٖ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا
خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُوْنَ السَّمَآءُ مَبْنِيَّةً وَّ الْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَّ الْجِبَالُ مَرْسِيَّةً وَّ الْعُيُوْنُ مُنْفَجِرَةً وَّ الْأَنْهَارُ
مُنْهَمِرَةً وَّ الشَّمْسُ مُضْحِيَّةً وَّ الْقَمَرُ مُضِيْئًا وَّ الْكَوَاكِبُ مُنِيْرَةً۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ مِنْ عِلْمِكَ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ
عِنْدَكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ سَمٰوَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ أَرْضِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ مَا أَنْتَ خَالِقُهٗ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوْفِ الْمَلَآئِكَةِ وَ تَسْبِيْحِهِمْ وَ
تَقْدِيْسِهِمْ وَ تَحْمِيْدِهِمْ وَ تَمْجِيْدِهِمْ وَ تَكْبِيْرِهِمْ وَ تَهْلِيْلِهِمْ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَ الرِّيَاحِ
الذَّارِيَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمٰوَاتِكَ
إِلٰى أَرْضِكَ وَ مَا تَقْطُرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَمَا تَقْطُرُ

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَ عَدَدَ مَا
تَحَرَّكَتِ الْأَشْجَارُ وَ الْأَوْرَاقُ وَ الزَّرْعُ وَ جَمِيْعُ مَا خَلَقْتَ فِيْ قَرَارِ الْحِفْظِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلٰى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ۔

وَالزُّرُوْعُ وَجَمِيْعِ

71 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ وَ النَّبَاتِ مِنْ یَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

72 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُوْمِ فِی السَّمَآءِ مِنْ یَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

73 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِیْ بِحَارِكَ السَّبْعَۃِ مِمَّا لَا یَعْلَمُ عِلْمَہٗ اِلَّا اَنْتَ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقُہٗ فِیْھَآ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

74 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصَا فِیْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِھَا۔

75 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقُہٗ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

76 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَنْفَاسِھِمْ وَ اَلْفَاظِھِمْ وَ اَلْحَاظِھِمْ مِنْ یَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

77 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَیَرَانِ الْجِنِّ وَ الْمَلٰٓئِکَۃِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

78 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطُّیُوْرِ وَ الْھَوَآمِّ وَ عَدَدَ الْوُحُوْشِ وَ الْاٰکَامِ فِیْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِھَا۔

79 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَحْیَآءِ وَ الْاَمْوَاتِ۔

80 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَیْہِ اللَّیْلُ وَ اَشْرَقَ عَلَیْہِ النَّھَارُ مِنْ یَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

81 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی رِجْلَیْنِ وَ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی اَرْبَعٍ مِنْ یَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

82 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰی عَلَیْہِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الْمَلٰٓئِکَۃِ مِنْ یَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ۔

83 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ یُصَلِّ عَلَیْہِ۔

84 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا یَنْبَغِیْ اَنْ یُّصَلّٰی عَلَیْہِ۔

85 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی شَیْءٌ مِّنَ الصَّلَاۃِ عَلَیْہِ۔

86 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِیْنَ، وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ، وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَاِ الْاَعْلٰی اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ، مَا شَآءَ اللہُ لَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۔


اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ شَاْنَهٗ وَ بَيِّنْ بُرْهَانَهٗ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ بَيِّنْ فَضِيْلَتَهٗ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهٗ فِيْ اُمَّتِهٖ وَ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهٖ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَيَارَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔

اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ وَ اسْقِنَا بِكَاْسِهٖ وَ انْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهٖ اٰمِيْن يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۔

اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ بَلِّغْهُ عَنَّا اَفْضَلَ السَّلَامِ وَ اجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهٖ النَّبِيَّ عَنْ اُمَّتِهٖ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۔

اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ تَرْحَمَنِيْ وَ تَتُوْبَ عَلَيَّ وَ تُعَافِيَنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَ الْبَلْوَآءِ الْخَارِجِ مِنَ الْاَرْضِ وَ النَّازِلِ مِنَ السَّمَآءِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِرَحْمَتِكَ، وَ اَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ، وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اَصْحَابِهِ الْاَعْلَامِ اَئِمَّةِ الْهُدٰى وَ مَصَابِيْحِ الدُّنْيَا وَ عَنِ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔





وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اِغَاثَةُ الْقَلْبِ اللَّاهِی بِالصَّلَاةِ عَلٰی اَکْرَمِ رُسُلِ اللّٰهِ ﷺ

الشریف محمد حمزة بن علی بن المنتصر الکتانی

صِیْغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِیْمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادریة 7 الباکستان
0092-3335187573

اغاثة القلب اللاهی

دُرود وسلام کا یہ مہکتا ہوا گلدستہ الشریف محمد حمزہ بن علی بن المنتصر الکتانی کی تالیف مبارکہ ہے، جس کو ایک سیدزادے محمد حمزہ بن الکتانی نے اکٹھا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا۔ کتاب ہٰذا جو ہمارے زیرِ نظر رہی اُس کے اولین صفحہ کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

إغاثة القلب اللّاهي

بالصلاة على أكرم رسل الله ﷺ

للشريف محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتّاني

جمعها وقدم لها

الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني

إِغَاثَةُ الْقَلْبِ اللَّاهِي بِالصَّلَاةِ عَلٰى اَكْرَمِ رُسُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَرْفِ "الف"

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا اَحْمَدَ الَّذِيْ جَعَلْتَ اِسْمَهٗ مُتَّحِدًا ، بِاِسْمِكَ وَ نَعْتِكَ وَ صُوْرَةَ هَيْكَلِهِ الْجِسْمَانِيِّ عَلٰى صُوْرَةِ اُنْمُوْذَجِ حَقِيْقَةٍ خَلَقَ اللهُ سَيِّدَنَا آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ وَ فَجَّرْتَ عُنْصُرَ مَوْضُوْعِ مَادَّةِ مَحْمُوْلِهٖ مِنْ آنِيَةٍ: اَنَا اللهُ، بَلْ حَتّٰى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّ وَجَدَ اللهَ عِنْدَهٗ وَ آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

2 وَ صَلِّ بِهَا عَلٰى مَنْ هُوَ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ، وَ مُقْتَدَى الْاَسْخِيَاءِ، وَ بَلِيْغُ الْبُلَغَاءِ، وَ سَلِيْلُ الْفُصَحَاءِ، مَنْ تَقَطَّعَ دُوْنَ عَدِّ فَضَائِلِهِ الْاِمْلَاءُ، وَ دَرْكُ مَقَامِهٖ اَهْلُ الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ، وَ مَعْرِفَةُ كَمَالَاتِهٖ اَسَاطِيْنُ الْعَارِفِيْنَ وَ الْعُلَمَاءِ، وَ الْاِحَاطَةُ بِمَعَانِيْ كَلَامِهٖ نَوَابِغُ النُّبَغَاءِ، بِلَا عِنَاءٍ، وَّلَا الْتِوَاءٍ، وَّلَا امْتِرَاءٍ، عَنَتْ لِرِسَالَتِهٖ كُمَّلُ الْكُمَلَاءِ، وَ دَهَقَتْ مِنْ شَرِيْعَتِهِ الرُّسُلُ وَ الْاَنْبِيَاءُ، وَ تَبَاهَتْ بِدَعْوَتِهٖ اُمَّةُ الْاِسْلَامِ عَلَى الْاُمَمِ جَمْعَاءَ، فَكَانَتْ شَرِيْعَتُهُ الْعُصَمَاءَ، وَ تَجَرَّعَ اَعْدَاؤُهُ اللَّأْوَاءَ، وَ اَلْبَسَ جَلَابِيْبَ الْبَهَاءِ۔

3 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ وَّصَفْتَهٗ بِوَصْفَيْكَ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْاَسْمَاءِ، صَاحِبِ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ الْحَيَاءِ، الطَّاهِرِ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ وَ الْفِنَاءِ، الْعَابِدِ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِيْ لَحْظَةٍ فِي الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ، الْمُسْتَقِيْ مِنْ كَلَامِهٖ عُلُوْمَ الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ، وَ مِنْهُ اقْتَدٰى اَصْحَابُ الْعَرَبِيَّةِ الْعُرْبَاءِ، فَكَلَّتْ دُوْنَ حَصْرِ مَزَايَاهُ الْعُلَمَاءُ الْفُصَحَاءُ۔

حَرْفِ "ب"

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ بِهَا يَا رَبَّنَا عَلٰى هٰذَا الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ، طَبِيْبِ الْقُلُوْبِ، اَمِيْنِ الْغُيُوْبِ، ذِي الْخُلُقِ الْمَوْهُوْبِ، وَ الشَّوْقِ الْمَلْهُوْبِ، وَ الْمَكَانِ الْمَقْرُوْبِ، مِنْ مَّحَاسِنِهٖ تَذْهَبُ بِالْاَلْبَابِ، وَ عُلُوْمِهٖ لِلْحَقِّ اَبْوَابٌ، وَّ سِيْرَتِهٖ تَهْدِي الْمُرْتَابَ، وَ مَنْسِلِهٖ خَيْرُ الْاَصْلَابِ، وَ صِفَتِهٖ آيٌ فِي الْكِتَابِ، اَخْرَجَنَا مِنْ ظُلَمِ الْاَثْوَابِ، وَ هَدَانَا رَبُّ الْاَرْبَابِ، اَمَرَ النِّسَآءَ بِالْحِشْمَةِ وَ الْحِجَابِ، وَ نَهٰى عَنِ اللَّغْوِ وَ الْاِغْتِيَابِ، وَ جَعَلَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ لِلْجَنَّةِ اَقْرَبَ اَبْوَابٍ۔

5 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى عَبْدِ الرَّبِّ، الرَّسُوْلِ الْاَقْرَبِ، وَ النَّاطِقِ الْاَعْرَبِ، الْبَازِي الْاَشْهَبِ، وَ الْمُحَدِّثِ الْاَنْجَبِ، مَنْ بِذِكْرِهٖ تَشْفِي الْقُلُوْبُ، وَ يَرْفَعُ اللُّغُوْبُ، وَ تَكْمُلُ الْاَلْبَابُ، وَ تَقْرُبُ الْاَسْبَابُ، وَ تَكْسُرُ الْاَنْصَابُ، وَ يَعْبُدُ الْوَهَّابُ، بِلَا ارْتِيَابٍ، وَّلَا عِتَابٍ، وَّلَا اكْتِئَابٍ، عَدُوُّهٗ خَابَ، مُحِبُّهٗ طَابَ، كَعْبَةِ الْاَحْبَابِ، مُؤْوِي الْغَرِيْبِ، مُعِيْنِ الْكَرِيْبِ، فَوْحِ الطِّيْبِ۔

حَرْفِ ''ت''

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلٰی جَامِعِ الْاَشْتَاتِ، وَ رَافِعِ الرَّایَاتِ، وَ صَاحِبِ الْاٰیَاتِ، وَ کَاشِفِ الظُّلُمَاتِ، الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ، وَ النِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ، الْاٰتِیْ بِالْبَیِّنَاتِ، النُّوْرِ فِی الْمِشْکٰوةِ، الْقَآئِلِ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، مَنْ مَّکَانَتُهٗ اَرْبَتْ، وَ شَرِیْعَتُهٗ زَکَتْ، وَ اَتْبَاعُهٗ اَعْطَتْ، بَسَاتِیْنُهٗ اَزْهَرَتْ، بِالنُّوْرِ اَبْرَقَتْ، وَ الْهُدٰی اَسْفَرَتْ، فِی الدِّیْنِ وَ الْحَیَاةِ، جَآءَ بِالصَّلٰوةِ، وَ اَمَرَ بِالزَّکٰوةِ، وَ رَفَعَ الرَّاْیَاتِ، وَ نَشَرَ الْهِدَایَاتِ، بِاَنْوَاعِ الدِّرَایَاتِ۔

7 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ رَّقٰی فَوْقَ السَّمٰوٰتِ، وَ تَجَلّٰی بِلَا مُبَاهَاتٍ، اَضَآءَتْ بِهِ الْمَسْمُوْکَاتُ، نِعْمَتُهٗ حَقَّتْ، هِدَایَتُهٗ اَتَتْ، بِالنُّوْرِ تَشَعْشَعَتْ، لِتَکْمُلَ الْهِدَایَاتُ، وَ نَجْتَلِی الْاٰیَاتِ، وَ نَبْلُغُ النِّهَایَاتِ، وَ تَطْمِسُ الْغَوَایَاتُ، وَ یَظْهَرُ الْحَقُّ بِالْغَایَاتِ، اَرْبٰی عَلٰی دُرَّةٍ، عَلَی الْمُجَرَّدَةِ، تَأْتِیْ بِضَوْاَةٍ، مِّنْهَا السَّمٰوٰتُ، وَ فِیْهِ حَقَّتْ، مُحْکَمُ الْاٰیَاتِ۔

حَرْفِ ''ث''

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا رَبَّنَا وَ سَلِّمْ عَلٰی عَبْدِ الْبَاعِثِ، النَّبِیِّ الْوَارِثِ، ذِی الْغَیْثِ مِنَ الْهِدَایَةِ الْغَائِثِ، ذِی السَّعْیِ الْحَثِیْثِ، وَ جَوَامِعِ الْحَدِیْثِ، وَ النَّهْجِ الْمُغِیْثِ، مُخَالِفُهٗ نَاکِثٌ، مُحَارِبُهٗ عَابِثٌ، مُوَافِقُهٗ وَارِثٌ، بِلَا تَثْلِیْثٍ، مِنْهُ اسْتَقٰی الْاَغْوَاثُ۔

9 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی آلِهٖ، مَا دَامَ الْغَیْثُ الْغَآئِثُ، وَ الدَّوْرُ الْحَادِثُ، وَ النَّهْجُ الْوَارِثُ، وَ التَّوْفِیْقُ مِنَ الْبَاعِثِ، بِلَا نَکْثٍ، وَّلَا عَبَثٍ، اَلشَّفِیْعِ یَوْمَ الْکَوَارِثِ، وَ الْمُنْجِدِ فِی الْحَوَادِثِ، لِلْحَقِّ بَثٌّ، وَّ الْبَغْیِ رَثٌّ، بِالْغَوْثِ غَآئِثٌ۔

حَرْفِ ''ج''

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ وَ عَلٰی صَاحِبِ الْاِسْرَآءِ وَ الْمِعْرَاجِ، وَ النُّوْرِ الْوَهَّاجِ، وَ اللِّسَانِ اللَّهَّاجِ، طَرِیْقُهٗ اَقْوَمُ مِنْهَاجٍ، مُخَالِفُهٗ فِی الْاَعْوِجَاجِ، مُجَادِلُهُ الْخَصْمُ اللَّجْلَاجُ، وَ تَابِعُهٗ لِلْجَنَّةِ حَاجٌّ، وَ نَهْجُهٗ طِبٌّ وَّ عِلَاجٌ، مَنْ بَذَلَتْ فِیْهِ الْمَهَجُ، وَ بَرَقَتْ مِنْهُ السَّرْجُ، وَ تَقَوَّمَ مِنْهُ الْعِوَجُ، وَ بِشَرْعِهِ الْجَنَّةُ نَلِجُ، مِنْ سِرِّهٖ عَمَّ الْاِبْلَاجِ، وَ بِاَمْرِهٖ حُسْنُ الْاِنْتَاجِ، وَ بِنُوْرِهٖ بَحْرُ الشَّرِیْعَةِ هَاجٍ۔

11 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی ذِی الطَّرْفِ الْاَدْعَجِ، وَ الْوَجْهِ الْاَبْلَجِ، وَ الْحَاجِبِ الْاَزَجِّ، مَنْ لَّوْلَاهُ مَا الْبَحْرُ مَاجَ، وَ مَآ اَتَی الْغَیْثُ الثَّجَّاجُ، وَ مَا تَمَلَّحَتِ الْغُنَاجُ، وَ مَا نَوٰی مَکَّةَ الْحَجِیْجُ، وَ مَآ اَنْبَرَتْ شَمْسُ الْبُرُوْجِ، مُضِیْئَةً مِّنْ کُلِّ فَجٍّ، بِلَا سُکُوْنٍ اَوْ عِوَجٍ، وَ مَا الْهُدٰی قَطُّ اِخْتَلَجَ، وَ مَا تَبَکَّتْ قَطُّ لَجٌّ، وَ مَا بَکٰی مَنْ بِهٖ اِعْتَلَجَ، وَ مَآ اَتٰی قَطُّ الْفَرَجُ، وَلَآ اِعْتَلَی الزَّهْرُ الْاَرَجُّ، وَلَآ اِسْتَضَاحَتِ السَّرْجُ، وَ مَا اسْتَقَامَ لَنَا عُرُوْجٌ۔

حَرْفِ "ح"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْمَلِيْحِ، وَ مَرْجِعِ الْقَوْلِ الْفَصِيْحِ، وَ رَائِدِ النَّهْجِ
12 الصَّرِيْحِ، مَنْ مِّنْهُ يَقْتَبِسُ الْمَلَاحُ، وَ فِيْهِ هَامَ ذَوُوا الصَّلَاحِ، وَ عَنْهُ قَدْ رَوَتِ الصِّحَاحُ، وَ بِهٖ بَشَّرَ
الْمَسِيْحُ، بِظَاهِرِ الْقَوْلِ النَّجِيْحِ، مَنْ رُّزِقَهٗ تَحْتَ الصِّفَاحِ، وَ عَطَفَهُ الْعَطْفُ الصُّرَاحُ، وَ قَصْدُهٗ رَمْزُ
الْفَلَاحِ۔

13 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ رِّيْحُهُ الْمِسْكُ يَفُوْحُ، وَ وَجْهُهُ النُّوْرُ يَلُوْحُ، خِطَابُهٗ حَيَاةُ الرُّوْحِ، وَ بَيْتُهٗ خَيْرُ
مَرَاحٍ، وَ مَدْحُهٗ عَتِيْقُ الرَّاحِ، دَنَتْ لَهٗ شُمُّ الْاَدْوَاحِ، وَ فِي الْحَصِي الذِّكْرُ الصُّرَاحُ، وَ خَيْلُهُ الطَّيْرُ السَّوَّاحُ،
دُعَاؤُهٗ فَلَقُ الصَّبَاحِ، بِقُدْرَةِ التَّوْرَاةِ بَاحٍ، وَ بِفَضْلِهٖ شَرْعُ الْفَتَّاحِ، فَنَهْجُهٗ عَيْنُ الرَّبَاحِ، يَا وَيْحَ مَنْ صَدَّهُ
الْجُنُوْحُ۔

حَرْفِ "خ"

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ بَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْقُرَشِيِّ الْاَحْمَدِيِّ الْمُحَمَّدِيِّ الْقَائِمِ دُوْنَ تَرَاخٍ، نَاشِرِ الْحَقِّ فِي
الدُّوْرِ وَ الْخِيَامِ وَ الْاَكْوَاخِ، مَنْ لِّلْكُفْرِ اَنَاخَ، وَ بِالْفِطْرَةِ آخٰى، وَ بِنَهْجِهٖ دَهَاقِنَةُ الْعُلُوْمِ وَ الْفَلْسَفَةِ اَدَاخَ،
بِهِجْرَتِهٖ نُؤَرِّخُ، وَ بِشِرْعَتِهٖ نُوَبِّخُ، اَزَالَ عَنْ فِكْرِنَا الْاَوْسَاخُ، وَ عَنْ نُفُوْسِنَا الْاَسْبَاخُ، وَ تَعَطَّرَنْ بِهِ
الْمَنَاخُ۔

15 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ شَرَعَ السِّيَاسَةَ وَ نِظَامَ الْحُكْمِ بِلَا تَرَاخٍ، وَ اَمَرَ بِتَقْدِيْمِ الشُّرَفَاءِ وَ
الْعُلَمَاءِ وَ الْاَشْيَاخِ، وَ نَهٰى عَنْ فَلْسَفَاتِ الْكُفْرِ وَ الرِّدَّةِ وَ الْاِنْمِسَاخِ، دَعَا بِلَا تَرَاخٍ، وَلَمْ يُبَالِ بِالصُّرَاخِ
عَلٰى يَدَيْهِ الْكُفْرُ شَاخَ، اَتَمَّ الدِّيْنَ بِلَا شَرْخٍ، وَ اَقَامَ بِعِزَّتِهٖ يَرْخٰى، حَتّٰى اِسْتَوٰى عَلَى الشُّمُوْخِ۔

حَرْفِ "د"

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَنْ هُوَ اَحْمَدُ مَحْمُوْدٌ اَحِيْدٌ مُحَمَّدٌ، نَجْلُ عَدْنَانَ بْنِ اُدٍ، اَلنَّبِيُّ
الْاَمْجَدُ، مَنْ لَا يَحْصُرُ فَضَائِلَهُ الْعَدُّ، بِهِ اللهُ يَهْدِيْ، وَ بِنَهْجِهٖ يَسُدِّيْ، وَ مِنْهُ الْاِمَامُ الْمَهْدِيُّ، ذِي الْمَقَامِ
الْمَحْمُوْدِ، وَ الْوِرْدِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الظِّلِّ الْمَمْدُوْدِ، وَ الْخَيْرِ الْمَدِيْدِ، وَ النَّسْلِ الْقَعِيْدِ، وَ الشَّرْعِ الْجَدِيْدِ، وَ بِهِ
الْخُلُوْدُ، وَ يُرِى الْوَدُوْدُ، دُوْنَ السُّدُوْدِ۔

17 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ انْتَصَرَ الْاِنْتِصَارَ الْحَقِيْقِيَّ فِيْ اُحُدٍ، وَ لَمْ يُظَاهِرْ عَلَيْهِ اَحَدٌ، وَ اَمْرُهٗ هُوَ جِدُّ
الْجِدِّ، مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ دَدٍ، عَلَى الصِّرَاطِ وَ فِي الرُّشْدِ، مُحَرَّمٌ عَنْ اَكْلِ الدُّوْدِ، مُنَزَّهٌ عَنِ الصُّدُوْدِ، وَ مَنْ سَنَاهُ
فَوْحُ الْعُوْدِ، بِهِ اسْتَقٰى كُلُّ الْعِبَادِ، وَ فِيْهِ كُلُّ الْحُسْنِ بَادٍ، وَ عَنْهُ عَيْنُ السُّوْءِ مَادٍ، وَ مِنْهُ يُهْتَدَى السَّدَادُ، جَاءَ
بِوَعْدٍ وَّ وَعِيْدٍ، وَ جَاءَ بِالْقَوْلِ السَّدِيْدِ، وَ جَاءَ بِالصَّوْمِ وَ بِالْعِيْدِ، عَنْ مَّدْحِهِ الْحَصْرُ بَعِيْدٌ، هَيْهَاتَ يَكْفِيْنِي
الْمِدَادُ۔

حَرْفِ "ذ"

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهٖ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّفَاعَةِ الْمَلَاذُ. وَ فِيْهِ بِاُتْبَاعِ نَهْجِهٖ وَ التَّعَلُّقِ بِهِ الْمَلَاذُ. وَبِهٖ وَبِنَهْجِهٖ عَيْنُ الْمَلَاذِ. وَهُوَ عُنْصُرُ الْمَلَاذِ. بِهٖ اِلَى اللهِ الْعِيَاذُ. وَمِنْ عَدُوِّهِ الْعِيَاذُ. وَفِيْ طَرِيْقَهٖ الْعِيَاذُ. بِشَرْعِهٖ اِنِّيْ اَلُوْذُ.

19 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى خَيْرِ مَنْ لَّبِسَ لِلّٰهِ الْخَوْذَ. وَ اَلْبَسَ الْخَوْذَ. وَ قَاتَلَ الْخَوْذَ. عَدُوُّهٗ مَاْخُوْذٌ. وَ حَقُّهٗ مَاْخُوْذٌ. شَرْعُهٗ اَبْهٰى مِنَ الرَّذَاذِ. وَ نَهْجُهٗ لِلْعَقْلِ اُخَاذٌ. وَ فِيْهِ هَانَتِ الْمَلَاذُ. نَبِيُّ الْوَرٰى لَهُمْ اُسْتَاذٌ. وَ فِيْهِ مِنْهُمْ لَهُمْ عِيَاذٌ. وَ اَمَرَهُ بِهِ الْمَلَاذَ. قَدْ فَازَ مَنْ بِهٖ اَخُوْذٌ.

حَرْفِ "ر"

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهٖ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهِ النَّبِيِّ الْاَبَرِّ، اَمِيْنِ الْخَبَرِ. كَاسِرِ خَيْبَرَ. خَلِيْلِ الْخَبِيْرِ. ذِى الْفَضْلِ الْكَبِيْرِ. وَ الْقَدْرِ الْخَطِيْرِ. وَ الْجُوْدِ الشَّهِيْرِ. الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ. السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ. بَدْرِ الْبُدُوْرِ. وَ نُوْرِ النُّوْرِ. قُدْوَةِ الْاَبْرَارِ. وَ الْمُنْقِذِ مِنَ النَّارِ. وَ الْاَمَانِ مِنَ النَّارِ. مَنْ لِّمَشُوْقِهِ النَّارَ. وَلِعَدُوِّهِ النَّارَ. شَتَّانَ بَيْنَ نَارٍ وَّ نَارٍ. زَيْنِ الْاَزْهَارِ. وَرَوْنَقِ الْاَطْيَارِ. وَبَهْجَةِ الْاَنْهَارِ. وَقَآئِدِ الْمَسِيْرِ.

21 وَ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الْمَبْرُوْرِ. الْقَآئِدِ الْمَسْرُوْرِ. مَنْ اَبْعَدَ عَنِ الشُّرُوْرِ. وَ مَا عَرَفَ الثُّبُوْرَ. ذِى الْمَجِلْسِ الْعَطِرِ. وَ السَّيْلِ الْمُنْهَمِرِ. وَ الدِّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ. خَيْرِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ. وَ قَادَ وَ اَمَرَ. وَ رَأْيُهٗ اَمْرٌ. خِلَافُهٗ مُرٌّ. عَدُوُّهٗ غَمْرٌ. وَ خَيْرُهٗ غَمْرٌ. بِهِ الْوَرٰى عُمْرٌ. حَكَتْ فَضْلَهُ الْآيَاتُ وَ السُّوَرُ. وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ مِنَ اللهِ الْخَبَرَ. قُدْوَةُ الصَّغِيْرِ وَ الْكَبِيْرِ.

حَرْفِ "ز"

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ عِتْرَتِهٖ وَ عُلَمَآءِ شَرِيْعَتِهِ النَّبِيِّ الرَّسُوْلِ الْاَعَزِّ. مَنْ لِّلدِّيْنِ رِكْزٌ. وَ الْكُفْرِ غَمْزٌ. ذِى الْقَوْلِ الْجَامِعِ الْاَوْجَزِ. مَنْ لَّآ اَخْفٰى وَلَا عَمٰى وَلَآ اَلْغَزَ. وَلِلدِّيْنِ اَنْجَزَ. عَبْدِ الْعَزِيْزِ. ذِى النَّصْرِ الْوَجِيْزِ. وَ السَّيْفِ الرَّكِيْزِ. وَ الرُّمْحِ النَّغِيْزِ. الْآتِيْ بِالْاِعْجَازِ. وَ الْمُحْكَمِ الْاِنْجَازِ. وَ الْمُتْقِنِ الْاِجْهَازِ.

23 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ لِّلرُّسُلِ وَ الْاَنْبِيَآءِ بِكَمَالَاتِهٖ بَزٌّ. وَ فَضَآئِلِهٖ عِزٌّ. فَكَانَ الْجَوْهَرُ الْاَعَزُّ. كَلَّمَهُ الْمَاعِزُ. وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ الرَّاجِزُ. وَ بَاهَتْ بِهِ الْاَهَاجِزُ. تَاهَتْ بِهِ الْاِلْغَازُ. وَ اجْتِيْزَ بِهِ الْبُوْغَازُ. وَ اَحْكَمَ مِنَ الدِّيْنِ الْاَغْرَازُ. وَهُوَ الْمُقَدِّمُ الْبَرِيْزُ.

حَرْفِ "س"

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ هُوَ عَيْنُ الْاَكْيَاسِ. الْمُسْتَغْفِرِ طُوْلَ الْاَجْلَاسِ. وَ الْمُرْشِدِ خَيْرَ الْجَلَاسِ.

أَشْرَفِ مِنْ ضِمْنِ قِرْطَاسٍ، اَرْحَمِ مِنْ زَارِ الْاَرْمَاسِ، لَيْسَ لَهُ بِالشَّرِّ مَسِيْسٌ، اَللّٰهُ لَهُ فِي الدُّوْمِ اَنِيْسٌ، مَا طَافَ بِهِ اَبَدًا تَفْلِيْسٌ، بِهِ اَزْدَهِيْنَا بَعْدَ عَبُوْسٍ، وَ غَابَ وَجْهٌ مِّنَّا عَبُوْسٌ وَّ زَالَ عَنَّا كُلُّ الْبُؤْسِ، وَ صَارَ الْخَيْرُ خَيْرَ لَبُوْسٍ، وَمِنْهُ ضَاءَتِ الشُّمُوْسُ، وَفِيْهِ طَابَ عَيْشُ النَّاسِ۔

25 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَامَ اِلَى الْغَلَسِ، وَ اَضْحٰى خَيْرَ الْوَرٰى وَ بَسَّ، وَ اَغْمَضَ وَجْهًا هَوَى الطَّلْسِ، مَنْ اَتْرَعْتَ بِهِ الْكُؤُوْسَ، وَ هَامَ فِيْهِ خِيَارُ النَّاسِ، وَ كَانَ فِي الْكَوْثَرِ الْغُمُوْسِ، سَاقِي الْهَيَامِى رُضَابِ الْكَاسِ، وَبَاتَ لِلْجَنَّةِ الْعَرِيْسُ، مِنْ مَّفْلَجِيْهِ زُهَارُ الْاٰسِ، اِلَيْهِ كُلُّ الزُّهُوْرِ مَيْسٌ۔

حَرْفِ "ش"

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ مَّنْ اَسْرَيْتَ بِهِ اِلَى الْعَرْشِ، وَ اجْتَازَ فَوْقَ الْحُجُبِ وَ بَشَّ، نَالَ عِلْمَ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ وَ الْفَرْشِ، اَلْاٰمِرِ بِالصِّدْقِ وَ النَّاهِيْ عَنِ الْغِشِّ، الْبَاسِمِ الْبُشُوْشِ، غَالِبِ الْعُرُوْشِ، هَازِمِ الْاَوْبَاشِ۔

27 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى صَاحِبِ اللِّوَآءِ وَ الْحَوْضِ وَ الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْحِسَابِ قَدْ غَاشَ، وَ الْعَقْلِ قَدْ طَاشَ، وَزَالَتِ الْاَغْبَاشُ، وَسِيْقَ الظُّلْمَةُ كَالْاَكْبَاشِ، وَاَكْرَمَ الْمُتَّقُوْنَ لِلْاَفْرَاشِ، وَ حُمِّلُوْا عَلَى السُّرُوْرِ وَ الْاَعْرَاشِ وَ حَلَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّظْرِ لِوَجْهِ اللهِ الْعَيْشِ۔

حَرْفِ "ص"

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى خَيْرِ مَنْ بِهِ الْقُرْاٰنُ نَصَّ، وَلِاَخْبَارِهِ قَصَّ، وَ بِتَعْظِيْمِ قَدْرِهِ غَصَّ، مَنْ جَآءَ بِالْوَعْظِ وَ الْقِصَصِ، وَ الْحِكْمَةِ وَ الْاِخْلَاصِ، مَنْ كَثُرَ عِنْدَ ظُهُوْرِهِ الْاِرْهَاصُ، وَ دَهَقَ مِنْ مَّعِيْنِ كَمَالَاتِهِ الْعَامَّ وَ الْخَاصَّ، اَلْاٰتِيْ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِاَغْلَى الْفُصُوْصِ، وَ الْمَضْمَنِ اِعْجَازُهُ اَبْلَغَ النُّصُوْصِ، وَ الْمُنْتَمِيْ اِلَيْهِ كُلَّ فَتْحٍ مَّخْصُوْصٍ۔

29 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ نَالَ مِنَ الْمَعَارِفِ الْاِلٰهِيَّةِ اَوْفٰى اِمْتِصَاصٍ، وَّ خُصَّ مِنَ الْجَلَالَةِ الْاِلٰهِيَّةِ اَوْفٰى اِخْتِصَاصٍ، مَنْ لَّيْسَ لِطَالِبِ اللهِ تَعَالٰى عَنْ شَرِيْعَتِهِ مَنَاصٍ، مِنْ عَالِي الْجِنَانِ بِخَاصَّةِ اُمَّتِهِ غَصَّ، وَ حَاسِدِهِ بِزِعَافِ الْغَيْظِ قَدْ غَصَّ، وَ جَامِعِ كَمَالَاتِهِ لِلدُّهُوْرِ وَ الْاَزْمِنِهِ رَصَّ، اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِيْ صِفَاتِ الرَّبِّ تَعَالٰى سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ۔

حَرْفِ "ض"

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ بِاِسْمِهِ تَزَيَّلَ الْاَمْرَاضُ، وَ بِيُمْنِ يُمْنَتِهِ تُطْفِى الْاَعْرَاضُ، وَ بِالتَّوَسُّلِ بِعَلِيِّ قَدْرِهِ تَقْضِى الْاَغْرَاضُ، وَ بِبَهِيِّ نُوْرِ وَجْهِهِ تَرْفَعُ الْاَنْقَاضُ، مَنْ تَوَفَّيْتَهُ وَ اَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ، وَّ نَشَرْتَ دِيْنَهُ فِي الْمُدُنِ وَ الْقُرٰى وَ الْبَوَادِيْ وَ الْاَرْبَاضِ، اَكْرَمَ مَنْ قَبِضَ وَ اَعْدَلَ مَنْ قَبِضَ، وَ اَصْدَقَ مَنْ قَلْبُهُ فِيْ

الدَّعوَةِ إلَى اللهِ نَبَض۔

31 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی خَیْرِ مَنْ ، بَلَغَ وَ اَدَّی الْفَرَآئِضَ، وَ عُرِضَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ الْعَرَآئِضُ، وَ اَزَالَ بِوُسْعِ حِکْمَتِهٖ مِنَ الْعَرَبِ النَّوَاقِضَ، وَ حَافَظَ عَلَی الْمُجْتَمِعِ الْاَسْرِی بِشَرْعِ الْفَرَآئِضِ، اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ فِی الْقِیَامَةِ عَنْهُ الْاَرْضُ، الشَّافِعِ یَوْمَ الْعَرْضِ، الْمُنَزَّهِ عَنِ الشِّعْرِ بِالْقَوَافِیْ وَ الْعُرُوْضِ، وَ الْمُجَاهِدِ مَاشِیًا وَّ رَاکِبًا وَّ عَلَی الْعُرُوْضِ۔

حَرْفِ "ط"

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ کَانَ مَنْزِلُهٗ لِلْوَحْیِ خَیْرَ مَهْبِطٍ، وَّ بِسَاطُهٗ لِلتَّنَزُّلَاتِ الْاِلٰهِیَّةِ خَیْرَ مُنْبَسِطٍ، وَّ رِبَاطُهٗ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ تَعَالٰی خَیْرَ مُرْبِطٍ، اَلدَّاعِیَةِ اِلٰی رَفْعِ النَّفْسِ وَ تَرْكِ السَّفَاسِفِ وَ التَّوَافِهِ وَ الْاِنْحِطَاطِ، وَ الْمُوْصِیْ بِشُکْرِ ذَوِی الْخَیْرِ وَ عَدَمِ الْاِنْکَارِ وَ الْاِغْمَاطِ، صَاحِبِ الْجِدِّ فِی الْجِدِّ وَ الْاِنْبِسَاطِ فِی الْاِنْبِسَاطِ۔

33 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ عَلِمْتَهُ الْمَاضِیْ وَ الْحَاضِرَ وَ الْمُسْتَقْبَلَ فَاَوْصٰی خَیْرًا ، بِاَهْلِ مِصْرَ الْاِقْبَاطِ، وَ اَخْبَرَ اَنَّ بِلَادَ الْاُرْدُنِ اَرْضُ الْحَشْرِ وَ الرِّبَاطِ، وَ اَنَّ الطَّآئِفَةَ الَّتِیْ عَلَی الْحَقِّ لَا یَضُرُّهَا مَنْ خَذَلَهَا هِیَ فِی الْمَغْرِبِ ذِی الْاِغْتِبَاطِ، اَلْاٰمِرِ لَنَآ اَنْ نَّکُوْنَ بَیْنَ الشِّدَّةِ وَ اللِّیْنِ وَسَطًا، وَّ لِمَوَآئِدِ الْکَرَمِ وَ الْخَیْرَاتِ بَسَطًا، وَّ بَیْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ لِیْنِی الْجَانِبِ بَسَطًا، وَّ عَلَی الْکَافِرِیْنَ الْمُحَارِبِیْنَ اَشِدَّآءَ لِّلسِّلَاحِ بِالْاَیْدِیْ بَسَطًا۔

حَرْفِ "ظ"

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خَیْرِ مَنْ ، بِالْقُرْاٰنِ تَلَفَّظَ، وَ خَیْرِ مَنْ نَطَقَ بِالْاَلْفَاظِ، وَ خَیْرِ مَنْ عَلَی الشَّرْعِ تَحَفَّظَ، وَ خَیْرِ مَنْ رَّوَتْ عَنْهُ الْحُفَّاظُ، وَ خَیْرِ مَنْ لِّمَلَکُوْتِ اللهِ تَعَالٰی تَلَحَّظَ، وَ خَیْرِ مَنْ اُرْسِلَتْ اِلَیْهِ الْاَلْحَاظُ۔

35 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ اَمَرَنَا بِتَحْسِیْنِ الْاَلْفَاظِ، وَ غَضِّ الْاَلْحَاظِ، وَ عَلَی الْفُرُوْجِ الْحُفَّاظِ، وَ کَظْمِ الْغَیْظِ، وَ الْجِهَادِ بِالْبَرْدِ وَ بِالْقَیْظِ، مُبْعِدٍ عَنِ الْغَلِیْظِ، نَافِرٍ عَنِ الْفَظِیْظِ، مُشَجِّعِ حُسْنِ الْقَرِیْظِ۔

حَرْفِ "ع"

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ اللّٰهُمَّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهِ النَّبِیِّ الشَّفِیْعِ، ذِی الْقَوْلِ الْبَدِیْعِ، النَّهْجِ الْبَرِیْعِ، مَنْ تَرَنَّمَتْ بِحُسْنِ ثَنَاهُ الْاَسْمَاعُ، وَ کَامِلِ ذِکْرِهِ الْاِجْمَاعُ، وَ عَظِیْمِ مَعَارِفِهِ الْاَرْوَاعُ، کَثِیْرِ الْاَتْبَاعِ، وَ الشَّافِعِ یَوْمَ النِّزَاعِ۔

37 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی خَیْرِ مَنْ اَعْطٰی وَ نَزَعَ، وَ اٰمَنَ وَ فَزَعَ، وَ فَاقَ وَ بَرَعَ، اَلنَّاهِیْ عَنِ الْبِدَعِ، مَنْ

لِلسِّيَاسَةِ شَرْعُ. النَّبِيِّ الْمَتْبُوْعِ. الْفَائِضِ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الزُّلَالِ الْيَنْبُوْعِ. وَ الرَّافِعِ الْمَقَادِيْرَ الْمَرْفُوْعَ. الْاَمِيْنِ الْمُؤْمِنِ لِكُلِّ خَوَّافٍ هَلُوْعٍ. تِرْيَاقِ الْهُدٰى وَ الشَّرْعِ الْمَشْرُوْعِ.

حَرْفِ "غ"

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ نَهٰى عَنْ نَّقْلِ الْحَدِيْثِ كَالْبَبَغَا. وَ حَذَّرَ مِنَ الْفُجُوْرِ وَ السَّفَاحِ وَ الْبِغَا. وَ اَمَرَ بِالْقَبْضِ عَلٰى اَيْدِيْ كُلِّ مَنْ تَجَبَّرَ وَ طَغٰى. فَاَقَامَ الْمَدِيْنَةَ الطَّاهِرَةَ الْمُطَهَّرَةَ وَ بَلَّغَهَا خَيْرَ تَبْلِيْغٍ. بِمُحْكَمِ الْاٰيَاتِ وَ بَيِّنِ الْاَحَادِيْثِ وَ الْقَوْلِ الْبَلِيْغِ.

39 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ بَيَّنَ وَ بَسَطَ وَ مَا رَاغَ. رَؤُوْفٍ رَّحِيْمٍ كَرِيْمٍ جَوَّادٍ غَيْرِ طَاغٍ. نُوْرِ هُدًى مَهْدِيٍّ اَمِيْنٍ غَيْرِ لَاغٍ. صَاحِبِ الْبَوَاسِلِ وَ الْكَوَاسِرِ وَ الْاَعْلَامِ الْعُلَمَآءِ النَّوَابِغِ. مَنْ لِّكُلِّ خَيْرٍ عَلَى الْاُمَمِ جَمْعَآءَ نَاشِرٌ وَّ سَابِغٌ. هَازِمِ الْكَوَافِرِ وَ الْفَوَاجِرِ وَ الْمُنَافِقِيْنَ الزَّوَائِغِ.

حَرْفِ "ف"

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الشَّرِيْفِ. ذِي الْقَدْرِ الْمُنِيْفِ. وَ الشَّرْعِ الْحَنِيْفِ. النَّاهِلِ مِنْهُ اَهْلَ الْاَعْرَافِ. وَ الْمُسْتَشْفَعِ بِهِ سُكَّانَ الْاَعْرَافِ. وَ الْمُسْتَأْمَنِ بِهِ يَوْمَ الْاَخْوَافِ. الْمُرْشِدِ لِمَا فِي الصَّحَائِفِ. وَ الْاٰمِرِ بِالْبَحْثِ عَنِ الْعُلُوْمِ وَ الْعَوَارِفِ. النَّاهِيْ عَنِ الْحَرِيْرِ وَ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَ الْمَعَازِفِ.

41 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ مَا عَمَّرَ الْكَوْنَ الْاَشْرَافُ. وَ هَبَّتْ مِنَ الرَّحْمٰنِ عَلَى الْخَلَائِقِ الْاَلْطَافُ. صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ مُنَافٍ. ذِي الْمَعِيْنِ الصَّافِيْ. وَ الْخَيْرِ الْوَافِيْ. وَ ظِلِّ الْهِدَايَةِ الْوَارِفِ. وَ بَحْرِ الْعُلُوْمِ الْغَارِفِ. مَنْ بِالتَّمَسُّكِ بِشَرِيْعَتِهٖ تَزُوْلُ الْمَخَاوِفُ. مُسِنِّ سُنَّةِ الْاِعْتِكَافِ.

حَرْفِ "ق"

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ. وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ. نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ. ذِي الْفَضْلِ وَ الْاِسْتِحْقَاقِ. مَنْ هُوَ اِلٰى دُخُوْلِ الْجَنَّةِ السَّبَّاقُ. اَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ عَلَى الْاِطْلَاقِ. الْوَاقِعِ عَلٰى كَمَالِ جَلَالَتِهِ الْاَطْبَاقُ. مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطِّبَاقِ. وَ الْمُكَشِّفِ بِهَدْيِهِ الْاَغْلَاقَ. وَ الْمُكْثِرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْاَرْزَاقُ. وَ بِعِطْرِ ثَنَايَاهُ الْاَشْوَاقُ. مَنْ تَنَمَّقَتْ بِهِ الشَّرِيْعَةُ تَنَمُّقًا. وَ ازْدَهَتْ بِهِ الْحَقِيْقَةُ تَعَلُّقًا. وَ اكْتَسَتْ بِهِ الْعَوَارِفُ مَنْطِقًا.

43 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى خَيْرِ مَنْ لَّبِسَ الْاَطْوَاقَ. وَ قَسَمَ الْاَرْزَاقَ. وَ حَفَّتْ بِهِ الْاِشْوَاقُ. دَلِيْلِ الرِّفَاقِ. وَ عُنْصُرِ التَّقْيِيْدِ وَ الْاِطْلَاقِ. مَنْ فَازَ بِهِ السَّبَّاقُ. مِفْتَاحِ الْمَغَالِيْقِ. وَ مُنْقِذِ الْمَغَارِيْقِ. وَ سَفِيْنَةِ النَّجَاةِ اِلٰى اَقْوَمِ طَرِيْقٍ. وَّ مُرْشِدِ الطَّرِيْقِ. وَ قَائِدِ الطَّرِيْقِ. وَ رَفِيْقِ الطَّرِيْقِ. وَ عَيْنِ الطَّرِيْقِ. وَ مُنْتَهٰى

الطَّرِيْقِ اِلٰى رَبِّ الْخَلَآئِقِ، مَنْ هُوَ بِكُلِّ خَيْرٍ خَلِيْقٍ۔

حَرْفِ "ك"

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمُطَّلِبِيِّ خَيْرِ مَنْ اَرْشَدَ لَكَ، وَ اَكْرَمَ مَنْ اَمَّ لَكَ، وَ اَرْجٰى مَنْ اَمَلَّكَ، مَنْ لَّمْ يَبْلُغْ قَدْرَهٗ نَبِيٌّ وَّلَا مَلَكٌ، وَّلَا قَامَ مَقَامَهٗ وَ مُجَاهَدَتَهٗ وَلَا سَلَكَ، مَنِ انْكُشِفَتْ بِشَرِيْعَتِهِ الْحَوَالِكُ، وَ فُتِحَتِ الْمَمَالِكُ، وَ سُهِلَتْ مِنَ الْخَيْرَاتِ الْمَسَالِكُ، مَنْ سَنَّ سُنَّةَ الْاِسْتِيَاكِ، وَ فَعَلَهَا بِعَوْدِ الْاَرَاكِ، وَنَهٰى عَنِ الْفُرْقَةِ وَالْاِرْبَاكِ۔

45 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهِ النَّبِيِّ الْعَبْدِ الْحَقَّانِي الَّذِىْ قَلَّدْتَّهٗ عِزَّكَ وَ نَصْرَكَ، وَ جَعَلْتَ عَلٰى يَدَيْهِ رَحْمَتَكَ وَ بِرَّكَ، وَ بِاِتِّبَاعِ طَرِيْقِهٖ جَعَلْتَ طَاعَتَكَ وَ شُكْرَكَ، النَّبِيِّ الْاَبْرَكِ، مَنْ لِّلْكُفْرِ اِرْبَكَ، وَ الشَّرْعِ اِسْمَكَ، الَّذِىْ زَاوَجْتِ اسْمُهٗ مَعَ اسْمِكَ، وَ عَمَّرْتَ بِذِ كُرِهِ الْاَفْلَاكَ، وَ اَنَرْتَ بِوَجْهِهِ الْاَحْلَاكَ، وَلَوْلَاهُ لَمَا كَانَ دَوْرٌ اَوْ فَلَكٌ۔

حَرْفِ "ل"

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ الْعُلَمَآءِ مِنْ شَرِيْعَتِهٖ وَ الْمُصْطَفِيْنَ مِنْ اُمَّتِهٖ مَنْ هُوَ عَلٰى طَرِيْقِكَ الدَّآلِّ، مُسْتَمِدِّ الْاَخْتَامَ وَ الْاَفْرَادَ وَ النُّجَبَآءَ وَ الْاَقْطَابَ وَ الْاَوْتَادَ وَ الْاَبْدَالَ، النَّبِيِّ الْجَمِيْلِ، ذِى الْقَدْرِ النَّبِيْلِ، وَ الْخَلْقِ الْجَلِيْلِ، خَيْرِ مَنْ اَثْبَتَ وَبَدَّلَ، وَ اَوَّلِ مَنْ تَنَبَّأَ وَ اَكْمَلَ، ذِى النَّبْلِ وَ الْجَمَالِ، وَ الْفَضْلِ وَ الْجَلَالِ، وَ مُحْكَمِ الْاَعْمَالِ۔

47 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ اَخْرَجَنَا مِنَ الْعِجْزِ اِلَى الْعَمَلِ، وَ الْجِدِّ مِنَ الْمِلَلِ، وَ كَانَتْ مِلَّتُهٗ اَفْضَلَ الْمِلَلِ، اَلْآمِرِ بِالزَّكَاةِ فِى الْاَمْوَالِ، وَ الصِّدْقِ فِى الْاَحْوَالِ، وَ الْبِرِّ فِى الْاَقْوَالِ، مِنْ عَدُوِّهٖ مَالٌ، وَّ الْمَعْرِضِ عَنْهُ ضَالٌّ، اَلْآمِرِ بِخَيْرِ الْاَعْمَالِ، وَ الْهَادِىْ خَيْرَ الْاَقْوَالِ۔

حَرْفِ "م"

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى آلِهِ النَّبِيِّ الْكَلِيْمِ، الرَّؤُوْفِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ الرَّحِيْمِ، ذِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ، وَ الْمَكَانِ الْفَخِيْمِ، مَنْ كَلَّمَتْهُ الرَّيْمُ، وَ شَكَا اِلَيْهِ الْبَهِيْمُ، الرَّسُوْلِ الْاِمَامِ، وَ النَّبِيِّ الْهُمَامِ، مَنْ اَظَلَّهُ الْغَمَامُ، وَ نَصَرَهُ الْكِرَامُ، بِلَا تَثْلِيْمٍ، وَّلَا تَقْلِيْمٍ، وَّلَا تَظْلِيْمٍ، اَكْمَلِ الشَّرَآئِعِ بِالتَّمَامِ، وَ كَانَ مِسْكَ الْخِتَامِ۔

49 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْعَبْدِ الْحَلِيْمِ، ذِى الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، الْآمِرِ بِالتَّعْلِيْمِ، مَنْ نَّظَمَتْ فِىْ شَمَآئِلِهِ الْاِنْظَامُ، وَ تَفَاخَرَتْ بِالْاِنْتِمَآءِ اِلَيْهِ اَعْلَامُ الْاَعْلَامِ، وَ زَالَتْ بِعَلِيِّ اسْمِهِ الْاَدْوَامُ، وَ بِهٖ تَشْفِى السِّقَامُ، دَنَتْ لَهُ الْاَرْوَامُ، كُلَّ الْوَرٰى بِهٖ قَدْ هَامَ، زَكَتْ بِعَيْشِهِ الْاَعْوَامُ، تَبَتَّلَتْ بِهِ الْاَوْهَامُ، اَحَلَّ رَبِّىْ لَهُ

الْغَنَائِمِ، مِنْ وُّلْدِهٖ كُلَّ قَرْنٍ قَآئِمٌ، مُحَرِّمِ السِّحْرِ وَ التَّمَآئِمِ۔

حَرْفِ "ن"

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَى الَّذِیْ بِهٖ تَعَیُّنٌ، مَنْ شَرْعُهٗ مَآءٌ مَّعِیْنٌ، عَدُوُّهٗ غِرٌّ مُهِیْنٌ، بِاِسْمِهٖ تَزَیَّلَ الرَّانُ، وَ نَهْجُهٗ تُقِیْمُ الشَّانِ، مَنْ مِّنْهُ تَسْتَقِی الْحَسَّانُ، وَ وِرْدُهٗ مُسْقِی الْاَكْوَانِ، زَمَانُهٗ خَیْرُ الْاَزْمَانِ، وَ نَوْعُهٗ خَیْرُ الْاِنْسَانِ، خَیْرُ سَلِیْلٍ مِّنْ عَدْنَانَ، اَلْمُنَزَّلِ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ۔

51 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ اَنْزَلْتَ عَلَیْهِ الْقُرْاٰنَ، وَ رَفَعْتَ بِهِ الشَّانَ، وَ اَقَمْتَ بِهِ الْمِیْزَانَ، وَ قَسَمْتَ شَرْعَهٗ لِاِسْلَامٍ وَّ اِیْمَانٍ وَّ اِحْسَانٍ، عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَبْدِ الْمَنَّانِ، مَرْكَزِ الْاَكْوَانِ، ذِی الْوَجْهِ الْحَسَنِ، وَ الْاٰلِ الْحَسَّانِ، وَ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ، مُنِیْلِ الْاَمَانِ، الدَّاعِی الرَّزِیْنِ، بِلَا تَوَانٍ۔

حَرْفِ "ہ"

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مُرْشِدِنَا فِی الْمَهَامِهِ، اَلْاٰمِرِ بِالْوُضُوْءِ عَلَی الْمَكَارِهِ، خَیْرِ مَنْ بِهِ اللّٰهُ نَوَّهَ، اَصْدَقِ مَنْ بِرَبِّهٖ تَاَوَّهَ، اَلْعَدِیْمِ النِّدِّ وَ الْاَشْبَاهِ، مَنْ عَلَّمَهُ اللّٰهُ وَ رَبَّاهُ، وَ اَعْلَاهُ وَ اَكْرَمَ مَثْوَاهُ، وَ اَرْشَدَهُ الْحَقَّ وَ مَا اَنْسَاهُ، وَ شَاهَدَهٗ وَجْهَهٗ وَ اَرَاهُ، اَكْمَلَهٗ وَ شَرَفَهٗ، طَهَّرَهٗ وَ مَیَّزَهٗ، مُحَمَّدِ الْعَبْدِ الْاَوَّاهِ، صَاحِبِ الْقَدْرِ وَ الْجَاهِ۔

53 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ رَّبُّهٗ اَتَمَّهٗ، فِی الدُّنْیَا وَ ثَمَّهٗ، وَ اَرْشَدَ وَ اَكْرَمَهٗ، وَ قَاهُ وَ نَمَاهُ، اَعَزَّ وَ اَعْلٰی عُلَاهُ، وَ جَعَلَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰی مَثْوَاهُ، رَزَقَهُ الْوَسِیْلَةَ وَ الْفَضِیْلَةَ، وَ اَتَمَّ مَنْزِلَتَهٗ بِالشَّفَاعَةِ، وَ جَعَلَ شَرِیْعَتَهٗ اَكْمَلَ شَرِیْعَةٍ، وَ اَعْطَاهُ اَكْمَلَ النُّهٰی، وَ عَلٰی لِسَانِهٖ اَمْرٌ وَ نَهْیٌ، وَ جَمَّلَهٗ بِكَمَالِ الْبَهَا۔

حَرْفِ "و"

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ لِّقَدْرِهِ الْاَمْلَاكُ رَعَوْا، وَ بِنُوْرِهِ الرُّسُلُ رَعَوْا، وَ لِشَرْعِهِ الْاَعْلَامُ دَعَوْا، وَ عَنْهُ الْحُفَّاظُ رَوَوْا، وَ مِنْهُ النُّجَبَآءُ سَقَوْا، وَ عَنْهُ الضُّلَّالُ لَوَّوْا، مِنْ وَّجْهِهٖ نَارُ الْاَضْوَا، وَ بِهَدْیِهِ الْحَقُّ تُسَوّٰی، وَ بِقَوْلِهِ الشَّرْعَ تَدَوّٰی، وَ بِغَیْرِهٖ عَمَّ الْبَلْوٰی، وَ بِبَعْدِهٖ اِنْتَشَرَ الْاَدْوٰی۔


55 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلیه یَا مَنْ لَّا یَعْرِفُ قَدْرَهٗ اِلَّا هُوَ، مَنْ اَتْبَاعُهٗ فِی الْمَعَارِفِ تَاهَوْا، وَ بِهٖ فِی الْحَقِّ تَنَاهَوْا، وَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ تَرَآءَوْا، اَعْدَآؤُهٗ نَاَوْا، اَتْبَاعُهٗ رَاَوْا، مِنْهُ الْهُدٰی وَلَوْ لِغَیْرِهٖ رَاَوْا، لِمَا بِهٖ سَقَوْا، وَلَا بِهٖ سَقَوْا، وَلَا بِهٖ عَفَوْا، وَلَا بِهٖ بَقَوْا، لَزَالُوْا وَ عَفَوْا۔

حَرْفِ "ی"


56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهِ الرَّسُوْلِ النَّبِیِّ، الْكَرِیْمِ السَّخِیِّ، الْوَضِیْءِ النَّقِیِّ، مَنْ بِهٖ تَعْفُوْا عَلٰی

وَ تَدْنُوا اِلَيَّ، وَ تَدْخُلُنِیَ الْفَيَّ، وَ تَحْنُوْ عَلَيَّ، وَ تَرْفَعُ الْغَيَّ، وَ تَكْرُمُ بِالطَّيِّ، وَ تَكْثُرُ مَنْ رَّيَّ، وَ تَرْحَمُ ذَا الْعَيِّ، وَ تُعِزُّ
اَبْوِی، وَ تَكْشِفُ حُجُبِی، وَ تَكْرُمُ مَثْوَایَ، وَ تُوَفِّقُ مَسْرَایَ۔

57 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اُمَّتِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ نِبْرَاسِ كُلِّ عَابِدٍ وَّ وَلِيٍّ، وَّ الْاَمَانِ بِاَتْبَاعِهٖ مِنَ
الزَّيْغِ وَ اللَّيِّ، وَ الْكَاشِفِ بِنُوْرِ صِدْقِهٖ ظَلَامَ الْجَهْلِ وَ الْغَيِّ، الْمَوْعِدِ بِالنَّارِ اَهْلَ الْبَغِيِّ، وَ الْحَاكِمِ بِالشَّرْعِ وَ
الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فِی الْحُكْمِ وَ الْمُعَامَلَاتِ وَ التِّجَارَةِ وَ الصَّنَاعَةِ وَ الْاَحْوَالِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَ كُلِّ شَيْئٍ وَّ لَمْ
يَعْجِزْهُ عُسْرُ وَلِيٍّ، مَنْ اَكْمَلْتَ لَهٗ وَ بِهٖ شَرْعَ وَ حُكْمَ كُلِّ شَيْئٍ، وَ بَعَّدَ النَّاسَ عَنْ كُلِّ ذٰلِكَ مِنَ الْجَهْلِ اَوِ
الْجُحُوْدِ وَ الْكُفْرِ وَ اللَّيِّ۔







وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

وَسِيلَةُ الْوَلَدِ الْمَلْهُوفِ
اِلٰی جَدِّهِ الرَّحِيْمِ الْعَطُوْفِ ﷺ

الشيخ عبد الحی عبد الكبير الكتانی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المكتبة القادرية 8 الباكستان
0092-3335187573

وسيلة الولد الملهوف

درُود وسلام کا یہ گلدستہ الشیخ عبدالحیؒ بن عبدالکبیر الکتانی (المتوفی 1382ھ) کی تالیفِ مبارکہ ہے۔ جن کو ایک سیدزادے محمد حمزہ بن الکتانی نے اکٹھا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا۔ کتاب ہٰذا جو ہمارے زیرِ نظر رہی اُس کے اولین صفحہ کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

وسيلة الولد الملهوف

إلى حضرة الرحيم العطوف

للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني

المتوفى ١٣٨٢ سنة

جمعها وقدم لها

الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني

وَسِيلَةُ الْوَلَدِ الْمَلْهُوفِ إِلٰى جَدِّهِ الرَّحِيمِ الْعَطُوفِ

حَرْفِ "ء"

1 {إِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ رُّوحُهُ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ وَ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْكَوْنِ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِينَ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلٰى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ب"

5 اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللهُ الَّذِي لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ، اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ رَجُلٍ فَتَحَ لَهُ بَحْرَ اِسْمِهِ سُبْحَانَهُ الْوَهَّابُ، فَوَهَبَ مِنْ مُّقْتَضَاهُ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَّ رَسُولٍ اَوَّابٍ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي مَنْ تَعَلَّقَ بِاَذْيَالِهِ وَ تَعَشَّقَ لَذِيذَ وِصَالِهِ فُتِحَتْ لَهُ كُلُّ الْاَبْوَابِ، وَ جَلَسَ لَهُ النَّاسُ سَدَنَةً عَلَى الْاَعْتَابِ، لِاَنَّهُ بُبَاهِي طَلْعَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اتَّصَلَ وَ بِهَا وَصَلَ فَاَنِلْنَا مِنْهُ مَا وَهَبْتَهُمْ يَا تَوَّابُ يَا تَوَّابُ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا كُلَّ الْمَوَاهِبِ، وَ تُقْضٰى لَنَا بِهَا جَمِيعُ الْمَآرِبِ، وَ تَحْصُلُ بِهَا جَمِيعُ الْمَرَاغِبِ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
تُدْفَعُ عَنَّا كُلَّ مَشَاغِبْ، وَشَيْطَنَةُ كُلِّ مَنْ بِدِيْنِهٖ مُتَلَاعِبْ، وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

9

حَرْفِ ''ت''

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ الْمُلْكِ وَ
الْمَلَكُوْتِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ الْجَبَرُوْتِ، حِجَابِ اللَّاهُوْتِ وَالنَّاسُوْتِ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَزَايَا وَ
الْخَصِيْصَاتِ، وَالْمَوَاهِبِ وَكِبَارِ الْعَطِيَّاتِ، الَّذِىْ مَنْ لَّاذَ بِجَنَابِهٖ وَاعْتَزَّ بِعَلِيِّ رِحَابِهٖ صَالَهٗ بِالصِّلَاتِ
السَّنِيَّاتِ، وَكَانَ مَلْطُوْفًا بِهٖ فِى الدَّارَيْنِ مَكْلُوْءًا مِّنْ كُلِّ الْوَجَهَاتِ، مُنَاطًا بِهِ الْعِزُّ وَالظَّفْرُ مِنْ جَمِيْعِ
الْحَيْثِيَّاتِ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ رِحَابَهُ
الْعَالِيَاتِ، وَتَدْخُلُ كُلَّ وَقْتٍ وَّحِيْنٍ عَلٰى قُصُوْرِهٖ وَقُصُوْرِ مَعَالِيْهِ الْغَالِيَاتِ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ الْاَرْضِيْنَ
وَالسَّمٰوَاتِ، اَوَّلِ مَوْجُوْدٍ اُخِذَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ قَبْلَ الْقَبْلِيَاتِ، وَانْقَادَتْ اِلَيْهِ الْاَرْوَاحُ الطَّاهِرَاتُ وَ
الشَّرِيْرَاتُ الْخَفِيَاتُ، وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

حَرْفِ ''ث''

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرَ مَنْ اِلَيْهِ يَنْبَغِىْ
اَنْ تُشَدَّ الرِّكَابُ مِنَ الْاٰفَاقِ كُلَّ سَيْرٍ حَثِيْثٍ، فَيَصِلُ كُلُّ وَارِدٍ بِمَآ اِعْتَقَدَ وَلِكُلِّ مُتَوَسِّلٍ مَّلْهُوْفٍ
يُغِيْثُ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ عَابِدٍ وَّاَجَلِّ
قَانِتٍ، وَّمَنْ لِّاٰخِرَتِهٖ حَارِثٌ، اَلَّذِىْ اَفَاضَ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ اَنْبَاءَهُمْ وَتَشْرِيْفَ اِرْسَالِهِمْ ثُمَّ
لِمَوَاطِنِ اَقْدَامِهِمْ وَارِثٌ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنْ بِالتَّعَلُّقِ
بِهٖ يُمْحٰى كُلُّ ذَنْبٍ فَآئِتٍ، وَيُعَجَّلُ كُلُّ خَيْرٍ وَّفَضْلٍ رَّاسِخٍ ثَابِتٍ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْكَوْنِ وَقِلَادَةِ
اَسْرَارِ قَامِعِ كُلِّ طَاغٍ عَاثٍ، زَيْنِ الْوَرٰى، بَهْجَةِ الْمَسْرٰى، اِمَامِ كُلِّ مَاضٍ وَّآتٍ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ التَّجَلِّيْ، مِقْيَاسِ الْكَمَالِ مَظْهَرِ خِتَامِ لَبِنَةِ التَّمَامِ مَنْ بِاِسْمِهِ الْعَظِيْمِ وَ قُدْرَةِ الْكَرِيْمِ تُحْيَى الْعِظَامُ الرُّفَاتُ، وَ بِسَمَاعِ حُسْنِ شَمَآئِلِهٖ وَ سِمَاتِهِ الْعَظِيْمَةِ يُقَدَّسُ بَلِيْدُ عَقْلِ كُلِّ فَتًى وَّ فَتَاتٍ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ج"

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَابِ الْفَرَجِ الَّذِيْ مَنْ تَعَلَّقَ بِاَذْيَالِهٖ فِيْ كُلِّ ضِيْقٍ وَّ هَمٍّ مِّنْهُمَا خَرَجَ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ شَرَّفَهُ اللهُ بِاَعْظَمِ خَصَآئِصِ الْمِعْرَاجِ، وَ رَفَعَهٗ بِاللِّوَآءِ وَ التَّاجِ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذَخِيْرَةِ الْمَلْهُوْفِ الْمُحْتَاجِ، وَ اَنِيْسِ الْمُسْتَوْحِشِ فَكَيْفَ لَا يَقَعُ بِهٖ اَعْظَمُ فَرَجٍ، وَّ اَكْبَرُ ابْتِهَاجٍ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ح"

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بِهٖ تُقَامُ الْاَفْرَاحُ، وَ تُزَالُ بِهٖ سَآئِرُ الْاَتْرَاحِ، وَ تَنَوَّرُ الْقُلُوْبُ وَ الْاَشْبَاحُ، وَ تُقَدَّسُ وَ تُنَزَّهُ بِهٖ زُجَاجَاتُ الْاَرْوَاحِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لَوِ اسْتَغْرَقَ الْمُعَمَّرُ اَوْقَاتَهٗ فِيْ طِيْبِ اَمْدَاحِهٖ وَ عَزِيْزِ اَوْصَافِهٖ وَ غُرِّ اَفْرَاحِهٖ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ جُنَاحٍ، وَّلَا غَرْوَ فَهُوَ خَاتِمُ الْاَنْبِيَآءِ وَ الرُّسُلِ كَمَا بِهِ الْاِفْتِتَاحُ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "خ"

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بِهٖ تُزَالُ عَنَّا سَآئِرُ الْاَدْرَانِ وَ الْاَوْسَاخِ، وَ نَرَى الْبُغْيَةَ فِيْ كُلِّ مُصَافٍ مُّؤَاخٍ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّرْضَخُ لَنَا بِهَا الْعَدُوُّ كُلَّ رُضُوْخٍ، وَّ نَزْدَادُ بِهَا فِيْ مَقَامِ الْعِرْفَانِ كُلَّ ثُبَاتٍ وَّ رُسُوْخٍ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "د"

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَدْءِ الْبَدْءِ وَ نِهَايَةِ الْاَبَدِ، عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ وَ مَغْنَاطِيْسِ الْقُلُوْبِ وَ جَاذِبِ اَرْوَاحِ الْعِبَادِ، قُدْوَةِ النُّسَّاكِ وَ الزُّهَّادِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَادَةِ مَوَآدِّ الْاَجْرَاسِ وَ النُّقَبَآءِ وَ الْاَفْرَادِ، سِرِّ مَعْنَى الْاَبْدَالِ وَ الْاَوْتَادِ، مَرْكَزِ الْعَالَمِ وَ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعِبَادِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْحَدَّ، وَ تَبْلُغُ مُنْتَهَى الْجُهْدِ، وَ يَضِيْعُ مَعَهَا الْعَدُّ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ}۔

حَرْفِ "ذ"

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لَهٗ فِي الْعَوَالِمِ وَ الْمَجَالِيْ اَعْظَمُ نُفُوْذٍ، وَ لَهٗ مُلِئَتِ الْاَرْضُ وَ السَّمَآءُ بِخِلَعِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الَّتِيْ تَرِدُ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ وُّفُوْدًا م بَعْدَ وُفُوْدٍ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ، اَلَّذِيْ اِنْقَطَعَ عَنْ اَبْوَابِ اللّٰهِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ عَنْ قَدْرِهِ الْعَظِيْمِ شُرُوْدٌ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ مَنْ عَلٰى اَبْوَابِهٖ يَنْبَغِي الْوُرُوْدُ، وَ يُقَابِلُ كُلَّ آتٍ م بِالْاَسْعَادِ وَ السُّعُوْدِ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَنْ م بِيَدِهٖ زِمَامُ قَبْضَةِ الْوُجُوْدِ، فَيَهَبُ مِنْهُ لِكُلِّ سَآئِلٍ وَّ مُحْتَاجٍ م بُغْيَتَهٗ اِذْ مَا بَخِلَ قَطُّ بِمَوْجُوْدٍ، وَ عَمَّا اسْتَقَرَّ مِنْ حَالِهٖ قِيْلَ الْوُجُوْدُ يَنْفَعِلُ بِالْجُوْدِ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ التَّجَلِّيَاتِ وَ الشُّهُوْدِ، الَّذِيْ مَا غَفَلَ قَطُّ لَا فِيْ جِمَاعٍ وَّلَا اَكْلٍ وَّلَا شُرْبٍ وَّلَا بَسْطِ طَرْفَةِ عَيْنٍ عَنْ اِلٰهِهِ الْمَعْبُوْدِ، فَلَا مَفْهُوْمَ لِقَوْلِهٖ لِيْ وَقْتٌ لَّا يَسَعُنِيْ فِيْهِ غَيْرُ رَبِّيْ بَلْ هُوَ وَصْفٌ كَاشِفٌ اِذْ كُلُّ اَوْقَاتِهٖ كَذٰلِكَ وَ اِنْ اٰبَاهُ اَهْلُ الْجُحُوْدِ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ر"

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حَلَّتِ الثَّمَرُ دُوْنَ الثِّمَارِ، وَ بِبَرَكَةِ اِسْمِهٖ عَذُبَتْ مِيَاهُ الْاَنْهَارِ، وَ سَكَنَ رَوْعُ الْبِحَارِ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْاَبْرَارِ، صَلَاةً تَمْلَأُ الْكَوْنَ كُلَّهٗ مِنْ م بَرَارِيْ وَ قِفَارٍ، عَدَدَ مَا فِي الْجِبَالِ وَ السَّهْلِ مِنَ الْاَوْرَاقِ وَ الْاَشْجَارِ۔

35 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَجَلّٰى بِھَا مَا اَحَاطَ بِنَا مِنَ الْاَكْدَارِ، وَاسْوَدَّ بِہِ الْجَوُّ مِنَ الْمُدْلَھِمَّاتِ وَالْاَوْعَارِ۔

36 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَمْلَأُ جِرَابَنَا مِنْ بَوَارِقِ الْاَنْوَارِ، وَاَزْھَرِ الْاَسْرَارِ، وَیُحْمَدُ بِھَا مَسْعَانَا فِیْ ھٰذِہِ الدَّارِ وَفِیْ تِلْكَ الدَّارِ۔

37 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَعُمُّ كُلَّ زَمَنٍ غَابِرٍ، وَّ تَمْلَأُ كُلَّ فَضَاءٍ خَلَقَہُ الْمَلِكُ الْقَاھِرُ، وَ یَجِدُھَا الْاِنْسَانُ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ، فَمَا لَہٗ مِنْ قُوَّۃٍ وَّلَا نَاصِرٍ۔

38 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّرْجِعِ الْكِبَارِ وَ الصِّغَارِ، صَلَاۃَ التَّآئِبِیْنَ الْاَخْیَارِ، تَجْمَعُ بِھَا یَارَبِّ شَمْلِیْ فِیْ سِرِّیْ وَ جَھْرِیْ بِصَاحِبِ الْفَضْلِ عَلَیَّ الْعَزِیْزِ، وَالِدِی الْاُسْتَاذِ عَبْدِ الْكَبِیْرِ، وَوَاجِھْنِیْ یَارَبِّ بِمَا وَاجَھْتَ بِہٖ نَبِیَّكَ وَ رَسُوْلَكَ وَ صَفِیَّكَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ عَلَیْہِ قَوْلَكَ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ {اِنَّآ اَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ۔ اِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ الْاَبْتَرُ} وَآلِہٖ اَقْطَابِ الدَّوَآئِرِ، وَاَصْحَابِہٖ اَئِمَّۃِ الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا۔

حَرْفِ "ز"

39 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلٰى وَ اَسْمٰى رَجُلٍ ظَھَرَ بِمَظْھَرِ اسْمِ رَبِّہِ الْعَزِیْزِ، مَنْ كَانَ یُسْمَعُ لِصَدْرِہِ الْكَرِیْمِ فِی الصَّلَاۃِ كَصَوْتِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْاَزِیْزِ۔

40 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَنِ انْتَمٰى اِلٰى سُدَّتِہِ الْعَلِیَّۃِ وَ جَعَلَ قِبْلَتَہٗ طَلْعَتَہُ الْمُحَمَّدِیَّۃَ خُصَّ بِالتَّصْدِیْرِ وَ التَّبْرِیْزِ، وَوَرَدَ عَلٰى رَبِّہٖ طَاھِرًا مُّطَھَّرًا كَالذَّھَبِ الْاِبْرِیْزِ، وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ۔

حَرْفِ "ط"

41 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بِالتَّعَلُّقِ بِہٖ یَحْصُلُ السُّرُوْرُ وَ الْاِنْبِسَاطُ، وَبِالتَّفَانِیْ فِیْ حُسْنِہِ الْمُحَمَّدِیِّ یَرْتَفِعُ الْمُحِبُّ اِلٰى اَعْلٰى ذِرْوَۃٍ مِنَ الْمَقَامَاتِ وَاِنْ كَانَ قَبْلُ مِنَ الْاَوْسَاطِ۔

42 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُثْنٰى عَلَیْہِ مِنْ رَّبِّہٖ بِ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ} فَخُلُقٌ اِسْتَعْظَمَہٗ رَبُّہٗ كَیْفَ یُعَبِّرُ عَنْہُ اَحَدٌ وَّ یُقَالُ فِیْمَنْ اَشَارَ اِلَیْہِ بِشَیْءٍ نَّزْرٍ اِنَّہٗ اِفْرَاطٌ، بَلْ مَعْرِفَۃُ عَیْنِ حَدِّہٖ وَ التَّعَلُّقُ بِبُلُوْغِ قَدْرِہٖ لَوْ بَلَغَ الْمُبَالِغُ فِیْہِ غَایَۃَ جَھْدِہٖ یُقَالُ لَہٗ اِرْجِعْ حَآئِرًا فَاِنَّكَ مَحْرُوْمٌ مِّنْ ذٰلِكَ الْبِسَاطِ، وَقِفْ خَاسِرًا فَكَیْفَ تَحُوْمُ حَوْلَ مَا لَا تَبْلُغُہٗ اِرْجِعْ اِلٰى

الْحَضِيْضِ الْاَوْطَىِٕ فِي الْاِنْحِطَاطِ۔

حَرْفِ "ظ"

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ لِّاَسْرَارِ رَبِّهٖ حَفِظَ، وَنَبَذَ زَيْغَ كُلِّ طَرِيْقٍ وَّلِاَصْحَابِهَا لَفَظَ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هَادِ الدُّعَاةِ وَ مُمِدِّ الْوَرٰى، الْمَرْمُوْقِ مِنَ الدَّوَآئِرِ كُلِّهَا وَ الْاَمَاكِنِ بِاَسْرِهَا بِبَوَارِقِ الْاِلْحَاظِ. قُطْبِ مَرْكَزِ الْعَوَالِمِ وَ سِرِّ مَبْنَاهَا، الَّذِيْ جَلَّ اَنْ يُّعَبِّرَ عَنِ الصَّغِيْرِ مِنْ كَمَالَاتِهٖ بِحَقِيْرِ هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ. وَصَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ك"

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْمَمْلَكَةِ وَ الْمُلْكِ، بَهَآءِ السَّلْطَنَةِ وَ قُطْبِ رَحَا الْفُلْكِ، مَادَّةِ مَوَادِّ اَئِمَّةِ الْجَذْبِ السُّلُوْكِ، قَآئِدِ الْخَلْقِ اِلٰى مَلِكِ الْمُلُوْكِ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّآلِّ عَلٰى جَمَالِكَ بِجَلَالِكَ، وَ الْمُحَذِّرِ مِنْ مُّشَاهَدَةِ جَمَالِكَ صِرْفًا اِلَّا بِسِتْرٍ مِّنْ بَحْرِ كَمَالِكَ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَمَالِ الْمُكَمَّلِ الَّذِيْ خُصَّ بِرُؤْيَتِكَ، وَ نُعِتَ بِغَيْرِ مَا وُصِفَ مِّنْ كَمَالِ رَهَبُوْتِيَّتِكَ، فَاَنْتَ الْمَخْصُوْصُ بِمَعْرِفَتِهٖ وَ هُوَ الْمُفْرَدُ بِمَعْرِفَتِكَ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ بَارِزٍ مِّنْ حَضْرَةِ التَّقْدِيْسِ وَ آخِرِ مُنْجَدِلٍ فِيْ بِحَارِ عَظَمُوْتِيَّتِكَ، فَكُلُّهٗ مِنْكَ وَ اِلَيْكَ، وَ كُلُّ دَلَالَاتِهٖ وَ كَمَالَاتِهٖ اِلَيْكَ وَ فِيْكَ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ مَا مِنْهُ اِلَيْكَ، وَ تَعُمُّ مَا مِنْكَ اِلَيْهِ بِكَ، الْمُشَرَّفِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ { اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۰ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۰ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۰ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۰ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۰ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۰ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۰ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ } فَاشْرَحِ اللّٰهُمَّ صَدْرَنَا، وَ ضَعْ عَنَّا وِزْرَنَا، الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَنَا، وَ ارْفَعْ ذِكْرَنَا، وَ اجْعَلْ مَعَ يُسْرًا اُيُسْرًا، وَصَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ل"

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ بَارِزٍ مِّنْ بُطْنَانِ الْاَزَلِ، اٰخِرِ مَنْ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ بِمَا تَلَقَّاهُ مِنْهُ نَزَلَ.

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُنْفَرِدِ بِالْكَمَالِ، مَنْ سَتَرَ فَرِيْدَ حُسْنِهٖ بِالْجَمَالِ، فَكَانَ فَرْدَ اَفْرَادِ الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ، مَنْ مِّنْهُ الْاِسْتِمْدَادُ وَ هُوَ حَدُّ الْوِصَالِ، فَاَنّٰى لِاَحَدٍ فِيْ نَفَسٍ مِّنْ اَنْفَاسِهٖ عَنْ اَمْدَادِ بَرْزَخِيَّتِهِ الْعَظِيْمَةِ انْفِصَالٌ.

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَنْحَلُّ سَائِرُ الْاَنْكَادِ وَ الْاَهْوَالِ، وَ تُحَلُّ عِقَالَاتُ الْاَكْدَارِ وَ الْاَوْحَالِ.

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّعْظُمُ لَنَا بِهَا الْفَضْلُ، وَ يَكْمُلُ الْوَصْلُ، وَ يَبْلُغُ كُلُّ مَوْعُوْدٍ بِهِ الْاٰجَالَ، وَ نَنَالُ سَائِرَ الْاٰمَالِ، وَ يَبْلُغُ بِهَا صَاحِبُهَا مَقَامَ اَكَابِرِ كِبَارِ الْفُحُوْلِ مِنَ الرِّجَالِ.

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَوَالٰى عَلٰى جَسَدِهٖ وَ قَبْرِهِ الْكَرِيْمِ فِي الْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ، مَا دَامَ مَقْصَدُ الْعَوَالِمِ مِنْ اَقْطَابٍ وَّ اَبْدَالٍ، وَّ مَحَلَّ تَوَجُّهِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ مِنَ الْكِبَارِ وَ الْاَوَاسِطِ وَ الْاَنْذَالِ، وَ احْمِنَا يَا رَبِّ بِمَا حَمَيْتَ بِهٖ نَبِيَّكَ فِيْمَا قَصَصْتَهٗ فِيْ اَشْرَفِ تَنْزِيْلٍ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ. وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ} وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ.

حَرْفِ "م"

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّفْتَاحِ الْاَسْرَارِ الَّتِيْ بِهَا تَنْجَلِيْ سَائِرُ الْهُمُوْمِ، وَ بَرَكَةِ اللهِ الَّتِيْ هِيَ غِيَاثُ اَصْحَابِ الْفَاقَةِ وَ الْغُمُوْمِ، مُزِيْحِ الْاَوْهَامِ، وَ الْمُنِيْرِ وَجْهُهُ الْكَرِيْمُ اِذَا مَا اشْتَدَّ حَلَكُ الظَّلَامِ، بَابِ اللهِ الْاَعْظَمِ، صِرَاطِهِ الْاَقْدَسِ الْاَكْرَمِ.

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِ الْقِدَمِ، مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ وَ الْحِكَمِ.

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَارِقِ الْحَقِّ الْاَتَمِّ، الْمَجْلَى الْاَقْدَمِ، الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الَّذِيْ فِيْ كُلِّ الْحَضَرَاتِ مُحَكَّمٌ.

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرِيْنَا فَضْلَهٗ

الْعَظِيْمُ، وَ تُجْلِيْ كَرْبَنَا الْعَمِيْمُ، وَ نَحْظٰى مِنْهَا بِغَايَةِ الْمَكَارِمِ، وَ نَتَّصِلُ بِهَا بِنِهَايَةِ رُتْبَةِ الْاَجِلَّاءِ الْاَعَاظِمِ، مِنْ خِدْمَةِ جَنَابِهِ الْاَحْمٰى، وَ جَلَالِ قَدْرِهِ الْاَسْمٰى، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ن"

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّزِيْلِ الْاَحْزَانِ، الْمُذْهِبِ عَنِ الْمُتَعَلِّقِ بِاَذْيَالِهٖ اَسْوَارَ اَكْدَارِ الْاَشْجَانِ، وَ الْمُجْلِيْ عَنِ الْقُلُوْبِ بِبَارِقِ نُوْرِهٖ صَدَى الرَّانِ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بَابِ مَوَاهِبِ الرَّحْمٰنِ، وَ سَادِنِ حَضْرَةِ الْكَرِيْمِ الْمَنَّانِ، مَنْ لَّا تَحْجُبُهٗ قَوَاطِعُ مَعَاصِيْنَا وَ غَفَلَاتِنَا عَنْ مُّوَاصَلَةِ اِمْدَادِنَا فِيْ كُلِّ زَمَانٍ، وَلَوْ ضَاقَتِ السَّاعَاتُ وَ اَظْلَمَتِ الْاَسْجَانُ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُثْنٰى عَلَيْهِ بِكُلِّ لِسَانٍ، اَلْمَحْمُوْدِ بِكُلِّ جَنَانٍ، اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِيْ اَحْكَمِ تِبْيَانٍ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۰ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۰ اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۰ وَّ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۰ وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ ۰ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۰ وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۰ وَ الْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۰ وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ ۰ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴾ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ص"

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَا لِاَحَدٍ عَنِ التَّعَلُّقِ بِعَلِيِّ جَنَابِهٖ مِنْ مَّنَاصٍ، وَّلَا لِمَسْجُوْنٍ عَلٰى يَدِ غَيْرِهٖ مِنْ خَلَاصٍ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكَمَالِ وَ الْاِخْتِصَاصِ، مَنْ لَّمْ يَسْبِقْهُ اَحَدٌ مِّنَ الْخَلَآئِقِ اِلٰى رَبِّهٖ بِاَدَآءِ كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِيْ نَسَبِ رَبِّهٖ سُبْحَانَهٗ سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُشَرِّعِ عَلٰى لِسَانِ رَبِّهٖ شَرِيْعَةَ الْقِصَاصِ، وَ هُوَ اَوَّلُ فَاعِلٍ لِّمَا بِهٖ اَمَرَ وَ نَهٰى اِذْ بِذٰلِكَ يَكْمُلُ لِلْمُهْتَدِيْ بِهَدْيِهٖ مِنْ رَّحِيْقِ شَرَابِهِ الْعَاطِرِ الْاِمْتِصَاصِ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّشْغَلُ الْعُمَرَ بِذِكْرِ فَضَآئِلِهَا كُلُّ وَاعِظٍ وَّ قَاصٍّ، وَّ عَامٍّ مِّنَ النَّاسِ وَ خَاصٍّ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ض"

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ بِهٖ يُشْفَى الْقَلْبُ وَ الْبَدَنُ مِنْ سَآئِرِ الْاَمْرَاضِ، وَ غَايَةِ مَطْلَبِ كُلِّ عَاقِلٍ اَنْ يَّخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ هُوَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ فِيْ كُلِّ نَفَسٍ عَنْهُ رَاضٍ، وَ مَنْ لَّا يَكْمُلُ وَصْفُ مُحِبٍّ ﹰبِالْحُبِّ اِلَّآ اِنْ كَانَ مَغْرُوْمًا رَّحِيْمًا ﹰبِكُلِّ مَالَهٗ مِنْ اَجْزَآءٍ وَّ اَبْعَاضٍ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيْنُنَا عَلٰى اَدَاءِ مَا شَرَعَهٗ مِنَ الْفَرَآئِضِ، وَ تَجْعَلُنَآ اَئِمَّةً فِي الدِّيْنِ وَ عِلْمِ الْفَرَآئِضِ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ وَّعَظَ فَحَصَلَ بِهِ الْاِتِّعَاظُ، وَ ازْدَهٰى بِهِ الْكَوْنُ ازْدِهَآءً عَنْ تَرَاضٍ، طَبِيْبِ الْعِلَلِ الَّذِيْ اِنْقَطَعَ عَنْ ﹰبَابِ اللهِ كُلُّ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ عَنْهُ اِعْرَاضٌ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّحُوْزُ بِهَا مِنْهُ غَايَةَ الرِّضَا، وَ نِهَايَةَ الْقُبُوْلِ الْمُرْتَضٰى۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرِيْنَا وَجْهَهٗ يَوْمَ الْعَرْضِ، وَ نُقِيْمُ بِهَا السُّنَّةَ وَ الْفَرْضَ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ع"

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْمَحَافِلِ وَ الْمَجَامِعِ، بَدْرِ الْكَمَالِ اللَّامِعِ، الْمُحِيْطِ بِاَسْرَارِ سَرَآئِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ الْجَوَامِعِ، الْاِمَامِ الْفَنِّ الرَّاتِبِ الْجَامِعِ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَنْبَغِيْ اَنْ يُّشْغَلَ مَا فِيْ جَمِيْعِ الْاَنَامِ مِنْ يَّرَاعٍ، الشَّآنِّ عِنْدَ حُلُوْلِ الْمَصَآئِبِ وَ النَّكَبَاتِ كَلِمَاتِ الْاِسْتِرْجَاعِ، الْوَاعِدِ لِقَآئِلِهَآ اَحْسَنَ مَا مِنْهُ فُقِدَ وَ اَنْ ﹰبِخَيْرٍ مِّنْهُ سَيَحْصُلُ الْاِجْتِمَاعُ، فَاجْمَعِ اللّٰهُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيْنَآ اَسْرَارَ اَنْبِيَآئِكَ وَ اَصْفِيَآئِكَ وَ خَاصَّةِ خُلَاصَةِ خَلْقِكَ بِلَا نِزَاعٍ، فَنُعْطٰى بِحَوْلِكَ وَ طَوْلِكَ وَلَا دِفَاعَ، وَ نُصَادِفُ فِيْ مَيَادِيْنِ التَّصْدِيْرِ وَ التَّبْرِيْزِ وَ الْخَفْضِ وَ الرَّفْعِ كَلِمَةَ الْاِجْمَاعِ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "غ"

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ بِهٖ نَنَالُ

سَائِرَ الرَّغَبَاتِ وَ الْمَبَاغِ، وَ تُجْلِي لَنَا سَائِرَ بَلْ اَكْمَلَ وَ اَجْمَلَ مِمَّا نَزَّهَتْ فِيهِ مِنْ مَحَاسِنِ مَلَكُوتِكَ اَبَا فَارِسٍ الدَّبَّاغِ، وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ كُلَّ مَنْ بَغَى عَلَيْنَا اَوْ طَغَى عَنْ مَوَائِدِ كَرَمِكَ اِذَا نُصِبَ الْعَطَاءُ الْاِفْضَالِي بَاغٍ، وَ قَوْلَهُ اِذَا نَبَذَ فَضْلَكَ عَلَيْنَا اَوْ بَاعَدَنَا عَنْ سَاحَةِ مَنْ اَحْبَبْتَهُمْ وَ خَصَّصْتَهُمْ لَاغٍ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ف"

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الْكَرَمِ الْوَافِ، تُحْفَةِ الصَّفْوَةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِي شَرَّفْتَ بِهٖ وَ اَجْلَلْتَ مَقَامَ اَبْنَآئِهٖ وَ سُلَالَاتِهِ السَّادَاتِ الْاَشْرَافِ، الْاَمَانِ عِنْدَ الزَّيْغِ وَ الطُّغْيَانِ وَ الْاِخْتِلَافِ، مَنْ بِنِسْبَةِ الْمُتَخَلِّقِ مِنْهُمْ بِسُنَنِ مُشَرِّفِهِمْ وَ مُجِلِّ قَدْرِهِمْ بِالْمُتَفَرْنِجِ كَنِسْبَةِ الدُّرِّ مِنَ الْاَصْدَافِ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ الْبَرَارِي وَ الْبَحْرَ الطَّافِي، بَلِ الْكَوْنَ مَا زَالَ كُلَّ يَوْمٍ بِتَفْرِيجِ كُلِّ مُدْلَهِمَّةٍ يُوَافِي، مِنْ بِحَارِ مَعْدِنِ الْاِمْدَادَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الصَّافِي، الْمُشَرَّفِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ} وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ق"

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَطِيَّةِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ، مُفِيضِ الْمِنَحِ وَ الْعَطَايَا عَلَى الْخَلَآئِقِ مِنْ مِّنَنِ رَبِّهِ الرَّزَّاقِ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّنْتَهٰى اَطْمَاعِ الْخَلَآئِقِ، مَفْزَعِ الْعَوَالِمِ اِذَا طَمَّ وَادِي رَهَبُوتِ عَدْلِ الْقَاهِرِ الْخَالِقِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُجْلَى الْحَقَائِقُ، وَ تُفْتَحُ خَزَآئِنُ الرَّقَائِقِ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدْخِلُ بِهَا فِي حِمَايَةِ نُوْرِ مَدَدِهِ السَّابِقِ وَ اللَّاحِقِ، وَ تُنْجِيْنَا مِنْ بَوَارِقِ كُلِّ بَرْقٍ مَّاحِقٍ، وَّ شِهَابٍ سَاحِقٍ، وَّ صُوْرَةِ غَضَبِ الصَّاعِقِ، وَ شَيْطَنَةِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الْمَارِقِ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَّا نُحْجَبُ بِهَا فِي وَقْتٍ مِّنَ الْاَوْقَاتِ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَخْلُوْقِ وَ الْخَالِقِ، فَنُعْطِي لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهٗ طِبْقَ مَنْشُوْرِ الْاِلٰهِ

الرَّازِقِ، مَا تَلَى تَالٍ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۔ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ} وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ ۔

حَرْفِ "س"

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّزِيْلِ الْبَاسِ وَ التَّبَاؤُسِ، وَ مُطَهِّرِ الْقُلُوْبِ مِنْ دَآءِ التَّنَافُسِ، مُجْلِيْ كُلِّ وَجْهٍ عَبُوْسٍ، طَبِيْبِ الْاَجْسَادِ وَ النُّفُوْسِ ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِكُلِّ غَرِيْبٍ فَرِيْدٍ اَحْسَنُ اَنِيْسٍ، وَّ حَدِيْثُهُ الْاَحْلَى اَحْسَنُ مَا يَتَّخِذُهُ الْعَاقِلُ اَبْهٰى جَلِيْسٍ ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نُّدْرِكُ بِهَا مَا فِيْ بِحَارِ مَعَارِفِهٖ مِنَ النَّفَآئِسِ، وَ نَحْظٰى بِمَا لَدَيْهِ مِنَ الْمُخَدَّرَاتِ الْعَرَآئِسِ ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّذْهَبَانِ بِجَمِيْعِ الرِّجْسِ، وَ يُطَهِّرَانِ كُلَّ نَفْسٍ، وَّ تَحْمِيْنَا بِمَا عَلَّمَهٗ رَبُّهٗ كَيْفَ يُتَعَوَّذُ بِهٖ فِيْ اَصْدَقِ الذِّكْرِ بِقَوْلِهٖ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۔ مَلِكِ النَّاسِ ۔ اِلٰهِ النَّاسِ ۔ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۔ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ} وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ ۔

حَرْفِ "ش"

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ اُسْرِيَ بِهٖ مِنَ الْفَرْشِ اِلَى الْعَرْشِ، فَنَالَ بِهِ الْعُلٰى وَ الْبَشَّ ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّلِذُّ لَنَا بِهَا مُكَدَّرُ الْعَيْشِ، وَ نَدْفَعُ بِهَا كُلَّ مَنْ لَّاذَ بِنَا مِنْ اَصْحَابِ النَّزَغَاتِ وَ الطَّيْشِ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ ۔

حَرْفِ "ہ"

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّزِيْلِ الْحَيْرَةِ وَ الْوَلَهْ، عَمَّنْ بِهٖ تَعَلَّقَ وَ رَبَطَ حِبَالَهْ ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُدْرِكُ مَا نَرُوْمُهْ، وَ نَسْتَدْفِعُ بِهٖ شَرَّ كُلِّ مَنْ يَّلُوْمُنَا اَوْ نَلُوْمُهْ ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعَدِّدُ اَوْصَافَهْ، وَ تُشَخِّصُ مَحَاسِنَهْ وَ اَخْلَاقَهْ، وَ تَعُمُّ اَسْلَافَهْ وَ اَخْلَافَهْ. اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ يَا مُخَلِّصَ الْمَوْلُوْدِ مِنْ ضَيْقِ

مَخَاضِ اُمِّهٖ، وَ يَا مُعَافِيَ الْمَلْدُوْغِ مِنْ حُمَةِ سَمِّهٖ، وَ يَا قَادِرُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ بِعِلْمِهٖ، اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ بِاسْمِهٖ، اَنْ تَكْفِيَنَا كُلَّ ظَالِمٍ بِظُلْمِهٖ فَاِنَّكَ تَكْفِيْهِ، بِحُرْمَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۰ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۰ وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۰ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۰ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۰ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۰ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۰ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ﴾ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "و"

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَنِ انْضَافَ اِلٰى سَدَنَةِ اَعْتَابِهٖ غَبِطَهٗ اَهْلُ الْعُلُوِّ، وَ خَدَمَهٗ اَرْبَابُ التَّفَوُّقِ وَ السُّمُوِّ، الَّذِيْ كَانَ مِنْ دُعَآءِ سَلَفِهٖ سَيِّدِنَا يَعْقُوْبَ وَاجِدًا عَلٰى بَنِيْهِ، يَا مَنْ لَّا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ اِلَّا هُوَ، وَ يَا مَنْ لَّا يَعْرِفُ قُدْرَتَهٗ اِلَّا هُوَ، فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ وَ اسْتَجِبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ يَا عَفُوُّ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "لَامِ اَلِف"

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَكُوْنُ كَمَا كَانَ بِلَالًا، فَنُنْفِقُ بِلَالًا، وَلَا نَخْشٰى مِنْ اِلٰهِ الْعَرْشِ اِقْلَالًا، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

حَرْفِ "ی"


93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اُسْتَاذِ كُلِّ نَبِيٍّ، وَّ مَرْجِعِ كُلِّ هَادٍ وَّ وَلِيٍّ، الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَسْتَدْفِعُ كُلَّ شَقْشَقَةٍ وَلِيٍّ، وَّ فَضَاضَةٍ وَّ غَنِيٍّ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔


حَرْفِ "ء"

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الرُّسُلِ وَ الْاَنْبِيَآءِ، وَ مُمِدِّ الدُّعَاةِ اِلَى اللّٰهِ وَ الْاَصْفِيَآءِ، خَصْمِ الْاَبْرِيَآءِ، الْقَاصِمِ ظُهُوْرَ الْاَشْقِيَآءِ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَدْفَعُ جَهْدَ الْبَلَآءِ، وَ دَرْكَ الشَّقَآءِ، وَ سُوْٓءَ الْقَضَآءِ، وَ شَمَاتَةَ الْاَعْدَآءِ۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بِهٖ طَابَ الْاِبْتِدَآءُ، وَ حَسُنَ الْاِنْتِهَآءُ، وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔





وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

صَلَوَاتُ النَّبَوِيَّةِ ﷺ

قطب الولایة العارف باللہ
سیدی احمد الدردیر

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادریة 9 الباکستان
0092-3335187573

درُود وسلام کا یہ مجموعہ قطب وقت حضرت الشیخ الدردیر رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف مبارکہ ہے۔ کتاب ہٰذا کا جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا اُس کے سرورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

مجموع أوراد وصلوات

سيدى
أحمد الدردير

والسادة أهل الطريقة الخلوتية

رضى الله عنهم

يطلب من

مكتبة ومطبعة
الفجر الجديد
٤٤ شارع الكبارى بمنشية ناصر ـ الدراسة
تليفون: ٢٩٢١٢٥٣٥ ـ ٢٦٥٦٠٥٢٤
موبايل: ٠١٠٣٤٨٧٧٦٦ ـ ٠١٠١١٩٦٤٩٦

صَلَوَاتُ

لِلشَّيْخِ الدُّرْدِيْرِ

1 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا عَلٰى اَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ مَجْمَعِ الْحَقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَ مَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَ عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَاِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ قَائِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَاءِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ حَامِلِ لِوَاءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ مَظْهَرِ سِرِّ الْوُجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، اَلْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، اَلْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ، اَلْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ وَ لَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ اَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ خَزَائِنِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَائِهٖ فَهُمْ مِّنْهُ وَ اِلَيْهِ۔

3 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ اِلٰى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ اَفْنَيْتَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ مِّنْهُ انْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ، وَ انْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ، وَ فِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائِقُ، وَ تَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ اٰدَمَ فَاَعْجَزَ الْخَلَائِقَ وَ لَهٗ تَضَاءَلَتِ الْفُهُوْمُ فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ وَّلَا لَاحِقٌ، فَرِيَاضُ الْمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهٖ مُوْنِقَةٌ وَّ حِيَاضُ الْجَبَرُوْتِ بِفَيْضِ اَنْوَارِهٖ مُتَدَفِّقَةٌ وَّلَا شَيْءَ اِلَّا وَ هُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ، اِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا قِيْلَ الْمَوْسُوْطُ، صَلَاةً تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ سِرُّكَ الْجَامِعُ الدَّالُّ عَلَيْكَ، وَ حِجَابُكَ الْاَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ۔

اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنِيْ بِنَسَبِهٖ، وَ حَقِّقْنِيْ بِحَسَبِهٖ، وَ عَرِّفْنِيْ اِيَّاهُ مَعْرِفَةً اَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَّوَارِدِ الْجَهْلِ، وَ اَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَّوَارِدِ الْفَضْلِ، وَ احْمِلْنِيْ عَلٰى سَبِيْلِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ، حَمْلًا مَّحْفُوْفًا بِنُصْرَتِكَ، وَ اقْذِفْ بِيْ عَلَى الْبَاطِلِ

فَادْمَغْهُ. وَ زُجَّ بِيْ فِيْ بِحَارِ الْاَحَدِيَّةِ، وَ انْشُلْنِيْ مِنْ اَوْحَالِ التَّوْحِيْدِ، وَ اَغْرِقْنِيْ فِيْ عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتّٰى لَآ اَرٰى وَلَآ اَسْمَعَ وَلَآ اَجِدَ وَلَآ اُحِسَّ اِلَّا بِهَا، وَ اجْعَلِ الْحِجَابَ الْاَعْظَمَ حَيَاةَ رُوْحِيْ وَ رُوْحَهٗ سِرَّ حَقِيْقَتِيْ وَ حَقِيْقَتَهٗ جَامِعَ عَوَالِمِيْ بِتَحْقِيْقِ الْحَقِّ الْاَوَّلِ يَآ اَوَّلُ يَآ اٰخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ. اِسْمَعْ نِدَآئِيْ بِمَا سَمِعْتَ نِدَآءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا، وَ انْصُرْنِيْ بِكَ لَكَ، وَ اَيِّدْنِيْ بِكَ لَكَ، وَ اجْمَعْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ، وَ حُلْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ. اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ {اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ} {رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا} {اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}.

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، اللَّطِيْفَةِ الْاَحَدِيَّةِ، شَمْسِ سَمَآءِ الْاَسْرَارِ، وَ مَظْهَرِ الْاَنْوَارِ وَ مَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ، وَ قُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ.

اَللّٰهُمَّ بِسِرِّهٖ لَدَيْكَ، وَ بِسَيْرِهٖ اِلَيْكَ، اٰمِنْ خَوْفِيْ وَ اَقِلْ عَثْرَتِيْ وَ اَذْهِبْ حُزْنِيْ وَ حِرْصِيْ وَ كُنْ لِّيْ وَ خُذْنِيْ اِلَيْكَ مِنِّيْ، وَ ارْزُقْنِيْ الْفَنَآءَ عَنِّيْ، وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَفْتُوْنًا بِنَفْسِيْ، مَحْجُوْبًا بِحِسِّيْ، وَ اكْشِفْ لِيْ عَنْ كُلِّ سِرٍّ مَّكْتُوْمٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰدَمَ وَ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ.

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ.

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ.

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ الرِّضٰى وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ رِضَآءَ الرِّضٰى.

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ عَدَدَ كُلِّ حَادِثٍ وَّ قَدِيْمٍ.

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ.

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ وَ السِّرِّ السَّارِيْ فِيْ سَآئِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَرِيْمِ الْاٰبَآءِ وَ الْاُمَّهَاتِ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كَمَالِ اللّٰهِ وَ كَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللّٰهِ وَ اِفْضَالِهٖ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَدَ كَمَالِهٖ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً تَلِيْقُ بِجَمَالِهٖ وَ جَلَالِهٖ وَ كَمَالِهٖ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَذِقْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَذَّةَ وِصَالِهٖ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَ دَوَآئِهَا وَ عَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَ شِفَآئِهَا وَ نُوْرِ الْاَبْصَارِ وَ ضِيَآئِهَا وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِ الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اَجْرِ يَارَبِّ لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِيْ اُمُوْرِنَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرَضِيْنَ عَلَيْهِ وَ اَجْرِ يَارَبِّ لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِيْ اَمْرِيْ وَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ۔

28 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَنَاقِبِ الْفَاخِرَةِ۔

29 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ۔

30 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ خَلِّقْنَا بِاَخْلَاقِهِ الطَّاهِرَةِ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ۔

32 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامَاتِ الْجَلِيْلَةِ۔

33 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ خَلِّقْنَا بِاَخْلَاقِهِ الْجَمِيْلَةِ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ هَبْ لَنَا قَلْبًا شَكُوْرًا۔

35 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْعَلْ سَعْيَنَا مَشْكُوْرًا۔

36 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ لَقِّنَا نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا۔

37 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَلْقِ عَلَيْنَا مِنْكَ مَحَبَّةً وَّ نُوْرًا۔

38 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ هَبْ لَنَا سِرًّا بِالْاَسْرَارِ مَسْرُوْرًا۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ۔

40 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَآءَ بِالْحَقِّ الْبَيِّنِ۔

41 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔

42 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ
كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى سَآئِرِ اَنْبِيَآئِكَ۔

44 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ وَاَوْلِيَآئِكَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمَآئِكَ
عَدَدَ مَا كَانَ وَعَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَعَدَدَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ وَاجْعَلْنَا
بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِمْ مِّنَ الصِّدِّيْقِيْنَ الْاَمِيْنِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

حَرْفِ "ء"

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ۔

46 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَلَآئِكَةِ وَالْاَنْبِيَآءِ۔

47 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى سَآئِرِ الْعُلَمَآءِ وَالْاَوْلِيَآءِ۔

48 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلٰوةً تَمْلَأُ سَآئِرَ الْاَقْطَارِ وَالْاَرْجَآءِ۔

49 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَحَقِّقْنَا بِحَقَآئِقِ الصِّفَاتِ وَالْاَسْمَآءِ۔

50 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاجْعَلْنَا مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ
النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ۔

51 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلٰوةً تَقِيْنَا بِهَا مِنَ الْاِلْحَادِ وَالْاَعْدَادِ۔

حَرْفِ "ب"

52 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ۔

53 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَنْ اُوْتِیَ الْحِکْمَۃَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔

54 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَابِ الْاَبْوَابِ وَلُبَابِ اللُّبَابِ۔

55 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزِلْ عَنْ قُلُوْبِنَا بِنُوْرِہٖ ظُلْمَۃَ الْحِجَابِ۔

56 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَلْھِمْنَا الْحِکْمَۃَ وَالصَّوَابِ۔

57 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اسْقِنَا مِنْ لَّدُنْکَ صَافِی الشَّرَابِ۔

58 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ فَھِّمْنَا اَسْرَارَ الْکِتَابِ۔

59 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْعَلْنَا بِالصَّلٰوۃِ عَلَیْہِ مِنَ الْاَنْجَابِ۔

60 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَدْخِلْنَا حَظِیْرَۃَ الْقُدُسِ فِیْ جُمْلَۃِ الْاَحْبَابِ۔

61 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی سَائِرِ الْاَنْبِیَآءِ وَالْاَصْفِیَاءِ وَالْاٰلِ وَالْاَصْحَابِ۔

حَرْفِ "ت"

62 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَآءَ بِالْاٰیَاتِ الْبَیِّنَاتِ۔

63 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَیَّدِ بِجَلَآئِلِ الْمُعْجِزَاتِ۔

64 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ۔

65 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّارِیْ سِرُّہٗ فِیْ سَائِرِ الْکَائِنَاتِ۔

66 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ کَفِّرْ بِھَا عَنَّا السَّیِّئَاتِ۔

67 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَیِّدْنَا بِالْکَرَامَاتِ۔

68 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ جَمِّلْنَا بِجَمِیْلِ الصِّفَاتِ۔

69 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزِلْ مِنْ قُلُوْبِنَا حُبَّ الرِّیَاسَۃِ وَجَمِیْعَ الشَّھَوَاتِ۔

70 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْعِمْ عَلَیْنَا بِتَجَلِّی الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ۔

71 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَغْرِقْنَا فِیْ عَیْنِ بَحْرِ الْوَحْدَۃِ السَّارِیَۃِ فِیْ جَمِیْعِ الْمَوْجُوْدَاتِ۔

72 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَبْقِنَا بِکَ لَا بِنَا فِیْ جَمِیْعِ اللَّحَظَاتِ۔

73 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ انْشُرْ عَلَیْنَا نِعْمَتَکَ الْمَخْصُوْصَۃَ بِاَھْلِ الْعِنَایَاتِ۔

74 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَذِقْنَا لَذَّۃَ تَجَلِّی الذَّاتِ وَاَدِمْھَا عَلَیْنَا مَا دَامَتِ الْاَرْضُ وَالسَّمٰوٰتُ۔

75 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحَابَتِهٖ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ صَدَّقَ بِرِسَالَتِهٖ وَالْطُفْ بِنَا وَبِوَالِدَيْنَا وَسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ۔

حَرْفِ "ث"

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَدِيْمٍ وَّحَادِثٍ۔

77 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّعُمُّ نُوْرُهَا جَمِيْعَ الْحَوَادِثِ۔

78 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا صَدَّقَ صَادِقٌ وَّنَكَثَ نَاكِثٌ۔

79 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاكْفِنَا شَرَّ الْحَوَادِثِ۔

حَرْفِ "ج"

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْاِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ۔

81 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّتَوِّجْنَا مِنَ الْقَبُوْلِ اَبْهَجَ تَاجٍ۔

82 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمَحْفُوْظِيْنَ مِنَ الْاَعْوِجَاجِ۔

حَرْفِ "ح"

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْمِلَاحِ۔

84 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالسَّمَاحِ۔

85 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَعَاقَبَ الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ۔

86 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ حَضْرَةِ الْكَرِيْمِ الْفَتَّاحِ۔

87 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ الْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ۔

88 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِي الْفَضْلِ وَالرَّبَاحِ۔

حَرْفِ "خ"

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِسِرِّهٖ اسْتَقَامَتِ الْبَرَازِخُ۔

90 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَنْسُوْخٍ وَّنَاسِخٍ۔

91 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَمِّرْ قُلُوْبَنَا بِالنُّوْرِ الرَّاسِخِ۔

92 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ مَحَبَّتِهٖ كَالْجِبَالِ الرَّوَاسِخِ۔

حَرْفِ "د"

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ دَاعٍ اِلَى اللّٰهِ وَهَادٍ۔

94 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسْلُكْ بِنَا سَبِيْلَ الرَّشَادِ۔

95 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاخْلَعْ عَلَيْنَا خَلْعَ الرِّضْوَانِ وَالْوِدَادِ۔

96 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّتَوِّجْنَا بِتَاجِ الْقُبُوْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ۔

97 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّارْأَفْ بِنَا رَأْفَةَ الْحَبِيْبِ بِحَبِيْبِهٖ يَوْمَ التَّنَادِ۔

98 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّانْشُرْ طَرِيْقَتَنَا فِيْ سَآئِرِ الْبِلَادِ۔

99 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَمِّرْ بِسَوَاطِعِ اَنْوَارِهَا كُلَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِهَا مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ وَّبَادٍ۔

100 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّقِنَا شَرَّ الْحُسَّادِ وَاَهْلِ الْبَغْيِ وَالْعِنَادِ۔

101 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَصْلِحْ وُلَاةَ اُمُوْرِنَا بِالْعَدْلِ وَالسِّدَادِ۔

102 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ ذَوِى الْفَضْلِ وَالْاِمْدَادِ۔

حَرْفِ "ذ"

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اُسْتَاذِ كُلِّ اُسْتَاذٍ۔

104 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلَاذِ كُلِّ مَلَاذٍ۔

105 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَعِذْنَا مِنْ كُلِّ مَا مِنْهُ اسْتَعَاذَ۔

حَرْفِ "ر"

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْاَسْرَارِ۔

107 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْاَنْوَارِ۔

108 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَضَآءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔

109 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

110 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ السَّادَةِ الْاَخْيَارِ۔

حَرْفِ "ز"

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَشَرَّفَتْ بِهٖ اَرْضُ الْحِجَازِ۔

112 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ مَنِ اتَّبَعَهٗ فَقَدْ فَازَ۔

113 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاكْشِفْ لَنَا عَنْ اَسْرَارِ الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ۔

114 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُخْتَصِّيْنَ بِحُسْنِ الْمَفَازِ۔

حَرْفِ "س"

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طَيِّبِ الْاَنْفَاسِ۔

116 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّابْسُطْ لَنَا الرِّزْقَ وَاغْنِنَا عَنِ النَّاسِ۔

117 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّطَهِّرْنَا مِنَ الْاَدْنَاسِ۔

118 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَزَلْتَ عَنْهُمُ الْاِلْتِبَاسَ۔

حَرْفِ "ش"

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ لَمْ يَرْضَ بِلِيْنِ الْفِرَاشِ۔

120 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ كَانَ مِنْ خُلُقِهِ الْبَشَاشُ۔

121 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ تَبَرَّأَ مِنَ الْغَاشِ۔

122 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّارْزُقْنَا بِبَرَكَتِهِ الْمَعَاشَ۔

حَرْفِ "ص"

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْاٰمِرِ بِالتَّقْوٰى وَالْاِخْلَاصِ۔

124 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِكَ الْخَوَّاصِ۔

125 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِى الْقُرْبِ وَالْاِخْتِصَاصِ۔

حَرْفِ "ض"

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ اَزْهَرَتْ بِبَرَكَتِهِ الرِّيَاضُ۔

127 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَدَدِ الْفَيَّاضِ۔

128 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ اَعْرَضَ عَمَّا سِوَى اللهِ كُلَّ الْاِعْرَاضِ۔

129 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّانْزِعْ مِنْ قُلُوْبِهِمْ حُبَّ الشَّهَوَاتِ وَالْاَغْرَاضِ۔

130 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُطَهَّرَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنَ الْاَمْرَاضِ۔

حَرْفِ "ط"

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْهَادِیْ اِلٰى سَوَآءِ

الصِّرَاطِ۔

132 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْآمِرِ بِالْعَدْلِ وَ النَّاهِيْ عَنِ التَّفْرِيْطِ وَ الْإِفْرَاطِ۔

133 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْنَا بِبَرَكَتِهٖ مِنَ الْإِنْحِطَاطِ۔

134 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ رَبَطُوْا قُلُوْبَهُمْ فِيْ مَحَبَّتِهٖ كُلَّ الْإِرْتِبَاطِ۔

حَرْفِ "ظ"

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَحْفُوْظٍ وَّ حَافِظٍ۔

136 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَوْعُوْظٍ وَّ وَاعِظٍ۔

137 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اتَّعَظُوْا مِنْهُ بِجَمِيْلِ الْمَوَاعِظِ۔

حَرْفِ "ع"

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ السَّاطِعِ۔

139 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَلْتَذُّ بِحَدِيْثِهِ الْمَسَامِعُ۔

140 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ لِكُلِّ خَيْرٍ جَامِعٍ۔

141 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزِلْ عَنْ قُلُوْبِنَا الْبَرَاقِعَ۔

142 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانَ يَجْمَعُهُمْ خَيْرَ الْمَجَامِعِ۔

حَرْفِ "غ"

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ وَ الْبَلَاغِ۔

144 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ السَّمٰوَاتِ وَ الْفَرَاغَ۔

حَرْفِ "ف"

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْآمِرِ بِالْعَدْلِ وَ الْإِنْصَافِ۔

146 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاهِيْ عَنِ التَّبْذِيْرِ وَ

الْإِسْرَافِ۔

147 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَحْرِ الْخِضَمِّ الَّذِىْ مِنْهُ الْإِغْتِرَافُ۔

148 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَسْعِفْنَا بِهٖ كُلَّ الْإِسْعَافِ۔

149 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ ارْتَشَفُوْا مِنْ فَيْضِ نُوْرِهٖ جَمِيْلَ الْإِرْتِشَافِ۔

حَرْفِ "ق"

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ۔

151 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُزِيْلُ بِهَا عَنَّا الْوَهْمَ وَالنِّفَاقَ۔

152 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدْخِلُنَا بِهَا حَضْرَةَ الْإِطْلَاقِ۔

153 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِى الْبَأْسِ الشَّدِيْدِ عِنْدَ التَّلَاقِ۔

حَرْفِ "ك"

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَحَرَّكَتِ الْاَفْلَاكُ۔

155 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَسْبِيْحِ الْاَمْلَاكِ۔

حَرْفِ "ل"

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ بَطَلِ الْاَبْطَالِ۔

157 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالنَّوَالِ۔

158 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَذِقْنَا لَذَّةَ الْوِصَالِ۔

159 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ كَمَلَةِ الرِّجَالِ۔

حَرْفِ "م"

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيِّدِ الْهُمَامِ۔

161 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الرُّسُلِ الْكِرَامِ

عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلٰى مَرِّ اللَّيَالِيْ وَ الْاَيَّامِ۔

162 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنَ الشُّكُوْكِ وَ الْاَوْهَامِ۔

163 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْاَئِمَّةِ الْاَعْلَامِ۔

حَرْفِ "ن"

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَكْوَانِ۔

165 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ الْاَمْكِنَةَ وَ الْاَزْمَانَ۔

166 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْتَقِيْ بِهَا اِلٰى مَقَامِ الْمَعْرِفَةِ وَ الْاِحْسَانِ۔

167 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْاَئِمَّةِ الْاَعْيَانِ۔

حَرْفِ "ہ"

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْعَالِ الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ۔

169 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَطْلِعْنَا عَلٰى اَسْرَارِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

حَرْفِ "و"

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَا نَطَقَ عَنِ الْهَوٰى۔

171 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَا ضَلَّ عَنِ الْحَقِّ وَ مَا غَوٰى۔

172 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَلْبِسْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِبَاسَ التَّقْوٰى۔

173 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ طَهِّرْنَا بِهَا مِنَ الشَّكْوٰى وَ الدَّعْوٰى۔

174 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ كُفَّ عَنَّا بِهَا الْاَسْوٰى وَ الْبَلْوٰى۔

175 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّالْطُفْ بِنَا بِبَرَكَتِهَا مِنَ السِّرِّ وَالنَّجْوٰى۔

حَرْفِ "لام الف"

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامِ الْاَعْلٰى وَالسِّرِّ الْاَجْلَا۔

177 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْخَلَا وَالْمَلَا۔

178 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اَهْلِ الْعُلَا۔

179 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاكْشِفْ لَنَا عَنْ مَّقَامَاتِ الْوَلَا وَالْاِسْتِجْلَا۔

حَرْفِ "ى"

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ۔

181 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى كُلِّ مَلَكٍ وَّوَلِيٍّ۔

182 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى كُلِّ عَالِمٍ وَّتَقِيٍّ۔

183 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَعَلٰى سَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعَوَاتِ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ اَعْمَالِنَا خَوَاتِمَهَا وَخَيْرَ اَيَّامِنَا يَوْمَ لِقَائِكَ۔

{رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ} {رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ}

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَآ اَخَّرْنَا وَمَآ اَسْرَرْنَا وَمَآ اَعْلَنَّا وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنَّا۔

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا فَنَتَّبِعُهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا فَنَجْتَنِبُهٗ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ۔


اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔


اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَآ اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَاَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِيْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَاٰخِرَتِنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَدَوَامَ الْاِقْبَالِ عَلَيْكَ وَاكْفِنَا شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَقِنَا شَرَّ الْاِنْسِ وَالْجَانِّ وَاخْلَعْ عَلَيْنَا خِلَعَ الرِّضْوَانِ وَهَبْ لَنَا حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ، وَتَوَلَّ قَبْضَ اَرْوَاحِنَا عِنْدَ الْاَجَلِ بِيَدِكَ مَعَ شِدَّةِ الشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ يَا رَحْمٰنُ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّنُوْرًا سَاطِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ وَّاَسْئَلُكَ الْغِنَا عَنِ النَّاسِ۔

{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۰ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۰ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۰ يَفْقَهُوا قَوْلِي} {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} {رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}





وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ

اَلنَّفَحَاتُ النُّوۡرَانِيَّةُ
فِي الصَّلَاةِ عَلٰى خَيۡرِ الۡبَرِيَّةِ ﷺ

سیدی محی الدین بن العربی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسۡلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبۃ القادریۃ 10
الباکستان
0092-3335187573

نفح الطیب فی الصلاۃ علی النبی الحبیب ﷺ

کتاب مذکورہ بالا حضرت سیدی المختار الکنتی کی تالیف مبارکہ ہے، کتاب ہذا کا جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا اُس کے ایک صفحے کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

نفح الطيب

في الصلاة على

النبي الحبيب ﷺ

سيدي المختار الكنتي

اَلنَّفَحَاتُ النُّوْرَانِيَّةُ

فِي الصَّلَاةِ عَلٰى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ بِالصِّيَغِ الْجَارِيَّةِ عَلٰى نَمَطِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ. الَّذِيْ اخْتَرْتَهٗ لِوَحْيِكَ الْاَمِيْنِ. وَ اَرْسَلْتَهٗ اِلٰى كَآفَّةِ النَّاسِ بِكِتَابٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ فَابْتَحْتَهٗ اِفْتِتَاحَ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ فَاتِحَةً لِاَهْلِ الْيَمِيْنِ. وَ ظَهَرَتْ بِهٖ دَلَآئِلُ الْاِسْلَامِ عَلٰى كُلِّ دِيْنٍ. وَّ نَصَرْتَهٗ نَصْرًا عَزِيْزًا عَلٰى اَعْدَآئِهِ الْمَارِدِيْنَ. وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ}.

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ جَعَلْتَ اَمْرَهٗ مَحْتُوْمًا وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمٓ ۚ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ}.

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ عَلٰى اُمَّتِهٖ شَهِيْدًا وَّ اُمَّتَهٗ عَلَى النَّاسِ شُهُوْدًا وَّ مَنَحْتَهٗ لَيْلَةَ الْاِسْرَآءِ مِنْ جَلَالِ اَنْوَارِ الْمُشَاهِدِ وَ اَيَّدْتَهٗ بِالْجُنُوْدِ عَلَى الطَّآئِفَةِ الْكَافِرَةِ الْجَاحِدِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ}.

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ مَنْ لَّهُ الشَّفَاعَةُ وَ الْحَوْضُ الْمَوْرُوْدُ وَ اللِّوَآءُ الْمَعْقُوْدُ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ}.

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ قَسَمْتَ لَهٗ مِنْ جَزِيْلِ عَطَآئِكَ قِسْمًا مَّوْفُوْرًا وَّ جَعَلْتَ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا وَّ جَعَلْتَهٗ فِيْ جَمِيْعِ غَزَوَاتِهٖ مُؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ}.

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْكَرِيْمِ الْجَوَادِ الَّذِيْ تَعَلَّمْتَ مِنْ كَرَمِهٖ جَمِيْعُ الْاَجْوَادِ وَ جَعَلْتَهٗ شَفِيْعًا فِي الْعُصَاةِ مَنْ اٰمَنَهٗ يَوْمَ الْمَعَادِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْمُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمٓصٓ}.

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ تَمَّتْ نُبُوَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَ بِهَا نَقْصٌ وَّلَآ اُفُوْلٌ وَّ شُعَاعُ شَمْسِ رِسَالَتِهٖ لَيْسَ يَحُوْلُ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ}.

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ عَمَّنَا بِجَمِيْلِهٖ وَ بَلَّغْتَهٗ مَا يَخْتَارُ مِنْ اٰمَلِهٖ وَ سُؤْلِهٖ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ}۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ حَوَتْ طَلْعَتُهُ السُّرُوْرَ وَ التَّسْنِيْمُ وَ هَبَّ عَلَيْهِ مِنْ رِّيَاحِ السَّعَادَةِ نَسِيْمٌ وَ جَعَلْتَهٗ لِلْجَنَّةِ وَ النَّارِ قَسِيْمٌ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ}۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَوْحَيْتَ اِلَيْهِ لَيْلَةَ الْاَسْرٰى عِلْمًا عَزِيْزًا وَّ جَعَلْتَ لَهٗ عَلِيًّا ۢ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اَخًا وَّ وَزِيْرًا وَّ اَذْهَبْتَ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيْرًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓرٰ ۚ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ}۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَمَرْتَهٗ بِاِنْذَارِ عَشِيْرَتِهِ الْاَقْرَبِيْنَ وَ صَيَّرْتَ اَهْلَ التَّقْوٰى مِنْ جَنَابِهِ الْعَزِيْزِ مُقَرَّبِيْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ}۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَشَرَّفَتْ بِمَدْحِهِ الْمَادِحُوْنَ وَ صَلَحَ بِاتِّبَاعِ شَرْعِهٖ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ وَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ}۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اسْمُهٗ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ مَسْطُوْرٌ وَّ جَعَلْتَ عِلْمَ رِسَالَتِهٖ فِي الْخَافِقَيْنِ مَنْشُوْرٌ وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓرٰ ۚ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ}۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ قُدْوَةً لِّلْفُضَلَاءِ الْعَامِلِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ}۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ عَزَّتْ بِعِزَّتِهٖ اَوْلِيَآؤُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَ زَلَّتْ لِهَيْبَتِهٖ اَعْدَآؤُهُ الْكَافِرُوْنَ وَ اَوْحَيْتَ اِلَيْهِ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ}۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَمَرُ سَعَادَتِهٖ لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ كُسُوْفًا وَّلَا نَقْصًا وَّ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مِنْ خَزَآئِنِ مُلْكِكَ نِعَمًا لَّا تُحْصٰى وَ جَعَلْتَهٗ لِاَصْبُعِ النُّبُوَّةِ خَاتَمًا وَّ لِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَصًّا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى}۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اُلْبِسَ ثَوْبًا مِّنَ الْمَهَابَةِ مُعْلِمًا وَّ اغْتَرَفَ مِنْ بَحْرِ عِلْمِهٖ جَمِيْعُ الْعُلَمَا وَ جَعَلْتَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ لِمَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْنَمًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا قَيِّمًا}۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَلَكَ الْاَمْنَ وَ الرَّشَادَ وَ نَهٰى عَنِ الْبَغْيِ وَ الْفَسَادِ وَ عَصَمْتَهٗ بِشِدَّةِ طَوْلِكَ مِنْ جَمِيْعِ الْاَعْدَآءِ وَ الْحُسَّادِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {كٓهٰيٰعٓصٓ}۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حَنَّ اِلَيْهِ الْجِزْعُ وَ شَكَا اِلَيْهِ الْبَعِيْرُ حَقًّا وَّ مَدَّتِ الْمَطَايَا اَعْنَاقَهَا اِلَيْهِ مِنْ رَّأْسِ وَادِي الْعَقِيْقِ شَوْقًا وَّ شَاعَتْ رِسَالَتُهٗ فِي الْبِلَادِ غَرْبًا وَّ شَرْقًا وَّ خَصَّصْتَهٗ بِقَوْلِكَ {طٰهٰ ۔ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى}۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَصْحَابُهٗ لِاِنْبِرَامِ عَهْدِهٖ لَا يَنْقُضُوْنَ وَلِعَهْدِهٖ وَ مِيْثَاقِهٖ دَآئِمًا يَّحْفَظُوْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ}۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اُسْرِيَ بِهٖ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ وَ نَطَقَ بِحُسْنِ اَوْصَافِهٖ مَنْ لَّهٗ لِسَانٌ فَصِيْحٌ وَّ قَلْبٌ سَلِيْمٌ وَّ شَرَّفَ بِهِ الْبَيْتَ وَ الْمَقَامَ وَ زَمْزَمَ وَ الْحَطِيْمَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ}۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِعِلْمِهِ الْعُلَمَآءُ يَقْتَدُوْنَ وَ بِنُوْرِ شَرْعِهٖ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ يَهْتَدُوْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ}۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاٰيَاتِ وَ الْمُعْجِزَاتِ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ مَلْجَاً لِّلْقَاصِدِيْنَ وَ الْعُفَاتِ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ اَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيَاتٍۢ بَيِّنَاتٍ}۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ لِلضُّعَفَآءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ مُجِيْرًا وَّ لِكُؤُوْسِ الْعَطَآءِ عَلَى الْفُقَرَآءِ مُدِيْرًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا}۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ لِكَافَّةِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ وَ حَفِظْتَهٗ بِمُعَقِّبَاتِ اَمْرِكَ مِنْ كَيْدِ الْخَآئِنِيْنَ وَ نَصَرْتَ اَوْلِيَآءَهٗ عَلٰى اَعْدَآئِهٖ فَاَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {طٰسٓمٓ ۔ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ}۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ فَضَّلْتَهٗ وَ اَهْلَ بَيْتِهٖ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ جَعَلْتَهُمْ خَمْسَةً وَّ سَادِسُهُمُ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ وَ شَرَّفْتَ بِهٖ اَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِيْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ

مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {طٰسٓ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ}۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَهٗ عِنْدَكَ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ وَّلِمَنْ آمَنَ بِهٖ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ جَنَّاتٌ وَّ عُيُوْنٌ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ جَزَآءً م بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {طٰسٓمّٓ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۚ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ}۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ ظَهَرَ بِغَرَآئِبِ الْفُنُوْنِ وَ شَرَعَ لِاُمَّتِهِ الْمَفْرُوْضَ وَ الْمَسْنُوْنَ وَ اَظْهَرَ دِيْنَهٗ وَ قَهَرَ اَعْدَآءَهٗ وَ جَرَّعَهُمْ كَاْسَاتِ الْمَنُوْنِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمّٓ ۚ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ}۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَصْبَحَتْ لَهٗ حُجُبُ الْجَلَالِ رُسُوْمٌ وَ جَعَلْتَهٗ بَيْنَ اَصْحَابِهٖ كَالْبَدْرِ بَيْنَ النُّجُوْمِ وَ بَلَّغْتَهٗ جَمِيْعَ مَا يَخْتَارُهٗ وَ يَرُوْمُ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمّٓ ۚ غُلِبَتِ الرُّوْمُ}۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ خَاتَمَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ قَآئِدًا لِّاُمَّتِهٖ خَيْرَ الْاُمَمِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اِلٰى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمّٓ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ ۚ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ}۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ بُغْيَةً لِّلطَّالِبِيْنَ وَ كَنْزًا لِّلْعُفَاتِ وَ نُصْرَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ رَدَّ اَخْبَارَ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ يَوْمَ الْمُبَاهَلَةِ خَآئِبِيْنَ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {الٓمّٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ مَلْجَاً لِّلْقَاصِدِيْنَ وَ كَنْزًا وَّ نُزْهَةً لِّاَعْيُنِ النَّاظِرِيْنَ وَ عَادِلًا وَّ اِمَامًا لِّعِبَادِكَ الْمُتَّقِيْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَ الْمُنَافِقِيْنَ}۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ صَاحِبِ الْمَجْدِ وَ الشَّرَفِ الْمَحْضِ الْقَآئِمِ بِاَحْكَامِ النَّبِيِّيْنَ وَ الْفَرْضِ وَ الشَّفِيْعِ لِلْعُصَاةِ وَ الْمُذْنِبِيْنَ يَوْمَ الْعَرْضِ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ}۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ رَكِبَ رَفْرَفَ الْمَعْلَا، طَلَبًا لِّلْقُرْبِ مِنَ الْمَوْلٰى، وَ جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى وَ اعْتَلَا وَ سَمِعَ خِطَابَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَا وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا}۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ آتَيْتَهٗ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَ جَعَلْتَهٗ فِى الْعَالَمِيْنَ مَخْصُوْصًا م بِالتَّبْجِيْلِ وَ التَّعْظِيْمِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {يٰسٓ ۚ وَ

الْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ . اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ }.

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اَعْلَيْتَ لَهٗ قَدْرًا وَّ شَرَحْتَ لَهٗ صَدْرًا وَّ جَعَلْتَ لَهُ الْاِمَامَ عَلِيًّا نَسَبًا وَّ صِهْرًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { وَ الصَّآفَّاتِ صَفًّا . فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا }.

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ انْتَشَرَ ذِكْرُ عَدْلِهٖ فِي الْآفَاقِ وَ تَبَيَّنَ بِهِ الْهُدٰى مِنَ الضَّلَالَةِ وَ النِّفَاقِ وَ عَادَتْ بِهٖ اَسْوَاقُ الْحَقِّ قَآئِمَةً عَلٰى سَاقٍ وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { صٓ . وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ }.

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ جَعَلْتَ مَصِيْرَ اُمَّتِهٖ اِلٰى جَنَّةٍ لَّا يُسْمَعُ فِيْهَا لَغْوٌ وَّلَا تَاْثِيْمٌ وَّ اَوْحَيْتَ اِلَيْهِ اَلَّا يُطِيْعَ كُلَّ حَلَّافٍ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ، وَّلَا يَنْهَرُ السَّآئِلَ وَلَا يَقْهَرُ الْيَتِيْمَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ }.

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الرَّضِيِّ الْمُرْضِيِّ التَّقِيِّ الْاَوَّابِ وَ لِلْمُخَالِفِيْنَ لِشَرِيْعَتِهٖ فِيْ جَهَنَّمَ اَحْقَابٌ ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ }.

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ جَعَلْتَ اَوْلِيَآءَهٗ فِيْ طَاعَتِهٖ يُحْبَرُوْنَ ، ذٰلِكَ جَزَآءُ لَّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { حٰمٓ . تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهٗ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ }.

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْجَمِيْلِ الْاَوْصَافِ الْمَعْرُوْفِ بِالتَّقْوٰى وَ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الْاِنْصَافِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { حٰمٓعٓسٓقٓ }.

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ يَرْجُوْهُ لِمَغْفِرَةِ ذُنُوْبِهِمْ عِبَادُكَ الْمُسْرِفُوْنَ فِيْ يَوْمٍ عَظِيْمٍ لَّا يَنْفَعُ فِيْهِ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنٌ ذٰلِكَ يَوْمٌ يَّرْبَحُ فِيْهِ مَنْ حَقَّقَ وَ يُخْسِرُ الْمُبْطِلُوْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { حٰمٓ . وَ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ . اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ }.

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ كَفَّ اَكُفَّ الْمُعْتَدِيْنَ ، وَ هَمَّ بِسَطْوَتِهٖ جُيُوْشَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ خَضَعَتْ لِهَيْبَتِهٖ اَعْنَاقُ الْجَبَّارِيْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { حٰمٓ . وَ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ . اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ وَّ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ }.

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَعَلْتَهٗ فِي الْعَالَمِيْنَ مَخْصُوْصًا ، بِالتَّبْجِيْلِ وَ التَّعْظِيْمِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ { حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ }.

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ قَهَرَ فُرْسَانَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ اَبْطَالَهُمْ وَ كَسَرَ اَصْنَامَهُمْ وَ اَذَلَّ اَقْيَالَهُمْ وَ مَلَكَ اَرْضَهُمْ وَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ

الْعَزِيْزِ {اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ}.

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَنْبَعْتَ مِنْ ء بَيْنِ اَصَابِعِهٖ مَآءً مَّعِيْنًا وَّ اخْتَرْتَهٗ عَلٰى وَحْيِكَ ثِقَةً وَّ اَمِيْنًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا}.

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ صَاحِبِ الْفَضْلِ الْعَمِيْمِ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ}.

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْحَمِيْدِ الرَّشِيْدِ النَّاطِقِ بِالرَّأْيِ وَ الْقَوْلِ السَّدِيْدِ الَّذِىْ ذَكَّرَ بِكِتَابِكَ مَنْ يَّخَافُ الْوَعِيْدِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {قٓ ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ}.

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الشَّاكِرِ لِنِعَمِكَ سِرًّا وَّ جَهْرًا ِ الَّذِىْ رَفَعْتَ لَهٗ ذِكْرًا وَّ وَضَعْتَ عَنْهُ وِزْرًا وَّ جَعَلْتَ لَهٗ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ قُوَّةً وَّ صَبْرًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ الذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۚ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا}.

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اِذَآ اَرَادَ اَنْ يَّزُوْرَ اَقْوَامًا سَبِقَهٗ اِلٰى مَنَازِلِهِمُ النُّوْرُ وَ قَسَمْتَ لَهٗ مِنَ السَّعَادَةِ قِسْمًا مَّوْفُوْرًا وَّ قَرَنْتَ اسْمَهٗ مَعَ اسْمِكَ فَهُوَ عَلَى الْمَنَابِرِ مَشْهُوْرٌ وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ الطُّوْرِ ۚ وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ}.

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ السَّيْفِ الْمَدَى الشَّدِيْدِ الْقَوِيِّ الَّذِىْ حَازَ جَمِيْعَ الْفَضَآئِلِ وَ حَوٰى وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۚ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوٰى}.

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ عِلْمُ سَعَادَتِهٖ فِى الْخَافِقِيْنَ قَدِ انْتَشَرَ وَ فَضَّلْتَهٗ بِالرِّسَالَةِ وَ الْوَحْيِ عَلٰى جَمِيْعِ الْبَشَرِ وَ جَعَلْتَهٗ قُدْوَةً لِّمَنْ طَافَ وَ لَبّٰى وَ اعْتَمَرَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ}.

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَعْطٰى مَنِ اسْتَجَارَ بِهِ الْعَفْوَ وَ الْاَمَانَ وَ جَعَلْتَهٗ بِكَرَمِكَ وَ حِلْمِكَ اَوْحَدَ الْعَصْرِ وَ الزَّمَانِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَلرَّحْمٰنُ ۚ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ}.

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الصَّفُوْحِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ الْعَزِيْزِ الْكَرِيْمِ الْقَرِيْبِ الْمُرَاجَعَةِ الَّذِىْ جَعَلْتَ اُمَّتَهٗ لِاَمْرِهٖ طَآئِعَةً وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}.

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَعَوَّذَ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَ اَمَرْتَهٗ اَنْ يَّتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَ جَعَلْتَهٗ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اُمَّتُهٗ تَرْجُوْهُ لِحَشْرِهَا وَ لَهَا الْفَوْزُ وَ الْاَمَانُ بِهٖ فِيْ نَشْرِهَا وَ يُسْرِهَا قَدْ بَدَّلَتْ بَعْدَ عُسْرِهَا وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا ﴾۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَوْعَدْتَ لِمَنْ اَطَاعَهٗ دَارَ النَّعِيْمِ وَ اَعْدَدْتَ لِمَنْ عَصَاهُ لَظٰى وَ نَارَ الْجَحِيْمِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَبَتَّ حَاسِدَهٗ وَ قَهَرْتَ ضِدَّهٗ وَ بَذَلَ جَمِيْعَ الْمُسْتَرْفِدِيْنَ بِرَّهٗ وَ رِفْدَهٗ وَ جَعَلْتَهٗ لِلْمُذْنِبِيْنَ وَ الْعُصَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمْدَهٗ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَرَّبْتَهٗ وَ ابْتَدَاْتَهٗ بِالتَّسْلِيْمِ وَ جَعَلْتَ شَرْعَهٗ بَعْدَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُقِيْمٌ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْجَوَادِ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ هَادِيًا اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴾۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَوْلِيَآؤُهٗ فِيْ مِلَّتِهٖ يَرْغَبُوْنَ وَ فِيْ جَمِيْعِ الْمَوَاطِنِ لِاَعْدَآئِهٖ غَالِبُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ نَاكِبُوْنَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ﴾۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ فَجَّرْتَ الْمَآءَ مِنْ م بَيْنِ اَصَابِعِهٖ تَفْجِيْرٌ، وَ جَعَلْتَهٗ لِمَنِ اسْتَجَارَ بِهٖ مِنَ الْعُصَاةِ مُجِيْرٌ وَ اَرْسَلْتَهٗ اِلٰى كَآفَّةِ النَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ جَعَلْتَ حُبَّهٗ فِيْ قُلُوْبِ اَوْلِيَآئِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ مُنْدَرِسًا، وَ جَعَلْتَهٗ بِكَرَمِكَ اَكْرَمَ الْكُرَمَآءِ وَ رَأْسَ الرُّؤَسَآءِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ ﴿ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ ﴾۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ لِطَرِيْقِ النُّصْحِ وَ الرُّشْدِ سَلَكَ وَ مَنَحْتَهٗ

جَمِيعَ مَا رَبِهِ قَبلَ اَن يَسأَلَكَ فَاعفُ عَنّيِ فَاِنّي امرُؤٌ بِهِ اَسئَلُكَ وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ } .

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي جَعَلتَهُ الهُدٰى خَيرَ دَاعٍ وَّ نَصِيرٍ وَ جَعَلتَ آيَتَهُ الاِمَامَ عَلِيِّ نِ المُرتَضٰى، صَاحِبِ المِنَصَّةِ يَومَ الغَدِيرِ وَ جَعَلتَهُ بِعَوَاقِبِ الاُمُورِ خَبِيرٌ وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ } .

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي شَهِدَت بِاَفضَلِيَّتِهِ المَلَآئِكَةُ المُقَرَّبُونَ وَ بَشَّرَت بِرِسَالَتِهِ قَبلَ مَبعَثِهِ الاَنبِيَآءُ وَ المُرسَلُونَ وَ استَبشَرَت بِظُهُورِ دَعوَتِهِ عِبَادُكَ المُؤمِنُونَ وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { نٓ ۚ وَ القَلَمِ وَمَا يَسطُرُونَ } .

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي جَعَلتَ قُلُوبَ اُمَّتِهِ لِزِيَارَةِ قَبرِهِ مُشتَاقَةً، وَ يَومَ القِيَامَةِ كُلَّ الاَنبِيَاءِ وَ تَحتَ لِوَآئِهِ مِنسَاقَةً وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { اَلحَآقَّةُ ۚ مَا الحَآقَّةُ ۚ وَمَآ اَدرٰىكَ مَا الحَآقَّةُ } .

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي جَعَلتَهُ لِاَمرِكَ طَآئِعًا وَّ سَامِعٍ، وَ اَيَّدتَهُ بِالنَّصرِ العَزِيزِ فَمَا زَالَ لِاَعدَآئِهِ قَاطِعٍ، وَ جَعَلتَهُ لِلعُصَاةِ مِن اُمَّتِهِ يَومَ الحَشرِ شَافِعٍ، وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلكَافِرِينَ لَيسَ لَهُ دَافِعٌ } .

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي جَعَلتَ مَسرَاهُ اِلَى السَّبعِ الطِّبَاقِ بِرُوحِهِ وَ جِسمِهِ وَ اَمَرتَ عِبَادَكَ المُؤمِنِينَ اَلَّا يَتَعَدّٰى اَحَدٌ حَدَّ رَسمِهِ وَ جَعَلتَ شَهرَ رَمَضَانَ الَّذِي اَنزَلتَ فِيهِ القُرآنَ شَهرَ صَومِهِ وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { اِنَّآ اَرسَلنَا نُوحًا اِلٰى قَومِهِ } .

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي جَعَلتَهُ اَحسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَّ اَحسَنَهُم اَدَبًا وَّ اَعلَاهُم هِمَّةً وَّ اَكرَمَهُم نَسَبًا وَّ اَوفَاهُم ذِمَّةً وَّ حَسَبًا وَّ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { قُل اُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعنَا قُرآنًا عَجَبًا } .

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي اَنزَلتَ عَلَيهِ القُرآنَ تَنزِيلًا وَّ اَمَرتَهُ اَن يُّرَتِّلَهُ تَرتِيلًا وَّ جَعَلتَهُ اِلٰى صِرَاطِكَ المُستَقِيمِ دَلِيلًا وَّ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { يَآ اَيُّهَا المُزَّمِّلُ ۚ قُمِ اللَّيلَ اِلَّا قَلِيلًا } .

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي لَم يَكُن عَلٰى اَسِيرِهِ مُتَجَبِّرٍ وَ عَلٰى جَلِيسِهِ مُتَكَبِّرٍ وَ لَم يَزَل لِشَعَآئِرِكَ مُعَظِّمًا وَّ مُكَبِّرٍ وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { يَآ اَيُّهَا المُدَّثِّرُ ۚ قُم فَاَنذِر } .

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم وَ بَارِك عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي جَعَلتَ اَعلَى المَقَامَاتِ مَقَامَهُ، وَ تَوَّجتَهُ بِتَاجِ المُهَابَةِ وَ الكَرَامَةِ، وَ اَنزَلتَ عَلَيهِ فِي مُحكَمِ كِتَابِكَ العَزِيزِ { لَآ اُقسِمُ بِيَومِ القِيَامَةِ } .

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ حَوَتْ طَلْعَتُهٗ بَهْجَةً وَّ سُرُوْرًا وَّ اَمَرْتَهٗ اَنْ يَّقُوْلَ لِعِبَادِكَ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا}۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ مِنْ اُولِى الْعَزْمِ وَ اَوْفٰى، وَنَبَّأَ فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى وَ جَعَلْتَ اٰيَتَهُ الْاِمَامَ عَلِيِّ نِ الَّذِىْ رَقٰى مِنْهُ كِتْفًا وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۔ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا}۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مِنْ بَحْرِهٖ كُلُّ الْعُلَمَآءِ يَغْتَرِفُوْنَ وَ مُعْجِزَاتُهٗ اَعْلَا وَ اَسْمَا مِمَّا يَصِفُوْنَ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَ الشَّرَفُ الْبَاذِخُ كَالدُّرِّ الْمَكْنُوْنِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۔ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۔ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ}۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الشَّرِيْفِ الْعَفِيْفِ الْاَكْرَمِ الْاَبْقٰى، الدَّاعِىْ اِلَى الدَّارِ الَّتِىْ هِىَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى، وَ جَعَلْتَهٗ اَكْرَمَ النَّاسِ خُلُقًا وَّ اَفْصَحُهُمْ نُطْقًا وَّ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا}۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ قَسَمْتَ لَهٗ مِنَ السَّعَادَةِ اَوْفٰى قِسْمًا، وَ جَعَلْتَهٗ صَاحِبَ الْجَنَابِ الْعَالِىْ مِنَ الْمَحَلِّ الْاَسْمَا، وَ اَرْسَلْتَهٗ اِلٰى كَآفَّةِ النَّاسِ وَ سَمَّيْتَهٗ بِاَشْرَفِ الْاَسْمَا وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {عَبَسَ وَ تَوَلّٰى ۔ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى}۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مِنْ نَّشْرِ عُرْفِهِ الْبِقَاعُ تَعَطَّرَتْ، وَ كُلُّ الْاَنْبِيَآءِ بِرِسَالَتِهٖ لِقَوْمِهِمْ بَشَّرَتْ، وَعَنْ حُسْنِ اَوْصَافِهٖ وَ كَثْرَةِ اِنْصَافِهٖ خَبَّرَتْ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ نُبُوَّتُهٗ بَيْنَ الْوَرٰى اشْتَهَرَتْ، وَ اَعْلَامُ نَصْرِ رِسَالَتِهٖ فِى الْخَافِقَيْنِ اِنْتَشَرَتْ، وَ جَعَلْتَ اُمَّتَهٗ بَيْنَ الْاُمَمِ خَيْرَ اُمَّةٍ ظَهَرَتْ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ}۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَمْ يَسْأَلْ غَيْرَ اللهِ وَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ، وَ اَيَّدْتَهٗ يَوْمَ بَدْرٍ بِالْمَلَآئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ}۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَنْوَارُ طَلْعَتِهٖ عَلَى الْاَكْوَانِ تَجَلَّتْ، وَ كُلُّ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمَلَآئِكَةِ خَلْفَهٗ لَيْلَةَ الْاَسْرٰى صَلَّتْ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ}۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ بِرُّهٗ لِلْقُصَّادِ مَمْدُوْدٌ، وَ مَنَاهِلُ اَخْلَاقِهٖ عَذْبَةٌ

لِلْوُفُوْدِ، وَ جَعَلْتَهٗ عَلٰى اُمَّتِهٖ شَهِيْدًا وَّ اُمَّتَهٗ عَلَى النَّاسِ شُهُوْدً، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ
السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۔ وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ}۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ جَعَلْتَهٗ لِلْخَيْرَاتِ سَابِقٍ، وَ بِلِسَانِ الْحَقِّ بَيْنَ
الْاَنَامِ نَاطِقٍ، وَ شَاعَتْ رِسَالَتُهٗ فِي الْمَغَارِبِ وَ الْمَشَارِقِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ
السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ}۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ ذِكْرُهٗ عَلَى الْقُلُوْبِ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ اَحْلَا، وَ
اخْتَرْتَهٗ يَآ اِلٰهِيْ لِلتَّقْوٰى وَ الْمَغْفِرَةِ اَهْلًا، وَ جَعَلْتَهٗ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوْلٰى، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ
كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى}۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَجْلٰى مِنَ اللَّيْلِ نَاشِئَةً، وَ سَارَ اِلَيْهِ
الْمُشْتَاقُوْنَ رُكْبَانًا وَّ مَاشِيَةً، وَ جَعَلْتَ السُّنَّةَ بِحُسْنِ اَوْصَافِهٖ فَاشِيَةً، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ
الْعَزِيْزِ {هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ}۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ طَلْعَتُهٗ اَبْهٰى مِنَ الشَّمْسِ وَ الْبَدْرِ وَ لِرِفْعَةِ
قَدْرِهٖ يُضَاعِفُ لِمَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَ الْاَجْرُ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ الْفَجْرِ ۔ وَ
لَيَالٍ عَشْرٍ ۔ وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ}۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مُعْجِزَاتُهٗ زَادَتْ عَلٰى كُلِّ عَدَدٍ فَلَمْ يَحْوِهَا
قَلْبٌ وَّ لَمْ يَحُدَّهَا اَحَدٌ وَ كَمْ شَفَا كَرْبًا وَّ اَبْرٰى مِنْ رَّمَدٍ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {لَآ
اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ}۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ عَلٰى مَرْتَبَةٍ مَّا سِوَاهُ عَلَاهَا، وَ جَعَلْتَ لَهٗ هِمَّةً
عَالِيَةً عَمَّ جَمِيْعَ الْعَالَمِيْنَ عَلَاهَا، وَ اَمَرْتَهٗ اَنْ يُّوَلِّيَ وَجْهَهٗ اِلَى الْكَعْبَةِ فَوَلَّاهَا، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ
كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا}۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ عَاتَبْتَهٗ لَمَّا عَبَسَ وَ تَوَلّٰى، وَ فِيْ لَيْلَةِ الْاَسْرٰى
بِجَمِيْعِ الْمَلَآئِكَةِ صَلّٰى وَ بِمَآ اَنْعَمْتَ مِنْ نِّعَمِكَ اَنْفُسَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَوَلّٰى، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ
الْعَزِيْزِ {وَ اللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۔ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى}۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ تَفَلَ بِرِيْقِهٖ فِي الْمَآءِ الْمَالِحِ فَعَذُبَ وَ حَلَا، وَ
قَرَّتْ بِرِسَالَتِهٖ قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْفُضَلَا، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ الضُّحٰى ۔ وَ اللَّيْلِ اِذَا سَجٰى
۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى}۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِي اجْتَنَبَ نَهْيَكَ وَ اَطَاعَ اَمْرَكَ وَ اَوْضَحَ بَيْنَ
الْاَنَامِ حَمْدَكَ وَ شُكْرَكَ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَاشَ مِنَ الْعُمْرِ ثَلَاثًا وَّ سِتِّيْنَ وَ شَرَعَ
لِاُمَّتِهِ الدِّيْنَ الْمَتِيْنَ وَ قَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَطْعَ الْوَتِيْنِ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ
الْعَزِيْزِ {وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۰ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ}۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَرْفُهٗ اَزْكٰى مِنَ الْمِسْكِ اِذَا عَبَقَ وَ اَجْرَيْتَ
مِنَ الْبِرِّ عَلَيْنَا بِفَضْلِهٖ غَيْرَ طُرُقٍ وَّ جَعَلْتَ خَلِيْفَتَهُ الصِّدِّيْقَ اَبَا بَكْرِنِ الَّذِىْ جَمِيْعَ مَالِهٖ عَلَيْهِ اَنْفَقَ وَ
اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۰ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ}۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الطَّاهِرِ الْقَلْبِ وَ الْمُنْشَرِحِ الصَّدْرِ وَ الْمَعْرُوْفِ
بِالْوَفَا وَ الْمُنَزَّهِ عَنِ الْمَوْزَرِ وَ الْغَدْرِ وَ اَيَّدْتَهٗ بِجُنُوْدِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ
كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ}۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَفَلَ فِى الْمَآءِ الْاُجَاجِ فَحَلَّى الْمَآءُ وَ طَابَ وَ
فَضَّلْتَهٗ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ بِالْحِكْمَةِ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ وَ كَمَّلْتَ اَصْحَابَهٗ بِسِرَاجِ اَهْلِ الْجَنَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ}۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مُحِبُّوْهُ فِىْ مَحَبَّتِهٖ بَذَلَتْ اَنْفُسَهَا وَ اَمْوَالَهَا وَ
شَمَّرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ تَخُوْضُ الْمَعَامِعَ اَزْيَالَهَا وَ ضَمِنَ لَهُمْ مَّنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ
فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا}۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ بِالشَّرِيْعَةِ السَّمْحَا، وَ جَعَلْتَ اَتْبَاعَهٗ
لِمَنْ تَبِعَهٗ رُشْدًا وَّ نُجْحًا، وَ سَعْدًا وَّ تَوْفِيْقًا وَّ سَلَامَةً وَّ رِبْحًا، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَ
الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا}۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاَنْوَارِ السَّاطِعَةِ وَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ وَ
اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {اَلْقَارِعَةُ ۰ مَا الْقَارِعَةُ ۰ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ}۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَآثِرِ وَ الْمَفَاخِرِ، وَ اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ
الْاَرْضُ فِى الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جَعَلْتَهٗ لِاَمْرِكَ اٰمِرًا، وَ لِاَحْكَامِكَ صَابِرًا، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ
الْعَزِيْزِ {اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۰ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ}۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَرْجُوْهُ اُمَّتُهُ الْعُصَاةُ يَوْمَ الْحَشْرِ، وَ جَعَلْتَ
صَلَاةَ مَنْ صَلّٰى بِعَشْرٍ، بِبَرَكَتِهٖ تُرِيْدُ بِنَا الْيُسْرَ وَلَا تُرِيْدُ بِنَا الْعُسْرَ، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ
الْعَزِيْزِ {وَالْعَصْرِ ۰ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ}۔

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُصُوْرِ الْمُشَيَّدَةِ، وَ الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ، وَ
اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۰ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۰ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ

اَخۡلَدَهٗ}۔

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الۡاَصۡلِ الۡاَصِيۡلِ الَّذِىۡ هُوَ غُصۡنٌ مِّنۡ شَجَرَةِ اِبۡرَاهِيۡمَ الۡخَلِيۡلِ وَ شَقَّ فُؤَادَهٗ وَ طَهَّرَ قَلۡبَهُ الۡاَمِيۡنُ جِبۡرِيۡلُ وَ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ}۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىۡ لَمۡ يَكُنۡ فِىۡ قَوۡلِهٖ زَلَلٌ وَّلَا فِىۡ نَقۡلِهٖ زَيۡفٌ وَلَا فِىۡ عَمَلِهٖ خَلَلٌ وَّلَا فِىۡ حُكۡمِهٖ حَيۡفٌ وَ اَرۡسَلۡتَهٗ اِلَى الۡاَبۡيَضِ وَ الۡاَسۡوَدِ بِالۡكِتَابِ وَ السَّيۡفِ وَ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۙ اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيۡفِ}۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىۡ انۡبَعَثَ مِنۡۢ بَيۡنِ اَصَابِعِهِ الۡمَآءُ الۡمَعِيۡنُ وَ جَعَلۡتَهٗ عَلَى الۡبِرِّ وَ التَّقۡوٰى عَوۡنًا وَّ مُعِيۡنًا وَ اخۡتَرۡتَهٗ مِنۡ سَائِرِ الۡاَنَامِ لِوَحۡيِكَ الۡاَمِيۡنِ وَ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {اَرَاَيۡتَ الَّذِىۡ يُكَذِّبُ بِالدِّيۡنِ}۔

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىۡ بَشَّرَ وَ اَنۡذَرَ وَ خَوَّفَ وَ حَذَّرَ وَ اَمَرَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهٰى عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ؕ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انۡحَرۡ}۔

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىۡ جَعَلۡتَهٗ عَلٰۤى اُمَّتِهٖ شَهِيۡدًا وَّ اُمَّتَهٗ عَلَى النَّاسِ يَشۡهَدُوۡنَ وَ رَفَعۡتَ اَوۡلِيَآءَهٗ فِىۡ غُرَفِ الۡجِنَانِ فَاَصۡبَحُوۡا عَنِ النَّارِ مُبۡعَدُوۡنَ لَا يَسۡمَعُوۡنَ حَسِيۡسَهَا وَ هُمۡ فِيۡمَا اشۡتَهَتۡ اَنۡفُسُهُمۡ خَالِدُوۡنَ وَ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ}۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىۡ اتَّخَذَ عِنۡدَكَ زُلۡفَةً وَّ اٰبًا وَّ جَعَلۡتَ بَيۡنَهٗ وَ بَيۡنَ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ حِجَابًا وَّ وَعَدۡتَ مَنۡ اٰمَنَ بِهٖ فِى الۡجِنَانِ كَوَاعِبَ وَ اَتۡرَابًا وَّ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ وَ رَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا}۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالۡمُتَعَطِّفِ الۡمُتَلَطِّفِ الۡكَرِيۡمِ الۡحَسَبِ الۡمُزَّمِّلِ الۡمُدَّثِّرِ الشَّرِيۡفِ النَّسَبِ الَّذِىۡ اَرۡسَلۡتَهٗ مِنۡ صِيَانَةِ صَمِيۡمِ الۡعَرَبِ وَ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ}۔


111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ يَّا مَنۡ رَّفَعَ السَّمَآءَ بِغَيۡرِ عَمَدٍ وَّ بَسَطَ الۡاَرۡضَ عَلٰى مَآءٍ جَمَدٍ وَّ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ}۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىۡ قَمَرُ نُبُوَّتِهٖ بِنُوۡرِ سَعَادَتِهٖ قَدِ انۡشَقَّ وَ شُعَاعُ شَمۡسِ رِسَالَتِهٖ بِلِسَانِ حَالِهٖ قَدۡ نَطَقَ وَ اَنۡزَلۡتَ عَلَيۡهِ فِىۡ مُحۡكَمِ كِتَابِكَ الۡعَزِيۡزِ {قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ}۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ وَ بَارِكۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۨالصَّفِىِّ الۡوَفِىِّ الۡقَوِىِّ الۡبَاسِ الَّذِىۡ طَهَّرۡتَ اَهۡلَ

بَیْتِہٖ مِنَ الدَّنَسِ وَ الْاَرْجَاسِ وَ اَنْزَلْتَ عَلَیْہِ فِیْ مُحْکَمِ کِتَابِکَ الْعَزِیْزِ { قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۔ مَلِکِ النَّاسِ ۔ اِلٰہِ النَّاسِ ۔ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۔ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ }۔





وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَلْفَتْحُ الْمُبِيْنُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ

الشیخ احمد سعد العقاد

صِيْغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری


تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المكتبة القادرية 11 الباكستان
0092-3335187573

الفتح المبین

کتاب ''الفتح المبین فی الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین'' از ہر شریف (مصر) کے علمائے کرام میں سے حضرت **احمد سعد العقاد** کی نثر و نظم پر تصنیفِ لطیف ہے۔ دُرود و سلام کا ایک مہکتا ہوا یہ گلدستہ ہے جو اُنہوں نے بارگاہ نبوی ﷺ میں پیش کیا اور اُس کے پڑھنے والے کو اجرِ عظیم اور کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔

دورانِ مطالعہ جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا، اُس کے سرِ ورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔



اَلْفَتْحُ الْمُبِيْنُ

فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى قَبْضَةِ النُّوْرِ، اَصْلِ عَوَالِمِ الْبُطُوْنِ وَالظُّهُوْرِ.

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا الْيَقْظَةَ وَالْحُضُوْرَ وَنَعْرِّفُ بِهَا قَوْلَهٗ تَعَالٰى {هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَآئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ}.

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْاَكْوَانِ، الَّذِيْ اسْتَنَارَ بِهِ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ.

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ، سِرِّ حَيَاةِ الْاَوَائِلِ وَالْاَوَاخِرِ.

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ظَلِّ اللّٰهِ الْقَرِيْبِ، الَّذِيْ مَنِ احْتَمٰى بِحِمَاهُ لَا يَخِيْبُ.

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ وَاجَهَهُ الْحَقُّ بِاَنْوَارِ الذَّاتِ وَجَمَّلَهٗ بِمَعَانِي الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ.

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّحَلِّ نَظَرِ اللّٰهِ فِي الْوُجُوْدِ، الَّذِيْ فَتَحَ لِلْعَوَالِمِ كَنْزَ الْمُنْعِمِ الْوَدُوْدِ.

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الْعُظْمٰى لِلْعَالَمِيْنَ وَالنِّعْمَةِ الْكُبْرٰى فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّحِيْنٍ.

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ ظَهَرَتْ اَسْرَارُهٗ فِيْ سَيِّدِنَا آدَمَ، فَسَخَّرَ اللّٰهُ لَهٗ جَمِيْعَ الْعَوَالِمِ.

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّفِيْعِ فِيْ حَضْرَةِ التَّوَّابِ، الَّذِيْ تَوَسَّلَ بِهٖ آدَمُ فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهُ الْاَبْوَابَ.

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَاحَ نُوْرُهٗ فِيْ سَيِّدِنَا نُوْحٍ فَنَجَّاهُ اللّٰهُ مِنَ الطُّوْفَانِ وَاَعْطَاهُ الْفُتُوْحَ.

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَجَلّٰى مَعْنَاهُ فِيْ طَلْعَةِ الْخَلِيْلِ، فَسَلَّمَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ بِالْاِكْرَامِ وَالتَّبْجِيْلِ.

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بَدَأَ جَمَالُهٗ عَلٰى سَيِّدِنَا اِسْمَاعِيْلَ فَفَدَاهُ اللّٰهُ مِنَ الذَّبْحِ وَهَدَاهُ السَّبِيْلَ.

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ آتَاهُ اللّٰهُ الرُّشْدَ وَالْكَمَالَ فَقَالَ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ نَزَلَ وَصْفُهٗ عَلَى الْكَلِيْمِ فَتَمَنّٰى اَنْ يَكُوْنَ مِنْ اُمَّتِهٖ بِالشَّوْقِ وَالتَّعْظِيْمِ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ ظَهَرَتْ آيَاتُهٗ قَبْلَ الْمِيْلَادِ فَحَفِظَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ مِنْ اَصْحَابِ الْفِيْلِ كَرَامَةً لِّخَيْرِ الْعِبَادِ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ مِيْلَادُهٗ شَمْسًا تَمْحُو الظَّلَامَ، وَ اِغَاثَةً سَرِيْعَةً لِّجَمِيْعِ الْاَنَامِ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ انْهَزَمَتْ بِظُهُوْرِهِ الْاَبَاطِيْلُ، وَ تَزَلْزَلَ اِيْوَانُ كِسْرٰى وَ نُسِخَتِ التَّوْرَاةُ وَ الْاِنْجِيْلُ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ آتَاهُ اللّٰهُ الرُّشْدَ فِىْ مَبَادِيْهِ، فَاَخَذَ الثَّدْىَ الْاَيْمَنَ مِنْ حَلِيْمَةَ وَ تَرَكَ الْاَيْسَرَ لِاَخِيْهِ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ نَشَاَ يَتِيْمًا، لَيْسَ لَدَيْهِ اَمْوَالٌ فَتَوَلَّاهُ بِالْعِنَايَةِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّشْرَبُ بِهَا سَلْسَبِيْلًا فَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا}۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْمَحْبُوْبِيَّةِ فَعَشِقَتْهُ جَمِيْعُ الْعَوَالِمِ الرُّوْحَانِيَّةِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ لَاحَ سِرُّهٗ كَشَمْسِ النَّهَارِ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْاَشْجَارُ وَ الْاَحْجَارُ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ خَشَعَتْ لِجَنَابِهِ الْعَوَالِمُ فَلَانَ الْحَجَرُ تَحْتَ قَدَمِهِ الشَّرِيْفِ كَالْمُطِيْعِ الْمُسَالِمِ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الْاَنْوَارُ الْقُدْسِيَّةُ فَسَجَدَتِ الْاَشْجَارُ لِطَلْعَتِهِ الْبَهِيَّةِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ وَرَثَتِهٖ وَ سَلَّمَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ حَفِظَ اللّٰهُ بِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ مَعَانِيْهِمْ وَ مَبَانِيْهِمْ، قَالَ تَعَالٰى {وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ}۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْفَعُنَا اِلَى الْحَظَائِرِ وَ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الصَّغَائِرِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوْقِظُ بِهَا قُلُوْبَنَا مِنَ الْمَنَامِ، وَ تَحْشُرُنَا فِىْ زُمْرَةِ السَّادَةِ الْكِرَامِ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْشِفُ لَنَا بِهَا اَسْرَارُ الْحَقِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ تَفْهَمُنَا مَعْنَى الْاَمَانَةِ الَّتِيْ عَجَزَتْ عَنْ حَمْلِهَا الْبَرِيَّةُ.

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْشِفُ لَنَا سِرُّ الظِّلِّ وَ الْفَيْئِ، وَ نَعْرِفُ سِرَّ قَوْلِهٖ تَعَالٰى {وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَآئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ}.

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرُوْحُ كُلَّ رُوْحٍ وَاحِدَةٍ، فَنَفْهَمُ سِرَّ قَوْلِهٖ تَعَالٰى {مَا خَلْقُكُمْ وَّلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ}.

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا الْحِلْمَ وَ التَّأَنِّيْ، فَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ فِي الْاَثَرِ، اَنَا مِنَ اللّٰهِ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّيْ.

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ كَاشَفَهُ اللّٰهُ بِالْغُيُوْبِ وَ عَلَّمَهٗ تَزْكِيَةَ النُّفُوْسِ وَ طَهَارَةَ الْقُلُوْبِ.

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ جَذَبَ الْقُلُوْبَ اِلَى الْغَفَّارِ، فَاسْتَعَدَّتْ لِقُبُوْلِ الْاَسْرَارِ وَ الْاَنْوَارِ.

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ لَاحَتْ عَلَيْهِ اَنْوَارُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَحَنَّ الْجِزْعُ لَهٗ بِالْاَشْوَاقِ وَ الْاَنِيْنِ.

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ سَخَّرَ اللّٰهُ لَهُ الْاَكْوَانَ فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِاِشَارَتِهٖ لِلْعِيَانِ.

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ تَجَلّٰى سِرُّهٗ بِغَيْرِ خَفَآءٍ، فَسَبَّحَ الْحَصٰى فِيْ يَدَيْهِ تَسْبِيْحَ الْاَحْيَآءِ.

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ دَعَى الْاَشْجَارَ فَسَعَتْ اِلَيْهِ سَرِيْعَةً، وَّ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَاضِعَةً مُّطِيْعَةً.

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ اَخَذَتْهُ الرَّحْمَةُ عَلَى الْكُفَّارِ فَكَانَ يَبْكِيْ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ لِيُنْقِذَهُمْ مِّنَ النَّارِ.

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ نَظَرَ بِالْعَوَاطِفِ لِلصِّدِّيْقِ، فَصَارَ اِمَامًا لِّاَهْلِ الْهُدٰى وَ التَّوْفِيْقِ.

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ دَعَا لِلْفَارُوْقِ دَعْوَةً نَّبَوِيَّةً فَصَارَ خَلِيْفَةً مَّحْبُوْبًا لِّجَمِيْعِ الْبَرِيَّةِ.

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ وَاجَهَ سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بِالنَّظَرَاتِ فَنَالَ كَمَالًا تَسْتَحِيْ

مِنْهُ مَلَآئِكَةُ السَّمٰوَاتِ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ خَصَّ سَيِّدَنَا عَلِيًّا ءبِالْاَسْرَارِ فَصَارَ كَنْزًا لِّلْمَعَارِفِ وَالْاَنْوَارِ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ عَطَفَ عَلٰى بَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشِّرِيْنَ فَصَارُوْا اَقْمَارًا لِّهِدَايَةِ الْعَالَمِيْنَ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ سَرٰى سِرُّهٗ فِىْ جَمِيْعِ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَرَخَّصُوا الْوَطَنَ وَ الْمَالَ وَ الْبَنِيْنَ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَذَبَتْ لَطَآئِفُهُ الْاَنْصَارَ، فَبَذَلُوا الْاَنْفُسَ فِىْ مَحَبَّةِ الْمُخْتَارِ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ عَمَّتْ اَنْوَارُهٗ جَمِيْعَ التَّابِعِيْنَ، فَكَانُوْا اَنْوَارًا مُشْرِقَةً لِّلسَّالِكِيْنَ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَوَالَتْ بَرَكَتُهٗ عَلَى الْاَئِمَّةِ الْاَعْلَامِ فَكَانُوْا ضِيَآءً سَاطِعًا لِّلْاَنَامِ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَتَابَعَتْ نَفَحَاتُهٗ لِلْاَوْلِيَآءِ، فَكَانُوْا لَهٗ وَرَثَةً اُمَنَآءَ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا مَقَامَ الْمَحْبُوْبِيْنَ، وَ نَتَخَلَّقُ بِقَبُوْلِهٖ تَعَالٰى { وَ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ } ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرَخِّصُ بِهَا النَّفْسَ وَ الْوَلَدَ وَ نَتَخَلَّقُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى { قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۚ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ }، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ وَرَثَتِهٖ وَ سَلَّمَ وَ التَّابِعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ ظَهَرَتْ مَعَانِيْهِ فِىْ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَا نَرٰى مُؤْمِنًا اِلَّا وَ نَشْهَدُ فِيْهِ مَعْنًى مِنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَقْسَمَ اللّٰهُ بِحَيَاتِهٖ ، وَ اَطْلَعَهٗ عَلٰى اَسْرَارِ ذَاتِهٖ وَ صِفَاتِهٖ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَالَ مَقَامًا عَجَزَتِ الْاَرْوَاحُ عَنْ مَّعْنَاهُ { اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ } ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طَبِيْبِ الْقُلُوْبِ الْمَرْضٰى الَّذِىْ قَالَ لَهُ الْحَقُّ تَعَالٰى { وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى } ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدَاوِى الْبَصِيْرَةَ مِنَ الْعَمٰى فَنَشْهَدُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى { وَمَا

رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى }۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ كَانَ جِسْمُهُ الشَّرِيْفُ اَصْفٰى مِنَ الرُّوْحِ الْاَمِيْنِ، فَاخْتَرَقَ الْاَنْوَارَ وَ وَقَفَ جِبْرِيْلُ فِىْ شَوْقٍ وَّ حَنِيْنٍ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ صَدَّقَ فُؤَادُهُ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ، وَ مَا زَاغَ بَصَرُهُ اَوِ الْتَفَتَ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ قَبِلَ الْحَقُّ شَفَاعَتَهُ فِى الصَّلَاةِ، فَصَارَتْ خَمْسًا وَ ثَبَتَ اَجْرُ الْخَمْسِيْنَ بِاَمْرِ اللّٰهِ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ عَشِقَ جَمَالَهُ مُوْسَى الْكَلِيْمُ، فَكَانَ يُرَدِّدُهُ لَيْلَةَ الْاِسْرَآءِ لِيُشَاهِدَ اَنْوَارَ الْعَلِيْمِ الْحَكِيْمِ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ شَهِدَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى وَ تَفَرَّدَ لِهٰذَا السِّرِّ وَ فَهِمَ الْمَعْنٰى۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْمَمْلُوْءِ بِالْعَطْفِ وَ الْحَنَانِ، الَّذِىْ دَعَا لِاَعْدَآئِهِ بِالرَّحْمَةِ وَ الْغُفْرَانِ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ اَثْنٰى عَلَيْهِ الْكَرِيْمُ فَقَالَ تَعَالٰى { وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ }۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ عَطَفَ عَلَى الْاُمَّةِ بِالْوِدَادِ، فَقَالَ: سَلِّمُوْا عَلٰى كُلِّ مَنْ لَّمْ يَرَنِىْ اِلٰى يَوْمِ الْمَعَادِ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ كَانَ مَعَهُ مَوْلَاهُ فِى الْغَارِ، فَحَفِظَهُ وَ اَعْمٰى عَنْهُ عُيُوْنَ الْكُفَّارِ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ اَوْدَعَ اللّٰهُ فِىْ يَدَيْهِ الشَّرِيْفَةِ سِرَّ التَّصْرِيْفِ، فَمَسَحَ ضَرْعَ الشَّاةِ الْهَزِيْلَةِ فَجَرٰى مِنْهَا اللَّبَنُ اللَّطِيْفُ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ ظَهَرَ فِىْ يَمِيْنِهِ سِرُّ التَّكْوِيْنِ، فَنَبَعَ الْمَآءُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ وَ سَقٰى جَيْشَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ دَعَا وَ اسْتَجَارَ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَتْ حَوَآئِطُ الْبَيْتِ اٰمِيْنَ، اٰمِيْنَ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَهُ الْمَلَآئِكَةَ يَوْمَ بَدْرِ الْمَشْهُوْدِ، لِاَنَّ الْكُلَّ لِلْمُصْطَفٰى خَدَمٌ وَّ جُنُوْدٌ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِىْ وَضَعَ يَدَهُ الشَّرِيْفَةَ عَلٰى عَيْنِ قَتَادَةَ حِيْنَ خَرَجَتْ

فَصَارَتْ سَلِيْمَةً قَوِيَّةً طُوْلَ عُمُرِهٖ مَا مَرِضَتْ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْطٰى لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ قِطْعَةً مِّنَ الْجَرِيْدِ، فَصَارَتْ سَيْفًا قَاطِعًا لِّكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِخْضَرَّ فِىْ كَفِّهِ الْعُوْدُ الْيَابِسُ، وَ صَارَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ زِيْنَةَ الْمَجَالِسِ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَفَرَّجَ بِهٖ شَدَآئِدُ الْكُرُوْبِ وَ تَزُوْلُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَظَآئِمُ الْخُطُوْبِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّوْضِ الْمَعَارِفِ الْمَمْلُوْءِ بِالثِّمَارِ، وَ كُلُّ وَلِيٍّ فَازَ بِثَمَرَةٍ مِّنْ رَّوْضِ اَحْمَدَ الْمُخْتَارِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّتَقَرَّبُ بِهَا وَ نَتَرَقّٰى، وَ نَفْهَمُ قَوْلَكَ { وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى }۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَجَلّٰى بِهَا غَوَامِضُ الشُّؤُوْنِ، وَ نَتَحَقَّقُ بِقَوْلِكَ { فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُوْنَ }، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ وَرَثَتِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ بِالشَّوْقِ وَ الْهِيَامِ انْطَبَعَتْ صُوْرَةُ الشَّرِيْفَةِ فِىْ قَلْبِهٖ وَ دَامَ لَهُ الْهِيَامُ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنْ تَعَلَّقَ بِهٖ نَالَ الْوِلَايَةَ وَ مَنْ تَخَلَّقَ بِاَخْلَاقِهٖ سَاعَدَتْهُ الْعِنَايَةُ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَمَّلَهُ اللّٰهُ بِاِسْمِهِ السَّلَامِ، وَ كَانَ سَعَادَةً عَامَّةً لِّلْاَرْوَاحِ وَ الْاَجْسَامِ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَجَلّٰى لَهُ الْحَقُّ بِاِسْمِهِ الصَّبُوْرِ، فَكَانَ صَبَّارًا فِى الْمُهِمَّاتِ وَ عَظَآئِمِ الْاُمُوْرِ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالَى الْكَرِيْمِ، فَكَانَ اَجْوَدَ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ بِاَمْرِ الرَّبِّ الْعَلِيْمِ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَمَّلَهُ بِاِسْمِهِ النُّوْرِ، فَكَانَ فِعْلُهُ نُوْرًا وَّ كَلَامُهُ يَشْرَحُ الصُّدُوْرَ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالَى الْحَكِيْمِ، فَخَاطَبَ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ وَ خَلَّصَهُمْ مِّنَ الْجَحِيْمِ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَحَقَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْجَامِعِ، فَجَمَعَ اللّٰهُ بِهِ الْاَرْوَاحَ وَ الْقُلُوْبَ وَ مَنَحَهَا التَّوَاضُعَ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْوَاسِعِ، فَوَسِعَ الْخَلَائِقَ بِاَخْلَاقِهٖ وَ شَرْعِهِ النَّافِعِ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْهَادِىْ، فَبَيَّنَ السَّبِيْلَ لِكُلِّ رَآئِحٍ وَّ غَادِىْ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْوَدُوْدِ، فَمَلَكَ النُّفُوْسَ وَ هَيَّمَ الْاَرْوَاحَ لِلرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى السَّتَّارِ، فَسَتَرَ الْعَوْرَاتِ وَ غَفَرَ الزَّلَّاتِ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ مِّنَ الْاَوْزَارِ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْمُجِيْبِ، فَلَبّٰى مَنْ دَعَاهُ بِالْبَشْرِ وَ التَّرْحِيْبِ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَحَقَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، فَدَعٰى لِلْحَقِّ وَ بَيَّنَ سَبِيْلَهٗ لِلْعَالَمِيْنَ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْحَمِيْدِ، فَحَمِدَتْهُ الْعَوَالِمُ عَلٰى حِرْصِهٖ وَ عَطْفِهِ الشَّدِيْدِ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الْمُحْسِنِ لِلْاَكْوَانِ فَاَحْسَنَ فِىْ دَعْوَتِهٖ وَ قَابَلَ الْاِسَاءَةَ بِالْاِحْسَانِ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الرَّقِيْبِ، فَرَاقَبَ اَفْعَالَ الصَّحَابَةِ وَ لَاحَظَهُمْ بِالسِّرِّ الْعَجِيْبِ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَخَلَّقَ بِاِسْمِهٖ تَعَالٰى الرَّافِعِ، فَرَفَعَ شَأْنَهٗ وَ رَفَعَ بِهٖ كُلَّ تَابِعٍ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ مَنِ اتَّحَدَ بِمَبَادِنِهٖ سَلِمَ مِنَ الْوُجُوْدِ الْبَاطِلِ وَ زَالَ عَنْهُ الْبَيْنُ وَ شَهِدَ الْعَيْنَ فِىْ جَمِيْعِ الْمَنَازِلِ۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ مَنِ اسْتَحْضَرَ جَمَالَهٗ هَامَ، وَ مَنْ تَذَكَّرَ كَمَالَهٗ فَارَقَهُ الْمَنَامُ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ مَنْ عَشِقَ مَعَانِيَهٖ ظَهَرَ النُّوْرُ الْمُحَمَّدِىُّ فِيْهِ۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ مَنْ تَفَانٰى فِىْ حُبِّ ذَاتِهِ النُّوْرَانِيَّةِ مَحَاهُ الْوَجْدُ وَ

لَا حتْ عَلَيْهِ الْحُلَلُ الْمُحَمَّدِيَّةُ۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ مَنْ تَعَشَّقَ اَخْلَاقَهُ الْاِلٰهِيَّةَ، تَبَدَّلَتْ صِفَاتُهُ وَ اَشْرَقَتْ مِنْهُ الْوَرَاثَةُ النَّبَوِيَّةُ۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَالُ بِهَا الْمَسَرَّةُ وَ نَفْقَهُ قَوْلَ طٰهٰ (رُبَّ اَشْعَثٍ اَغْبَرَ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ)۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا عَوْنًا وَّ سَنَدًا، فَنَفْقَهُ قَوْلَهُ تَعَالٰى {وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ، مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا }، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ وَرَثَتِهِ وَ سَلَّمَ وَ التَّابِعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ هَامَ بِهِ سَيِّدُنَا اُوَيْسُ الْقَرَنِيُّ الْمَشْهُوْرُ، وَ وَصَفَ مِنْ حُسْنِهِ مَا بَهَرَ الْاَلْبَابَ وَ شَرَحَ الصُّدُوْرَ۔

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ لَمَسَ بِيَدِهِ الشَّرِيْفَةِ عِظَامَ الشَّاةِ فَقَامَتْ حَيَّةً تَسْعٰى بِاَمْرِ اللّٰهِ۔

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ غَرَسَ نَخْلَةً ۢ بِيَدِهِ الطَّاهِرَةِ فَاَثْمَرَتْ فِىْ عَامِهَا مَرَّتَيْنِ مُعْجِزَةً ۢ بَاهِرَةً۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ جَذَبَ قُلُوْبَ الْجِنِّ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَقَالُوْا { اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۙ يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا } بِالْوَاحِدِ الدَّيَّانِ۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ دَعَا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ۢ بِالْفَهْمِ وَ الْبَيَانِ، فَصَارَ حِبْرَ الْاُمَّةِ وَ تَرْجُمَانَ الْقُرْآنِ۔

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ نَطَقَ لَهُ الذِّرَاعُ الْمَسْمُوْمُ، فَعَفٰى عَنِ الْيَهُوْدِيَّةِ وَ رَضِىَ بِقَضَاءِ الْحَىِّ الْقَيُّوْمِ۔

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ دَعَا لِسَيِّدِنَا اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِعَدَمِ النِّسْيَانِ، فَلَمْ يَنْسَ شَيْئًا مِّنَ الْحَدِيْثِ اَوِ الْقُرْآنِ۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُجَمِّلُ اَسْمَاعَنَا بِسِرِّهِ فَنَسْمَعُ تَسْبِيْحَ عَوَالِمِ اللّٰهِ فِىْ بَرِّهِ وَ بَحْرِهِ۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكَمِّلُ اَبْصَارَنَا بِنُوْرِهِ فَنَرَى الْجَمِيْلَ مُنَزَّهًا فِىْ ظُهُوْرِهِ۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَنَوَّرُ بِهَا الْاَبْصَارُ وَ تَتَبَدَّلُ بِهَا الْاٰثَارُ بِالْاَنْوَارِ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّقْوٰى بِهَا الْيَقِيْنُ، وَ نَدْخُلُ بِهَا فِىْ مَعِيَّةِ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نُّهَاجِرُ بِهَا مِنْ هَيْكَلِنَا الْفَانِي اِلٰى فَسِيحِ الشُّهُوْدِ الرُّوْحَانِيِّ۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَرِثُ بِهَا تَوَاضُعَهُ الْعَجِيْبَ وَ نَتَحَلّٰى بِعَطْفِهِ الشَّامِلِ لِلْبَعِيْدِ وَ الْقَرِيْبِ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نُّحَاسِبُ بِهَا الضَّمِيْرَ، وَ نُحَقِّقُ بِهَا مُرَاقَبَةَ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّلُوْحُ بِهَا الْاِشْرَاقُ فَنَشْهَدُ الْحَقَّ فِيْ اَنْفُسِنَا وَ فِي الْآفَاقِ۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَجَلّٰى بِهَا مَشَاهِدُ التَّوْحِيْدِ وَ يَتَوَالٰى بِهَا عَلَيْنَا مِنَ اللهِ الْمَزِيْدُ۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوْصِلُنَا بِهَآ اِلٰى مَقَامِ التَّمْكِيْنِ وَ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ عَوَارِضِ التَّلْوِيْنِ۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَبَلِّغُنَا بِهَا دَقِيْقَ الْاِلْهَامِ وَ تُوْصِلُنَآ اِلٰى مَقَامِ الْمُؤَانَسَةِ عَلَى الدَّوَامِ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُزَهِّدُنَا بِهَا فِي الْاَكْوَانِ، وَ تُدْخِلُنَا مَقْعَدَ صِدْقٍ فِيْ رَوْحٍ وَّ رَيْحَانٍ۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْفِيْ عَنِ الْعَبْدِ الشَّكَّ وَ التَّرْدِيْدَ وَ نَتَحَقَّقُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى {وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ}۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّفُوْزُ بِهَا بِكَمَالِ الْاِيْمَانِ وَ نَذُوْقُ سِرَّ قَوْلِهٖ تَعَالٰى { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ }۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُشْهِدُنَا الْحَقَّ فِيْ عُلَاهُ، فَنَشْرَبُ مِنْ رَّحِيْقِ { فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ }۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّعْرِفُ بِهَا الْحَدِيْثَ الْقُدُسَ الْبَاهِرَ، اَطْلُبُ عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ تَجِدْنِيْ مُتَجَلِّيًا ، بِالْجَمَالِ ظَاهِرٌ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّتَحَلّٰى مِنْهَا بِالْجَمَالِ، وَ نَتَمَلّٰى بِشُهُوْدِ الْجَمِيْلِ فِيْ كُلِّ حَالٍ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَاُ الْقُلُوْبَ بِالْاَنْوَارِ فَنَفْهَمُ سِرَّ قَوْلِهٖ تَعَالٰى { سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ ، بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌ ، بِالنَّهَارِ }، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى

آلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ وَرَثَتِہٖ وَ التَّابِعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔

127 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَحْفَظُنَا بِھَا مِنَ الْغَفْلَۃِ عَنِ التَّوْحِیْدِ، فَنَفْھَمُ قَوْلَہٗ تَعَالٰی {بَلْ ھُمْ فِیْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ}۔

128 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَصِلُ بِھَآ اِلَی الْکَمَالِ، وَ نَفْھَمُ قَوْلَہٗ تَعَالٰی {وَلِلّٰہِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ کَرْھًا وَّ ظِلٰلُھُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ}۔

129 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً نُرَتِّلُ بِھَا الْاٰیَاتِ فِیْ طَوَایَآ اَلْوَاحِ الْکَائِنَاتِ۔

130 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً نَقْرَأُ بِھَا قُرْآنَ الذَّاتِ، وَ نَتَحَقَّقُ بِالْمَجَالِیْ بِالْفَنَآءِ عَنِ الْکَائِنَاتِ۔

131 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً نَنَالُ بِھَا الْھَیَمَانَ، فَنَفْھَمُ قَوْلَہٗ تَعَالٰی {اَلرَّحْمٰنُ ۔ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَہُ الْبَیَانَ}۔

132 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً یَلُوْحُ بِھَا الْجَمَالُ عَلٰی صَفَحَاتِ الْوُجُوْدِ فَتَسْتَغْرِقُ الْاَلْبَابُ وَ الْاَرْوَاحُ عِنْدَ الْمُلَاحَظَۃِ وَ الشُّھُوْدِ۔

133 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً نَنْفُذُ بِھَا مِنْ اَقْطَارِ الْاٰثَارِ وَ نَسْعَدُ بِشُھُوْدِ اللَّطِیْفِ الْخَبِیْرِ بِالْاَسْرَارِ۔

134 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَخْلُصُ النَّفْسُ مِنْ کَرْبِھَا، فَنَفْھَمُ قَوْلَہٗ تَعَالٰی {وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّھَا}۔

135 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً سِرُّھَا یُحْیِیْنِیْ فَاَفْھَمُ قَوْلَ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ (اَبِیْتُ عِنْدَ رَبِّیْ یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِیْ)۔

136 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً یَدُوْمُ بِھَا قُرْبِیْ فَاَفْھَمُ قَوْلَہٗ طٰہٰ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ (لِیْ سَاعَۃٌ لَّا یَسَعُنِیْ فِیْھَا غَیْرُ رَبِّیْ)۔

137 اَلصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَاحِبَ اللِّوَآءِ الْمَرْفُوْعِ، نَظْرَۃٌ لِّلّٰہِ یَصِیْرُ بِھَا دُعَآئِیْ مَسْمُوْعٌ۔

138 اَلصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَبْدَأَ الظُّھُوْرِ، نَظْرَۃٌ لِّلّٰہِ اَحْیَا بِھَا فِیْ سُرُوْرٍ۔

139 اَلصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا غوث الانام، نَظْرَۃٌ لِّلّٰہِ اَتَنَبَّہُ بِھَا مِنَ الْغَفْلَۃِ وَ الْمَنَامِ۔

140 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً نَنَالُ بِھَا الْعِزَّ الْمُقِیْمَ وَ نَفْھَمُ قَوْلَہٗ تَعَالٰی {مَا مِنْ دَآبَّۃٍ اِلَّا ھُوَ اٰخِذٌ ۢ بِنَاصِیَتِھَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ}۔

141 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تُقْنِعُنَا بِالرِّزْقِ الْمَضْمُوْنِ، فَنَفْھَمُ قَوْلَہٗ تَعَالٰی {وَ فِی السَّمَآءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ}۔

142 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَنْعَشُ قَلْبَ الْمَحْزُوْنِ وَ نَفْھَمُ قَوْلَہٗ تَعَالٰی {ءَاَنْتُمْ

تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ}۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْهَلُ بِهَا الْاُمُوْرُ، فَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ}۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُسَدِّدُ بِهَا الدُّيُوْنُ، فَنَذُوْقُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {اِنَّمَآ اَمْرُهٗ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ}۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا حَقَّ الْيَقِيْنِ فَنَذْكُرُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ}۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْكَشِفُ بِهَا حَقَآئِقُ الْاَشْيَاءِ فَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ}۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا الْمَفَاخِرَ، نَتَحَقَّقُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى (اَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِىْ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ)۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَخَلَّصُ بِهَا مِمَّا نَخْشَاهُ نَتَمَلّٰى مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ}۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا قَبُوْلًا وَّ عَطْفًا، وَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْفَعُ الْحُجُبَ السَّاتِرَةَ فَنَتَحَقَّقُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى {وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَوَرَثَتِهٖ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ بُرَاقًا لِّلْحُصُوْلِ اِلَيْكَ فَنَتَحَقَّقُ بِقَوْلِهِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَعُوْذُ بِجَمَالِكَ مِنْ جَلَالِكَ وَافِرٌّ مِّنْكَ اِلَيْكَ)۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَعْرِفُ بِهَا سِرَّ قَسَمِكَ بِبَعْضِ الْمَخْلُوْقَاتِ، فَنَفْهَمُ قَوْلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۰ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ}۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا كُنُوْزَ الْحَقَآئِقِ فَنَتَحَقَّقُ بِقَوْلِكَ {فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ}۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّرِثُ بِهَا مَقَامَ اَوْلِيَآءِ اللّٰهِ، فَنَفْهَمُ قَوْلَ الْمُصْطَفٰى (اِذَآ اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا صُبَّ عَلَيْهِ الْبَلَآءُ)۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّسْعَدُ بِهَا فِى الْحَيَا، فَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا

الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ}۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْفَتِحُ بِهَا عُيُوْنُ الْإِيْمَانِ، فَنَفْهَمُ قَوْلَ الْمُصْطَفٰى (إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوَّلُ لَّتَقَعُ فِيْ يَدِ الرَّحْمٰنِ)۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَجَلّٰى بِهَآ اَسْرَارُ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَ نَتَحَلّٰى بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ}۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُؤْنِسُ بِهَا وَحْشَتَنَا يَآ اَنِيْسَ الْمُنْقَطِعِيْنَ، فَأُنَادِيْكَ {وَ زَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ}۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّتَقَوّٰى بِهَا عَلٰى اَدَاءِ السُّنَّةِ وَ الْفَرْضِ وَ نَفْهَمُ سِرَّ قَوْلِهٖ تَعَالٰى {اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ}۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ نَفْهَمُ سِرَّ قَوْلِهٖ تَعَالٰى {وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ}۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّشْهَدُ بِهَا عَجَآئِبَ الْاَقْدَارِ فَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ {وَ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا الْاِقْتِرَابَ، فَنَفْهَمُ قَوْلَ الْمُصْطَفٰى (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ)۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدْخُلُنَا بِهَا جَنَّةَ الشُّهُوْدِ فِيْ كُلِّ حِيْنٍ، فَنَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ}۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنْتَبِهُ بِهَا مِنَ النَّوْمِ فَنَفْهَمُ الْاَثَرَ الْقَآئِلَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ لِقَوْمٍ فِيْ قُلُوْبِ قَوْمٍ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا الْغِنَآءَ بِالرِّزْقِ الْمَقْسُوْمِ وَ نَفْهَمُ قَوْلَكَ، {وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَ مَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ}۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّخْشَعُ بِهَا لِعَظَمَةِ الرَّبِّ الْمَجِيْدِ فَنَتَحَقَّقُ بِقَوْلِكَ {يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ}۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا فِي الشَّدَآئِدِ عِيَاذًا فَنَفْهَمُ قَوْلَ الْمُصْطَفٰى (رُؤْيَتُكَ لِاَخِيْكَ عَلٰى شَوْقٍ مِّنْكَ اِلَيْهِ خَيْرٌ مِّنْ اِعْتِكَافِ سَنَةٍ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا)۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلُوْحُ بِهَآ اَنْوَارُ التَّجَلِّيْ فَنَفْهَمُ قَوْلَ الْمُصْطَفٰى (رُؤْيَتُكَ لِاَخِيْكَ عَلٰى شَوْقٍ مِّنْكَ اِلَيْهِ خَيْرٌ مِّنْ اِعْتِكَافِ سَنَةٍ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا)۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّنْكَشِفُ بِهَا الْغَيْبُ الْمَصُوْنُ فَنَفْهَمُ قَوْلَ اللهِ تَعَالٰى
{حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ}.

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنْجُوْا مِنْ كُفْرَانِ النِّعَمِ وَ نَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {وَ
نَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوْا نَعَمْ}.

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّصِلُ بِهَا اِلَى الْمَقَامِ الْمَاْمُوْنِ وَ نَتَحَقَّقُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى
{اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا
بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ}.


172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا تَصْدِيْقًا وَّ تَسْلِيْمًا وَّ نَفْهَمُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى {مَا
كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا}.

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْشِفُ لَنَا سِرَّ الْاِسْتِغْفَارِ بَعْدَ فِعْلِ الطَّاعَاتِ
فَنَفْهَمُ سِرَّ قَوْلِهٖ تَعَالٰى {فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ}.

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّشْهَدُهَا الْوَاصِلُوْنَ وَ يَتَجَلّٰى قَوْلُهٗ تَعَالٰى {صِبْغَةَ اللهِ
وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَّ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ}.

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّنَالُ بِهَا الثُّبَاتَ عِنْدَ الْمُلِمَّاتِ فَنَفْرَحُ بِلِقَآءِ اللهِ
وَلَا نَشْعُرُ بِالسَّكَرَاتِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ وَرَثَتِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.





وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

سِرُّ الْاَسْرَارِ
فِىْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ
عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ﷺ

القطب الشيخ احمد الطيب بن البشير

صِيْغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المكتبة القادرية 12 الباكستان
0092-3335187573

سِرُّ الاَسرَار

کتاب ''**سر الاسرار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار** ﷺ'' کے مصنف ابوالاسرار اور قطبِ کبیر سیدی الشیخ احمد الطیب فرماتے ہیں کہ میں نے اِس کتاب کی تصنیف ملاءِ اعلیٰ کی تکوین کے مطابق کی ہے، ایک رات میں مسجدِ حرام میں تھا، میرے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا ''**اَللّٰہُ رَاضٍ عَنْکَ** ''اللہ تبارک وتعالیٰ تجھ سے راضی ہیں۔ میں نے اُس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا، السید محمد المبارک، اِسی اثناء مجھے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ آنے والا یہ شخص فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ پھر اُس نے مجھے کہا کہ ''**مَنْ قَرَاءَ هٰذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا طَافَ بِالْكَعْبَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ** ''جو کوئی اِس دُرود کو ایک مرتبہ پڑھے گا گویا اُس نے سے سات مرتبہ کعبے کا طواف کیا۔

اللہ تبارک وتعالیٰ طواف کرنے والے پر 60 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اِس دُرود کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کے حصے میں اُن رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جو اِس دُرودِ پاک کو 2 مرتبہ پڑھے گا، تو گویا اُس نے شبِ قدر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ دُرود پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اِس دُرود کو 2 مرتبہ پڑھنے والے کیلئے 2 ثواب ہیں۔ ثوابِ شبِ قدر اور نبی پاک ﷺ کے ہمراہ دُرود پڑھنے کا ثواب۔

جس شخص نے 3 مرتبہ اِس دُرود کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی تو اللہ تبارک وتعالیٰ کی قسم کہ اُس کی جزا، صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ جس شخص نے اِس دُرودِ پاک کو 10 بار پڑھا ''**فَاِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لَه، وَلَوْ قَتَلُ الرِّقَابَ** ''تو اللہ تبارک وتعالیٰ اُس کی مغفرت فرما دیں گے، اگرچہ اُس سے کوئی ناحق قتل ہی کیوں نہ ہوا ہو؟

''**ثُمَّ أَتَانِي النَّبِيُّ** ﷺ **وَالْمَلِكُ الْمَذْكُورُ جَالِسٌ'' عِنْدِي** ''ابھی وہ فرشتہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اِسی اثناء میں سرکارِ دوعالم ﷺ تشریف لے آئے اور آپ ﷺ نے اپنا دستِ مبارک میرے سر پر رکھتے ہوئے اِرشاد فرمایا، ''**قَبِلْنَا مَا قَالَه، اَلسَّيِّدُ مُحَمَّدُ الْمُبَارَكُ-يَعْنِي مِنْ فَضْلِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ** - ''کہ ''سید محمد المبارک نے اِس دُرود کے فضائل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، وہ ہم نے قبول کیا''۔ سرکارِ دوعالم ﷺ نے الشیخ احمد الطیب سے فرمایا کہ ''یہ دُرودِ پاک اللہ تبارک وتعالیٰ نے تجھے سات آسمانوں سے عطا کیا ہے''۔

سیدی الشیخ احمد الطیب فرماتے ہیں کہ اِسی طرح مجھے اللہ تبارک وتعالیٰ کے ایک ولیٔ کامل نے بتایا، ''کہ تمہارے اِس دُرودِ پاک میں ساتوں آسمانوں کا راز موجود ہے۔''

حضرت امام ابوالعباس احمد زروق الحسنی المغربی فرماتے ہیں کہ یہ دُرود اُن عطیات میں سے ایک عطیہ ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے بعد کے لوگوں کیلئے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ میں نے جب یہ دُرودِ پاک مدینہ طیبہ طاہرہ میں قطبِ طریق، ذخیرۂ تحقیق، میری جان وروح سیدی الشیخ محمد عبدالکریم المدنی السمّانی کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، ''**اِنَّهَا بِاِلْهَامٍ مِّنَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى** ''کہ یہ دُرودِ پاک اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ پھر میں نے اِس کا نام ''**سر الاسرار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار** ﷺ'' تجویز کر دیا۔

اِن عظیم المرتبت صیغہ ہائے دُرود وسلام کو اِس انسائیکلوپیڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے۔

سِرُّ الْأَسْرَارِ

فِيْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ

الثلث الاوّل

1 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ الرَّسُوْلِ الْمُقَرَّبِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا} .

2 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ} .

3 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ التَّقِيِّ الزَّكِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ الزَّمْزَمِيِّ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} .

4 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ} .

5 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {فَآمِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ النُّوْرِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ} .

6 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَ الْمُنَافِقِيْنَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا} .

7 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ} .

8 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْذِرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ وَ اللهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ} .

9 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجَاهِدِيْنَ ذَوِي الْاَنْوَارِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ} .

10 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ

الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ م بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ}.

11 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ مَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ}.

12 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَابِدِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ}.

13 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يَآ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ}.

14 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْمُوْدِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ}.

15 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحِبِّيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ تَرَى الْمَلَآئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ
قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}.

16 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْبُوْبِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ}.

17 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّاهِرِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ
يَّتَطَهَّرُوْا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ}.

18 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَطَهِّرِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ}.

19 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ}.

20 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّاهِدِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ}.

21 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّآئِحِيْنَ
الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {فَسِيْحُوْا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَ أَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي

الْكَافِرِيْنَ}۔

22 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّالِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ اَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ}۔

23 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْتَلِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِيْنَ}۔

24 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ} (اِفْعَلِ السَّجْدَةَ)۔

25 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْآمِرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ}۔

26 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَآئِمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۔ قُمْ فَاَنْذِرْ ۔ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۔ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۔ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ}۔

27 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّآئِمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ}۔

28 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّادِقِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ}۔

29 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصْطَفَيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَ نُوْحًا وَّ آلَ اِبْرَاهِيْمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ}۔

30 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَصَدِّقِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ}۔

31 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَلَقَدْ آتَيْنَآ اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهٖ عَالِمِيْنَ}۔

32 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّابِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ}۔

33 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَاظِمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ}.

34 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَنْصُوْرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ}.

35 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِتِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ}.

36 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّآئِبِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ}.

37 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَافِظِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ}.

38 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَسِّلِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ { يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ}.

39 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ اِخْوَتِهٖٓ آيَاتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ}.

40 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ وَّ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ}.

41 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ}.

42 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اعْبُدُوْهُ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ}.

43 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاشِعِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا}.

44 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُكَبِّرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ { مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ}.

45 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَلِّلِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ وَصّٰى بِهَآ اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ}۔

46 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَبِّحِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اِدْبَارَ النُّجُوْمِ}۔

47 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۰ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا}۔

48 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ}۔

49 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ}۔

50 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَصْحَابِهِ الصَّآفُّوْنَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ وَّ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ وَّ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ}۔

51 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الدِّيْنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ}۔

52 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْلِ جِبْرِيْلَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا}۔

53 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوَحِّدِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۰ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۰ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۰ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ}۔ (ثلاثا)

اَللّٰهُمَّ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَ النَّجْوٰى، وَيَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ الْبَلْوٰى، اِجْعَلْ لِّيْ مِنْ اَمْرِيْ فَرَجًا وَّ مَخْرَجًا، بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَيَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ (ثلاثا)

54 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي الْبَرِّ وَ

الْبِحَارِ۔

55 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُوْمِ وَ وَابِلِ الْاَمْطَارِ۔

56 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَفْلَاكِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الْاَنْوَارِ۔

57 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي الْقُلُوْبِ مِنْ حُبٍّ وَّ اَوْجَالٍ۔

58 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَ الْوَرَقِ وَ الثِّمَارِ۔

59 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِنَانِ وَ الْحُوْرِ وَ الْوِلْدَانِ۔

60 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّفُوْسِ فِي الْخَلْقِ بِكَمَالِهِمْ۔

61 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ، حَمْدًا لَّكَ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ، وَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا عَلٰى رُسُلِكَ وَ اَنْبِيَآئِكَ الَّذِيْ اصْطَفَيْتَهُمْ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِكَ وَ نَوَّرْتَ قُلُوْبَهُمْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَ عَلَّمْتَهُمْ بِسِرِّ غَيْبِكَ، وَ جَعَلْتَ اَوَّلَهُمْ خَلْقًا وَ آخِرَهُمْ بَعْثًا مُحَمَّدًا حَبِيْبَكَ، وَ قَرَّبْتَهُ وَ نَاجَيْتَهُ عَلٰى بِسَاطِ عَرْشِكَ، وَ خَشِيَ هَيْبَتَكَ وَ عَظَمَتَكَ، ثُمَّ قُلْتَ لَهُ : اُدْنُ مِنِّيْ يَا مُحَمَّدُ وَ دَنَآ اِلَيْكَ وَ رَاٰكَ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ، وَ جَعَلْتَهُ اَوَّلَ الْعَازِمِيْنَ عَلٰى طَاعَتِكَ، وَ مُنَابِذَةَ اَسْبَابِ سُخْطِكَ، مُحَمَّدًا اَوَّلَهُمْ، وَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى كَلِيْمَكَ وَ نُوْحًا وَّ عِيْسٰى هُمْ اُولُو الْعَزْمِ۔

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ اِجْعَلْ هَمِّيْ بِكَ وَ اِلَيْكَ هَمًّا وَاحِدًا، وَ اجْعَلْنِيْ بِكَ وَ اِلَيْكَ مُشَاهِدًا، وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى جَمِيْعِ مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَآئِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عِزْرَآئِيْلَ وَ مُنْكَرٍ وَّ نَكِيْرٍ وَّ رَقِيْبٍ وَّ عَتِيْدٍ وَّ مَالِكٍ وَّ رِضْوَانٍ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمِيْنَ عَلَيْهِمْ بِدَوَامِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ۔

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ اِجْعَلْ هَمِّيْ بِكَ وَ اِلَيْكَ هَمًّا وَاحِدًا، وَ اجْعَلْنِيْ بِكَ وَ اِلَيْكَ مُشَاهِدًا، وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى جَمِيْعِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهِ وَ اَنْبِيَآئِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ عَنِ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَاخْتِمْ لَنَا بِالْإِسْلَامِ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ عَلٰى نَبِيِّكَ وَ
صَفِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ} {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ}.

(الثلث الثاني)

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا أَللّٰهُ) يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالنَّجْوٰى صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى حَبِيْبِكَ الْمُصْطَفَى الَّذِيْ أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ
مُحْكَمِ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ {إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}.

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا رَحْمٰنُ).

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا رَحِيْمُ).

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا مَلِكُ).

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا قُدُّوْسُ).

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا سَلَامُ).

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا مُؤْمِنُ).

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا مُهَيْمِنُ).

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا عَزِيْزُ).

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا جَبَّارُ).

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا مُتَكَبِّرُ).

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا خَالِقُ).

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا بَارِئُ).

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا مُصَوِّرُ).

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا غَفَّارُ).

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا قَهَّارُ).

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا وَهَّابُ).

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا رَزَّاقُ).

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا فَتَّاحُ).

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا عَلِيْمُ).

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا قَابِضُ).

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا بَاسِطُ).

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا خَافِضُ).

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا رَافِعُ).

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً
بِدَوَامِكَ (يَا مُعِزُّ).

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مُذِلُّ).

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا سَمِيعُ).

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا بَصِيرُ).

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا حَكَمُ).

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا عَدْلُ).

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا لَطِيفُ).

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا خَبِيرُ).

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا حَلِيمُ).

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا عَظِيمُ).

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا غَفُورُ).

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا شَكُورُ).

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا عَلِيُّ).

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا كَبِيرُ).

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا حَفِيظُ).

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ۢ

بِدَوَامِكَ (يَا مُقِيتُ).

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا حَسِيْبُ).

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا جَلِيْلُ).

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا كَرِيْمُ).

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا رَقِيْبُ).

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا مُجِيْبُ).

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا وَاسِعُ).

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا حَكِيْمُ).

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا وَدُوْدُ).

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا مَجِيْدُ).

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا بَاعِثُ).

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا شَهِيْدُ).

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا حَقُّ).

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا وَكِيْلُ).

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً،

بِدَوَامِكَ (يَا قَوِيُّ).

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مَتِيْنُ).

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا وَلِيُّ).

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا حَمِيْدُ).

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مُحْصِيْ).

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مُبْدِئُ).

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مُعِيْدُ).

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مُحْيِيْ).

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مُمِيْتُ).

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا حَيُّ).

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا قَيُّوْمُ).

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا وَاجِدُ).

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا مَاجِدُ).

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا وَاحِدُ).

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

بِدَوَامِكَ (يَا صَمَدُ).

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا قَادِرُ).

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا مُقْتَدِرُ).

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا مُقَدِّمُ).

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا مُؤَخِّرُ).

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا أَوَّلُ).

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا آخِرُ).

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا ظَاهِرُ).

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا بَاطِنُ).

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا وَالِيُ).

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا مُتَعَالِيُ).

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا بَرُّ).

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا تَوَّابُ).

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَا مُنْتَقِمُ).

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً،

بِدَوَامِكَ (يَا عَفُوُّ).

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا رَؤُوْفُ).

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا مَالِكَ الْمُلْكِ).

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ).

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا مُقْسِطُ).

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا جَامِعُ).

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا غَنِيُّ).

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا مُغْنِيُ).

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا مَانِعُ).

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا ضَارُّ).

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا نَافِعُ).

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا نُوْرُ).

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا هَادِيُ).

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَا بَدِيْعُ).

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً ◌

بِدَوَامِكَ (يَابَاقِيُ)۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَاوَارِثُ)۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَارَشِيْدُ)۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ (يَاصَبُوْرُ)۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِكَ يَا {لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ}۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَلَمْ اَكُ شَيْئًا، وَّعَلَّمْتَنِيْ وَلَمْ اَعْلَمْ شَيْئًا، وَّرَزَقْتَنِيْ وَلَمْ اَمْلِكْ شَيْئًا مُّقِرٌّ بِذُنُوْبِيْ، وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَارْتَكَبْتُ الْمَعَاصِيْ۔

اَللّٰهُمَّ اِنْ عَفَوْتَ عَنِّيْ فَلَنْ يَّنْقُصَ مِنْ مُّلْكِكَ شَيْءٌ وَاِنْ عَذَّبْتَنِيْ فَلَنْ يَّزِيْدَ فِيْ سُلْطَانِكَ شَيْءٌ، اِلٰهِيْ وَ سَيِّدِيْ وَمَوْلَايْ اِنَّكَ تَجِدُ مَنْ تُعَذِّبُهٗ غَيْرِيْ وَ اَنَا لَا اَجِدُ مَنْ يَّرْحَمُنِيْ غَيْرَكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِعِزِّكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ اَنْ تَرْحَمَنِيْ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ وَ اَنَا تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِذَا انْقَضٰى اَجَلِيْ، وَ اُلْبِسْتُ كَفَنِيْ، وَ انْقَطَعَ عَمَلِيْ، وَ فَارَقْتُ مَسْكَنِيْ، بِحُرْمَةِ اَنْبِيَآئِكَ، وَ كَرَامَةِ اَوْلِيَآئِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَ يَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

(الثلث الثالث)

162 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ لِّقَآئِهٖ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً، بِدَوَامِ الْوَاحِدِ الْاَزَلِيِّ۔

163 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَا هُرُوْبَ لَنَا مِنْ قَضَآئِهٖ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ رُسُلِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ النَّبِيِّ الَّذِيْ اِذَا مَشٰى فِي الْبَرِّ الْاَقْفَرِ تَعَلَّقَتِ الْوُحُوْشُ بِاَذْيَالِهٖ۔

164 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الَّذِيْ مَا لَاحَ عَلٰى جِسْمِهِ الذُّبَابُ، وَرَاٰى رَبَّهٗ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَّلَا حِجَابٍ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبْيَضِ اللَّوْنِ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَثِّ اللِّحْيَةِ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِعِ الْجَبِيْنِ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَزَجِّ الْحَاجِبَيْنِ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَدْعَجِ الْعَيْنَيْنِ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّفَلَّجِ الْاَسْنَانِ كَاَنَّهُنَّ حُبُّ الْغَمَامِ۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الَّذِيْ اِذَا ابْتَسَمَ كَاَنَّمَا يَبْتَسِمُ عَنِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُوْمِ۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَقْنَى الْعِرْنِيْنِ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَّطِيْفِ الشَّفَتَيْنِ۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ بَعِيْدِ مَّا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الَّذِيْ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طَوِيْلِ الزَّنْدَيْنِ۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْعَرِ الذِّرَاعَيْنِ۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَلِّ الْحَسَنَيْنِ۔

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْهُوْسِ الْعَقِبِ۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَخْمَصِ الْاَخْمَصَيْنِ۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَقِيْقِ الْمَسْرُبَةِ حَسَنِ الْوَجْهِ وَالْاَرْنَبَةِ۔

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّضْرِبِ اللَّحْمِ مُتَمَاسِكِ الْبَدَنِ۔

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الَّذِيْ كَانَ كَفُّهُ اَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيْرِ، وَوَجْهُهُ اَنْوَرُ مِنَ الْقَمَرِ الْمُنِيْرِ۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الَّذِيْ مَا ظَهَرَ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَى الشَّمْسِ وَالرِّيَاحِ كَاَنَّهُ اِبْرِيْقُ فِضَّةٍ يَتَلَأْلَأُ بِحُمْرَةِ الذَّهَبِ وَبَيَاضِ الْفِضَّةِ، وَعُنُقُهُ كَجِيْدِ دُمْيَةٍ، وَّاَصَابِعُهُ كَقُضْبَانِ الْفِضَّةِ۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الَّذِيْ لَوْ ظَهَرَ جَمَالُهُ مَا طَاقَتِ الصَّحَابَةُ نَظْرَهٗ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الَّذِيْ هُوَ مَرْبُوْ الْقَامَةِ، لَا بِالطَّوِيْلِ الْبَآئِنِ، وَلَا بِالْقَصِيْرِ اللِّصَقِ۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الَّذِيْ مَا جَآءَ بَيْن طَوِيْلَيْنِ اِلَّا وَ مَنْكِبَاهُ فَاقَا عَلَيْهِمَا۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الَّذِيْ مَا مَشٰى بِطَرِيْقٍ وَّ تَرَكَهٗ اِلَّا وَ قَدْ عُرِفَ مِنْ رَّآئِحَتِهٖ اَنَّهٗ سَلَكَهٗ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الَّذِيْ اِذَا مَشٰى فَكَاَنَّهٗ يَتَحَدَّرُ مِنْ جَبَلٍ، اَوْ يَتَقَلَّعُ مِنْ صَخْرٍ۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الَّذِيْ كَانَ شَعْرُهٗ لَمْ يُجَاوِزْ شَحْمَتَيْ اُذُنَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ۔ (ثلاثا)

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الَّذِيْ كَانَ شَيْبُهٗ مِنْ رَّأْسِهٖ اِلٰى لِحْيَتِهٖ سَبْعَ عَشْرَةَ شَيْبَةً، وَّ جَعَلَ اللّٰهُ مَنْ يَّكْرَهُ فِيْ نَبِيِّهٖ شَيْبًا فَاِنَّهٗ يَكْفُرُ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ} {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ، وَاعْفُ عَنَّا وَ ارْحَمْنَآ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ}۔ وَاغْفِرْلَنَا

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْاَكْرَمِيْنَ۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْدَقِ الْقَآئِلِيْنَ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اِلٰى جَنّٰتِ النَّعِيْمِ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النُّوْرِ الْوَقَّادِ بَهْجَةِ الْبِلَادِ۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النُّوْرِ الْمَشْهُوْدِ بَهْجَةِ الْوُجُوْدِ۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النُّوْرِ الْوَضَّاحِ وَ شَمْسِ النُّبُوَّةِ وَ الْفَلَاحِ۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الَّذِيْ اَقْدَامُهٗ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَارِمَةٌ بِتَهَجُّدِ النَّافِلَةِ وَ اللَّيْلُ مَسْدُوْلٌ۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَوَّابِ الَّذِىْ كَانَ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ وَ الصَّوَابِ۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُخْتَارِ الَّذِىْ اَيَّدَ الْاَبْرَارُ وَ قَتَلَ الْكُفَّارَ۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ انْشَقَّ مُعْجِزَةً لَّهُ الْقَمَرُ۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ تَكَلَّمَ بِقُدُوْمِ الْعِيْرِ وَ صَدَّقَهُ الْمَلِكُ الْجَلِيْلُ الْكَبِيْرُ۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ مَسَّ عَلٰى ضَرْعِ شَاةِ اُمِّ مَعْبَدٍ فَدَرَّ بِلَبَنٍ قَبْلَ كَانَ كَجَلْمَدٍ۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ وَ السَّلْسَبِيْلِ۔

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَ بَشَّرَهُ لِمَنْ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ بِاَنْ يُّظِلَّهُ اللهُ فِيْ يَوْمٍ لَّا ظِلَّ اِلَّا ظِلَّهُ بِرَحْمَتِهٖ وَ فَضْلِهِ الْكَثِيْرِ۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ نَادٰى بَنِيْ سَلْمَانَ وَ اَتَوْهُ حَيِّيْنَ بِقُدْرَةِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ۔

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ بَكٰى اِلَيْهِ الْجِذْعُ وَ حَنَّ لِفِرَاقِهٖ فَضَمَّهٗ اِلٰى صَدْرِهِ الشَّرِيْفِ۔

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ تَكَلَّمَ اِلَيْهِ الضَّبُّ وَ نَاطَقَهُ فِيْ مَحْفِلٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ بِمَعْرِفَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ۔

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ شَكَا اِلَيْهِ الْبَعِيْرُ وَ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ النَّمِيْرُ۔

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ نَاطَقَتْهُ الْاَحْجَارُ وَ حَنَّتْ اِلَيْهِ الْبِكَارُ۔

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثِّمَارُ وَ تَلَأْلَأَتْ مِنْ جَبِيْنِهِ الْاَنْوَارُ۔

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالنَّبِيِّ الَّذِىْ كَانَ يُحِبُّ الْاَيْتَامَ وَ يَرْحَمُ الْعُدَّامَ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ}۔

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَعْطِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، وَابْعَثْهُ اللّٰهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ. سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ لَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمَحْمُوْدَاتُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ لَهُ الْعَظَمَةُ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ مَعَ كُلِّ نَفَسٍ وَّمَعَ كُلِّ طَرْفَةٍ وَّمَعَ كُلِّ سَابِقَةٍ سَبَقَتْ فِيْ سَابِقِ عِلْمِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ كَلِمَاتِهٖ وَرِضَآءَ نَفْسِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ عَرْشِهٖ وَكُرْسِيِّهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا يُّوَافِيْ نِعَمَهٗ وَيُكَافِيْ مَزِيْدَهٗ.

216 اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَآءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.

217 اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ عَدَدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ الْحُجَّاجُ.


218 اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

219 اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اِسْمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَسْمَآءِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهٗ وَمَا اَنْتَ خَالِقُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ حَمْدًا لَّكَ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ.

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ، وَتَشْرَحُ بِهَا صَدْرِيْ، وَتُنْقِذُ بِهَا وَحْلَتِيْ، وَتُغْنِيْ بِهَا فَقْرِيْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا، وَّلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ


والشمس
رسول الله



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَلصَّلَوَاتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ مَنَاهِلُ الْاَشْوَاقِ اِلٰى حَبِيْبِ الْخَلْقِ وَالْخَلَّاقِ

محمد اسماعیل ابراهیم

صِيْغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادرية 13 الباکستان
0092-3335187573

کتاب الصلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کتاب ''**الصلوات علی النبی** صلی اللہ علیہ وسلم'' حضرت محمد اسماعیل ابراہیم کا بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دُرود و سلام کا نذرانہ ہے۔ کتاب ہٰذا سال 2002ء میں **دار الفکر العربی**، القاہرہ، مصر سے شائع ہوئی۔ کتاب ہٰذا 81 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں کثرت سے فضائل دُرود و سلام، احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صیغہ ہائے دُرود و سلام موجود ہیں۔ اُن میں سے منتخب صیغہ ہائے دُرود و سلام کو اِس انسائیکلوپیڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے۔

دورانِ مطالعہ جو کتاب ہمارے زیرِ نظر رہی، اُس کے سرِ ورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

کتاب

الصلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وهي

مناهل الأشواق إلى حبيب الخلق والخلاق

وضع الفقير إلى الله تعالى

محمد إسماعيل إبراهيم

الطبعة الأولى

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

ملتزم الطبع والنشر

دار الفكر العربي

٩٤ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

ت: ٢٧٥٢٩٨٤، ٢٧٥٢٧٣٥، فاكس: ٢٧٥٢٧٣٥

www.darelfikrelarabi.com

INFO@darelfikrelarabi.com

اَلصَّلَوَاتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَعْرُوْفِ بِالصَّادِقِ الْاَمِيْنِ، وَ الْمَوْصُوْفِ
بِالْعَطْفِ عَلَى الْفُقَرَآءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ، وَ الدَّاعِيْ اِلٰى تَوْحِيْدِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِدْقِ الْعَبُوْدِيَّةِ وَ
اِخْلَاصِ الْيَقِيْنِ، وَ نَدْعُوْكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاتَكَ الْاَزَلِيَّةَ الَّتِيْ خَصَصْتَ بِهَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، وَ
هَادِيَ الْاُمَّةِ، وَ جَالِيَ الظُّلْمَةِ، وَ صَلِّ يَا رَبَّنَا وَ اِلٰهَنَا عَلَيْهِ صَلَاةً تُكَافِئُ بِهَآ اِخْلَاصَهٗ وَ صِدْقَ جِهَادِهٖ، وَ
تُجَازِيْ بِهَا صَبْرَهٗ عَلٰى كَيْدِ اَعْدَآئِهٖ وَ حُسَّادِهٖ صَلَاةً تَامِيَةً دَآئِمَةً مَّدَى الدَّهْرِ فِيْ اِمْتِدَادِهٖ.

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَبِيْبِنَا وَ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً طَيِّبَةً مُّبَارَكَةً، وَ اجْعَلْ صَلَوَاتِنَا عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ
الْاَمِيْنِ، وَ عَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الْمُبَارَكِيْنَ، شَوَاهِدَ صِدْقٍ تَدُلُّ عَلٰى حَقِيْقَةِ حَالِنَا فِيْ حُبِّ رَسُوْلِنَا، وَ دَلَآئِلَ
سَاطِعَةً تُؤَكِّدُ صِدْقَ وَلَآئِنَا لِنَبِيِّنَا.

3 وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ صَلَوَاتِنَا عَلَيْهِ مَوَارِدَ عَذْبَةً تَرْوِيْ غُلَّةَ اَشْوَاقِنَا، وَ مَرَاحِمَ تَشْفِيْ اَمْرَاضَ نُفُوْسِنَا.
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَدْعُوْكَ دُعَآءَ طَاعَةٍ وَّ عِبَادَةٍ، اَنْ تَجْعَلَ صَلَاتَنَا عَلٰى نَبِيِّنَا تَصْدُرُ مِنْ قُلُوْبِنَا وَ هِيَ اَشَدُّ مَا
تَكُوْنُ اِيْمَانًا، بِاَنَّهٗ رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ، وَ تُرَدِّدُهَآ اَلْسِنَتُنَا وَ هِيَ اَكْثَرُ مَا تَكُوْنُ شُكْرًا لِّجَلَالِكَ عَلٰى هٰذِهِ
النِّعْمَةِ، وَ تَضَرُّعًا اِلَيْكَ اَنْ تَقْبَلَ مِنَّا الْحَمْدَ عَلٰى هٰذِهِ الْمِنَّةِ.
اَللّٰهُمَّ يَا مُجِيْبَ السَّآئِلِيْنَ ارْزُقْنَا بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ نُوْرًا يُّضِيْئُ قُلُوْبَنَا فِيْ عِبَادَتِكَ، وَ تَوْفِيْقًا
مِّنْكَ يَهْدِيْنَا دَآئِمًا اِلٰى طَاعَتِكَ، وَ اَشْوَاقًا تَمْلَؤُنَآ اِخْلَاصًا فِيْ مَحَبَّةِ رَسُوْلِكَ وَ مَحَبَّتِكَ، حَتّٰى لَا نَسْمَعَ وَلَا
نَرٰى وَلَا نَشْعُرَ اِلَّا بِرُبُوْبِيَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ، وَلَا نَعْرِفَ اِلَّآ اَنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ بِاِرَادَتِكَ، وَ اَنَّ الْاَكْوَانَ كُلَّهَا فِيْ
قَبْضَتِكَ، فَنَدْعُوْكَ بِجَلَالِكَ وَ بَهَآئِكَ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُرَّةِ عُيُوْنِنَا صَلَاةً تَخُصُّهَا
مِنْكَ بِعَمِيْمِ رِضْوَانِكَ، وَ تُتَوِّجُهَا بِعَظِيْمِ حَنَانِكَ، صَلَاةً كَامِلَةً شَامِلَةً لِّكُلِّ مَا تُحِبُّهٗ وَ تَرْضَاهُ لَهٗ مِنْ
عَظِيْمِ فَضْلِكَ وَ اِحْسَانِكَ.
اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ مَّلَأْتَ حَيَاةَ نَبِيِّنَا بِالْمَكْرُمَاتِ وَ الْخَيْرَاتِ وَ الْبَرَكَاتِ، وَ جَعَلْتَ اَعْمَالَهٗ حَافِلَةً
بِالطَّيِّبَاتِ وَ الْمَبَرَّاتِ وَ الْحَسَنَاتِ، وَ جَعَلْتَ اَقْوَالَهٗ دُرَرًا مَّاثُوْرَاتٍ وَّ حِكَمًا بَالِغَاتٍ، وَّ جَعَلْتَ هَدْيَهٗ
مِنَ التَّنْزِيْلِ وَ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، نَسْئَلُكَ يَآ اِلٰهَنَا بِحَقِّ قُرْاٰنِكَ الْمُعْجِزَةِ الْخَالِدَةِ فِي الْمُعْجِزَاتِ، وَ هُوَ النُّوْرُ
الْمُنَزَّلُ مِنْ لَّدُنْكَ لِهِدَايَةِ الْمَخْلُوْقَاتِ، اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ
خَتَمْتَ بِبِعْثَتِهِ الرِّسَالَاتِ وَ جَعَلْتَ دَعْوَتَهُ الْاِسْلَامِيَّةَ طَرِيْقًا اِلَى الْهِدَايَاتِ، وَ سَبِيْلًا لِّلْعُلُوِّ وَ
الْكَمَالَاتِ، وَ مَنْهَلًا لِّلْفُيُوْضَاتِ وَ الْفُتُوْحَاتِ.

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ، كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ
بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ.

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اجْعَلْنَا بِهِمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَ مُصَدِّقِيْنَ بِمَا جَآءُوْا بِهٖ مِنَ ا الْمُبِيْنِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَّقْبُوْلَةً تَشْمُلُ بِالْاِ كْرَامِ وَ الْاِنْعَامِ جَ اَوْلِيَآئِكَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُّبَارَكَةً تَعُمُّ بِالرِّضْوَانِ وَ الْاِسْعَادِ جَ اَصْفِيَآئِكَ۔

7 اَللّٰهُمَّ وَ جَازِ عَنَّا نَبِيَّنَا الْمُصْطَفٰى خَيْرَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ، اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى رَسُوْلِكَ الْمُجْ صَلَاةً تَصِلُ قُلُوْبَنَا بِاَسْرَارِ هِدَايَتِهٖ، وَ تَمْلَأُ اَرْوَاحَنَا بِالشَّوْقِ اِلٰى مَحَبَّتِهٖ، وَ تَزِيْدُ فِيْنَا حَنِيْنَ التَّعَ بِحَضْرَتِهٖ، وَتَنْفَعُنَا بِبَرَكَتِهَا فِي الدُّنْيَا وَ الدِّيْنِ، وَ تَقَبَّلْهَا مِنَّا بِمَنِّكَ وَ كَرَمِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ عَاشَ قَبْلَ رِسَالَتِهٖ مَهْدِيًّا لِّلتَّحَنُّثِ وَ الْخَلَوَاتِ، ثُمَّ قَضٰى عُمْرَهٗ هَادِيًا لِّلطَّاعَاتِ وَ الصَّالِحَاتِ، وَ ظَلَّ طِوَالَ حَيَاتِهٖ مُعَلِّمًا لِّلْهُدٰى وَ التُّقٰى وَ الْمَكْرُمَاتِ، وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ لِلتَّوْحِيْدِ وَ الْبِرِّ وَ الطَّاعَاتِ، فَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِ مَا تُحِبُّ لَهٗ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَمِنْ اَجْمَلِ مَا تَرْضٰى لَهٗ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔

9 اَللّٰهُمَّ وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ مُكَلَّلَةً ۢ بِالْقُبُوْلِ مِنْكَ وَ التَّجَلِّيَاتِ، وَ مَحْفُوْفَةً ۢ بِالرِّضَا مِنْكَ وَ الْمَكْرُمَاتِ، وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ صَلَاتَنَا عَلٰى حَبِيْبِنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نُوْرًا سَاطِعًا فِيْ قُلُوْبِنَا، وَسَفِيْنَةَ النَّجَاةِ فِيْ خِضَمِّ حَيَاتِنَا، وَسَبَبًا فِيْ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ لَنَا يَوْمَ حَشْرِنَا۔

10 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَآئِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَآ اَعْلَمْ، وَ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ، الَّذِىْ اِذَا دُعِيْتَ بِهٖ اَجَبْتَ، وَ اِذَا سُئِلْتَ بِهٖ اَعْطَيْتَ، اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ اَسْئَلُكَ اَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِىْ، وَ تُفَرِّجَ كُرْبَتِىْ، وَ تُصْلِحَ سِرِّىْ وَ سَرِيْرَتِىْ، وَ تُقَوِّىْ فِىْ طَاعَتِكَ عَزِيْمَتِىْ، وَ تَهْدِىْ لِلْحَقِّ وَ الْهِدَايَةِ اَهْلِىْ وَ ذُرِّيَّتِىْ۔

11 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَ كُلِّىْ خُضُوْعٌ لِّجَلَالِكَ وَ بَهَآئِكَ، وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِكُلِّ خُشُوْعٍ لِّعَظْمَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ، دَاعِيًا اِيَّاكَ بِاَحَبِّ وَ اَعْظَمِ اَسْمَآئِكَ، اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلْقِ وَ اَهْدَاهَا، وَ اَكْرَمِ الْعِبَادِ وَ اَتْقَاهَا، وَفَيْضِ الرَّحْمَةِ وَ سُقْيَاهَا، وَشَمْسِ الْمَعْرِفَةِ وَ ضُحَاهَا، وَ غَيْثِ الْمَكَارِمِ وَ نَدَاهَا۔

12 اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا النَّبِيَّ الْمُصْطَفٰى حَبِيْبُ قُلُوْبِنَا وَ هَوَاهَا، وَ اَنَّهٗ غَايَةُ اَشْوَاقِنَا وَ مُنَاهَا، وَ نِدَآءُ اَرْوَاحِنَا وَ مُبْتَغَاهَا، فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَآ اَجْمَلَ صَلَوَاتٍ وَّ اَبْهَاهَا، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ اَزْكٰى تَسْلِيْمَاتٍ وَّ اَوْفَاهَا، وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ اَتَمَّ بَرَكَاتٍ وَّ اَنْمَاهَا۔

13 وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ، بِفَضْلِ قُبُوْلِكَ لَهَا، سَاطِعَةَ الْاَنْوَارِ، ظَاهِرَةَ الْمَدَدِ وَ الْاٰثَارِ، وَ لَهَا فِيْ حَيَاتِنَا خَيْرٌ مِّدْرَارٌ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى الْمُجْتَبٰى زَيْنِ الْاَخْيَارِ، وَ صَفْوَةِ الْاَبْرَارِ، وَنُوْرِ الْاَنْوَارِ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ مَا تَوَالٰى لَيْلٌ وَّ نَهَارٌ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ، وَ صَلِّ عَلَيْهِ خَلِيْلِكَ، وَ صَلِّ عَلَيْهِ رَسُوْلِكَ۔

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِاِتِّبَاعِ هِدَايَاتِهٖ، وَ امْتِعْ اَرْوَاحَنَا بِذِكْرِ شَمَآئِلِهٖ وَ طِيْبِ ذِكْرِيَاتِهٖ، وَ انْفَعْنَا بِكُلِّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَيْكَ مِنَ التَّعَلُّقِ بِذَاتِهٖ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْزُقْنَا بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ شَوْقًا يَّحْفِزُنَآ اِلٰى اَنْ نَّتَأَسّٰى بِمَكَارِمِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ يُلْهِمَنَا كَيْفَ نَتَعَرَّفُهَا وَ نَتَاَلَّفُ، وَ كَيْفَ نَسْعَدُ بِحُبِّهٖ وَ نَتَشَرَّفُ، وَ كَيْفَ نَتَشَفَّعُ بِهٖ لَدَيْكَ وَ نَتَزَلَّفُ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَدْعُوْكَ اَنْ تُعَلِّمَنِيْ كَيْفَ اَتَقَرَّبُ اِلٰى حُبِّكَ وَ حُبِّ نَبِيِّكَ وَ اَتَوَدَّدُ وَ اَتَلَطَّفُ، وَ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا وَ اَتَوَرَّعُ وَ اَتَعَفَّفُ، حَتّٰى اَعْبُدَكَ حَقَّ الْعِبَادَةِ فَلَآ اَضِلُّ اَبَدًا وَّلَآ اَتَخَلَّفُ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ ارْضَ عَنْ آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ عِتْرَتِهٖ، وَ جَازِهٖ عَنَّا خَيْرَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَزِدِ اللّٰهُمَّ وَ بَارِكْ فِيْ اَهْلِ مَحَبَّتِهٖ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَتِكَ مِنَ الرُّسُلِ وَ الْاَنْبِيَآءِ، وَ اَمِيْنِكَ عَلٰى وَحْيِ السَّمَآءِ، وَ خَيْرِ مَنْ هَفَتْ اِلَيْهِ اَرْوَاحُ الْاَوْلِيَآءِ، وَ مَالَتْ اِلَيْهِ قُلُوْبُ الْاَتْقِيَآءِ۔

20 اَللّٰهُمَّ وَ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ حَتّٰى كَاَنِّيْ اَرَاكَ، وَ اَسْعِدْنِيْ بِطَاعَتِكَ وَ تَقْوَاكَ، وَ امْلَأْنِيْ اِخْلَاصًا فِيْ حُبِّكَ وَ هَوَاكَ، وَ ارْضِنِيْ بِقَدْرِكَ وَ قَضَاكَ، وَ اَسْبِلْ عَلَيَّ سِتْرَكَ وَ غِطَاكَ، حَتّٰى يَوْمَ اَلْقَاكَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ وَلَدِ عَدْنَانَ، الَّذِيْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، وَ طَبْعُهُ الْاِحْسَانَ، صَلَاةً طَيِّبَةً زَاهِرَةً نَّامِيَةً نَّاضِرَةً، مُّشْرِقَةً نَّيِّرَةً۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ رَسُوْلُكَ الَّذِيْ دَعَانَآ اِلٰى تَوْحِيْدِكَ وَ عِبَادَتِكَ، وَ اَرْشَدَنَآ اِلٰى تَقْدِيْسِكَ وَ طَاعَتِكَ وَ هَدَانَآ اِلٰى رِضْوَانِكَ وَ مَحَبَّتِكَ، فَصَلِّ يَا رَبَّنَا عَلَيْهِ صَلَاةً تُعِزُّ بِهَآ اَنْصَارَهٗ وَ اَتْبَاعَهٗ، وَ تَزِيْدُ بِهَآ اَقْوَامَهٗ وَ اَشْيَاعَهٗ، وَ تُحَقِّقُ بِهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ الْاُلْفَةَ وَ الْجَمَاعَةَ۔

22 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَشْمَلُ اَزْكَى الصَّلَوَاتِ وَ اَطْيَبَ التَّحِيَّاتِ، حَتّٰى تَصِلَ اِلٰى حَضْرَتِهٖ هٰذِهِ الصَّلَوَاتُ وَ التَّسْلِيْمَاتُ، وَ هِيَ تَنْطِقُ بِدَلَآئِلِ الْحُبِّ وَ الْاِكْبَارِ، وَ تُبْدِيْ شَوَاهِدَ الْاَمَلِ وَ الْاِسْتِبْشَارِ، بِشَفَاعَةِ الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْهَوْلِ وَ الْاَخْطَارِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ عَلَّمَنَا بِاَقْوَالِهٖ وَ اَفْعَالِهٖ رُوْحَ الْمَكَارِمِ وَ الْفَضَائِلِ، وَ عَرَّفَنَا بِسُنَّتِهٖ خَيْرَ الْمَحَاسِنِ وَ الشَّمَآئِلِ، وَ اَرَانَا سَبِيْلَ الْجِهَادِ وَ الْاَخْذَ بِالْاَسْبَابِ وَ

الْوَسَائِلِ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً نَّعُوْذُ بِهَا بِفَضْلِكَ مِنْ سُوْءِ الْحَالِ وَ الْمَالِ، وَ مِنْ خَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَ ضَيْعَةِ الْاٰمَالِ، وَ مِنْ سُوْءِ الْاَقْوَالِ وَ شَرِّ الْاَعْمَالِ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْزُقُنِيْ بِهَا حُسْنَ الْقَصْدِ وَ الْاِعْتِدَالِ، وَ تُوَفِّقُنِيْ بِهٖ اِلٰى صِدْقِ الْاِعْتِمَادِ عَلَيْكَ وَ الْاِتِّكَالِ، وَ تُلْبِسُنِيْ بِهَا حُلَلَ الْقَبُوْلِ وَ الْوِصَالِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْحَقِّ وَ الْاِحْسَانِ، وَ مَنْهَلِ الْعِلْمِ وَ الْعِرْفَانِ، وَ الْمَثَلِ الْاَعْلٰى لِلْاِنْسَانِ، صَاحِبِ الْاٰيَاتِ وَ الْبُرْهَانِ، مَنْ يُّحِبُّهٗ يَكْمُلُ الْاِيْمَانُ، وَ يَسْعَدُ بِذِكْرِهِ الْجَنَانُ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ صَلَاةً تَسْتَمِدُّ مِنْ نُّوْرِكَ الْبَهَآءَ وَ سَنَآءَهٗ، وَ تُضْفِيْ عَلَيْهَا مِنْ جَلَالِكَ الْقَبُوْلَ وَ رُوَآءَهٗ، وَ تَمْلَأُ بِرَحَمَاتِهَا الْوُجُوْدَ وَ اَرْجَاءَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي الْحَمْدَ وَ الشُّكْرَ عَلٰى مَآ اَنْعَمْتَ وَ اَوْلَيْتَ، وَ تَفَضَّلْ بِالْعَفْوِ وَ الْمُعَافَاةِ مِنْ كُلِّ مَا ابْتَلَيْتَ، وَ اَدِمْ خَشْيَتَكَ فِيْ قَلْبِيْ وَ خَاطِرِيْ، وَ اطْبَعِ الْحَيَآءَ مِنْكَ فِيْ سِرِّيْ وَ سَرَآئِرِيْ، وَ اشْغَلْ بِحُبِّكَ يَا مَوْلَايَ وَ حُبِّ نَبِيِّكَ كُلَّ مَشَاعِرِيْ، وَ اجْعَلْ هٰذَا الْحُبَّ الرَّحْمَانِيَّ الْمُحَمَّدِيَّ اَغْلٰى ذَخَآئِرِيْ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَ اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ، وَ اَكْرَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوَاتِ، النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الَّذِيْ رَفَعْتَهٗ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَ اَحْلَلْتَهٗ اَسْمَى الْمَقَامَاتِ، وَ اَعْطَيْتَهُ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّفَاعَاتِ۔

29 اَللّٰهُمَّ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ سَبَبًا يَّكْشِفُ عَنْ بَصَآئِرِنَا الْحُجُبَ وَ السَّتَآئِرَ، لِنَرٰى مَا لِهٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ مِنْ جَمَالٍ بَاطِنٍ وَّ سَافِرٍ، وَ نَسْتَجْلِيْ بِهٖ مَا لِحَضْرَتِهٖ مِنْ مَّفَاخِرَ وَ مَآثِرَ، لَهَا عَلٰى مَدَى الْاَزْمَانِ ذِكْرٌ عَاطِرٌ، وَّ مَدَدٌ رُّوْحِيٌّ زَاخِرٌ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٍ نَّاضِرَاتٍ عَاطِرَاتٍ۔

31 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَوَاتٍ دَآئِمَاتٍ بَاقِيَاتٍ، صَلَوَاتٍ مِّنْ فَيْضِ اِحْسَانِكَ تُسْعِدُ بِهَا قُلُوْبَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ وَ الْمُصَلِّيَاتِ، وَ تُحْيِيْ بِجَلَالِهَآ اَفْئِدَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ صَلِّ عَلٰى صَلَوَاتٍ يُّشْرِقُ بَهَآؤُهَا فِيْ حَيَاةِ الْمُحِبِّيْنَ لِحَضْرَتِهٖ وَ الْمُحِبَّاتِ، وَ تَخْفُقُ اَعْلَامُهَا فِيْ مَوَاكِبِ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ عَلٰى حَبِيْبِ الذَّاتِ، وَ اَسْعَدِ الْمَخْلُوْقَاتِ۔

32 اَللّٰهُمَّ هَبْ لِيْ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ خَيْرِ مَا وَهَبْتَ عَبْدَكَ وَ نَبِيَّكَ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعِيْمَهَا وَ اِسْتَبْرَقَهَا، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ سَلَاسِلِهَا وَ اَغْلَالِهَا۔

33 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَدْعُوْكَ دُعَآءَ طَاعَةٍ وَّ ضَرَاعَةٍ، اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَتْ حَيَاتُهٗ لِلْحَقِّ دَسْتُوْرًا، وَّ لِلْهِدَايَةِ نُوْرًا مَّنْشُوْرًا، وَّ لِلْجِهَادِ عَلَمًا مَّنْصُوْرًا، وَّ لِلْخَيْرِ وَ الْبِرِّ سَعْيًا مَّشْكُوْرًا، وَّ

لِلْبَيَانِ دُرًّا مَّنْثُوْرًا وَّ مَأْثُوْرًا، فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا صَلَاةً تَتَوَالٰى عَشِيَّةً وَّ بُكُوْرًا۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُلْهِمُنَا بِهَا الرُّشْدَ وَ الصَّوَابَ، وَ الْاَخْذَ بِالْاَسْبَابِ، وَ السَّيْرَ عَلٰى هُدَى السُّنَّةِ وَ الْكِتَابِ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفٰى، الَّذِيْ مَا ضَلَّ وَ مَا غَوٰى، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رَسُوْلِنَا الْمُجْتَبٰى، الَّذِيْ مَا نَطَقَ عَنِ الْهَوٰى، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِنَا الْمُرْتَضٰى، الَّذِيْ عَلَّمَ وَ هَدٰى۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَرْفَعُهُ بِهَا اِلٰى اَعْلٰى مَنَازِلِ الْقُرْبِ وَ الرِّضَا، وَ تُبَلِّغُهُ بِهَا غَايَةَ الْقَصْدِ وَ الْمُنٰى۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ كَانَتْ اَحَادِيْثُهُ دُسْتُوْرَ الْمَكَارِمِ وَ الْحِكَمِ، وَ اَغْلٰى وَ اَسْمٰى جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَاجْعَلْنَا بِهَا يَا رَبَّنَا عَارِفِيْنَ، وَ بِنَصِّهَا وَ رُوْحِهَا عَامِلِيْنَ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَ اَهْلِيْ، وَ مَالِيْ وَ وَلَدِيْ، وَ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَآءِ"۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ "ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ: اَنْ يَّكُوْنَ اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَ اَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ، وَ اَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ"۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ "اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَ اَفْضَلُ الدُّعَآءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللهِ، وَ الْبُغْضُ فِي اللهِ"۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالدَّاعِيْ اِلَى الْخَيْرِ، وَ الْقَائِدِ اِلَى الْبِرِّ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ "اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، اِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ، وَ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَ اعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ، وَ جُفَّتِ الصُّحُفُ"۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى خَيْرِ مَنْ دَعَا اِلٰى تَوْحِيْدِ اللهِ وَ طَاعَتِهٖ، وَ الْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ وَ هِدَايَتِهٖ، وَ التَّمَسُّكِ دَائِمًا بِسُنَّتِهٖ وَ هَدْيِ صَحَابَتِهٖ، وَ الْبُعْدِ عَنِ الشَّيْطَانِ وَ حِزْبِهٖ وَ غِوَايَتِهٖ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَ مَآ اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاِنَّمَآ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَثْرَةُ مَسَآئِلِهِمْ، وَ اخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَآئِهِمْ"۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ "اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَاِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهٖ"۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْشَدَنَا اِلٰى اِصْلَاحِ نُفُوْسِنَا وَ تَقْوِيْمِ اَخْلَاقِنَا، وَ حَذَّرَنَا شَرَّ الْاٰفَاتِ وَ الْبِدَعِ الْمُهْلِكَةِ، وَ الْاَخْلَاقِ وَ الْاَعْمَالِ الْمُوْبِقَةِ، فَقَالَ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ".

47 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "لَا يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ".

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ".

49 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".

50 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ، وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ".

51 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَتَكَلَّمْ".

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ كَلَامُهُ فَصْلًا، وَ لَفْظُهُ جَزْلًا، وَ بَيَانُهُ سِحْرًا، وَ مَنْطِقُهُ عَذْبًا، وَ تَجْوِيْدُهُ فَخْمًا.

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا، وَلَا تَجَسَّسُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا".

54 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَّ اِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لِاٰدَمَ، وَ اٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ، اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ، لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ اِلَّا بِالتَّقْوٰى".

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ، اَحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، وَ اسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ، لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا، وَ لٰكِنْ قُلْ، قَدَّرَ اللّٰهُ وَ مَا شَآءَ فَعَلَ، فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ".

56 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "بَرُّوْا اٰبَآءَكُمْ تَبَرَّكُمْ اَبْنَاؤُكُمْ، وَ عِفُّوْا تَعِفَّ نِسَآؤُكُمْ".

57 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ لِأُمَّتِهٖ تَذْكِيْرًا وَّتَنْبِيْهًا لِّكُلِّ مُسْلِمٍ "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ، يَّسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِّنْ م بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ، وَمَنْ اَبْطَأَ بِهٖ عَمَلُهٗ، لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ".

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَمَرَنِيْ رَبِّيْ بِتِسْعٍ: اَلْاِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَاَنْ اَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ، وَاُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ، وَاَنْ يَّكُوْنَ نُطْقِيْ ذِكْرًا، وَصَمْتِيْ فِكْرًا، وَنَظَرِيْ عِبْرَةً".

60 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُمْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُمْ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ اَجْدَرُ اَلَّا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ".

61 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهٗ".

62 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهٗ وَاِنْ قَلَّ".

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، الَّذِيْ لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا، وَلَمْ يَدْرُسْ عِلْمًا، وَلَمْ يَصْحَبْ عَالِمًا، وَمَعَ هٰذِهِ الْاُمِّيَّةِ فَقَدْ سَحَرَ الْبُلَغَاءَ بَيَانُهٗ، وَاَدْهَشَ الْحُكَمَاءَ اِلْهَامُهٗ، وَاَعْجَزَ الْفُصَحَاءَ كَلَامُهٗ.

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْهِ".

65 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا تَبَايَنُوْا، فَاِنْ تَسَاوَوْا هَلَكُوْا".

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثُلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ، اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَّدْعُوْلَهٗ".

67 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَّغْرِسُ غَرْسًا، اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ".

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَدْعُوْ رَبَّهٗ بِصَالِحِ الدُّعَآءِ لِيُعَلِّمَنَا كَيْفَ مِنَّا الطَّلَبَ وَالرَّجَآءَ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اَشْرَفِ الرُّسُلِ وَ الْاَنْبِيَآءِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَآئِهٖ "اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ، وَ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ، وَ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ، وَ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ، وَ مِنْ هٰؤُلَآءِ الْاَرْبَعِ"۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَ الْكَسَلِ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَآءِ، وَ دَرْكِ الشَّقَآءِ، وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ"۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ، فَالْاَمِيْرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ، وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَ الْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وَلَدِهٖ، وَ هِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ، وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَّ كُلُّكُمْ مَّسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ"۔

72 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "خَدَمُكُمْ اِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ، فَاَطْعِمُوْهُمْ مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ، وَ اَلْبِسُوْهُمْ مِّمَّا تَلْبَسُوْنَ، وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَّا يَغْلِبُهُمْ، فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ"۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَ خَتَمْتَ بِرِسَالَتِهِ الرِّسَالَاتِ، وَ جَعَلْتَهٗ دَلِيْلَ الْخَيْرِ وَ الْحَسَنَاتِ، وَ مَصْدَرَ الْفَضْلِ وَ الْهِدَايَاتِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ اَمَامَكَ، تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِى الرَّخَآءِ يَعْرِفْكَ فِى الشِّدَّةِ، وَ اعْلَمْ اَنَّ مَآ اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ، وَ مَآ اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُخْطِئَكَ، وَ اعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَ اَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَ اَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "طُوْبٰى لِمَنْ شَغَلَهٗ عَيْبُهٗ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ، وَ اَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَّالِهٖ، وَ اَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهٖ"۔

76 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ، وَ لٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ"۔

77 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "اَلْاِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ مبِالْقَلْبِ، وَ اَقْوَالٌ مبِاللِّسَانِ، وَ عَمَلٌ مبِالْاَرْكَانِ"۔

78 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ "لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ"۔

79 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَلدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ، وَالدَّالُ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِهٖ"۔

80 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ"۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ"۔

82 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ لِلْبِرِّ، وَالْبِرَّ يَهْدِيْ لِلْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ، وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا"۔

83 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ"۔

84 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ اُوْتِيَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، وَاَفْضَلِ مَنْ هَدٰى اِلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَاَكْرَمِ مَنْ عَفَا وَاَنَابَ۔

86 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهٖ اِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا"۔

87 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ"۔

88 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَآءٌ، وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ"۔

89 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِيَّاكُمْ وَالْهَوٰى، فَاِنَّ الْهَوٰى يُعْمِيْ وَيُصِمُّ"۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَآئِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ اَشْيَآءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَآءَ رَحْمَةً بِكُمْ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا"۔

91 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ "اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ".

92 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّ تَرُوْحُ بِطَانًا".

93 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ".

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "لَيْسَ لَكَ مِنْ مَّالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ، وَ مَا لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ، وَ مَا تَصَدَّقْتَ فَاَبْقَيْتَ، وَ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ فَلِغَيْرِكَ".

95 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "اِنَّكُمْ لَا تَسَعُوْنَ النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ، وَ لٰكِنْ يَّسَعُهُمْ مِّنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ".

96 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "اَلْمُغْتَابُ وَ الْمُسْتَمِعُ شَرِيْكَانِ فِي الْاِثْمِ".

97 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَّا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا".

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ، وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، اَوِ امْرَاَةٍ يَّنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ".

99 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ جِبْرِيْلُ نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ، اَنَّهُ لَا تَمُوْتُ نَفْسٌ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَ اِنْ اَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ".

100 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "مَا مِنْ اَحَدٍ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَ مَا لَهُ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، اِلَّا الشَّهِيْدُ، يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ".

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "اَلَا وَ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ".

102 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ".

103 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ هُوَ غَضْبَانُ".

104 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَّ اِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلَاهُ، فَاِنْ

ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ"۔

105 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "اَكْرِمُوْا اَوْلَادَكُمْ وَ اَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ، فَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةُ اللهِ"۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَ الْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَ نَافِخِ الْكِيْرِ (مَوْقِدِ الْحَدَّادِ)، فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ (يُعْطِيَكَ) وَ اِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَ اِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَ نَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَ اِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً"۔

106 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "اَلرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ (يُصَاحِبُ)"۔

107 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الْاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ"۔

108 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "اَنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يَّرٰى اَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ، وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ"۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ، وَ وَادَ الْبَنَاتِ، وَ مَنَعَ وَ هَاتِ (اَیْ قَوْلَ هَاتِ لِمَا لَا يَحِلُّ لَكَ)، وَ كَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَ قَالَ، وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَ اِضَاعَةَ الْمَالِ"۔

110 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "كُلُّ اُمَّتِيْ مُعَافًى اِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ (الْمُعْلِنِيْنَ بِالْفِسْقِ)، وَ اِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ (عَدَمِ الْمُبَالَاةِ) اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَ قَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُوْلُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا، وَ قَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ"۔

111 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "عُذِّبَتْ اِمْرَاَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، لَا هِيَ اَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ (اَیْ هَوَامِّهَا وَ حَشَرَاتِهَا)"۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ (الَّذِیْ يَصْرَعُ النَّاسَ بِقُوَّتِهٖ)، اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِیْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ"۔

113 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ "مَنْ تَرَدّٰى (اَسْقَطَ نَفْسَهٗ مِنْ شَاهِقٍ) فَقَتَلَ نَفْسَهٗ، فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا، خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا، وَ مَنْ تَحَسّٰى (شَرِبَ) سُمًّا، فَسُمُّهٗ فِيْ يَدِهٖ وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهٗ فِيْ يَدِهٖ، يَجَأُ (يَضْرِبُ) بِهَا فِيْ بَطْنِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا"۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَآئِهٖ "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حَلَالًا طَيِّبًا وَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ، وَ اسْتَعْمِلْنِىْ بِهٖ صَالِحًا تَقْبَلُهٗ مِنِّىْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْيَقِيْنِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ، وَ اَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ. اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ، وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ".

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْهُدٰى وَ الرِّضْوَانِ، وَ رَسُوْلِ الْعِلْمِ وَ الْعِرْفَانِ، وَ الدَّاعِىْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَ الْاِيْمَانِ.

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ. الَّذِىْ رَفَعْتَهٗ اِلٰى اَسْمٰى مَكَانٍ، وَّ مَيَّزْتَهٗ بِعُلُوِّ الْقَدْرِ وَ الشَّانِ، وَ كَمَّلْتَهٗ بِالرِّفْقِ وَ الْاِحْسَانِ، جَمَّلْتَهٗ بِالسَّمَاحَةِ وَ الْغُفْرَانِ. فَكَانَ الْمَثَلَ الْاَعْلٰى لِلْاِنْسَانِ، وَ الصُّوْرَةَ الْبَاهِرَةَ مِنْ خُلُقِ الْقُرْآنِ.

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ آيَتِكَ الْكُبْرَى الَّتِىْ تَتَجَلّٰى فِيْهَا مَعَالِمُ الرَّحْمَةِ وَ الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ، وَ رُوْحُ الطَّاعَةِ لِاَمْرِكَ وَ الْاِذْعَانِ، وَ حُبُّ الْخَيْرِ وَ الْاَمَانِ، وَ قُوَّةُ الصَّبْرِ وَ الْاِيْمَانِ، وَ جَمَالُ الْوَفَآءِ وَ الْعِرْفَانِ، وَ كُلُّ مَا فِىْ طَاقَةِ الْبَشَرِ مِنْ كَرَمٍ وَّ اِحْسَانٍ.

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاتَكَ الْاَبَدِيَّةَ الَّتِىْ تُحِبُّهَا لَهٗ وَ تَرْضَاهَا، وَ جَعَلْتَهَا مِنْ ذَاتِ نَفْسِكَ فِىْ مَجْدِهَا وَ عُلَاهَا، اِلٰى ذَاتِ نَفْسِهٖ فِىْ مُسْتَقَرِّهَا وَ مَثْوَاهَا.

119 اَللّٰهُمَّ وَ تَقَبَّلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ وَ اَسْعِدْنَا بِبَرَكَتِهَا وَ عُقْبَاهَا.

120 اَللّٰهُمَّ بَلِّغْهُ عَنَّا صَلَاةَ الْمُحِبِّيْنَ، وَ سَلَامَ الْمُشْتَاقِيْنَ.

121 وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ حُبَّهٗ فِىْ قُلُوْبِنَا حَافِزًا اِلٰى طَاعَتِكَ وَ مَحَبَّتِكَ، وَ سَبَبًا فِىْ تَعَلُّقِنَا بِهِدَايَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ. فَمَا عَرَفْنَاكَ رَبًّا وَّاحِدًا قَادِرًا مُّقْتَدِرًا اِلَّا بِرِسَالَتِهٖ، وَ مَا عَبَدْنَاكَ اِلٰهًا فَرْدًا صَمَدًا اِلَّا بِهِدَايَتِهٖ، وَ مَا اَحْبَبْنَاكَ يَا رَبَّنَا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِنْ خَالَطَتْ اَرْوَاحَنَا اَنْوَارُ مَحَبَّتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اِلٰهِىْ مَآ اَشَدَّ حَاجَتَنَآ اِلٰى اِسْتِغْفَارِكَ، وَ مَآ اَكْثَرَ رَغْبَتَنَا فِىْ اِسْتِرْحَامِكَ، وَ مَآ اَعْظَمَ اَمَلَنَا فِىْ عَفْوِكَ وَ غُفْرَانِكَ، فَيَسِّرْ لَنَآ اِسْتِغْفَارَنَا سِرًّا اَوْ جِهَارًا، وَّ هَيِّئْ لَنَا فُرَصَ اِسْتِرْحَامِكَ لَيْلًا وَّ نَهَارًا، وَ اكْتُبْ لَنَا عَلَى النَّفْسِ وَ الْهَوٰى جِهَادًا وَّ اِنْتِصَارًا.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَدْعُوْكَ بِرَجَآءِ الطَّامِعِيْنَ فِىْ كَرَمِكَ اَنْ تُوَجِّهَنَآ اِلَيْكَ تَوَجِيْهًا يُّقَوِّىْ فِىْ طَاعَتِكَ جَوَارِحَنَا، وَ يُجَدِّدُ فِىْ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ عَزَآئِمَنَا، وَ يَشْغَلُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهٖ خَوَاطِرَنَا.

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ جَاهَدَ فِىْ مَرْضَاتِكَ، وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِكَ، وَ بَيَّنَ لَنَآ آيَاتِكَ.

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ دَآئِمًا اَبَدًا فَاِنَّهٗ مُخْتَارُكَ وَ مُصْطَفَاكَ، وَ بَابُ رَحْمَتِكَ وَ هُدَاكَ، وَ سَبَبُ عِبَادَتِكَ وَ تَقْوَاكَ.

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ جَآءَ بِالْاِسْلَامِ وَ الْاِيْمَانِ، لِيُنْقِذَ النَّاسَ مِنَ
الضَّلَالِ وَ الْكُفْرَانِ، وَ سَارَ بِاُمَّتِهٖ فِىْ طُرُقِ السَّلَامِ وَ الرِّضْوَانِ، مُبِيْنًا لَّهَا بِالْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ مَنَاهِجَ
الْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ، الَّتِىْ نَزَّلَهَا رَبُّ الْعِزَّةِ فِى الْقُرْاٰنِ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً طَيِّبَةً مُّبَارَكَةً تَقْبَلُهَا مِنَّا وَ تَرْضَاهَا، وَ تَزِيْدُ عَلٰى مَدَى الْاَيَّامِ فَضْلَهَا وَ
بَهَاهَا، وَ تَجْعَلُ الْحُبَّ فِىْ نَبِيِّنَا غَايَتَهَا وَ مُنْتَهَاهَا۔

126 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَ بِسِرِّهَا وَ جَدْوَاهَا، اَنْ تَرْحَمَنَا مِنْ شُرُوْرِ هٰذَا الزَّمَانِ، وَ مَا
فِيْهِ مِنْ فِتَنٍ وَّ افْتِتَانٍ، وَ مِنِ انْحِرَافٍ وَّ طُغْيَانٍ۔

وَ احْفَظْنَا اللّٰهُمَّ مِنْ تَطَاوُلِ اَهْلِ الْغَدْرِ وَ الْعُدْوَانِ، وَ مِنْ ظُلْمِ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ السُّلْطَانِ، وَ اكْتُبْنَا
عِنْدَكَ مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ وَ الْاِحْسَانِ۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَتْقَى الْاَتْقِيَآءِ، وَ اَرْحَمِ الرُّحَمَآءِ، وَ اَحْكَمِ الْحُكَمَآءِ، وَ
اَعْلَمِ الْعُلَمَآءِ وَ اَوْجَهِ الشُّفَعَآءِ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نَبِيِّنَا وَ حَبِيْبِنَا وَ قُرَّةِ عُيُوْنِنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْكُرَمَآءِ، وَ
اَحَبِّ الْاَحِبَّآءِ، وَ اَوْفَى الْاَوْفِيَآءِ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَفْرَدْتَهٗ بَيْنَ الْوَرٰى بِالْجَلَالِ وَ الْبَهَآءِ، فَكَانَ وَلَا
شَبِيْهَ لَهٗ مِنْ عِبَادِكَ فِىْ خُلُقِهٖ وَلَا اَكْفَآءَ، وَلَا اَنْدَادَ لِقَدْرِهٖ وَلَا نُظَرَآءَ، وَلَا مَثِيْلَ لَهٗ فِىْ فَضْلِهٖ وَلَا قُرَنَآءَ۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ التَّقْوٰى وَ الصَّفَآءِ، وَ جَوْهَرِ الْهُدٰى وَ
الْاِهْتِدَآءِ، وَ مَصْدَرِ الْخَيْرِ وَ النَّعْمَآءِ، وَ صَلِّ يَا رَبَّنَا وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ شَرَّفْتَ بِمَوْلِدِهٖ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ، وَ
سَعِدَتْ بِهِجْرَتِهِ الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ، وَ جَعَلْتَ يَا رَبَّنَا قُلُوْبَ اَحِبَّآئِكَ تَهْفُوْ اِلٰى بِقَاعِهِمَا الْمُعَظَّمَةِ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ عَلَّمَنَا كَيْفَ يَكُوْنُ الْحَمْدُ لَكَ فِى الشِّدَّةِ وَ
الرَّخَآءِ، وَ كَيْفَ يَكُوْنُ الصَّبْرُ عَلَى الْاَذٰى وَ الْبَلَآءِ، وَ اَرْشَدَنَا بِاَقْوَالِهٖ وَ اَفْعَالِهٖ كَيْفَ يَكُوْنُ كَرَمُ الْكُرَمَآءِ،
وَحِلْمُ الْحُلَمَآءِ، وَ رِفْقُ الرُّحَمَآءِ، وَ عَفْوُ الْاَقْوِيَآءِ، وَ اِبَآءُ الضُّعَفَآءِ۔

132 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلٰى نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ وَصَفْتَهٗ بِاَحَبِّ
النُّعُوْتِ وَ الْاَسْمَآءِ وَ خَاطَبْتَهٗ بِاَكْرَمِ نِدَآءٍ، وَ شَرَّفْتَهٗ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَ الْاِسْرَآءِ بِالتَّحِيَّةِ مِنْكَ وَ الْوَلَآءِ، وَ
اَدْنَيْتَهٗ مِنْ عَرْشِكَ غَايَةَ الْاِدْنَآءِ، لِيَحْظٰى مِنْكَ بِاَسْعَدِ وَ اَحَبِّ لِقَآءٍ، فِىْ سَاحَةِ التَّجَلِّىْ مِنْكَ عَلَيْهِ وَ
الرِّضَآءِ، بَعْدَمَا قَاسٰى فِىْ سَبِيْلِ دَعْوَتِهٖ مِنْ اَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَ السُّفَهَآءِ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ زِدْ وَ بَارِكْ صَلَاتَكَ الَّتِىْ كَتَبْتَهَا عَلٰى نَفْسِكَ فَضْلًا
مِّنْكَ وَ اِكْرَامًا، وَّ فَرَضْتَهَا عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ تَشْرِيْفًا لِّقَدْرِهٖ وَ اِعْظَامًا، وَّ اَمَرْتَ بِهَا عِبَادَكَ وَفَآءً بِحَقِّهٖ وَ
قِيَامًا۔

134 اَللّٰهُمَّ وَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَتَحِيَّاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ تَحِيْضُ عَلَيْهِ سَحًّا وَّغَمَامًا، وَّهِيَ تَنْتَظِمُ رَحْمَتَكَ اِنْتِظَامًا، وَّتَنْهَلُ مِنْ حَنَانِكَ اِنْسِجَامًا۔

135 وَنَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ يَاخَيْرَ مَسْئُوْلٍ وَّخَيْرَ مُجِيْبٍ، اَنْ تُبَلِّغَ عَنَّا حَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا صَلَاةً مَّرْضِيَّةً يَّكُوْنُ فِيْهَا اَوْفَى الْوَلَاءِ وَالثَّنَاءِ، لِمَنْ دَاوٰى قُلُوْبَنَا بِهَدْيِكَ الْعُلْوِيِّ، وَاَسْعَدَ اَرْوَاحَنَا بِكَلَامِكَ الْقُدْسِيِّ، وَكَشَفَ لَنَا عَنْ جَلَالِ ذَاتِكَ الْاِلٰهِيِّ، وَاَوْضَحَ لَنَا مَعَالِمَ الشَّرِيْعَةِ وَالْحَقِيْقَةِ، وَسَلَكَ بِاُمَّتِهٖ اَقْوَمَ طَرِيْقَةٍ، فَصَلِّ يَا رَبَّنَا عَلَيْهِ صَلَاةً تَكُوْنُ حَرِيَّةً بِمَقَامِهٖ وَخَلِيْقَةً۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ نَشَرَ لِوَآءَ هَدْيِكَ وَاَمْنِكَ، وَبَسَطَ سُلْطَانَ حُكْمِكَ وَعَدْلِكَ، وَاَقَامَ اَرْكَانَ دِيْنِكَ الْحَنِيْفِ وَشَرْعِكَ۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هٰذَا الرَّسُوْلِ الْحَكِيْمِ، وَالنَّبِيِّ الْعَظِيْمِ، الَّذِيْ حَرَّرَ الْعُقُوْلَ مِنْ رِبْقَةِ الْجَهْلِ، وَاَطْلَقَ الْفِكْرَ مِنْ اِسَارِ الْجُمُوْدِ وَالْعُقْمِ، وَعَلَّمَ النَّاسَ الْمَكَارِمَ وَالْفَضْلَ، وَبَثَّ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْخَيْرَ وَالنُّبْلَ، وَاَدَّبَهُمْ فَاَحْسَنَ اَدَّبَهُمْ بِاللِّيْنِ وَالْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً زَاكِيَةً نَّامِيَةً، وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً شَامِلَةً كَامِلَةً تَقْبَلُهَا مِنِّيْ، وَتُؤَهِّلُنِيْ بِهَا لِاَنْ اُطَهِّرَ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَآءِ، وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ، وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ، اِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الْجِهَادِ وَالْكِفَاحِ، وَنَبِيِّ الْعِزَّةِ وَالْفَلَاحِ، وَخَيْرِ مَنْ رَّغَّبَنَا فِي الْعَمَلِ بِالْعَزْمِ وَالْاِسْتِعْدَادِ، وَحَبَّبَنَا فِي الْمَكَارِمِ بِصِدْقِ الْهِمَّةِ وَتَوَخِّي السَّدَادِ، وَحَذَّرَنَا الْعِجْزَ وَالْكَسَلَ وَالرُّقَادَ، فَاَدْعُوْكَ يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ اَنْ تُقَوِّيَ فِيْ طَاعَتِكَ جُهْدِيْ وَطَاقَتِيْ وَتَشُدَّ فِيْ عِبَادَتِكَ اَزْرِيْ وَهِمَّتِيْ، وَتُحْيِيَ بِذِكْرِكَ قَلْبِيْ وَسَرِيْرَتِيْ وَتُؤَيِّدُ بِنَصْرِكَ وَتَوْفِيْقِكَ قَصْدِيْ هٰذَا وَنِيَّتِيْ۔

141 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّعْمَلُوْنَ بِهَدْيِ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفٰى فِي الْجَهْرِ وَالنَّجْوٰى، وَيَقْتَفُوْنَ اٰثَارَهٗ فِي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى، وَيَعْمَلُوْنَ بِسُنَّتِهٖ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِلْاُخْرٰى۔

اَللّٰهُمَّ وَوَفِّقْنَا دَائِمًا اِلٰى خِدْمَةِ اَهْلِنَا وَاَوْطَانِنَا فِيْ ظِلِّ مَبَادِئِ الْاِسْلَامِ الْعُلْيَا، وَشَرَائِعِهِ الْمُثْلٰى۔

وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ بِلَادَنَا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً، بِلَادَ خَيْرٍ وَّمَحَبَّةٍ وَّسَلَامٍ، وَبِلَادَ مَجْدٍ وَّعِزَّةٍ وَّوِئَامٍ، وَاحْفَظْهَا يَارَبَّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِيْنَ، وَانْصُرْهَا بِنَصْرِكَ الْمُبِيْنِ، عَلٰى اَعْدَائِكَ اَعْدَاءِ الدِّيْنِ۔

142 وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ، صَلَاةً دَائِمَةً بَاقِيَةً اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَوْصُوْفِ بِاَجْمَلِ السِّمَاتِ، وَ الْمَنْعُوْتِ بِاَعْظَمِ الْكَمَالَاتِ، وَ الْمَعْرُوْفِ بِاَحَبِّ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ.

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ ابْدَعْتَ ذَاتَهُ الْحِسِّيَّةَ فِى الذَّوَاتِ، وَ رَفَعْتَ دَرَجَتَهُ الْمَعْنَوِيَّةَ فَوْقَ الدَّرَجَاتِ، وَ جَعَلْتَهُ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ مَحْمُوْدًا فِى الْاَرْضِ وَ السَّمٰوَاتِ، وَ كَانَتْ جَمِيْعُ اَسْمَآئِهٖ تَدُلُّ عَلَى الْمَحَامِدِ وَ الْمَكْرُمَاتِ.

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ وَفِّقْنِىْ اَنْ اُحِبَّ هٰذَا النَّبِىَّ حُبًّا يَّهْدِيْنِىْ اِلٰى مَحَبَّتِكَ، وَ يَأْخُذُ بِيَدِىْ اِلٰى طَاعَتِكَ، وَ يُنَشِّطُ جَوَارِحِىْ فِىْ عِبَادَتِكَ، وَ يَسِيْرُ بِىْ فِىْ طَرِيْقِ اَوْلِيَآئِكَ وَ خَآصَّتِكَ، وَ يُؤَهِّلُنِىْ دَآئِمًا اِلٰى مَرْضَاتِكَ وَ هِدَايَتِكَ.

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ قَدِّرْنِىْ مَا حَيِيْتُ اَنْ اُكْثِرَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَيْهِ حَبِيْبِنَا، وَ قُرَّةِ عُيُوْنِنَا، وَ طَبِيْبِ قُلُوْبِنَا، سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَ اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ، وَ دَلِيْلِ الْخَيْرَاتِ، وَ مُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ، وَ مُقِيْلِ الْعَثَرَاتِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّمَّنْ اَتَمَثَّلُ رَأْفَتَهُ وَ حَنَانَهُ بِاُمَّتِهٖ كُلَّمَا ذُكِرَتِ الرَّحْمَاتُ، وَ اَسْتَحْضِرُ جَلَالَهُ كُلَّمَا لَاحَ فِى الْقُلُوْبِ نُوْرُ الْهِدَايَاتِ، فَهُوَ فِىْ سِرِّىْ وَ خَاطِرِىْ رُوْحُ الْفَضَآئِلِ وَ الْمَكْرُمَاتِ، وَ مُشْرِقُ الْهُدٰى وَ التَّجَلِّيَاتِ.

اَللّٰهُمَّ امْلَأْ قَلْبِىْ بِحُبِّ النَّبِىِّ، وَ زِدْنِىْ مَوَدَّةً فِىْ اٰلِ بَيْتِ النَّبِىِّ، وَ سَهِّلْ لِّىْ زِيَارَةَ رَوْضَةِ النَّبِىِّ، لِاَحْظٰى هُنَاكَ بِاِهْدَآءِ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَامِ لِحَضْرَةِ النَّبِىِّ.

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلِيْقُ بِمَنْ جَعَلْتَهُ حَبِيْبَكَ وَ مُصْطَفَاكَ، وَ مَوْضِعَ اِنْعَامِكَ وَ رِضَاكَ، وَ اَدْعُوْكَ اَنْ تَرْزُقَنِىْ اِيْمَانًا مبِحُبِّكَ وَ حُبِّهٖ يُخَالِطُ سِرِّىْ وَ سَرِيْرَتِىْ، وَ يَقِيْنًا مبِوَحْدَانِيَّتِكَ يُلَازِمُ قَلْبِىْ وَ عَقِيْدَتِىْ، وَ هَبْ لِىْ رَحْمَةً وَّاسِعَةً تَشْمَلُنِىْ بِهَا فِىْ حَيَاتِىْ وَ مَوْتَتِىْ، كَمَآ اَدْعُوْكَ مُتَوَسِّلًا مبِهٰذَا الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ، وَ النَّبِىِّ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، اَنْ تُدِيْمَ فِىْ قَلْبِىْ لِهٰذَا النَّبِىِّ الْمُصْطَفٰى اَصْدَقَ الْمَحَبَّاتِ، وَ اَنْ تَمْلَأَ فُؤَادِىْ لِاٰلِهٖ وَ عِتْرَتِهٖ بِاَخْلَصِ الْمَوَدَّاتِ، وَ اَنْ تُوَفِّقَنِىْ لِلْاِقْتِدَآءِ بِصَحَابَتِهٖ اَهْلِ التُّقٰى وَ الْهُدٰى وَ الْعَزَمَاتِ، وَ اَنْ تَهْدِيَنِىْ اِلَى التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فِىْ جَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ.

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّنَا وَ رَسُوْلِنَا وَ شَفِيْعِنَا، وَ طِبِّ قُلُوْبِنَا، وَ هِدَايَةِ نُفُوْسِنَا، وَ رَاحِ اَرْوَاحِنَا.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّ اَشْوَاقَنَآ اِلٰى حَضْرَةِ النَّبِىِّ ظَاهِرَةٌ لَّدَيْكَ، وَ اَنَّ حَنِيْنَنَآ اِلٰى ذَاتِهِ الشَّرِيْفَةِ لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ، وَ اِنَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ هِىَ خَيْرُ وَسِيْلَةٍ تُرْوِىْ اَشْوَاقًا، وَّ هِىَ خَيْرُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهَآ اِلَيْكَ وَ اِلَيْهِ، وَ اَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ مُطَّلِعٌ عَلٰى حَقِيْقَةِ مَشَاعِرِنَا وَ هَوَاهَا، وَ اَنْتَ الْخَبِيْرُ بِسَرِيْرَتِنَا وَ طَوَايَاهَا، فَنَسْئَلُكَ بِحَقِّ ذَاتِكَ فِىْ جَلَالِهَا وَ عُلَاهَا، وَ بِحَقِّ مَحَبَّتِكَ لِرَسُوْلِنَا وَ بَهَاهَا، اَنْ تُبَلِّغَ نِدَآءَ اَشْوَاقِنَآ اِلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

حَبِيْبِكَ الْمَحْبُوْبِ، وَاَنْ تُوَصِّلَ حَنِيْنَ اَرْوَاحِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ رَيْحَانَةِ الْقُلُوْبِ، وَاَنْ تَجْعَلَ حَيَاتَنَا بِهٰذِهِ الْمَشَاعِرِ تَحْلُوْ وَتَطِيْبُ، وَتَزْهُوْ بَهْجَتُهَا بِحُبِّهٖ وَلَا تَغِيْبُ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرَةِ الْاَبْرَارِ، وَزِيْنَةِ الْاَخْيَارِ، وَمَشْرِقِ الْاَنْوَارِ، وَتَاجِ الْجَلَالِ وَالْوَقَارِ، وَاَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَاَحَبِّ مَنْ حَنَّتْ اِلَيْهِ الْكَائِنَاتُ وَظَلَّلَتْهُ الْاَشْجَارُ۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ جَعَلْتَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً لِّلْخَطَايَا وَمَاحِقَةً لِلذُّنُوْبِ، وَسَاتِرَةً لِّلْمَآثِمِ وَالْعُيُوْبِ، وَسَبَبًا فِي الطَّافِكَ الْخَفِيَّةِ عِنْدَ الْخُطُوْبِ وَالْكُرُوْبِ، وَمَا ذٰلِكَ اِلَّا لِاَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ تُحْيِي الْقُلُوْبَ، وَتَجْعَلُ لِلْاِنْسَانِ فِيْ حُبِّ الْخَيْرِ وَعَمَلِهٖ اَوْفٰى نَصِيْبٍ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَزْكٰى صَلَاةٍ وَّاَنْمَاهَا، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اَطْيَبَ تَسْلِيْمَاتٍ وَّاَبْهَاهَا، وَبَارِكْ عَلَيْهِ اَسْنٰى بَرَكَاتٍ وَّاَوْفَاهَا۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَحَبِّ الْوَرٰى وَاَرْضَاهَا، وَاَهْدَى الْخَلَائِقِ وَاَتْقَاهَا، وَاَجْمَلِ النَّاسِ ذَاتًا وَّاَبْهَاهَا۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً يَّزْدَادُ عَلَى الشَّوْقِ جَوَاهَا، وَيَصْفُوْ مَعَ الْحُبِّ هَوَاهَا، وَيَزْكُوْ مَعَ الْاِخْلَاصِ جَنَاهَا۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً يَّتَرَدَّدُ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى صَدَاهَا، وَيُفِيْضُ عَلَى الْكَوْنِ خَيْرُهَا وَنَدَاهَا، وَيَسْرِيْ فِي الْاَرْوَاحِ سِرُّهَا وَسَنَاهَا۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً نَّجْتَلِيْ حُسْنَهَا وَبَهَاهَا، وَكَاَنَّهَا نَسَآئِمُ الْمَحَبَّةِ وَصَفَاهَا، وَعَبِيْرُ الْمَوَدَّةِ وَشَذَاهَا۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الرُّسُلِ وَالْمَبْعُوْثِ بِاَكْمَلِ رِسَالَتِهِمْ، وَحَبِيْبِ الذَّاتِ وَخُلَاصَةِ صَفْوَتِهَا، وَمَعْدِنِ الْهِدَايَةِ وَعَيْنِ حَقِيْقَتِهَا۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَقْبَلُ مِنَّا تِلَاوَتَهَا، وَتُبَارِكُ لَنَا قِرَآءَتَهَا، وَتَجْعَلُ لَنَا مِنَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا اِلْهَامًا يَّهْدِيْ اِلَى التَّقْوٰى وَكَرَامَتِهَا، وَاِلَى الطَّاعَةِ وَعِزَّتِهَا، وَاِلَى الْقَنَاعَةِ وَثَرْوَتِهَا، وَاِلَى الْعَافِيَةِ وَبَهْجَتِهَا۔

اَللّٰهُمَّ وَاَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِي الَّتِيْ اِلَيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَّنَا فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَّنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوَازِيْ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهٖ، وَتُكَافِئُ فَضْلَ عِلْمِهٖ وَاٰثَارِهٖ، وَتُجَازِيْ صِدْقَ مَحَبَّتِهٖ وَاِيْثَارِهٖ۔

159 وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ صَلَاتَنَا صَادِقَةَ النِّيَّةِ وَالتَّعْبِيْرِ، يَحْدُوْهَا مِنْكَ الْفَضْلُ وَالتَّقْدِيْرُ، وَنَبْلُغُ بِهَا السَّلَامَةَ مِنَ الشُّرُوْرِ جَمِيْعِهَا وَمِنَ الْغُرُوْرِ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَا يَعْلَمُ حَقِيْقَتَهٗ سِوَاكَ، وَلَمْ يَنَلْ شَأْوَهٗ بَشَرٌ وَّلَا مَلَاكٌ، وَّمَا وَصَلَ اِلٰى مَقَامِهِ الْاَسْمٰى اِلَّا بِمَشِيْئَتِكَ وَرِضَاكَ۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ يُسَبِّحُكَ وَ يُقَدِّسُكَ فِى الْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ، وَ يَشْكُرُكَ وَ يُثْنِىْ عَلَيْكَ فِى الْجَهْرِ وَ الْاِسْرَارِ، وَ يَشْهَدُ بِرُوْحِ الْاِيْمَانِ وَ الْاِقْرَارِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وَ اِنَّكَ اَنْتَ اللهُ اللَّطِيْفُ السَّتَّارُ، وَاِنَّكَ اَنْتَ اللهُ مَالِكُ الْمُلْكِ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ رَفَعَ قَوَاعِدَ الْاِسْلَامِ، وَ وَطَّدَ الْعَدْلَ وَ اَيَّدَ النِّظَامَ، وَحَارَبَ الشُّعُوْبِيَّةَ بَيْنَ الْاَنَامِ، فَلَا فَضْلَ لِاَحَدٍ عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا بِالتَّقْوٰى وَحُسْنِ الْاِسْلَامِ۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ كَانَ يُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَ يُفْشِى السَّلَامَ، وَ يُلِيْنُ الْكَلَامَ، وَيَصِلُ الْاَرْحَامَ، وَيَبَرُّ الْمَسَاكِيْنَ وَالْاَيْتَامَ۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ كَانَ خُلُقُهٗ اَرَقَّ مِنَ الْاِنْسَامِ، وَ كَفُّهٗ اَنْدٰى مِنَ الْغَمَامِ، وَ عَزْمُهٗ اَمْضٰى مِنَ الْحُسَامِ۔

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ، وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ طَبَعْتَهٗ عَلَى الْهُدٰى وَ الْاِيْمَانِ، وَ اَنْطَقْتَهٗ بِالْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ، وَ جَعَلْتَ خُلُقَهُ الْقُرْاٰنَ، لِيَكُوْنَ اَهْلًا لِّلْمَحَبَّةِ مِنْكَ وَ الرِّضْوَانِ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى هٰذَا الرَّسُوْلِ الْكَامِلِ الَّذِىْ حَبَوْتَهٗ بِالسَّمَاحَةِ وَ النُّبْلِ، فَكَانَ يَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَ الْاَهْلَ، وَ يُسْدِى الْخَيْرَ وَ الْبِرَّ، وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الدَّهْرِ، وَيَحْرِصُ عَلٰى اُمَّتِهٖ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَّ شَرٍّ، وَيَدْعُوْكَ "اُمَّتِىْ يَا رَبِّ اُمَّتِىْ" فَنَسْئَلُكَ يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ، يَا مَنْ جَعَلْتَ نَبِيَّنَا مَصْدَرَ بِرٍّ وَّ رَحْمَةٍ وَّ دَاعِيَةِ خَيْرٍ وَّ هِدَايَاتٍ، اَنْ تُؤَيِّدَ بِعَوْنِكَ وَ نَصْرِكَ اُمَّةَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ اَنْ تُعِزَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ اَتْبَاعَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ اَنْ تَسْتُرَ وَ تُغْنِىَ بِفَضْلِكَ وَ اِحْسَانِكَ كُلَّ مَنْ يُّصَلِّىْ وَ يُسَلِّمُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَرْحَمَ وَتُسْعِدَ كُلَّ مَنْ اَحَبَّ عِتْرَةَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ، الَّذِىْ جَعَلْتَ حُبَّهٗ رَاحَ الْاَرْوَاحِ وَ طِبَّ الْقُلُوْبِ، وَ جَعَلْتَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ مِنْ دَوَاعِى الرَّحْمَةِ وَ تَفْرِيْجِ الْكُرُوْبِ، وَ تَهْذِيْبِ النُّفُوْسِ وَ تَكْفِيْرِ الذُّنُوْبِ، وَتَرْقِيْقِ الْمَشَاعِرِ وَاِصْلَاحِ الْعُيُوْبِ۔

168 اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ حَبِيْبُكَ الْمَحْبُوْبُ الَّذِىْ جَعَلْتَ حُبَّهٗ مَطْلَبَ كُلِّ مُؤْمِنٍ م بِكَ، وَ رِضَاهُ غَايَةَ الْمَطْلُوْبِ، وَ جَعَلْتَ الْاِيْمَانَ بِهٖ وَ بِرِسَالَتِهٖ اَصْلَ الْعَقِيْدَةِ فِىْ كُلِّ تَرْغِيْبٍ وَّ تَرْهِيْبٍ، فَعَلَيْكَ صَلَاةُ اللهِ وَ سَلَامُهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَكَ حُبِّىْ وَاِجْلَالِىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاِلَيْكَ اَشْوَاقِىْ وَ تَحْنَانِىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَوَالٰى عَلَيْهِ مِنْ مَّعِيْنِ رَحْمَتِكَ الْعُظْمٰى وَ تَزِيْدُ، وَ لَهَا مِنْ فَيْضِ حَنَانِكَ الْاَزَلِىِّ مَدَدٌ مَّدِيْدٌ، وَّ مِنْ مَّحَبَّتِكَ الْقُدْسِيَّةِ الْعُلْوِيَّةِ رُكْنٌ شَدِيْدٌ، وَّ قَصْرٌ

مَّشِيْدٌ فِيْ اَعْلٰى فَرَادِيْسِ الْخُلُوْدِ، حَيْثُ النَّعِيْمُ الْمُقِيْمُ، وَ وَجْهُكَ الْكَرِيْمُ، الَّذِيْ اَبَحْتَهٗ لِمَنْ اَحْبَبْتَهُمْ لِلنَّظَرِ وَ الشُّهُوْدِ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرِ الْاِيْمَانِ الْفَرِيْدِ، وَ مَعْدِنِ التَّقْوٰى وَ التَّوْحِيْدِ، وَ نُوْرِ الْهِدَايَةِ فِيْ هٰذَا الْوُجُوْدِ، وَ قَدْ اَكْرَمْتَهٗ يَا مَوْلَانَا بِالْحُبِّ الْقُدْسِيِّ الْمَجِيْدِ، وَ اَعْزَزْتَهٗ بِالنَّصْرِ وَ التَّأْيِيْدِ، وَ جَمَّلْتَهٗ وَ كَمَّلْتَهٗ بِكُلِّ بَدِيْعٍ مِّنَ الْخِصَالِ وَ حَمِيْدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ دَآئِمًا اَبَدًا مَّا دَامَ شَاهِدٌ وَّ مَشْهُوْدٌ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ، وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ۔

172 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، الَّذِيْ هَدَانَا لِعِبَادَتِكَ، وَ عَلَّمَنَا طَرِيْقَ مَحَبَّتِكَ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ، صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِ مُلْكِكَ۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

176 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔


177 اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

178 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ و رحمة الله و بركاته، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الرَّحْمٰنِ۔

179 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ اِنْسَانٍ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ الظَّلَامِ۔

180 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْاَنَامِ فِيْ يَوْمِ الزِّحَامِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَنْزَلَ رَبُّكَ عَلَيْكَ فِي الْقُرْاٰنِ { وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۔


الله نور السموات والأرض



وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ

كُنُوزُ الۡاَسۡرَارِ
فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
عَلَى النَّبِيِّ الۡمُخۡتَارِ ﷺ

العارف باللہ تعالی
عبد اللہ بن محمد الھاروشی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسۡلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبۃ القادریۃ 14
الباکستان
0092-3335187573

کنوز الاسرار

کتاب ''**کنوز الاسرار**'' شہرِ فاس (مغرب) کے ایک ولیِ کامل حضرت عبداللہ خیاط بن محمد الہاروشی المغربی الفاسی کی تصنیفِ لطیف ہے۔ آپ کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ دُرود و سلام کی اِس بابرکت کتاب کا تین مرتبہ پڑھنا، ایک مرتبہ دلائل الخیرات شریف کے پڑھنے کے برابر ہے۔ نیز اِس کتاب کا پڑھنا سرکارِ مدینہ ﷺ کی شفاعت اور زیارت کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کو اِس جہان اور اُس جہان میں بھی سرکارِ مدینہ ﷺ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔

مذکورہ بالا کتاب کا جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا وہ **دار جوامع القلم** ، قاہرہ، مصر کا شائع شدہ ایڈیشن ہے جس کے سرورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

كنوز الأسرار

في الصلاة والسلام على النبي المختار

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الأبرار

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم لك الحمد بقدر عظمة ذاتك فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم بقدر عظمة ذاتك واجعلني من خاصة المحبوبين لديه وعطفه علي اللهم آمين

العارف بالله تعالى

عبد الله بن محمد الهاروشي

رضي الله تعالى عنه

الناشر: دار جوامع الكلم - ١٧ شارع الشيخ صالح الجعفري

الدراسة - القاهرة

كُنُوزُ الْاَسْرَارِ

فِى الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلَى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْاَبْرَارِ

الربع الاول

1 بِاسْمِ اللهِ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللهُ {اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَاَلْتَنَا مِنْ اَنْفُسِنَا مَا لَا نَمْلِكُهٗ اِلَّا بِكَ، اَللّٰهُمَّ فَهَبْ لَنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

2 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

3 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

5 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

6 اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

7 اَللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

8 اَللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

{يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَآ اِنَّ اللهَ

يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ}.

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ الَّذِىْ كَتَبْتَ فِيْهِ بِقَلَمِ رَحِيْمِيَّتِكَ وَمِدَادِ مَدَدِ رَحْمُوْتِيَّتِكَ {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ}.

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَرْشِ اسْتِوَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ اَحَدِيَّةِ اُلُوْهِيَّتِكَ وَرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ وَبَرَكَاتِكَ الْكَامِلَةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ {وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ}.

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اِنْسَانِ عَيْنِ الْكُلِّ فِىْ حَضْرَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَجَمْعِ جَمْعِ اَحَدِيَّتِكَ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ {يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ٠ وَّدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ٠ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا} فَكَانَ الْمُبَشِّرُ عَيْنَ الْمُبَشَّرِ بِهٖ.

فَاَنِلْنَا اَللّٰهُمَّ مِنْ بَرَكَاتِهٖ وَافْتَحِ اللّٰهُمَّ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِمَفَاتِيْحِ حُبِّهٖ وَكَحِّلْ اَبْصَارَ بَصَآئِرِنَا بِاِثْمِدِ نُوْرِهٖ وَطَهِّرْ اَسْرَارَ سَرَآئِرِنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ وَقُرْبِهٖ حَتّٰى لَا نَرٰى فِى الْوُجُوْدِ اِلَّآ اَنْتَ بِهٖ وَمِنْ نَّوْمِ غَفْلَتِنَا نَنْتَبِهُ.

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَافِ كِفَايَتِكَ وَهَآءِ هِدَايَتِكَ وَيَآءِ يُمْنِكَ وَعَيْنِ عَظْمَتِكَ وَصَادِ صِرَاطِكَ صِرَاطِ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ صِرَاطِ اللهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ {اَلَآ اِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ}.

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِ الْاَسْمَآءِ الْمُتَشَعِّعِ بِالْاَسْمَا فِىْ حَضْرَةِ الْمُسَمّٰى فَكَانَ عَيْنَ مَظَاهِرِهَا الْوُجُوْدِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ عِلْمِكَ وَعَيْنِ اَسْرَارِهَا الْجُوْدِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ كَرَمِكَ وَعَيْنِ اِخْتِرَاعَاتِهَا الْكُلِّيَّةِ الْكَوْنِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ اِرَادَتِكَ وَعَيْنِ مَقْدُوْرَاتِهَا الْجَبَرُوْتِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قُدْرَتِكَ وَقَهْرِكَ وَعَيْنِ اِنْشَآءَاتِهَا الْاِحْسَانِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ سِعَةِ رَحْمَتِكَ.

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِيْمِ مُلْكِكَ وَحَآءِ حِكْمَتِكَ وَمِيْمِ مَلَكُوْتِكَ وَدَالِ دَيْمُوْمِيَّتِكَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيْطُ بِالْحَدِّ.

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَاحِدِ الثَّانِى، اَلْمَخْصُوْصِ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِى، اَلسِّرِّ السَّارِىْ فِىْ مَنَازِلِ الْاُفُقِ الرَّحْمَانِى، اَلْقَلَمِ الْجَارِىْ بِمِدَادِ مَدَدِ الْمَدَدِ الرَّبَّانِىْ عَلٰى طُوْرِ الْعَقْلِ الْاِنْسَانِىْ صَلَاةً تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ رَحْمَتِكَ عَلَيْهِ وَاِنْتِهَآءِ نُوْرِكَ وَسِرِّكَ اِلَيْهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَلِفِ اَحَدِيَّتِكَ وَحَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَمِيْمِ مُلْكِكَ وَدَالِ دِيْنِكَ {اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ} فَقَدْ اَخْلَصْتَ الْخَالِصَ الْقَآئِمَ بِالدِّيْنِ الْخَالِصِ وَاَضَفْتَهٗ اِلَيْكَ.

18 فَصَلِّ رَبِّ عَلٰى مَنْ قَامَ اِلَيْكَ بِمَآ اَضَفْتَ عَلَى التَّحْقِيْقِ اِلَيْكَ فَاَتَمَّ دِيْنَكَ وَبَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَاَوْضَحَ سَبِيْلَكَ وَاَدّٰى اَمَانَتَكَ وَاَقَامَ الْبُرْهَانَ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِكَ وَاَثْبَتَ فِى الْقُلُوْبِ اَحَدِيَّتَكَ فَهُوَ سِرُّكَ

الْمَصُونُ بِهَيْبَتِكَ وَ جَلَالِكَ الْمُتَوَّجُ بِنُورِ اَسْرَارِكَ وَ جَمَالِكَ بَلْ صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ عَلٰى قَدْرِ مَقَامِهِ الْعَظِيْمِ لَدَيْكَ وَ عَلٰى قَدْرِ عِزَّتِهٖ عَلَيْكَ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِكَ مَوْضِعِ نَظَرِكَ وَ مَظْهَرِ مَنْظَرِكَ وَ مُظْهِرِ خَزَآئِنِ كَرَمِكَ عُقْدَةِ عِزِّكَ وَ مِفْتَاحِ قُدْرَتِكَ مَحَلِّ رَحْمَتِكَ وَ مَجْلِ عَظَمَتِكَ خُلَاصَتِكَ مِنْ كُنْهِ كَوْنِكَ وَ صَفْوَتِكَ مِمَّنْ خَصَّصْتَهٗ بِاِصْطِفَآئِيَّتِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ الْاَبْطَحِيِّ الْقُرَشِيِّ اَحْمَدِ الْحَامِدِيْنَ فِيْ سُرَادِقَاتِ جَلَالِكَ وَ مُحَمَّدِ الْمَحْمُوْدِيْنَ فِيْ بِسَاطِ جَمَالِكَ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَلِفِ اِبْدَاعِكَ وَ بَآءِ بِدَايَةِ اِخْتِرَاعَاتِكَ وَ وَاوِ وُدِّكَ فِيْ اِنْشَآءِ اٰتِكَ وَ اَلِفِ اِبْرَازِكَ لِمَخْلُوْقَاتِكَ وَ لَامِ لُطْفِكَ فِيْ تَدْبِيْرَاتِكَ وَ قَافِ قُدْرَتِكَ عَلٰى خَلْقِ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ وَ سِيْنِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيْعِ اَضْدَادِ مَبْدُوْعَاتِكَ وَ مِيْمِ مَمْلَكَتِكَ الْمُحِيْطَةِ بِمَعْلُوْمَاتِكَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرِّ وُجُوْدِكَ وَ مَظْهَرِ وُدِّ جُوْدِكَ وَ خَزَانَةِ مَوْجُوْدِكَ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اِمَامِ حَضْرَةِ جَبَرُوْتِكَ الْمُصَلِّيْ فِيْ مِحْرَابِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى بِاَحَدِيَّةِ جَمْعِهٖ فَاَجْمَعَ بِكَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَجَمَعْتَهٗ عَلَيْكَ وَ خَصَّصْتَهٗ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ وَ اَخْلَصْتَهٗ بِالسُّجُوْدِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ جَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِهٖ فِي الصَّلَاةِ الْخَالِصَةِ لَدَيْكَ فَهُوَ الْمُفْتَضُّ اَبْكَارَ اَسْرَارِ مُشَاهَدَتِكَ، الْمُقْتَنِصُ لِلَامِعَاتِ لَمَحَاتِ نَفَحَاتِ مُشَاهَدَتِكَ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَلِمَتِكَ الْعُلْيَا مِنْ حَيْثُ الْاِخْتِرَاعُ وَ الْاِبْتِدَاعُ وَ عُرْوَتِكَ الْوُثْقٰى مِنْ حَيْثُ تَتَابُعُ الْاَتْبَاعِ وَ حَبْلِكَ الْمُعْتَصَمِ بِهٖ عِنْدَ الضِّيْقِ وَ الْاِتِّسَاعِ وَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ لِلْهِدَايَةِ وَ الْاِتِّبَاعِ { الٓمٓ } { حٰمٓ } اَدُمْ حٰمٓ { قٓ } { طٰسٓمٓ } { مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا } اَحُوْنٌ وَّدُوْدٌ { طٰهٰ } { يٰسٓ } { قٓ } { نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ }۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ الْمُسْتَغْرِقِ فِيْ مُشَاهَدَةِ ذَاتِكَ الْحَقِّ الْمُتَخَلِّقِ بِالْحَقِّ حَقِيْقَةِ الْحَقِّ اَحَقُّ هُوَ قُلْ اِيْ وَ رَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ { اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا }

اَللّٰهُمَّ قَدْ عَجَزْنَا مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ عُقُوْلِنَا وَ غَايَةُ اَفْهَامِنَا وَ مُنْتَهٰى اِرَادَتِنَا وَ سَوَابِقُ هِمَمِنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَ كَيْفَ نَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ وَ قَدْ جَعَلْتَ كَلَامَكَ خُلُقَهٗ وَ اَسْمَآئَكَ مَظْهَرَهٗ وَ مَنْشَأَ كَوْنِكَ مِنْهُ وَ اَنْتَ مَلْجُؤُهٗ وَ رُكْنُهٗ وَ مَلُوْكُ الْاَعْلٰى عِصَابَتُهٗ وَ نُصْرَتُهٗ۔

25 فَصَلِّ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ قُدْرَتِكَ بِمَصْنُوعَاتِكَ وَ تَحَقُّقُ اَسْمَآئِكَ بِاِرَادَتِكَ مِنْهُ اِبْتَدَأْتَ الْمَعْلُوْمَاتِ وَاِلَيْهِ جَعَلْتَ غَايَةَ الْغَايَاتِ وَبِهٖ اُقِيْمَتِ الْحُجَجُ عَلَى الْمَخْلُوْقَاتِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ خَازِنُ عِلْمِكَ حَامِلُ لِوَآءِ حَمْدِكَ مَعْدِنُ سِرِّكَ مَظْهَرُ عِزِّكَ نُقْطَةُ دَآئِرَةِ مُلْكِكَ وَ مُحِيْطُهٗ وَمُرَكَّبُهٗ وَبَسِيْطُهٗ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ بِالْمَشْهَدِ الْاَعْلٰى وَ الْمَوْرِدِ الْاَحْلٰى وَ الطُّوْرِ الْاَجْلٰى وَ النُّوْرِ الْاَسْنٰى وَ الْمُخْتَصِّ فِيْ حَضْرَةِ الْاَسْمَا بِالْمُقَدَّمِ الْاَسْنٰى وَ النُّوْرِ وَ السِّرِّ الْاَحْمٰى۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّجَرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْعُلْوِيَّةِ الثَّابِتِ اَصْلُهَا فِيْ مَعَادِنِ هَيْبَتِكَ السَّامِيْ فَرْعُهَا فِيْ سُرَادِقَاتِ عَظْمَتِكَ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ الْمُنْذِرِ الْمُبَشِّرِ الْمُكَبِّرِ الْمُطَهِّرِ عَطُوْفٍ حَلِيْمٍ {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۰ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ } { اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ج اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ج اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَّهْدِى اللهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ}۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِشْكَاةِ جِسْمِهٖ وَ مِصْبَاحِ قَلْبِهٖ وَ زُجَاجَةِ عَقْلِهٖ وَ كَوْكَبِ سِرِّهِ الْمُوْقَدِ مِنْ شَجَرَةٍ اَصْلُهَا النُّوْرُ الْمُفِيْضُ عَلَيْهِ مِنْ نُّوْرِ رَبِّهٖ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ، بَلْ صَلِّ عَلَى الضَّمِيْرِ الْبَارِزِ الْمَشْهُوْرِ فِي النُّوْرِ الثَّانِيْ الْاٰخِرِ الْمَضْرُوْبِ بِهِ الْمِثَالُ فِيْ عَالَمِ الْمِثَالِ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ نَوَّرْتَ بِنُوْرِهٖ مَلَكُوْتَ سَمٰوَاتِكَ وَ اَرْضِكَ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةِ كَوْنِكَ فِيْهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ نُّوْرِهٖ، اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةِ اَجْسَامِ اَنْبِيَآئِكَ وَ مَلَآئِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ، اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ اَصْلُهَا النُّوْرُ الَّذِيْ هُوَ الْمُفِيْضُ عَلَيْهِ مِنْ فَيْضِ اَسْمَآئِكَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَّهْدِى اللهُ لِنُوْرِهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ خَلْقِهٖ وَيَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَلِيْمٌ ۘ بِهٰذَا النُّوْرِ الْبَارِزِ الْمَسْتُوْرِ الْبَاهِرِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِيْ بَهَرْتَ بِهٖ كُلِّيَّةَ الْكَوْنَيْنِ وَ طَرَّزْتَ بِهِ الثَّقَلَيْنِ وَ زَيَّنْتَ بِهٖ اَرْكَانَ عَرْشِكَ وَ مَلَآئِكَةَ قُدْسِكَ وَ اَدْنَيْتَهٗ مِنْ حَضْرَةِ جَبَرُوْتِكَ وَ جَعَلْتَهُ الْمُتَشَفِّعَ اِلَيْكَ فِيْ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ فَهُوَ بَابُ الرِّضَا وَ الرَّسُوْلُ الْمُرْتَضٰى حَقِيْقَةُ حَقِّكَ وَ صَفْوَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ بِنُوْرِهٖ حُمِلَتْ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَ بِسِرِّهٖ رُفِعَتْ سَمٰوَاتُكَ وَ بُسِطَتْ اَرْضُكَ فَهُوَ سَمَآءُ سَمَآئِكَ وَعِنَايَةُ عُيُوْنِ اِحْسَانِكَ وَ مَظْهَرُ عِزِّكَ وَ سُلْطَانِكَ فَاَنْتَ الْعَلِيْمُ بِهٖ مِنْ حَيْثُ الْحَقُّ وَ الْحَقِيْقَةُ۔

31 فَصَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَةُ عِلْمِكَ بِذٰلِكَ وَ تَحَقُّقُهٗ لِمَا هُنَالِكَ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرَاجِ دِيْنِكَ وَ كَوْكَبِ يَقِيْنِكَ وَ قَمَرِ تَوْحِيْدِكَ وَ شَمْسِ مُشَاهَدَةِ اِحْسَانِكَ

فِيْ اِيْجَادِ اِنْسَانِكَ۔

33 صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَصْعَدُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ وَ تُعْرَفُ فِي الْمَلَأِ الْاَعْلٰى اَنَّهَا خَالِصَةٌ لَّدَيْكَ صَلَاةً مَّبْلَغُهَا
الْعِلْمُ الْمُحِيْطُ بِالْكُلِّ حَقِيْقَةُ الْكُلِّ تَتَجَدَّدُ بِكُلِّيَّتِهٖ ذٰلِكَ الْكُلِّ۔

34 وَ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَقَامِ الْمُخْتَصِّ بِهٖ تَسْلِيْمًا مَّبْلَغُهٗ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ عَلٰى مَا مَنَحَ مِنَ الْفَتْحِ الَّذِيْ بِهٖ اَبْصَارُ بَصَآئِرِنَا قَدْ فَتَحَ بِالصَّلَاةِ عَلٰى اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ وَّ سَيِّدِ كُلِّ
مَسُوْدٍ الَّذِيْ كَمُلَ بِهِ الْوُجُوْدُ وَ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيْقُ وَ بِهٖ يُطْلَبُ كَمَالُ اِكْمَالِنَا عَلَى التَّحْقِيْقِ۔

اَللّٰهُمَّ بِجَاهِ صَاحِبِهِ الصِّدِّيْقِ وَ بِالْفَارُوْقِ الْمُوَفَّى بِالتَّصْدِيْقِ وَ بِذِي النُّوْرَيْنِ وَ بِخَاتَمِ الْخِلَافَةِ ابْنِ عَمِّهٖ
عَلِيٍّ عَلَى التَّحْقِيْقِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْمَعْنَا بِكَ عَلَيْكَ وَ اَوْرِدْنَا مِنْكَ اِلَيْكَ وَ اَرْشِدْنَا اِيَّاهُ فِيْ حَضْرَةِ جَمْعِ الْجَمْعِ حَيْثُ لَا فُرْقَةَ وَلَا مَنْعَ
اِنَّكَ اَنْتَ الْمَانِحُ الْفَاتِحُ تَمْنَحُ مَا شِئْتَ مِنْ مَّوَاهِبِ رَبَّانِيَّتِكَ لِمَنْ شِئْتَ مِمَّنْ خَصَّصْتَهٗ بِرَهْبَانِيَّتِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَحْشُرَنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا تُخَالِفْ بِنَا يَا مَوْلَانَا عَنْ مِّلَّتِهٖ وَلَا
عَنْ طَرِيْقَتِهٖ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ مُجِيْبٌ لِمَنْ دَعَآ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ كَمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِفَهْمِ الْكِتَابِ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْهِ لِاَنَّهٗ شِفَآءٌ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّجَرَةِ الْاَصْلِيَّةِ النُّوْرَانِيَّةِ وَ لَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ
اَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ خَزَآئِنِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ
الْاَصْلِيَّةِ وَ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ فَهُمْ مِنْهُ وَ اِلَيْهِ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ اِلٰى يَوْمِ
تَبْعَثُ مَنْ اَفْنَيْتَ۔

(مَنْ قَرَأَ هٰذِهِ الْاَبْيَاتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)

هٰذَا الْوَجِيْهُ الَّذِيْ تَمَّتْ مَحَاسِنُهٗ
مُصَدَّقٌ صَادِقٌ بِالصِّدْقِ مَرْسُوْلُ

مَنْ رُّفِعَ الْمَسْخُ مِنْ اَجْلِ نُبُوَّتِهٖ
وَ الشِّرْكُ مِنْ حِيْنِهٖ لِلْاٰنَ مَخْذُوْلُ

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُّسْتَضَآءُ بِهٖ
مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلُ

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّ سَلِّمْ سَلَامًا تَآمًّا عَلٰى نَبِيٍّ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ بِقَدْرِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ سَيِّدِ الْاَصْفِيَآءِ وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ وَ مَنْبَعِ الْاَنْوَارِ وَ جَمَالِ الْكَوْنَيْنِ وَ شَرَفِ الدَّارَيْنِ وَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابَ قَوْسَيْنِ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ بِنُوْرِهِ الظُّلَمُ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّكُلِّ الْاُمَمِ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَارِ لِلسِّيَادَةِ وَ الرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَوْصُوْفِ بِاَفْضَلِ الْاَخْلَاقِ وَ الشِّيَمِ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَصِّ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَ خَصَآئِصِ الْحِكَمِ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ لَا تُنْتَهَكُ فِيْ مَجَالِسِهِ الْحُرَمُ وَلَا يُغْضِيْ عَمَّنْ ظَلَمَ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ اِذَا مَشٰى تُظَلِّلُهُ الْغَمَامَةُ حَيْثُمَا يَمَّمَ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اِنْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَ اَقَرَّ بِرِسَالَتِهٖ وَ صَمَّمَ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَثْنٰى عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ نَصًّا فِيْ سَالِفِ الْقِدَمِ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ صَلّٰى عَلَيْهِ رَبُّنَا فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِهٖ وَ اَمَرَ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَ يُسَلَّمَ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ مَا هَلَّتِ الدِّيَمُ وَ مَا جَرَتْ عَلَى الْمُذْنِبِيْنَ اَذْيَالُ الْكَرَمِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ شَرِّفْ وَ كَرِّمْ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ وَّ اَفْضَلِ مَوْلُوْدٍ وَّ اَكْرَمِ مَخْصُوْصٍ وَّ مَحْمُوْدٍ سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِيَّاتِكَ وَ مَنْ لَّهُ التَّفْضِيْلُ عَلٰى جُمْلَةِ مَخْلُوْقَاتِكَ صَلَاةً تُنَاسِبُ مَقَامَهُ الْعَالِيْ وَ مِقْدَارَهٗ وَ تَعُمُّ اَهْلَهٗ وَ اَزْوَاجَهٗ وَ اَوْلِيَآئَهٗ وَ اَنْصَارَهٗ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى جُمْلَةِ رُسُلِكَ وَ اَنْبِيَآئِكَ وَ زُمَرِ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَصْفِيَآئِكَ صَلَاةً تَعُمُّ بَرَكَاتُهَا الْمُطِيْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمَآئِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِعِلْمِكَ مِنْ جَهْلِيْ وَ بِغِنَاكَ مِنْ فَقْرِيْ وَ بِعِزِّكَ مِنْ ذُلِّيْ وَ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ مِنْ عَجْزِيْ وَ

ضَعْفِی وَ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْذَلِ الْعُمُرِ ۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِیْ ثَنَآءً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَیْتَ عَلٰی نَفْسِكَ ۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَ الْاَعْمَالِ وَ الْاَھْوَآءِ وَ الْاَدْوَاءِ وَ الْاٰرَآءِ ۔

اَللّٰھُمَّ یَا مَنْ م بِیَدِهٖ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَافِنَا مِنْ مِّحَنِ الزَّمَانِ وَ عَوَارِضِ الْفِتَنِ فَاِنَّا ضُعَفَآءُ عَنْ حَمْلِھَا وَ اِنْ كُنَّآ اَھْلًا لَّھَا فَعَافِیَتُكَ اَوْسَعُ لَنَا یَا وَاسِعُ یَا عَلِیْمُ یَا مَنْ م بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ ھُوَ یُجِیْرُ وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ ۔

اَللّٰھُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُوْرِ كُلِّھَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ ۔

اَللّٰھُمَّ اَصْلِحْ لِیْ دِیْنِیَ الَّذِیْ ھُوَ عِصْمَةُ اَمْرِیْ وَ اَصْلِحْ لِیْ دُنْیَایَ الَّتِیْ فِیْھَا مَعَاشِیْ وَ اَصْلِحْ لِیْ اٰخِرَتِی الَّتِیْ اِلَیْھَا مَعَادِیْ وَ اجْعَلِ الْحَیَاةَ زِیَادَةً لِّیْ فِیْ كُلِّ خَیْرٍ وَّ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّیْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ۔

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ خَیْرَ عُمُرِیْ اٰخِرَهٗ وَ خَیْرَ عَمَلِیْ خَوَاتِمَهٗ وَ خَیْرَ اَیَّامِیْ یَوْمَ اَلْقَاكَ فِیْهِ ۔

اَللّٰھُمَّ لَا تَجْعَلْ عَیْشِیْ كَدًّا وَّلَا تَجْعَلْ دُعَآئِیْ رَدًّا وَّلَا تَجْعَلْنِیْ لِغَیْرِكَ عَبْدًا وَّلَا تَجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ لِسِوَاكَ وُدًّا اِنِّیْ لَآ اَقُوْلُ لَكَ ضِدًّا وَّلَا شَرِیْكًا وَّلَا نِدًّا ۔

اَللّٰھُمَّ ارْزُقْنِیْ نَفْسًا قَانِعَةً م بِعَطَآئِكَ مُوْقِنَةً م بِلِقَآئِكَ شَاكِرَةً لِّنَعْمَآئِكَ مُحِبَّةً لِّاَوْلِیَآئِكَ مُبْغِضَةً لِّاَعْدَآئِكَ ۔

اَللّٰھُمَّ وَسِّعْ عَلَیَّ رِزْقِیْ فِیْ دُنْیَایَ وَلَا تَحْجُبْنِیْ بِھَا عَنْ اُخْرَایَ وَ اجْعَلْ مَقَامِیْ عِنْدَكَ دَآئِمًا م بَیْنَ یَدَیْكَ وَ بِكَ نَاظِرًا اِلَیْكَ وَ اَرِنِیْ وَجْھَكَ الْكَرِیْمَ وَ وَارِنِیْ عَنِ الرُّؤْیَةِ وَ عَنْ كُلِّ شَیْءٍ دُوْنَكَ وَ ارْفَعِ الْبَیْنَ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكَ یَا مَنْ ھُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاھِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ ھُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۔

53 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّیَ عَلَیْهِ ۔

54 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا ھُوَ اَھْلُهٗ ۔

55 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی لَهٗ ۔

56 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوْحِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَرْوَاحِ ۔

57 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی جَسَدِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَجْسَادِ ۔

58 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی قَبْرِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْقُبُوْرِ ۔

59 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لَهٗ جَزَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِیْلَةَ وَ الْفَضِیْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ وَ

اجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهِ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهٖ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِ مُلْكِكَ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ م بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَ لَا مُنْتَهٰى وَ لَا انْقِضَآءَ وَ تُنِيْلُنَا بِهَا مِنْكَ الرِّضَا صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَلَأْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مَّسْرُوْرًا مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً تَزِنُ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ وَ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ عَدَدَ جَوَاهِرِ اَفْرَادِ كُرَّةِ الْعَالَمِ وَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً لَّا نِهَايَةَ لَهَا كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَدَ كَمَالِهٖ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ م بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَ لَا مُنْتَهٰى وَ لَا اَمَدَ وَ لَا انْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ وَ اَجْرِ يَا مَوْلَانَا خَفِيَّ لُطْفِكَ فِيْ اُمُوْرِنَا كُلِّهَا وَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ الْهَادِيْ اِلٰى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَ عَلٰى آلِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةَ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ عَلَيْهِ وَ اَجْرِ يَا مَوْلَانَا لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِيْ اَمْرِيْ وَ اَرِنِيْ سِرَّ جَمِيْلِ صُنْعِكَ فِيْمَا اُوَمِّلُهٗ مِنْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ

مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَ
طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ
الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ وَتُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ بِهَا عَنَّا يَا
رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَاَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَجَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ عَدَدَ الْاَمْطَارِ وَالْاَحْجَارِ وَ
الْاَقْطَارِ وَالْاَشْجَارِ وَمَلَآئِكَةِ الْجَبَّارِ وَجَمِيْعِ مَا خَلَقَ مَوْلَانَا مِنْ اَوَّلِ الزَّمَانِ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اتَّصَلَتِ الْعُيُوْنُ بِالنَّظَرِ وَ
تَزَخْرَفَتِ الْاَرْضُوْنَ بِالْمَطَرِ وَحَجَّ حَاجٌّ وَّاعْتَمَرَ وَلَبّٰى وَحَلَقَ وَنَحَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَقَبَّلَ الْحَجَرَ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ
بَيْتِهٖ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّيْمِ الْمَجْدِ وَحَآءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِ
الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاضِلِ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا هُوَ فِيْ عِلْمِكَ كَآئِنٌ اَوْ قَدْ
كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ
مُلْكِكَ بَاقِيَةً بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ نَعْمَآءِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَاَفْضَالِهٖ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِيْ اِلَى
الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِ اللّٰهِ مَا دَامَ مُلْكُ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْقِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ۔

78 اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَالرِّضَا عَنْ اَصْحَابِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُ اللّٰهِ مَا دَامَ
مُلْكُ اللّٰهِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ لِلْعَالَمِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ
الطَّاهِرِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰدَمَ وَنُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ

وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

81 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا وَّ اَتْنٰى سَلَامِكَ اَبَدًا مُّجَدَّدًا عَلٰى اَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ الْجَانِيَّةِ وَ مَجْمَعِ الْحَقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَ شَمْسِ الشَّرِيْعَةِ النَّبَوِيَّةِ وَ طِرَازِ الْحُلَّةِ الْعِرْفَانِيَّةِ وَ نَاصِرِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ وَ عَيْنِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ مَهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ عَرُوْسِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَ اِمَامِ الرُّسُلِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ اَمِيْنِ الْمَمْلَكَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَ اسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ قَائِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَاءِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ حَامِلِ لِوَاءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ مَظْهَرِ سِرِّ اَسْرَارِ الْوُجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ وَ النَّبِيِّ الْمُكَرَّمِ اَفْضَلِ مَنْ تَوَضَّاَ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلّٰى وَ سَلَّمَ وَ بِالْعَقِيْقِ تَخَتَّمَ اِمَامِ مَكَّةَ وَ طَيْبَةَ وَ الْحَرَمِ نَبِيِّكَ الْعَظِيْمِ وَ رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ الْهَادِيْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِيْبِنَا وَ طَبِيْبِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ جَزِيْلًا جَمِيْلًا دَائِمًا بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ كَمَا تُحِبُّ اَنْتَ وَ تَرْضٰى وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ }۔

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ اِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ اِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ تُقَرِّبْنِيْ مِنَ الشَّرِّ وَ تُبْعِدْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ فَاِنِّيْ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَدِّيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا سَيِّدَنَا يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ وَ رَبِّيْ اَنْ تَرْحَمَنِيْ مِمَّا بِيْ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ هُوَ اَبْهٰى مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حَسَنَاتِ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَبَاتِ الْاَرْضِ وَ اَوْرَاقِ الشَّجَرِ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا تَبْقٰى صَلَاةٌ، اَللّٰهُمَّ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا تَبْقٰى بَرَكَةٌ، اَللّٰهُمَّ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى سَلَامٌ، اَللّٰهُمَّ وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا حَتّٰى لَا تَبْقٰى رَحْمَةٌ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّ هُوَ لَهَا اَهْلٌ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ فَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ افْعَلْ بِيْ مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ فَاِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ مُسْتَحِقُّهٗ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّ مَلَكٍ وَّ وَلِيٍّ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا سَهَا عَنْهُ الْغَافِلُوْنَ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَبَدًا اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ آلِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ زِدْهُ شَرَفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً ، بِدَوَامِكَ، اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّهٖ عَلَيْكَ الَّذِیْ اَثْبَتَّهٗ وَ بِقَسَمِكَ بِعَمْرِهِ الَّذِیْ شَرَّفْتَهٗ بِهٖ وَ فَضَّلْتَهٗ وَ بِمَكَانِهٖ مِنْكَ الَّذِیْ خَصَّصْتَهٗ وَ اصْطَفَيْتَهٗ اَنْ تُجَازِيَهٗ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ تُؤْتِيَهٗ مِنَ الْوَسِيْلَةِ وَ الْفَضِيْلَةِ وَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ فَوْقَ اُمْنِيَّتِهٖ وَ تُعَظِّمَ عَنْ يَّمِيْنِ الْعَرْشِ نُوْرَهٗ بِمَا نَوَّرْتَ بِهٖ مِنْ قُلُوْبِ

عَبِيْدِكَ وَ اَنْ تُضَاعِفَ فِيْ حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ حُبُوْرَهٗ بِمَا قَاسٰى مِنَ الشَّدَآئِدِ فِي الدُّعَآءِ اِلٰى تَوْحِيْدِكَ وَ اَنْ
تُجَدِّدَ عَلَيْهِ مِنْ شَرَآئِفِ صَلَوَاتِكَ وَ لَطَآئِفِ بَرَكَاتِكَ وَ عَوَارِفِ تَسْلِيْمِكَ وَ كَرَامَاتِكَ مَا تَزِيْدُهٗ بِهٖ فِيْ
عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ اِكْرَامًا وَّ تُعَلِّيْهِ بِهٖ فِيْ عِلِّيِّيْنَ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَطْلِقْ لِسَانِيْ بِاِبْلَاغِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ التَّسْلِيْمِ وَ امْلَأْ جَنَانِيْ مِنْ حُبِّهٖ وَ تَوْفِيَةِ حَقِّهِ الْعَظِيْمِ وَ
اسْتَعْمِلْ اَرْكَانِيْ بِاَوَامِرِهٖ وَ نَوَاهِيْهِ فِي النَّهَارِ الْوَضِحِ وَ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ وَ ارْزُقْنِيْ مِنْ ذٰلِكَ مَا يُبَوِّئُنِيْ جَنَّاتِ
النَّعِيْمِ وَ يُشْعِرُنِيْ رُحْمَاكَ وَ فَضْلَكَ الْعَمِيْمَ وَ يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْكَ زُلْفٰى فِيْ ظِلِّ عَرْشِكَ الْكَرِيْمِ وَ يُحِلُّنِيْ دَارَ
الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ وَ يُزَحْزِحُنِيْ عَنْ نَّارِ الْجَحِيْمِ وَ تُعْطِيْنِيْ شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْعَرْضِ وَ تُوْرِدُنِيْ مَعَ الْاَكْبَرِ
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ ارْفَعْنِيْ مَعَهٗ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى وَ اجْمَعْنِيْ مَعَهٗ فِي الْفِرْدَوْسِ وَ جَنَّةِ
الْمَأْوٰى وَ اقْسِمْ لِيْ اَوْفَرَ حَظٍّ مِّنْ كَأْسِهِ الْاَوْفٰى وَ عَيْشِهِ الْهَنِيِّ الْاَصْفٰى وَ اجْعَلْنِيْ مِمَّنْ شَفٰى غَلِيْلَهٗ بِزِيَارَةِ
قَبْرِهٖ وَ تُشَفّٰى وَ اَنَاخَ رِكَابَهٗ بِعَرَصَاتِ حِزْبِكَ وَ حِزْبِهٖ قَبْلَ اَنْ نُّتَوَفّٰى، وَ السَّلَامُ الْاَحْفَلُ الْاَكْمَلُ مُرَدَّدًا
اَرْبٰى عَلَى الْقَطْرِ كَثْرَةً وَّ عَدَدًا عَلَيْكَ مِنِّيْ يَا نَبِيَّ الْهُدَى الْمُنْقِذُ مِنَ الرَّدٰى يُنَاوِبُ ضَرِيْحَكَ الْمُقَدَّسَ
سَرْمَدًا وَّ يَصْعَدُ اِلٰى عِلِّيِّيْنَ مَعَ رُوْحِكَ صُعُدًا وَّ يَمُدُّهٗ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَ رُحْمَاهُ مَدَدًا مَا تَطَارَدَ الْجَدِيْدَانِ وَ
تَطَاوَلَ الْمَدٰى وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَبَدًا تَحِيَّةً اَدَّخِرُهَا عِنْدَكَ عَهْدًا وَّ مَوْعِدًا وَّ اُعِدُّهَا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى
لِعُقُبَاتِ الصِّرَاطِ مُعْتَمَدًا وَّ فِيْ غُرُفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مَعْهَدًا وَّ اَخُصُّ بِاَثَرِهَا الْجَلِيْسَيْنِ ضَجِيْعَيْكَ فِيْ تُرْبِكَ وَ
اَخَصَّ النَّاسِ فِيْ مَحْيَاكَ وَ مَمَاتِكَ بِقُرْبِكَ وَ كَافَّةَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ عَامَّةِ اَصْحَابِكَ الَّذِيْنَ عَزَّرُوْكَ
وَ اَيَّدُوْكَ وَ نَصَرُوْكَ وَ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا وَّ الطَّيِّبِيْنَ ذُرِّيَّتَكَ وَ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَزْوَاجَكَ وَ اَهْلَ بَيْتِكَ الَّذِيْنَ اَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ وَ مُرَادِ الْاِرَادَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ بِالْكَرَامَاتِ وَ
الْمُؤَيَّدِ بِالنَّصْرِ وَ السَّعَادَاتِ السِّرِّ الظَّاهِرِ وَ النُّوْرِ الْبَاهِرِ الْجَامِعِ لِجَمِيْعِ الْحَضَرَاتِ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمْدِ
الَّذِيْ هُوَ مِفْتَاحُ اَقْفَالِ الْاَعْطِيَةِ الْاِلٰهِيَّاتِ الْاَوَّلِ فِي الْاِيْجَادِ وَ الْوُجُوْدِ وَ مَنْ بِهٖ خَتَمَ اللّٰهُ النُّبُوَّةَ وَ
الرِّسَالَةَ وَ السُّؤْدَدَ نُوْرِ عَيْنِ الْعِنَايَاتِ وَ سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوٰتِ الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَةِ
الْمُشَاهِدِ الَّذِيْ اُسْرِيَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ الْحَاوِيْ لِجَمِيْعِ الْكَمَالَاتِ وَ رُوْحِهِ الْاَقْدَسِ الْعَالِيْ اِلٰى اَعْلَى
الْمَقَامَاتِ وَ خَاطَبَهٗ رَبُّهٗ وَ اَكْرَمَهٗ بِاَعْظَمِ التَّحِيَّاتِ النُّوْرِ الْاَبْهَرِ وَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الْاَزْهَرِ الْقَائِمِ
بِكَمَالِ الْعُبُوْدِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ مَعَ اَتَمِّ الْعِبَادَاتِ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ
مَنِ اقْتَدٰى بِهِمُ اهْتَدٰى اِلَى اللّٰهِ وَ صَارَ مِنْ اَهْلِ الْهِدَايَاتِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا لَّا يَبْلُغُ حَصْرَ عَدَدِهِمَا اَهْلُ
الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوٰتِ۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَّاحِقَةً بِنُوْرِهٖ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَّقْرُوْنَةً ، بِذِكْرِهٖ وَ مَذْكُوْرِهٖ.

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً جَامِعَةً ، بَيْنَ فَرَحِهٖ وَ سُرُوْرِهٖ.

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُّنَوِّرَةً لِّقُبُوْرِهٖ.

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً شَارِحَةً لِّمَنْقُوْلِهٖ فِيْ مَسْطُوْرِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْاَوْلِيَآءِ بِعَدَدِ النُّوْرِ وَ ظُهُوْرِهٖ.

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرِّكَ الْجَامِعِ الدَّآلِّ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ، الْمُصْطَفٰى كَمَا هُوَ لَآئِقٌ ، بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ خَصِيْصٌ ، بِهٖ مِنَ السَّلَامِ لَدَيْكَ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ صَلَاتِهٖ صِلَةً وَّ عَآئِدًا تُتَمِّمُ بِهِمَا وُجُوْدَنَا وَ تُعَمِّمُ بِهِمَا شُهُوْدَنَا وَ تُخَصِّصُ بِهِمَا مَزِيْدَنَا وَ مِنْ سَلَامِهٖ اِسْلَامًا وَّ سَلَامَةً ، بِبُرْهَانِ مَا ظَهَرَ مِنَّا وَ مَا بَطَنَ مِنْ شَوَآئِبِ الْاِرَادَاتِ وَ الْاِخْتِيَارَاتِ وَ التَّدْبِيْرَاتِ وَ الْاِضْطِرَابَاتِ لِنَأْتِيَكَ بِالْقَوَالِبِ الْمُسَلِّمَةِ وَ الْقُلُوْبِ السَّلِيْمَةِ حَسْبَمَا هُوَ لَدَيْكَ مِنَ الْكَمَالِ الْاَقْدَسِ وَ الْجَمَالِ الْاَنْفَسِ.

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى اَنْبِيَآئِكَ الْمُطَهَّرِيْنَ وَ عَلٰى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَآئِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَ مَالِكٍ وَّ رُوْمَانَ وَ مُنْكَرٍ وَّ نَكِيْرٍ وَّ صَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ.

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى فَاتِحِ الذِّرْوَةِ الْكُلِّيَةِ الرَّبَّانِيَّةِ الْاِلٰهِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ بِالْخَاتِمَةِ الْعَنْبَرِيَّةِ النِّدِّيَّةِ الْمِسْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ الْعَامَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْكَامِلَةِ الْمُكَمَّلَةِ الْاَحْمَدِيَّةِ.

104 اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلٰى هٰذِهِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْهَادِيَةِ الْمَهْدِيَّةِ الرُّسُلِيَّةِ بِجَمِيْعِ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّاتِ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ جَمِيْعَ الْعُلُوْمِ بِالْمَعْلُوْمَاتِ بَلْ صَلَاةً لَّا نِهَايَةَ لَهَا فِيْ آمَادِهَا وَلَا اِنْقِطَاعَ لِاَمْدَادِهَا وَ سَلِّمْ كَذٰلِكَ عَلٰى هٰذِهِ النَّبِيِّ الْمُبَارَكِ يَا سَيِّدَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَنْتَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْوُجُوْدِ وَ اَنْتَ سَيِّدُ كُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ، وَ اَنْتَ الْجَوْهَرَةُ الْيَتِيْمَةُ الَّتِيْ دَارَتْ عَلَيْهَا اَصْدَافُ الْمُكَوَّنَاتِ، وَ اَنْتَ النُّوْرُ الَّذِيْ مَلَأَ اِشْرَاقُهُ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوٰتِ، بَرَكَاتُكَ لَا تُحْصٰى وَ مُعْجِزَاتُكَ لَا يَحُدُّهَا الْحَدُّ فَتُسْتَقْصَى الْاَحْجَارُ وَ الْاَشْجَارُ سَلَّمَتْ عَلَيْكَ، وَ الْحَيَوَانَاتِ الصَّامِتَةُ نَطَقَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ الْمَآءُ تَفَجَّرَ وَ جَرٰى مِنْ ، بَيْنِ اِصْبَعَيْكَ، وَ الْجِذْعُ عِنْدَ فِرَاقِكَ حَنَّ اِلَيْكَ، وَ الْبِئْرُ الْمَالِحَةُ حَلَّتْ بِتَفْلَةٍ مِّنْ ، بَيْنِ شَفَتَيْكَ ، بِبِعْثَتِكَ الْمُبَارَكَةِ اٰمِنَّا الْمَسْخَ وَ الْخَسْفَ وَ الْعَذَابَ، وَ بِرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ شَمِلَتْنَا الْاَلْطَافُ وَ نَرْجُوْ رَفْعَ الْحِجَابِ يَا طَهُوْرُ يَا مُطَهِّرُ يَا طَاهِرُ يَا اَوَّلُ يَا آخِرُ يَا بَاطِنُ يَا ظَاهِرُ شَرِيْعَتُكَ مُقَدَّسَةٌ طَاهِرَةٌ وَّ مُعْجِزَاتُكَ بَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ. اَنْتَ الْاَوَّلُ فِي النِّظَامِ وَ الْاٰخِرُ فِي الْخِتَامِ وَ الْبَاطِنُ بِالْاَسْرَارِ وَ الظَّاهِرُ بِالْاَنْوَارِ. اَنْتَ جَامِعُ الْفَضْلِ وَ خَطِيْبُ الْوَصْلِ وَ اِمَامُ اَهْلِ الْكَمَالِ وَ صَاحِبُ الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ وَ الْمَخْصُوْصُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الْمَقَامِ

الْمَحْمُوْدِ الْعَلِيِّ الْاَسْمٰى، وَ بِلِوَآءِ الْحَمْدِ الْمَعْقُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ الْجُوْدِ. فَيَا سَيِّدًا سَادَ الْاَسْيَادَ وَ يَا سَنَدًا اِسْتَنَدَ اِلَيْهِ الْعِبَادُ عُبَيْدٌ مِّنْ مَّوَالِيْكَ الْعُصَاةِ يَتَوَسَّلُ بِكَ فِيْ غُفْرَانِ السَّيِّئَاتِ وَ سَتْرِ الْعَوْرَاتِ وَ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا وَ عِنْدَ اِنْقِضَاءِ الْاَجَلِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ. يَا رَبَّنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ تَقَبَّلْ مِنَّا الدَّعَوَاتِ وَ ارْفَعْ لَنَا الدَّرَجَاتِ وَ اقْضِ عَنَّا التَّبِعَاتِ وَ اَسْكِنَّا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ امْنَحْنَا النَّظْرَ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ حَضَرَاتِ الْمُشَاهَدَاتِ وَ اجْعَلْنَا مَعَهٗ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ اَهْلِ الْمُعْجِزَاتِ وَ اَرْبَابِ الْكَرَامَاتِ وَ هَبْ لَنَا يَا مَوْلَانَا الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ مَعَ اللُّطْفِ فِي الْقَضَاءِ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

105 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَآ اَكْرَمَكَ عَلَى اللّٰهِ.

106 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَابَ مَنْ تَوَسَّلَ بِكَ اِلَى اللّٰهِ.

107 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ مَنْ دُوْنَكَ مُحِبٌّ وَّ اَنْتَ حَبِيْبُ اللّٰهِ.

108 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْاَمْلَاكُ تَسْتَغِيْثُ بِكَ عِنْدَ اللّٰهِ.

109 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْاَنْبِيَآءُ وَ الرُّسُلُ مُمِدُّوْنَ مِنْ مَّدَدِكَ الَّذِيْ خُصِصْتَ بِهٖ مِنَ اللّٰهِ.

110 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْاَوْلِيَآءُ اَنْتَ الَّذِيْ وَالَيْتَهُمْ فِيْ عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَتّٰى تَوَلَّاهُمُ اللّٰهُ.

111 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ سَلَكَ عَلٰى مَحَجَّتِكَ وَ قَامَ بِحُجَّتِكَ اَيَّدَهُ اللّٰهُ.

112 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْمَخْذُوْلُ مَنْ اَعْرَضَ عَنِ الْاِقْتِدَآءِ بِكَ اِيْ وَ اللّٰهِ.

113 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَطَاعَكَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

114 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ.

115 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَتٰى لِبَابِكَ مُتَوَسِّلًا ۢ بِكَ قَبِلَهُ اللّٰهُ.

116 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ حَطَّ رَحْلَ ذُنُوْبِهٖ فِيْ عَتَبَاتِكَ غَفَرَ لَهُ اللّٰهُ.

117 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ دَخَلَ حَرَمَكَ خَائِفًا اٰمَنَهُ اللّٰهُ.

118 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ لَّاذَ بِجَنَابِكَ وَ عَلِقَ بِاَذْيَالِ جَاهِكَ اَعَزَّهُ اللّٰهُ.

119 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَمَّلَكَ وَ اَمَّلَكَ لَمْ يَخِبْ مِنْ فَضْلِكَ لَا وَ اللّٰهِ.

120 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَلُنَا شَفَاعَتُكَ وَ جِوَارُكَ عِنْدَ اللّٰهِ.

121 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَوَسَّلْنَا بِكَ فِي الْقَبُوْلِ عَسٰى وَ لَعَلَّ نَكُوْنُ مِمَّنْ تَوَلَّاهُ اللّٰهُ.

122 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِكَ نَرْجُوْ بُلُوْغَ الْاَمَلِ وَ لَا نَخَافُ الْعَكْسَ حَاشَا لِلّٰهِ.

123 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُحِبُّوْكَ مِنْ اُمَّتِكَ وَاقِفُوْنَ بِبَابِكَ يَآ اَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ۔

124 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَصَدْنَاكَ وَ قَدْ فَارَقْنَا سِوَاكَ يَا وَسِيْلَتَنَآ اِلَى اللهِ۔

125 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ جِئْنَاكَ بِشَوْقِ الْمَحَبَّةِ ضُيُوْفًا نَّرْجُو الْقِرٰى، فَاجْعَلْ قِرَانَا مَا يَلِيْقُ بِكَرَمِكَ مِنْ اِحْسَانِ رَبِّكَ يَا عَزِيْزَ الْقَدْرِ عِنْدَ اللهِ۔

126 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْعَرَبُ يَحْمُوْنَ النَّزِيْلَ وَ يُجِيْرُوْنَ الدَّخِيْلَ وَ اَنْتَ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

127 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ نَزَلْنَا بِحَيِّكَ وَ اسْتَجَرْنَا بِجَنَابِكَ وَ اَقْسَمْنَا بِحَيَاتِكَ عَلَى اللهِ۔

128 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْتَ الْغِيَاثُ وَ اَنْتَ الْمَلَاذُ فَاَغِثْنَا بِجَاهِكَ الْوَجِيْهِ الَّذِيْ لَا يَرُدُّهُ اللهُ۔

129 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ۔

130 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا دَامَتْ دَيْمُوْمِيَّةُ اللهِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا تَرْضَاهُمَا وَ تَرْضٰى بِهِمَا عَنَّا يَا مَوْلَانَا يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

131 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى سَآئِرِ الْمَلَآئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ اَجْمَعِيْنَ وَ عَنِ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

132 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الْاِلٰهِ الْمَعْبُوْدِ۔

133 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَآءَ بِالْاَحْكَامِ وَ الْحُدُوْدِ۔

134 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَآلًّا عَلَى الْحَقِّ الْمَشْهُوْدِ۔

135 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُفِيْضَ الشُّهُوْدِ۔

136 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْوُجُوْدِ۔

137 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِرَّ كُلِّ مَوْجُوْدٍ۔

138 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَعْدِنَ الْكَرَمِ وَ الْجُوْدِ۔

139 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِرَّ نُقْطَةِ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ۔

140 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔

141 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.

142 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

143 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ شَمْلِ الْمُقَرَّبِيْنَ.

144 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وُصْلَةَ الْمُنْقَطِعِيْنَ.

145 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمَانَ الْخَائِفِيْنَ.

146 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَلِيْلَ الْحَائِرِيْنَ.

147 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اُمْنِيَّةَ الرَّاجِيْنَ.

اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَبِكَ وَ اَسْئَلُكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ بِوَجْهَتِكَ وَ مُوَاجَهَتِكَ وَ تَوَجُّهِكَ وَ جَاهِكَ وَ كَرَامَتِكَ وَ تَخْصِيْصِكَ وَ خُصُوْصِيَّتِكَ وَبِمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ وَبِمَا لَا يَعْلَمُهٗ اِلَّا هُوَ وَبِمَآ اَعْطَاكَ مِنْ عِلْمٍ وَّ شُهُوْدٍ وَّ مَقَامٍ وَّ عُهُوْدٍ وَّ كَمَالٍ وَّ عُقُوْدٍ وَّ وُصْلَةٍ وَّ حَقٍّ وَّ حَقِيْقَةٍ وَّ رَأْفَةٍ وَّ رَحْمَةٍ وَّ عِنَايَةٍ وَّ شَفَقَةٍ عَلٰى عَبِيْدِهٖ اُمَّتِكَ اللَّآئِذِيْنَ بِجَنَابِكَ الْوَاقِفِيْنَ بِاَرْوَاحِهِمْ وَ اَشْبَاحِهِمْ عَلٰى بَابِكَ الْمُتَوَسِّلِيْنَ بِتُرْبِ اَعْتَابِكَ الْمُتَوَسِّمِيْنَ بِكَ مِنْ مَّوْلَاكَ فَوْقَ مَا فِيْ آمَالِهِمْ فِيْ دُنْيَاهُمْ وَ مَآلِهِمْ، فَبَلِّغْنِيْ بِكَ ذٰلِكَ فَهَا عَبْدُكَ (فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ) اَقَلُّهُمْ وَ اَذَلُّهُمْ اِلَى اللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يَدَيْكَ يَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَ الرَّحْمَةَ الشَّامِلَةَ وَ الْعَفْوَ وَ الرَّأْفَةَ الْعَآمَّةَ الْكَامِلَةَ وَ التَّوْفِيْقَ اِلٰى طَاعَتِهٖ وَاِتِّبَاعَ سَبِيْلِهٖ بِكَ مُعَافًى مِّنْ جَمِيْعِ مَا لَا يُرْضِيْهِ مُسْتَهْلِكًا جَمِيْعَ حَرَكَاتِهٖ وَ سَكَنَاتِهِ الْبَاطِنَةِ وَ الظَّاهِرَةِ مِنْ مَّدَارِكِهٖ اَبَدًا فِيْ مَرَاضِيْهِ مُشَاهِدًا لَّهٗ بِهٖ مَا دَامَ دَوَامُهٗ لِيَبْلُغَ الْعَبْدُ بِذٰلِكَ رِضَاهُ وَ رِضَاكَ اِتِّسَامًا ۢ بِعُبُوْدِيَّتِهٖ وَ قِيَامًا ۢ بِبَعْضِ وَفَاءِ حُقُوْقِ رُبُوْبِيَّتِهٖ حَسْبَمَا يُمْكِنُهٗ مِنْ طَاقَتِهٖ مَعَ تَرْجِيْحِ ذٰلِكَ لِنَوْعِ قَابِلِيَّتِهٖ بِوُفُوْرِ نَصِيْبِهٖ مِنَ الْحُبِّ الْعَآمِّ وَلَوَازِمِهٖ وَ الْخَآصِّ وَ مَعَالِمِهٖ لَكَ وَ لِرَبِّكَ بَالِغًا ۢ بِذٰلِكَ رُتْبَةَ الْفَنَآءِ فِيْهِ وَ الْفَنَآءِ عَنِ الْفَنَآءِ بِشُهُوْدِهٖ اِيَّاهُ بِهٖ فِيْ حَضْرَةِ وَحْدَتِهٖ بِالْبَقَآءِ مَعَهٗ فِيْ جَمِيْعِ مَعَالِمِهٖ وَ مَشَاهِدِهٖ، شَيْئً لِّلّٰهِ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، شَيْئً لِّلّٰهِ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، شَيْئً لِّلّٰهِ يَا حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَيَا خَيْرَتَهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَيَا مَعْدِنَ ظُهُوْرِ سِرِّ حَقِّهٖ عَلَيْكَ.

148 اُصَلِّيْ وَ اُسَلِّمُ عَلٰى آلِكَ وَ اَصْحَابِكَ وَ اَتْبَاعِكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ بِدَوَامِ قُرْبِكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ بِقُرْبِ رَبِّكَ مِنْكَ وَبِدَوَامِ ظُهُوْرِ مَا ظَهَرَ وَ يَظْهَرُ مِنْ تَعَرُّفِ اَسْمَآئِهٖ وَ شُمُوْسِ اَفْلَاكِ صِفَاتِهٖ وَ جَوَامِعِ كَمَالِهٖ بِجَمَالِهٖ وَ جَلَالِهٖ فِيْ غَيْبِ حَضْرَةِ ذَاتِهٖ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِحُبِّكَ لِحَبِيْبِكَ وَ بِحُبِّ حَبِيْبِكَ لَكَ وَ بِدُنُوِّهٖ مِنْكَ وَ بِتَدَلِّيْكَ لَهٗ وَ بِالسِّرِّ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ اَنْ تُحْيِيَنَا مُتَمَسِّكِيْنَ بِسُنَّتِهٖ وَ مَحَبَّتِهٖ وَ اَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ خِيَارِ اُمَّتِهٖ وَ اَنْ تَسْتُرَنَا بِذَيْلِ حُرْمَتِهٖ وَ اَنْ تُمِيْتَنَا عَلٰى دِيْنِهٖ وَ مِلَّتِهٖ وَ اَنْ تَحْشُرَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اَنْ تَسْقِيَنَا مِنْ حَوْضِهٖ وَ اَنْ تُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهٖ مَعَ اَهْلِهٖ وَ خَآصَّتِهٖ وَ اجْمَعْنَا بِهٖ وَ بِهِمْ فِيْ مَقْعَدِ الصِّدْقِ عِنْدَكَ مُزَيَّنِيْنَ بِزِيْنَةِ

اِيمَانٍ {وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ} فِيْ مَوْكَبِ الْغُرِّ الْعَرَآئِسِ السُّعَدَآءِ اَهْلِ السَّعَادَةِ غَدًا {مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهٗ فَآزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا}۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِيْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَعَلٰى آلِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

الربع الرابع

اَللّٰهُمَّ بِكَ تَوَسَّلْتُ وَمِنْكَ سَئَلْتُ وَفِيْكَ لَا فِيْ سِوَاكَ رَغِبْتُ لَآ اَسْئَلُ مِنْكَ سِوَاكَ وَلَآ اَطْلُبُ مِنْكَ اِلَّآ اِيَّاكَ. اَللّٰهُمَّ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِيْ قَبُوْلِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ بِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى وَ الْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى وَالرَّسُوْلِ الْمُرْتَضٰى وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبٰى، وَبِهٖ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةً اَبَدِيَّةً دَيْمُوْمِيَّةً اِلٰهِيَّةً رَّبَّانِيَّةً تُصَفِّيْنَا بِهَا مِنْ شَوْبِ الطَّبِيْعَةِ الْاٰدَمِيَّةِ بِالسَّحْقِ وَالْمَحْقِ وَ تَطْمِسُ بِهَآ آثَارَ وُجُوْدِ الْغَيْرِيَّةِ مِنَّا فِيْ غَيْبِ غَيْبِ الْهُوِيَّةِ فَيَبْقَى الْكُلُّ لِلْحَقِّ فِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ تُرَقِّيْنَا بِهَا فِيْ مَعَارِجِ شُهُوْدِ وُجُوْدِ {سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ} يَارَبُّ يَارَبُّ يَارَبُّ يَآاَللّٰهُ يَآاَللّٰهُ يَآاَللّٰهُ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَيَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔

150 اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلِيْقُ بِمُقَدَّسِ كَمَالِهِ الْاَقْدَسِ وَتَصْلُحُ لِكَبِيْرِ مَقَامِهِ الْاَنْفَسِ وَ تُتْحِفُ قَآئِلَهَا بِشُهُوْدِ جَمَالِهِ الْاٰوْنَسِ بِمَعَانٍ تَفُوْقُ اُنْسَ ظِبَآءِ الْحَيِّ فِي الْمَكْنَسِ صَلَاةً تُنِيْلُنَا بِهَا حَقِيْقَةَ الْاِسْتِقَامَةِ فِيْ حَظَآئِرِ قُدْسِكَ وَ مَقَاصِيْرِ اُنْسِكَ عَلٰى اَرَآئِكِ مُشَاهَدَتِكَ وَ تَجَلِّيَاتِ مُنَازَلَتِكَ وَالِهِيْنَ بِسَطَعَاتِ سُبُحَاتِ اَنْوَارِ ذَاتِكَ مُعَطَّرِيْنَ بِاَخْلَاقِ حَقَآئِقِ رَقَآئِقِ صِفَاتِكَ فِيْ مَقْعَدِ حَبِيْبِكَ وَخَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ الْجَمَالِ الزَّاهِرِ وَالْجَلَالِ الْقَاهِرِ وَالْكَمَالِ الْفَاخِرِ وَاسِطَةِ عِقْدِ النُّبُوَّةِ وَلُجَّةِ زَخَّارِ الْكَرَمِ وَالْفُتُوَّةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيْبِنَا وَطَبِيْبِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

151 وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا هُمُوْمَ حَوَادِثِ الْاِخْتِيَارِ وَ تَمْحُوْ بِهَا ذُنُوْبَ وُجُوْدِنَا بِمَآءِ سَحَابِ الْقُرْبَةِ حَيْثُ لَا بَيْنَ وَلَآ اَيْنَ وَلَا جِهَةَ وَلَا قَرَارَ وَ تُغَيِّبُنَا بِهَا عَنَّا فِيْ غَيَاهِبِ عُيُوْنِ اَنْوَارِ اَحَدِيَّتِكَ

فَلَا نَشْعُرُ بِتَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ تَحُفُّ لَنَا بِهَا سَمَاحُ رَبَاحِ شُرُوحِ فُتُوحِ حَقَائِقِ بَدَآئِعِ جَمَالِ نَبِيِّكَ الْمُخْتَارِ وَ تُلْحِقُنَا بِهَآ اَسْرَارُ اَنْوَارِ رُبُوبِيَّتِكَ فِيْ مِشْكَاةِ الزُّجَاجَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَتَضَاعَفُ اَنْوَارُنَا بِلَآ اَمَدٍ وَّلَا حَدٍّ وَّلَآ اِحْصَارٍ، صَلَاةً تُحَسِّنُ بِهَآ اَخْلَاقَنَا وَ تُوَسِّعُ بِهَآ اَرْزَاقَنَا وَ تُزَكِّيْ بِهَآ اَعْمَالَنَا وَ تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوْبَنَا وَ تَشْرَحُ بِهَا صُدُوْرَنَا وَ تُطَهِّرُ بِهَا قُلُوْبَنَا وَ تُرَوِّحُ بِهَآ اَرْوَاحَنَا وَ تُقَدِّسُ بِهِ اَسْرَارَنَا وَ تُنَزِّهُ بِهَآ اَفْكَارَنَا وَ تُصَفِّيْ بِهَآ اَكْدَارَنَا وَ تُنَوِّرُ بِهَا بَصَآئِرَنَا بِنُوْرِ الْفَتْحِ الْمُبِيْنِ يَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ نَصَبِهٖ وَ زَلَازِلِهٖ وَ تَعَبِهٖ يَا جَوَّادُ يَا كَرِيْمُ وَ تَهْدِيْنَا بِهَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ وَ تُجِيْرُنَا بِهَا مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ وَ تُنَعِّمُنَا بِهَا فِي النَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، صَلَاةً تُطْفِئُ بِهَا عَنَّا وَحَتّٰى حَرِّ الْقَطِيْعَةِ بِبَرْدِ يَقِيْنٍ وِصَالِكَ وَ تُلْبِسُنَا بِهَآ اَسْرَارَ اَنْوَارِ غُرَرِ تَبَلُّجِ رَوْنَقِ مَجْدِ كَمَالِكَ فِي الْحَضَرَاتِ الْعِنْدِيَّةِ وَ الْمَشَاهَدَةِ الْقُدْسِيَّةِ مُنْخَلِعِيْنَ عَنْ ذَوَاتِ الْبَشَرِيَّةِ بِلَطَآئِفِ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّةِ وَ سَرَآئِرِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ جَوَاهِرِ الْحِكَمِ الْفَرْدَانِيَّةِ وَ حَقَآئِقِ الصِّفَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ شَرَآئِعِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، يَآ اَللهُ يَآ اَللهُ يَآ اَللهُ، اَسْئَلُكَ بِدَقَآئِقِ مَعَانِيْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الْمُتَلَاطِمَةِ اَمْوَاجُهَا فِيْ بَحْرِ بَاطِنِ خَزَآئِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ وَ بِاٰيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ الْبَاهِرَاتِ الزَّاهِرَاتِ عَلٰى مَظْهَرِ لِسَانِ عَيْنِ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ اَنْ تُذْهِبَ عَنَّا ظَلَامَ وَطِيْسِ الْفَقْدِ بِنُوْرِ اُنْسِ الْوَجْدِ وَ اَنْ تَكْسُوَنَا حُلَلَ صِفَاتِ كَمَالِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نُوْرِ الْجَلَالَةِ، وَ اَنْ تَسْقِيَنَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهٖ رَحِيْقَ تَسْنِيْمِ شَرَآئِبِ الرِّسَالَةِ وَ اَنْ تُلْحِقَنَا بِالسَّابِقِيْنَ فِيْ حَلْبَةِ التَّوْفِيْقِ الْفَآئِزِيْنَ بِالْاَكْمَلِيَّةِ فِيْ خُلُقٍ اَنِيْقٍ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِمَوَاهِبِ اَنْوَارِ بَهَآئِكَ الْاَجْلٰى عَلٰى بِسَاطِ صِدْقِ الْمَحَبَّةِ مَعَ الْاَحِبَّةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ حِزْبِهٖ، يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَ الْعَطَآءِ الْجَسِيْمِ وَ الْكَرَمِ الْعَمِيْمِ، اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاتَكَ وَ سَلَامَكَ فِيْ طَيِّ عِلْمِكَ الْاَزَلِيِّ وَ سَابِقِ حُكْمِكَ الْاَبَدِيِّ صَلَاةً لَّا يَضْبَطُهَا الْعَدُّ وَلَا يَحْصُرُهَا الْحَدُّ وَلَا تُكَيِّفُهَا الْعِبَارَةُ وَلَا تَحْوِيْهَا الْاِشَارَةُ سَطَعَ فَجْرُهَا بِحَظِّهَا الْاَنْفُسِ عَلٰى اَفْرَادِ الْفُحُوْلِ فَاَبْهَتَ وَ اَبْهَرَ وَ لَمَعَ نُوْرُهَا بِفَيْضِهِ الْاَقْدَسِ عَلٰى ذَوِي الْعُقُوْلِ فَاَدْهَشَ وَ حَيَّرَ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّنْزِلَانِ مِنْ اُفُقِ كُنْهِ بَاطِنِ الذَّاتِ اِلٰى فَلَكِ سَمَآءِ مَظَاهِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ وَ يَرْتَقِيَانِ مِنْ سِدْرَةِ مُنْتَهَى الْعَارِفِيْنَ اِلٰى مَرْكَزِ جَلَالِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ عِلْمِ يَقِيْنِ الْعُلَمَآءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ وَ عَيْنِ يَقِيْنِ الْخُلَفَآءِ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ حَقِّ يَقِيْنِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ الَّذِيْ تَاهَتْ فِيْ اَنْوَارِ جَلَالِهٖ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ تَحَيَّرَتْ فِيْ دَرْكِ حَقَآئِقِهٖ عُظَمَآءُ الْمَلَآئِكَةِ الْمُهَيَّمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ﴾ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يُجَلَّانِ عَنِ الْحَصْرِ وَ الْعَدِّ وَ يُنَزَّهَانِ

عَنِ الدَّرْكِ وَ الْحَدِّ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّبْلُغَانِ قَآئِلَهُمَآ اَعْلٰى دَرَجَاتِ الْخُلَاصَةِ خَاصَّةِ اَهْلِ اللهِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ يُنِيْلَانِهٖ زُلْفٰى مَرَاتِبِ اَوْلِيَآءِ اللهِ الْمُخْلِصِيْنَ بِمَوَاهِبِ ﴿وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ﴾ فِي الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا وَ الْغَايَةِ الْقُصْوٰى فَوْقَ عَرْشِ الْاِسْتِوَآءِ بِتَرَاكُمِ تَمْكِيْنِ ﴿اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ﴾ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. يَآ اَللهُ يَا بَاسِطُ يَا فَتَّاحُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ يَا وَدُوْدُ نَسْئَلُكَ عَوَاطِفَ الْكَرَمِ وَ فَوَاتِحَ الْجُوْدِ اَقِلْ عَثْرَتَنَا مِنْ كَثَآئِفِ وُجُوْدِنَا الْمُظْلِمَةِ بِالْبُعْدِ مِنْكَ وَ اغْفِرْلَنَا بِنُوْرِ قُرْبِكَ وَ نَعِّمْنَا بِصَفَآءِ وُدِّكَ وَ طَهِّرْنَا مِنْ حَدَثِ الْجَهْلِ بِالْعِلْمِ الْاِلٰهِيِّ وَ اَتْحِفْنَا بِالْحُبِّ الرَّبَّانِيِّ وَ الْوَصْلِ الْمَعْنَوِيِّ كَمَنِ اصْطَفَيْتَهٗ حَتّٰى اَحْبَبْتَهٗ فَكُنْتَهٗ وَ اَعْطِنَا مَا لَا عَيْنٌ رَّاَتْ وَلَآ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ مِّمَّا اَعْدَدْتَ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْاَئِمَّةِ الْمَرْضِيِّيْنَ اُولِي الْاِسْتِقَامَةِ فِي الْمُسْتَوَى الْاَزْهٰى وَ الْاُفُقِ الْمُبِيْنِ يَآ اَللهُ يَا بَرُّ يَا لَطِيْفُ يَا رَحِيْمُ يَا كَافِيْ يَا حَفِيْظُ يَا مُغِيْثُ يَا وَاسِعَ الْعَطَآءِ وَ سَابِغَ النِّعَمِ، نَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْعَظِيْمِ الْمُبَرَّةِ الْجَامِعَةِ مِنْ نُّوْرِ كَمَالِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُصْطَفٰى عِنَايَتِكَ وَ اَنْ تَتَّحِدَ ذَاتُنَا بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ بِجَلَالَتِكَ وَ تَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِصِفَاتِهِ الْمُشَرَّفَةِ بِمَحَبَّتِكَ وَ تَتَبَدَّلَ اَخْلَاقُنَا بِاَخْلَاقِهِ الْمُعَظَّمَةِ بِكَرَامَتِكَ فَيَكُوْنَ عِوَضًا لَّنَا عَنَّا فَنَحْيَا كَحَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ النَّقِيَّةِ وَ نَمُوْتَ كَمَوْتَتِهِ السَّوِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ وَ فِي الْقُبُوْرِ لَنَا سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّ بَهْجَةً وَّ عِنْدَ اللِّقَآءِ عُدَّةً وَّ بُرْهَانًا وَّ حُجَّةً۔

152 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَدَدَ مُلْكِ اللهِ مَا دَامَ مُلْكُ اللهِ فِيْ كُلِّ نَفَسٍ وَّ لَمْحَةٍ وَّ طَرْفَةٍ يَّطْرِفُ بِهَآ اَهْلُ السَّمٰوَاتِ وَ اَهْلُ الْاَرَضِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِكَ وَ اَصْحَابِكَ وَ اَتْبَاعِكَ وَ مُحِبِّيْكَ۔

153 اَللّٰهُمَّ جَدِّدْ وَ جَوِّدْ مِنْ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّاتِ وَ تَحِيَّاتِكَ الزَّكِيَّاتِ وَ رِضْوَانِكَ الْاَكْبَرِ الْاَتَمِّ الْاَدْوَمِ عَلٰى اَكْمَلِ عَبْدٍ لَّكَ فِيْ هٰذَا الْعَالَمِ مِنْ مبَنِيْ اٰدَمَ الَّذِيْ اَقَمْتَهٗ لَكَ ظِلًّا وَّ جَعَلْتَهٗ لِحَوَآئِجِ خَلْقِكَ قِبْلَةً وَّ مَحَلًّا وَّ اصْطَفَيْتَهٗ لِنَفْسِكَ وَ اَقَمْتَهٗ بِحُجَّتِكَ وَ اَظْهَرْتَهٗ بِسَطْوَتِكَ وَ اخْتَرْتَهٗ مُسْتَوٰى لِّتَجَلِّيْكَ وَ مَنْزِلًا لِّتَنْفِيْذِ اَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِيْكَ فِيْ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ وَ وَاسِطَةً مبَيْنَكَ وَ بَيْنَ مُكَوَّنَاتِكَ فَبَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِكَ هٰذَا اِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الْاٰنَ مِنْ عَبْدِكَ اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَ اَشْرَفُ التَّحِيَّاتِ وَ اَزْكَى التَّسْلِيْمَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْهُ بِيْ لِيَذْكُرَنِيْ عِنْدَكَ بِمَآ اَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ نَافِعٌ لِّيْ عَاجِلًا وَّ اٰجِلًا عَلٰى قَدْرِ مَعْرِفَتِهٖ بِكَ وَ مَنْزِلَتِهٖ لَدَيْكَ لَا عَلٰى قَدْرِ عِلْمِيْ وَ مُنْتَهٰى فَهْمِيْ اِنَّكَ بِكُلِّ فَضْلٍ جَدِيْرٌ وَّ بِالْاِجَابَةِ قَدِيْرٌ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ تَوْحِيْدًا ذَاتِيًّا صَمَدَانِيًّا مُهَيْمِنًا عَلَى الْبَوَاطِنِ وَ الظَّوَاهِرِ اَزَلِيًّا اَبَدِيًّا مُّسْتَوْلِيًا عَلَى الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ تَوْحِيْدًا وَّصْفِيًّا كَشْفِيًّا سَارِيًا مبِمَشَارِقِ الْكَمَالِ الْبَاهِرِ غَيْبِيًّا عَيْنِيًّا جَارِيًا مبِمَنَافِذِ النُّوْرِ السَّافِرِ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ تَوْحِيْدًا اِسْمِيًّا مَّالِئًا اَدْوَارَ الْاَوْتَارِ وَ الْمَاٰثِرِ جَالِيًا طَوَالِعَ الْاَسْرَارِ فِي الدَّوَآئِرِ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ

اِلٰہَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ تَوْحِيْدًا ذَاتِيًا تَنَزَّلَ بِالْاَوْتَارِ وَ الْاَشْفَاعِ وَ تَنَقَّلَ فِيْ اَفْرَادِ الْاَعْدَادِ بِالْفُرْقَانِ وَ الْاِجْتِمَاعِ سُلْطَانُ لَاهُوْتِيَّتِهٖ قَهَّارٌ نَّامُوْسُ نَاسُوْتِيَّتِهٖ يَسْلُبُ الْعُقُوْلَ وَ الْاَبْصَارَ تَنْطَوِيْ تَحْتَ بَرَازِخِ اَحَدِيَّتِهٖ اَسْرَارُ التَّفْصِيْلِ وَ الْاِجْمَالِ وَ تَنْزَوِيْ فِيْ ظِلِّ اَحَدِيَّتِهٖ اَطْوَارُ الْاِنْفِصَالِ وَ الْاِتِّصَالِ اِسْتَوَتْ بِهٖ عُرُوْشُ الصِّفَاتِ عَلٰى قَوَآئِمِ الْاَسْمَا وَ حِيْطَ فُرُوْشُ الْقَوَابِلِ بِسُوَرِ الظُّهُوْرِ الْاَحْمٰى وَ اسْتَدَارَ عَلٰى حَقَآئِقِ الْمَلَكُوْتِ وَ اسْتَنَارَ بِبَوَاهِرِ اَضْوَآءِ الْجَبَرُوْتِ لِنُقْطَةِ كُلِّ عَالَمٍ وَّ مِنْ طَلْعَتِهٖ اَزْهَرَتْ كَوَاكِبُ اٰدَمَ اُمُدَّ بِلَطَآئِفِ الْجَمْعِيَّاتِ طَوَآئِفُ الْاَكْوَانِ وَ اسْتَضَآءَ فِيْ اَصْدَافِ الْاَوْصَافِ بِلَوَامِعِ الرَّحَمَاتِ رَجَعَتْ اِلَيْهِ لَوَامِعُ الرَّغَبُوْتِ غَيْبًا وَّ ظُهُوْرًا وَ هَمَعَتْ مِنْهُ مَوَاطِرُ الرَّحَمُوْتِ مَطْوِيًّا وَّ مَنْشُوْرًا، اَللّٰهُمَّ فَبِحَقِّ سُوَرِهِ الْمَتْلُوَّةِ بِلِسَانِ الْبَيَانِ عَنْ حَضْرَةِ الْقِدَمِ وَ سُتُوْرِهِ الْمَجْلُوَّةِ فِيْهَا عَرَآئِسُ الْحَقَآئِقِ وَ الْحِكَمِ نَزِّلْ صَلَاةً وَّ صِلَتَكَ السُّبُوْحِيَّةَ مِنْ عَرْشِ اسْمِكَ الْاَعْظَمِ عَلٰى وَاحِدِ عَوَالِمِ تَجَلِّيَاتِكَ الْقُدُّوْسِيَّةِ الْاَكْرَمِ نُوْرَانِيِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ صَمَدَانِيِّ الْوِجْهَةِ بِكَ اِلَيْكَ فِي الْمَآرِبِ وَ الْمَطَالِبِ لَوْحِ نُقُوْشِ سِرِّكَ الْمُحِيْطِ الْجَامِعِ رُوْحِ هَيَاكِلِ اَمْرِكَ اللَّدُنِّيِّ الْوَاسِعِ لِسَانِ الْاَزَلِ الْمُفِيْضِ لِكُلِّ مَا شِئْتَ خَزَانَةِ رُتْبَةِ الْاَبَدِ الْمُمِدَّةِ لِكُلِّ مَا اَرَدْتَ الْاَوَّلِ الْقَابِلِ لِاَنْوَاعِ تَعَيُّنَاتِكَ الْعَلِيَّةِ عَلٰى اِخْتِلَافِ شُئُوْنِهَا الْاٰخِرِ الْخَاتِمِ عَلٰى كُنُوْزِ اِمْدَادَاتِكَ الزَّكِيَّةِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَ بُطُوْنِهَا الْعَبْدِ الْقَآئِمِ بِسِرِّ الْغَيْبِ وَ الْاِحَاطَةِ بِغَايَاتِ الْوَصْلِ، اَلنَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ اِلَى عَيْنِ الذَّاتِ وَلَا كَيْفَ وَلَا مِثْلَ فَاتِحَةِ كُتُبِ الْهِبَاتِ وَ الصِّفَاتِ وَ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ سِرِّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّآئِمَاتِ۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى هٰذَا الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ الَّذِيْ عِنْدَهُ الْمَطْلُوْبُ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ۔


155 وَ سَلِّمْ بِاِسْمِكَ السَّلَامِ الْمُمِدِّ الْقَيُّوْمِيِّ عَلَيْهِ مِنْكَ مَعَكَ وَ اجْعَلْنَا بِهٖ مَعَكَ فِيْ حَضْرَةِ الْقُدْسِ الرَّبَّانِيِّ مِمَّنْ تَبِعَهُ فَاتَّبَعَكَ۔

اَللّٰهُمَّ كَذٰلِكَ فِيْ كُلِّ ذٰلِكَ مَا دَامَ لَكَ كُلُّ مَا كَانَ وَ كُلُّ مَا يَكُوْنُ وَ بَقِيَ تَعْيِيْنُ اَحَدِيَّتِكَ فِي الظُّهُوْرِ وَ الْبُطُوْنِ وَ اَشْرَقَ جَمَالُ شُهُوْدِكَ عَلٰى عَوَالِمِ اَمْرِكَ فِي الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنِ وَ اَنْفَقْتَ مِنْ خَزَآئِنِ مَوَاهِبِكَ مَا شِئْتَ مِنْ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ وَ بَطَنَ عَنْ اِدْرَاكِ كُلِّ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ مَا كَتَمْتَ مِنْ اَمْرِكَ الْمَكْنُوْنِ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ { دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }، اَللّٰهُمَّ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا غَفُوْرُ يَا رَحِيْمُ، اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِجَاهِ هٰذَا السَّيِّدِ الْكَامِلِ الَّذِيْ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ اِخْتَرْتَهُ وَ اصْطَفَيْتَهُ وَ بِجَمِيْعِ الْمَكَارِمِ خَصَّصْتَهُ وَ اجْتَبَيْتَهُ اَنْ تُمِيْتَنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ وَ اَنْ تُسْعِدَنَا بِهٖ وَ بِلِقَآئِكَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ يَا سَلَامُ، وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ مَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلَيْنَا فِيْ جَمْعِ هٰذِهِ الْمَوَاهِبِ الَّتِيْ وَهَبْتَهَا لَنَا ثَلْجًا فِيْ قُلُوْبِنَا

وَ مَحْوًا لِلذُّنُوْبِنَا وَ نُوْرًا فِيْ يَقِيْنِنَا وَ قُوَّةً فِيْ اِيْمَانِنَا وَ تَزْكِيَةً لِّاَعْمَالِنَا وَ ذُخْرًا لِّاٰخِرَتِنَا وَ ارْحَمْ بِهَا وَالِدَيْنَا وَ اِخْوَانَنَا وَ اَشْيَاخَنَا وَ كُلَّ مَنِ انْتَمٰى اِلَيْنَا، وَ انْفَعِ اللّٰهُمَّ بِهَا كُلَّ مَنْ طَالَعَهَا وَ اقْتَبَسَ مِنْهَا نُوْرًا يُّزَكِّيْهِ وَ خَيْرًا يُّنَمِّيْهِ وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِذُنُوْبِنَا وَ سُوْءِ اَفْعَالِنَا وَ عَامِلْنَا بِمَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ مِنَ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِكَ وَ نَسْئَلُكَ لَا نَسْئَلُ غَيْرَكَ بِحَقِّكَ وَ حَقِّ نَبِيِّكَ اَنْ تُمِيْتَنَا عَلٰى دِيْنِهٖ وَ مِلَّتِهٖ وَ اَنْ تَحْشُرَنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ تَحْتَ لِوَائِهٖ وَ عِنَايَتِهٖ وَ اَنْ تَغْفِرَ ذُنُوْبَنَا وَ اَنْ تَسْتُرَ بِمَنِّكَ عُيُوْبَنَا وَ اَنْ تُطَهِّرَ مِنْ صَدَاِ الْغَفْلَةِ قُلُوْبَنَا، وَ امْحُ اللّٰهُمَّ زَلَلَنَا وَ خَطَايَانَا وَ اَنْ تَتَجَاوَزَ عَنَّا وَ عَنْ سَيِّئَاتِنَا وَ اَنْ تُهَوِّنَ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَهٗ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ الْحَشْرِ وَ اَنْ تُطَيِّبَنَا لِلْمَوْتِ وَ اَنْ تَجْعَلَ فِيْهِ رَاحَتَنَا وَ قِنَا اللّٰهُمَّ مِنَ الْاَهْوَالِ الْعَظِيْمَةِ الَّتِيْ لَا يَسَعُنَا حَمْلُهَا وَلَا ضِعْفُنَآ اِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَفْوِكَ وَ جُوْدِكَ وَ رَحْمَتِكَ فَاَنْتَ الْجَوَّادُ الْكَرِيْمُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

156 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ التَّامَّانِ الْاَكْمَلَانِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِى انْعَقَدَتْ لَهُ الْعِزَّةُ فِي الْاَزَلِ وَ انْسَحَبَ فَضْلُهَآ اِلٰى مَا لَا يَزَالُ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدْتُّكَ بِهٖ مِنْ نَّفْسِيْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ بِهٖ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُّ بِهٖ وَجْهَكَ فَخَالَطَهٗ غَيْرُكَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَتَيْتُهٗ فِيْ بَيَاضِ النَّهَارِ وَ سَوَادِ اللَّيْلِ فِيْ مَلَاٍ وَّ خَلَاءٍ وَّ سِرٍّ وَّ عَلَانِيَةٍ يَّا حَلِيْمُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ، اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ، اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ، وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ۔



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَنْوَارُ الْحَقِّ

فِي الصَّلَاةِ عَلٰى سَيِّدِ الْخَلْقِ ﷺ

العارف باللہ تعالی

الشیخ عبد المقصود محمد سالم

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو

افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم

محمد ذیشان انجم قادری

المکتبۃ القادریۃ 15

البا کستان

0092-3335187573


انوار الحق


سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازتِ مبارکہ سے شائع ہونے والی دُرود وسلام کی مقبول و بابرکت کتاب ملکِ مصر کے ایک بزرگ، ولیٔ کامل حضرت شیخ عبدالمقصود محمد سالم کی تصنیفِ لطیف ہے جو بارگاہِ نبوی ﷺ کی وہ مقبول شخصیت ہیں جو روزانہ 14000 مرتبہ دُرود وسلام کا نذرانہ آپ ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ مصر کی پولیس میں ایک سپاہی تھے لیکن ایک واقعہ نے آپ کی تقدیر بدل دی۔ دُرود وسلام پڑھنے کا اِس قدر ذوق وشوق پیدا ہوا اور عشقِ نبوی ﷺ میں اِس قدر اسیر ہوگئے کہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اُٹھا اور اکثر خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے۔


حضرت شیخ عبدالمقصود محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال 1948ء میں، میں نے ایک طویل خواب دیکھا جس میں آپ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور آپ ﷺ مجھ سے فرمارہے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ میں چاہتا ہوں کہ آپ اِن دُرودِ پاک پر نظر فرمائیں جو میں نے آپ کی شانِ اقدس میں تحریر کئے ہیں، جس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اُنہیں دیکھ لیا ہے۔ چند ماہ بعد دوبارہ زیارتِ رسول ﷺ کا شرف حاصل ہوا، میں نے آپ ﷺ سے اِن دُرودِ پاک کی طباعت کی اجازت طلب کی، جس پر سرکارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا ''**اطبعها**'' کہ اِن کو شائع کردو۔

اِس اجازتِ مبارکہ کے بعد ایک اجنبی شخص میرے پاس آیا اور اُس نے دُرود وسلام کی اِس مقبول کتاب کی اشاعت کا انتظام کیا، میں نے مختلف طریقوں سے اُس کا نام اور پتہ معلوم کرنا چاہا لیکن اُس نے یہ کہہ کر انکار کردیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے رب کے سوا مجھے کوئی پہچانے۔

انوار الحق کا جو نسخہ زیرِ نظر ہے وہ اِس بندۂ ناچیز (افتخار احمد قادری) کو مدینہ طیبہ طاہرہ میں ایک مدنی حسینی سیدزادے الشیخ علوی بافقیہ مدظلہ العالی نے عطا فرمایا جو اُس کے اکیسویں ایڈیشن کا ایک نسخہ ہے۔ دُرود وسلام کی یہ بابرکت و مقبول کتاب عرب و عجم میں شائع ہوکر تقسیم ہو رہی ہے۔ بحمداللہ! سرزمینِ پاکستان میں یہ مقبول و عظیم کتاب کئی بار شائع ہوکر عشاقانِ رسول ﷺ کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے۔ اِس بندہ کی معلومات کے مطابق پانچ بار مختلف انداز میں یہ بابرکت کتاب شائع ہوچکی ہے اور چھٹی بار اِس کو اعلیٰ قسم کے آرٹ پیپر پر مختلف رنگوں میں نادر تصاویر کے ہمراہ مئی 2010ء میں شائع کروانے اور فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی سعادت شہرِ سیالکوٹ کے ایک عاشقِ دُرود وسلام امتیاز محمود خان صاحب کے حصے میں آئی۔ مصر سے شائع ہونے والی کتاب انوار الحق کے اکیسیوں ایڈیشن کا ٹائٹل اور پاکستان سے مئی 2010ء میں شائع ہونے والی کتاب کا ٹائٹل ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔







أَنْوَارُ الْحَقِّ

صَلَوَاتُ نُورِ الْيَقِيْنِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَتْحِ شُهُوْدِ ظُهُوْرِ تَكْوِيْنِ مَوْجُوْدَاتِكَ مَجْلَى أَسْمَآئِكَ وَمَظْهَرِ صِفَاتِكَ الَّذِىْ خَلَقْتَهُ مِنْ نُوْرِ ذَاتِكَ وَخَلَقْتَ مِنْ نُوْرِهٖ جَمِيْعَ مَخْلُوْقَاتِكَ، جَلَالِ عَرْشِكَ الَّذِىْ كَوَّنْتَهُ بِجَمِيْلِ إِبْدَاعِكَ سِرِّ كُرْسِيِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ وَسِعَ صُوْرَةَ تَجَلِّيَّاتِ أَمْرِكَ فِىْ أَرْضِكَ وَسَمَآئِكَ، عَظَمَةِ لَوْحِكَ الْمَحْفُوْظِ الَّذِىْ أَوْدَعْتَهُ لَطَآئِفَ تَقْدِيْرَاتِكَ، مِدَادِ قَلَمِكَ الْبَدِيْعِ الَّذِىْ أَثْبَتَّ بِهٖ جَلِيْلَ مَشِيْئَاتِكَ، صَفَآءِ الْوُجُوْدِ الْأَزْهٰى وَبَهَآءِ الْأُفُقِ الْأَعْلَى الَّذِى اسْتَنَارَتْ بِهٖ خَاصَّتُكَ مِنْ عِبَادِكَ، مَآءِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْمُقَدَّسِ الْهَاطِلِ مِنْ مُّعْصِرَاتِ مَآءٍ ثَجَّاجٍ غُفْرَانِكَ، دَوْحَةِ الْعَدْلِ الظَّلِيْلَةِ الْوَارِفَةِ فِىْ رِيَاضِ كَرَمِكَ لِبُلُوْغِ دَرَجَاتِ إِحْسَانِكَ، مِفْتَاحِ كَنْزِكَ الْمَكْنُوْنِ الْمَصُوْنِ الَّذِىْ فَتَحْتَ بِهٖ غَوَامِضَ غُيُوْبِ أَسْرَارِكَ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَظْهَرِ وَأَنْوَرِ وَأَشْرَقِ وَأَوْضَحِ وَأَمْكَنِ وَأَمْتَنِ نُقْطَةٍ ۢ بَرَزَتْ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ إِلٰى عَالَمِ الشَّهَادَةِ لِتَكُوْنَ رَمْزًا لِّلْعَارِفِيْنَ، وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةً تُنَاسِبُ قَدْرَهُ الْعَظِيْمَ، وَتَلِيْقُ بِمَقَامِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَأَزْوَاجِهٖ أُولِى الشَّرَفِ وَالتَّكْرِيْمِ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَأَتَمَّ التَّسْلِيْمِ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفَآءِ الْهَآئِمِيْنَ فِىْ مَحَبَّةِ الرَّحْمٰنِ وَمُضِيْءِ الْقُلُوْبِ بِأَنْوَارِ الْإِيْمَانِ، وَشَافِى الصُّدُوْرِ بِأَسْرَارِ الْقُرْآنِ، مِنْحَةِ الْمَنَّانِ وَمَبْعَثِ الرِّضْوَانِ، مَنْ خَصَّهُ اللهُ بِالْحِكْمَةِ وَالْبَيَانِ، وَجَعَلَ دِيْنَهُ خَيْرَ الْأَدْيَانِ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْحَبِيْبِ إِذَا عُدِمَ الْحَبِيْبُ، وَالطَّبِيْبِ إِذَا عَزَّ الطَّبِيْبُ، رَاحَةِ الْقُلُوْبِ إِذَا اشْتَدَّتِ الْكُرُوْبُ، سِرِّ الدَّوَآءِ وَأَصْلِ الشِّفَآءِ، وَعِنَايَةِ السَّمَآءِ، وَمَصْدَرِ الرَّجَآءِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ الْأَوْفِيَآءِ وَأَصْحَابِهِ الرُّحَمَآءِ صَلَاةً مُّحِيْطَةً ۢ بِجَمِيْعِ الْكَمَالَاتِ، عَالِيَةً عَلٰى سَآئِرِ الصَّلَوَاتِ، تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ غُرُوْرِ النَّفْسِ وَشَوَاغِلِ الْحِسِّ، وَسَيِّئَاتِ الذُّنُوْبِ وَخَآئِنَةِ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ، صَلَاةً تَغْفِرُ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الزَّلَّاتِ وَالْهَفَوَاتِ، وَتَسْتُرُنَا بِهَا فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَّا صَلّٰى مِثْلَهَا مَوْجُوْدٌ مُّنْذُ خَلَقْتَ الْأَكْوَانَ، وَلَا يُصَلِّىْ بِأَفْضَلَ مِنْهَا مَخْلُوْقٌ فِىْ سَآئِرِ الْأَزْمَانِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ شُمُوْسِ الْعِرْفَانِ صَلَاةَ الرَّحْمَةِ، وَسَلَامَ الْبَرَكَةِ وَالرِّضْوَانِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَذَّةِ بُكَاءِ الْخَاشِعِيْنَ وَ هِمَّةِ نَشَاطِ الْعَابِدِيْنَ، وَ حُجَّةِ اَهْلِ الْيَقِيْنِ، وَ نُوْرِ بَصِيْرَةِ الْوَاصِلِيْنَ، رَائِدِ الْمُقَرَّبِيْنَ اِلٰى حَضْرَةِ الشُّهُوْدِ وَ التَّمْكِيْنِ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْلِ الْهُدٰى وَ الْاِسْتِقَامَةِ، وَ مَصْدَرِ الْاَمْنِ وَ السَّلَامَةِ وَ مَوْئِلِ الْعِزِّ وَ الْكَرَامَةِ، الْمُنْفَرِدِ بِالشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الرُّوْحِ الطَّاهِرَةِ الذَّاكِرَةِ الشَّاكِرَةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ، وَ النَّفْسِ الرَّاضِيَةِ الْمَرْضِيَّةِ السَّامِيَةِ النَّقِيَّةِ التَّقِيَّةِ الْمُطْمَئِنَّةِ الْكَامِلَةِ الْمُتَحَلِّيَةِ بِاَشْرَفِ النُّعُوْتِ الْخُلُقِيَّةِ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اِسْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ يُسْتَجَابُ بِهٖ دُعَاءُ السَّائِلِيْنَ، وَ بَيْتِ اللهِ الْمَعْمُوْرِ لِاِجَابَةِ شَكْوَى الْمَظْلُوْمِيْنَ، وَ سَقْفِ الرَّحَمُوْتِ الْمَرْفُوْعِ لِرَفْعِ بَلْوَى الْمَكْرُوْبِيْنَ، وَ بَحْرِ الْجَبَرُوْتِ الْمَسْجُوْرِ لِرَدْعِ الطُّغَاةِ الظَّالِمِيْنَ، سَبِيْلِ اللهِ الْجَلِيِّ الْقَوِيْمِ وَ صِرَاطِ اللهِ السَّوِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ، هَادِيْ عِبَادِكَ اِلٰى طَرِيْقِ رَشَادِكَ وَ رَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ لِجَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَ نِعْمَتِكَ الْكَامِلَةِ لِاَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمَآئِكَ صَاحِبِ الدَّرَجَاتِ الرَّفِيْعَةِ الْعَالِيَةِ وَ الْمَقَامَاتِ الشَّرِيْفَةِ السَّامِيَةِ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَيْضِ اَنْوَارِ الْمَحَبَّةِ فِيْ قُلُوْبِ الذَّاكِرِيْنَ، وَ مَنْهَلِ الْاِفَاضَةِ الْعَذْبِ لِاَرْوَاحِ الرُّكَّعِ السُّجَّدِ الطَّاهِرِيْنَ وَ مَوْرِدِ الْعِنَايَةِ الزَّاخِرِ لِقُلُوْبِ السَّائِحِيْنَ الْخَاشِعِيْنَ، وَ حَلَاوَةِ الْاِيْمَانِ فِيْ اَفْئِدَةِ الْمُتَبَتِّلِيْنَ الْقَائِمِيْنَ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ بِسَاطِعِ بُرْهَانِهٖ اَنَارَ الْقُلُوْبَ الْقَاسِيَةَ الْجَامِدَةَ، حَتّٰى صَارَتْ فِيْ نُوْرِ الْيَقَظَةِ ذَاكِرَةً عَابِدَةً شَاكِرَةً حَامِدَةً قَانِعَةً زَاهِدَةً۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَمَرِكَ السَّارِيْ فِيْ فَلَكِ الْهُدٰى وَ بَدْرِكَ السَّاطِعِ فِيْ فَجْرِ الرِّضَا، وَ اِشْرَاقِكَ التَّامِّ فِيْ صُبْحِ الْقَبُوْلِ، وَ ظُهْرِكَ الظَّاهِرِ، وَ عَصْرِكَ الزَّاهِرِ، وَ نُوْرِكَ الْبَاهِرِ فِيْ وَقْتِ غُرُوْبِ مَنَارَاتِ الْعُقُوْلِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ اللهِ الْمُشْرِقَةِ السَّاطِعَةِ النَّيِّرَةِ، وَ قُطْبِ فَلَكِ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ الزَّاهِيَةِ الزَّاهِرَةِ، وَ مِشْكَاةِ الْاَنْوَارِ الصَّافِيَةِ الْبَاهِرَةِ، رَحْمَةِ الدُّنْيَا وَ سَعَادَةِ الْاٰخِرَةِ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ اللهِ فِيْ سَمَآئِهٖ، وَ هِدَايَةِ اللهِ فِيْ اَرْضِهٖ، وَ خَلِيْفَةِ اللهِ فِيْ خَلْقِهٖ، وَ رِعَايَةِ اللهِ فِيْ مُلْكِهٖ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ضِيَاءِ الْعُقُوْلِ وَ مِشْكَاةِ الْاَفْكَارِ، وَ هِدَايَةِ النُّفُوْسِ وَ نُوْرِ الْاَبْصَارِ، عَبْدِكَ الْمُخْتَارِ خِيْرَةِ الْاَخْيَارِ، فَجْرِ الْاَسْرَارِ، مِحْرَابِ الْاَبْرَارِ، قِبْلَةِ الْاَنْظَارِ، حَظِيْرَةِ الْاَنْوَارِ، طَاعَةِ اللهِ رِعَايَةِ اللهِ، هِدَايَةِ اللهِ، يُسْرِ اللهِ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوْصِلُنِىْ اِلَيْهِ وَ تَجْمَعُنِىْ عَلَيْهِ، وَ تُقَرِّبُنِىْ لِحَضْرَتِهٖ، وَ تُمَتِّعُنِىْ بِرُؤْيَتِهٖ. فَاُشَاهِدُهٗ عِيَانًا، وَّ اَرَاهُ يَقْظَةً وَّ مَنَامًا، وَ تَقَعُ عَيْنُ قَلْبِىْ عَلٰى عَيْنِ ذَاتِهٖ وَ اَحْظٰى بِعَطْفِهٖ، وَ اَفُوْزُ بِمُنَاجَاتِهٖ، وَ اهْدِنِىْ بِنُوْرِكَ نُوْرِ الْيَقِيْنِ، وَ اَيِّدْنِىْ بِرُوْحٍ مِّنْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ {وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ}۔

صَلَوَاتُ الرَّحَمَاتِ الْمُتَوَالِيَاتِ

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النُّوْرِ السَّاطِعِ فِىْ سَمَآءِ الْجَلَالِ، وَ الْغَيْثِ الْهَامِعِ مِنْ كَوْثَرِ صَفَآءِ الْجَمَالِ، شَمْسِ الرَّحْمَةِ الطَّالِعَةِ عَلٰى كُلِّ الْاُمَمِ. غَيْثِ سَحَابِ النَّجَاةِ مِنْ سَالِفِ الْقِدَمِ، مِنَنِ الْفُيُوْضَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ مَوْرِدِ الْكَمَالَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّصْدَرِ عَطَآئِكَ الْوَافِىْ، وَ مَنْهَلِ اِحْسَانِكَ الصَّافِىْ، سَاقِى الْقُلُوْبِ مِنْ غَيْثِ جُوْدِكَ، وَ مُحْيِ النُّفُوْسِ بِنُوْرِ شُهُوْدِكَ فَتَرَعْرَعَتْ بَعْدَ اَنْ كَانَتْ جَامِدَةً قَاسِيَةً، وَ لَانَتْ بِتَتَابُعِ رَحَمَاتِكَ الْمُتَوَالِيَةِ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّالِكِ اَزِمَّةِ قُلُوْبِ الْمُحِبِّيْنَ، وَ جَاذِبِ اَعِنَّةِ اَرْوَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ مَدَدِ الْعَارِفِيْنَ فِىْ سَاحَةِ الْاِحْسَانِ وَ رَوْضَةِ التَّمْكِيْنِ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِّعْمَةِ السَّآئِلِيْنَ، وَ اُنْسِ الْعَاكِفِيْنَ، وَ وَقَارِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ، وَ فَخْرِ الزَّاهِدِيْنَ وَ غَوْثِ الْمَكْرُوْبِيْنَ، وَ اَمَانِ الْخَآئِفِيْنَ، وَ صَفَآءِ الْمُوَحِّدِيْنَ، وَ مِصْبَاحِ الْمُفَكِّرِيْنَ، وَ هِدَايَةِ السَّآئِلِيْنَ وَ النِّعْمَةِ الْعُظْمٰى لِلْعَالَمِيْنَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حِمَى الْاِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَلصَّادِقِ الصَّدُوْقِ الْاَمِيْنِ، اَلشَّاكِرِ الشَّكُوْرِ، اَلظَّاهِرِ فِى النَّبِيِّيْنَ، اَلْمُدَّثِّرِ الْمُزَّمِّلِ طٰهٰ يٰسٓ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُقَوِّىْ بِهَا رُوْحِىْ فِىْ مَحَبَّتِهٖ وَ تُطْلِقُ بِهَا لِسَانِىْ فَيَلْهَجُ بِمُنَاجَاةِ حَضْرَتِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِرِضَاهُ اِذَا مَرِضْتُ، وَ اسْقِنِىْ بِذِكْرَاهُ اِذَا ظَمِئْتُ، وَ اَزِلْ حِجَابَ الْغَفْلَةِ عَنْ قَلْبِىْ بِهٖ اِذَا حُجِبْتُ، وَ صِلْ رُوْحِىْ بِحَضْرَتِهٖ، وَ هَذِّبْ نَفْسِىْ بِشَرِيْعَتِهٖ، وَ اَشْرِقْ عَلٰى قَلْبِىْ اَنْوَارَ مَحَبَّتِهٖ، وَ اَسْعِدْنِىْ بِلِقَآئِهٖ وَ ارْزُقْنِىْ بِرُؤْيَتِهٖ، وَ اَقِلْنِىْ يَا مَوْلَاىَ اِذَا زَلَّتِ الْقَدَمُ، وَ اهْدِنِىْ بِهَدْيِهٖ حَتّٰى اَحْيَا مِنَ الْعَدَمِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ، وَ اَكْمَلَ تَسْلِيْمَاتِكَ الزَّاكِيَاتِ الزَّاهِيَاتِ، وَ اَعْظَمَ بَرَكَاتِكَ الْعَاطِرَاتِ الْعَابِقَاتِ، وَ اَشْرَفَ رَحَمَاتِكَ الْمُتَوَالِيَاتِ السَّاطِعَاتِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ اَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ وَ اَشْرَفَهَا وَ اَكْثَرَهَا وَ اَكْبَرَهَا وَ اَتَمَّهَا وَ اَعَمَّهَا، وَ اَهْنَأَهَا وَ اَضْوَأَهَا وَ اَجْمَعَهَا وَ اَجْمَلَهَا وَ اَكْمَلَهَا، وَ بَارِكْ عَلٰى حَضْرَتِهٖ اَوْفَرَ الْبَرَكَاتِ وَ اَسْعَدَهَا وَ اَدْوَمَهَا وَ اَعْظَمَهَا، وَ اَسْمَاهَا وَ اَزْهَاهَا وَ

اَحلاَهَا، وَ اَبهَاهَا وَ اَوفَاهَا وَ اَزْ كَاهَا وَ اَصْفَاهَا وَ اَرْقَاهَا وَ اَبْقَاهَا. صَلَاةً زَاهِيَةً زَاهِرَةً طَاهِرَةً ظَاهِرَةً، بَاهِرَةً عَامِرَةً عَالِيَةً تَامِيَةً ، بَاهِيَةً سَامِيَةً شَافِعَةً. شَارِحَةً رَّابِحَةً نَّاجِحَةً صَافِيَةً تَاجِحَةً فَائِقَةً نَّقِيَّةً سَنِيَّةً عَلِيَّةً رَّائِعَةً زَكِيَّةً مَّشْمُوْلَةً ، بِرُوْحِ الْحُبِّ الْكَامِلِ وَ الْاِخْلَاصِ الشَّامِلِ وَ الرِّضَا الْاَتَمِّ وَ الْقَبُوْلِ الْاَعَمِّ، وَالثَّوَابِ الْعَمِيْمِ وَ النَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ.

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْاَنْبِيَآءِ وَ خِيرَةِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى سَيِّدِنَا جِبْرَآئِيْلَ الرُّوْحِ الطَّاهِرِ الْاَمِيْنِ، وَ عَلٰى سَيِّدِنَا مِيْكَآئِيْلَ الَّذِیْ جَعَلْتَهٗ عَلَى الْاَمْطَارِ وَ الرِّيَاحِ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ، وَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِسْرَافِيْلَ الْمُوَكَّلِ بِالنَّفْخِ فِى الصُّوْرِ يَوْمَ الدِّيْنِ، وَ عَلٰى سَيِّدِنَا عِزْرَآئِيْلَ الَّذِیْ اَعَنْتَهٗ بِقُوَّتِكَ عَلٰى قَبْضِ اَرْوَاحِ جَمِيْعِ الْمَخْلُوْقِيْنَ، وَ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ الْحَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ عَرْشِكَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لِعِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ الْاَطْهَارِ الْكَرُوْبِيِّيْنَ، وَ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَ عَلٰى مُنْكَرٍ وَّ نَكِيْرٍ وَّ مَالِكٍ وَّ رِضْوَانَ الْاَمِيْنِ، وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَلَآئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ فِىْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِيْنَ.

25 اَللّٰهُمَّ اَوْصِلْ لِحَضَرَاتِهِمْ مِنِّیْ وَ بَلِّغْهُمْ عَنِّیْ مِنْ وَّافِرِ مَزِيْدِ صِلَاتِ اِكْرَامِكَ وَ مِنْ بَدِيْعِ تَفْرِيْدِ جَمِيْلِ اِنْعَامِكَ، وَ مِنْ عَظِيْمِ كَثِيْرِ جَلِيْلِ اِمْدَادِ فُيُوْضَاتِكَ وَ مِنْ اَعَالِىْ مَنَازِلِ مَعَارِجِ اَنْوَارِ سُبُحَاتِكَ، وَ مِنْ سَلْسَبِيْلِ رَحِيْقِ مَخْتُوْمِ تَسْنِيْمِ هِبَاتِكَ وَ مِنْ اَسْمٰى صَلَوَاتِكَ وَ اَجَلِّ تَسْلِيْمَاتِكَ وَ مِنْ اَوْفٰى رَحَمَاتِكَ وَ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ وَ مِنْ اَعْلٰى نَعْمَآئِكَ، وَ مِنْ اَسْنَى اٰلَآئِكَ، وَ مِنْ طَيِّبَاتِ رِضَآئِكَ وَ خَيْرَاتِ عَطَآئِكَ، مَا يَكُوْنُ لَهُمْ نَعِيْمًا بَاقِيًا ، بِرِضَآئِكَ اَمْنًا دَآئِمًا ، بِبَقَآئِكَ يَآ اَللّٰهُ يَا قَرِيْبُ يَا سَمِيْعُ يَا مُجِيْبُ.

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَخْرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ قُدْوَةِ الْاَصْفِيَآءِ وَ نِبْرَاسِ الْاَوْلِيَآءِ وَ دَلِيْلِ السُّعَدَآءِ وَ نَعِيْمِ الْاَوْفِيَآءِ وَ حَبِيْبِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْجَزَآءِ.

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ شَمْسِ مَجْدِكَ الْمُنِيْرِ الْاَبْهٰى، وَ نُوْرِ قَمَرِ عِزِّكَ السَّاطِعِ الْاَزْهٰى، وَ ضِيَآءِ نَجْمِ فَضْلِكَ الْعَالِى الْاَجْلٰى، وَ كَوْكَبِ سِرِّكَ الْبَدِيْعِ الْاَعْلَى الَّذِیْ اَعْلَيْتَ قَدْرَهٗ فِى النَّبِيِّيْنَ وَ اَظْهَرْتَ مَجْدَهٗ فِى الْمُرْسَلِيْنَ، وَ قَرَنْتَ اسْمَهٗ مَعَ اسْمِكَ عَلٰى سَاقِ عَرْشِكَ فِىْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ وَ رَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَ فَضَّلْتَهٗ عَلَى الْاَوَّلِيْنَ وَ كَرَّمْتَهٗ فِى الْاٰخِرِيْنَ وَ شَرَّفْتَ بِهٖ سُكَّانَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِيْنَ.

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّاعَاتِ وَ الْاَيَّامِ وَ عَدَدَ الشُّهُوْرِ وَ الْاَعْوَامِ وَ عَدَدَ مَا فِيْهَا مِنْ اَحْيَآءٍ وَّ اَمْوَاتٍ وَ حَرَكَاتٍ وَّ سَكَنَاتٍ وَّ لَمَحَاتٍ وَّ لَحَظَاتٍ وَّ اِشَارَاتٍ وَّ خَطَرَاتٍ وَّ اَنْفَاسٍ وَّ نَسَمَاتٍ وَ مَا فِى السَّمَآءِ مِنْ عَوَالِمِ مُخْتَلِفَاتٍ وَّ نُجُوْمٍ ثَابِتَاتٍ وَّ كَوَاكِبَ سَيَّارَاتٍ وَّ سُحُبٍ مُّمْطِرَاتٍ وَّ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ مِنْ رِّيَاحٍ ذَارِيَاتٍ وَّ اَنْوَارٍ سَاطِعَاتٍ وَّ ذَرَّاتٍ مُّتَنَاثِرَاتٍ وَّ اَرْوَاحٍ فِىْ اَنْوَارِكَ سَابِحَاتٍ وَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ اَنْوَاعِ الْمَخْلُوْقَاتِ مِنْ اِنْسٍ وَّ جِنٍّ وَّ حَيَوَانٍ وَّ غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا لَا يُحْصِيْهِ الْبَيَانُ، وَ عَدَدَ

مَا فِيْهَا مِنْ مَّعَادِنَ ظَاهِرَاتٍ وَّ خَافِيَاتٍ وَّ مَا عَلَيْهَا مِنْ جِبَالٍ شَامِخَاتٍ وَّ مُحِيْطَاتٍ شَاسِعَاتٍ وَّ اَنْهَارٍ جَارِيَاتٍ وَّحَدَآئِقَ يَانِعَاتٍ وَّ نَخِيْلٍ ۢ بَاسِقَاتٍ وَّ حَبٍّ وَّ نَبَاتٍ وَّ زُهُوْرٍ عَاطِرَاتٍ وَّ سَنَابِلَ نَامِيَاتٍ وَّ طُيُوْرٍ صَآفَّاتٍ وَّ بَلَابِلَ مُغَرِّدَاتٍ عَلَى الْاَفْنَانِ ذَاكِرَاتٍ وَّ اَفْوَاهٍ ۢ بِتَسْبِيْحَاتٍ مُّتَلَذِّذَاتٍ وَّ جَوَارِحَ فِيْ طَاعَتِكَ هَآئِمَاتٍ وَّ نُفُوْسٍ ۢ بِالصِّدْقِ لَكَ مُتَضَرِّعَاتٍ وَّ اَجْوَافٍ فِيْ نَهَارِكَ صَآئِمَاتٍ وَّ جِبَاهٍ فِيْ لَيْلِكَ سَاجِدَاتٍ وَّ اَعْيُنٍ اِلٰى جَمَالِ وَجْهِكَ مُتَطَلِّعَاتٍ وَّ قُلُوْبٍ لِّذَاتِكَ عَاشِقَاتٍ وَّ دُمُوْعٍ مِّنْ ذِكْرِكَ جَارِيَاتٍ وَّ اَفْئِدَةٍ ۢ بِالْاَنِيْنِ لَكَ خَاشِعَاتٍ وَّ اَكْبَادٍ فِيْ شَوْقِكَ مُحْتَرِقَاتٍ وَّ اَلْسِنَةٍ ۢ بِالْقُرْاٰنِ لَكَ تَالِيَاتٍ وَّ دَعَوَاتٍ اِلٰى مَقَامِ قُدْسِكَ صَاعِدَاتٍ وَّ عِبَادٍ لَّكَ مُتَضَرِّعِيْنَ فِيْ مِحْرَابِ الْعُبُوْدِيَّةِ عَاكِفِيْنَ وَ مَلَآئِكَةٍ تُهَلِّلُ بِذِكْرِكَ وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَعَدَدَمَا نَعْلَمُ وَوَرَآءَ مَا نَفْهَمُ فِيْ جَمِيْعِ الْمَوْجُوْدَاتِ الظَّاهِرَاتِ وَالْخَافِيَاتِ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ وَ شَرَّفْتَ الصَّلَوَاتِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَاَسْعَدْتَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ وَ اَرْسَلْتَهٗ لِلْخَلْقِ رَحْمَةً مِّنْ حَيْثُ قَوْلُكَ الْمُبِيْنُ {وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ} صَلَاةً تُزِيْلُ بِهَا الْهَمَّ وَ الْخَوْفَ وَ الْاَوْهَامَ وَ تَشْفِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَمْرَاضِ وَ الْاٰلَامِ وَ الْاَسْقَامِ وَ احْرُسْنَا فِي الْيَقْظَةِ وَ الْمَنَامِ وَ اغْفِرْلَنَا الذُّنُوْبَ وَ الْاٰثَامَ وَ احْفَظْنَا مِنْ تَقَلُّبَاتِ اللَّيَالِيْ وَ الْاَيَّامِ وَ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الَّذِيْ مَنِ اسْتَتَرَ بِهٖ لَا يُضَامُ سُبْحَانَكَ يَا وَاهِبَ النُّوْرِ وَ الْاِنْعَامِ تَبَارَكَ اسْمُكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ {اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ}۔

صَلَوَاتُ الْاَنْوَارِ الْمُتَلَأْلِئَةِ

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّشْكَاةِ الْاَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ نُوْرِ مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ الْمِثَالِيَّةِ وَ مَعْنَى الْحُسْنِ الْكَامِلِ لِلْمَعَانِي الْفُرْقَانِيَّةِ وَ مَادَّةِ الْاِمْدَادَاتِ السُّبْحَانِيَّةِ وَ رَمْزِ الْاَسْرَارِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا فِي الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ بِشَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ قَبَسِ الْاَنْوَارِ وَ مَهْبَطِ الْاَسْرَارِ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَنَّةِ مَأْوَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ سِدْرَةِ مُنْتَهَى الصِّدِّيْقِيْنَ الَّذِيْ اُسْرِيَ بِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَ عُرِجَ بِهٖ اِلَى السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى اِلَى الرَّفْرَفِ الْاَسْمٰى فَفَاقَ النَّبِيِّيْنَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى اِذْ دَنَا فَتَدَلّٰى وَ حَازَ غَايَةَ سَبْقِ الْمُرْسَلِيْنَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اَكْرَمَهُ الْكَرِيْمُ بِمَآ اَرَاهُ مِنْ اٰيَاتِهِ الْكُبْرٰى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى وَ اَوْحٰى اِلَيْهِ الرَّحِيْمُ مِنْ اَسْرَارِهِ الْعُظْمٰى {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى} اَلَّذِيْ اَعْطَاهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ مُنْتَهَى الْخَيْرِ وَ التَّكْرِيْمِ فِي الدُّنْيَا وَالْاُخْرٰى وَ حَبَاهُ بِالتَّوْقِيْرِ وَ التَّعْظِيْمِ بِقَوْلِهٖ {وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى}۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَرْتَاحُ لَهَا الْجَنَانُ وَ يَطْمَئِنُّ بِهَا الْقَلْبُ وَ يَزْدَادُ الْإِيْمَانُ صَلَاةً تَقُوْدُنَا لِامْتِثَالِ اَمْرِكَ وَ تُرْشِدُنَا لِحَمْدِكَ وَ شُكْرِكَ وَ تُلْهِمُنَا تَسْبِيْحَكَ وَ ذِكْرَكَ وَ تَمْنَحُنَا رِضَاكَ وَ عَفْوَكَ صَلَاةً نَّدْخُلُ بِهَا حِمَاكَ وَ نُدْرِكُ مِنْ اَجْلِهَا فَضْلَكَ وَ هُدَاكَ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُغْرِقُنَا فِيْ بِحَارِ اِنْعَامِكَ وَ تَحْمِلُنَا اِلٰى حَظِيْرَةِ اِكْرَامِكَ وَ تُدْخِلُنَا بِهَا حَدَائِقَ فَرَادِيْسِ رِضْوَانِكَ وَ تُعْطِيْنَا بِهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فِيْ نَعِيْمِ جَنَّاتِكَ وَ تُمَتِّعُنَا بِالنَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ رِحَابِ اِحْسَانِكَ وَ سَاحَةِ رِضْوَانِكَ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَمَاحَةِ وُجُوْهِ الْخَاشِعِيْنَ وَ رَجَاحَةِ عُقُوْلِ السَّالِكِيْنَ وَ طَهَارَةِ نُفُوْسِ الْعَابِدِيْنَ وَ قُوْتِ زَادِ الصَّائِمِيْنَ كَهْفِ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ النُّوْرِ الْفُرْقَانِيِّ لِلْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَوْجَدَتْهُ الْقُدْرَةُ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَ عَدَدَ مَا خَصَّصَتْهُ الْاِرَادَةُ فِي الْاَزَلِيَّاتِ وَ عَدَدَ مَا فِي الْغُيُوْبِ مِنَ الْاَسْرَارِ الْخَفِيَّاتِ وَ عَدَدَ مَا خَطَّهُ الْقَلَمُ مِنَ الْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ صَلَاةً عَالِيَةً فِي الصَّلَوَاتِ نَامِيَةً فِي الْبَرَكَاتِ دَآئِمَةً ، بِسَرْمَدِيَّتِكَ اَبَدِيَّةً ، بِدَيْمُوْمِيَّتِكَ بَاقِيَةً ، بِاَزَلِيَّتِكَ عَظِيْمَةً ، بِعَظَمَتِكَ مَشْمُوْلَةً ، بِعِنَايَتِكَ مَكْفُوْلَةً ، بِرِعَايَتِكَ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خُلَاصَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ مُّبْدَعَاتِكَ وَ مَظْهَرِكَ التَّآمِّ فِيْ جَمَالِ صِفَاتِكَ وَ خَشْيَةِ قُلُوْبِ الْهَآئِمِيْنَ فِيْ مَعَانِيْ آيَاتِكَ وَ عِبْرَةِ الْمُتَفَكِّرِيْنَ فِيْ بَدِيْعِ مَصْنُوْعَاتِكَ سَاقِيْ اَرْوَاحِ عِبَادِكَ مِنْ مَّآءِ حَيَاةِ فُيُوْضَاتِكَ وَ دَلِيْلِ عِبَادِكَ اِلٰى سَبِيْلِ رَشَادِكَ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الثَّغْرِ الْبَاسِمِ الْجَمِيْلِ وَ الطَّرْفِ الْوَسِيْمِ الْكَحِيْلِ وَ الْوَجْهِ الْبَهِيِّ وَ النُّوْرِ الْجَلِيِّ وَ الْمَقَامِ السَّنِيِّ وَ الْقَدْرِ الْعَلِيِّ آيَةِ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّ نَبِيٍّ وَّ سَعَادَةِ كُلِّ صَالِحٍ وَّ تَقِيٍّ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَطَآءِ وَ السَّخَآءِ وَ الشَّجَاعَةِ وَ النَّجْدَةِ وَ الْوَفَآءِ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ وَ سَبِيْلِكَ الْقَوِيْمِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُكَ الْكَرِيْمُ {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ}۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الرَّقَآئِقِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ مِصْبَاحِ الْحَقَآئِقِ الْقُدْسِيَّةِ وَ مِفْتَاحِ الْغُيُوْبِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ يَنْبُوْعِ الْفُيُوْضَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ اَثِيْرِ الْاَرْوَاحِ وَ نُوْرِ بَشَآئِرِ الصَّبَاحِ وَ فَتْحِ تَقْدِيْرِ الْفَتَّاحِ وَ سِيْمَا الْحَيَآءِ فِيْ وُجُوْهِ اَهْلِ الصَّلَاحِ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ اَعْطِهِ مِنَ الْفَضْلِ اَعْلَاهُ وَ مِنَ الْعِزِّ اَوْفَاهُ وَ مِنَ الْجَاهِ اَرْقَاهُ وَ مِنَ الْقُرْبِ وَ الْوَسِيْلَةِ مَا يُحِبُّهُ وَ يَرْضَاهُ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَ اَكْرِمْ لَدَيْكَ مَثْوَاهُ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى لِإِجَابَةِ الشَّكْوٰى وَ السَّبَبِ الْأَقْوٰى لِرَفْعِ الْبَلْوٰى۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَمِ السَّعَادَاتِ لِمَنْ اَحَبَّهُ اللهُ فِي الْكَائِنَاتِ فَاتِحَةِ الْأَعْمَالِ الطَّيِّبَاتِ وَ السَّبَبِ فِيْ نَيْلِ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ ذِكْرَهٗ وَ اَظْهِرْ قَدْرَهٗ وَ اَجْزِلْ ثَوَابَهٗ وَ اَعْلِ مَقَامَهٗ وَ اَدِمْ كَرَامَتَهٗ وَ عَمِّمْ شَفَاعَتَهٗ وَ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ امْنَحْهُ اللِّوَآءَ الْمَعْقُوْدَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَ الْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَ الْعِزَّ الْمَمْدُوْدَ وَ الْمَنْزِلَةَ السَّامِيَةَ وَ الرُّتْبَةَ الْعَالِيَةَ وَ اَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ الْعَظِيْمِ وَ امْنَحْنَا بِهٖ رِضْوَانَكَ الْمُقِيْمَ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرُّوْحِ الطَّاهِرِ الرَّفِيْعِ وَ الْمَلَاذِ الظَّاهِرِ الشَّفِيْعِ الَّذِيْ عَلَا مَقَامُهٗ عَلٰى كُلِّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّ سَمَا قَدْرُهٗ فَوْقَ كُلِّ قَدْرٍ عَظِيْمٍ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ التَّجَلِّيَاتِ لِلْوَاصِلِيْنَ وَ قِبْلَةِ الرَّحَمَاتِ لِلْحَائِرِيْنَ وَ مِحْرَابِ الطَّاعَاتِ لِلْعَابِدِيْنَ وَ مِنْبَرِ الْإِرْشَادِ لِلْمُعْتَبِرِيْنَ صَلَاةً تُطَهِّرُ بِهَا الْقُلُوْبَ وَ تَغْفِرُ بِهَا الذُّنُوْبَ وَ تَدْفَعُ بِهَا الْخُطُوْبَ وَ تُفَرِّجُ بِهَا الْكُرُوْبَ وَ تَمْنَحُنَا نَعْمَةَ الشُّهُوْدِ فِيْ دَارِكَ دَارِ الْخُلُوْدِ يَا ذَا الْكَرَمِ وَ الْجُوْدِ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَكْمَلَ صَلَوَاتِكَ فِيْ حَضْرَةِ بَقَآئِكَ وَ سَلِّمْ اَجْمَلَ تَسْلِيْمَاتِكَ فِيْ مَقَامِ اِحْسَانِكَ وَ بَارِكْ اَفْضَلَ بَرَكَاتِكَ عَلَى الْمُتَحَقِّقِ فِيْ قَدَاسَةِ اِنْعَامِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُرْآنِ الْهُدَى الْمُرَتَّلِ فِيْ مِحْرَابِ اِكْرَامِكَ وَ فُرْقَانِ التُّقَى الْمُبَجَّلِ فِيْ نُفُوْسِ اَوْلِيَآئِكَ وَ مَعْنَى الصُّحُفِ الْمُكَرَّمَةِ فِيْ حَيَاةِ اَصْفِيَآئِكَ وَ سِرِّ الْكُتُبِ الْقَيِّمَةِ فِيْ صَحَآئِفِ اَتْقِيَآئِكَ وَ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ السَّامِيْ فَرْعُهَا فِيْ سَمَآئِكَ وَ الْبَحْرِ الْمُحِيْطِ الزَّاخِرِ الْمُتَلَاطِمِ بِاَمْوَاجِ جُوْدِكَ وَ عَطَآئِكَ وَ الْمَوْرِدِ الْعَذْبِ الْوَافِرِ الْمُتَزَاحِمِ بِاَنْوَاعِ بِرِّكَ وَ سَخَآئِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةً تَمْلَأُ السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِيْهَا مِنْ بَدَآئِعِ خَلْقِ اللهِ وَ تَزِنُ الْاَرْضِيْنَ وَ مَا تَحْوِيْهَا مِنْ عَجَآئِبِ صُنْعِ اللهِ صَلَاةً نَّدْخُلُ بِهَا حِصْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ نُشَاهِدُ بِهَا وَجْهَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ وَ تُلْهِمُنَا بِهَا التَّوْفِيْقَ اِلٰى طَاعَةِ اللهِ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا الرِّضَا بِقَضَآءِ اللهِ وَ التَّفْوِيْضَ لِاَمْرِ اللهِ وَ التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ وَ التَّسْلِيْمَ لِحُكْمِ اللهِ وَ نُدْرِكُ بِهَا مَعْنٰى {فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ ذُخْرًا لِاَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا وَ نِعْمَةً مِّنْكَ وَ رَحْمَةً وَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْحِسَابِ وَ اجْعَلْهُ لَنَا عِنْدَكَ {زُلْفٰى وَ حُسْنَ مَآبٍ} وَّ اغْفِرْ خَطِيْئَتَنَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَ احْشُرْنَا مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ {وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

صَلَوَاتُ النُّوْرِ الْاَوَّلِ

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَنَدِنَا وَ غَوْثِنَا وَ مَلَاذِنَا وَ رَجَآئِنَا وَ طَبِيْبِنَا وَ

دَوَآئِنَا وَ شِفَآئِنَا وَ نُوْرِ اَبْصَارِنَا وَ حَيَاةِ اَرْوَاحِنَا وَ سِرَاجِ عُقُوْلِنَا وَ اَنِيْسِنَا فِيْ نَشْرِنَا وَ ضَمِيْنِنَا فِيْ حَشْرِنَا وَ شَفِيْعِنَا عِنْدَ رَبِّنَا. اَلْحَبِيْبِ الطَّآئِعِ وَ الْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ وَ النُّوْرِ السَّاطِعِ الْمُجِيْبِ الْمُنِيْبِ الشَّافِعِ الشَّهِيْدِ الشَّاهِدِ الْقَآئِدِ الرَّآئِدِ اَلدَّلِيْلِ الشُّجَاعِ الْمُجَاهِدِ الْوَرِعِ الشَّاكِرِ الْحَامِدِ الذَّاكِرِ الزَّاهِدِ الْعَابِدِ الْمُهَلِّلِ الْمُسَبِّحِ السَّاجِدِ الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ الْكَامِلِ الْعَدْلِ الْعَمِيْمِ الشَّامِلِ الصَّفْوَةِ الصَّفِيِّ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ. اَلْوَافِي الْوَفِيِّ النُّوْرِ الْجَلِيِّ الْجَمَالِ الْبَهِيِّ الْمُتَوَاضِعِ الْعَلِيِّ. اَلنَّبِيِّ الْمَعْصُوْمِ. اَلْعَلَمِ الْمَعْلُوْمِ الْمُبَلِّغِ الْمَأْمُوْنِ اِنْسَانِ الْعُيُوْنِ الضِّيَآءِ الشِّفَآءِ الْوَفَآءِ الصَّفَآءِ الْحَيَآءِ الْهَنَآءِ صَاحِبِ اللِّسَانِ الصَّادِقِ الشَّاكِرِ وَ الْقَلْبِ الْخَاشِعِ الذَّاكِرِ وَ الْفِكْرِ الْمُنِيْرِ الثَّاقِبِ وَ الرَّأْيِ الْكَبِيْرِ الصَّآئِبِ السَّعْدِ الْمَسْعُوْدِ السَّعِيْدِ الْحَمْدِ الْمَحْمُوْدِ الْحَمِيْدِ كَلِمَةِ الصِّدْقِ السَّمِيِّ الرَّضِيِّ الشَّهِيْدِ الْوَفِيِّ السَّخِيِّ الرَّشِيْدِ مِنَّةِ الْحَقِّ اَشْرَفِ الثَّقَلَيْنِ صَفْوَةِ الْخَلْقِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ. اَلطُّهْرِ الْعَفَافِ. اَلْعَدْلِ الْاِنْصَافِ. اَلشَّاكِرِ الشَّكُوْرِ. اَلنَّاصِرِ الْمَنْصُوْرِ. نَبِيِّ الصِّدْقِ رَسُوْلِ الْحَقِّ ظَاهِرِ الْبُرْهَانِ شَمْسِ الْهُدٰى غَوْثِ الْوَرٰى. عَيْنِ الْبَيَانِ. طٰهٰ يٰسٓ. اَبِي الْقَاسِمِ الْاَمِيْنِ كَرِيْمِ الذَّاتِ الرَّحِيْمِ حَسَنِ الصِّفَاتِ الْحَلِيْمِ.

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّهْبَطِ الرَّحْمَاتِ وَ اَصْلِهَا وَ مَصْدَرِ الْخَيْرَاتِ وَ فَيْضِهَا وَ سِرَاجِ الْعُقُوْلِ وَ نُوْرِهَا وَ مِصْبَاحِ الْاَفْكَارِ وَ ضِيَآئِهَا وَ هِدَايَةِ النُّفُوْسِ وَ هَنَآئِهَا وَ رَاحَةِ الْقُلُوْبِ وَ صَفَآئِهَا.

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّؤُوْفِ بِرَأْفَتِكَ. الرَّحِيْمِ بِرَحْمَتِكَ. الْعَزِيْزِ بِعِزَّتِكَ. اَلْعَظِيْمِ بِعَظَمَتِكَ. اَلْقَوِيِّ بِقُدْرَتِكَ. اَلْكَبِيْرِ الْمَقَامِ بِجَلَالِ نِعْمَتِكَ. اَلرَّفِيْعِ الْجَنَابِ بِوِدَادِ مَحَبَّتِكَ.

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّوْضِ النَّاضِرِ الْجَمِيْلِ وَ الْكَوْثَرِ الْعَذْبِ السَّلْسَبِيْلِ وَ الظِّلِّ الْوَارِفِ الظَّلِيْلِ اَصْلِ الْاِيْمَانِ وَ بَهْجَةِ الْاَكْوَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَّ مَكَانٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ اَهْلِ الْاِحْسَانِ وَ اَصْحَابِهٖ مَعْدَنِ الْعِرْفَانِ وَ اَزْوَاجِهٖ اَهْلِ الْعَطْفِ وَ الْجَنَانِ صَلَاةً تَمْلَأُ اَشِعَّةُ شَمْسِهَا جَمِيْعَ الْكَآئِنَاتِ وَ تُعَطِّرُ بِطِيْبِ اَرِيْجِهَا سَآئِرَ الْمَوْجُوْدَاتِ.

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَوَّلِ فِيْ غَيْهَبِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ الْعَقْلِ الْمُطْلَقِ الظَّاهِرِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ وَ الضَّمِيْرِ الْحَيِّ الْوَاعِي. اَلْمُهَيَّأِ لِتَلَقِّي الْفُيُوْضَاتِ وَ بِدَايَةِ النَّشْأَةِ الْاَزَلِيَّةِ. اَلْمُنْطَوِيَةِ فِيْ سَآئِرِ الْمُبْدَعَاتِ وَ الْجَمَالِ الْمُطْلَقِ الَّذِيْ تَشِفُّ مِنْ مِّرْآةِ رَوْعَتِهٖ حَقَآئِقُ التَّجَلِّيَاتِ فَكَانَ اِبْتِدَآءَ الْاُصُوْلِ وَ نِهَايَةَ الْفُرُوْعِ وَ مَقْصُوْدَ الْحَضْرَةِ مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ.

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَةِ آدَمَ اِلٰى رَبِّهٖ وَ نَجَاةِ يُوْنُسَ مِنْ كَرْبِهٖ وَّ عِصْمَةِ نُوْحٍ مِّنَ الطُّوْفَانِ وَ دَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ وَ فَصَاحَةِ هَارُوْنَ وَ آيَةِ مُوْسٰى وَ حِكْمَةِ لُقْمَانَ وَ مُعْجِزَةِ عِيْسٰى وَ جَمَالِ يُوْسُفَ وَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ.

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِّعْمَةِ الْمُحِبِّيْنَ النَّاطِقَةِ وَ رَغْبَةِ الزَّاهِدِيْنَ الصَّادِقَةِ عَيْنِ الْمَدَدِ

الْفَيَّاضِ لِلْقُلُوْبِ الْوَامِقَةِ، اَلْمُرْسَلِ بِنَسَمَاتِ الرَّحَمَاتِ لِلْاَرْوَاحِ الْعَاشِقَةِ صَلَاةً تَهْتَدِىْ بِهَا حَوَآسِّىْ بِاَنْوَارِ رِعَايَتِهِ الْبَاهِيَةِ الْبَاهِرَةِ وَ تَطْمَئِنُّ بِهَا جَوَارِحِىْ بِنُجُوْمِ هِدَايَتِهِ الزَّاهِيَةِ الزَّاهِرَةِ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هِدَايَةِ الْحَآئِرِيْنَ وَ نَجْدَةِ الْمَلْهُوْفِيْنَ وَ اَمَانِ الْخَائِفِيْنَ وَ عِصْمَةِ الْمُعْتَصِمِيْنَ وَ كِفَايَةِ الطَّالِبِيْنَ وَ الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ لِلْعَالَمِيْنَ وَ لِبَاسِ التَّقْوٰى لِلْمُتَّقِيْنَ وَ صَفَآءِ الْوِدَادِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَقْعَدِ الصِّدْقِ لِلْمُهْتَدِيْنَ حِصْنِ اللهِ الْقَوِيِّ الْمَتِيْنِ وَ عَيْنِ رِعَايَةِ الْاَصْفِيَآءِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ خِيَرَةِ اللهِ مِنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ السَّاجِدِيْنَ وَ اَكْمَلِ الْعَابِدِيْنَ وَ اِمَامِ الشَّاكِرِيْنَ وَ سَيِّدِ الْحَامِدِيْنَ وَ اَجْمَلِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ وَ اَعَزِّ خَلْقِ اللهِ اَجْمَعِيْنَ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السِّرِّ الْمُقَدَّسِ الْمَصُوْنِ، اَلْعَارِفِ بِسِرِّ كِتَابِ اللهِ الْمَكْنُوْنِ الَّذِىْ {لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ} اَلْعَالِمِ بِمَعَانِى الْحُرُوْفِ الْقُرْآنِيَّةِ وَ الْعَارِفِ بِاَسْرَارِ الْاٰيَاتِ الْفُرْقَانِيَّةِ كَافِ كِفَايَتِنَا، هَآءِ هِدَايَتِنَا، يَآءِ يُسْرِنَا، عَيْنِ عِزِّنَا، صَادِ صِرَاطِنَا، حَآءِ الْحَقِّ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ عَيْنِ الْعِزِّ وَ سِيْنِ السِّرِّ وَ قَافِ الْقَهْرِ الَّذِىْ اخْتَصَّهُ اللهُ بِقَوْلِهٖ {وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ}۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَيِّدِنَا آدَمَ وَ اُمِّنَا حَوَّآءَ وَ سَيِّدِنَا نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ الْيَسَعَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ اَيُّوْبَ وَ سُلَيْمَانَ وَ دَاوٗدَ وَ اِدْرِيْسَ وَ هُوْدٍ وَّ صَالِحٍ وَ لُوْطٍ وَّ شُعَيْبَ وَّ ذِى الْكِفْلِ وَ اِلْيَاسَ وَ يُوْسُفَ وَ هَارُوْنَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَاةً تَصِلُ اِلَيْهِمْ اَيْنَمَا كَانُوْا وَ كَانَتْ اَجْدَاثُهُمْ، وَ اَيْنَمَا حَلُّوْا وَ حَلَّتْ اَرْوَاحُهُمْ، صَلَاةً مُّرَوَّحَةً بِرُوْحِ رَيْحَانِ اِحْسَانِ فَضْلِكَ دَآئِمَةً بِدَيْمُوْمِيَّةِ جُوْدِكَ وَ لُطْفِكَ لَا حَصْرَ لَهَا فِى الْاَعْدَادِ وَلَا يُحِيْطُ بِكُنْهِهَا فَرْدٌ مِّنَ الْاَفْرَادِ تَفُوْقُ الْاَعْدَادَ وَ مَا فَوْقَهَا وَ الْاَشْيَآءَ وَ مَا بَعْدَهَا۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّتَنَسَّمُ مِنْ طِيْبِ اَرِيْجِ نَسِيْمِ رِيَاضِهَا الرَّوْحَ وَ الرَّيْحَانَ وَ تُشِعُّ عَلٰى اَرْوَاحِنَا مِنْ صَفَآءِ وَفَآءِ وِدَادِهَا نُوْرِ الْعِرْفَانِ وَ تَنْسَابُ عَلٰى هَيَاكِلِنَا مِنْ سَحَآئِبِ فَوَآئِدِ عَوَآئِدِهَا قُوَّةَ الْاِيْمَانِ وَ تُضْفِىْ بِهَا عَلٰى قُلُوْبِنَا مِنْ خَصَآئِصِ نَفَآئِسِ مَكَارِمِهَا رَاحَةَ الْقَلْبِ وَ صِحَّةَ الْاَبْدَانِ، وَ تُطَهِّرُ بِهَا نُفُوْسَنَا مِنْ عَوَآئِقِ شَوَآئِبِ النَّقْصِ وَ الْحِرْمَانِ صَلَاةً لَّا يَخْلُوْ مِنْهَا زَمَانٌ وَّلَا مَكَانٌ مُّتَوَّجَةً بِتَاجِ الْعِزِّ وَ الْكَرَامَةِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ {تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِىْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ} {دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ آخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

صَلَوَاتُ الْكَوَاكِبِ النَّيِّرَاتِ

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَوْصُوْفِ بِخَيْرِ النُّعُوْتِ وَ الْاَسْمَآءِ۔

61 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دُرَّةِ تَاجِ الْحَيَآءِ وَجَوْهَرَةِ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّآءِ۔

62 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الْعِلْمِ الزَّاخِرِ بِيَنَابِيْعِ الْحِكْمَةِ وَالذَّكَآءِ۔

63 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَطَعَتْ شَمْسُ السَّمَآءِ فِيْ سَآئِرِ الْاَرْجَآءِ۔

64 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَبَحَتِ الْاَرْوَاحُ فِيْ مَيَادِيْنِ الصَّفَآءِ۔

65 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطَرَاتِ الْاَمْطَارِ وَذَرَّاتِ الْهَوَآءِ۔

66 وَصَلِّ عَلٰى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاكْفِنَا شَرَّ الْمَعْصِيَةِ وَالرِّيَآءِ۔

67 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ عَدَدَ تَنَفُّسِ الْاَرْوَاحِ وَتَسْبِيْحِ مَلَآئِكَةِ السَّمَآءِ وَعَدَدَ حَرَكَاتِ الْكَوَاكِبِ فِيْ فَسِيْحِ الْفَضَآءِ۔

68 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ اللّٰهِ وَضُحٰهَا۔

69 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَمَرِ السَّمَآءِ اِذَا تَلَاهَا۔

70 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ النَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا۔

71 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَّا اَزْكَاهَا وَاَحْلَاهَا۔

72 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَالِيَةً فِيْ ضِيَآءٍ وَّسَنَاهَا۔

73 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً كَامِلَةً لَّا يُدْرَكُ عُلَاهَا۔

74 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ صَلَاةً مُّسْتَمِرَّةً لَّا مُنْتَهٰى لِمَدَاهَا۔

75 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ظَهَرَتْ مَعَانِي الْقُرْآنِ بِالْاِفْصَاحِ وَالْاِعْرَابِ۔

76 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسْقِنَا مِنْ كَوْثَرِ حُبِّهٖ عَذْبَ الشَّرَابِ۔

77 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاحْفَظْ قُلُوْبَنَا مِنَ الشَّكِّ وَالْاِرْتِيَابِ۔

78 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَرِيْمِ الرِّحَابِ عَظِيْمِ الْجَنَابِ۔

79 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلْجَئِنَا الْاَكْبَرِ يَوْمَ الْحِسَابِ۔

80 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَصٰى وَالثَّرٰى وَالرَّمْلِ وَذَرَّاتِ التُّرَابِ۔

81 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ مَدَى الدُّهُوْرِ وَالْعُصُوْرِ وَالْاَحْقَابِ وَارْفَعْ عَنْ قُلُوْبِنَا الظُّلْمَةَ وَالْحِجَابَ۔

82 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي اسْتَمَدَّتْ مِنْ نُّوْرِ وَجْهِهِ الْجَمِيْلِ جَمِيْعُ الْكَوَاكِبِ النَّيِّرَاتِ۔

83 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّجَايَا الْكَامِلَاتِ وَالْخِلَالِ الْفَاضِلَاتِ۔

84 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَوْحَةِ التَّقْوٰى الظَّلِيْلَةِ فِيْ رِيَاضِ الطَّاعَاتِ۔

85 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَهْجَةِ الدُّنْيَا وَرَحْمَةِ الْمَوْجُوْدَاتِ۔

86 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُحَيَّا لَيْلَةَ الْاِسْرَآءِ بِاَكْمَلِ التَّحِيَّاتِ۔

87 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَابِ الْخَيْرَاتِ وَمِفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ۔

88 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ فَلَكِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ۔

89 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ صَلَاةً تَزِنُ الْاَرَضِيْنَ وَالسَّمٰوَاتِ وَتَعُمُّ بَرَكَاتُهَا جَمِيْعَ الْمَخْلُوْقَاتِ۔

90 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الْخَاتَمِ الْوَارِثِ۔

91 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَوْثِ الْعَالَمِيْنَ مِنَ الْهُمُوْمِ وَالْكَوَارِثِ۔

92 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّوْضَةِ الْاُنْسِ الْعِلْمِيَّةِ وَغَايَةِ كُلِّ جَآدٍّ وَّبَاحِثٍ۔

93 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَبَتَ نَبَاتٌ وَّحَرَثَ حَارِثٌ۔

94 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ ذَوِى الْاَخْلَاقِ الْكَرِيْمَةِ الدَّوَامِثِ مَآ اَشْرَقَ نُوْرُهُمْ فَكَانَ لِلْقُلُوْبِ خَيْرُ بَاعِثٍ۔

95 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ۔

96 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُوَّةِ الْحَقِّ الظَّاهِرَةِ فِيْ جَمِيْعِ الْفِجَاجِ۔

97 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّحِيْطِ الْعَظَمَةِ الْمُتَلَاطِمِ بِالْاَمْوَاجِ۔

98 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاجْعَلْ لَّنَا بِبَرَكَتِهٖ مَخْلَصًا مِّنَ الْهَمِّ عَظِيْمِ الْاِنْفِرَاجِ۔

99 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى جَمِيْعِ الْآلِ وَالْاَصْحَابِ وَالْاَزْوَاجِ۔

100 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ وَالْجَبِيْنِ الْوَضَّاحِ۔

101 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عِمَادِ الْمُلْكِ لِعَوَالِمِ الْاَسْرَارِ وَالْاَرْوَاحِ۔

102 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَجْرِ الرَّشَادِ وَنُوْرِ الصَّبَاحِ۔

103 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ بَصَآئِرِ الْوَاصِلِيْنَ اِلٰى حَضْرَةِ الْكَرِيْمِ الْفَتَّاحِ۔

104 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ السَّمَاحِ وَيَاقُوْتَةِ الْفَلَاحِ وَجَوْهَرِ الصَّلَاحِ۔

105 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اَهْلِ الْوَرَعِ وَالنَّجَاحِ وَالْفَلَاحِ۔

106 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَرْعُهٗ لِجَمِيْعِ الشَّرَآئِعِ نَاسِخٌ۔

107 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الْكُبْرٰى وَالنِّعْمَةِ الْعُظْمٰى لِأَهْلِ الْبَرْزَخِ۔

108 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَدْرِ الرَّجِيحِ وَالْعِزِّ الْكَبِيْرِ الشَّامِخِ۔

109 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمَجْدِ الْاَثِيْلِ وَالشَّرَفِ الرَّفِيْعِ الْبَاذِخِ۔

110 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ عَدَدَ الْاَبْعَادِ وَالْاَمْيَالِ وَالْفَرَاسِخِ وَعَدَدَ ثِقْلِ الْجِبَالِ الشَّوَامِخِ۔

111 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ الْقَلْبِ وَشِفَآءِ الصَّدْرِ وَعَيْنِ الْفُؤَادِ۔

112 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اُوْتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاَفْصَحِ مَنْ نَّطَقَ بِالضَّادِ۔

113 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى وَالنِّعْمَةِ الْعُظْمٰى لِلْمُعْتَبِرِيْنَ مِنَ الْعِبَادِ۔

114 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِىْ بِاللهِ اِلَى اللهِ غَايَةَ الْقَصْدِ وَالْمُرَادِ۔

115 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَنْ تَزَوَّدَ مِنَ التَّقْوٰى بِخَيْرِ زَادٍ۔

116 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اَهْلِ التَّوْفِيْقِ وَالسَّدَادِ وَالرَّشَادِ صَلَاةً لَّيْسَ لَهَا زَوَالٌ وَّلَا نَفَادٌ دَآئِمَةً اِلٰى يَوْمِ الْحَشْرِ وَالتَّنَادِ۔

117 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ لِمَنِ الْتَجَأَ وَاسْتَعَاذَ۔

118 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِّعْمَ الْغَوْثُ وَنِعْمَ الْغَيْثُ وَنِعْمَ الْمَعَاذُ۔

119 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيِّدِ الْحَبِيْبِ السَّنَدِ الْمُجِيْبِ الْمَلْجَأِ الْمَلَاذِ۔

120 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاحْفَظْنَا بِبَرَكَتِهِمْ مِّنْ كُلِّ فَظٍّ وَّشَاذٍّ۔

121 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكَمَالِ وَالْبَهَآءِ وَالْوَقَارِ۔

122 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَّا تُحِيْطُ بِعَظَمَتِهَا الْاَفْكَارُ۔

123 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ الرِّيَاضِ وَنَفْحِ الْاَزْهَارِ۔

124 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حَفِيْفِ الْاَشْجَارِ وَخَرِيْرِ مَآءِ الْبِحَارِ۔

125 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَرَّدَتِ الْاَطْيَارُ وَهَبَّتْ نَسَمَاتُ الْاَسْحَارِ۔

126 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ السَّادَةِ الْاَخْيَارِ۔

127 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الصِّدْقِ وَرَسُوْلِ الْحَقِّ وَالْاِنْجَازِ۔

128 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَافَ طَآئِفٌ بِمَكَّةَ وَزَارَ مُؤْمِنٌ اَرْضَ الْحِجَازِ۔

129 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ نَبِيٍّ مُّخْتَارٍ وَّرَسُوْلٍ مُّمْتَازٍ۔

130 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا النَّجَاةَ وَالْمَفَازَ۔

131 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ النَّبِيِّيْنَ اَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ خَيْرِ النَّاسِ۔

132 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْخَطَرَاتِ وَالْاَنْفَاسِ۔

133 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْلِ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ وَالْعَدْلِ وَالْاِيْنَاسِ۔

134 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّقِنَا شَرَّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔

135 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاحْفَظْنَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔

136 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْقُوَّةِ وَالشُّجَاعَةِ وَالْبَأْسِ۔

137 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ مِنَ الدَّنَسِ وَالْاَرْجَاسِ الْمَحْفُوْظِيْنَ مِنَ الْمَعَاصِىْ وَالْاَدْنَاسِ۔

138 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَهْلِ الْاَخْلَاقِ طَيِّبِ الْمَعَاشِ۔

139 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْ كُلِّ خَائِنٍ وَّغَاشٍّ۔

140 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُبَرَّأِ مِنَ الْخِصَامِ وَالنِّزَاعِ وَالنِّقَاشِ۔

141 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالزَّاهِدِ عَمَّا فِى الدُّنْيَا مِنْ مَّتَاعٍ وَّرِيَاشٍ۔

142 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰنِسْنَا بِهٖ مِنَ الْبُعْدِ وَالْاِيْحَاشِ۔

143 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْهَآشِّ الْبَآشِّ۔

144 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَآئِمٍ وَّقَاعِدٍ وَّمَاشٍ۔

145 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ الَّذِيْنَ تَجَافَتْ جُنُوْبُهُمْ لِلّٰهِ عَنِ الْمَضَاجِعِ وَالْفِرَاشِ۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زُمُرَّدَةِ الْاَوَّلِ وَيَاقُوْتَةِ الْاَبَدِ جَمْعِ الْجَمْعِ فِىْ مَقَامِ الْفَرْدِ مَظْهَرِ الْحَقِّ وَمَعْدَنِ الصِّدْقِ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِجَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ وَسَلِّمْ بِكَافَّةِ التَّسْلِيْمَاتِ وَبَارِكْ بِاَوْفَرِ الْبَرَكَاتِ عَلٰى سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَالِى الْقَدْرِ فَخْرِ الْاَنْبِيَآءِ صَلَاةً تَشْفِيْنِىْ بِهَا مِنْ اَمْرَاضِىْ وَاَسْقَامِىْ وَتَحْفَظُنِىْ بِهَا مِنْ خَلْفِىْ وَاَمَامِىْ وَتَغْفِرَلِىْ بِهَا ذُنُوْبِىْ وَآثَامِىْ وَتَصْرِفُ بِهَا عَنِّىْ هُمُوْمِىْ وَاَحْزَانِىْ وَاَرَاهُ فِىْ يَقْظَتِىْ وَمَنَامِىْ وَتُسْعِدُنِىْ بِهَا فِىْ حَيَاتِىْ وَتُكْرِمُنِىْ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِىْ صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ اُمُوْرِ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ يَا قُدُّوْسُ يَا سَلَامُ بَلِّغْ عَنَّا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا مِنَّا السَّلَامَ۔

168 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ ذَوِى الْبَصَآئِرِ الْمُنِيْرَةِ وَالْقُلُوْبِ الْيَوَاقِظِ۔

169 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْمُنِيْرِ وَالْجَمَالِ الرَّآئِعِ۔

170 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُطِيْعِ لِرَبِّهٖ الْمُنِيْبِ الْخَاشِعِ۔

171 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الطَّآئِعِ وَالرَّسُوْلِ الشَّافِعِ۔

172 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْغَيْثِ الْهَامِعِ وَالنُّوْرِ اللَّامِعِ۔

173 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَبَتِّلِ الْمُتَهَجِّدِ السَّاجِدِ الرَّاكِعِ۔

174 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُجَّةِ الدَّامِغَةِ وَالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ۔

175 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ الَّذِيْنَ كَانَتْ جُنُوْبُهُمْ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَتَجَافٰى عَنِ الْمَضَاجِعِ۔

176 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَسْبَغْتَ عَلَيْهِ نِعَمَكَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ كُلَّ الْاِسْبَاغِ۔

177 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَلَّغَ عَنِ اللّٰهِ اَجْمَعَ وَاَشْمَلَ وَاَكْمَلَ بَلَاغٍ۔

178 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ الْمَسْلُوْلِ عَلٰى كُلِّ طَاغٍ وَّبَاغٍ۔

179 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَلَأْتَ صَدْرَهٗ بِالْحِكْمَةِ وَاَفْرَغْتَهَا فِيْهِ كُلَّ الْاِفْرَاغِ۔

180 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبَرَّأِ مِنَ الدَّعَةِ وَالْكَسَلِ وَالْفَرَاغِ۔

181 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِهٖ مَشْرَبًا رَّوِيًّا طَيِّبَ الْمَسَاغِ۔

182 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَ بِالنُّوْرِ وَالْهُدٰى وَالْعَدْلِ وَالْاِنْصَافِ۔

183 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَمَعَ اللّٰهُ بِهِ الْقُلُوْبَ وَطَهَّرَهَا مِنَ الْخِلَافِ۔

184 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَصَمَهُ اللّٰهُ وَنَجَّاهُ مِمَّا يَخَافُ۔

185 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّفِيْعِ لِاَهْلِ الذُّنُوْبِ وَالتَّفْرِيْطِ وَالْاِسْرَافِ۔

186 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اَصْحَابِ الشَّمَآئِلِ الطَّيِّبَةِ وَالْخِصَالِ الظِّرَافِ۔

187 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَامِي السَّجَايَا السَّامِيَةِ عَظِيْمِ الْاَخْلَاقِ۔

188 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ الْمَطَالِعِ الْاِلٰهِيَّةِ عَلَى الْاِطْلَاقِ۔

189 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عُرِجَ بِهٖ حَتّٰى اخْتَرَقَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ۔

148 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ فِيْ جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ كُلِّهَا صَلَاةً دَائِمَةً مِّنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ مُسْتَمِرَّةً لَّا تُرَدُّ وَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحَدُّ صَلَاةً تُرَدِّدُهَا مَلَائِكَةُ السَّمٰوَاتِ الْعَلِيَّةِ وَ تَتَجَاوَبُ بِهَا الْاَرْوَاحُ فِيْ عَوَالِمِهَا الْبَرْزَخِيَّةِ وَ عَلٰى اٰلِ بَيْتِكَ وَ اَصْحَابِكَ وَ اَزْوَاجِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ اُمَّتِكَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

صَلَوَاتُ مَشْرِقِ الْاَنْوَارِ

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَوَّجِ بِتَاجِ الْمَحَبَّةِ وَالْاِخْلَاصِ.

150 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّهَذِّبِ الْبَشَرِ بِالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ.

151 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّفِيْعِ لِلْمُذْنِبِيْنَ وَالرَّحْمَةِ لِكُلِّ عَاصٍ.

152 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ اَهْلِ الْمَحَبَّةِ وَالْاِخْتِصَاصِ.

153 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ ابْتِسَامِ الزَّهْرِ فِي الرِّيَاضِ.

154 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْفَيَّاضِ.

155 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُجَاهِدِ لِاَهْلِ الْكُفْرِ وَالْاِعْتِرَاضِ.

156 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْبِشْرِ الدَّائِمِ بِلَا انْقِبَاضٍ.

157 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ صَلَاةً لَّا حَصْرَ لَهَا وَلَا انْقِضَاضَ.

158 وَصَلِّ عَلٰى مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُرْتَبِطِ بِمَوْلَاهُ بِاَوْثَقِ رِبَاطٍ.

159 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَفَدَةِ وَ الْاَسْبَاطِ.

160 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلنَّاسِ بِلَا تَفْرِيْطٍ وَّلَا اِفْرَاطٍ.

161 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجِدِّ فِيْ طَاعَتِكَ وَ الْاِجْتِهَادِ وَ النَّشَاطِ.

162 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُغْتَبِطِ بِجَنَابِكَ الْعَالِيْ كُلَّ الْاِغْتِبَاطِ.

163 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اهْدِنَا بِهَدْيِهٖ اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.

164 وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهِ الْمَحْفُوْظِيْنَ بِبَرَكَتِهٖ مِنَ الْاَخْطَاءِ وَ الْاَغْلَاطِ.

165 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَّ لَافِظٍ.

166 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْقَلْبِ الْوَاعِيْ وَ الْجَنَانِ الْحَافِظِ.

167 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ اُوْتِيَ الْحِكْمَةَ وَ الْمَوَاعِظَ.

168 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ ذَوِى الْبَصَآئِرِ الْمُنِيْرَةِ وَالْقُلُوْبِ الْيَوَاقِظِ۔

169 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْمُنِيْرِ وَالْجَمَالِ الرَّآئِعِ۔

170 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُطِيْعِ لِرَبِّهِ الْمُنِيْبِ الْخَاشِعِ۔

171 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الطَّآئِعِ وَالرَّسُوْلِ الشَّافِعِ۔

172 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْغَيْثِ الْهَامِعِ وَالنُّوْرِ اللَّامِعِ۔

173 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُتَبَتِّلِ الْمُتَهَجِّدِ السَّاجِدِ الرَّاكِعِ۔

174 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُجَّةِ الدَّامِغَةِ وَالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ۔

175 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ الَّذِيْنَ كَانَتْ جُنُوْبُهُمْ فِىْ طَاعَةِ اللهِ تَتَجَافٰى عَنِ الْمَضَاجِعِ۔

176 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَسْبَغَتْ عَلَيْهِ نِعَمَكَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ كُلَّ الْاِسْبَاغِ۔

177 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ بَلَّغَ عَنِ اللهِ اَجْمَعَ وَاَشْمَلَ وَاَكْمَلَ بَلَاغٍ۔

178 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللهِ الْمَسْلُوْلِ عَلٰى كُلِّ طَاغٍ وَّبَاغٍ۔

179 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مَلَأْتَ صَدْرَهٗ بِالْحِكْمَةِ وَاَفْرَغْتَهَا فِيْهِ كُلَّ الْاِفْرَاغِ۔

180 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُبَرَّأِ مِنَ الدَّعَةِ وَالْكَسَلِ وَالْفَرَاغِ۔

181 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِهٖ مَشْرَبًا رَّوِيًّا طَيِّبَ الْمَسَاغِ۔

182 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَآءَ بِالنُّوْرِ وَالْهُدٰى وَالْعَدْلِ وَالْاِنْصَافِ۔

183 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَمَعَ اللهُ بِهِ الْقُلُوْبَ وَطَهَّرَهَا مِنَ الْخِلَافِ۔

184 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ عَصَمَهُ اللهُ وَنَجَّاهُ مِمَّا يَخَافُ۔

185 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الشَّفِيْعِ لِاَهْلِ الذُّنُوْبِ وَالتَّفْرِيْطِ وَالْاِسْرَافِ۔

186 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اَصْحَابِ الشَّمَآئِلِ الطَّيِّبَةِ وَالْخِصَالِ الظِّرَافِ۔

187 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَامِي السَّجَايَا السَّامِيَةِ عَظِيْمِ الْاَخْلَاقِ۔

188 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ الْمَطَالِعِ الْاِلٰهِيَّةِ عَلَى الْاِطْلَاقِ۔

189 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ عُرِجَ بِهٖ حَتّٰى اخْتَرَقَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ۔

190 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ آيَةِ اللهِ الْكُبْرٰى فِيْ جَمِيْعِ الْآفَاقِ۔

191 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ الْمُحَافِظِيْنَ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ۔

192 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّشْرِقِ الْاَنْوَارِ قُطْبِ دَآئِرَةِ الْاَفْلَاكِ۔

193 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِرِعَايَتِكَ وَعِنَايَتِكَ وَهُدَاكَ۔

194 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَفَانِيْ فِيْكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

195 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ خَدَمَتْهُ الْاَفْلَاكُ وَحَرَسَتْهُ الْاَمْلَاكُ۔

196 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَافِيْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَرَحِيْقِ حُمَيَّاكَ۔

197 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَسْعَدْتَّهٗ بِرِضَاكَ وَحَصَّنْتَهٗ بِحِمَاكَ۔

198 وَصَلِّ عَلٰى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اَهْلِ الْاَيَادِي الْكَرِيْمَةِ عَلَى الْوَرٰى وَبَحْرِ نَدَاكَ۔

199 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْقَةِ الْوُجُوْدِ بَاهِي الْجَمَالِ۔

200 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حِصْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْآفَاتِ وَالْاَهْوَالِ۔

201 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْلِصِ الْاَمِيْنِ تَاجِ الشَّرَفِ وَالْكَمَالِ۔

202 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الظِّلِّ الظَّلِيْلِ الْوَارِفِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالسُّؤَالِ۔

203 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيَّدِ فِي الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ۔

204 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَقْوَاتِ وَالْاَرْزَاقِ وَالْآجَالِ۔

205 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ الَّذِيْنَ تَحَلَّوْا بِاَعْظَمِ الْفَضَآئِلِ وَاَكْمَلِ الْخِصَالِ۔

206 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلَاذِ الْاَنَامِ حِصْنِ الْاِسْلَامِ۔

207 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَوِيِّ الشَّدِيْدِ الشُّجَاعِ الْهُمَامِ۔

208 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبِيْرِ الزَّهْرِ فِي الْاَكْمَامِ۔

209 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْمَعَارِفِ الطَّالِعَةِ بَدْرِ هِدَايَةِ الْاَنَامِ۔

210 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّصْدَرِ الْاِحْسَانِ وَالْاِكْرَامِ۔

211 وَصَلِّ عَلٰى مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ بِمِسْكِ الْخِتَامِ۔

212 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهِ الْهَآئِمِيْنَ فِي اللهِ اَشَدَّ الْهِيَامِ۔

213 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحُكَّامِ الْعَادِلِيْنَ الْآمِرِ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ۔

214 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّابِطِ الْجَأْشِ ثَابِتِ الْجَنَانِ۔

215 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَلِیْلِ کُلِّ ضَالٍّ وَّ حَیْرَانَ۔

216 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا قُدْسِیَّةً فِی النَّفْسِ وَ صِحَّةً فِی الْاَبْدَانِ وَ نُوْرًا فِی الْبَصَرِ وَ رِقَّةً فِی الْوِجْدَانِ وَ قُوَّةً فِی السَّمْعِ وَ ضِیَآءً تَکْتَحِلُ بِهِ الْعَیْنَانِ وَ طَهَارَةً فِی الْقَلْبِ وَ عِفَّةً فِی اللِّسَانِ۔

217 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاِیْمَانِ وَ فَیْضِ الْاِحْسَانِ۔

218 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ هَدَی اللّٰهُ بِهِ الْعَوَالِمَ مِنْ اِنْسٍ وَّ جَانٍّ۔

219 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ صَلَاةً دَآئِمَةً مَّدَی الدُّهُوْرِ وَ الْعُصُوْرِ وَ الْاَزْمَانِ۔

220 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ حَارَتْ عُقُوْلُ الْوَرٰی فِیْ فَهْمِ مَعْنَاهُ۔

221 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

222 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَظِیْمِ الْقَدْرِ وَ الْجَاهِ۔

223 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْمَعْنَا بِهٖ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا وَّ مَتِّعْنَا بِمَرْاٰهُ۔

224 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الشَّفَاعَةَ وَ بَلِّغْهُ جَمِیْعَ مَا یُحِبُّهٗ وَ یَرْضَاهُ۔

225 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَةَ السَّامِیَةَ وَ بَلِّغْهُ مُبْتَغَاهُ۔

226 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الشَّفَاعَةَ وَ الْوَسِیْلَةَ وَ اَکْرِمْ لَدَیْكَ مَثْوَاهُ۔

227 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ صَلَاةً دَآئِمَةً تَقَرُّ بِهَا عَیْنَاهُ۔

228 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِیْمِ ذِی الشَّفَقَةِ وَ الْحُنُوِّ۔

229 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِی الْقَدْرِ الْعَلِیِّ صَاحِبِ الْهَیْبَةِ وَ السُّمُوِّ۔

230 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِیْبِ اللّٰهِ صَاحِبِ الْقُرْبِ وَ الدُّنُوِّ۔

231 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَامِعِ اَهْلِ الضَّلَالِ وَ الْعُتُوِّ۔

232 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْاَرْفَعِ الْحَآئِزِ لِکُلِّ رِفْعَةٍ وَّ عُلُوٍّ۔

233 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهِ الَّذِیْنَ بِهِمْ نَنَالُ کُلَّ مَرْغُوْبٍ وَّ مَرْجُوٍّ۔

234 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الرَّسُوْلِ الْاَمِیْنِ الصَّادِقِ الْوَفِیِّ۔

235 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَکْرَمِ الْکُرَمَآءِ اِمَامِ کُلِّ رَسُوْلٍ وَّ نَبِیٍّ۔

236 وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ ارْحَمْ بِفَضْلِكَ وَالِدَیَّ۔

237 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاحْفَظْنِيْ مِنَ الْبَلَآءِ وَانْشُرْ وِقَايَتَكَ عَلَيَّ۔

238 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْهَاشِمِيِّ۔

239 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّصِلَةِ كُلِّ عَارِفٍ وَّوَلِيٍّ۔

240 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاِيْمَانِ الْقَوِيِّ۔

241 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّنَجِّنَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ ظَاهِرٍ اَوْ خَفِيٍّ۔

242 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّثَبِّتْنَا عَلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ السَّوِيِّ۔

243 وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ ذَوِي الْعِزِّ الشَّامِخِ وَالنُّوْرِ الْبَهِيِّ۔

244 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّشْهَدِ الْجَمَالِ فِيْ صُوْرَةِ كُلِّ مَشْهُوْدٍ وَّعَيْنِ الْوِصَالِ الدَّآلِّ عَلَى الْحَقِّ الْمَعْبُوْدِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اَهْلِ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ وَالْجُوْدِ۔

245 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَّمْعَةِ التَّدَلِّيْ وَسِرِّ التَّجَلِّيْ اِمَامِ الْاَنْبِيَآءِ وَمِصْبَاحِ الْيَقِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَاَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْهَادِيْ لِاَنْوَارِكَ الْجَامِعِ لِاَسْرَارِكَ الدَّآلِّ الْمُوْصِلِ اِلَيْكَ صَلَاةً تَنْفَرِجُ بِهَا كُلَّ ضِيْقٍ وَّتَعْسِيْرٍ وَّنَنَالُ بِهَا كُلَّ خَيْرٍ وَّتَيْسِيْرٍ وَّتَشْفِيْنَا مِنَ الْاَوْجَاعِ وَالْاَسْقَامِ وَتُخَلِّصُنَا مِنَ الْمَخَاوِفِ وَالْاَوْهَامِ وَتَحْفَظُنَا فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ وَتُنْجِيْنَا مِنْ نَّوَآئِبِ الدَّهْرِ وَمَتَاعِبِ الْاَيَّامِ وَعَلٰى اٰلِهٖ هُدَاةِ الْاِسْلَامِ وَاَصْحَابِهِ السَّادَةِ الْاَعْلَامِ وَاَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ الْكِرَامِ وَاجْمَعْنَا عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا فِيْ اَعْلٰى مَقَامٍ وَّارْزُقْنَا يَا مَوْلَانَا فِيْ جِوَارِهٖ حُسْنَ الْخِتَامِ۔

صَلَوَاتُ مُنَاجَاةِ الْحَضْرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

247 اَلصَّلَوَاتُ الزَّاهِرَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ الْعَاطِرَاتُ وَالتَّحِيَّاتُ الْكَامِلَاتُ وَالْبَرَكَاتُ الْمُتَوَالِيَاتُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا خَاتَمَ الْاَنْبِيَآءِ يَا قُدْوَةَ الْاَصْفِيَآءِ يَا سَيِّدَ الْاَتْقِيَآءِ يَا اَكْرَمَ اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ۔

248 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ الْحَقِّ الَّذِيْ بَرَزَ مِنْ عَالَمِ الْخَفَآءِ اِلٰى عَالَمِ الظُّهُوْرِ وَالْاِرْتِقَآءِ فَكَانَ اٰدَمُ قَبَسًا مِّنْ هٰذَا الضِّيَآءِ۔

249 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفَآءَ كُلِّ شَيْءٍ وَّحَقِيْقَتَهُ الْمَعْنَوِيَّةَ يَا نَاسُوْتَ الْحَيَاةِ السَّارِيَةِ فِيْ تِلْكَ الرَّقَآئِقِ اللَّاهُوْتِيَّةِ يَا يَنْبُوْعَ الْفَيْضِ الْوَاصِلِ لِلْمَدَارِكِ الْاِنْسَانِيَّةِ يَا شَرَابَ الشَّوْقِ لِلْمَشَاعِرِ الْوُجْدَانِيَّةِ۔

250 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللهِ اَنْتَ الْاَوَّلُ نُوْرًا فِي الْعَالَمِيْنَ وَالْاٰخِرُ ظُهُوْرًا فِي الْمُرْسَلِيْنَ وَالظَّاهِرُ شُهُوْدًا فِي النَّبِيِّيْنَ وَالسَّابِقُ بِالشَّرِيْعَةِ وَالدِّيْنِ وَالْبَاطِنُ بِالْحَقِيْقَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالْحَافِظُ عُهُوْدًا لِّمَوَاثِيْقِ

الرِّسَالَةِ وَ التَّبْيِيْنِ۔

251 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِشْكَاةَ مِصْبَاحِ اَنْوَارِ التَّوْحِيْدِ يَا هَالَةَ الْإِبْدَاعِ وَ التَّفْرِيْدِ يَا كَامِلَ عَوَارِفِ التَّحْمِيْدِ وَ التَّمْجِيْدِ يَا ذِكْرَ نَفَائِسِ الْمَوَاعِظِ لِمَنْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ۔

252 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَوْثَرَ الْبَرَكَاتِ يَا غَيْثَ الْخَيْرَاتِ يَا مَطْلَعَ التَّجَلِّيَاتِ يَا مَشْرِقَ السَّعَادَاتِ۔

253 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَا الْاَنْوَارِ السَّاطِعَةِ وَ الْإِشْرَاقَاتِ اللَّامِعَةِ وَ الْفُيُوْضَاتِ الْهَامِعَةِ وَ الْحَسَنَاتِ الْجَامِعَةِ۔

254 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بِكَ ارْتَقَتِ الْاَرْوَاحُ إِلَى الْمَعَانِي الْعِرْفَانِيَّةِ وَ تَحَقَّقَتْ بِوُجُوْدِ شُهُوْدِ سُعُوْدِكَ الْمَلَائِكَةُ النُّوْرَانِيَّةُ وَ اسْتَنَارَتْ بِنُوْرِ نَيِّرَاتِ شَمْسِ بَهَائِكَ الْاَفْلَاكُ الْعُلْوِيَّةُ وَ اسْتَمَدَّ مِنْ مَدَدِ فُيُوْضَاتِكَ جَمِيْعُ الْمَخْلُوْقَاتِ الْكَوْنِيَّةِ۔

255 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَيْكَلَ الْاَنْوَارِ اللَّامِعَةِ الْعَرْشِيَّةِ يَا سَمَاحَةَ الْإِينَاسِ فِي الْمَعَارِجِ الْقُدْسِيَّةِ يَا رَحِيْقَ الْهَنَاءِ لِإِرْتِوَاءِ النُّفُوْسِ الْبَشَرِيَّةِ يَا ذَوْقَ الْاَحَاسِيْسِ وَ مَظْهَرَهَا فِيْ اَسْمٰى مَعَانِيْهَا الرُّوْحِيَّةِ يَا مِثَالَ الْمَحَبَّةِ الَّتِي اتَّسَمَتْ بِصِفَاتِ الْجَمَالِ الْكَمَالِيَّةِ۔

256 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَسِيْمَ الْحَيَاةِ يَا شَمْسَ الْاَكْوَانِ يَا رَحْمَةَ اللهِ فِيْ صُوْرَةِ إِنْسَانٍ يَا سَمَاءَ الْغُيُوْبِ يَا يَقَظَةَ الْوُجْدَانِ يَا طَهَارَةَ الْقُلُوْبِ يَا جَزَاءَ الْإِحْسَانِ يَا عَقْلَ الْكَوْنِ يَا ضَمِيْرَ الزَّمَانِ يَا رِقَّةَ الشُّعُوْرِ يَا وَحْيَ الْبَيَانِ يَا حَاسَّةَ الْخَيْرِ يَا فَهْمَ الْقُرْاٰنِ يَا جَنَّةَ الرُّوْحِ يَا خُضْرَ الرِّضْوَانِ۔

257 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْوُدِّ وَ الْوِدَادِ يَا ظِلَالَ الرَّحْمَةِ يَا رَفِيْعَ الْعِمَادِ يَا نُوْرَ الْحِكْمَةِ يَا سِرَاجَ الرَّشَادِ يَا اَسَاسَ الْعَدْلِ يَا رَحْمَةَ الْعِبَادِ۔

258 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ لَّا تُدْرِكُ الْعُقُوْلُ عَظَمَتَكَ إِحَاطَةً وَّ تَقْدِيْرًا يَا مَنْ مَّلَأْتَ فَضَاءَ الْوُجُوْدِ إِشْرَاقًا وَّ تَنْوِيْرًا يَا قَطْرَ النَّدٰى عَلٰى شَجَرَةِ الْحَيَاةِ الَّتِيْ طَهَّرَ اللهُ بِهَا الْعِبَادَ تَطْهِيْرًا { يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا }۔

259 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَرْزَخَ الْاَزَلِيَّاتِ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْمَخْلُوْقَاتِ يَا حِصْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الشَّدَائِدِ وَ الْاَزَمَاتِ يَا عَظَمَةَ الْاَسْرَارِ السَّارِيَةِ فِيْ قَوَابِلِ الْكَمَالَاتِ۔

260 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللهِ وَ إِكْرَامَهٗ يَا نِعْمَةَ اللهِ وَ إِحْسَانَهٗ يَا هِدَايَةَ اللهِ وَ إِنْعَامَهٗ يَا نَفْحَةَ اللهِ وَ إِلْهَامَهٗ يَا مَبْدَأَ الْخَيْرِ وَ نِظَامَهٗ يَا مَظْهَرَ السَّعْدِ وَ خِتَامَهٗ۔

261 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَنْتَ لِلشَّمْسِ بَهَاءٌ وَّ نُوْرٌ وَّ لِلْكَوَاكِبِ رَوْعَةٌ وَّ ظُهُوْرٌ وَّ لِلْحَيَاةِ بَهْجَةٌ وَّ سُرُوْرٌ وَّ لِلْمَاءِ رِيٌّ وَّ طَهُوْرٌ۔

262 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شُعَاعَ نُوْرِ الْيَقِيْنِ يَا عَيْنَ بَصَائِرِ الْعَارِفِيْنَ يَا طَهَارَةَ سَرَائِرِ الْمُوَحِّدِيْنَ يَا

تَبْصِرَةَ الْمُسْتَبْصِرِيْنَ يَا فَرْحَةَ الْمَكْرُوْبِيْنَ يَا سَلْوَةَ الْمَحْزُوْنِيْنَ۔

263 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ الشُّهُوْدِ يَا سَعْدَ السُّعُوْدِ يَا آيَةَ الدَّهْرِ يَا مُعْجِزَةَ الْخُلُوْدِ يَا عَبَاقَةَ الزَّهْرِ يَا بَسْمَةَ الْوُجُوْدِ۔

264 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَبِيْبَ الْقُلُوْبِ يَا شِفَآءَ الْاَجْسَامِ يَا حَيَاةَ النُّفُوْسِ يَا دَوَآءَ الْاَسْقَامِ يَا مَنْ سَبَّحَ فِيْ كَفِّكَ الْحَصٰى وَ الطَّعَامُ وَ نَطَقَ لَكَ الطِّفْلُ قَبْلَ الْفِطَامِ وَ نَسَجَ لَكَ الْعَنْكَبُوْتُ وَبَاضَ الْحَمَامُ وَ مَنْ رَّوِيَتْ بِقَدَحِ اللَّبَنِ الْكَثِيْرِ مِنَ الْاَنَامِ يَا مَنِ انْشَقَّ لَكَ الْقَمَرُ وَ ظَلَّلَكَ الْغَمَامُ۔

265 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْكَ الْاَشْجَارُ وَ شَهِدَتْ بِرِسَالَتِكَ الْاَحْجَارُ وَ حَنَّ لَكَ الْجِذْعُ وَ وَارَاكَ الْغَارُ يَا مَنِ اهْتَزَّتْ مِنْ جَلَالِ نُبُوَّتِكَ شَوَامِخُ الشُّمِّ مِنَ الْجِبَالِ وَ نَبَعَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِكَ الْمَآءُ الزُّلَالُ وَ شَكَا لَكَ الْبَعِيْرُ وَ كَلَّمَتْكَ الظَّبْيَةُ بِاَفْصَحِ مَقَالٍ يَا مَنْ اَثَّرَتْ قَدَمُكَ فِي الصَّخْرِ وَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الرِّمَالِ يَا صَاحِبَ التَّاجِ وَ الْبُرَاقِ وَ الْمِعْرَاجِ يَا نَبِيَّ الْخَيْرِ يَا مَصْدَرَ الْاِفْضَالِ يَا مَنْ رَّأَيْتَ رَبَّكَ لَيْلَةَ الْاِسْرَآءِ فِيْ عَالَمِ الْيَقْظَةِ لَا فِيْ عَالَمِ الْمِثَالِ وَ شَاهَدْتَّ مَوْلَاكَ بِعَيْنِ الْقَلْبِ لَا بِعَيْنِ الْخَيَالِ وَ كَمْ تَحَمَّلْتَ الْاَهْوَالَ وَ تَقَدَّمْتَ الْاَبْطَالَ فِيْ حَوْمَةِ الْقِتَالِ وَ ضَرَبْتَ لِلنَّاسِ الْاُسْوَةَ الْحَسَنَةَ فِي الْاَقْوَالِ وَ الْاَفْعَالِ وَ هٰذَا تَخْصِيْصٌ مِّنَ اللهِ لَكَ فِيْهِ تَكْرِيْمٌ وَّ اِجْلَالٌ وَّلَا اِسْتِحَالَةَ فِيْ ذٰلِكَ فَاللهُ قَادِرٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ فَمُعْجِزَاتُكَ يَعْجِزُ عَنْ وَّصْفِهَا اللِّسَانُ وَ آيَاتُكَ وَاضِحَةُ الْبَيَانِ وَ شَمَآئِلُ فَضْلِكَ بَاقِيَةٌ عَلٰى مَرِّ الزَّمَانِ لِاَنَّكَ دَلِيْلُ الْحَقِّ الْمُشَاهَدُ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَّ مَكَانٍ۔

266 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَرَنَ اللهُ طَاعَتَكَ بِطَاعَتِهٖ { مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ } وَ جَعَلَ مُبَايَعَتَكَ عَيْنَ مُبَايَعَتِهٖ { اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ } وَ اَقْسَمَ بِحَيَاتِكَ فِيْ كِتَابِهِ الْمَكْنُوْنِ { لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ } وَ اَرْسَلَكَ لِلنَّاسِ جَمِيْعًا { يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا } وَّ لَمْ يُعَذِّبْ قَوْمًا اَنْتَ فِيْهِمْ { وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ } وَ جَعَلَكَ عَلٰى كُلِّ الْاُمَمِ شَهِيْدًا { فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ ۢ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا } وَ عَلَّمَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدَبَ الْحَدِيْثِ مَعَكَ { لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } وَّ شَرَّفَكَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ بِمَحَاسِنِ الْاَوْصَافِ وَ مَحَامِدِ التَّكْرِيْمِ { وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ } وَ اَغْنَاكَ اللهُ عَنِ الْحُرَّاسِ { وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } وَ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ رَحْمَةً وَّ رِفْقًا { طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى }۔

267 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْخَلْقِ وَ جَمِيْعِ مَا خَلَقَ اللهُ يَا نِدَآءَ الضَّمِيْرِ نَحْوَ طَاعَةِ اللهِ يَا دَلِيْلَ الْقُلُوْبِ اِلٰى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ۔

268 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَا نُوْرَ الْبَدْرِ يَا مَطْلَعَ الْفَجْرِ يَا اَرِيْجَ الْوَرْدِ يَا عِطْرَ الزَّهْرِ اَنْتَ السُّرُوْرُ وَ الْيُسْرُ وَ الْفَخْرُ وَ الذُّخْرُ وَ الْعَفَافُ وَ الطُّهْرُ وَ الْفَتْحُ وَ النَّصْرُ وَ الْحَمْدُ وَ الشُّكْرُ۔

269 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَنْتَ لِلْعَالَمِيْنَ رَحْمَةٌ وَّ شِفَآءٌ وَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِزٌّ وَّ رَجَآءٌ. هَا نَحْنُ اُوْلَآءِ خُدَّامُكَ الْاَوْفِيَآءُ الْمُتَوَسِّلُوْنَ بِجَنَابِكَ الْمُوْقِنُوْنَ بِاِمْدَادِكَ، اَلْمُتَحَقِّقُوْنَ مِنْ بَرَكَاتِكَ، اَلْوَاقِفُوْنَ عَلٰى اَعْتَابِكَ، طَالِبِيْنَ كَرِيْمَ رِعَايَتِكَ وَ عَظِيْمَ شَفَاعَتِكَ، ذَرَّةٌ مِّنْ مَّدَدِكَ تَكْفِيْنِيْ وَ نَظْرَةٌ مِّنْ كَرَمِكَ تُرْضِيْنِيْ فَمَا نَادَاكَ صَادِقٌ اِلَّا لَبَّيْتَ النِّدَآءَ وَ مَا اسْتَغَاثَ بِكَ مُؤْمِنٌ اِلَى اللهِ اِلَّا زَالَ عَنْهُ الشَّقَآءُ. نَعَمْ يَرَاكَ الْبَصِيْرُ بِعَيْنِ قَلْبِهٖ وَ يَأْتِيْهِ الْفَرَجُ وَ تُشْرِقُ رُوْحُكَ الشَّرِيْفَةُ لِاَحْبَابِكَ عِنْدَ مَا يَشْتَدُّ الْحَرَجُ فَاَنْتَ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى وَ الْمَقَامِ الْاَسْمٰى مَشْرِقُ التَّجَلِّيْ وَ النُّوْرِ بَاهِرُ الْوَضَآءَةِ وَ الظُّهُوْرِ يَفِيْضُ خَيْرُكَ عَلَى الْمُحِبِّيْنَ وَ يَعُمُّ بِرُّكَ عَلَى الْمُخْلِصِيْنَ فَتُشَاهِدُكَ اُمَّتُكَ فِيْ يَقْظَةِ رُوْحِهَا وَ مَنَامِهَا وَ تَسْأَلُكَ عَمَّا يُصْلِحُ مِنْ شَأْنِهَا فَتُجِيْبُهَا اِلٰى مَا فِيْهِ خَيْرُهَا يَا مَنْ اَنْتَ هَادِيْنَا وَ شَفِيْعُنَا. سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ حَقِّ حَقِّكَ وَ مَقَامِ قُرْبِكَ وَ اِشْرَاقِ وَجْهِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمُنْكِرِيْنَ مُشَاهَدَتُكَ وَ بَعِيْدٌ عَلَى الْوَاهِمِيْنَ مُخَاطَبَتُكَ وَ هَيْهَاتَ لِلْمُتَشَكِّكِيْنَ الْوُصُوْلُ اِلٰى مَقَامِ حَضْرَتِكَ لِاَنَّ قَدْرَكَ لَا يُعْرَفُ بِالْوَهْمِ وَ الظَّنِّ وَ الْخَيَالِ، وَ مَقَامُكَ لَا يُدْرَكُ بِالْكَلَامِ وَ التَّخْمِيْنِ وَ الْجِدَالِ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ صَلّٰى عَلَيْكَ وَ لَمْ تُشْرِقْ رُوْحُكَ عَلَيْهِ وَ مَنْ ذَا الَّذِي اسْتَشْفَعَ بِكَ وَلَمْ يَصِلْ نَصْرُ اللهِ اِلَيْهِ نَحْنُ فِيْ حِمَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ نَحْنُ فِيْ رِحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ نَحْنُ فِيْ كَنَفِكَ يَا نَجِيَّ اللهِ نَحْنُ فِيْ جَاهِكَ يَا صَفِيَّ اللهِ نَحْنُ فِيْ حَرَمِكَ يَا اَعَزَّ خَلْقِ اللهِ فَمَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَ يَعْلَمُ اَنَّ اللهَ هُوَ الْمُعْطِيْ وَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَظْهَرُ الْعَطَآءِ وَ اللهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَنْتَ مِرْاٰةُ هٰذَا الضِّيَآءِ لِاَنَّكَ النُّوْرُ الْمُبِيْنُ الَّذِيْ مَلَأَ اِشْرَاقُهُ الْعَالَمِيْنَ وَ اَنْتَ كِتَابُ اللهِ وَ مِيْثَاقُ النَّبِيِّيْنَ وَ اَنْتَ نَظَرُ الْحَقِّ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ لَا وَ قَدْ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ فِيْ مُحْكَمِ التَّبْيِيْنِ {قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ}.

270 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ فِيْ عَالَمِ الْغَيْبِ اِشْرَاقُكَ وَ فِيْ عَالَمِ الشَّهَادَةِ آثَارُكَ، وَ فِيْ عَالَمِ الرُّوْحِ اَسْرَارُكَ وَ فِيْ عَالَمِ الْاَفْلَاكِ اَنْوَارُكَ وَ فِيْ عَالَمِ الْبَرْزَخِ بَرَكَاتُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى آلِكَ الْاَبْرَارِ الْمُتَّقِيْنَ وَ اَصْحَابِكَ الْاَخْيَارِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ اَزْوَاجِكَ الْاَطْهَارِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ صَلَاةً يَّسْطَعُ نُوْرُهَا فِيْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ وَ يَعْلُوْ شَأْنُهَا فِي الْخَالِدِيْنَ وَ يَرْتَفِعُ قَدْرُهَا اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَ يَسْمُوْ فَضْلُهَا دَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ.

271 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْهُدٰى يَا بَحْرَ النَّدٰى يَا خَيْرَ الْوَرٰى يَا صَاحِبَ الضَّرَاعَةِ وَ الْكَرَامَةِ يَا سَيِّدَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مَنْ اَعْطَاكَ اللهُ فِي الْاٰخِرَةِ اَسْمٰى مَرَاتِبِ السِّيَادَةِ وَ اَعْظَمَ دَرَجَاتِ السَّعَادَةِ يَا صَاحِبَ الْوَسِيْلَةِ الْكُبْرٰى يَا مُنْقِذَ اُمَّتِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْاَهْوَالِ يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى يَوْمَ الْحَشْرِ وَ السُّؤَالِ سَلَامُ اللهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ عَلَيْكَ وَ سَلَامٌ مِّنَّا اِلَيْكَ وَ سَلَامٌ عَلَيْنَا مِنْكَ اِنَّهٗ مِنَ اللهِ وَ اِلَيْكَ.

272 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْفَتْحِ وَ الْفُتُوْحِ جِئْنَا اِلَيْكَ بِالْقَلْبِ وَ الرُّوْحِ اَنْتَ وَسِيْلَتُنَا اِلَى


اللهِ تَعَالٰى اَنْ يَّخْتِمَ لَنَا بِكَمَالِ الْاِيْمَانِ وَ نِعْمَةِ الْاَسْلَامِ وَ اَنْ يَّجْمَعَنَا بِكَ فِيْ اَعْلٰى مَقَامٍ وَّ يُرِيَنَا ذَاتَكَ الشَّرِيْفَةَ فِي الْيَقْظَةِ وَ الْمَنَامِ وَ اَنْ يَّرْزُقَنَا فِيْ جِوَارِكَ يَا اِمَامَ الْمُرْسَلِيْنَ حُسْنَ الْخِتَامِ۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَوْصُوْفِ بِخَيْرِ النُّعُوْتِ وَ الْاَسْمَآءِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دُرَّةِ تَاجِ الْحَيَآءِ وَ جَوْهَرَةِ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّآءِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ بَحْرِ الْعِلْمِ الزَّاخِرِ يَنَابِيْعِ الْحِكَمِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَطَعَتْ شَمْسُ السَّمَآءِ فِيْ سَائِرِ الْاَرْجَآءِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَبَحَتِ الْاَرْوَاحُ فِيْ مَيَادِيْنِ الصَّفَآءِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطَرَاتِ الْاَمْطَارِ وَ ذَرَّاتِ الْهَوَآءِ وَ صَلِّ عَلٰى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اكْفِنَا شَرَّ الْمَعْصِيَةِ وَ الرِّيَآءِ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ عَدَدَ تَنَفُّسِ الْاَرْوَاحِ وَ تَسْبِيْحِ مَلَآئِكَةِ السَّمَآءِ وَ عَدَدَ حَرَكَاتِ الْكَوَاكِبِ فِيْ فَسِيْحِ الْفَضَآءِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ اللهِ وَ ضُحٰهَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَمَرِ السَّمَآءِ اِذَا تَلٰهَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَّا اَزْكَاهَا وَ اَحْلَاهَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَالِيَةً فِيْ ضِيَآءٍ وَّ سَنَاهَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً كَامِلَةً لَّا يُدْرَكُ عُلَاهَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ صَلَاةً مُّسْتَمِرَّةً لَّا مُنْتَهٰى لِمَدَاهَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ظَهَرَتْ مَعَانِي الْقُرْاٰنِ بِالْاِفْصَاحِ وَ الْاِعْرَابِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اسْقِنَا مِنْ كَوْثَرِ حُبِّهٖ عَذْبَ الشَّرَابِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ احْفَظْ قُلُوْبَنَا مِنَ الشَّكِّ وَ الْاِرْتِيَابِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَرِيْمِ الرِّحَابِ عَظِيْمِ الْجَنَابِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلْجَئِنَا الْاَكْبَرِ يَوْمَ الْحِسَابِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَصٰى وَ الثَّرٰى وَ الرَّمْلِ وَ ذَرَّاتِ التُّرَابِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ مَدَى الدُّهُوْرِ وَ الْعُصُوْرِ وَ الْاَحْقَابِ وَ ارْفَعْ عَنْ قُلُوْبِنَا الظُّلْمَةَ وَ الْحِجَابَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِى اسْتَمَدَّتْ مِنْ نُّوْرِ وَجْهِهِ الْجَمِيْلِ جَمِيْعُ الْكَوَاكِبِ النَّيِّرَاتِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّجَايَا الْكَامِلَاتِ وَ الْخِلَالِ الْفَاضِلَاتِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَوْحَةِ التَّقْوٰى الظَّلِيْلَةِ فِيْ رِيَاضِ الطَّاعَاتِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ بَهْجَةِ الدُّنْيَا وَ رَحْمَةِ الْمَوْجُوْدَاتِ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُحَيَّا لَيْلَةَ الْاِسْرَآءِ بِاَكْمَلِ التَّحِيَّاتِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ بَابِ الْخَيْرَاتِ وَ مِفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ فَلَكِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ صَلَاةً تَزِنُ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ وَ تَعُمُّ بَرَكَاتُهَا جَمِيْعَ الْمَخْلُوْقَاتِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ الْخَاتِمِ الْوَارِثِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَوْثِ الْعَالَمِيْنَ مِنَ الْهُمُوْمِ وَ الْكَوَارِثِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّوْضَةِ الْاُنْسِ الْعِلْمِيَّةِ وَ غَاىَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰه
لَا خَوفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



مزارِ پُر انوار

العارف بالله المغفور له


الشيخ عبدالمقصود محمد سالم

مؤسس جماعة تلاوة القرآن الكريم

صاحب التفاسير و مؤلف انوار الحق و راحة الارواح والاذكار والتحصين

انتقل الى رحمة الله فى ليلة الجمعة ٢٦ من شعبان ١٣٩٧ ھ الموافق

١١ اغسطس ١٩٧٧م ((نسألك الفواتح والدعوات))



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

دَلَآئِلُ الْخَيْرَاتِ
وَشَوَارِقُ الْأَنْوَارِ فِيْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ﷺ

سیدی محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

المكتبة القادرية 16 الباكستان
0092-3335187573

دلائل الخیرات شریف

بارگاہِ نبوی ﷺ میں مقبول صیغہ ہائے دُرود وسلام کا گلدستہ ''دلائل الخیرات شریف'' وہ عظیم کتاب ہے جو دُنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے۔ بارگاہِ نبوی ﷺ میں اس بابرکت کتاب کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکارِ مدینہ ﷺ نے بعض خوش بختوں کو اِس کتاب کو پڑھنے کی خود اجازت فرمائی۔

حضرت سیدی الصدیق الفلالی امی ولی اللہ ہوگزرے ہیں۔ آپ کو مکمل دلائل الخیرات حفظ تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ **''ان النبی** ﷺ **علمه ایاه مناماً''**، رسول اللہ ﷺ انہیں خواب میں خود دلائل الخیرات شریف پڑھائی تھی۔

''**کشف الظنون**'' میں دلائل الخیرات کے بارے میں تحریر ہے کہ دُرودِ پاک کے متعلق یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

دلائل الخیرات شریف کے مصنف حضرت سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ دیگر وظائف کے علاوہ کثرت سے سرکارِ دوعالم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں دُرود وسلام کا نذرانہ پیش فرماتے جس کی وجہ سے آج تک آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔

دَلَآئِلُ الْخَیْرَاتِ
وَشَوَارِقُ الْاَنْوَارِ فِیْ ذِکْرِ الصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ﷺ

سیدی محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی

دَلَائِلُ الْخَيْرَات

(اَلْحِزْبُ الْاَوَّلُ)

1 صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

8 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

9 اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

10 اَللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

11 اَللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ رَحِمْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَاۤ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

14 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَاۤ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

15 اَللّٰهُمَّ دَاحِىَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ بَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ وَ جَبَّارَ الْقُلُوْبِ عَلٰى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَ سَعِيْدِهَا اجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِىَ بَرَكَاتِكَ وَ رَاْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ الْفَاتِحِ لِمَاۤ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَ الدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِىْ مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِّوَحْيِكَ حَافِظًا لِّعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلٰى نَفَاذِ اَمْرِكَ حَتّٰىۤ اَوْرٰى قَبَسًا لِّقَابِسٍ اٰلَآءُ اللّٰهِ تَصِلُ بِاَهْلِهٖۤ اَسْبَابَهٗ بِهٖ هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْاِثْمِ وَ اَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ وَ نَآئِرَاتِ الْاَحْكَامِ وَ مُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَاْمُوْنُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ وَ شَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَ بَعِيْثُكَ نِعْمَةً وَّ رَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً۔

اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ فِىْ عَدْنِكَ وَ اجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّاٰتٍ لَّهٗ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمَحْلُوْلِ وَ جَزِيْلِ عَطَآئِكَ الْمَعْلُوْلِ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلٰى بِنَآءِ النَّاسِ بِنَآءَهٗ وَ اَكْرِمْ مَّثْوَاهُ لَدَيْكَ وَ نُزُلَهٗ وَ اَتْمِمْ لَهٗ نُوْرَهٗ وَ اجْزِهٖ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهٗ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ وَ مَرْضِىَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَّ خُطَّةٍ فَصْلٍ وَّ بُرْهَانٍ عَظِيْمٍ۔

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

16 لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ رَبِّىْ وَ سَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ مَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِىْۤ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

17 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهٗ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَاۤ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

19 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَاۤ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰۤى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ

اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَاهُ لَهٗ۔

25 اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيْلَةَ فِي الْجَنَّةِ۔

26 اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ، وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٌ، وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ السَّلَامَةِ شَيْءٌ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيْرَةَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ لَمْ اَرَهٗ فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهٗ وَ ارْزُقْنِيْ صُحْبَتَهٗ وَ تَوَفَّنِيْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ اسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِهٖ مَشْرَبًا رَّوِيًّا سَائِغًا هَنِيْئًا لَّا نَظْمَاُ بَعْدَهٗ اَبَدًا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنِّيْ تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا۔

اَللّٰهُمَّ وَ كَمَا بِهٖ اٰمَنْتُ بِهٖ وَلَمْ اَرَهٗ فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْكُبْرٰى وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَ اٰتِهٖ سُؤْلَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى كَمَآ اٰتَيْتَ سَيِّدَنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ سَيِّدَنَا مُوْسٰى۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى

سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

31 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ، وَ سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ خَلِیْلِکَ وَ صَفِیِّکَ وَ سَیِّدِنَا مُوْسٰی کَلِیْمِکَ وَ نَجِیِّکَ، وَ سَیِّدِنَا عِیْسٰی رُوْحِکَ وَ کَلِمَتِکَ وَ عَلٰی جَمِیْعِ مَلَآئِکَتِکَ وَ رُسُلِکَ وَ اَنْبِیَآئِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ اَصْفِیَآئِکَ وَ خَاصَّتِکَ وَ اَوْلِیَآئِکَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِکَ وَ سَمَآئِکَ، وَ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ رِضَآءَ نَفْسِهٖ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهٖ وَ کَمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ کُلَّمَا ذَکَرَهُ الذَّاکِرُوْنَ، وَ غَفَلَ عَنْ ذِکْرِهِ الْغَافِلُوْنَ، وَ عَلٰی اَهْلِ بَیْتِهٖ وَ عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِیْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا۔

32 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ وَ عَلٰی جَمِیْعِ النَّبِیِّیْنَ وَ الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْمَلَآئِکَةِ وَ الْمُقَرَّبِیْنَ وَ جَمِیْعِ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ عَدَدَ مَآ اَمْطَرَتِ السَّمَآءُ مُنْذُ بَنَیْتَهَا، وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَنْبَتَتِ الْاَرْضُ مُنْذُ دَحَوْتَهَا، وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُوْمِ فِی السَّمَآءِ فَاِنَّکَ اَحْصَیْتَهَا، وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الْاَرْوَاحُ مُنْذُ خَلَقْتَهَا، وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ مَا تَخْلُقُ وَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُکَ وَ اَضْعَافَ ذٰلِکَ۔

33 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ عَدَدَ خَلْقِکَ وَ رِضَآءَ نَفْسِکَ وَ زِنَةَ عَرْشِکَ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِکَ وَ مَبْلَغَ عِلْمِکَ وَ اٰیَاتِکَ۔

34 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ صَلَاةً تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّیْنَ عَلَیْهِمْ مِّنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِیْنَ کَفَضْلِکَ عَلٰی جَمِیْعِ خَلْقِکَ۔

35 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةَ الدَّوَامِ عَلٰی مَرِّ اللَّیَالِیْ وَ الْاَیَّامِ مُتَّصِلَةَ الدَّوَامِ لَا انْقِضَآءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلٰی مَرِّ اللَّیَالِیْ وَ الْاَیَّامِ عَدَدَ کُلِّ وَابِلٍ وَّ طَلٍّ۔

36 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِیِّکَ وَ سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ خَلِیْلِکَ وَ عَلٰی جَمِیْعِ اَنْبِیَآئِکَ وَ اَصْفِیَآئِکَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِکَ وَ سَمَآئِکَ عَدَدَ خَلْقِکَ وَ رِضَآءَ نَفْسِکَ وَ زِنَةَ عَرْشِکَ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِکَ وَ مُنْتَهٰی عِلْمِکَ وَ زِنَةَ جَمِیْعِ مَخْلُوْقَاتِکَ صَلَاةً مُّکَرَّرَةً اَبَدًا عَدَدَ مَآ اَحْصٰی عِلْمُکَ وَ مِلْءَ مَآ اَحْصٰی عِلْمُکَ وَ اَضْعَافَ مَآ اَحْصٰی عِلْمُکَ صَلَاةً تَزِیْدُ وَ تَفُوْقُ
وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّیْنَ عَلَیْهِمْ مِّنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِیْنَ کَفَضْلِکَ عَلٰی جَمِیْعِ خَلْقِکَ۔

(ثُمَّ تَدْعُوْا بِهٰذَا الدُّعَآءِ فَاِنَّهٗ مَرْجُوُّ الْاِجَابَةِ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰی بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ)

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مِمَّنْ لَزِمَ مِلَّةَ نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ وَ عَظَّمَ حُرْمَتَهٗ وَ اَعَزَّ کَلِمَتَهٗ وَ حَفِظَ عَهْدَهٗ وَ ذِمَّتَهٗ وَ نَصَرَ حِزْبَهٗ وَ دَعْوَتَهٗ وَ کَثَّرَ تَابِعِیْهِ وَ فِرْقَتَهٗ وَ وَافٰی زُمْرَتَهٗ وَ لَمْ یُخَالِفْ سَبِیْلَهٗ وَ سُنَّتَهٗ۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْاِسْتِمْسَاکَ بِسُنَّتِهٖ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْاِنْحِرَافِ عَمَّا جَآءَ بِهٖ۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَئَلَکَ مِنْهُ سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ نَّبِیُّکَ وَ رَسُوْلُکَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَ

سَلَّمَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ نَّبِيُّكَ وَ رَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّمَ.

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَ عَافِنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْمِحَنِ وَ اَصْلِحْ مِنِّيْ مَا ظَهَرَ وَ مَا بَطَنَ وَ نَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لِّاَحَدٍ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْاَخْذَ بِاَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَ التَّرْكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَ اَسْئَلُكَ التَّكَفُّلَ بِالرِّزْقِ وَ الزُّهْدَ فِي الْكِفَافِ وَ الْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَّ الْفَلَجَ بِالصَّوَابِ فِيْ كُلِّ حُجَّةٍ وَّ الْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِيْمَ لِمَا يَجْرِيْ بِهِ الْقَضَآءُ وَ الْاِقْتِصَادَ فِي الْفَقْرِ وِ الْغِنٰى وَ التَّوَاضُعَ فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَ الصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَ الْهَزْلِ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لِيْ ذُنُوْبًا فِيْمَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ وَ ذُنُوْبًا فِيْمَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ.

اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ وَ مَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَ اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ اِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بِالْعِلْمِ قَلْبِيْ، وَ اسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِيْ، وَ خَلِّصْ مِنَ الْفِتَنِ سِرِّيْ، وَ اشْغَلْ بِالْاِعْتِبَارِ فِكْرِيْ، وَ قِنِيْ شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، وَ اَجِرْنِيْ مِنْهُ يَا رَحْمٰنُ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لَهٗ عَلَيَّ سُلْطَانٌ.

(اَلْحِزْبُ الثَّانِيْ) 37

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ مِنْ زَمَانِيْ هٰذَا وَ اِحْدَاقِ الْفِتَنِ وَ تَطَاوُلِ اَهْلِ الْجُرْاَةِ عَلَيَّ وَ اسْتِضْعَافِهِمْ اِيَّايَ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْكَ فِيْ عِيَاذٍ مَّنِيْعٍ وَّ حِرْزٍ حَصِيْنٍ مِّنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ حَتّٰى تُبَلِّغَنِيْ اَجَلِيْ مُعَافًى.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ نُوْرُهٗ مِنْ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ وَ اَشْرَقَ بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْاَسْرَارُ.

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ الْاَبْرَارِ اَجْمَعِيْنَ.

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلُكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ خَاتِمِ اَنْبِيَآئِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اَللّٰھُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ اَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامَ ۔

40 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ۔

41 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ ۔

42 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۔

43 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَرِثَ الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۔

44 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

45 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ سَبَقَتْ بِهٖ مَشِيْئَتُكَ وَ صَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَآئِكَتُكَ صَلَاةً دَآئِمَةً ، بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً ، بِفَضْلِكَ وَ اِحْسَانِكَ اِلٰى اَبَدِ الْاَبَدِ اَبَدًا اَلَّا نِهَايَةَ لِاَبَدِيَّتِهٖ وَلَا فَنَآءَ لِدَيْمُوْمِيَّتِهٖ ۔

46 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ شَهِدَتْ بِهٖ مَلَآئِكَتُكَ وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ وَ ارْحَمْ اُمَّتَهٗ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

47 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى جَمِيْعِ اَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۔

48 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰھُمَّ بِخُشُوْعِ الْقَلْبِ عِنْدَ السُّجُوْدِ لَكَ يَا سَيِّدِيْ بِغَيْرِ جُحُوْدٍ وَّ بِكَ يَآ اَللّٰهُ يَا جَلِيْلُ فَلَا شَيْءَ يُدَانِيْكَ فِيْ غَلِيْظِ الْعُهُوْدِ وَ بِكُرْسِيِّكَ الْمُكَلَّلِ بِالنُّوْرِ اِلٰى عَرْشِكَ الْعَظِيْمِ الْمَجِيْدِ، وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا قَبْلَ اَنْ تَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَ صَوْتَ الرُّعُوْدِ لَكَ اِذْ كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ اِلٰهًا عُرِفْتَ بِالتَّوْحِيْدِ فَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُحِبِّيْنَ الْمَحْبُوْبِيْنَ الْمُقَرَّبِيْنَ الْعَارِفِيْنَ الْعَاشِقِيْنَ لَكَ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ (يَا وَدُوْدُ) ۔

49 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ ۔

50 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ ۔

51 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذَتْ بِهٖ قُدْرَتُكَ ۔

52 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصَتْهُ اِرَادَتُكَ ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ اِلَيْهِ اَمْرُكَ وَ نَهْيُكَ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ سَمْعُكَ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَآبِّ الْقِفَارِ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَآبِّ الْبِحَارِ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ اَضَآءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّمَالِ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَآءِ وَ الرِّجَالِ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِضَآءَ نَفْسِكَ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّدَادِ كَلِمَاتِكَ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ سَمٰوَاتِكَ وَ اَرْضِكَ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةِ عَرْشِكَ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوْقَاتِكَ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى شَفِيْعِ الْاُمَّةِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَاشِفِ الْغُمَّةِ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُجْلِى الظُّلْمَةِ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُوْلِى النِّعْمَةِ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُؤْتِى الرَّحْمَةِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُوْدِ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ فِي السَّمَآءِ مَحْمُوْدٌ وَّفِي الْاَرْضِ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الشَّامَةِ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْعَلَامَةِ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَخْصُوْصِ بِالزَّعَامَةِ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ تُظِلُّهُ الْغَمَامَةُ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ يَرٰى مَنْ خَلْفَهٗ كَمَا يَرٰى مَنْ اَمَامَهٗ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الضَّرَاعَةِ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْهِرَاوَةِ۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْحُجَّةِ۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْبُرْهَانِ۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ السُّلْطَانِ۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ التَّاجِ۔

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ۔

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْقَضِيْبِ۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَاكِبِ النَّجِيْبِ۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَاكِبِ الْبُرَاقِ۔

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطِّبَاقِ۔

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَنَامِ۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَبَّحَ فِيْ كَفِّهِ الطَّعَامُ۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بَكٰى اِلَيْهِ الْجِذْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهٖ۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ طَيْرُ الْفَلَاةِ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَبَّحَتْ فِيْ كَفِّهِ الْحَصَاةُ۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَشَفَّعَ اِلَيْهِ الظَّبْيُ بِاَفْصَحِ كَلَامٍ۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَلَّمَهُ الضَّبُّ فِيْ مَجْلِسِهٖ مَعَ اَصْحَابِهِ الْاَعْلَامِ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ شَكٰى اِلَيْهِ الْبَعِيْرُ۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَاۤءُ النَّمِيْرُ۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِ الْاَنْوَارِ۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنِ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمُقَرَّبِ۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَجْرِ السَّاطِعِ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَذِيْرِ اَهْلِ الْاَرْضِ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ يَوْمَ الْعَرْضِ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِيْ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ لِوَاۤءِ الْحَمْدِ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمِّرِ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فِيْ مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجُهْدِ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتِمِ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى الْقَآئِمِ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَسُوْلِكَ اَبِي الْقَاسِمِ۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْاٰيَاتِ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْاِشَارَاتِ۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْخَوَارِقِ الْعَادَاتِ۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْاَحْجَارُ۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْاَشْجَارُ۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُوْرِهِ الْاَزْهَارُ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثِّمَارُ۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنِ اخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيَّةِ وَضُوْئِهِ الْاَشْجَارُ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُوْرِهٖ جَمِيْعُ الْاَنْوَارِ۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُحَطُّ الْاَوْزَارُ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ مَنَازِلُ الْاَبْرَارِ۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِيْ هٰذِهِ الدَّارِ وَفِيْ تِلْكَ الدَّارِ۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ رَحْمَةُ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنْصُوْرِ الْمُؤَيَّدِ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُمَجَّدِ۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ اِذَا مَشٰى فِي الْبَرِّ الْاَقْفَرِ تَعَلَّقَتِ الْوُحُوْشُ بِاَذْيَالِهٖ۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى حِلْمِهٖ بَعْدَ عِلْمِهٖ وَعَلٰى عَفْوِهٖ بَعْدَ قُدْرَتِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ اِلَّا اِلَيْكَ، وَمِنَ الذُّلِّ اِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ اِلَّا مِنْكَ، وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَقُوْلَ زُوْرًا، اَوْ اَغْشٰى فُجُوْرًا، اَوْ اَكُوْنَ بِكَ مَغْرُوْرًا، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ وَعُضَالِ الدَّآءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَآءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَفُجَاءَةِ النِّقْمَةِ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ حَبِيْبُكَ۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ خَلِيْلُكَ۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ رَحِمْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَآءَ نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَضْعَافَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهٗ۔

169 (اَلْحِزْبُ الثَّالِثُ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً وَّ سَلَامًا لَّا يُحْصٰى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُمَا۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ اللّٰهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَآ اَهْلُهٗ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

اَللّٰهُمَّ تَوَّجْهُ بِتَاجِ الْعِزِّ وَ الرِّضٰى وَ الْكَرَامَةِ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ لِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لِنَفْسِهٖ وَ اَعْطِ لِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لَهٗ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَ اَعْطِ لِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَآ اَنْتَ مَسْئُوْلٌ لَّهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَيِّدِنَآ اٰدَمَ وَ سَيِّدِنَا نُوْحٍ وَّ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ سَيِّدِنَا مُوْسٰى وَ سَيِّدِنَا عِيْسٰى وَ مَا بَيْنَهُمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِيْنَا سَيِّدِنَا آدَمَ وَ اُمِّنَا حَوَّآءَ صَلَاةً مَلَآئِكَتِكَ وَ اَعْطِهِمَا مِنَ الرِّضْوَانِ حَتّٰى تُرْضِيَهُمَا وَ اجْزِهِمَا۔
اَللّٰهُمَّ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهٖ اَبًا وَّ اُمًّا عَنْ وَّلَدَيْهِمَا۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا جِبْرِيْلَ وَ سَيِّدِنَا مِيْكَآئِيْلَ وَ سَيِّدِنَا اِسْرَافِيْلَ وَ سَيِّدِنَا عِزْرَآئِيْلَ وَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ وَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَّوْصُوْلَةً، بِالْمَزِيْدِ۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَّا تَنْقَطِعُ اَبَدَ الْاٰبَدِ وَلَا تَبِيْدُ۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَلَامَكَ الَّذِيْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلُكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَآئِمَةً، بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَآءَ نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهٖ خَلْقُكَ فِيْمَا مَضٰى وَ عَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْنَكَ بِهٖ فِيْمَا بَقِيَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ وَّ شَهْرٍ وَّ جُمُعَةٍ وَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ وَّ سَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَ شَمٍّ وَّ نَفَسٍ وَّ طَرْفَةٍ وَّ لَمْحَةٍ مِّنَ الْاَبَدِ اِلَى الْاَبَدِ وَ آبَادِ الدُّنْيَا وَ آبَادِ الْاٰخِرَةِ وَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَا يَنْقَطِعُ اَوَّلُهٗ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهٗ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرِ حُبِّكَ فِيْهِ۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرِ عِنَايَتِكَ بِهٖ۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهٖ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ الرِّضٰى وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ رِضَآءَ الرِّضٰى۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالسَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ ۢ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهٰى وَلَا انْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً ۢ بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ ۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ مَلَأْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ ۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَوْرَاقِ الزَّيْتُوْنِ وَ جَمِيْعِ الثِّمَارِ ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ وَ عَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ اَضَآءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ عَدَدَ اَنْفَاسِ اُمَّتِهٖ ۔

اَللّٰهُمَّ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَآئِزِيْنَ وَ عَلٰى حَوْضِهٖ مِنَ الْوَارِدِيْنَ الشَّارِبِيْنَ وَ بِسُنَّتِهٖ وَ طَاعَتِهٖ مِنَ الْعَامِلِيْنَ وَلَا تَحُلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لِوَالِدَيْنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ خَلْقِكَ وَ سِرَاجِ اُفُقِكَ وَ اَفْضَلِ قَآئِمٍ ۢ بِحَقِّكَ الْمَبْعُوْثِ بِتَيْسِيْرِكَ وَ رِفْقِكَ صَلَاةً يَّتَوَالٰى تَكْرَارُهَا وَ تَلُوْحُ عَلَى الْاَكْوَانِ اَنْوَارُهَا ۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَمْدُوْحٍ ۢ بِقَوْلِكَ وَ اَشْرَفِ دَاعٍ لِّلْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ وَ خَاتِمِ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيْمَ فَضْلِكَ وَ كَرَامَةَ رِضْوَانِكَ وَ وَصْلِكَ ۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْكُرَمَآءِ مِنْ عِبَادِكَ وَ اَشْرَفِ الْمُنَادِيْنَ لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَ سِرَاجِ اَقْطَارِكَ وَ بِلَادِكَ صَلَاةً لَّا تَفْنٰى وَلَا تَبِيْدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَزِيْدِ ۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالرَّفِيْعِ مَقَامُهٗ الْوَاجِبِ تَعْظِيْمُهٗ وَ احْتِرَامُهٗ صَلَاةً لَّا تَنْقَطِعُ اَبَدًا وَّلَا تَفْنٰى سَرْمَدًا وَّلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

202 وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ

سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ رَحِمْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَ اَيَّدْتَهٗ بِالنَّصْرِ وَ الْكَوْثَرِ وَ الشَّفَاعَةِ۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْحُكْمِ وَ الْحِكْمَةِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْمَخْصُوْصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ خَتْمِ الرُّسُلِ ذِى الْمِعْرَاجِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهِ السَّالِكِيْنَ عَلٰى مَنْهَجِهِ الْقَوِيْمِ۔

فَاَعْظِمِ اللّٰهُمَّ بِهٖ مِنْهَاجَ نُجُوْمِ الْاِسْلَامِ وَ مَصَابِيْحِ الظَّلَامِ الْمُهْتَدٰى بِهِمْ فِىْ ظُلْمَةِ لَيْلِ الشَّكِّ الدَّاجِ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً مَّا تَلَاطَمَتْ فِى الْاَبْحُرِ الْاَمْوَاجُ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقِنِ الْحُجَّاجُ وَ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ صَفْوَتِهٖ مِنَ الْعِبَادِ وَ شَفِيْعِ الْخَلَآئِقِ فِى الْمِيْعَادِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ النَّاهِضِ بِاَعْبَآءِ الرِّسَالَةِ وَ التَّبْلِيْغِ الْاَعَمِّ وَ الْمَخْصُوْصِ بِشَرَفِ السِّعَايَةِ فِى الصَّلَاحِ الْاَعْظَمِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةَ الدَّوَامِ عَلٰى مَرِّ اللَّيَالِىْ وَ الْاَيَّامِ، فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ، وَ اَفْضَلُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ، عَلَيْهِ اَفْضَلُ صَلَاةِ الْمُصَلِّيْنَ، وَ اَزْكٰى سَلَامِ الْمُسَلِّمِيْنَ، وَ اَطْيَبُ ذِكْرِ الذَّاكِرِيْنَ، وَ اَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَحْسَنُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَجَلُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، و اَجْمَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَكْمَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَسْبَغُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَتَمُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَظْهَرُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَذْكٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَبْرَكُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، و اَزْكٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَنْمٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَوْفٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَسْنٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَعْلٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَكْثَرُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَعَمُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَبْقٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَعَزُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، وَ اَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ، عَلٰى اَفْضَلِ خَلْقِ اللّٰهِ، وَ اَحْسَنِ خَلْقِ اللّٰهِ، وَ اَجَلِّ خَلْقِ اللّٰهِ، وَ اَكْرَمِ خَلْقِ اللّٰهِ، وَ اَجْمَلِ خَلْقِ اللّٰهِ، وَ اَكْمَلِ خَلْقِ اللّٰهِ، وَ اَتَمِّ خَلْقِ اللّٰهِ، وَ اَعْظَمِ خَلْقِ اللّٰهِ، عِنْدَ اللّٰهِ، رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَ نَبِيِّ اللّٰهِ، وَ حَبِيْبِ اللّٰهِ، وَ صَفِيِّ اللّٰهِ، وَ نَجِيِّ اللّٰهِ، وَ خَلِيْلِ اللّٰهِ، وَ وَلِيِّ اللّٰهِ، وَ اَمِيْنِ اللّٰهِ، وَ خِيَرَةِ اللّٰهِ مِنْ خلق اللّٰهِ، وَ نُخْبَةِ اللّٰهِ مِنْ م بَرِيْئَةِ اللّٰهِ، وَ صَفْوَةِ اللّٰهِ مِنْ اَنْبِيَآءِ اللّٰهِ، وَ عُرْوَةِ اللّٰهِ، وَ عِصْمَةِ اللّٰهِ، وَ نِعْمَةِ اللّٰهِ، وَ مِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللّٰهِ، اَلْمُخْتَارِ مِنْ رُّسُلِ اللّٰهِ، اَلْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ الْفَآئِزِ بِالْمَطْلَبِ فِى الْمَرْهَبِ وَ الْمَرْغَبِ، اَلْمُخْلَصِ فِيْمَا وُهِبَ، اَكْرَمِ مَبْعُوْثٍ، اَصْدَقِ قَآئِلٍ، اَنْجَحِ شَافِعٍ، اَفْضَلِ مُشَفَّعِنِ الْاَمِيْنِ فِيْمَا اسْتُوْدِعَ الصَّادِقِ فِيْمَا بَلَّغَ الصَّادِعِ بِاَمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَلِعِ بِمَا حُمِّلَ، اَقْرَبِ رُسُلِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَسِيْلَةً وَّ اَعْظَمِهِمْ غَدًا عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً وَّ فَضِيْلَةً، وَّ اَكْرَمِ اَنْبِيَآءِ اللّٰهِ الْكِرَامِ الصَّفْوَةِ عَلَى اللّٰهِ، وَ اَحَبِّهِمْ اِلَى اللّٰهِ وَ اَقْرَبِهِمْ زُلْفٰى لَدَى اللّٰهِ، وَ اَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَى اللّٰهِ، وَ اَحْظَاهُمْ وَ اَرْضَاهُمْ لَدَى اللّٰهِ، وَ اَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا، وَّ اَعْظَمِهِمْ مَّحَلًّا وَّ اَكْمَلِهِمْ مَّحَاسِنًا وَّ فَضْلًا وَّ اَفْضَلِ الْاَنْبِيَآءِ دَرَجَةً وَّ اَكْمَلِهِمْ شَرِيْعَةً وَّ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَآءِ نِصَابًا وَّ اَبْيَنِهِمْ بَيَانًا وَّ خِطَابًا وَّ اَفْضَلِهِمْ مَّوْلِدًا وَّ مُهَاجِرًا وَّ عِتْرَةً وَّ اَصْحَابًا وَّ اَكْرَمِ

النَّاسِ اَرُوْمَةً وَّ اَشْرَفِهِمْ جُرْثُوْمَةً وَّ خَيْرِهِمْ نَفْسًا وَّ اَطْهَرِهِمْ قَلْبًا وَّ اَصْدَقِهِمْ قَوْلًا وَّ اَزْكَاهُمْ فِعْلًا وَ اَثْبَتِهِمْ اَصْلًا وَّ اَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَّ اَمْكَنِهِمْ مَّجْدًا وَّ اَكْرَمِهِمْ طَبْعًا وَّ اَحْسَنِهِمْ صُنْعًا وَّ اَطْيَبِهِمْ فَرْعًا وَّ اَكْثَرِهِمْ طَاعَةً وَّ سَمْعًا وَّ اَعْلَاهُمْ مَّقَامًا وَّ اَحْلَاهُمْ كَلَامًا وَّ اَزْكَاهُمْ سَلَامًا وَّ اَجَلِّهِمْ قَدْرًا وَّ اَعْظَمِهِمْ فَخْرًا وَّ اَسْنَاهُمْ فَخْرًا وَّ اَرْفَعِهِمْ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى ذِكْرًا وَّ اَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَّ اَصْدَقِهِمْ وَعْدًا وَّ اَكْثَرِهِمْ شُكْرًا وَّ اَعْلَاهُمْ اَمْرًا وَّ اَجْمَلِهِمْ صَبْرًا وَّ اَحْسَنِهِمْ خَيْرًا وَّ اَقْرَبِهِمْ يُسْرًا وَّ اَبْعَدِهِمْ مَّكَانًا وَّ اَعْظَمِهِمْ شَاْنًا وَّ اَثْبَتِهِمْ بُرْهَانًا وَّ اَرْجَحِهِمْ مِّيْزَانًا وَّ اَوَّلِهِمْ اِيْمَانًا وَّ اَوْضَحِهِمْ بَيَانًا وَّ اَفْصَحِهِمْ لِسَانًا وَّ اَظْهَرِهِمْ سُلْطَانًا۔

(اَلْحِزْبُ الرَّابِعُ)

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَّ لَهٗ جَزَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

209 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَآئِلَ صَلَوَاتِكَ وَ شَرَآئِفَ زَكَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ عَوَاطِفَ رَاْفَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ تَحِيَّتِكَ وَ فَضَآئِلَ اٰلَآئِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ فَاتِحِ الْبِرِّ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا تُزْلِفُ بِهٖ قُرْبَهٗ وَ تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ يَغْبِطُهُ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْآخِرُوْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْوَسِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ الْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَ بَلِّغْهُ مَاْمُوْلَهٗ وَ اجْعَلْهُ اَوَّلَ شَافِعٍ وَّ اَوَّلَ مُشَفَّعٍ۔

اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَ ثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ ارْفَعْ فِيْ اَهْلِ عِلِّيِّيْنَ دَرَجَتَهٗ، وَ فِيْ اَعْلَى الْمُقَرَّبِيْنَ مَنْزِلَتَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا عَلٰى سُنَّتِهٖ، وَ تَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهٖ، وَ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اَوْرِدْنَا حَوْضَهٗ، وَ اسْقِنَا مِنْ كَاْسِهٖ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِيْنَ وَلَا شَآكِّيْنَ وَلَا مُبَدِّلِيْنَ وَلَا مُغَيِّرِيْنَ وَلَا فَاتِنِيْنَ وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ مَعَ اِخْوَانِهِ النَّبِيِّيْنَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ وَ عَلٰى اَبِيْنَا سَيِّدِنَآ آدَمَ وَ اُمِّنَا سَيِّدَتِنَا حَوَّآءَ وَ مَنْ وَّلَدَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ

الْاَرْضِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا، وَّلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَزَيْنِ الْاَخْيَارِ وَاَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَعَدَدَ مَا نَزَلَ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى اٰخِرِهَا مِنْ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى اٰخِرِهَا مِنَ النَّبَاتِ وَالْاَشْجَارِ، صَلَاةً دَآئِمَةً ۢ بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُشَرِّفُ بِهَا عُقْبَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَاهُ وَرِضَاهُ، هٰذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيْمًا لِّحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ۔

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمَيِ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَآئِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ، صَلَاةً دَآئِمَةً ۢ بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً ۢ بِبَقَآئِكَ، لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ هُوَ اَبْهٰى شُمُوْسِ الْهُدٰى نُوْرًا وَّاَبْهَرُهَا، وَاَسْيَرُ الْاَنْبِيَآءِ فَخْرًا وَّاَشْهَرُهَا، وَنُوْرُهٗ اَزْهَرُ اَنْوَارِ الْاَنْبِيَآءِ اَشْرَقُهَا وَاَوْضَحُهَا وَاَزْكَى الْخَلِيْقَةِ اَخْلَاقًا وَّاَطْهَرُهَا وَاَكْرَمُهَا خَلْقًا وَّاَعْدَلُهَا۔

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ هُوَ اَبْهٰى مِنَ الْقَمَرِ التَّآمِّ وَاَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْخِضَمِّ۔

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهٖ وَمُحَيَّاهُ وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِيْبِ ذِكْرِهٖ وَرَيَّاهُ۔

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ۔

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّاٰلَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْاٰخِرَةِ، وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْاٰخِرَةِ، وَارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ وَ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ۔

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا
يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَ رَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰى وَ وَلِيِّكَ الْمُجْتَبٰى وَ اَمِيْنِكَ عَلٰى وَحْيِ السَّمَآءِ۔

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْاَسْلَافِ الْقَآئِمِ بِالْعَدْلِ وَ الْاِنْصَافِ الْمَنْعُوْتِ فِيْ سُوْرَةِ
الْاَعْرَافِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ اَصْلَابِ الشِّرَافِ وَ الْبُطُوْنِ الْمُصَفّٰى مِنْ مُّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ
مَنَافٍ الَّذِيْ هَدَيْتَ بِهٖ مِنَ الْخِلَافِ وَ بَيَّنْتَ بِهٖ سَبِيْلَ الْعَفَافِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَفْضَلِ مَسْئَلَتِكَ وَ بِاَحَبِّ اَسْمَآئِكَ اِلَيْكَ وَ اَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَ بِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا
بِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّمَ فَاسْتَنْقَذْتَنَا بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ اَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ وَ جَعَلْتَ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَّ كَفَّارَةً وَّ لُطْفًا وَّ مَنًّا مِّنْ اِعْطَآئِكَ فَادْعُوْكَ تَعْظِيْمًا لِّاَمْرِكَ وَ اتِّبَاعًا
لِّوَصِيَّتِكَ وَ مُنْتَجِزًا لِّمَوْعُوْدِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّمَ فِيْ اَدَآءِ حَقِّهٖ قِبَلَنَآ اِذْ آمَنَّا بِهٖ
وَ صَدَّقْنَاهُ وَ اتَّبَعْنَا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهٗ وَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يَآ
اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا، وَ اَمَرْتَ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلٰى نَبِيِّهِمْ فَرِيْضَةً ِ افْتَرَضْتَهَا وَ
اَمَرْتَهُمْ بِهَا فَنَسْئَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ نُوْرِ عَظَمَتِكَ وَ بِمَآ اَوْجَبْتَ عَلٰى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِيْنَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ
وَ مَلَآئِكَتُكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اَفْضَلَ
مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهٗ وَ اَكْرِمْ مَّقَامَهٗ وَ ثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ اَظْهِرْ مِلَّتَهٗ وَ اَجْزِلْ ثَوَابَهٗ وَ اَضِئْ نُوْرَهٗ وَ
اَدِمْ كَرَامَتَهٗ وَ اَلْحِقْ بِهٖ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ مَا تُقِرُّ بِهٖ عَيْنُهٗ وَ عَظِّمْهُ فِي النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا قَبْلَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا اَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ تَبَعًا وَّ اَكْثَرَهُمْ اُزَرَآءَ وَ اَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَّ نُوْرًا، وَّ
اَعْلَاهُمْ دَرَجَةً، وَّ اَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي السَّابِقِيْنَ غَايَتَهٗ وَ فِي الْمُنْتَخَبِيْنَ مَنْزِلَهٗ، وَ فِي الْمُقَرَّبِيْنَ دَارَهٗ وَ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَنْزِلَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَّ اَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَّ اَقْرَبَهُمْ مَّجْلِسًا وَّ اَثْبَتَهُمْ مَّقَامًا وَّ
اَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَّ اَنْجَحَهُمْ مَّسْئَلَةً وَّ اَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيْبًا وَّ اَعْظَمَهُمْ فِيْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً وَّ اَنْزِلْهُ فِيْ
غُرُفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِيْ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا اَصْدَقَ قَآئِلٍ وَّ اَنْجَحَ سَآئِلٍ وَّ اَوَّلَ شَافِعٍ وَّ اَفْضَلَ مُشَفَّعٍ وَّ شَفِّعْهُ فِيْ
اُمَّتِهٖ بِشَفَاعَةٍ يَغْبِطُهٗ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ، وَ اِذَا مَيَّزْتَ عِبَادَكَ بِفَصْلِ قَضَآئِكَ فَاجْعَلْ سَيِّدَنَا وَ

مَوْلَانَا مُحَمَّدًا فِي الْاَصْدَقِيْنَ قِيْلًا وَّ الْاَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَّ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ سَبِيْلًا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْ حَوْضَهٗ لَنَا مَوْعِدًا لِاَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا۔

اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اسْتَعْمِلْنَا فِيْ سُنَّتِهٖ وَ تَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ عَرِّفْنَا وَجْهَهٗ وَ اجْعَلْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ حِزْبِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهٗ كَمَآ آمَنَّا بِهٖ وَلَمْ نَرَهٗ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهٗ حَتّٰى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهٗ وَ تُوْرِدَنَا حَوْضَهٗ وَ تَجْعَلَنَا مِنْ رُّفَقَآئِهٖ مَعَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْهُدٰى وَ الْقَآئِدِ اِلَى الْخَيْرِ وَ الدَّاعِيْ اِلَى الرُّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ وَ تَلَآ آيَاتِكَ وَ اَقَامَ حُدُوْدَكَ وَ وَفّٰى بِعَهْدِكَ وَ اَنْفَذَ حُكْمَكَ وَ اَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَ نَهٰى عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَ وَالٰى وَلِيَّكَ الَّذِيْ تُحِبُّ اَنْ تُوَالِيَهٗ وَ عَادٰى عَدُوَّكَ الَّذِيْ تُحِبُّ اَنْ تُعَادِيَهٗ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى رُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى مَوْقِفِهٖ فِي الْمَوَاقِفِ وَ عَلٰى مَشْهَدِهٖ فِي الْمَشَاهِدِ وَ ذِكْرِهٖ اِذَا ذُكِرَ صَلَاةً مِّنَّا عَلٰى نَبِيِّنَا۔

اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ كَمَا ذُكِرَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى وَ بَرَكَاتُهٗ۔

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰٓى اَنْبِيَآئِكَ الْمُطَهَّرِيْنَ وَ عَلٰى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَ عَلٰى سَيِّدِنَا جِبْرِيْلَ وَ سَيِّدِنَا مِيْكَآئِيْلَ وَ سَيِّدِنَآ اِسْرَافِيْلَ وَ سَيِّدِنَا مَلَكِ الْمَوْتِ وَ سَيِّدِنَا رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَ سَيِّدِنَا مَالِكٍ وَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰٓى اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اٰتِ اَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ اَفْضَلَ مَآ آتَيْتَ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ بُيُوْتِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اجْزِ اَصْحَابَ نَبِيِّكَ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ، وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

229 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ كَثِيْرًا تَسْلِيْمًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ جَزِيْلًا جَمِيْلًا دَآئِمًا بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ۔

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى آلِهٖ مِلْءَ الْفَضَآءِ وَ عَدَدَ النُّجُوْمِ فِي السَّمَآءِ صَلَاةً تُوَازِنُ

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقُهٗ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ۔

231 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی سَیِّدِنَآ اِبْرَاهِیْمَ وَ
بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَیِّدِنَآ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ
سَیِّدِنَآ اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدِّیْنِ وَ الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ۔

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِیْلِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیٓ اَسْئَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظِیْمِ وَ بِحَقِّ نُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِیْمِ وَ بِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِیْمِ وَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِیُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَ جَلَالِكَ وَ جَمَالِكَ وَ بَهَآئِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ وَ بِحَقِّ اَسْمَآئِكَ الْمَخْزُوْنَةِ الْمَكْنُوْنَةِ الَّتِیْ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهَآ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَسْئَلُكَ بِالْاِسْمِ الَّذِیْ وَضَعْتَهٗ عَلَی اللَّیْلِ فَاَظْلَمَ، وَ عَلَی النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَ عَلَی السَّمٰوٰتِ فَاسْتَقَلَّتْ، وَ عَلَی الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، وَ عَلَی الْجِبَالِ فَاَرْسَتْ، وَ عَلَی الْبِحَارِ وَ الْاَوْدِیَةِ فَجَرَتْ، وَ عَلَی الْعُیُوْنِ فَنَبَعَتْ، وَ عَلَی السَّحَابِ فَاَمْطَرَتْ، وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبَةِ فِیْ جَبْهَةِ سَیِّدِنَا اِسْرَافِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبَةِ فِیْ جَبْهَةِ سَیِّدِنَا جِبْرِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ عَلَی الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ، وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِیِّ، وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الْمَكْتُوْبِ عَلٰی وَرَقِ الزَّیْتُوْنِ۔

(اَلْحِزْبُ الْخَامِسُ) 232

وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الْعِظَامِ الَّتِیْ سَمَّیْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ۔

وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا اٰدَمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا نُوْحٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا هُوْدٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا اِبْرَاهِیْمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا صَالِحٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا یُوْنُسُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا اَیُّوْبُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا یَعْقُوْبُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا یُوْسُفُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا مُوْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا هَارُوْنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا شُعَیْبٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا اِسْمٰعِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا دَاوٗدُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا سُلَیْمٰنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا زَكَرِیَّآءُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا یَحْیٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَیِّدُنَا اَرْمِیَآءُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ

الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شَعْيَآءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا اِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْيَسَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوْشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِیْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ عَلٰى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنَ السَّمَآءُ مَبْنِيَّةً وَّ الْاَرْضُ مَدْحِيَّةً وَّ الْجِبَالُ مُرْسَاةً وَّ الْبِحَارُ مُجْرَاةً وَّ الْعُيُوْنُ مُنْفَجِرَةً وَّ الْاَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَّ الشَّمْسُ مُضْحِيَّةً وَّ الْقَمَرُ مُضِيْئًا وَّ الْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيْرَةً كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ اَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ سَمٰوَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ اَرْضِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ عَرْشِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ فِیْ اُمِّ الْكِتَابِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِیْ سَبْعِ سَمٰوَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَنْتَ خَالِقٌ فِيْهِنَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

234 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمٰوَاتِكَ اِلٰى اَرْضِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُّسَبِّحُكَ وَ يُهَلِّلُكَ وَ يُكَبِّرُكَ وَ يُعَظِّمُكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَنْفَاسِهِمْ وَ اَلْفَاظِهِمْ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيْهِمْ مِّنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ وَ حَرَّكَتْهُ مِنَ الْاَغْصَانِ وَ الْاَشْجَارِ وَ الْاَوْرَاقِ وَ الثِّمَارِ وَ جَمِيْعِ مَا خَلَقْتَ عَلٰى اَرْضِكَ وَ مَا بَيْنَ سَمٰوَاتِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

239 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَآءِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

240 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ اَرْضِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَ اَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّا اَنْتَ وَ مَا اَنْتَ خَالِقُهٗ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

242 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِلْئِ سَبْعِ بِحَارِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَ اَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ.

243 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَمْوَاجِ بِحَارِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

244 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصٰى فِيْ مُسْتَقَرِّ الْاَرَضِيْنَ وَ سَهْلِهَا وَ جِبَالِهَا مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

245 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اِضْطِرَابِ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَ الْمِلْحَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهٗ عَلٰى جَدِيْدِ اَرْضِكَ فِيْ مُسْتَقَرِّ الْاَرَضِيْنَ شَرْقِهَا وَ غَرْبِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جِبَالِهَا وَ اَوْدِيَتِهَا وَ طَرِيْقِهَا وَ عَامِرِهَا وَ غَامِرِهَا اِلٰى سَائِرِ مَا خَلَقْتَهٗ عَلَيْهَا وَ مَا فِيْهَا مِنْ حَصَاةٍ وَّ مَدَرٍ وَّ حَجَرٍ مِّنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ الْاَرْضِ مِنْ قِبْلَتِهَا وَ شَرْقِهَا وَ غَرْبِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جِبَالِهَا وَ اَوْدِيَتِهَا وَ اَشْجَارِهَا وَ ثِمَارِهَا وَ اَوْرَاقِهَا وَ زُرُوْعِهَا وَ جَمِيْعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَّبَاتِهَا وَ بَرَكَاتِهَا مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

247 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّيَاطِيْنِ وَ مَا اَنْتَ خَالِقُهٗ مِنْهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

248 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِيْ اَبْدَانِهِمْ وَ فِيْ وُجُوْهِهِمْ وَ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ مُّنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

249 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيْرِ وَ طَيَرَانِ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِيْنِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

250 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيْمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلٰى جَدِيْدِ اَرْضِكَ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ فِيْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا مِنْ اِنْسِهَا وَ جِنِّهَا وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّا اَنْتَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

251 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خُطَاهُمْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.

252 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُّصَلِّيْ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ
يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ وَ النَّبَاتِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ۔

253 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا
تَجَلّٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَابًّا زَكِيًّا، وَ
صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وَ
صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا نِ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ الَّذِيْ إِذَا قَالَ صَدَّقْتَهُ وَ إِذَا سَأَلَ
اَعْطَيْتَهُ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَعْظِمْ بُرْهَانَهُ وَ شَرِّفْ بُنْيَانَهُ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَ بَيِّنْ فَضِيْلَتَهُ۔

اَللّٰهُمَّ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِيْ اُمَّتِهِ، وَ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ، وَ تَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهِ، وَ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِ، وَ تَحْتَ
لِوَآئِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ رُّفَقَآئِهِ، وَ اَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَ اسْقِنَا بِكَاْسِهِ، وَ انْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ، اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ، وَ اَسْئَلُكَ
بِاَسْمَآئِكَ الَّتِيْ دَعَوْتُكَ بِهَآ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَصَفْتُ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا
اَنْتَ، وَ اَنْ تَرْحَمَنِيْ وَ تَتُوْبَ عَلَيَّ وَ تُعَافِيَنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَ الْبَلْوَآءِ، وَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ تَرْحَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ، وَ اَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فُلَانِ
بْنِ فُلَانٍ نِ الْمُذْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيْفِ وَ اَنْ تَتُوْبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ،
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ مَنْ قَرَأَ هٰذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَّاحِدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَوَابَ حَجَّةٍ
مَّقْبُوْلَةٍ وَّ ثَوَابَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وَّلَدِ إِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى يَا مَلَآئِكَتِيْ
هٰذَا عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِيْ اَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلٰى حَبِيْبِيْ مُحَمَّدٍ فَوَعِزَّتِيْ وَ جَلَالِيْ وَ جُوْدِيْ وَ مَجْدِيْ وَ ارْتِفَاعِيْ
لَاُعْطِيَنَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ صَلّٰى بِهٖ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَ لَيَأْتِيَنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ لِوَآءِ الْحَمْدِ نُوْرُ وَجْهِهٖ كَالْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ كَفُّهُ فِيْ كَفِّ حَبِيْبِيْ مُحَمَّدٍ، هٰذَا لِمَنْ قَالَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ لَّهُ هٰذَا الْفَضْلُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيْمِ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى۔

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ جَلَالِكَ وَ بَهَآئِكَ وَ سُلْطَانِكَ وَ بِحَقِّ
اسْمِكَ الْمَخْزُوْنِ الْمَكْنُوْنِ الَّذِيْ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ وَ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ وَ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ
عِنْدَكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ إِذَا دُعِيْتَ بِهٖ
اَجَبْتَ وَ إِذَا سُئِلْتَ بِهٖ اَعْطَيْتَ، وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَاَظْلَمَ، وَ عَلَى النَّهَارِ
فَاسْتَنَارَ وَ عَلَى السَّمٰوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ، وَ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، وَ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ، وَ عَلَى الصَّعْبَةِ
فَذَلَّتْ، وَ عَلٰى مَآءِ السَّمَآءِ فَسَكَبَتْ، وَ عَلَى السَّحَابِ فَاَمْطَرَتْ، وَ اَسْئَلُكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا

مُحَمَّدٌ نَّبِيُّكَ، وَ اَسْئَلُكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ سَيِّدُنَا آدَمُ نَبِيُّكَ، وَ اَسْئَلُكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ اَنْبِيَآؤُكَ وَ رُسُلُكَ وَ مَلَآئِكَتُكَ الْمُقَرَّبُوْنَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ، وَ اَسْئَلُكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ اَهْلُ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنَ السَّمَآءُ مَبْنِيَّةً وَّ الْاَرْضُ مَطْحِيَّةً وَّ الْجِبَالُ مُرْسِيَّةً وَّ الْعُيُوْنُ مُنْفَجِرَةً وَّ الْاَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَّ الشَّمْسُ مُضْحِيَّةً وَّ الْقَمَرُ مُضِيْئًا وَّ الْكَوَاكِبُ مُنِيْرَةً۔

254 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ مِنْ عِلْمِكَ۔

255 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ سَمٰوَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ اَرْضِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ مَآ اَنْتَ خَالِقُهٗ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

256 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوْفِ الْمَلَآئِكَةِ وَ تَسْبِيْحِهِمْ وَ تَقْدِيْسِهِمْ وَ تَحْمِيْدِهِمْ وَ تَمْجِيْدِهِمْ وَ تَكْبِيْرِهِمْ وَ تَهْلِيْلِهِمْ مِّنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

257 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَ الرِّيَاحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

258 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ سَمٰوَاتِكَ اِلٰى اَرْضِكَ وَ مَا تَقْطُرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

259 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ وَ عَدَدَ مَا تَحَرَّكَتِ الْاَشْجَارُ وَ الْاَوْرَاقُ وَ الزَّرْعُ وَ جَمِيْعُ مَا خَلَقْتَ فِيْ قَرَارِ الْحِفْظِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ وَ النَّبَاتِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

261 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُوْمِ فِي السَّمَآءِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

262 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ بِحَارِكَ السَّبْعَةِ مِمَّا

لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّا اَنْتَ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

263 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصٰى فِيْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا۔

264 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

265 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَنْفَاسِهِمْ وَ اَلْفَاظِهِمْ وَ اَلْحَاظِهِمْ مِّنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيَرَانِ الْجِنِّ وَ الْمَلَآئِكَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

267 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطُّيُوْرِ وَ الْهَوَآمِّ وَ عَدَدَ الْوُحُوْشِ وَ الْاٰكَامِ فِيْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا۔

268 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَحْيَآءِ وَ الْاَمْوَاتِ۔

269 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ اَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

270 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ مِّنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

271 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الْمَلَآئِكَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

272 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُّصَلِّيْ عَلَيْهِ۔

273 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔

274 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ اَنْ يُّصَلِّيْ عَلَيْهِ۔

275 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى شَيْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ۔

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ۔

277 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

(اَلْحِزْبُ السَّادِسُ)

278 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ

الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔
اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ شَأْنَهُ وَ بَيِّنْ بُرْهَانَهُ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَ بَيِّنْ فَضِيْلَتَهُ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِيْ اُمَّتِهٖ وَ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهٖ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَيَارَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔
اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ وَ اسْقِنَا بِكَأْسِهٖ وَ انْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهٖ اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔
اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ بَلِّغْهُ عَنَّآ اَفْضَلَ السَّلَامِ وَ اجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ اُمَّتِهٖ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔
اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرَلِيْ وَ تَرْحَمَنِيْ وَ تَتُوْبَ عَلَيَّ وَ تُعَافِيَنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَ الْبَلْوَآءِ الْخَارِجِ مِنَ الْاَرْضِ وَ النَّازِلِ مِنَ السَّمَآءِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، بِرَحْمَتِكَ وَ اَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اَصْحَابِهِ الْاَعْلَامِ اَئِمَّةِ الْهُدٰى وَ مَصَابِيْحِ الدُّنْيَا وَ عَنِ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

279 اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ وَ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ اَسْئَلُكَ بِطَاعَةِ الْاَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ اِلٰى اَجْسَادِهَا وَ بِطَاعَةِ الْاَجْسَادِ الْمُلْتَئِمَةِ بِعُرُوْقِهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيْهِمْ وَ اَخْذِكَ الْحَقَّ مِنْهُمْ وَ الْخَلَائِقُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُوْنَ فَصْلَ قَضَآئِكَ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَكَ وَ يَخَافُوْنَ عِقَابَكَ اَنْ تَجْعَلَ النُّوْرَ فِيْ بَصَرِيْ وَ ذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلٰى لِسَانِيْ وَ عَمَلًا صَالِحًا فَارْزُقْنِيْ۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ۔

280 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

281 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ، وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ۔

282 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ شَهِدَتْ بِهٖ مَلَآئِكَتُكَ صَلَاةً دَآئِمَةً تَدُوْمُ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ۔

283 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَآئِكَ الْعِظَامِ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنَ السَّمَآءُ مَبْنِيَّةً وَّ الْاَرْضُ مَدْحِيَّةً وَّ الْجِبَالُ مُرْسِيَّةً وَّ الْعُيُوْنُ مُنْفَجِرَةً وَّ الْاَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَّ الشَّمْسُ مُشْرِقَةً وَّ الْقَمَرُ مُضِيْئًا وَّ الْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيْرَةً وَّ الْبِحَارُ مُجْرِيَةً وَّ الْاَشْجَارُ مُثْمِرَةً۔

284 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ فَضْلِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُوْدِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمٰوَاتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَرْضِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ سَبْعِ سَمٰوَاتِكَ مِنْ مَّلَآئِكَتِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ اَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ وَ غَيْرِهِمَا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ فِيْ عِلْمِ غَيْبِكَ وَ مَا يَجْرِيْ بِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّحْمَدُكَ وَ يَشْكُرُكَ وَ يُهَلِّلُكَ وَ يُمَجِّدُكَ وَ يَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ اَنْتَ وَ مَلَآئِكَتُكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَ الرِّمَالِ وَ الْحَصٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَ اَوْرَاقِهَا وَ الْمَدَرِ وَ اَثْقَالِهَا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَّ مَا تَخْلُقُ فِيْهَا وَ مَا يَمُوْتُ فِيْهَا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ يَوْمٍ وَّ مَا يَمُوْتُ فِيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

285 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا تَمْطُرُ مِنَ الْمِيَاهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِيْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ جَوْفِهَا وَ قِبْلَتِهَا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَآءِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ بِحَارِكَ مِنَ الْحِيْتَانِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْمِيَاهِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَ الْحَصٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّمْلِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ وَ عَذَابِكَ عَلٰى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَآئِقُ فِي الْجَنَّةِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَآئِقُ فِي النَّارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرِ مَا تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ وَ يَرْضَاكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ وَ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّفَاعَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ مَالِكِيْ وَ سَيِّدِيْ وَ مَوْلَايَ وَ ثِقَتِيْ وَ رَجَآئِيْ اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ قَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَهَبَ لِيْ مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّا اَنْتَ وَ

تصرِف عنّي مِن السُّوءِ مَا لَا يَعلَمُ عِلمَهُ إلَّا أنتَ.
اللّٰهُمَّ يَا مَن وَّهَبَ لِسَيِّدِنَا آدمَ سَيِّدَنَا شِيثَ، وَلِسَيِّدِنَا إبرَاهِيمَ سَيِّدَنَا إسمَاعِيلَ وَ سَيِّدَنَا إسحَاقَ، وَرَدَّ سَيِّدَنَا يُوسُفَ عَلَى سَيِّدِنَا يَعقُوبَ، وَ يَا مَن كَشَفَ البَلَاءَ عَن سَيِّدِنَا أيُّوبَ، وَ يَا مَن رَدَّ سَيِّدَنَا مُوسَى إلَى أُمِّهِ، وَ يَا زَائِدَ سَيِّدِنَا الخَضِرِ فِي عِلمِهِ، وَ يَا مَن وَّهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاوٗدَ سَيِّدَنَا سُلَيمَانَ وَ لِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّاءَ سَيِّدَنَا يَحيٰى، وَلِسَيِّدَتِنَا مَريَمَ سَيِّدَنَا عِيسٰى، وَيَا حَافِظَ ابنَةِ سَيِّدِنَا شُعَيبَ، أسئَلُكَ أن تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ المُرسَلِينَ وَ يَا مَن وَّهَبَ لِسَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ أن تَغفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ تَستُرَ لِي عُيُوبِي كُلَّهَا وَ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ وَ تُوجِبَ لِي رِضوَانَكَ وَ أمَانَكَ وَ غُفرَانَكَ وَ إحسَانَكَ وَ تُمَتِّعَنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ الَّذِينَ أنعَمتَ عَلَيهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ مَا أزعَجَتِ الرِّيَاحُ سَحَابًا رُّكَامًا وَّ ذَاقَ كُلُّ ذِي رُوحٍ حِمَامًا وَّ أوصِلِ السَّلَامَ لِأهلِ السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا.
اللّٰهُمَّ افرِدنِي لِمَا خَلَقتَنِي لَهُ وَلَا تَشغَلنِي بِمَا تَكَفَّلتَ لِي بِهِ وَلَا تَحرِمنِي وَ أنَا أسئَلُكَ وَلَا تُعَذِّبنِي وَ أنَا أستَغفِرُكَ.

286 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ سَلِّم.
اللّٰهُمَّ إنِّي أسئَلُكَ وَ أتَوَجَّهُ إلَيكَ بِحَبِيبِكَ المُصطَفٰى عِندَكَ يَا حَبِيبَنَا يَا سَيِّدَنَا وَ مَولَانَا مُحَمَّدُ إنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ إلَى رَبِّكَ فَاشفَع لَنَا عِندَ المَولَى العَظِيمِ يَا نِعمَ الرَّسُولُ الطَّاهِرُ.
اللّٰهُمَّ شَفِّعهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِندَكَ، وَ اجعَلنَا مِن خَيرِ المُصَلِّينَ وَ المُسَلِّمِينَ عَلَيهِ، وَ مِن خَيرِ المُقَرَّبِينَ مِنهُ وَ الوَارِدِينَ عَلَيهِ وَ مِن أخيَارِ المُحِبِّينَ فِيهِ وَ المَحبُوبِينَ لَدَيهِ، وَ فَرِّحنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، وَ اجعَلهُ لَنَا دَلِيلًا إلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِلَا مَؤُونَةٍ وَّلَا مَشَقَّةٍ وَّلَا مُنَاقَشَةِ الحِسَابِ وَ اجعَلهُ مُقبِلًا عَلَينَا، وَلَا تَجعَلهُ غَاضِبًا عَلَينَا، وَ اغفِر لَنَا وَ لِوَالِدِينَا وَ لِجَمِيعِ المُسلِمِينَ الأحيَاءِ مِنهُم وَ المَيِّتِينَ وَ آخِرُ دَعوَانَا أنِ الحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

287 فَأسئَلُكَ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلَالِ وَ الإكرَامِ، لَا إلٰهَ إلَّا أنتَ سُبحَانَكَ إنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. أسئَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرسِيُّكَ مِن عَظَمَتِكَ وَ جَلَالِكَ وَ بَهَائِكَ وَ قُدرَتِكَ وَ سُلطَانِكَ وَ بِحَقِّ أسمَائِكَ المَخزُونَةِ المَكنُونَةِ المُطَهَّرَةِ الَّتِي لَم يَطَّلِع عَلَيهَا أحَدٌ مِّن خَلقِكَ، وَ بِحَقِّ الإسمِ الَّذِي وَضَعتَهُ عَلَى اللَّيلِ فَأظلَمَ، وَ عَلَى النَّهَارِ فَاستَنَارَ وَ عَلَى السَّمٰوَاتِ فَاستَقَلَّت، وَ عَلَى الأرضِ فَاستَقَرَّت، وَ عَلَى البِحَارِ فَانفَجَرَت، وَ عَلَى العُيُونِ فَنَبَعَت، وَ عَلَى السَّحَابِ فَأمطَرَت، وَ أسئَلُكَ بِالأسمَاءِ المَكتُوبَةِ فِي جَبهَةِ سَيِّدِنَا جِبرِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَ بِالأسمَاءِ المَكتُوبَةِ فِي جَبهَةِ سَيِّدِنَا إسرَافِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَ عَلَى جَمِيعِ المَلَائِكَةِ وَ أسئَلُكَ بِالأسمَاءِ المَكتُوبَةِ حَولَ العَرشِ وَ بِالأسمَاءِ المَكتُوبَةِ حَولَ الكُرسِيِّ، وَ

اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ وَ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ اَسْمَآئِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ، وَ اَسْئَلُكَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هَارُوْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا اِسْمَاعِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا دَاوٗدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا زَكَرِيَّآءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَحْيٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوْشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا اِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْيَسَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْاَسْمَآءِ الَّتِيْ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ، نَبِيُّكَ وَ رَسُوْلُكَ وَ حَبِيْبُكَ وَ صَفِيُّكَ يَا مَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ وَلَا يَصْدُرُ عَنْ اَحَدٍ مِّنْ عَبِيْدِهٖ قَوْلٌ وَّلَا فِعْلٌ وَّلَا حَرَكَةٌ وَّلَا سُكُوْنٌ اِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ فِيْ عِلْمِهٖ وَ قَضَآئِهٖ وَ قَدْرِهٖ كَيْفَ يَكُوْنُ كَمَا اَلْهَمْتَنِيْ وَ قَضَيْتَ لِيْ بِجَمْعِ (بِقِرَآءَةِ) هٰذَا الْكِتَابِ وَ يَسَّرْتَ عَلَيَّ فِيْهِ الطَّرِيْقَ وَ الْاَسْبَابَ وَ نَفَيْتَ عَنْ قَلْبِيْ فِيْ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ الشَّكَّ وَ الْاِرْتِيَابَ وَ غَلَّبْتَ حُبَّهٗ عِنْدِيْ عَلٰى حُبِّ جَمِيْعِ الْاَقْرِبَآءِ وَ الْاَحِبَّآءِ اَسْئَلُكَ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ اَنْ تَرْزُقَنِيْ وَ كُلَّ مَنْ اَحَبَّهٗ وَ اتَّبَعَهٗ شَفَاعَتَهٗ وَ مُرَافَقَتَهٗ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ وَّلَا عَذَابٍ وَّلَا تَوْبِيْخٍ وَّلَا عِتَابٍ وَّ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ تَسْتُرَ عُيُوْبِيْ يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ، وَ اَنْ تُنَعِّمَنِيْ بِالنَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ جُمْلَةِ الْاَحْبَابِ يَوْمَ الْمَزِيْدِ وَ الثَّوَابِ، وَ اَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّيْ عَمَلِيْ وَ اَنْ تَعْفُوَ عَمَّا اَحَاطَ عِلْمُكَ بِهٖ مِنْ خَطِيْئَتِيْ وَ نِسْيَانِيْ وَ زَلَلِيْ وَ اَنْ تُبَلِّغَنِيْ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهٖ وَ التَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ وَ عَلٰى صَاحِبَيْهِ غَايَةَ اَمَلِيْ بِمَنِّكَ وَ فَضْلِكَ وَ جُوْدِكَ وَ كَرَمِكَ يَا رَؤُوْفُ يَا رَحِيْمُ يَا وَلِيُّ، وَ اَنْ تُجَازِيَهٗ عَنِّيْ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ اتَّبَعَهٗ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ، اَفْضَلَ وَ اَتَمَّ وَ اَعَمَّ مَا جَازَيْتَ بِهٖ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيْزُ يَا عَلِيُّ.

288 وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِحَقِّ مَا اَقْسَمْتُ بِهٖ عَلَيْكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنَ السَّمَآءُ مَبْنِيَّةً وَّ الْاَرْضُ مَدْحِيَّةً وَّ الْجِبَالُ عُلْوِيَّةً وَّ الْعُيُوْنُ مُنْفَجِرَةً وَّ الْبِحَارُ مُسَخَّرَةً وَّ الْاَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَّ الشَّمْسُ مُضْحِيَّةً وَّ الْقَمَرُ مُضِيْئًا وَّ النَّجْمُ مُنِيْرًا وَّلَا يَعْلَمُ اَحَدٌ حَيْثُ تَكُوْنُ اِلَّا اَنْتَ، وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كَلَامِكَ، وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ

اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ وَ حُرُوْفِهٖ، وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَنْ يُّصَلِّیْ عَلَيْهِ، وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ مِلْئَ اَرْضِكَ، وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَا جَرٰی بِهِ الْقَلَمُ فِیْ اُمِّ الْكِتَابِ، وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِیْ سَبْعِ سَمٰوَاتِكَ، وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَا اَنْتَ خَالِقُهٗ فِيْهِنَّ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ، وَّ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ قَطْرِ الْمَطَرِ وَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَآئِكَ اِلٰی اَرْضِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

(اَلْحِزْبُ السَّابِعُ)

289 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ وَ قَدَّسَكَ وَ سَجَدَ لَكَ وَ عَظَّمَكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

290 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ فِيْهَا مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

291 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ۔

292 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ الرِّيَاحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

293 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَ حَرَّكَتْهُ مِنَ الْاَغْصَانِ وَ الْاَشْجَارِ وَ اَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَ الْاَزْهَارِ، وَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلٰی قَرَارِ اَرْضِكَ وَ مَا بَيْنَ سَمٰوَاتِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

294 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ اَمْوَاجِ بِحَارِكَ مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

295 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصٰی وَ كُلِّ حَجَرٍ وَّ مَدَرٍ خَلَقْتَهٗ فِیْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا سَهْلِهَا وَ جِبَالِهَا وَ اَوْدِيَتِهَا مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

296 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ نَبَاتِ الْاَرْضِ فِیْ قِبْلَتِهَا وَ جَوْفِهَا وَ شَرْقِهَا وَ غَرْبِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جِبَالِهَا مِنْ شَجَرٍ وَّ ثَمَرٍ وَّ اَوْرَاقٍ وَّ زَرْعٍ وَّ جَمِيْعِ مَآ اَخْرَجَتْ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَّبَاتِهَا وَ بَرَكَاتِهَا مِنْ يَّوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

297 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِيْنِ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقُهٗ مِنْهُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

298 وَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِیْ اَبْدَانِهِمْ وَ وُجُوْهِهِمْ وَ عَلٰی رُؤُوْسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰی

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

299 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ اَنْفَاسِهِمْ وَ اَلْفَاظِهِمْ وَ اَلْحَاظِهِمْ مِّنْ يَّوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

300 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ طَيَرَانِ الْجِنِّ وَ خَفَقَانِ الْاِنْسِ مِنْ يَّوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

301 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كُلِّ بَهِيْمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلٰى اَرْضِكَ صَغِيْرَةً وَّ كَبِيْرَةً فِىْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا مِمَّا عُلِمَ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّا اَنْتَ مِنْ يَّوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

301 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ عَدَدَ مَنْ يُّصَلِّىْ عَلَيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

302 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ الْاَحْيَآءِ وَ الْاَمْوَاتِ وَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ حِيْتَانٍ وَّ طَيْرٍ وَّ نَمْلٍ وَّ نَحْلٍ وَّ حَشَرَاتٍ۔

303 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ فِى اللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى۔

304 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ فِى الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى۔

305 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ مُنْذُ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا اِلٰى اَنْ صَارَ كَهْلًا مَّهْدِيًّا فَقَبَضْتَهٗ اِلَيْكَ عَدْلًا مَّرْضِيًّا لِّتَبْعَثَهٗ شَفِيْعًا حَفِيًّا۔

306 وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضٰى نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ اَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ الْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَ الْعِزَّ الْمَمْدُوْدَ وَ اَنْ تُعَظِّمَ بُرْهَانَهٗ وَ اَنْ تُشَرِّفَ بُنْيَانَهٗ وَ اَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهٗ وَ اَنْ تَسْتَعْمِلَنَا يَا مَوْلَانَا بِسُنَّتِهٖ وَ اَنْ تُمِيْتَنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ، وَ اَنْ تَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ وَ اَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ رُّفَقَآئِهٖ وَ اَنْ تُوْرِدَنَا حَوْضَهٗ وَ اَنْ تَسْقِيَنَا بِكَاْسِهٖ وَ اَنْ تَنْفَعَنَا بِمَحَبَّتِهٖ وَ اَنْ تَتُوْبَ عَلَيْنَا وَ اَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَ الْبَلْوَآءِ وَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَنْ تَرْحَمَنَا وَ اَنْ تَعْفُوَ عَنَّا وَ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ هُوَ حَسْبِىْ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

307 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَجَعَتِ الْحَمَآئِمُ وَ حَمَتِ الْحَوَآئِمُ وَ سَرَحَتِ الْبَهَآئِمُ وَ نَفَعَتِ التَّمَآئِمُ وَ شُدَّتِ الْعَمَآئِمُ وَ نَمَعَتِ النَّوَآئِمُ۔

308 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اَبْلَجَ الْاِصْبَاحُ وَ هَبَّتِ الرِّيَاحُ وَ دَبَّتِ الْاَشْبَاحُ وَ تَعَاقَبَ الْغُدُوُّ وَ الرَّوَاحُ وَ تُقُلِّدَتِ الصِّفَاحُ وَ اعْتُقِلَتِ الرِّمَاحُ وَ صَحَّتِ الْاَجْسَادُ وَ

الْاَرْوَاحُ۔

309 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَارَتِ الْاَفْلَاكُ وَ دَجَتِ
الْاَحْلَاكُ وَ سَبَّحَتِ الْاَمْلَاكُ۔

310 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰى سَیِّدِنَآ اِبْرَاهِیْمَ وَ
بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَیِّدِنَآ اِبْرَاهِیْمَ فِی
الْعَالَمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

311 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ مَا صُلِّیَتِ
الْخَمْسُ وَ مَا تَاَلَّقَ بَرْقٌ وَّ تَدَفَّقَ وَدْقٌ وَ مَا سَبَّحَ رَعْدٌ۔

312 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مِلْءَ مَا
بَیْنَهُمَا وَ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَیْءٍ بَعْدُ۔

اَللّٰھُمَّ كَمَا قَامَ بِاَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَ اسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ جَاهَدَ اَهْلَ الْكُفْرِ وَ الضَّلَالَةِ وَ دَعَآ اِلٰى
تَوْحِیْدِكَ وَ قَاسَى الشَّدَآئِدَ فِیْ اِرْشَادِ عَبِیْدِكَ فَاَعْطِهِ اللّٰھُمَّ سُؤْلَهٗ وَ بَلِّغْهُ مَاْمُوْلَهٗ وَ آتِهِ الْفَضِیْلَةَ وَ
الْوَسِیْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِیْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ۔

اَللّٰھُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِیْنَ لِشَرِیْعَتِهِ الْمُتَّصِفِیْنَ بِمَحَبَّتِهِ الْمُهْتَدِیْنَ بِهَدْیِهٖ وَ سِیْرَتِهٖ وَ تَوَفَّنَا عَلٰى
سُنَّتِهٖ وَ لَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهٖ وَ احْشُرْنَا فِیْ اَتْبَاعِهِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِیْنَ وَ اَشْیَاعِهِ السَّابِقِیْنَ وَ اَصْحَابِ
الْیَمِیْنِ یَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

313 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ وَ الْمُقَرَّبِیْنَ وَ عَلٰى اَنْبِیَآئِكَ وَ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰى اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِیْنَ وَ
اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ مِّنَ الْمَرْحُوْمِیْنَ۔

314 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ مِنْ تِهَامَةَ وَ الْاٰمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ الْاِسْتِقَامَةِ وَ الشَّفِیْعِ
لِاَهْلِ الذُّنُوْبِ فِیْ عَرَصَاتِ الْقِیَامَةِ۔

اَللّٰھُمَّ اَبْلِغْ عَنَّا نَبِیَّنَا وَ شَفِیْعَنَا وَ حَبِیْبَنَآ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِیْمِ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ
الْكَرِیْمَ وَ آتِهِ الْفَضِیْلَةَ وَ الْوَسِیْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِیْعَةَ الَّتِیْ وَعَدْتَّهٗ فِی الْمَوْقِفِ الْعَظِیْمِ۔

315 وَ صَلِّ اللّٰھُمَّ عَلَیْهِ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّتَّصِلَةً تَتَوَالٰى وَ تَدُوْمُ۔

316 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ مَا لَاحَ بَارِقٌ وَّ ذَرَّ شَارِقٌ وَّ وَقَبَ غَاسِقٌ وَّ انْهَمَرَ وَادِقٌ، وَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ
مِلْءَ اللَّوْحِ وَ الْفَضَآءِ وَ مِثْلَ نُجُوْمِ السَّمَآءِ وَ عَدَدَ الْقَطْرِ وَ الْحَصٰى، وَ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً لَّا تُعَدُّ وَ لَا
تُحْصٰى۔

317 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مَبْلَغَ رِضَاكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ مُنْتَهٰى رَحْمَتِكَ۔

318 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ كَمَا صَلَّیْتَ وَ

بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَّ جَازِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ
نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ بِمِنْهَاجِ شَرِيْعَتِهٖ وَ اهْدِنَا بِهَدْيِهٖ وَ تَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ احْشُرْنَا يَوْمَ
الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اَمِتْنَا عَلٰى حُبِّهٖ وَ حُبِّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ.

319 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ اَنْبِيَآئِكَ وَ اَكْرَمِ اَصْفِيَآئِكَ وَ اِمَامِ اَوْلِيَآئِكَ وَ خَاتِمِ
اَنْبِيَآئِكَ وَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ شَهِيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَ سَيِّدِ وُلْدِ سَيِّدِنَا اٰدَمَ
اَجْمَعِيْنَ الْمَرْفُوْعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ الْحَقِّ
الْمُبِيْنِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الْهَادِيْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ الَّذِيْ اٰتَيْتَهٗ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنِ
الْعَظِيْمِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ هَادِي الْاُمَّةِ اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ الْمُؤَيَّدِ بِسَيِّدِنَا جِبْرِيْلَ
وَ سَيِّدِنَا مِيْكَآئِيْلَ الْمُبَشَّرِ بِهٖ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنْتَخَبِ اَبِي الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ.

320 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ وَ الْمُقَرَّبِيْنَ الَّذِيْنَ يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ وَلَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ
اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

اَللّٰهُمَّ وَ كَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ سُفَرَآءَ اِلٰى رُسُلِكَ وَ اُمَنَآءَ عَلٰى وَحْيِكَ وَ شُهَدَآءَ عَلٰى خَلْقِكَ وَ خَرَقْتَ لَهُمْ
كُنُفَ حُجُبِكَ وَ اَطْلَعْتَهُمْ عَلٰى مَكْنُوْنِ غَيْبِكَ وَ اخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةً لِّجَنَّتِكَ وَ حَمَلَةً لِّعَرْشِكَ وَ جَعَلْتَهُمْ
مِّنْ اَكْثَرِ جُنُوْدِكَ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرٰى وَ اَسْكَنْتَهُمُ السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى وَ نَزَّهْتَهُمْ عَنِ الْمَعَاصِيْ وَ
الدَّنَآءَاتِ وَ قَدَّسْتَهُمْ عَنِ النَّقَآئِصِ وَ الْاٰفَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَآئِمَةً تَزِيْدُهُمْ بِهَا فَضْلًا وَّ تَجْعَلُنَا
لِاِسْتِغْفَارِهِمْ بِهَآ اَهْلًا.

321 اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ الَّذِيْنَ شَرَحْتَ صُدُوْرَهُمْ وَ اَوْدَعْتَهُمْ حِكْمَتَكَ وَ طَوَّقْتَهُمْ
نُبُوَّتَكَ وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَ هَدَيْتَ بِهِمْ خَلْقَكَ وَ دَعَوْا اِلٰى تَوْحِيْدِكَ وَ شَوَّقُوْا اِلٰى وَعْدِكَ وَ خَوَّفُوْا
مِنْ وَّعِيْدِكَ وَ اَرْشَدُوْا اِلٰى سَبِيْلِكَ وَ قَامُوْا بِحُجَّتِكَ وَ دَلِيْلِكَ وَ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِيْمًا وَّ هَبْ لَنَا
بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا.

322 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً مَّقْبُوْلَةً تُؤَدِّيْ بِهَا عَنَّا
حَقَّهُ الْعَظِيْمَ.

323 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُسْنِ وَ الْجَمَالِ وَ الْبَهْجَةِ وَ الْكَمَالِ وَ الْبَهَآءِ وَ النُّوْرِ وَ
الْوِلْدَانِ وَ الْحُوْرِ وَ الْغُرَفِ وَ الْقُصُوْرِ وَ اللِّسَانِ الشَّكُوْرِ وَ الْقَلْبِ الْمَشْكُوْرِ وَ الْعِلْمِ الْمَشْهُوْرِ وَ الْجَيْشِ
الْمَنْصُوْرِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْبَنَاتِ وَ الْاَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ وَ الْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَ الزَّمْزَمِ وَ الْمَقَامِ وَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اِجْتِنَابِ الْاٰثَامِ وَ تَرْبِيَةِ الْاَيْتَامِ وَ الْحَجِّ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَ تَسْبِيْحِ الرَّحْمٰنِ وَ صِيَامِ
رَمَضَانَ وَ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الْجُوْدِ وَ الْوَفَآءِ بِالْعُهُوْدِ صَاحِبِ الرَّغْبَةِ وَ التَّرْغِيْبِ وَ الْبَغْلَةِ وَ

النَّجِيْبِ وَ الْحَوْضِ وَ الْقَضِيْبِ النَّبِيِّ الْاَوَّابِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ الْمَنْعُوْتِ فِي الْكِتَابِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ النَّبِيِّ كَنْزِ اللهِ النَّبِيِّ حُجَّةِ اللهِ النَّبِيِّ مَنْ اَطَاعَهٗ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللهَ. النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الزَّمْزَمِيِّ الْمَكِّيِّ التِّهَامِيِّ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ وَ الطَّرْفِ الْكَحِيْلِ وَ الْخَدِّ الْاَسِيْلِ وَ الْكَوْثَرِ وَ السَّلْسَبِيْلِ قَاهِرِ الْمُضَادِّيْنَ مُبِيْدِ الْكَافِرِيْنَ وَ قَاتِلِ الْمُشْرِكِيْنَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اِلٰى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَ جِوَارِ الْكَرِيْمِ صَاحِبِ سَيِّدِنَا جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَ غَايَةِ الْغَمَامِ، وَ مِصْبَاحِ الظَّلَامِ وَ قَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْمُصْطَفَيْنَ مِنْ اَطْهَرِ جِبِلَّةٍ صَلَاةً دَآئِمَةً عَلَى الْاَبَدِ غَيْرَ مُضْمَحِلَّةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ صَلَاةً يَّتَجَدَّدُ بِهَا حُبُوْرُهٗ وَ يُشَرَّفُ بِهَا فِي الْمِيْعَادِ بَعْثُهٗ وَ نُشُوْرُهٗ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُوْدُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوْثِ الْهَوَامِعِ اَرْسَلَهٗ مِنْ اَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيْزَانًا وَّ اَوْضَحِهَا بَيَانًا وَّ اَفْصَحِهَا لِسَانًا وَّ اَشْمَخِهَا اِيْمَانًا وَّ اَعْلَاهَا مَقَامًا وَّ اَحْلَاهَا كَلَامًا وَّ اَوْفَاهَا ذِمَامًا وَّ اَصْفَاهَا رَغَامًا، فَاَوْضَحَ الطَّرِيْقَةَ وَ نَصَحَ الْخَلِيْقَةَ وَ شَهَرَ الْاِسْلَامَ وَ كَسَّرَ الْاَصْنَامَ وَ اَظْهَرَ الْاَحْكَامَ وَ حَظَرَ الْحَرَامَ وَ عَمَّ بِالْاِنْعَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ فِيْ كُلِّ مَحْفِلٍ وَّ مَقَامٍ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ عَوْدًا وَّ بَدْءً، صَلَاةً تَكُوْنُ ذَخِيْرَةً وَّ وِرْدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ صَلَاةً تَآمَّةً زَاكِيَةً وَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ صَلَاةً يَّتْبَعُهَا رَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ وَّ يَعْقُبُهَا مَغْفِرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ، وَّ صَلَّى اللهُ عَلٰى اَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ النِّجَارُ وَ سَمَا بِهِ الْفَخَارُ وَ اسْتَنَارَتْ بِنُوْرِ جَبِيْنِهِ الْاَقْمَارُ، وَ تَضَآءَلَتْ عِنْدَ جُوْدِ يَمِيْنِهِ الْغَمَآئِمُ وَ الْبِحَارُ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِبَاهِرِ آيَاتِهٖ اَضَآءَتِ الْاَنْجَادُ وَ الْاَغْوَارُ وَ بِمُعْجِزَاتِ آيَاتِهٖ نَطَقَ الْكِتَابُ وَ تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا اِلٰى نُصْرَتِهٖ وَ نَصَرُوْهُ فِيْ هِجْرَتِهٖ فَنِعْمَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَ نِعْمَ الْاَنْصَارُ صَلَاةً نَّامِيَةً دَآئِمَةً مَّا سَجَعَتْ فِيْ اَيْكِهَا الْاَطْيَارُ وَ هَمَعَتْ بِوَبْلِهَا الدِّيْمَةُ الْمِدْرَارُ ضَاعَفَ اللهُ عَلَيْهِ دَآئِمَ صَلَاتِهٖ.

324 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الْكِرَامِ صَلَاةً مَّوْصُوْلَةً دَآئِمَةَ الْاِتِّصَالِ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ.

325 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَ شَمْسُ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ وَ الْهَادِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ صَلَاةً دَآئِمَةَ الْاِتِّصَالِ وَ التَّوَالِيْ مُتَعَاقِبَةً بِتَعَاقُبِ الْاَيَّامِ وَ اللَّيَالِيْ.

326

(اَلْحِزْبُ الثَّامِنُ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الزَّاهِدِ رَسُوْلِ الْمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ صَلَاةً دَآئِمَةً اِلٰى مُنْتَهَى الْاَبَدِ بِلَا اِنْقِطَاعٍ وَّ لَا نَفَادٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ.

327 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلِّمْ صَلَاةً لَّا يُحْصٰى لَهَا عَدَدٌ وَّلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ۔

328 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَ تُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ رِضَاهُ۔

329 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاَصِيْلِ السَّيِّدِ النَّبِيْلِ الَّذِىْ جَآءَ بِالْوَحْيِ وَ التَّنْزِيْلِ وَ اَوْضَحَ بَيَانَ التَّاوِيْلِ وَ جَآءَهُ الْاَمِيْنُ سَيِّدُنَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ وَ التَّفْضِيْلِ وَ اَسْرٰى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيْلُ فِى اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ الطَّوِيْلِ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ اَعْلَى الْمَلَكُوْتِ وَ اَرَاهُ سَنَآءَ الْجَبَرُوْتِ وَ نَظَرَ اِلٰى قُدْرَةِ الْحَيِّ الدَّآئِمِ الْبَاقِي الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّمَ صَلَاةً مَّقْرُوْنَةً ، بِالْجَمَالِ وَ الْحُسْنِ وَ الْكَمَالِ وَ الْخَيْرِ وَ الْاِفْضَالِ۔

330 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَقْطَارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ الْبِحَارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَنْهَارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ الصَّحَارٰى وَ الْقِفَارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ثِقْلِ الْجِبَالِ وَ الْاَحْجَارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اَهْلِ النَّارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَبْرَارِ وَ الْفُجَّارِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ۔

331 وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ حِجَابًا مِّنْ عَذَابِ النَّارِ وَ سَبَبًا لِّاِبَاحَةِ دَارِ الْقَرَارِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِيْنَ وَ صَحَابَتِهِ الْاَكْرَمِيْنَ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ صَلَاةً مَّوْصُوْلَةً تَتَرَدَّدُ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

332 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَ زَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَخْيَارِ وَ اَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ اَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ الَّذِىْ لَا يُكَافٰى امْتِنَانُهُ وَ الطَّوْلِ الَّذِىْ لَا يُجَازٰى اِنْعَامُهُ وَ اِحْسَانُهُ نَسْئَلُكَ بِكَ وَلَا نَسْئَلُكَ بِاَحَدٍ غَيْرِكَ اَنْ تُطْلِقَ اَلْسِنَتَنَا عِنْدَ السُّؤَالِ وَ تُوَفِّقَنَا لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَ تَجْعَلَنَا مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الرَّجْفِ وَ الزَّلَازِلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ الْجَلَالِ، اَسْئَلُكَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ قَبْلَ الْاَزْمِنَةِ وَ الدُّهُوْرِ، اَنْتَ الْبَاقِيْ بِلَا زَوَالٍ نِ الْغَنِيُّ بِلَا مِثَالٍ نِ الْقُدُّوْسُ الطَّاهِرُ الْعَلِيُّ الْقَاهِرُ الَّذِىْ لَا يُحِيْطُ بِهٖ مَكَانٌ وَّلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ، اَسْئَلُكَ بِاَسْمَآئِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا وَ بِاَعْظَمِ اَسْمَآئِكَ اِلَيْكَ وَ اَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَّ اَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا وَّ اَسْرَعِهَا مِنْكَ اِجَابَةً وَّ بِاِسْمِكَ الْمَخْزُوْنِ الْمَكْنُوْنِ الْجَلِيْلِ الْاَجَلِّ الْكَبِيْرِ الْاَكْبَرِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ تُحِبُّهُ وَ تَرْضٰى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهٖ وَ تَسْتَجِيْبُ لَهُ دُعَآءَهُ، اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِلَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْحَنَّانُ

الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ، وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيْتَ بِهٖ اَجَبْتَ وَ اِذَا سُئِلْتَ بِهٖ اَعْطَيْتَ وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِيْ يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَآءُ وَ الْمُلُوْكُ وَ السِّبَاعُ وَ الْهَوَآمُّ وَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهٗ يَآ اَللّٰهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِيْ يَا مَنْ لَّهُ الْعِزَّةُ وَ الْجَبَرُوْتُ يَا ذَا الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ سُبْحَانَكَ رَبِّ مَآ اَعْظَمَ شَانَكَ وَ اَرْفَعَ مَكَانَكَ اَنْتَ رَبِّيْ يَا مُتَقَدِّسًا فِيْ جَبَرُوْتِهٖ اِلَيْكَ اَرْغَبُ وَ اِيَّاكَ اَرْهَبُ يَا عَظِيْمُ يَا كَبِيْرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكْتَ يَا عَظِيْمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيْمُ سُبْحَانَكَ يَا عَظِيْمُ سُبْحَانَكَ يَا جَلِيْلُ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْعَظِيْمِ التَّآمِّ الْكَبِيْرِ اَنْ لَّا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّارًا عَنِيْدًا وَّلَا شَيْطَانًا مَّرِيْدًا وَّلَا اِنْسَانًا حَسُوْدًا وَّلَا ضَعِيْفًا مِّنْ خَلْقِكَ وَلَا شَدِيْدًا وَّلَا بَآرًّا وَّلَا فَاجِرًا وَّلَا عَنِيْدًا ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ فَاِنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ، يَا هُوَ مَنْ لَّا هُوَ اِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَا اَزَلِيُّ يَا اَبَدِيُّ يَا دَهْرِيُّ يَا دَيْمُوْمِيُّ يَا مَنْ هُوَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ يَآ اِلٰهَنَا وَ اِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰهًا وَّاحِدًا لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ۔

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الدَّيَّانِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، قُلُوْبُ الْخَلَآئِقِ بِيَدِكَ نَوَاصِيْهِمْ اِلَيْكَ فَاَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَ تَمْحُو الشَّرَّ اِذَا شِئْتَ مِنْهُمْ، فَاَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تَمْحُوَ مِنْ قَلْبِيْ كُلَّ شَيْءٍ تَكْرَهُهٗ وَ اَنْ تَحْشُوَ قَلْبِيْ مِنْ خَشْيَتِكَ وَ مَعْرِفَتِكَ وَ رَهْبَتِكَ وَ الرَّغْبَةِ فِيْمَا عِنْدَكَ وَ الْاَمْنَ وَ الْعَافِيَةَ وَ اعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَ الْبَرَكَةِ مِنْكَ وَ اَلْهِمْنَا الصَّوَابَ وَ الْحِكْمَةَ، فَنَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ عِلْمَ الْخَائِفِيْنَ وَ اِنَابَةَ الْمُخْبِتِيْنَ وَ اِخْلَاصَ الْمُوْقِنِيْنَ وَ شُكْرَ الصَّابِرِيْنَ وَ تَوْبَةَ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَ نَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ مَلَئَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ اَنْ تَزْرَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَعْرِفَتِكَ حَتّٰى اَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ تُعْرَفَ بِهٖ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ اِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ هُوَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمُؤَلِّفِهٖ وَ لِمُصَحِّحِهٖ وَ لِقَارِئِهٖ وَ لِسَامِعِهٖ وَ ارْحَمْهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ مِّنَ الْمَحْشُوْرِيْنَ فِيْ زُمْرَةِ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفَضْلِكَ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ، وَ اغْفِرِ اللّٰهُمَّ لَنَا وَ لِوَالِدَيْنَا وَ لِمَشَآئِخِنَا وَ لِاُسْتَاذِيْنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَ اَنْ تَتُوْبَ عَلَيْهِ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى بَدْرِ التَّمَامِ ۔ 333

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِ الظَّلَامِ ۔ 334

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ ۔ 335

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيْعِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَنَامِ ۔ 336

وَلِيَقْرَءِ الْاَبْيَاتَ الْمَنْسُوْبَةَ اِلَى الْمُؤَلِّفِ وَهِيَ هٰذِهٖ

يَا رَحْمَةَ اللهِ اِنِّيْ خَائِفٌ وَّجِلٌ، يَا نِعْمَةَ اللهِ اِنِّيْ مُفْلِسٌ عَانٍ، وَلَيْسَ لِيْ عَمَلٌ اَلْقَى الْعَلِيْمَ بِهٖ، سِوٰى مَحَبَّتِكَ الْعُظْمٰى وَاِيْمَانِيْ، فَكُنْ اَمَانِيْ مِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَمِنْ، شَرِّ الْمَمَاتِ وَمِنْ اِحْرَاقِ جُثْمَانِيْ، وَكُنْ غِنَايَ الَّذِيْ مَا بَعْدَهٗ فَلَسٌ، وَكُنْ فَكَاكِيْ مِنْ اَغْلَالِ عِصْيَانِيْ، تَحِيَّةُ الصَّمَدِ الْمَوْلٰى وَرَحْمَتُهٗ، مَا غَنَّتِ الْوَرْقُ فِيْ اَوْرَاقِ اَغْصَانٍ، عَلَيْكَ يَا عُرْوَتِي الْوُثْقٰى وَيَا سَنَدِي الْاَوْفٰى، وَمَنْ مَّدْحُهٗ رَوْحِيْ وَرَيْحَانِيْ، نَبِيَّ الْهُدٰى ضَاقَتْ بِيَ الْحَالُ فِي الْوَرٰى، وَاَنْتَ لِمَآ اَمَّلْتُ فِيْكَ جَدِيْرٌ، فَسَلْ خَالِقِيْ تَفْرِيْجَ كَرْبِيْ فَاِنَّهٗ، عَلٰى فَرَجِيْ دُوْنَ الْاَنَامِ قَدِيْرٌ

ثُمَّ تُقْرَءُ الْفَاتِحَةُ لِلْمُؤَلِّفِ وَهٰذَا الدُّعَآءُ

هٰذَا الدُّعَآءُ يُقْرَءُ عَقِيْبَ خَتْمِ دَلَآئِلِ الْخَيْرَاتِ


اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صُدُوْرَنَا، وَيَسِّرْ بِهَآ اُمُوْرَنَا، وَفَرِّجْ بِهَا هُمُوْمَنَا، وَاكْشِفْ بِهَا غُمُوْمَنَا، وَاغْفِرْ بِهَا ذُنُوْبَنَا، وَاقْضِ بِهَا دُيُوْنَنَا، وَاَصْلِحْ بِهَآ اَحْوَالَنَا، وَبَلِّغْ بِهَآ اٰمَالَنَا، وَتَقَبَّلْ بِهَا تَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ بِهَا حَوْبَتَنَا، وَانْصُرْ بِهَا حُجَّتَنَا، وَطَهِّرْ بِهَآ اَلْسِنَتَنَا، وَاٰنِسْ بِهَا وَحْشَتَنَا، وَارْحَمْ بِهَا غُرْبَتَنَا، وَاجْعَلْهَا نُوْرًا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمِنْ خَلْفِنَا، وَعَنْ اَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَآئِلِنَا، وَمِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِنَا، وَفِيْ حَيَاتِنَا وَمَوْتِنَا، وَفِيْ قُبُوْرِنَا وَحَشْرِنَا وَنَشْرِنَا وَظِلًّا فِي الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِنَا، وَثَقِّلْ بِهَا مَوَازِيْنَ حَسَنَاتِنَا، وَاَدِمْ بَرَكَاتِهَا عَلَيْنَا حَتّٰى نَلْقٰى نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ اٰمِنُوْنَ مُطْمَئِنُّوْنَ فَرِحُوْنَ مُسْتَبْشِرُوْنَ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ حَتّٰى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهٗ وَتُؤْوِيَنَآ اِلٰى جِوَارِهِ الْكَرِيْمِ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.


اَللّٰهُمَّ اِنَّآ اٰمَنَّا بِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَرَهُ فَمَتِّعْنَا.

اَللّٰهُمَّ فِي الدَّارَيْنِ بِرُؤْيَتِهٖ وَثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى مَحَبَّتِهٖ، وَاسْتَعْمِلْنَا عَلٰى سُنَّتِهٖ، وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ، وَاحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحِزْبِهِ الْمُفْلِحِيْنَ، وَانْفَعْنَا بِمَآ اَنْطَوَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُنَا مِنْ مَّحَبَّتِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَوْمَ لَا جَدَّ وَلَا مَالَ وَلَا بَنِيْنَ، وَاَوْرِدْنَا حَوْضَهُ الْاَصْفٰى، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ الْاَوْفٰى، وَيَسِّرْ عَلَيْنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَحَرَمِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُمِيْتَنَا، وَاَدِمْ عَلَيْنَا الْاِقَامَةَ بِحَرَمِكَ وَحَرَمِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلٰى اَنْ نَّتَوَفّٰى.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِهٖ اِلَيْكَ اِذْ هُوَ اَوْجَهُ الشُّفَعَآءِ اِلَيْكَ، وَنُقْسِمُ بِهٖ عَلَيْكَ اِذْ هُوَ اَعْظَمُ مَنْ اُقْسِمَ بِحَقِّهٖ عَلَيْكَ، وَنَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَيْكَ اِذْ هُوَ اَقْرَبُ الْوَسَآئِلِ اِلَيْكَ، نَشْكُوْا اِلَيْكَ يَا رَبِّ قَسْوَةَ قُلُوْبِنَا، وَكَثْرَةَ ذُنُوْبِنَا، وَطُوْلَ اٰمَالِنَا، وَفَسَادَ اَعْمَالِنَا، وَتَكَاسُلَنَا عَنِ الطَّاعَاتِ، وَهُجُوْمَنَا عَلَى الْمُخَالَفَاتِ، فَنِعْمَ الْمُشْتَكٰى اِلَيْهِ اَنْتَ بِكَ نَسْتَنْصِرُ عَلٰى اَعْدَآئِنَا، وَاَنْفُسِنَا فَانْصُرْنَا، وَعَلٰى فَضْلِكَ نَتَوَكَّلُ فِيْ صَلَاحِنَا فَلَا تَكِلْنَآ اِلٰى غَيْرِكَ يَا رَبَّنَا، وَاِلٰى جَنَابِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَنْتَسِبُ فَلَا تُبْعِدْنَا، وَبِبَابِكَ نَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنَا، وَاِيَّاكَ نَسْئَلُ فَلَا تُخَيِّبْنَا.

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ تَضَرُّعَنَا وَ آمِنْ خَوْفَنَا، وَ تَقَبَّلْ اَعْمَالَنَا وَ اَصْلِحْ اَحْوَالَنَا، وَ اجْعَلْ بِطَاعَتِكَ اشْتِغَالَنَا، وَإِلَى
الْخَيْرِ مَآلِنَا، وَ حَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ آمَالِنَا، وَ اخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ آجَالِنَا، هٰذَا ذُلُّنَا ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ حَالُنَا لَا
يَخْفٰى عَلَيْكَ، اَمَرْتَنَا فَتَرَكْنَا، وَ نَهَيْتَنَا فَارْتَكَبْنَا، وَلَا يَسَعُنَا اِلَّا عَفْوُكَ. فَاعْفُ عَنَّا يَا خَيْرَ مَأْمُولٍ، وَّ
اَكْرَمُ مَسْئُولٍ، اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.





وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

صَفْوَةُ الدَّلَائِلِ
فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى
سَيِّدِ الْاَوَاخِرِ وَالْاَوَائِلِ ﷺ

(مُخْتَصَرُ دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ)

تالیف
الشیخ العلامۃ محمد احمد عمیر الاحسائی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبۃ القادریۃ 17
الباکستان
0092-3335187573

صفوة الدلائل

کتاب مذکورہ بالا حضرت شیخ علامہ محمد بن احمد بن عمیر الاحسائی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفِ مبارکہ ہے جس میں ایک ہزار صیغہ ہائے دُرود وسلام جمع کئے گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے مقدمے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس طویل حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشادِ مبارک ہے "**من صلی علی الف مرة حرم الله جسده علی النار**" کہ جس نے مجھے پر ایک ہزار مرتبہ دُرود پڑھا، اللہ تبارک وتعالیٰ اُس کے جسم پر آگ کو حرام کردے گا۔

کتاب کا جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا اُس کے اوّلین صفحے کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

صَفْوَةُ الدَّلَائِل

فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَاخِرِ وَالْأَوَائِل ﷺ

(مختصر دلائل الخيرات)

تأليف

الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن عمير الأحسائي

المتوفى ١٣١٨ هـ

قدم له وحققه وضبطه وعلق عليه

أحمد فريد المزيدي

صفوۃ الدلائل

فی الصلاۃ والسلام علی سید الاواخر والاوائل

(مختصر دلائل الخیرات)

1 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

2 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَحْمَدَ۔

3 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْحَامِدِ وَ الْمَحْمُوْدِ۔

4 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْاَحِیْدِ وَ الْوَحِیْدِ۔

5 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْمَاحِیْ وَ الْحَاشِرِ۔

6 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْعَاقِبِ وَ الْقُثَمِ۔

7 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ طٰهٰ وَ یٰسٓ۔

8 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الطَّاھِرِ وَ الْمُطَھَّرِ۔

9 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الطَّیِّبِ وَ السَّیِّدِ۔

10 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الرَّسُوْلِ وَ النَّبِیِّ۔

11 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْمُذَکِّرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔

12 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْقَیِّمِ وَ الْجَامِعِ۔

13 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْمُقْتَفٰی وَ الْمُقَفّٰی۔

14 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ رَسُوْلِ الْمَلَاحِمِ وَ رَسُوْلِ الرَّاحَةِ۔

15 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْکَامِلِ وَ الْاِکْلِیْلِ۔

16 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْمُدَّثِّرِ وَ الْمُزَّمِّلِ۔

17 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ عَبْدِ اللهِ وَ حَبِیْبِ اللهِ۔

18 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ صَفِیِّ اللهِ وَ نَجِیِّ اللهِ۔

19 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْمُحْیِیْ وَ الْمُنَجِّیْ۔

20 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ النَّاصِرِ وَ الْمَنْصُوْرِ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيِّ التَّوْبَةِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّاهِدِ وَالْحَرِيْصِ عَلَيْنَا۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَعْلُوْمِ وَالشَّهِيْرِ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّهِيْدِ وَالْمَشْهُوْدِ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْبَشِيْرِ وَالْمُبَشِّرِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ النَّذِيْرِ وَالْمُنْذِرِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ النُّوْرِ وَالسِّرَاجِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمِصْبَاحِ وَالْهُدٰى۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَهْدِيِّ وَالْمُنِيْرِ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الدَّاعِيْ وَالْمَدْعُوِّ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُجِيْبِ وَالْمُجَابِ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَفِيِّ وَالْعَفِيِّ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْوَلِيِّ وَالْحَقِّ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَمِيْنِ وَالْمَاْمُوْنِ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْكَرِيْمِ وَالْمُكْرِمِ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقَوِيِّ وَالْمَكِيْنِ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَتِيْنِ وَالْمُبِيْنِ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُؤَمِّلِ وَالْوُصُوْلِ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ذِي الْقُوَّةِ وَذِي الْحُرْمَةِ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ذِي الْمَكَانَةِ وَذِي الْعِزِّ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ذِي الْفَضْلِ وَقَدَمِ الصِّدْقِ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُطَاعِ وَالْمُطِيْعِ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّحْمَةِ وَالْبُشْرٰى۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْغَوْثِ وَالْمُغِيْثِ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نِعْمَةِ اللّٰهِ وَهَدِيَّةِ اللّٰهِ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُصْطَفٰى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صِرَاطِ اللّٰهِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ حِزْبِ اللّٰهِ وَسَيْفِ اللّٰهِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ذِكْرِ اللهِ وَالنَّجْمِ الثَّاقِبِ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّافِيْ وَالْمُجْتَبٰى۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْغِيَاثِ وَالْمُنْتَقٰى۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَمِيْنِ وَالْمُخْتَارِ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَجِيْرِ وَالْجَبَّارِ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَبِي الْقَاسِمِ وَاَبِي الطَّاهِرِ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَبِي الطَّيِّبِ وَاَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّفِيْعِ وَالْمُشَفَّعِ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الصَّالِحِ وَالْمُصْلِحِ

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الصَّادِقِ وَالْمُصَدِّقِ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الصِّدْقِ وَالْمُهَيْمِنِ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْوَجِيْهِ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَلِيْمِ اللهِ وَخَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْبِرِّ وَالْمُبَرِّ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ النَّاصِحِ وَالنَّصِيْحِ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْوَكِيْلِ وَالْمُتَوَكِّلِ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْكَفِيْلِ وَالشَّفِيْقِ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُقَدَّسِ وَرُوْحِ الْقُدُسِ

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رُوْحِ الْحَقِّ وَرُوْحِ الْقِسْطِ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْكَافِيْ وَالْمُكْتَفِ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْبَالِغِ وَالْمُبَلِّغِ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْوَاصِلِ وَالْمَوْصُوْلِ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّابِقِ وَالسَّائِقِ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْهَادِيْ وَالْمَهْدِيْ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَزِيْزِ وَالْمُقَدَّمِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْفَاضِلِ وَالْمُفَضَّلِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْفَاتِحِ وَالْمِفْتَاحِ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فَتَّاحِ الرَّحْمَةِ وَ مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَمِ الْاِيْمَانِ وَ عَلَمِ الْيَقِيْنِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ دَلِيْلِ الْخَيْرَاتِ وَ مُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُقِيْلِ الْعَثَرَاتِ وَ الصَّفُوْحِ عَنِ الزَّلَّاتِ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ وَ صَاحِبِ الْمَقَامِ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْقَدَمِ وَ الْمَخْصُوْصِ بِالْعِزِّ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَخْصُوْصِ بِالْمَجْدِ وَ الْمَخْصُوْصِ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ السَّيْفِ وَ صَاحِبِ الْاِزَارِ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْحُجَّةِ وَ صَاحِبِ السُّلْطَانِ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الرِّدَآءِ وَ صَاحِبِ التَّاجِ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ اللِّوَآءِ وَ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْمَغْفِرَةِ وَ صَاحِبِ الْقَضِيْبِ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْبُرَاقِ وَ صَاحِبِ الْخَاتَمِ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ وَ صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْبُرْهَانِ وَ صَاحِبِ الْبَيَانِ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فَصِيْحِ اللِّسَانِ وَ مُطَهَّرِ الْجَنَانِ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اُذُنِ خَيْرٍ وَّ صَحِيْحِ الْاِسْلَامِ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَلَمِ الْهُدٰى۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَيْنِ النَّعِيْمِ وَ عَيْنِ الْغُرِّ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ سَعْدِ اللّٰهِ وَ سَعْدِ الْخَلْقِ۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ خَطِيْبِ الْاُمَمِ وَ كَاشِفِ الْكُرَبِ۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ رَافِعِ الرُّتَبِ وَ عِزِّ الْعَرَبِ۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَرِيْمِ الْمَخْرَجِ۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْفَرَجِ۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَعْلَى الدَّرَجِ وَ تُخَلِّصُنَا بِهَا مِنَ الضِّيْقِ وَ الْحَرَجِ۔

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَنَوِّرْ بِالْعِلْمِ قَلْبِيْ۔
104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِيْ۔
105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَخَلِّصْ مِنَ الْفِتَنِ سِرِّيْ۔
106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاشْغَلْ بِالْاِعْتِبَارِ فِكْرِيْ۔
107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَقِنِيْ شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ۔
108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَلَا تَجْعَلْ لَهٗ عَلَيَّ سُلْطَانً۔
109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً اَنَالُ بِهَا الرِّضْوَانَ وَاَبْلُغُ بِهَا كَمَالَ الْاِيْمَانِ وَاَدْخُلُ جَنَّةَ الْاِحْسَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔
110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَمْتَثِلُ اَمْرَ اللهِ۔
111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُوَافِقُ اللهَ۔
112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُوَافِقُ مَلَآئِكَةَ اللهِ۔
113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُرْفَعُ لَنَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللهِ۔
114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُكْتَبُ لَنَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ مِّنَ اللهِ۔
115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُمْحٰى عَنَّا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ۔
116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُغْفَرُ لَنَا كُلُّ السَّيِّئَاتِ۔
117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تَعْدِلُ عَشْرَ رِقَابٍ۔
118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تَعْدِلُ عِشْرِيْنَ غَزْوَةً۔
119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُسْتَجَابُ لَنَا الدُّعَآءُ۔
120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنَالُ شَفَاعَةَ الْمُصْطَفٰى۔
121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنَالُ مِنْهُ الشَّهَادَةَ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَقْرُبُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُزَاحِمُ كَتِفَهُ الشَّرِيْفَ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَكُوْنُ اَوَّلَ النَّاسِ لُحُوْقًا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَصِيْرُ لَنَا وَلِيًّا ذَالِكَ الْيَوْمَ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُكْفٰى مَآ اَهَمَّنَا فِى الدَّارَيْنِ مَعَ الْمَغْفِرَةِ۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَقُوْمُ مَقَامَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْعُسْرَةِ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ اَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوْضَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَآءِ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُقْضٰى الْحَوَآئِجُ لَنَا۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُفَرَّجُ الْكُرَبُ عَنَّا۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُشْفٰى مِنَ السُّقْمِ۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بَرَآءَةُ الْمُتَّهَمِ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تُذْهِبُ عَنَّا الْخَوْفَ وَالْجَزَعَ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُنْصَرُ عَلَى الْاَعْدَآءِ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنَالُ رِضَا اللّٰهِ عَنَّا۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنَالُ مَحَبَّةَ اللّٰهِ لَنَا۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنَالُ صَلَاةَ اللّٰهِ عَلَيْنَا۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنَالُ صَلَاةَ الْمَلَآئِكَةِ عَلَيْنَا۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَفَّارَةً لَّنَا۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُزَكُّوْ اَعْمَالَنَا۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنْمُوْ وَ يَنْمُوْ مَالُنَا۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَطْهُرُ قُلُوْبُنَا۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُوْصَلُ الْبَرَكَةُ فِيْنَا فِيْ اَنْسَابِنَا۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَصِلُ الْبَرَكَةُ اِلٰى اَوْلَادِنَا وَ اَوْلَادِهِمْ۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنْجُوْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَنْجُوْ مِنْ مَّشَقَّةِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَخَلَّصُ مِنَ الْمَهَالِكِ الدُّنْيَوِيَّةِ۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَخَلَّصُ مِنَ الْمَضَآئِقِ الدُّنْيَوِيَّةِ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تُذَكِّرُ الْمَنْسِيَّ لَنَا۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تَنْفِي الْفَقْرَ عَنَّا۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تُقَدِّمُ الْحَاجَةَ لَنَا۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُسَلَّمُ مِنْ وَّسْمِنَا بِاسْمِ الْبُخْلِ۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُسَلَّمُ مِنَ الْجَفَآءِ لَهٗ۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نُسَلَّمُ مِنَ الدُّعَآءِ مِنْهُ عَلَيْنَا بِرَغْمِ الْاَنْفِ۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهٖ نُسَلَّمُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْاِثْمِ لِبَعْضِ الْحُنَفَآءِ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَطِيْبُ مَجْلِسُنَا۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَغْشَى الرَّحْمَةُ الْمَجْلِسَ

مَعَ الْجُلَسَآءِ۔

158 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ فِی الْمَجْلِسِ یَصِیْرُ مُنْتِنًا۔

159 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ فِی الْمَجْلِسِ یَصِیْرُ حَسْرَةً عَلٰی اَھْلِهٖ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔

160 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ کَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ تُوْفِرُ نُوْرَ قَائِلِهَا عِنْدَ مُرُوْرِهٖ عَلَی الصِّرَاطِ۔

161 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ کَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ تَثْبُتُ عَلَی الصِّرَاطِ قَدَمَیْ قَآئِلِهَا بِحَیْثُ یَنْجُوْ کَطَرْفَةِ عَیْنٍ۔

162 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ کَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ تُرْمِیْ بِنَا عَلٰی طَرِیْقِ الْجَنَّةِ۔

163 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ یُرْمٰی بِنَا عَنْ طَرِیْقِ الْجَنَّةِ۔

164 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ یَعْرِضُ اِسْمُ الْمُصَلِّیْ بِاِسْمِ الْخَیْرِ بَیْنَ یَدَیْهِ۔

165 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ تَدُوْمُ لَنَا مَحَبَّةُ الْمُصْطَفٰی۔

166 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ تَزْدَادُ مَحَبَّةً لَّهٗ وَ شَوْقًا اِلَیْهِ۔

167 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ یَنَالُ الْمُصَلِّیْ مَحَبَّةَ النَّاسِ لَهٗ۔

168 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ یَنَالُ الْمُصَلِّیْ مَحَبَّةَ الرَّسُوْلِ لَهٗ۔

169 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ یَنَالُ الْمُصَلِّیْ مَحَبَّةَ مُصَافَحَتِهٖ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔

170 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ یَنَالُ الْمُصَلِّیْ رُؤْیَتَهٗ فِی الْمَنَامِ۔

171 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ یَنَالُ الْمُصَلِّیْ مَحَبَّةَ

الْمَلَآئِكَةِ لَهٗ.

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَنَالُ الْمُصَلِّيْ التَّرْحِيْبَ لَهٗ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ.

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَتِ الْمَلَآئِكَةُ تَكْتُبُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ بِاَقْلَامِ الذَّهَبِ فِىْ قَرَاطِيْسِ الْفِضَّةِ.

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَنَالُ الْمُصَلِّيْ الدُّعَآءَ لَهٗ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ بِزِيَادَةِ الْخَيْرِ.

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَنَالُ الْمُصَلِّيْ اِسْتِغْفَارَ الْمَلَآئِكَةِ لَهٗ.

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَتِ الْمَلَآئِكَةُ تُبَلِّغُهٗ صَلَاتَنَا بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ.

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَكْتُبُ الْمَلَآئِكَةُ لَنَا قِيْرَاطًا مِّثْلَ اُحُدٍ.

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ.

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تَكُفُّ الْحَافِظِيْنَ عَنْ كِتَابَةِ ذَنْبٍ عَلَى الْمُصَلِّيْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ.

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُمْنَعُ الْاِغْتِيَابُ لِصَاحِبِهَا.

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَدْخُلُ الْمُصَلِّيْ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَثْقُلُ مِيْزَانُ الْمُصَلِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَأْمَنُ الْمُصَلِّيْ مِنَ الْعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَكْثُرُ الْاَزْوَاجُ لِلْمُصَلِّيْ فِى الْجَنَّةِ.

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَنَالُ الْمُصَلِّيْ الْهِدَايَةَ الْكَامِلَةَ فِىْ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ.

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ لِلّٰهِ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ لِلّٰهِ وَ
مَعْرِفَةِ إِنْعَامِهٖ۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ دُعَآءً لِّلّٰهِ بِأَنْ يَّتَوَلَّى
الثَّنَآءَ عَلَيْهِ وَيَزِيْدُ فِيْ تَشْرِيْفِهٖ وَرِفْعَةِ شَأْنِهٖ وَذِكْرِهٖ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ يُحِبُّ ذٰلِكَ مِنَّا۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاقْذِفْ بِهَا فِيْ قُلُوْبِنَا رِجَاكَ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاقْطَعْ بِهَا رِجَانَا عَمَّنْ سِوَاكَ۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَهَبْ لَنَا بِهَا شَرَفَ تَقْوَاكَ۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَحَبِّبْ إِلَيْنَا بِهَا لِقَاكَ۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَنَعِّمْنَا بِهَا بِقُرْبِكَ وَرِضَاكَ۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاسْبُلْ عَلَيْنَا بِهَا جَمِيْلَ سِتْرِكَ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَهَبْ لَنَا بِهَا كَمَالَ الرِّضَا عَنْكَ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاقْطَعْ بِهَا عَلَآئِقَ الشَّيْطَانِ مِنْ قُلُوْبِنَا۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَكِّنْ بِهَآ اِضْطِرَابَ نُفُوْسِنَا۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَارْزُقْنَا بِهَا بِتَمَامِ رِضْوَانِكَ۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِهَا بِتَمَامِ غُفْرَانِكَ۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَارْزُقْنَا بِهَا مَحَبَّتَكَ مَحَبَّةَ أَنْبِيَآئِكَ۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَارْزُقْنَا بِهَا مَحَبَّةَ الْمُطِيْعِيْنَ لَكَ مِنْ
عِبَادِكَ۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا بِهَا فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَوَفِّقْنَا بِهَا لِذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَعِنَّا بِهَا عَلَى الْقِيَامِ بِشُكْرِكَ۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَفِضْ عَلَيْنَا بِهَا مِنْ بِرِّكَ وَخَيْرِكَ۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَعِذْنَا بِهَا مِنْ مَّكْرِكَ وَخِزْيِكَ۔

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَ
الْآفَاتِ۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ۔

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ۔

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ.

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَآ أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ.

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْفَاتِحِ لِمَآ أُغْلِقَ.

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ.

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُعْلِنِ الْحَقِّ.

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْأَبَاطِيْلِ.

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُضْطَلِعِ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ.

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُسْتَوْفِزِ فِيْ مَرْضَاتِكَ.

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْوَاعِيْ لِوَحْيِكَ.

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَافِظِ لِعَهْدِكَ.

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَاضِيْ عَلٰى نَفَاذِ أَمْرِكَ.

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُوْرِيْ قَبَسًا لِقَابِسٍ.

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ هُدِيَتْ بِهِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ.

229 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ أَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْأَعْلَامِ.

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ أَبْهَجَ نَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ.

231 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ أَبْهَجَ مُنِيْرَاتِ الْإِسْلَامِ.

232 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَمِيْنِكَ الْمَأْمُوْنِ.

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ خَازِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ.

234 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ شَهِيْدِكَ يَوْمَ الدِّيْنِ.

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ بِعَيْشِكَ نِعْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَسُوْلِكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً۔

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ عَدْنِكَ۔

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآتِهِ الشَّرَفَ عَلٰى خَلْقِكَ۔

239 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْزِهِ مُضَاعِفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعْلِ عَلٰى بِنَآءِ النَّاسِ بِنَآئَهُ۔

242 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهُ۔

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔

244 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ۔

245 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ۔

247 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ۔

248 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ۔

249 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ۔

250 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ قَائِدِ الْخَيْرِ۔

251 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ۔

252 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اَوْلَادِهِ وَاَزْوَاجِهِ۔

253 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى ذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ۔

254 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اَصْهَارِهِ وَاَنْصَارِهِ۔

255 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيْهِ۔

256 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اَتْبَاعِهِ وَاُمَّتِهِ۔

257 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجِنَانِ صُحْبَتَهُ۔

258 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَارْزُقْنِيْ فِي الْجِنَانِ صُحْبَتَهُ۔

259 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَوَفَّنِيْ عَلٰى مِلَّتِهِ۔

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهِ۔

261 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ۔

262 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔

263 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا يَجِبُ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

264 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ.

265 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا هُوَ أَهْلُهٗ.

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ لَهٗ.

267 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهٗ.

268 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ.

269 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ.

270 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٌ.

271 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فِي الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ.

272 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فِي النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

273 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلٰى إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

274 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ.

275 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآتِهِ الشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيْرَةَ.

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ.

277 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِهٖ مَشْرَبًا رَّوِيًّا.

278 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَبْلِغْ رُوْحَهٗ مِنِّيْ تَحِيَّةً وَّسَلَامًا.

279 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرٰى.

280 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا.

281 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآتِهٖ سُؤْلَهٗ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلٰى.

282 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ نَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ.

283 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ.

284 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا مُوْسٰى كَلِيْمِكَ.

285 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوْحِكَ وَكَلِمَتِكَ.

286 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى جَمِيْعِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ.

287 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى مَلَائِكَتِكَ وَخِيَرَتِكَ.

288 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى أَصْفِيَائِكَ وَخَاصَّتِكَ.

289 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ.

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ.

291 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

292 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا اَمْطَرَتِ السَّمَآءُ مُنْذُ بَنَيْتَهَا ـ

293 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا اَنْبَتَتِ الْاَرْضُ مِنْ دَحَوْتِهَا ـ

294 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ النُّجُوْمِ فِي السَّمَآءِ فَاِنَّكَ اَحْصَيْتَهَا ـ

295 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الْاَرْوَاحُ مُنْذُ خَلَقْتَهَا ـ

296 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ خَلْقِكَ ـ

297 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رِضَا نَفْسِكَ ـ

298 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ زِنَةَ عَرْشِكَ ـ

299 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ ـ

300 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مُنْتَهٰى عِلْمِكَ وَاٰيَاتِكَ ـ

301 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ زِنَةَ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ ـ

302 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا اَحْصٰى كِتَابُكَ ـ

303 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا اَحْصٰى عِلْمُكَ ـ

304 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِلْأَ مَا اَحْصٰى عِلْمُكَ ـ

305 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَضْعَافَ مَا اَحْصٰى عِلْمُكَ ـ

306 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا تَنْبَغِى الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ـ

307 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ـ

308 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا اَمَرْتَ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ ـ

309 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ـ

310 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّحِيْنٍ ـ

311 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ ـ

312 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ ـ

313 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا سَبَقَتْ بِهٖ مَشِيْئَتُكَ ـ

314 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا نَفَذَتْ بِهٖ قُدْرَتُكَ ـ

315 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا خَصَّصَتْهُ اِرَادَتُكَ ـ

316 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَحْيِ بِهَا قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ ـ

317 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَامْلَأْ بِهَا قُلُوْبَنَا بِتَوْحِيْدِكَ وَمَحَبَّتِكَ ـ

318 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاسْتَعْمِلْنَا بِهَا فِيْ طَاعَتِكَ ـ

319 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَذِقْنَا بِهَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ ـ

320 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَذِقْنَا بِهَا لَذِيذَ مُنَاجَاتِكَ وَ حُسْنَ الثِّقَةِ بِكَ۔

321 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ انْشُرْ عَلَيْنَا بِهَا مِنْ رَّحْمَتِكَ۔

322 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَنْزِلْ عَلَيْنَا بِهَا مِنْ بَرَكَاتِكَ۔

323 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ هَبْ لَنَا كَمَالَ الرِّضَا بِحِكْمَتِكَ۔

324 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ ارْزُقْنَا بِهَا حَلَاوَةَ الْاِسْتِسْلَامِ لِاَمْرِكَ۔

325 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تُرِيحُ بِهَا قُلُوبَنَا وَ اَبْدَانَنَا وَ عُقُولَنَا مِنْ كُلِّ غَمٍّ وَّ هَمٍّ بِوُسْعِ عَطَآئِكَ وَ فَضْلِكَ وَ تَجْعَلُنَا مِمَّنْ آمَنَ بِكَ وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

326 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ بَحْرِ اَنْوَارِكَ۔

327 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ۔

328 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ لِسَانِ حُجَّتِكَ۔

329 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عُرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ۔

330 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اِمَامِ حَضْرَتِكَ۔

331 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ طِرَازِ مُلْكِكَ۔

332 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ۔

333 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ۔

334 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ۔

335 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ۔

336 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّبَبِ فِىْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ۔

337 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ۔

338 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُقْتَدِحِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ۔

339 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ۔

340 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ۔

341 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَلٰى قَدْرِ حُبِّكَ فِيْهِ۔

342 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَلٰى قَدْرِ عِنَايَتِكَ بِهٖ۔

343 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهٖ۔

344 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ۔

345 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ ـ

346 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مِيَاهِ اَبْحَارِ ـ

347 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ دَوَابِّ الْبِحَارِ ـ

348 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ دَوَابِّ الْقِفَارِ ـ

349 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ـ

350 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا اَضَآءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ـ

351 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ـ

352 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ الْحَصٰى وَالرِّمَالِ ـ

353 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ النِّسَآءِ وَالرِّجَالِ ـ

354 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ـ

355 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ ـ

356 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَاشِفِ الْغُمَّةِ ـ

357 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مُجَلِّي الظُّلْمَةِ ـ

358 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَوْلَى النِّعْمَةِ ـ

359 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مُؤْتِي الرَّحْمَةِ ـ

360 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ ـ

361 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ ـ

362 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ ـ

363 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ ـ

364 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُوْدِ ـ

365 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ مَحْمُوْدٌ ـ

366 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الشَّامَةِ وَالْعَلَامَةِ ـ

367 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ ـ

368 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَخْصُوْصِ بِالزَّعَامَةِ ـ

369 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

370 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الضَّرَاعَةِ وَالشَّفَاعَةِ ـ

371 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ ـ

372 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ ـ

373 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْهِرَاوَةِ وَالنَّعْلَيْنِ۔

374 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ۔

375 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ التَّاجِ وَالسُّلْطَانِ۔

376 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ وَالْقَضِيْبِ۔

377 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَاكِبِ الْبُرَاقِ وَالنَّجِيْبِ۔

378 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُخْتَرِقِ السَّبْعَ الطِّبَاقِ۔

379 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّفِيْعِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَنَامِ۔

380 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ۔

381 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ۔

382 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقَمَرِ الْمُسْتَنِيْرِ۔

383 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نُوْرِ الْاَنْوَارِ۔

384 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ۔

385 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ۔

386 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّسُوْلِ الْمُقَرَّبِ۔

387 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْفَجْرِ السَّاطِعِ۔

388 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ النَّجْمِ الثَّاقِبِ۔

389 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى۔

390 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَذِيْرِ اَهْلِ الْاَرْضِ۔

391 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّفِيْعِ يَوْمَ الْعَرْضِ۔

392 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّاقِيْ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ۔

393 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمْدِ۔

394 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُشَمِّرِ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ۔

395 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْ مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجُهْدِ۔

396 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّكَ الْخَاتَمِ۔

397 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّسُوْلِ الْخَاتَمِ۔

398 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُصْطَفَى الْقَائِمِ۔

399 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَسُوْلِكَ اَبِي الْقَاسِمِ۔

400 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَنْصُوْرِ الْمُؤَيَّدِ۔

401 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُخْتَارِ الْمُمَجَّدِ.

402 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى رُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ.

403 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ.

404 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ.

405 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ.

406 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

407 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَوِّجْهُ بِتَاجِ الْعِزِّ وَالْكَرَامَةِ.

408 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعْطِهٖ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لِنَفْسِهٖ.

409 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعْطِهٖ اَفْضَلَ مَآ اَنْتَ مَسْئُوْلٌ لَّهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

410 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعْطِهٖ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لَهٗ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ.

411 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا اٰدَمَ وَحَوَّا.

412 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا نُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ.

413 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا مُوْسٰى وَعِيْسٰى.

414 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى جَمِيْعِ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

415 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا جِبْرِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ.

416 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى سَيِّدِنَا اِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَآئِيْلَ.

417 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ.

418 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَلَأْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ.

419 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَلَأْتَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ.

420 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ اَوْرَاقِ الزَّيْتُوْنِ.

421 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ.

422 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً مَّوْصُوْلَةً بِالْمَزِيْدِ.

423 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً لَّا تَنْقَطِعُ وَلَا تَبِيْدُ.

424 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ.

425 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةَ الرِّضَا.

426 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ رِضَآءَ الرِّضَا.

427 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَثَبِّتْنَا بِهَا عَلٰى دِيْنِكَ الْقَوِيْمِ.

428 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاهْدِنَا بِهَا اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ۔

429 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاكْفِنَا بِهَا شَرَّ خَلْقِكَ۔

430 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَدَارَكْنَا بِهَا بِلُطْفِكَ۔

431 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِهَا بِكَمَالِ الْاِيْمَانِ وَالتَّصْدِيْقِ۔

432 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَجُدْ عَلَيْنَا بِهَا بِالْعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيْقِ۔

433 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَارْزُقْنَا بِهَا حُسْنَ النَّظْرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ وَالْاِسْتِقَامَةَ۔

434 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَانْظُمْنَا بِهَا فِيْ سِلْكِ اَهْلِ الْفَوْزِ وَالْكَرَامَةِ۔

435 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعِنَّا بِهَا عَلَى التَّوْحِيْدِ وَمَكَارِمِهٖ۔

436 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعِذْنَا بِهَا مِنْ وَّسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَمَاٰثِمِهٖ۔

437 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰى بِهَا عَنَّا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

438 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ۔

439 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ۔

440 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ۔

441 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ بَقِيَ مِنْ خَلْقِكَ۔

442 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ سَعِدَ مِنْ خَلْقِكَ۔

443 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ شَقِيَ مِنْ خَلْقِكَ۔

444 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ۔

445 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تُحِيْطُ بِالْحَدِّ۔

446 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهٰى۔

447 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً لَّا اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ۔

448 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ خَلْقِكَ۔

449 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سِرَاجِ اُفُقِكَ۔

450 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ قَآئِمٍ بِحَقِّكَ۔

451 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَبْعُوْثِ بِتَيْسِيْرِكَ وَرِفْقِكَ۔

452 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً يَّتَوَالٰى تَكْرَارُهَا۔

453 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَلُوْحُ عَلَى الْاَكْوَانِ اَنْوَارُهَا۔

454 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ مَمْدُوْحٍ بِقَوْلِكَ۔

455 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَشْرَفِ دَاعٍ لِّلْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ۔

456 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيْمَ فَضْلِكَ۔

457 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا كَرَامَةَ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ۔

458 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ الْكُرَمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ۔

459 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَشْرَفِ الْمُنَادِيْنَ لِطُرُقِ رَشَادِكَ۔

460 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سِرَاجِ اَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ۔

461 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً لَّا تَفْنٰى وَلَا تَبِيْدُ۔

462 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَزِيْدِ۔

463 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّفِيْعِ الْمَقَامَةِ۔

464 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْوَاجِبِ تَعْظِيْمُهٗ وَاِحْتِرَامُهٗ۔

465 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً لَّا تَنْقَطِعُ اَبَدًا۔

466 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ لَا تَفْنٰى سَرْمَدًا۔

467 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً لَّا تَنْحَصِرُ عَدَدًا۔

468 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ۔

469 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔

470 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ خُتِمَتْ بِهِ الرِّسَالَةُ۔

471 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ اَيَّدْتَّهٗ بِالنَّصْرِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةِ۔

472 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّ الْحِكَمِ وَالْحِكْمَةِ۔

473 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ۔

474 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَخْصُوْصِ بِخَتْمِ الرُّسُلِ وَالْمِعْرَاجِ۔

475 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مُسْتَمِرَّةً مَّا تَلَاطَمَتِ الْاَمْوَاجُ۔

476 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ الْحُجَّاجُ۔

477 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ۔

478 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ۔

479 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَفْوَةِ اللّٰهِ مِنَ الْعِبَادِ۔

480 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ شَفِيْعِ الْخَلَائِقِ فِي الْمِيْعَادِ۔

481 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ۔

482 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ صَلَاةِ الْمُصَلِّيْنَ۔

483 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَزْكٰى سَلَامِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

484 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

485 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَحْسَنِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

486 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْمَلِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

487 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَتَمِّ صَلَوَاتِ اللهِ۔

488 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَطْيَبِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

489 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَبْرَكِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

490 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْثَرِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

491 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَدْوَمِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

492 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَرْفَعِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

493 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْظَمِ صَلَوَاتِ اللهِ۔

494 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ خَلْقِ اللهِ۔

495 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَحْسَنِ خَلْقِ اللهِ۔

496 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ۔

497 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْظَمِ خَلْقِ اللهِ۔

498 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَسُوْلِ اللهِ وَنَبِيِّ اللهِ۔

499 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ حَبِيْبِ اللهِ وَنَجِيِّ اللهِ۔

500 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ خَلِيْلِ اللهِ وَوَلِيِّ اللهِ۔

501 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَفِيِّ اللهِ وَاَمِيْنِ اللهِ۔

502 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ خِيْرَةِ اللهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ۔

503 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نُخْبَةِ اللهِ مِنْ بَرِيَّةِ اللهِ۔

504 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَفْوَةِ اللهِ مِنْ اَنْبِيَآءِ اللهِ۔

505 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عُرْوَةِ اللهِ وَعِصْمَةِ اللهِ۔

506 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نِعْمَةِ اللهِ مِنْ وَّمِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللهِ۔

507 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُخْتَارِ مِنْ رُّسُلِ اللهِ۔

508 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُخْتَارِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ۔

509 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ۔

510 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَقْرَبِ الرُّسُلِ اِلَى اللّٰهِ۔

511 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْظَمِ الرُّسُلِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ۔

512 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ الْاَنْبِيَآءِ عَلَى اللّٰهِ۔

513 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَحَبِّ الْاَنْبِيَآءِ اِلَى اللّٰهِ۔

514 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَقْرَبِ الْاَنْبِيَآءِ زُلْفٰى لَدَى اللّٰهِ۔

515 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا۔

516 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْظَمِ النَّاسِ مَحَلًّا۔

517 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْمَلِ النَّاسِ مَحَاسِنًا وَّفَضْلًا۔

518 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ الْاَنْبِيَآءِ دَرَجَةً۔

519 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْمَلِ الْاَنْبِيَآءِ شَرِيْعَةً۔

520 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَآءِ نِصَابًا۔

521 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ الْاَنْبِيَآءِ نِصَابًا۔

522 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ الْاَنْبِيَآءِ عِتْرَةً وَّاَصْحَابًا۔

523 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ النَّاسِ اَرُوْمَةً۔

524 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَشْرَفِ النَّاسِ جَرْثُوْمَةً۔

525 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ النَّاسِ طَبْعًا۔

526 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَطْيَبِ النَّاسِ فَرْعًا۔

527 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْثَرِ النَّاسِ طَاعَةً۔

528 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْلَى النَّاسِ مَقَامًا۔

529 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَحْلَى النَّاسِ كَلَامًا۔

530 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَجَلِّ النَّاسِ قَدْرًا۔

531 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَرْفَعِ النَّاسِ فِى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى ذِكْرًا۔

532 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَوْفَى النَّاسِ عَهْدًا۔

533 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَصْدَقِ النَّاسِ وَعْدًا۔

534 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْثَرِ النَّاسِ شُكْرًا۔

535 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَجْمَلِ النَّاسِ صَبْرًا۔

536 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْظَمِ النَّاسِ شَاْنًا۔
537 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَرْجَحِ النَّاسِ مِيْزَانًا۔
538 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْصَحِ النَّاسِ لِسَانًا۔
539 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَظْهَرِ النَّاسِ سُلْطَانًا۔
540 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَانْزِعْ بِهَا حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوْبِنَا۔
541 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاخْرِجْ بِهَا حُبَّ الرِّيَاسَةِ مِنْ رُؤُوْسِنَا۔
542 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَقِنَا بِهَا جَمِيْعَ الْاَسْوَآءِ۔
543 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَلَا تَجْعَلْنَا بِهَا مَحَلًّا لِّلْبَلْوٰى۔
544 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَطَهِّرْ بِهَا اَسْرَارَنَا مِنَ الشَّكْوٰى۔
545 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَنَزِّهْ اَلْسِنَتَنَا مِنَ الدَّعْوٰى۔
546 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا بِهَا مِنْ اُولِي التَّقْوٰى وَالْبُشْرٰى۔
547 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَارْزُقْنَا بِهَا الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔
548 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعِذْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔
549 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَغْنِنَا بِهَا مِنْ غَيْرِ بَطَرٍ۔
550 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً مُّسْتَمِرَّةَ الدَّوَامِ عَلٰى مَرِّ اللَّيَالِيْ وَ
الْاَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ حَجَرٍ وَّمَدَرٍ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
551 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِيْمِ الْمَدِّ۔
552 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ حَاءِ الرَّحْمَةِ۔
553 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِيْمِ الْمُلْكِ۔
554 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ دَالِ الدَّوَامِ۔
555 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّيِّدِ الْكَامِلِ۔
556 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ۔
557 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَائِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ۔
558 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ هُوَ اَبْهٰى شُمُوْسِ الْهُدٰى نُوْرًا وَّاَبْهَرُهَا۔
559 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ هُوَ اَسْيَرُ الْاَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَّاَشْهَرُهَا۔
560 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ هُوَ اَزْهَرُ الْاَنْبِيَاءِ نُوْرًا وَّاَشْرَفُهَا۔
561 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ هُوَ اَزْكَى الْخَلِيْقَةِ اَخْلَاقًا وَّاَطْهَرُهَا۔
562 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ هُوَ اَكْرَمُ الْخَلِيْقَةِ خَلْقًا وَّاَعْدَلُهَا۔

563 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ هُوَ اَبْهٰى مِنَ الْقَمَرِ التَّامِ۔

564 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ هُوَ اَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ۔

565 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ هُوَ قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهٖ وَمُحَيَّاهُ۔

566 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ تَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِيْبِ ذِكْرِهٖ وَرِيَاهُ۔

567 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِلْءَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

568 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ مِلْءَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

569 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَبَارِكْ عَلَيْهِ مِلْءَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

570 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَارْحَمْهُ مِلْءَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

571 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْزِهٖ عَنَّا مِلْءَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

572 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى۔

573 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰى۔

574 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَلِيِّكَ الْمُجْتَبٰى۔

575 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَمِيْنِكَ عَلٰى وَحْيِ السَّمَآءِ۔

576 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ الْاَسْلَافِ۔

577 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقَآئِمِ بِالْعَدْلِ وَالْاِنْصَافِ۔

578 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَنْعُوْتِ فِيْ سُوْرَةِ الْاَعْرَافِ۔

579 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُنْتَخَبِ مِنْ اَصْلَابِ الْاَشْرَافِ۔

580 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُنْتَخَبِ مِنَ الْبُطُوْنِ الظِّرَافِ۔

581 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُصْطَفٰى مِنْ مَّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ مُنَافٍ۔

582 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ هَدَيْتَ بِهٖ مِنَ الْخِلَافِ۔

583 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ بَيَّنْتَ بِهٖ سَبِيْلَ الْعَفَافِ۔

584 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ۔

585 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَكْرِمْ مَقَامَهٗ۔

586 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ۔

587 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَبْلِجْ حُجَّتَهٗ۔

588 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَظْهِرْ مِلَّتَهٗ۔

589 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَجْزِلْ ثَوَابَهٗ۔

590 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَضِئْ اَنْوَارَهٗ۔

591 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَدِمْ كَرَامَتَهٗ۔

592 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَلْحِقْ بِهٖ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ مَا تُقِرُّ بِهٖ عَيْنُهٗ۔

593 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَظِّمْهُ فِي النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهٗ۔

594 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ تَبَعًا۔

595 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ اَزْرًا۔

596 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَفْضَلَ النَّبِيِّيْنَ كَرَامَةً وَّنُوْرًا۔

597 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَعْلَى النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةً۔

598 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْ فِي السَّابِقِيْنَ غَايَتَهٗ۔

599 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْ فِي الْمُنْتَخَبِيْنَ مَنْزِلَتَهٗ۔

600 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْ فِي الْمُقَرَّبِيْنَ دَارَهٗ۔

601 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مَنْزِلَهٗ۔

602 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَصْدَقَ قَائِلٍ۔

603 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَنْجَحَ سَائِلٍ۔

604 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَوَّلَ شَافِعٍ۔

605 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْهُ اَفْضَلَ مُشَفَّعٍ۔

606 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَشَفِّعْهُ فِيْ اُمَّتِهٖ بِشَفَاعَةٍ يَّغْبِطُهٗ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ۔

607 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطًا۔

608 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْ حَوْضَهٗ لَنَا مَوْعِدًا۔

609 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ۔

610 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاسْتَعْمِلْنَا فِيْ سُنَّتِهٖ۔

611 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ۔

612 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَرِّفْنَا وَجْهَهٗ۔

613 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَحِزْبِهٖ۔

614 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَكَمَا اٰمَنَّا بِهٖ وَلَمْ نَرَهُ اِجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ۔

615 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ۔

616 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَدْخِلْنَا مَدْخَلَهٗ۔

617 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاَوْرِدْنَا حَوْضَهٗ.

618 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُّفَقَائِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

619 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ نُوْرِ الْهُدٰى.

620 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقَائِدِ اِلَى الْخَيْرِ.

621 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الدَّاعِيْ اِلَى الرُّشْدِ.

622 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ.

623 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ بَلَّغَ رِسَالَاتِكَ.

624 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ نَصَحَ عِبَادَكَ.

625 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ تَلَا آيَاتِكَ.

626 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ اَقَامَ حُدُوْدَكَ.

627 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ وَفّٰى بِعَهْدِكَ.

628 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ اَنْفَذَ حِكْمَتَكَ.

629 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ اَمَرَ بِطَاعَتِكَ.

630 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ نَهٰى عَنْ مَّعْصِيَتِكَ.

631 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ وَالٰى وَلِيَّكَ.

632 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ عَادٰى عَدُوَّكَ.

633 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآتِ اَهْلَ بَيْتِهٖ اَفْضَلَ مَا آتَيْتَ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ بُيُوْتِ الْمُرْسَلِيْنَ.

634 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاجْزِ اَصْحَابَهٗ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهٖ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ الْمُرْسَلِيْنَ.

635 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ.

636 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَدَدَ الْاَحْيَآءِ وَالْاَمْوَاتِ.

637 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى.

638 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى.

639 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُوْلٰى.

640 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ شَابًّا زَكِيًّا.

641 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَهْلًا مَّرْضِيًّا.

642 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.

643 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ عِلْمِكَ وَحِلْمِكَ ۔

644 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَآ اَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ مِنْ عِلْمِكَ ۔

645 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ ۔

646 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِلْءَ سَمٰوَاتِكَ وَاَرْضِكَ ۔

647 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ سَبْعِ سَمٰوَاتِكَ ۔

648 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِيْ اَرْضِكَ ۔

649 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ ۔

650 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ ۔

651 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاهْدِنَا بِهَا مِنْ عِنْدِكَ ۔

652 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَفِضْ عَلَيْنَا بِهَا مِنْ فَضْلِكَ ۔

653 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَافْتَحْ لَنَا بِهَآ اَبْوَابَ فَتْحِكَ وَشُكْرِكَ ۔

654 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَمُنَّ عَلَيْنَا بِهَا بِجُوْدِكَ وَنَصْرِكَ ۔

655 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَلْبِسْنَا بِهَا مَلَابِسَ لُطْفِكَ ۔

656 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَقْبِلْ عَلَيْنَا بِهَا بِحَنَانِكَ وَعَطْفِكَ ۔

657 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاحْرِسْنَا بِهَا بِعَيْنِكَ وَعَوْنِكَ ۔

658 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاخْصُصْنَا بِهَا بِاَمْنِكَ وَمَنِّكَ ۔

659 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَوَلَّنَا بِهَا بِاخْتِيَارِكَ وَخَيْرِكَ ۔

660 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَلَا تَكِلْنَا بِهَآ اِلٰى اَنْفُسِنَا وَلَآ اِلٰى كَلَاءَةِ غَيْرِكَ ۔

661 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً مَّوْصُوْلَةً دَآئِمَةَ الْاِتِّصَالِ بِدَوَامِ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

662 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا سَجَعَتِ الْحَمَآئِمُ ۔

663 اَللّٰهُم صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا حَمَتِ الْحَوَآئِمُ ۔

664 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا سَرَحَتِ الْبَهَآئِمُ ۔

665 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا شُدَّتِ الْعَمَآئِمُ ۔

666 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا نَمَتِ النَّوَآئِمُ ۔

667 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَآ اَبْلَجَ الْاِصْبَاحُ ۔

668 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ۔

669 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا دَبَّتِ الْاَشْبَاحُ۔

670 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا تَعَاقَبَ الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ۔

671 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا تَقَلَّدَتِ الصِّفَاحُ۔

672 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا اِعْتَقَلَتِ الرِّمَاحُ۔

673 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا صَحَّتِ الْاَجْسَادُ وَالْاَرْوَاحُ۔

674 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا دَامَتِ الْاَفْلَاكُ۔

675 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا سَبَّحَتِ الْاَمْلَاكُ۔

676 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا دَجَتِ الْاَحْلَاكُ۔

677 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ۔

678 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا صُلِّيَتِ الْخَمْسُ۔

679 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا تَأَلَّقَ بَرْقٌ۔

680 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا تُدُفِّقَ وَدْقٌ۔

681 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا سَبَّحَ رَعْدٌ۔

682 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ عِلْمِكَ وَكَلِمَاتِكَ۔

683 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا عَدَدَ جُوْدِكَ وَنِعْمَتِكَ۔

684 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِلْءَ سَمٰوَاتِكَ وَاَرْضِكَ۔

685 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِلْءَ كُرْسِيِّكَ وَعَرْشِكَ۔

686 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِلْءَ مَا اَنْتَ خَالِقُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

687 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ تَسْبِيْحِ الْمَلَآئِكَةِ وَتَقْدِيْسِهِمْ۔

688 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ تَحْمِيْدِ الْمَلَآئِكَةِ وَتَمْجِيْدِهِمْ۔

689 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ تَهْلِيْلِ الْمَلَآئِكَةِ وَتَكْبِيْرِهِمْ۔

690 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ السَّحَابَةِ الْجَارِيَةِ۔

691 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ الرِّيَاحِ الذَّارِيَةِ۔

692 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا تَحَرَّكَتِ الْاَشْجَارُ وَالْاَوْرَاقُ۔

693 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ اَنْفَاسِ الْخَلَآئِقِ وَاَلْفَاظِهِمْ۔

694 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ۔

695 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ الطُّيُوْرِ وَالْهَوَامِّ۔

696 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ الْوُحُوْشِ وَالْآكَامِ.

697 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

698 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ اَنْتَ وَمَلَآئِكَتُكَ.

699 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ قَامَ بِاَعْبَآءِ الرِّسَالَةِ.

700 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ اِسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ.

701 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ جَاهَدَ اَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ.

702 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ دَعَآ اِلٰى تَوْحِيْدِكَ.

703 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ قَاسَى الشَّدَآئِدَ فِيْ اِرْشَادِ عَبِيْدِكَ.

704 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعْطِهٖ سُوْلَهٗ.

705 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَبَلِّغْهُ مَأْمُوْلَهٗ.

706 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ.

707 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَعْطِهِ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ.

708 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا كَمَا وَعَدْتَّهٗ.

709 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِيْنَ لِشَرِيْعَتِهٖ.

710 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ بِهَدْيِهٖ وَسِيْرَتِهٖ.

711 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَوَفَّنَا عَلٰى سُنَّتِهٖ.

712 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهٖ.

713 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاحْشُرْنَا فِيْ اِتْبَاعِهِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ.

714 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ.

715 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَبْعُوْثِ مِنْ تِهَامَةَ.

716 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاٰمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْاِسْتِقَامَةِ.

717 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّفِيْعِ لِاَهْلِ الذُّنُوْبِ فِيْ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ.

718 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَبَلِّغْ نَبِيَّنَا مِنَّآ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ.

719 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ فِي الْمَوْقِفِ الْعَظِيْمِ.

720 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَطِيْلَةً تَتَوَالٰى وَتَدُوْمُ۔

721 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا لَاحَ بَارِقٌ۔

722 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا ذَرَّ شَارِقٌ۔

723 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا وَقَبَ غَاسِقٌ۔

724 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مَا اَنْهَرَ وَادِقٌ۔

725 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِلْءَ اللَّوْحِ وَالْفَضَاءِ۔

726 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِثْلَ نُجُوْمِ السَّمَاءِ۔

727 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْحَصَا۔

728 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً لَّا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى۔

729 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا بِهَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ بِمِنْهَاجِ شَرِيْعَتِهٖ۔

730 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاهْدِنَا بِهَا بِهَدْيِهٖ وَسِيْرَتِهٖ۔

731 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَوَفَّنَا بِهَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَسُنَّتِهٖ۔

732 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ فِيْ زُمْرَتِهٖ۔

733 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَمِتْنَا بِهَا عَلٰى حُبِّهٖ وَحُبِّ اٰلِهٖ۔

734 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَتَوَفَّنَا بِهَا عَلٰى حُبِّ ذُرِّيَّتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ۔

735 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ اَنْبِيَآئِكَ۔

736 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ اَصْفِيَآئِكَ۔

737 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اِمَامِ اَوْلِيَآئِكَ۔

738 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ خَاتَمِ رُسُلِكَ وَاَنْبِيَآئِكَ۔

739 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

740 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ شَهِيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

741 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ۔

742 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ اَجْمَعِيْنَ۔

743 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَرْفُوْعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ۔

744 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ۔

745 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ۔

746 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ۔

747 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْهَادِيْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ۔

748 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ آتَيْتَهٗ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ۔

749 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَهَادِي الْاُمَّةِ۔

750 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ۔

751 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَوَّلِ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ۔

752 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُؤَيَّدِ بِجِبْرَآئِيْلَ وَ مِيْكَآئِيْلَ۔

753 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُبَشَّرِ بِهٖ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ۔

754 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُصْطَفَى الْقَاسِمِ۔

755 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ۔

756 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ الْاَبْرَارِ وَ الْفُجَّارِ۔

757 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ۔

758 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ۔

759 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ حِجَابًا لَّنَا مِنَ النَّارِ۔

760 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ سَبَبًا لِّاِبَاحَةِ دَارِ الْقَرَارِ۔

761 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ هَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

762 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ شَرِّفْ بِهَا مَسَامِعَنَا فِيْ خِطَابِكَ۔

763 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ فَهِّمْنَا بِهَآ اَسْرَارَ كِتَابِكَ۔

764 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ قَرِّبْنَا بِهَا مِنْ اِعْتَابِكَ۔

765 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ امْنَحْنَا بِهَا مِنْ لَّذِيْذِ شَرَابِكَ۔

766 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ طَهِّرْ بِهَآ اَسْرَارَنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّبْعِدُنَا مِنْ حَضَرَاتِكَ۔

767 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَذْهِبْ بِهَا عَنَّا كُلَّ مَنْ يَّقْطَعُنَا عَنْ لَّذِيْذِ مُوَاصَلَاتِكَ۔

768 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَرِحْ بِهَا قُلُوْبَنَا وَ اَبْدَانَنَا مِنْ كُلِّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ بِوُسْعِ عَطَآئِكَ وَ فَضْلِكَ۔

769 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ ارْضَ بِهَا عَنَّا۔

770 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَلَا تَغْضَبْ بِهَا عَلَيْنَا۔
771 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَافِنَا بِهَا وَاعْفُ عَنَّا۔
772 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاَدْخِلْنَا بِهَا فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ۔
773 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً مَّقْبُوْلَةً تُؤَدِّيْ بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيْمَ
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
774 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ۔
775 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْبَهْجَةِ وَالْكَمَالِ۔
776 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْبَهَاءِ وَالنُّوْرِ۔
777 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْوِلْدَانِ وَالْحُوْرِ۔
778 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْغُرَفِ وَالْقُصُوْرِ۔
779 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ اللِّسَانِ الشَّكُوْرِ۔
780 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْقَلْبِ الْمَشْكُوْرِ۔
781 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْعِلْمِ الْمَشْهُوْرِ۔
782 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْجَيْشِ الْمَنْصُوْرِ۔
783 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْبَنِيْنَ وَالْبَنَاتِ۔
784 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْأَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ۔
785 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ۔
786 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الزَّمْزَمِ وَالْمَقَامِ۔
787 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔
788 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الرَّغْبَةِ وَالتَّرْغِيْبِ۔
789 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْبَغْلَةِ وَالنَّجِيْبِ۔
790 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَالْقَضِيْبِ۔
791 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ نَبِيِّكَ الْأَوَّابِ۔
792 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ۔
793 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَنْعُوْتِ فِي الْكِتَابِ۔
794 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَبْدِ اللهِ۔
795 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَنْزِ اللهِ۔
796 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ حُجَّةِ اللهِ۔

797 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَنْ اَطَاعَهٗ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ۔

798 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ۔

799 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ التِّهَامِيِّ الْعَرَبِيِّ۔

800 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقَرَشِيِّ الزَّمْزَمِيِّ۔

801 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ۔

802 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ۔

803 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الطَّرْفِ الْكَحِيْلِ۔

804 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْخُلُقِ الْاَسِيْلِ۔

805 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْكَوْثَرِ وَالسَّلْسَبِيْلِ۔

806 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ قَاهِرِ الْمُضَادِيْنَ۔

807 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مُبِيْدِ الْكَافِرِيْنَ۔

808 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ قَاتِلِ الْمُشْرِكِيْنَ۔

809 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اِلٰى جِوَارِ الْكَرِيْمِ۔

810 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ جِبْرِيْلَ الْاَمِيْنِ۔

811 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

812 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ۔

813 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ غَايَةِ الْغَمَامِ۔

814 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مِصْبَاحِ الظَّلَامِ۔

815 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ قَمَرِ التَّمَامِ۔

816 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهِ الْمُصْطَفَيْنَ مِنْ اَطْهَرِ جِبِلَّةٍ۔

817 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً دَائِمَةً غَيْرَ مُضْمَحِلَّةٍ۔

818 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً يَتَجَدَّدُ بِهَا حُبُوْرُهٗ۔

819 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً يَّشْرُفُ بِهَا فِي الْمِيْعَادِ بَعْثُهٗ وَنُشُوْرُهٗ۔

820 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيْزَانًا۔

821 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَوْضَحِ الْعَرَبِ بَيَانًا۔

822 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْصَحِ الْعَرَبِ لِسَانًا۔

823 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَشْمَخِ الْعَرَبِ اِيْمَانًا۔

824 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَحْلَى الْعَرَبِ كَلَامًا۔

825 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَعْلَى الْعَرَبِ مَقَامًا۔

826 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ اَوْضَحَ الطَّرِيْقَةَ۔

827 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ نَصَحَ الْخَلِيْقَةَ۔

828 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ شَهَرَ الْاِسْلَامَ۔

829 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَسَرَ الْاَصْنَامَ۔

830 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ اَظْهَرَ الْاَحْكَامَ۔

831 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ حَظَرَ الْاَحْكَامَ۔

832 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ عَمَّ بِالْاِنْعَامِ۔

833 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ فِىْ كُلِّ مَحْفَلٍ وَّمَقَامٍ۔

834 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا عَوْدًا وَّبَدْءًا۔

835 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا ذَخِيْرَةً وَّوِرْدًا۔

836 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً يَّتْبَعُهَا رَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ۔

837 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً يَّعْقُبُهَا مَغْفِرَةٌ وَّرِضْوَانٌ۔

838 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ مَنْ طَابَ بِهِ النَّجَّارُ۔

839 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَفْضَلِ مَنْ سَمَا بِهِ الْفُخَّارُ۔

840 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ اِسْتَنَارَتْ بِنُوْرِ جَبِيْنِهِ الْاَقْمَارُ۔

841 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ تَضَآءَلَتْ عِنْدَ جُوْدِ يَمِيْنِهِ الْغَمَآئِمُ وَ الْبِحَارُ۔

842 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ بِبَاهِرِ اٰيَاتِهٖ نَطَقَ الْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ۔

843 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ قُطْبِ الْجَلَالَةِ۔

844 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ شَمْسِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ۔

845 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْهَادِىْ مِنَ الضَّلَالَةِ۔

846 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُنْقِذِ مِنَ الْجَهَالَةِ۔

847 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّكَ الزَّاهِدِ۔

848 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَسُوْلِ الْمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ۔

849 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّكَ الْاَصِيْلِ۔

850 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّيِّدِ النَّبِيْلِ۔

851 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ جَآءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيْلِ۔

852 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ اَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيْلِ۔

853 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ جَآءَهٗ جِبْرِيْلُ بِالْكَرَامَةِ وَالتَّفْضِيْلِ۔

854 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ اُسْرِىَ بِهٖ اِلَى الْمَلِكِ الْجَلِيْلِ۔

855 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كُشِفَ لَهٗ عَنْ اَعْلَى الْمَلَكُوْتِ۔

856 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ اُرِىَ سَنَآءُ الْجَبَرُوْتِ۔

857 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ نَظَرَ اِلٰى قُدْرَةِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ۔

858 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً مَّقْرُوْنَةً مبِالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ۔

859 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً مَّقْرُوْنَةً مبِالْخَيْرِ وَالْاِفْضَالِ۔

860 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ الْاَقْطَارِ وَالْاَشْجَارِ۔

861 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَالْاَنْهَارِ۔

862 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ رَمْلِ الصَّحَارِيْ وَالْقِفَارِ۔

863 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ عَدَدَ ثِقْلِ الْجِبَالِ وَالْاَحْجَارِ۔

864 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ۔

865 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ زَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَخْيَارِ۔

866 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔

867 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ۔

868 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى ذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِيْنَ۔

869 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى صَحَابَتِهِ الْاَكْرَمِيْنَ۔

870 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

871 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ۔

872 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ تَشَرَّفُ بِهَا عُقْبَاهُ۔

873 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تَبْلُغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَاهُ وَرِضَاهُ۔

874 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا بِهَا مِنْ خِيَارِ اُمَّتِهٖ۔

875 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاسْتَعْمِلْ بِهَآ اَلْسِنَتَنَا فِىْ مَدْحِهٖ وَنُصْرَتِهٖ۔

876 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَحْيِنَا بِهَا مُتَمَسِّكِيْنَ بِطَاعَتِهٖ۔

877 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَمِتْنَا بِهَا عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِهٖ وَسُنَّتِهٖ۔

878 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاحْشُرْنَا بِهَا غَدًا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَتَحْتَ لِوَآئِهٖ.

879 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاَنْزِلْ بِهَا عَلٰى قُلُوْبِنَا مِنْ نُّوْرِ الذِّكْرِ وَالْحِكْمَةِ.

880 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتَقَبَّلْهَا مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

881 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاَمْلَأْ بِهَا صُدُوْرَنَا بِاَنْوَارِ الْيَقِيْنِ.

882 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاجْعَلْنَا بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِيْنَ.

883 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاجْعَلْ بِهَا هَوَانَا تَبَعًا لِّمَا جَآءَ بِهٖ حَبِيْبُكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ.

884 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهَا الْحَوَآئِجُ وَتُنَالُ بِهَا الرَّغَآئِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

885 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَفْصَحَ النَّاسِ مَنْطِقًا.

886 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَحْلَى النَّاسِ كَلَامًا.

887 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَوْجَزَ النَّاسِ كَلَامًا.

888 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ.

889 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ نَزْرَ الْكَلَامِ.

890 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ طَوِيْلَ السُّكُوْتِ.

891 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

892 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ كَلَامُهٗ فَصْلًا لَّا فُضُوْلٌ فِيْهِ وَلَا تَقْصِيْرٌ.

893 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اِذَا نَطَقَ لَيْسَ بِمِهْذَارٍ.

894 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ كَلَامُهٗ كَخَرَزَاتِ النَّظْمِ.

895 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ لَا يَسْرُدُ الْكَلَامَ.

896 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ يَخْزُنُ لِسَانَهٗ عَمَّا لَا يَعْنِيْهِ.

897 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ جَهِيْرَ الصَّوْتِ.

898 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ نَغْمَةً.

899 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّمًا وَّضِحْكًا فِيْ

وُجُوهِ اَصْحَابِهٖ۔

900 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ۔

901 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اِذَا ضَحِكَ بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ۔

902 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَفْتَرُّ عَنْ مِّثْلِ سَنَآءِ الْبَرْقِ۔

903 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَمْزَحُ وَلَا يَقُوْلُ اِلَّا الْحَقَّ۔

904 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ۔

905 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ دَآئِمَ الْفِكْرَةِ۔

906 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ لَيْسَتْ لَهٗ رَاحَةٌ۔

907 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ رَقِيْقَ الْبَشَرَةِ۔

908 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَطِيْفَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ۔

909 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهٖ رِضَاهُ وَغَضَبُهٗ۔

910 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ۔

911 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهٗ۔

912 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَحْلَمَ النَّاسِ۔

913 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهٖ۔

914 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَا يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهٖ۔

915 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَا يُقَامُ لِغَضَبِهٖ اِذَا تَعَرَّضَ لِلْحَقِّ بِشَيْءٍ۔

916 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُنْفِذُ الْحَقَّ وَاِنْ عَادَ بِالضَّرَرِ عَلَيْهِ۔

917 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَشَدَّ النَّاسِ حَيَآءً۔

918 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَا يُشَافِهُ اَحَدًا م بِمَا يَكْرَهُ۔

919 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيْلٍ۔

920 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَكْنِىْ عَمَّا اضْطُرَّ اِلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ الْمَكْرُوْهِ۔

921 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَعْدَلَ النَّاسِ۔

922 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَعَفَّ النَّاسِ۔

923 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَرْغَبَ النَّاسِ فِى الْعَفْوِ مَعَ الْقُدْرَةِ۔

924 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ لَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهٖ۔

925 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ كَفًّا۔

926 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا۔

927 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً۔

928 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَوْفَى النَّاسِ ذِمَّةً۔

929 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَلْيَنَ النَّاسِ عَرِيْكَةً۔

930 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَكْرَمَ النَّاسِ عِشْرَةً۔

931 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَنْ رَّاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهٗ۔

932 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَنْ خَالَطَهٗ اَحَبَّهٗ۔

933 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يَقُوْلُ نَاعِتُهٗ لَمْ اَرَ مِثْلَهٗ۔

934 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَسْخَى النَّاسِ يَدًا۔

935 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَكْرَمَ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ۔

936 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ يُعْطِيْ عَطَآءَ مَنْ لَّا يَخْشَى الْفَاقَةَ۔

937 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ مَا سُئِلَ قَطُّ فَقَالَ لَا۔

938 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَنْجَبَ النَّاسِ۔

939 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَشْجَعَ النَّاسِ۔

940 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ قَوِيَّ الْبَطْشِ۔

941 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَشَدَّ النَّاسِ بَأْسًا۔

942 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ بِشْرًا۔

943 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ غَضَبًا۔

944 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَسْرَعَ النَّاسِ رِضًا۔

945 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ۔

946 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَرْاٰفَ النَّاسِ بِالنَّاسِ۔

947 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَنْفَعَ النَّاسِ لِلنَّاسِ۔

948 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ اَطْرَقَ جُلَسَاؤُهٗ۔

949 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ لَا يَتَنَازَعُ فِي الْحَدِيْثِ عِنْدَهٗ۔

950 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ لَا تَرْفَعُ فِيْ مَجْلِسِهِ الْاَصْوَاتُ۔

951 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ ضَحِكُ اَصْحَابِهٖ عِنْدَهُ التَّبَسُّمَ۔

952 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا۔

953 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَسْكَنَ النَّاسِ فِيْ غَيْرِ كِبْرٍ۔

954 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ مُوْكِفًا۔

955 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَعُوْدُ الْمَرْضٰى فِيْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ۔

956 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ۔

957 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمِسْكِيْنِ۔

958 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَخْصِفُ النَّعْلَ۔

959 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَرْقَعُ الثَّوْبَ۔

960 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهٖ مَعَ اَهْلِهٖ حَاجَتَهُمْ۔

961 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُّقَامَ لَهٗ۔

962 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ اَصْحَابِهٖ كَاَنَّهٗ اَحَدُهُمْ۔

963 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَا يَدْعُوْهُ اَحَدٌ اِلَّا قَالَ لَهٗ لَبَّيْكَ۔

964 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ۔

965 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَوْ جُرْعَةَ لَبَنٍ۔

966 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُجَالِسُ الْفُقَرَآءَ۔

967 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُؤَاكِلُ الْمَسَاكِيْنَ۔

968 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُكْرِمُ اَهْلَ الْفَضْلِ فِيْ اَخْلَاقِهِمْ۔

969 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَتَاَلَّفُ اَهْلَ الشَّرَفِ بِالْبِرِّ لَهُمْ۔

970 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مَا يَاْتِيْهِ اَحَدٌ اِلَّا قَامَ مَعَهٗ فِيْ حَاجَتِهٖ۔

971 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اِذَا سُئِلَ اَنْ يَّدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ عَدَلَ اِلَى الدُّعَآءِ لَهٗ۔

972 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مَا شَتَمَ اَحَدًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِشَتِيْمَةٍ۔

973 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مَا لَعَنَ امْرَاَةً وَّلَا خَادِمًا۔

974 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مَا ضَرَبَ بِيَدِهٖ اَحَدًا قَطُّ۔

975 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اِذَا لَقِيَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِهٖ بَدَاَ بِالْمُصَافَحَةِ۔

976 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَبْدَأُ مَنْ لَّقِيَهُ بِالسَّلَامِ.

977 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُكْرِمُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ.

978 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُؤْثِرُ مَنْ يَّدْخُلُ عَلَيْهِ بِالْوِسَادَةِ.

979 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُعْطِىْ كُلَّ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ نَصِيْبَهُ مِنْ وَّجْهِهٖ.

980 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ مَنْ قَاوَمَهُ لِحَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ.

981 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَدْعُوْ أَصْحَابَهُ بِكُنَاهُمْ.

982 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُكَنِّىْ مَنْ لَّمْ تَكُنْ لَّهُ كُنْيَةٌ.

983 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَأْكُلُ مِنَ الطَّعَامِ مَا وَجَدَ.

984 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ أَكْثَرُ طَعَامِهِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

985 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ بَعِيْدَ الشِّبَعِ.

986 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ كَثِيْرَ الْجُوْعِ.

987 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَطْوِىْ عَلٰى بَطْنِهِ الْحَجَرَ.

988 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَا يَذُمُّ شَيْئًا.

989 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ.

990 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ لَا يَذُمُّ ذَوَاقًا وَّلَا يَمْدَحُهُ.

991 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا وَجَدَ.

992 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ أَكْثَرُ ثِيَابِهِ الْبَيَاضُ.

993 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَتْ ثِيَابُهُ مُشَمَّرَةً فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ.

994 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَنَامُ عَلَى الْحَصِيْرِ لَيْسَ تَحْتَهُ غَيْرُهُ.

995 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ فِرَاشُهُ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيْفٌ.

996 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَرَضِّنَا بِهَا بِقَضَآئِكَ يَا لَطِيْفُ.

997 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَرَقِّنَا بِهَآ إِلَى الْمَنْزِلِ الشَّرِيْفِ.

998 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسُقْ إِلَيْنَا بِهَا مِنْ رَّحْمَتِكَ مَا يُغْنِيْنَا.

999 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا بِهَا مِنْ بَرَكَاتِكَ مَا يَكْفِيْنَا.

1000 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَادْفَعْ عَنَّا بِهَا مِنْ نِّقَمِكَ مَا يُؤْذِيْنَا.

1001 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَهَبْ لَنَا بِهَا مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُنْجِيْنَا.

1002 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَجَنِّبْنَا بِهَا مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ مَا يُرْدِيْنَا.

1003 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاقْذِفْ بِهَا فِيْ قُلُوْبِنَا مِنْ رُّوْحِ مَعْرِفَتِكَ مَا يُحْيِيْنَا.

1004 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَافْضِ عَلَيْنَا بِهَا مِنْ نُّوْرِ هِدَايَتِكَ مَا يُقَرِّبُنَا مِنْ مَّحَبَّتِكَ وَيُدْنِيْنَا.

1005 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَارْزُقْنَا بِهَا مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تَثَبَّتَ بِهٖ اَفْئِدَتُنَا وَيَشْفِيْنَا.

1006 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاشْفِنَا بِهَا وَعَافِنَا ظَاهِرًا مِّنْ كُلِّ مَا فِيْنَا.

1007 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً تُحَرِّمُ بِهَا اَجْسَادَنَا عَلَى النَّارِ وَتُثَبِّتُنَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَتَجْعَلُ لَنَا نُوْرًا نَّمْشِيْ بِهٖ عَلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ وَّاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

1008 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا.

1009 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَزْهَرَ اللَّوْنِ نَيِّرَهٗ.

1010 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ بَيَاضُهٗ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ.

1011 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهٗ كَالْقَمَرِ.

1012 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ رَبْعَةً اِذَا مَشٰى وَحْدَهٗ.

1013 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ عَظِيْمَ الْهَامَةِ.

1014 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ رَجِلَ الشَّعْرِ.

1015 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ وَاسِعَ الْجَبِيْنِ.

1016 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَزَجَّ الْحَاجِبَيْنِ.

1017 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَبْلَجَ الْحَاجِبَيْنِ.

1018 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ.

1019 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ.

1020 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ.

1021 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَقْنَى الْعِرْنَيْنِ.

1022 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ كَانَ اَهْدَبَ الْاَشْفَارِ.

1023 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ۔

1024 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ ضَلِيْعَ الْفَمِ۔

1025 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَشْنَبَ الْاَضْرَاسِ۔

1026 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مُفْلِجَ الْاَسْنَانِ۔

1027 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ۔

1028 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ دَقِيْقَ الْمَسْرُبَةِ۔

1029 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ عُنُقُهٗ اِبْرِيْقُ فِضَّةٍ۔

1030 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَسِيْلَ الْوَجْهِ۔

1031 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ۔

1032 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ۔

1033 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ ضَرْبَ اللَّحْمِ۔

1034 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ سَوَآءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ۔

1035 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ عَرِيْضَ الصَّدْرِ۔

1036 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَ اَعَالِى الصَّدْرِ۔

1037 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ عَارِى الثَّدْيَيْنِ۔

1038 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ عَظِيْمَ الْمَنْكِبَيْنِ۔

1039 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ۔

1040 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ وَاسِعَ الظَّهْرِ۔

1041 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ عَبْلَ الْعَضُدَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ۔

1042 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ طَوِيْلَ الزَّنْدَيْنِ۔

1043 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ رَحْبَ الرَّاحَتَيْنِ۔

1044 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ۔

1045 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ سَآئِلَ الْاَطْرَافِ۔

1046 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَصَابِعُهٗ قُضْبَانُ الْفِضَّةِ۔

1047 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ كَفُّهٗ اَلْيَنُ مِنَ الْخَزِّ۔

1048 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مَنْ صَافَحَهٗ وُجِدَ الطِّيْبُ فِيْ يَدِهٖ۔

1049 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ سَبْطَ الْعَصَبِ۔

1050 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مَنْهُوْسَ الْعَقِبِ۔

1051 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَخْمَصَ الْقَدَمَيْنِ۔

1052 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ مَسِيْحَ الْقَدَمَيْنِ۔

1053 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ قَامَتُهٗ مِنَ الْقَامَتَيْنِ۔

1054 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ ذَرِيْعَ الْمِشْيَةِ۔

1055 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ يَمْشِى الْهُوَيْنٰى۔

1056 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اِذَا زَالَ تَقَلَّعَ۔

1057 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ۔

1058 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَجْمَلَ النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ۔

1059 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ مِنْ قَرِيْبٍ۔

1060 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ النَّسِيْبَ الْحَسِيْبَ۔

1061 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ زَكِيَّ النَّسَبِ۔

1062 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ الطَّيِّبَ الْحَسِيْبَ۔

1063 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْمُنْتَقِلِ مِنْ اَطْهَرِ الْاَصْلَابِ۔

1064 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَامْنُنْ عَلَيَّ بِالْمَتَابِ۔

1065 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَاةً اَنْجُوْ بِهَا مِنَ الْعَذَابِ۔

1066 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ صَاحِبِ الْاٰيَاتِ۔

1067 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ۔

1068 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ۔

1069 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ۔

1070 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَاحِبِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ۔

1071 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ اَعْظَمَ مُعْجِزَاتِهِ الْقُرْاٰنُ۔

1072 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ اُسْرِىَ بِهٖ اِلَى الْمَلِكِ الْعَظِيْمِ۔

1073 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ دَنَا كَقَابِ قَوْسَيْنِ۔

1074 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ خُصَّ مِنَ الْخَلْقِ بِرُؤْيَةِ الذَّاتِ بِالْعَيْنِ۔

1075 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ عُرِجَ بِهٖ اِلَى السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ۔

1076 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ۔

1077 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ كَانَ تُظِلُّهُ الْغَمَامَةُ حَيْثُمَا سَارَ۔

1078 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ کَانَ یَرٰی مِنْ خَلْفِہٖ کَمَا یَرٰی مِنْ اَمَامِہٖ۔

1079 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ بَکٰی اِلَیْہِ الْجِذْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِہٖ۔

1080 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ اِذَا مَشٰی فِی الْبَرِّ تَعَلَّقَتِ الْوُحُوْشُ بِاَذْیَالِہٖ۔

1081 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ سَلَّمَتْ عَلَیْہِ الْغَزَالَۃُ۔

1082 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ تَوَسَّلَ بِہٖ طَیْرُ الْفَلَاۃِ۔

1083 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ سَبَّحَتْ فِیْ کَفِّہِ الْحَصَاۃُ۔

1084 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ کَلَّمَہُ الضَّبُّ فِیْ مَجْلِسِہٖ۔

1085 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ شَھِدَ الذِّئْبُ لِلرَّاعِیْ بِرِسَالَتِہٖ۔

1086 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ شَکَتْ اِلَیْہِ الْغَزَالَۃُ فَقَضٰی وَطَرَھَا۔

1087 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ وَعَدَتْہُ الْغَزَالَۃُ فَوَفَتْ بِوَعْدِھَا۔

1088 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ اَعْلَمَتْہُ الذِّرَاعُ بِسَمِّھَا۔

1089 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ نَطَقَ لَہُ الرَّضِیْعُ۔

1090 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ شَکَا اِلَیْہِ الْبَعِیْرُ۔

1091 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ نَبَعَ مِنْ بَیْنِ اَصَابِعِہِ الْمَآءُ النَّمِیْرُ۔

1092 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ کَانَ یَسْمَعُ تَسْبِیْحَ الطَّعَامِ فِیْ کَفِّہٖ۔

1093 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ تَکَلَّمَ الْحَصٰی فِیْ یَدِہٖ۔

1094 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ قَامَ الْبُرَاقُ اِجْلَالًا لِحُرْمَتِہٖ۔

1095 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ انْشَقَّ لَہُ الْقَمَرُ۔

1096 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ سَلَّمَ عَلَیْہِ الْحَجَرُ۔

1097 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ سَعٰی اِلَیْہِ الشَّجَرُ۔

1098 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ اَطْعَمَ النَّفَرَ الْکَبِیْرَ مِنْ صَاعِ شَعِیْرٍ۔


1099 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ اَشْبَعَ الْجَیْشَ مِنْ تَمْرٍ یَّسِیْرٍ۔

1100 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ مَسَحَ ضِرْعَ شَاۃٍ لَّا لَبَنَ لَھَا فَدَرَّتْ۔

1101 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ رَدَّ عَیْنَ قَتَادَۃَ بَعْدَ مَا سَقَطَتْ۔

1102 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ تَفَلَ فِیْ بِئْرٍ مِلْحٍ فَعَذُبَ مَآؤُھَا۔

1103 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ تَفَلَ فِیْ عَیْنِ عَلِیٍّ فَصَحَّتْ مِنْ وَّقْتِھَا۔



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

عَيْنُ الْبَرَكَاتِ فِي أَلْفِ مُعْجِزَاتٍ ﷺ

اسلم بن اشرف الچرخی الکشمیری

صِيغَةُ الصَّلَوٰاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری


المکتبۃ القادریۃ 18
الباکستان
0092-3335187573

عینُ البرکات فی ذکر الصلاۃ مع المعجزات

درُود و سلام کے اِس گلدستے کے مصنف اسلم بن اشرف الچرخی الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں حلیہ شریف کی تالیف سے فارغ ہوا تو میرے دل میں القاء ہوا کہ میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتِ شریفہ کو درُودوں کی لڑیوں کے ساتھ ترتیب دے کر ایک گلدستے کی صورت میں اِس اُمید کے ساتھ پیش کروں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور میرا یہ عمل میری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے۔ جب یہ کتاب 1170ھ مکمل ہوئی تو میں نے اُس کا نام **عین البرکات فی ذکر الصلاۃ مع المعجزات** رکھ دیا۔

اِس کتاب کو میں نے سات دنوں کے حساب سے سات احزاب پر تقسیم کر دیا تا کہ پڑھنے والے کیلئے آسانی ہو۔ ہر حزب یا حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 142 معجزات کا ذکر ہے اور ساتویں حصے میں 6 معجزات زیادہ ہیں اور اِس طرح اِس کتاب میں درُود و سلام کے ہمراہ ایک ہزار معجزاتِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کتاب مذکورہ بالا، لاہور کے ایک بزرگ پیر عبدالغفار کشمیری نے شائع کروائی۔

دورانِ تحقیق کتاب مذکورہ بالا کا جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا اُس کے سرورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔



عَينُ الْبَرَكَاتِ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْظَمُ مُعجِزَاتِهِ الْقُرْآنُ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَارَ لِمَسْجِدِهِ الْعِيْدَانُ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْرَجَ شَجَرًا اَغْصَانُهٗ مِنَ الذَّهَبِ ثِمَارُهٗ مُخْتَلِفَةٌ اِسْمُ اللّٰهِ وَاِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ عَلٰى اَوْرَاقِهٖ عَلَيْهِ طَائِرٌ اَبْيَضُ مِنَ الْحَجَرِ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَقَّ الْقَمَرَ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ ضَمَّ الْقَمَرَ بَعْدَ الْاِنْشِقَاقِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنَبَّهَ بِهٖ جَائِرٌ مِّنَ الْغَشْيِ وَاَفَاقَ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَصَّرَ صَبِيَّةً كَمْهَآءَ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَارَ مَعَ اَصْحَابِهٖ فَاَضَآءَتْ اَصَابِعُهٗ فِىْ لَيْلَةٍ ظَلْمَآءَ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَحٰى عَنِ التُّرْسِ تِمْثَالَ كَبْشٍ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَارَ بِهِ الْعُرْجُوْنَ سَيْفًا فِىْ يَدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَبَتَ مِنْ سَنَامِ النَّاقَةِ بِهِ الشَّجَرُ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْرَجَ مِنَ الْحَجَرِ طَائِرًا جَسَدُهٗ مِنَ الْفِضَّةِ مِنْقَارُهٗ مِنَ الْيَاقُوْتِ رِجْلَاهُ مِنَ الزَّبَرْجَدِ اَحَدُ جَنَاحَيْهِ مِنَ الْمِسْكِ وَالْاٰخَرُ مِنَ الْعَنْبَرِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَانَ كَالشَّمْعِ فِىْ يَدِهِ الْحَجَرُ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَرَجَ بِهِ اللَّبَنُ مَعَ الْعَسَلِ مِنَ الْعَجَمَةِ فَصَارَ يَاقُوْتًا اَحْمَرَ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْطَى الْحَسَنَيْنِ تِيْنَيْنِ لِلْبُكَآءِ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ هٰذَا سَيِّدُ الْاَنْبِيَآءِ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَتْ لَهٗ هٰذَا سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ نَخْلَةٌ اُخْرٰى۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَطْعَمَ عِنَبَ الْجَنَّةِ خَدِيْجَةَ الْكُبْرٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَ اِلَيْهِ لِطَلَبِ رُكَانَةَ نِصْفُ الشَّجَرِ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِاَمْرِهٖ ذٰلِكَ النِّصْفُ اِلٰى مَنْبَتِهٖ وَ انْضَمَّ النِّصْفَ الْاٰخَرَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَكٰى اِلَيْهِ جَمَلٌ مِّنْ قَوْمِهٖ تَرْكَ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَهٗ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِثَوْبَيْنِ اَبْيَضَيْنِ فَصَارَ اَحَدُهُمَا اَخْضَرَ وَ الْاٰخَرُ اَحْمَرَ بِصَبِّ الْمَآءِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْرَجَ اَبَا جَهْلٍ مِّنْ قَعْرِ الْبِيْرِ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَالَ عَلٰى اَبِىْ جَهْلٍ مِّنْ عِنْدِهٖ الْبَعِيْرُ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْرَجَ مِنَ الْحَجَرِ شَجَرًا اِقْتَرَنَ بِالسَّمَآءِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَدَّ ذٰلِكَ الشَّجَرَ فِى الْحَجَرِ بِقَوْلِ الْاَعْدَآءِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ ظَهَرَتْ بِرِيْقِهٖ عَيْنٌ سُمِّيَتْ مَآءَ الرَّسُوْلِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قُصِرَتْ لَهٗ يَدُ الشَّهْبَآءِ لِلصُّعُوْدِ عَلَى الْجَبَلِ وَ طَالَتْ يَدَاهَا لِلنُّزُوْلِ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حَنَّ لِفِرَاقِهِ الْاُسْطُوَانَةُ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَكَّتَ السَّارِيَةَ الْحَنَّانَةَ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَلَّمَتْهُ تِلْكَ الْاُسْطُوَانَةُ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَادَ بِهِ الْخَشَبُ سَيْفًا فِىْ يَدِ اَبِىْ دُجَانَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَارَ جَمَلُ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِذْ ضَرَبَهٗ بِعَصَاهُ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْطٰى فَصًّا عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لِيَنْقُشَ فِيْهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَوَجَدَ فِيْهِ بَعْدَ النَّقْشِ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اِذَآ اَرَادَ نُزُوْلَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ لِلْمُعْجِزَةِ فَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَيَنْزِلَانِ حَيْثُ شَآءَ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَبَعَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ لِلذِّهَابِ اِلٰى قُبَآءٍ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالشَّهَادَةِ اُمَّ وَرَقَةَ الْاَنْصَارِيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَنْشَاَ الْاَعْضَآءَ لِلصَّبِيَّةِ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بَحَثَ فِي الْاَرْضِ بِيَدِهٖ فِي السُّقْيَا فَانْفَجَرَ مِنْهَا الْمَآءُ فَارْوٰى اَصْحَابَهٗ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَلَّمَ الْعَظْمَ فَاَجَابَهٗ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ الضَّبُّ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَطَعَ بِهِ الْاَسَدُ بَطْنَ عُتْبَةَ بْنِ اَبِيْ لَهَبٍ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ سَلَّمَ الْكَلَاءُ عَلَيْهِ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَانَ الْحَجَرُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ رَاٰى اَبُوْ جَهْلٍ م بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ نَفْسِهٖ طُيُوْرًا مَّلَأَتِ الْاَرْضَ وَ خَنْدَقًا مِّنَ النَّارِ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ يَرٰى بِاللَّيْلِ كَمَا يَرٰى بِالنَّهَارِ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَلَّمَهٗ يَعْفُوْرُ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا نَضِجَتْ خُبُوْزُهٗ فِي التَّنُّوْرِ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ صَارَ دُرَرًا قُلَامَةُ اَظْفَارِهٖ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِرَآءَةَ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ اَشْعَارِهٖ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ اَنَا اَقْتُلُكَ وَ اَنْتَ عَلٰى هٰذَا الْفَرَسِ لِاُبَيِّ ابْنِ خَلَفٍ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ بَاتَ فِيْ مَضْجَعِهٖ لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ اِنَّ الْكُفَّارَ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اِضْرَارِكَ فَلَا تَخَفْ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ نَسَجَتْ لَهُ الْعَنْكَبُوْتُ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ لِحَبِيْبِ ابْنِ مَسْلَمَةَ اِنَّ اَبَاكَ عَنْ قَرِيْبٍ يَّمُوْتُ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَعْمٰى بِالتُّرَابِ لِلْخُرُوْجِ اَبْصَارَ الْكُفَّارِ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَانَ مِنْ اَجْلِهِ الْحَجَرُ فِي الْغَارِ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ وَكَّرَتْ لَهُ الْحَمَامَةُ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ شَهِدَ بِرِسَالَتِهٖ مَوْلُوْدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ نَبَتَ عَلٰى بَابِ الْغَارِ لَهُ الشَّجَرُ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ ضَرَبَ عَلٰى قَلْبِ الرَّاعِى الَّذِىْ اَرَادَ اِخْبَارَ قُرَيْشٍ
بِهِجْرَتِهٖ فَاَنْسَاهُ الْخَبَرَ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ قَالَ مِنْ اَجْلِهٖ رَاكِبٌ بِصُوْرَةِ اِنْسَانٍ عِنْدَ الْغَارِ
لِقُرَيْشٍ لَّيْسَ هُوَ هٰهُنَا اُطْلُبُوْهُ فِى الْجَوَانِبِ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ مَنْ دَقَّ الْبَابَ عَلِىُّ
ابْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ عَمِيَتْ بِدُعَائِهٖ عِنْدَ الْكَهْفِ اَبْصَارُ الْكَافِرِيْنَ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَعْمَى اللّٰهُ مِنْ اَجْلِهِ الْقَائِفِيْنَ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عِنْدَ الْغَارِ بِهِ الطَّآئِرُ
الْجَالِسُ عَلٰى ذِرْوَةِ الْجَبَلِ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ شَكٰى اِلَيْهِ جَمَلٌ قِلَّةَ الْعَلَفِ وَ كَثْرَةَ الْعَمَلِ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ ارْتَطَمَتْ بِهٖ فِى الْاَرْضِ فَرَسُ سُرَاقَةَ ابْنِ مَالِكٍ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَنْجٰى فَرَسُ سُرَاقَةَ مِنْ هُنَالِكَ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَسَرَ لِخُرُوْجِهٖ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَرَفَ الْغَارِ
بِالْجَنَاحِ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ يَفْتَحُ لَهُ الْبَابُ الْمَغْلُوْقُ مِنْ غَيْرِ الْمِفْتَاحِ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ قَالَ فِى الْغَارِ مَا ظَنُّكَ بِاِثْنَيْنِ ثَالِثُهُمَا لِاَبِىْ بَكْرٍ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَضَآءَ صَدْرُهٗ لَيْلَةَ الْجِنِّ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَيَّةُ وَ كَلَّمَهٗ فِى الْغَارِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ قَالَ لِجَمْعٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ اِنَّ اٰخِرَكُمْ يَمُوْتُ فِى النَّارِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ خَفِىَ الْاَلَمَ فِى الْغَارِ مِنَ الصَّاحِبِ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَآءَهٗ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفَاكِهَةِ الْجَنَّةِ اِذْ سَاَلَهٗ

اَبُو طَالِبٍ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ زَالَ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهِ الْوَرَمُ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّاقَةِ الَّتِىْ اِشْتَرَاهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَّبَاعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ خَرَجَ فِى الْغَارِ مِنَ الْحَجَرِ لِلصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدَحٌ مَّمْلُوٌّ مِّنْ شَرَابٍ اَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ بِيُمْنِهٖ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ خَرَجَ لَهُ الْحَجَرُ مِنْ جِدَارِ الْكَعْبَةِ وَرَجَعَ اِلٰى مَكَانِهٖ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ بَانَ اٰثَرَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْحَجَرِ بِمَسْحِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَمْرِهٖ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَرَعَ اَعْرَابِيًّا فَاَرَادَ اَنْ يَّكِيْدَهٗ فَاَخْبَرَهٗ عَنْ مَّكْرِهٖ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ شَقَّ بِالْيَدِ نَاحِيَةَ الْغَارِ فَاَرٰى بَحْرًا وَّفُلْكًا رَّفِيْقَهٗ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ شَكٰى اِلَيْهِ جَمَلٌ لِّلْقَتْلِ فَاشْتَرَاهُ وَاَعْتَقَهٗ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ هَتَفَ هَاتِفٌ اَنَّهٗ دَخَلَ خَيْمَةَ اُمِّ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَتْ لَهٗ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَسَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِى اللَّحْدِ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ حَلَبَ شَاةَ اُمِّ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَبْرَاَ يَدَ جَرْهَدٍ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَبَتَ بِهِ الشَّجَرُ فِىْ خَيْمَةِ اُمِّ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ حَالَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَبِىْ جَهْلٍ اَسَدٌ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَارَ بِهٖ سَمِيْعَيْنِ بَصِيْرَيْنِ مُتَكَلِّمَيْنِ ابْنَا اُمِّ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَانَ يَضِيْئُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ نُوْرٌ وَّعَنْ يَّسَارِهٖ نُوْرٌ حَيْثُ جَلَسَ وَقَامَ يَرَاهُ كُلُّ اَحَدٍ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَالَ بِهٖ عُمُرُ شَاةِ اُمِّ مَعْبَدٍ.

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَاقَتْ بِهِ الرِّيْحُ بَعِيْرَ غَرْقَدَةٍ اِذْ شَرَدَ.

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حَلَبَ عَنَاقَ اَعْرَابِيٍّ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا لَبَنٌ فِىْ طَرِيْقِ الْهِجْرَةِ.

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَجَدَتْ عَآئِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا بِنُوْرِ اَسْنَانِهِ الْاِبْرَةَ.

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَبْرَاَ رِجْلَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِالْمَسْحِ.

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَفَجَّرَ بِهٖ مَآءُ بِئْرِ قُبَآءٍ بَعْدَ النَّزْحِ.

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ ابْنِ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَثْمَرَ بِهِ الْقِنْوُ فِىْ غَيْرِ الْاَوَانِ.

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَارَ دُرًّا رِيْقُهٗ.

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَارَ وَرْدًا عَرَقُهٗ.

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَضَآءَ بِهٖ عُرْجُوْنٌ اَعْطٰى قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ فِىْ زَاوِيَةِ بَيْتِكَ الشَّيْطَانَ.

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَادَاهُ الْحُسَيْنُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَجَابَهٗ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتّٰى سَمِعَتْ صَوْتَهٗ فَاطِمَةُ الزَّهْرَآءُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا.

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَرَّ عَلَى الْمَآءِ.

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَرَجَ بِهِ الْجَمَلُ مِنَ الْجَبَلِ.

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْطَى الرَّمْلَ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِهٖ لِلْاَكْلِ فَصَارَ اَلْيَنَ مِنَ الزُّبْدِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ.

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَنَتْ لَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ فِىْ سَاعَةٍ بَيْتًا لِّمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا.

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَزَلَ بِهٖ مِنَ السَّمَآءِ دَجَاجَةٌ مَّشْوِيَّةٌ.

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِهٖ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ ضَمَّ الْيَدَ الْمَقْطُوْعَةَ لِرَجُلٍ ۢبِرِيْقِهٖ۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ يَبُسَتْ يَدُ الشَّيْخِ الَّذِيْ رَفَعَ مِنْ اَجْلِهِ الْعَصَا۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ حَدَّثَ قُرَيْشًا ۢبِرُؤْيَةِ الْعِيْرِ فِيْ كَذَا۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اَخْبَرَ قُرَيْشًا ۢبِالَّذِيْ شَرَدَ لَهٗ مِنْ عِيْرِهِمُ الْبَعِيْرِ۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ طَالَ بِهٖ قَامَةُ قَصِيْرٍ۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اَنْبَاَ قُرَيْشًا ۢبِالَّذِيْ اَنْكَبَ لَهُ الْقَدَحُ مِنْ عِيْرِهِمْ فِي الظَّلَامِ۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ الطَّعَامَ لِلصُّلْحِ مِنْ دَارِ السَّلَامِ۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ نَبَّاَ قُرَيْشًا ۢبِعَدَدِ اَهْلِ الْقَافِلَةِ حِيْنَ سَاَلُوْهُ وَ اَخْبَرَ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ سَجَدَ لَهُ النَّاضِحَانِ الْفَحْلَانِ الَّذِيْنَ مَنَعَا الْمَالِكَ اَنْفُسَهُمَا وَ الْحَائِطَ فِي السَّفَرِ۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اَخْبَرَ قُرَيْشًا اَنَّ الْقَافِلَةَ يَقْدُمُهُمْ بَعِيْرٌ اَبْيَضُ وَ فُلَانٌ عَلَيْهِ رَاكِبٌ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اَثْمَرَتْ بِهِ الشَّجَرَةُ حِيْنَ طَلَبَ مِنْهُ مُعْجِزَةً اَبُوْ طَالِبٍ۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ صَارَتْ كَثِيْرَةَ الْحَيَاءِ بِهِ الْمَرْاَةُ الْهَازِلَةُ۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ جُعِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ شَمْعَتَيْنِ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ وَ جِبْرِيْلُ حَامِلُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ مَا لَبِسَ قَطُّ ثَوْبًا طَالَ اَوْ قَصُرَ اِلَّا كَاَنَّهٗ خِيْطَ عَلَيْهِ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ لَانَتْ عِنْدَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِشَدِّ الْبُرَاقِ تَحْتَ يَدِهِ الصَّخْرَةُ۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اِنْشَقَّتْ لَهُ السِّدْرَةُ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ وَصَفَ الْمَسْجِدَ الْاَقْصٰى۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ بَصَّرَ فُدَيْكَا ۨالْاَعْمٰى۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَارَ مَآءً بِهِ السَّرَابُ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَفَخَ فِىْ طَآئِرٍ مِّنَ الطِّيْنِ فَصَارَ حَيًّا وَّقَرَأَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ بِلَا ارْتِيَابٍ۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ مُطِرَ بِهِ الْجَرَادُ مِنَ الذَّهَبِ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا الرِّضْوَانُ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَثْمَرَتْ بِهِ الْاَشْجَارُ الْيَابِسَةُ لِاَهْلِ نَجْرَانَ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَارَ رَصَاصًا بِهِ الْاَحْجَارُ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَرَى النُّجُوْمَ حَارِثَ ابْنِ هِشَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى النَّهَارِ۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَارَ بِهٖ دَمًا مَآءُ آبَارِ بَنِىْ كِلَابٍ۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ دَامَ بِهِ اللَّبَنُ لِشَاةِ آلِ خَبَّابٍ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَارَتْ بِهِ الْعَجُوْزُ شَابَّةً۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ ضَمَّ الْيَدَ الْمَقْطُوْعَةَ يَوْمَ اُحُدٍ لِّوَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ۔

اَلْحِزْبُ الثَّانِىْ

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ رَجَفَ الْمِنْبَرُ تَحْتَ اَقْدَامِهٖ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ غَرَسَ النَّخْلَ لِسَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهٖ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَزَعَ النَّخْلَةَ الَّتِىْ غَرَسَهَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهٖ ذٰلِكَ۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ زَادَ بِهِ الْعُمُرُ وَالْمَالُ وَالْاَوْلَادُ لِاَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ زَادَ الذَّهَبَ لِسَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِلِسَانِهٖ۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَآءَ اِلَيْهِ غُصْنُ النَّخْلَةِ وَرَجَعَ اِلٰى مَكَانِهٖ۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ زَادَ بِهٖ تَمْرُ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَانَ يَجْزِىْ اِلٰى اٰخِذِ الْمَضَاجِعِ رِيْقُهُ الصِّبْيَانَ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَثْمَرَتْ حَدِيْقَةُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فِى الْعَامِ بِبَرَكَةِ دَعْوَتِهٖ۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مَسَحَ مُحَمَّدَ ابْنَ بِشْرٍ فَلَمْ يَشِبْ مِنْهُ مَوْضِعُ رَاحَتِهٖ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَاُتِىَ بِاِنَآءٍ فِيْهِ مَآءٌ قَلِيْلٌ فَاَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْهِ فَنَبَعَ مِنْ مبَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ الزُّلَالُ۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ لَهٗ يَوْمَ اُحُدٍ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ مِيْكَآئِيْلُ عَنِ الشِّمَالِ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَانَ الْحَجَرُ تَحْتَ مِرْفَقَيْهِ۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَلَّمَتْهُ عَضْبَآءُ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ غَابَتْ لِوَعْدِهٖ عَنِ الْقَبْرِ عَضْبَآءُ۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَسْوَدَ بِهِ اللِّحْيَةُ الْبَيْضَآءُ۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَطَالَ يَدَهٗ فِى الْهَوَآءِ وَ جَآءَ بِخُبُوْزٍ وَّ لَحْمٍ مَّشْوِيٍّ لِّاَقْرِبَآئِهٖ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ حَالَ الصَّفَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَعْدَآئِهٖ۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ وَقَعَ لَهُ الْكُفَّارُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِمْ فَمَآ اَفَاقُوْا حَتّٰى قَضَى الصَّلٰوةَ وَرَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ ضَرَبَ مَقْتُوْلًا مبِقَضِيْبٍ فَقَامَ وَ اَخْبَرَ عَنْ قَاتِلِهٖ۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ يَتَنَحّٰى لَهُ الشَّجَرُ لِضِيْقِ السَّبِيْلِ فَيُوْسِعُ لَهُ الطَّرِيْقُ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالرُّؤْيَا اَبَابَكْرِ نِ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَابَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمَآ اَوَّلَ الرَّاهِبُ رُؤْيَاهُ۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ نَادَتْهُ ظَبْيَةٌ فِىْ سِكَّةٍ مِّنْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتْ بِلِسَانٍ فَصِيْحٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَابَكْرٍ مبِمَا قَالَ لَهُ الْكَاهِنُ اِنَّ رُؤْيَاكَ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ خَرَّتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِإِشَارَتِهِ الْاَصْنَامُ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَخْبَرَ الثَّقَفِيَّ وَالْاَنْصَارِيَّ بِالْمَرَامِ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَخْبَرَ بِالْحَوَادِثِ الَّتِيْ لَحِقَتْ بِاَهْلِ بَيْتِهِ الْعِظَامِ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ هَلَاكَ اُمَّتِيْ عَلٰى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِنْ شِئْتُ اُسَمِّيْهِمْ بَنِيْ فُلَانٍ وَّبَنِيْ فُلَانٍ۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ عُدِمَ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهِ النِّسْيَانُ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَخْبَرَ بِاَنْ يُّفْتَحَ لِجَيْشٍ يَّكُوْنُ فِيْهِمْ وَاحِدٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ سَمِعَ اَبُوْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِرَاءَةَ الطُّيُوْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ بِيُمْنِهٖ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ بَيَّنَ الْفَرَسُ حَالَهٗ لِاَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ رَاٰى اَبُوْ جَهْلٍ عَنْ يَّمِيْنِهٖ رِجَالًا وَّعَنْ يَّسَارِهٖ رِجَالًا فِيْ اَيْدِيْهِمُ السِّنَانُ۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ انْفَجَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ مِنْ حَجَرٍ جِيْئَ بِهٖ اِلَيْهِ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ سَلَّمَتِ الْاَحْجَارُ عَلَيْهِ۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَحْيٰ وَالِدَيْهِ۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ سَلَّمَتِ الْاَشْجَارُ عَلَيْهِ۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَبْرَاَ رَاْسَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ جَاءَتْ بِهٖ اِلَيْهِ امْرَاَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَامَةِ۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ سَاَلَتْهُ الثَّمَرَاتُ اَنْ يَّاْكُلَهَا فِيْ حَائِطِ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ تَحَوَّلَ بِهِ الْجِذْلُ سَيْفًا فِيْ يَدِ عُكَّاشَةَ ابْنِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مَا اَمَاتَ بِهٖ مَاءَ عَيْنِ الْيَمَنِ۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ بِصَهْبَآءَ خَيْبَرَ۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ قَالَ كُلُّ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ۔

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَتْهُ بِالسَّمِّ الذِّرَاعِ۔

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَطْعَمَ مِنْ مُّدٍّ وَّاحِدٍ اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا وَّ هُمْ جِيَاعٌ۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مَا بَدَتْ بِهٖ حَوَافِرُ الْخَيْلِ وَلَا اَخْفَافُ الْاِبِلِ اِذْ ذَهَبَ اِلٰى خَيْبَرَ۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ صَفِيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا بِمَا رَأَتْ فِى الْمَنَامِ اَنَّ فِىْ حِجْرِهَا الْقَمَرَ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مَا وَجَدَ بِهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ صَارَ بِهٖ غَنِيًّا ثَعْلَبَةُ ابْنُ حَاطِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ قَالَ بِخَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَّجُلًا يَّفْتَحُ اللهُ عَلٰى يَدَيْهِ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يُرْمٰى بِمَنْجَنِيْقٍ عَلَيْهِ۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ زَالَ مِنْ عَلِيٍّ بِهِ الرَّمَدُ۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَثْمَرَتْ بِهِ النَّخْلَةُ الْيَابِسَةُ فِىْ بَيْتِ مِقْدَادِ ابْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالْاِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ابْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ الْيَهُوْدَ الَّتِىْ طَرَحُوا السَّمَّ فِى الشَّاةِ اَنَّ اَبَاكُمْ فُلَانٌ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ هٰٓؤُلَآءِ الْيَهُوْدَ اَنَّهُمْ طَرَحُوْا فِى الشَّاةِ السَّمَّ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ كَانَ اِذَا نَظَرَ اِلَى السَّمَآءِ يَرَى الْعَرْشَ الْاَعْظَمَ۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ ذَهَبَ بِهٖ عُقُوْلُ بَنِىْ كِلَابٍ وَّ صَارُوْا سُفَهَآءَ۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَهُ جِبْرِيْلُ بِصُوْرَةِ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فِىْ سَرَقَةٍ
مِّنْ حَرِيْرٍ خَضْرَآءَ۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الْمَقْتُوْلَ فِى الْجَنَّةِ مَعَ الْقَاتِلِ يَعْنِىْ عِكْرِمَةَ
ابْنَ اَبِىْ جَهْلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَاذَ بِهٖ جَمَلٌ فِىْ سِكَّةٍ مِّنْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ لِلْقَتْلِ۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَبِحَ بِهٖ فِى التِّجَارَةِ عُرْوَةُ ابْنُ اَبِى الْجَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَارَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ بِهٖ سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا حِيْنَ اَهْدٰى لِلنَّجَاشِىْ
اَوَاقِىَ مِنَ الْمِسْكِ اَنَّ النَّجَاشِىْ يَمُوْتُ وَ تُرَدُّ اِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْلَمَ بِفَتْحِ مُوْتَةَ حِيْنَ بَعَثَ اِلَيْهَا السَّرِيَّةَ۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ قَتْلِ زَيْدٍ وَّ ابْنِ رَوَاحَةَ وَ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُمْ۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَنْبَاَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِىْ قُتِلُوْا فِيْهَا قَبْلَ اِتْيَانِ الْخَبَرِ۔

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَيَّنَ اَنَّ مُوْتَةَ فُتِحَتْ عَلٰى يَدِ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَآ اَخَذَ الرَّايَةَ۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمَآ اَسَرَّ فِىْ نَفْسِهٖ مِنْ قَوْلِهٖ
اَللّٰهُمَّ اَرِنِىْ اٰيَةً۔

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَفَى الرَّمَدَ مِنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَجَدَ لَهُ الْغَنَمُ۔

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ تَمِيْمَ الدَّارِىَّ بِقِصَّتِهٖ۔

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا قَتَادَةَ بِاَنْ تَكُوْنَ مُعْجِزَةٌ فِىْ مِيضَاْتِهٖ۔

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْوٰى جُنُوْدَهٗ بِالْمِطْهَرَةِ۔

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَجَدَتْ عَآئِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا بِنُوْرِ وَجْهِهِ الْاِبْرَةَ۔

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا يَبِسَ كَلَاٌ نَّبَتَ بِوُضُوْئِهٖ فِى الصَّيْفِ وَ الشِّتَآءِ۔

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَنَحَ بِهِ الْحَجَرُ فِى الْمَآءِ ۔

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَهِدَ بِرِسَالَتِهٖ ذٰلِكَ الْحَجَرُ ۔

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَعَلَّ سُهَيْلًا يَّقُوْمُ فِىْ مَقَامٍ يَّسُرُّكَ يَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ۔

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَزَلَ الْمَطَرُ بِدُعَآئِهٖ عَلَى الْمِنْبَرِ ۔

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اُمْسِكَ بِهِ الْمَطَرُ عَنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمُطِرَ عَلَى الْاٰكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ۔

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِمْتَلَآءَ بِهِ الظَّرْفُ مِنَ الْعَسَلِ ۔

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ بِسَبْعِيْنَ حُوْرًا وَّ كَفَلَ ۔

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَامَ فِى الظَّرْفِ بِهِ الْعَسَلُ ۔

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْجَبَلُ ۔

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ عُمَيْرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِقَتْلِهٖ عَصْمَآءَ بِنْتَ مَرْوَانَ ۔

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ مُنَافِقًا قَالَ اِنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا اَيَزْعُمُ اَنَّهٗ نَبِىٌّ يُّخْبِرُ عَنِ السَّمَآءِ وَلَا يَدْرِىْ اَيْنَ نَاقَتُهٗ عَلَى الْاَرْضِ الْاٰنَ ۔

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ دَلَّ عَلٰى نَاقَتِهِ الْمَفْقُوْدَةِ فِىْ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ ۔

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَيَّنَ اَنَّ نَاقَتَهٗ كَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِخِطَامِهَا بِالشَّجَرَةِ ۔

229 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بُوْرِكَ بِهٖ نِصْفُ الْوَسْقِ مِنَ الشَّعِيْرِ ۔

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالشَّهَادَةِ نُعْمَانَ ابْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ۔

231 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَصْرَخَ الْحُمَّرَةَ لِلْفَرْخِ فِى السَّفَرِ ۔

232 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَغَاثَ لِلْفَرْخِ طَآئِرًا اٰخَرَ ۔

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَآ اَمَاتَهُ السَّمُّ الَّذِىْ اَكَلَ بِخَيْبَرَ ۔

234 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَلَّمَهُ الْمَدَرُ ۔

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَجَدَ لَهٗ لِلذِّهَابِ اِلٰى قُبَآءٍ بَعِيْرٌ ۔

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ آجَرَ نَفْسَهٗ فَأَخْرَجَ الدَّلْوَ مِنْ قَعْرِ الْبِئْرِ۔

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ ضَمَّ يَدَ الرَّجُلِ الَّذِىْ قَطَعَهَا لِلَطْمِهٖ بِالشَّفْرَةِ۔

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَزَلَ بِهِ الْمَطَرُ لِعَطَشِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ۔

239 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ بُوْرِكَ بِهٖ تَمْرُ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لِاَدَآءِ دَيْنِ اَبِيْهِ۔

240 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ بُوْرِكَ بِهٖ تَمْرُ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لِاَدَآءِ الْمُسْلِمِ فِيْهِ۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ خَرَجَ بِهٖ مِنْ جَوْفِ الصَّبِيِّ الْمَجْنُوْنِ مِثْلُ الْجِرْوِ الْاَسْوَدِ يَسْعٰى۔

242 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ ظَهَرَ بِيُمْنِهٖ مَلَكٌ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ سَتَكُوْنُ بِتَبُوْكَ عَيْنٌ تُرْوِىْ جَمِيْعَ الْبَسَاتِيْنِ وَالْعِمَارَاتِ۔

244 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ لِاَبِىْ جَهْلٍ اِنَّ فِىْ يَدِكَ سِتَّ حَصَيَاتٍ۔

245 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَرَأَ الْحَصٰى فِىْ يَدِ اَبِىْ جَهْلٍ بِهِ الشَّهَادَتَيْنِ۔

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ حَزَمَ الْعِدٰى بِقَبْضَةٍ مِّنَ التُّرَابِ يَوْمَ حُنَيْنٍ۔

247 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ اِذْ اُخْبِرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِاِتْيَانِ هَوَازِنَ بِظُعْنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا۔

248 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ لِاَزْوَاجِهٖ اَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًا بِىْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا۔

249 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ سَمِعَتْ كَلَامَهٗ شَهْبَآءُ فَاَلْصَقَتْ بَطْنَهَا بِالْاَرْضِ يَوْمَ حُنَيْنٍ۔

250 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ لِبُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اِنَّكَ تَمُوْتُ بِالْمَرْوِ الَّذِىْ بَنَاهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ۔

251 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ وُلِدَ بِهٖ سَبْعَةُ اَوْلَادٍ دَفْعَةً لِّشَاةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ۔

252 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَسْنَدَ اِلٰى حَجَرٍ فَانْخَرَقَ مِقْدَارَ ظَهْرِهِ الْكَرِيْمِ۔

253 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَزَلَ الْمَطَرُ اِذَا دَعَا لِوَفْدِ بَنِىْ فَزَارَةَ۔

254 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَوَضَّأَ بِهٖ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا مِّنْ مِّخْضَبٍ صَغِيْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ۔

255 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اِجْتَمَعَ مِنْ اَجْلِہٖ شَجَرَۃُ الْبَقْلِ فِی الصَّحْرَآءِ۔

256 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بُوْرِکَتْ بِہٖ ھِنْدٌ زَوْجَۃُ اَبِیْ سُفْیَانَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمَا فِی الشِّتَآءِ۔

257 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ لِوَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِہٖ اِنَّ اَبَاہُ سَالِمٌ مَّوْلٰی شَیْبَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

258 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ فُضَالَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِمَا اَرَادَ مِنْ قَبْلِہٖ لِطَوَافِ الْکَعْبَۃِ۔

259 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِالْاَسِیْرِ۔

260 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ صَارَ بِہٖ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ذَا الْقَنَاطِیْرِ۔

261 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَبَّحَتْ فِیْ کَفِّہِ الْحَصٰی۔

262 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ زَیْدَ ابْنَ اَرْقَمَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِالْعَمٰی۔

263 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَجَدَتْ لَہُ الْاَشْجَارُ۔

264 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَجَدَتْ لَہُ الْاَحْجَارُ۔

265 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَآءَہٗ اَفْوَاجُ الْمَلَآئِکَۃِ لِتَعَلُّمِ اَحْکَامِ الدِّیْنِ۔

266 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ سَعْدَ ابْنَ اَبِیْ وَقَّاصٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِظُھُوْرِ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَۃِ مِنْہُ وَاِصَابَۃِ نَفْعِہٖ قَوْمًا وَّضَرَرِہٖ آخَرِیْنَ۔

267 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَمِعَ فِی النَّوْمِ کَلَامَ النَّاسِ۔

268 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِالذَّھَبِ عَمَّہُ الْعَبَّاسَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

269 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِاَنْ یَّظْھَرَ فِیْ ثَقِیْفٍ کَذَّابٌ وَّمُبِیْرٌ۔

270 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَبَا اَیُّوْبَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِالْاَسِیْرِ۔

271 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَنْبَاَ بِقَتْلِ کِسْرٰی۔

272 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِمَا اَسَرَّ اِلَیْہِ ابْنُ الزِّبَعْرٰی رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

273 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مُزِّقَ بِہٖ مُلْکُ بَرْوِیْزَ۔

274 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ قَالَ لِجِنِّيٍّ سَتَمُوْتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يُّكَفِّنُكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَكَفَّنَهٗ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

275 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ نَفَى الْبَرَصَ مِنْ مُّعَاذِ بْنِ عَفْرَآءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ بَرِئَ لِرَجُلٍ بِهِ الْاِسْتِسْقَآءُ۔

277 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ خَرَصَ تَمْرَ الْبُسْتَانِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ۔

278 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ كَانَتْ نَاقَتُهٗ لِدُخُوْلِهِ الْمَدِيْنَةَ مَاْمُوْرَةً بِالْبُرُوْكِ۔

279 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَبْرَأَ لِمُحَمَّدِ ابْنِ حَاطِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ذِرَاعَهُ الْحَرِيْقَ بِرِيْقِهٖ۔

280 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ مَا طَارَ طَائِرٌ مِّنْ فَوْقِهٖ۔

اَلْحِزْبُ الثَّالِثُ

281 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ سَمِعَ لِلْاَكْلِ عِنْدَهٗ تَسْبِيْحُ الطَّعَامِ۔

282 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَخْبَرَ بِالْقَتْلِ زُبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

283 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ بُوْرِكَ بِهٖ طَعَامٌ اَرْسَلَ اِلٰى وَفْدِ بَهْرَآءَ فِىْ بَيْتِ مِقْدَادِ ابْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

284 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَخْبَرَ بِالْمَرَامِ وَابِصَةَ ابْنِ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

285 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَشْبَعَ فِئَةً بِقُرْصٍ وَّاحِدٍ۔

286 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ سُرِقَتِ الْعَيْبَةُ مِنْ رَّحْلِكُمْ ثُمَّ وُجِدَتْ لِوَفْدِ غَامِدٍ۔

287 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَرْوٰى اَهْلَ الصُّفَّةِ بِكَاْسٍ مِّنَ اللَّبَنِ۔

289 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ هٰذَا السَّحَابَ يُمْطِرُ وَادِيًا فِى الْيَمَنِ۔

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ نَبَّأَ بِاَنْ تُقْسَمَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كُنُوْزُ كِسْرٰى۔

291 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اُمَّتِىْ سَتَكُوْنُ لَهُمْ اَنْمَاطٌ يَّغْدُوْا وَاحِدُهُمْ فِىْ حُلَّةٍ وَّيَرُوْحُ فِىْ اُخْرٰى وَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ صُحْفَةٌ وَّتُرْفَعُ اُخْرٰى۔

292 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ؚالَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ فَتْحِ غَزْوَةِ الْاَحْزَابِ۔

293 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بُوْرِكَ بِهٖ كَسَرَاتُ الْخُبْزِ فِىْ جِرَابِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى اَكَلَ مِنْهُ خَمْسِمِائَةِ رَجُلٍ وَّلَمْ يَنْقُصْ شَيْئٌ مِّنَ الْجِرَابِ۔

294 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سُخِّرَتْ لَهُ الرِّيْحُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى اَخَذَهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ۔

295 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَفَضَ لَهُ الْجَبَلُ رَأْسَهٗ حَتّٰى صَعِدَ عَلَيْهِ۔

296 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هَزَمَ الْاَحْزَابَ لَهُ الرِّيْحُ وَالْاَحْجَارُ۔

297 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَكٰى عِنْدَهٗ لِلْجُوْعِ جَمَلُ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ۔

298 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ ضَرَبَ الْكُدْيَةَ فَصَارَتْ كَثِيْبًا اَهْيَلَ۔

299 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ عَسٰى اَنْ لَّا تَلْقَانِىْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا لِمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

300 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمَعَ الْبُرُوْقُ بِضَرْبِهِ الْحَجَرَ۔

301 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالَّذِىْ غَلَّ خَرَزَ الْيَهُوْدِ بِخَيْبَرَ۔

302 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَصَفَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ لِكِسْرٰى يَوْمَ الْخَنْدَقِ۔

303 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا اٰذَاهُ الْقُمَّلُ وَالْبُرْغُوْثُ وَالْبَقُّ۔

304 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَطَّ مِنْ اَجْلِهٖ لِلْخَنْدَقِ بِالْاِصْبَعِ جِبْرِيْلُ۔

305 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَفَى السِّلْعَةَ مِنْ يَّدِ شُرَحْبِيْلَ۔

306 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا وَجَدَ بِهِ الْبَرْدَ حُذَيْفَةُ ابْنُ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

307 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وُسِعَتْ بِهٖ حُجْرَةُ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

308 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ السِّبَاعُ حِيْنَ ذَهَبَ مَعَ اَصْحَابِهٖ اِلٰى بَنِىْ عَامِرٍ۔

309 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَحْيَى الْكَبْشَ فِىْ بَيْتِ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

310 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالْقَتْلِ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

311 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَادَ بِهٖ قَبْضَةٌ مِّنَ التَّمْرِ لِامْرَأَةٍ حَتّٰى اَعْطٰى جَمِيْعَ اَهْلِ الْخَنْدَقِ۔

312 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ فِىْ شَانِهٖ هُبَلُ يَآ اَهْلَ مَكَّةَ اِنَّ مُحَمَّدًا نَّبِيٌّ صَادِقٌ يَدْعُوْكُمْ مِنَ الْبَاطِلِ اِلَى الْحَقِّ۔

313 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَادَ بِهِ اللَّحْمُ وَ الْعَجِيْنُ۔

314 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَضَآءَ بِهٖ وَجْهُ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

315 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَحْىٰ اِبْنَىْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

316 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا سَقَطَ بِهٖ اَسْنَانُ نَابِغَةَ الشَّاعِرِ۔

317 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مُطِرَ فِىْ غَزْوَةِ الْاَحْزَابِ بِهِ الشُّكْرُ۔

318 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَزَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِدُعَآئِهِ الْمَطَرُ۔

319 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حُبِسَتْ لَهٗ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَيْضَآءُ۔

320 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ فَارَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ بِسَهْمِهِ الْمَآءُ۔

321 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ حِيْنَ اُجْلِىَ عَنْهُ الْاَحْزَابُ الْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَ۔

322 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ فَارَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ مِنْ م بَيْنَ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ كَاَمْثَالِ الْعُيُوْنِ۔

323 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذْ كَتَبَ سِفْرَ الصُّلْحِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ اِنَّ مِثْلَ هٰذِهِ الْوَاقِعَةِ سَيُدْرِكُكَ۔

324 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لِوَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ اِنْطَلِقْ اِلٰى بَنِىْ سُلَيْمٍ فَاَوَّلُ جَارِيَةٍ تَسْتَقْبِلُكَ فَهِىَ زَوْجَتُكَ۔

325 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَسْلَمَ بِدُعَآئِهٖ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

326 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَبْعَثُ يَعْفُوْرًا اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَيَقْرَعُ بِرَاْسِهٖ عَلَيْهِمُ الْبَابَ۔

327 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَمِنَ بِهِ الْغَنَمُ وَ امْتَلَأَتْ اَثْدِيُهَا مِنَ اللَّبَنِ۔

328 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ مَازِنًا م بِرِسَالَتِهِ الْوَثَنُ۔

329 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَالَ بِهٖ مِنْ مَّازِنٍ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ ارْتِكَابُ الْفَوَاحِشِ وَ رُزِقَ الْوَلَدَ۔

330 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لِخُرَيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِنَّ هَاتِفَكَ اَوْفٰى بِمَا وَعَدَ۔

331 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ شِمْرٌ۔

332 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَنْبَأَ بِفَتْحِ مِصْرَ۔

333 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لِاَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اُخْرُجْ مِنْ مِّصْرَ اِذَا رَاَيْتَ رَجُلَيْنِ فِىْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ يَّخْتَصِمَانِ۔

334 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَيَّنَ الذِّئْبُ شَانَهٗ لِمَخْرَمَةَ وَ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا۔

335 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ قُزْمَانَ فِى النَّارِ۔

336 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَلْقَتِ الرِّيْحُ صَوْتَهٗ يَوْمَ اُحُدٍ فِىْ آذَانِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ۔

337 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بُوْرِكَ بِهِ الْخُبُوْزُ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

338 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ اِنَّ مَنْ جَآءَ اَبُوْ ذَرِّنِ الْغِفَارِىُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

339 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِحُدُوْثِ اَمْرٍ فِىْ خُزَاعَةَ۔

340 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَارَ بِهٖ جَمَلُ رِفَاعَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

341 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَبْرَأَ لِكُلْثُوْمِ ابْنِ الْحُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا نَحْرَهُ الْجَرِيْحَ۔

342 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ لَا يَتَحَرَّكُ الطَّآئِرُ الْوَحْشِىُّ وَلَا يَصِيْحُ۔

343 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِلْتَقَتْ لَهُ الشَّجَرَتَانِ حِيْنَ قَالَ لِوَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ قُلْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ اَنْ تَلْحَقَ بِهٰذَا الشَّجَرِ۔

344 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ وُّقُوْعِ الْفِتْنَةِ خِلَالَ بُيُوْتِ الْمَدِيْنَةِ كَوَقْعِ الْمَطَرِ۔

345 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ سُبَيْعًا اَنْ تَأْخُذَهُ الْاَكِلَةُ۔

346 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ عَنْ غُسْلِ الْمَلَآئِكَةِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

347 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ نَشَأَ بِهِ الشِّفَا لِلْعَجْوَةِ۔

348 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ نَصِلُ الْمَآءَ وَقْتَ الضَّحْوَةِ۔

349 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَثُرَ بِهٖ فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ مَآءُ الْعَيْنِ۔

350 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَآءَهٗ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِتُفَّاحَةٍ فَجَعَلَهَا اللهُ نِصْفَيْنِ فَوَقَعَ النِّصْفُ عَلٰى لَوْحِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْاٰخَرُ عَلٰى لَوْحِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

351 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَوَضَّأَ بِيُمْنِهٖ اَرْبَعَةَ عَشَرَ مِائَةً مِّنْ اِدَاوَةٍ فِيْهَا قَطْرَةٌ۔

352 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بَرَّكَ عَلٰى اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَكَاَنَّهٗ اِبْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ۔

353 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا اَمَاتَهٗ شَقُّ الصَّدْرِ۔

354 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَسْلَمَتْ بِدُعَآئِهٖ اُمُّ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا۔

355 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ بِفَتْحِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ۔

356 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا نَسِيَ عُثْمَانُ ابْنُ اَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهِ الْقُرْاٰنَ۔

357 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ بَعْضَ اَصْحَابِهٖ يَوْمَ بَدْرٍ بِاَنْ يَّظْفِرُوْا عَلٰى رَأْسِ بِئْرٍ كَذَا بِخَبَرِ الْاَعْدَآءِ۔

358 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ رُدَّ بِهٖ بَصَرُ الْاَعْمٰى حِيْنَ قَرَأَ بِاَمْرِهِ الدُّعَآءَ۔

359 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ بِاَسْمَآءِ مَنْ مَّاتَ يَوْمَ بَدْرٍ مِّنَ الْاَعْدَآءِ۔

360 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا زَالَ حَنَشُ ابْنُ عَقِيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجِدُ بِسُؤْرِهِ الشِّبَعَ وَالرِّوَآءَ۔

361 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَرٰى اَصْحَابَهٗ بِبَدْرٍ مَصَارِعَ الْكُفَّارِ۔

362 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اٰمَّنَ دُعَآءَهٗ اُسْكُفَّةُ الْبَابِ وَالْجِدَارُ۔

363 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هَزَمَ الْاَعْدَآءَ بِبَدْرٍ بِالْحَصٰى۔

364 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ اِذَا جَلَسَ تَكُوْنُ كَتِفُهٗ مِنْ كَتِفِ الْجَلِيْسِ اَعْلٰى۔

365 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اُشْبِعَ بِهِ الْجِيَاعُ وَرُكِبَ بِهِ الْحَفَاةُ وَكُسِیَ بِهِ الْعُرَاةُ۔

366 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ حُبِسَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقْتَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ نَادَاهُ
الْاَعْرَابِیُّ لِلصَّلٰوةِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ۔

367 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ضَمَّ الْيَدَ الْمَقْطُوْعَةَ لِمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَآءَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
بِرِيْقِهٖ۔

368 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَظَلَّتِ الْحَمَامُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ فَوْقِهٖ۔

369 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ضَمَّ يَدَ خُبَيْبِ ابْنِ يَسَافٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ
الْاِنْقِطَاعِ۔

370 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ حَمَلَ بِهٖ رَجُلٌ مَّا تَحْمِلُهُ السَّفِيْنَةُ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيْعُ
حَمْلَ صَاعٍ۔

371 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰخِذٌ بِرَأْسِ
فَرَسِهٖ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ۔

372 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَتَتْهُ عَنْزٌ حِيْنَ عَطِشَ جَيْشُهٗ فَحَلَبَهَا وَاَرْوَى الْجَيْشَ
فَغَابَتْ بَعْدَ الْحَلْبِ۔

373 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَمِعَ بِيُمْنِهٖ اَنْصَارِیٌّ يَوْمَ بَدْرٍ ضَرْبَةَ السَّوْطِ وَصَوْتَ
فَارِسٍ يَّقُوْلُ اَقْدِمْ خَيْزُوْمُ۔

374 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِفَتْحِ الرُّوْمِ۔

375 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَمِعَ اَصْوَاتَ اَفْرَاسِ الْمَلَآئِكَةِ مِنْ اَجْلِهِ الْاَعْدَآءُ۔

376 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَلَّمَهُ الْجَبَلَانِ ثَبِيْرٌ وَّحِرَآءٌ۔

377 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَاٰى اَعْدَآءُهُ الْمَلَآئِكَةَ فِی الْحُرُوْبِ رَاكِبِيْنَ عَلَى
الْاَفْرَاسِ۔

378 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا نَصَرَ اَبَا الْيَسَرِ اِذْ اَسَرَ الْعَبَّاسَ رَضِیَ اللّٰهُ
عَنْهُ۔

379 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِاِتْيَانِ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

380 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِمَوْتِ هَوْذَةَ الْحَنَفِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ۔

381 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ وَجَدَتْ بِهِ السَّمْنَ فِی الْعُكَّةِ اُمُّ مَالِكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا۔

382 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ لِعَجُوْزٍ اِنَّ ابْنَكَ مُعَذَّبٌ فِی الْقَبْرِ مِنْ اَجْلِكَ۔

383 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سَلَّمَ عَلَیْهِ الْمَدَرُ۔

384 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ شَهِدَ لَیْلَةَ الْجِنِّ بِرِسَالَتِهِ الشَّجَرُ۔

385 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سَلَّمَتِ الْاَرْضُ عَلَیْهِ۔

386 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اٰذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ بِمَجِیْئِ الْجِنِّ اِلَیْهِ۔

387 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَا شَكَّ بِهٖ عَلِیٌّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ فِی الْاَحْكَامِ۔

388 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ الْیَهُوْدِیَّةَ بِمَا رَاَتْ فِی الْمَنَامِ۔

389 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ عَلِیًّا رَضِیَ اللهُ عَنْهُ بِاَنْ یَّسْتَقْبِلَهٗ اَهْلُ الْیَمَنِ لِلصَّعُوْدِ عَلَی الْعَقَبَةِ۔

390 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ لِاَشْجَارٍ مُّتَفَرِّقَةٍ اُسْتُرُوْنِیْ فَاجْتَمَعَتْ لَهٗ كَالْقُبَّةِ۔

391 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بَدَا بِهِ الْقَحْطُ فِیْ مُضَرَ۔

392 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سَلَّمَ عَلَیْهِ الْوَبَرُ۔

393 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ زَالَ بِهِ الْقَحْطُ مِنْ مُّضَرَ۔

394 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ حَدَّثَ بِاَیْمَانِ الْمُنَافِقِیْنَ قَبْلَ الْحَلْفِ وَاَخْبَرَ۔

395 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِقُدُوْمِ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ عَلَیْهِ۔

396 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ یَبْرُقُ الْبَصَرُ مِنْ نُّوْرِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَیْنَ كَتِفَیْهِ۔

397 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَنْجَی اَبَا دُجَانَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَامِرِ الدَّارِ۔

398 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ لَاذَ بِهٖ لِلْقَتْلِ جَمَلُ جَمْعٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ۔

399 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ لِجَابِرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اِذْهَبْ مَعَ هٰذَا الْجَمَلِ فَهُوَ یَدُلُّكَ عَلٰی صَاحِبِهٖ۔

400 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْرَجَ رَجُلٌ مِّنْ كُلِّ اَرْضٍ بِهٖ۔

401 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَا اَصَابَ بِهِ الْقَحْطُ بَنِی الْبَكَّاءِ۔

402 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَادَتْهُ ظَبْيَةٌ اصْطَادَهَا اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِى الصَّحْرَآءِ۔

403 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ ضَمِنَ الْغَزَالَ لِاِرْضَاعِ خِشْفَيْهَا فَوَفَتْ بِالْوَعْدِ وَ الْمِيْعَادِ۔

404 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَارَ بِهِ الْغُصُوْنُ سِهَامًا فِى الْجِهَادِ۔

405 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ عَمَّارًا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَطْلُبُ الْمَآءَ عِنْدَ الْقَتْلِ وَ يُعْطَى الْمَآءَ الْمَخْلُوْطَ بِاللَّبَنِ۔

406 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ الْاَوْثَانُ الَّتِىْ جَآءَ بِهَا اَهْلُ الْيَمَنِ۔

407 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْسَلَ الزَّادَ اِلٰى وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ بَعْدَ النِّسْيَانِ۔

408 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَ اِلَيْهِ جِنِّىٌّ فِىْ صُوْرَةِ الثُّعْبَانِ۔

409 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اللهَ يُلْبِسُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَمِيْصًا وَّ اَنَّهُمْ يُرِيْدُوْنَ خَلْعَهٗ مِنْهُ۔

410 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالشَّهَادَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

411 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يُقْتَلُ لِقِرَآءَةِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ۔

412 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ دَمَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقْطُرُ عَلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى {فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ}۔

413 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِنْجَسَ مِنَ الْحَجَرِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِهِ الْمَآءُ الْكَثِيْرُ۔

414 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ فَاحَتْ بِرِيْقِهِ الْبِيْرُ۔

415 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ ذَهَابِ الظَّعِيْنَةِ بِكِتَابِ حَاطِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِلٰى اَهْلِ الْبَلْدَةِ الْاَمِيْنَةِ۔

416 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَالَ بِهِ الْوَبَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ۔

417 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لَتُقْسَمَنَّ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كُنُوْزُ قَيْصَرَ۔

418 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَنْبَاَ عَنْ وُّقُوْعِ نَارِ الْحِجَازِ وَ اَخْبَرَ۔

419 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ مَا نَقَصَ بِہٖ تَمْرُ بُسْتَانِ اَبِیْ اَسِیْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بَعْدَ الْاِنْتِقَاصِ۔

420 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ بَقِیَ بِہِ الرَّعْشُ وَ الْعِوَجُ لِحَکَمِ ابْنِ اَبِی الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

421 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَخْبَرَ اَنْ کُفِیَ اَمْرُ مَنِ افْتَرٰی عَلَیْہِ اَنَّہٗ اَرْسَلَہٗ۔

422 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ کَانَ اِذَا اَرَادَ رُکُوْبَ دَآبَّۃٍ تَبَرُکُ وَ تَھَبَّآءُ لَہٗ۔

اَلْحِزْبُ الرَّابِعُ

423 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَصْلَحَ الْیَدَ الْیَابِسَۃَ لِلْجَارِیَۃِ۔

424 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ جَآءَہٗ جِبْرِیْلُ بِاَرْبَعِ تُفَّاحَاتٍ ھَدِیَّۃً لِّلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ رِضْوَانُ اللّٰہِ عَلَیْھِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

425 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَخْبَرَ عَنْ وَّقْعَۃِ صِفِّیْنَ۔

426 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ مُعَاوِیَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ لَا تُغْلَبُ۔

427 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ بُوْرِکَتْ ثَلٰثُ بَیْضَاتٍ بِیُمْنِہٖ۔

428 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ کَانَ یُکَلِّمُہٗ کُلُّ طَآئِرٍ فَیُجِیْبُہٗ بِلِسَانِہٖ۔

429 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَقَامَ عَمَّہُ الْمَرِیْضَ اَبَا طَالِبٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِالدُّعَاءِ۔

430 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ حَضَرَتْ بِہِ الْجَفْنَۃُ الْمُکَلَّلَۃُ بِالْجَوَاھِرِ الْمَمْلُوَّۃِ مِنَ الثَّرِیْدِ لِفَاطِمَۃَ الزَّھْرَآءِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا۔

431 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَخْبَرَ بِالشَّھَادَۃِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

432 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ ذَھَبَ بِکِتَابِہٖ جِبْرِیْلُ عَلَیْہِ السَّلَامُ اِلٰی جَعْفَرِ الطَّیَّارِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِالْحَبْشَۃِ وَ جَآءَہٗ بِالْجَوَابِ۔

433 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَشْبَعَ جَیْشَہٗ فِیْ غَزْوَۃِ تَبُوْکَ بِبِضْعِ عَشْرَۃَ تَمْرَۃً۔

434 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ اَشْبَعَ الْجَیْشَ کُلَّھُمْ بِتَمْرِ مِزْوَدِ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

435 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ قَامَ بِہِ التَّمْرُ لِاَبِیْ ھُرَیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ فِی الْمِزْوَدِ۔

436 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَمَرَ سَارِقَ نَاقَةٍ حَلَفَ عَلٰى اَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْهَا بِالرَّدِّ۔

437 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَشْبَعَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثَمَانِىْ عِيَالَاتٍ۔

438 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ دَعَا عَلٰى رَجُلٍ قَطَعَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةَ فَمَا قَامَ حَتّٰى مَاتَ۔

439 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ نَبَعَ مِنْۢ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ فِى الزَّوْرَآءِ۔

440 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ حَلَبَ ظَبْيَةً فَاَرْوٰى ثَلٰثَ مِائَةِ رَجُلٍ مِّنَ الرُّفَقَآءِ۔

441 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو بَشِّرْ قَاتِلَ عَمَّارٍۢ بِالسَّعِيْرِ۔

442 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ عَمَّارًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَنْ يَّمْنَعَهٗ مَانِعٌ مِّنْ اِخْرَاجِ الْمَآءِ مِنَ الْبِئْرِ۔

443 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَنْبَأَ بِاَنَّ عَمَّارًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَرَعَ الشَّيْطَانَ۔

444 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَصْحَابَهٗ بِمَا قَالَتْ لَهُمْ زَوْجَةُ الرَّجُلِ الَّذِىْ كَانَ لَا يَتَرَدَّدُ اِلٰى مَجْلِسِهٖ اِلَّا قَلِيْلًا فَمَاتَ وَدَخَلَ الْجِنَانَ۔

445 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَرَأَ الْحَجَرُ الَّذِىْ حَمَلَ مَعَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَيْلَةَ الْجِنِّ حِيْنَ رَجَعَ۔

446 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَبْرَأَ سَاقَ سَلَمَةَ ابْنِ الْاَكْوَاعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

447 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَتَبَ مِنْ غَيْرِ كَاتِبٍۢ بِاَمْرِهِ الْقَلَمُ۔

448 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ سَالَهٗ حَجَرٌ اَنْ يَّدْعُوَ لَهٗ اَنْ لَّا يَجْعَلَهُ اللّٰهُ مِنْ اَحْجَارِ جَهَنَّمَ۔

449 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ خَلَعَ نَعْلَهٗ فِىْ اَثْنَآءِ الصَّلٰوةِ۔

450 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ زَادَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَضْلَ اَزْوَادِ الْغُزَاةِ۔

451 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَأْتِىْ لِتَجْدِيْدِ الْعَهْدِ۔

452 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ زَادَ بِهٖ مَآءُ بِئْرِ بَنِىْ سَعْدٍ۔

453 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَلَّمَتْهُ صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ۔

454 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اِخْضَرَّ تَحْتَ جَبِيْنِهِ الْكَلَأُ الْيَابِسُ۔

455 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ عَنِ الْمَرْاَةِ مَعَ مَزَادَتِى الْمَآءِ عَلَى النَّاقَةِ۔

456 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ مَا نَقَصَ بِهِ الْمَآءُ مِنَ الْمَزَادَتَيْنِ بِالْاِرَاقَةِ۔

457 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ فَتْحِ الْيَمَنِ وَ الْمَدَآئِنِ۔

458 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ عَمَّا هُوَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَآئِنٌ۔

459 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَرَحَهٗ كَلَدَةُ فَاَعْلَمَتِ الظَّبْيَةُ بِذٰلِكَ حَمْزَةَ سَيِّدَ الشُّهَدَآءِ۔

460 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَثْمَرَتْ بِهٖ لِحَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَشْجَارُ الصَّحْرَآءِ۔

461 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ طَارَ بِهِ التَّمْرُ لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَآءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

462 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ عَذُبَ لِبِيْرِ اَرِيْسٍ بِهِ الْمَآءُ۔

463 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اِنْفَلَقَ بِهِ الْبَحْرُ لِجَعْفَرَ الطَّيَّارِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ رُفَقَآئِهٖ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ حَتّٰى ظَهَرَ لَهُمْ طَرِيْقٌ يَابِسٌ فِىْ اَثْنَآءِ الْبَحْرِ۔

464 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الرُّوْمَ ذَاتُ قُرُوْنٍ اِلٰى آخِرِ الدَّهْرِ۔

465 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ اَصْحَابَهٗ بِاَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ هٰذَا الْبَابِ۔

466 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَلَّمَ الْعِجْلُ فِىْ شَانِهٖ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

467 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ سَمِعَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَبَرَهٗ مِنَ الصَّنَمِ۔

468 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ سَمِعَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَبَاَهٗ مِنَ الْغَنَمِ۔

469 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ رُزِقَ بِهِ الشَّهَادَةَ نُعْمَانُ ابْنُ مُقَرِّنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

470 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَلَّمَهٗ فِىْ بَيْتِهِ الدَّاجِنُ۔

471 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ بِفَتْحِ اَرْضِ الْعَجَمِ وَ اَنَّ فِيْهَا الْحَمَّامَاتِ۔

472 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَلَّى الْجَنَازَةَ عَلَى النَّجَاشِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ مَاتَ۔

473 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ وَجَدَ بِنُوْرِهِ الْاِبْرَةَ سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

474 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَآءَتْ لِدَعْوَتِهِ السَّلَمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلَيْهِ وَ شَهِدَتْ بِرِسَالَتِهٖ لِطَلَبِ الْاَعْرَابِىِّ۔

475 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ جَآءَتْ اِلَيْهِ شَجَرَةٌ لِّطَلَبِ اَعْرَابِىٍّ آخَرَ فَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ ۔

476 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ فَرْقَدًا ۣ بِمَآ اَلْقَى الْهَاتِفُ اِلَيْهِ ۔

477 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ ذُبَابَ ابْنَ الْحَارِثِ بِقَوْلِ الْجِنِّىِّ وَ كَسْرِ الصَّنَمِ ۔

478 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِرِسَالَتِهٖ عَشْكَلَانَ وَ قَرَأَ عَلَيْهِ اَبْيَاتَهٗ فَاَسْلَمَ ۔

479 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مَآ اِحْتَرَقَ مِنْدِيْلُهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَ اَنَسٍ ۔

480 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مَا وَقَعَ بِهٖ جَرِيْرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْفَرَسِ ۔

481 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اُتِىَ بِصَبِىٍّ قَدْ شَبَّ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ فَقَالَ لَهٗ مَنْ اَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ۔

482 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ عَلٰى حَالٍ يُّمَاشِيْهِ اَحَدٌ يُّنْسَبُ اِلَى الطُّوْلِ اِلَّا عَلَاهُ ۔

483 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ قَالَ لِعَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّكَ لَا تَمُوْتُ حَتّٰى تَصِيْرَ اَمِيْرًا ۔

484 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ رَاٰى فَوْقَ رَأْسِهٖ اَبُوْ جَهْلٍ ثُعْبَانًا كَبِيْرًا ۔

485 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخَذَ رَايَتَهٗ يَوْمَ اُحُدٍ مَّلَكٌ عَلٰى صُوْرَةِ مُصْعَبِ ابْنِ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ۔

486 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَارِبُهُ الزُّبَيْرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ۔

487 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ نَبَّأَ بِاَنَّ الزُّبَيْرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَنْدَمُ مِنْ حَرْبِ عَلِىِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ۔

488 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَطْعَمَ مِنَ الْمَزَادَةِ ثَمَانِمِائَةِ رَاكِبٍ ۔

489 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ كَلَّمَتْهُ النَّاقَةُ فِىْ صَاحِبِهَا فَقَالَتْ اَنَّهٗ مَا سَرَقَنِىْ وَلَا مَلَّكَنِىْ اَحَدٌ سِوَاهُ ۔

490 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ رَفَعَ مِنْ اَجْلِهٖ اَبُوْ جَهْلٍ حَجَرًا فَيَبِسَتْ يَدَاهُ ۔

491 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَبْرَأَ لِاَبِىْ جَهْلٍ يَّدَيْهِ الْيَابِسَتَيْنِ۔

492 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ جَآءَهٗ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِتُفَّاحَةٍ لِّتَصَارُعِ الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا۔

493 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا يَمُوْتُ حَتّٰى تَخَضَّبَ
لِحْيَتُهٗ مِنْ دَمِ هَامَتِهٖ۔

494 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمَحَلِّ مَوْتِهٖ۔

495 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَرَى الصَّحَابَةَ فِىْ يَدِهٖ تُرَابَ مَضْجِعِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ
الرِّضْوَانُ۔

496 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ دَعَا لِدَوْسٍ وَّثَقِيْفٍ فَجَآؤُوْا مُعْتَرِفِيْنَ لَهٗ بِالْاِيْمَانِ۔

497 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَعْطٰى اُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تُرَابًا مِّنْ مَّقْتَلِ
الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا التُّرَابَ اِذَا صَارَ دَمًا فَاعْلَمِىْ اَنَّهٗ قَدْ قُتِلَ۔

498 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ اِذَا مَشٰى عَلَى الرَّمْلِ كَانَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ حَآئِلٌ۔

499 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ تَخْرُجُ لِلْجِهَادِ وَتَمُوْتُ بِالْحُمّٰى لِذِى الْبَجَادَيْنِ۔

500 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَلِدُ اَمِيْرًا يَّأْخُذُ
بِثَارِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

501 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ جَآءَتْ اِلَيْهِ الشَّجَرَةُ حِيْنَ ضَرَبَهٗ بَعْضُ اَهْلِ مَكَّةَ
فَتَخَضَّبَ بِالدَّمِ وَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ۔

502 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اِزْدَلَفَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْبَدَنَاتِ وَقْتَ النَّحْرِ اِلَيْهِ۔

503 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ عَبَّاسَ ابْنَ مِرْدَاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالَّذِىْ اَخْبَرَهٗ
بِرِسَالَتِهٖ فِى الْمَنَامِ۔

504 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَشْبَعَ اَهْلَ الصُّفَّةِ بِكَأْسٍ مِّنَ الطَّعَامِ۔

505 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ بِفَتْحِ عُمَّانَ۔

506 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ سَمِعَ صَوْتَ مَلَكٍ فِى السَّحَابِ يَقُوْلُ اَسْقِ حَدِيْقَةَ
فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ۔

507 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ عُمَيْرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَا شَارَطَهٗ صَفْوَانُ وَبِمَا

قصد من قتله۔

508 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ رُفِعَ لَهُ الْكَعْبَةُ عِنْدَ بِنَآءِ مَسْجِدِهٖ۔

509 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ رَآى اَبُوْ جَهْلٍ بَعِيْرًا فَوْقَ رَأْسِهٖ۔

510 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ وَضَعَ كَفَّهٗ عَلٰى كَبِدِ عُمَيْرَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَمَا زَالَتْ تَجِدُ عَلٰى كَبِدِهَا بَرْدَ يَدِهٖ۔

511 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ ضَمَّ الْيَدَ الْمَقْطُوْعَةَ لِابْنِ عِفَالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

512 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اُخْفِىَ بِهٖ خَبَرُهٗ عَنْ اَهْلِ مَكَّةَ حَتّٰى فَتَحَهَا بِغَيْرِ قِتَالٍ۔

513 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَلَّمَ الصَّنَمُ بِيُمْنِهٖ عِكْرِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

514 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ رَاكِبَ النَّاقَةِ اَبُوْ خَيْثَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

515 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَانَ يَرٰى مَا وَرَآءَ الْجَبَلِ۔

516 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ بِاَنْ يَّظْهَرَ فِى الْيَمَامَةِ كَاذِبٌ يَّدَّعِى النُّبُوَّةَ فَيُقْتَلُ۔

517 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ دَرَّ لِشَاةِ اَنَسٍ بِهِ اللَّبَنُ۔

518 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَلَّمَهُ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا اُدْرِجَ فِى الْكَفَنِ۔

519 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ مَاتَ بِهِ الْفَرَسُ الَّذِىْ اِشْتَرَاهُ مِنْ اَعْرَابِيٍّ فَاَنْكَرَ۔

520 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ الظِّلُّ فِى الشَّمْسِ وَلَا فِى الْقَمَرِ۔

521 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اِنْقَادَتْ كَالْبَعِيْرِ الْمَخْشُوْشِ مَعَهُ الشَّجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِىْ۔

522 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ حِقْدَكَ فِىْ صُدُوْرِ قَوْمٍ لَّا يُظْهِرُوْنَ اِلَّا بَعْدِىْ۔

523 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَشْبَعَ مِائَةً وَّ ثَلٰثِيْنَ رَجُلًا بِصَاعٍ مِّنْ دَقِيْقٍ وَّ سَوَادِ بَطْنِ شَاةٍ۔

524 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا مَظْعُوْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْاَمْوَاتِ فَمَا بَلَغَ مَنْزِلَهٗ حَتّٰى مَاتَ۔

525 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَنْبَأَ اَسْمَآءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِاَنْ يُّزَوِّجَهَا

جَعْفَرٌ وَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عَلِيُّ ابْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ۔

526 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا اَسَرَ السَّآئِبَ ۔

527 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ سُرَاقَةَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ يَلْبَسُ سِوَارَ كِسْرٰى ۔

528 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ وُلْدَ الْعَبَّاسِ يَمْلِكُوْنَ اَضْعَافَ مَا مَلَكَ بَنُوْ اُمَيَّةَ فِي الْوَرٰى ۔

529 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ كَلَّمَهٗ شَرْشَرٌ ۔

530 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ قَالَ كَيْفَ بِكَ اِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جُوْعٌ لِّاَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۔

531 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ خَاطَتْ بِنُوْرِ اَسْنَانِهٖ اِمْرَاَةٌ وَّ غَزَلَتْ اُخْرٰى ۔

532 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الْمَدِيْنَةَ سَتُعْرٰى ۔

533 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الدِّمَآءَ تَغْمُرُ اَحْجَارَ الزَّيْتِ فَوَقَعَ فِيْ وَقْعَةِ الْحَرَّةِ ۔

534 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ وُّقُوْعِ الطَّاعُوْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ الْمُطَهَّرَةِ ۔

535 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَحْيَى الْمَوْءُدَةَ ۔

536 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ جَآءَ الْاِعْصَارُ بِنَاقَةِ الْمَفْقُوْدَةِ ۔

537 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ كِرْكِرَةَ فِي النَّارِ ۔

538 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَشَارَ اِلَى الشَّجَرَةِ فَامْتَدَّتْ عَلٰى اَصْحَابِهِ الْاَبْرَارِ ۔

539 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالْمَرَامِ وَاثِلَةَ ابْنَ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۔

540 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِمَقَالَةِ ابْنِ سَلُوْلَ قَبْلَ اَنْ سَمِعَ ۔

541 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ عَذُبَ بِهٖ مَآءُ بِئْرِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۔

542 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ كَانَ يَرَى الْغَآئِبَ كَمَا يَرَى الْحَاضِرَ ۔

543 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ رَاٰى اَبُوْ جَهْلٍ عِنْدَهٗ فَارِسًا فَخَشِيَ اَنْ يَّاْكُلَهٗ ۔

544 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْ لِّهَاتَيْنِ

الشَّجَرَتَيۡنِ الَّتِیۡمَ الرَّسُوۡلِ اللهِ فَاجۡتَمَعۡتَا لَهٗ۔

545 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ عَلَّمَ التَّیَمُّمَ اَبَا هُرَیۡرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ قَبۡلَ اَنۡ سَاَلَهٗ۔

546 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ قَالَ لِجَابِرٍ قُلۡ لِّهَاتَیۡنِ الشَّجَرَتَیۡنِ الۡتَقِیَا لِرَسُوۡلِ اللهِ فَانۡضَمَّتَا لَهٗ۔

547 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ نَالَتۡ عَائِشَةُ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا بِدُعَائِهٖ مَا قَالَتۡ مِنَ الۡفَضۡلِ۔

548 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ سَاَلَتۡهُ الۡجِبَالُ اَنۡ یَّطَاَ عَلَیۡهَا بِالنَّعۡلِ۔

549 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ نَبَتَ الۡكَلَاُ تَحۡتَ جَبِیۡنِهٖ۔

550 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ دَعَا لِفَرَسِ ابۡنِ اَبِی الۡجَعۡدِ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ فَبَاعَ بِاِثۡنَیۡ عَشَرَ اَلۡفًا اَوۡلَادَ فَرَسِهٖ۔

551 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ صَارَتۡ لَهُ الۡاَرۡضُ قَاعًا اِذۡ ذُهِبَ مِنۡ غَیۡرِ الطَّرِیۡقِ اِلَی الۡحُدَیۡبِیَّةِ۔

552 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ قَبَضَ یَدَهٗ لِبَیۡعَةِ اَبِیۡ شَهۡمٍ لِّمَا فَعَلَ بِالۡمَرۡاَةِ الۡاَجۡنَبِیَّةِ۔

553 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ اَخۡبَرَ عَنۡ فَتۡحِ الشَّامِ۔

554 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ اُرۡعِدَتۡ یَدُ اَعۡرَابِیٍّ اِخۡتَرَطَ سَیۡفَهٗ مِنۡ اَجۡلِهٖ عَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ۔

555 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ كُشِفَ الۡحُجُبُ عَنۡ عَلِیٍّ اِذۡ صَعِدَ عَلٰی مَنۡكِبَیۡهِ۔

556 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ كَلَّمَتۡهُ الۡكَلۡبَةُ وَسَلَّمَتۡ عَلَیۡهِ۔

557 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ مَلَاَ اللهُ لَهٗ قِدۡرَ فَاطِمَةَ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا مِنۡ طَعَامِ الۡجَنَّةِ حِیۡنَ اَضَافَتۡهُ فَاَعۡلَمَ بِذٰلِكَ اَصۡحَابَهُ الۡكِرَامَ۔

558 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ مَسَحَ رِیۡقَهٗ بِعَیۡنِ عَلِیٍّ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ فَكَانَ یَرٰی مِنۡ فَرۡسَخٍ فِی الظَّلَامِ۔

559 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیۡ كَانَ كُلَّمَا ذَهَبَ اِلَی الۡكَعۡبَةِ اَضَاءَ النُّوۡرُ مِنۡ اَصَابِعِهِ الۡمُبَارَكَةِ۔

560 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ مَّعْشَرِ قُرَيْشٍ بِمَا قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

561 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَعَلَ الْفَرَسَ سُتْرَةً فَقَالَ لَهٗ قِفْ فَلَمْ يُحَرِّكْ حَافِرًا حَتّٰى صَلّٰى.

562 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ رَجُلًا بِمَا حَدَّثَ نَفْسَهٗ اَنْ لَّيْسَ فِىْ هٰذَا الْجَمْعِ اَحَدٌ مِّنِّىْ اَوْلٰى.

اَلْحِزْبُ الْخَامِسُ

563 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ بَعْضَ اَصْحَابِهٖ يُدْفَنُ وَمَعَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ.

564 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَشَّرَ سَعْدَ ابْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِطُوْلِ عُمُرِهٖ.

565 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَادَ بِهٖ مَآءُ بِئْرِ زِيَادِ ابْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

566 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالَّذِىْ خَلَفَ لِامْرَأَتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَحَنِثَ.

567 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَبَتَ بِهٖ بَيْنَ عَيْنَىْ فِرَاسٍ شَعْرَةٌ.

568 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْوٰى عَنْزًا تَشْكُوْا اِلَيْهِ الظَّمَآءَ مِنْ ثَدْيِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَّهَا قَبْلَ ذٰلِكَ قَطْرَةٌ.

569 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَكٰى عِنْدَهٗ جَمَلٌ فَاسْتَوْهَبَهٗ مِنَ الْمَالِكِ فَاعْتَذَرَ.

570 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَبَرَ بَعْثِهٖ مِنَ الشَّجَرِ.

571 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْضَرَ الْعُوْدُ الْيَابِسُ فِىْ يَدِهٖ.

572 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَارَ فِىْ يَدِهِ السَّيْفُ اَلْيَنَ مِنَ الشَّمْعِ فَقَطَعَهٗ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى بِهٖ.

573 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِمْتَلَأَتْ بِهٖ مِنَ السَّمْنِ عُكَّةُ اُمِّ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا.

574 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَشُمُّ بِاَنْفِهٖ رَائِحَةَ الْفِرْدَوْسِ.

575 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اُلْبِسَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ بِهِ الْاَثْوَابَ الْفَاخِرَةَ.

576 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَغْشَى الْمَلَكُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اِمْرَأَةِ اَبِىْ لَهَبٍ ۨالْكَافِرَةِ۔

577 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ مَا شَابَ بِهٖ سَايِبُ ابْنُ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

578 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ غِشَاوَةً عَلٰى بَصَرِ الْوَلِيْدِ۔

579 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَرْوَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِاللِّسَانِ۔

580 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ بَيَّنَ لِلْيَهُوْدِ تَرْجَمَةَ كَلَامِ سَلْمَانَ۔

581 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَنْبَأَ بِاَنْ يَّصِيْرَ خَلِيْفَةً بَعْدَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

582 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ بَزَقَ مِنْ اَجْلِهٖ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ فَمِ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

583 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ ظُهُوْرِ فِتَنِ الْخَوَارِجِ بِالْعِرَاقِ۔

584 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَلَّمَتْهُ الْعَنَاقُ۔

585 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْقَتْلِ۔

586 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ حَلَبَ النَّعْجَةَ الَّتِىْ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ۔

587 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُخْرِجُ الْيَهُوْدَ مِنْ خَيْبَرَ۔

588 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ حَدَّثَ الْيَهُوْدِىَّ مَنْ اَبُوْهُ حِيْنَ جَحَدَ نَسَبَهٗ وَاَنْكَرَ۔

589 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ لِقُبَاثِ ابْنِ اَشْيَمَ اِنَّكَ قُلْتَ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ هٰذَا الْاَمْرِ فَرَّ مِنْهُ اِلَّا النِّسَآءُ۔

590 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ صَارَ لَبَنًا ۢ بِهِ الْمَآءُ۔

591 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ ضَرَبَ جِبْرِيْلُ مِنْ اَجْلِهٖ صَدْرَ دَعْثُوْرِ ابْنِ الْحَارِثِ بِالْجَنَاحِ۔

592 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ نَوْفَلَ ابْنَ الْحَارِثِ بِالرِّمَاحِ۔

593 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ مَا عَاشَ بِهٖ سَنَةً مَّنْ اَسَآءَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ۔

594 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ بِاِرْتِدَادِ اَشْعَثَ ابْنِ قَيْسٍ وَّمَا اَلْقَى الْهَاتِفُ اِلَيْهِ۔

595 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَكَلَّمَ بِهٖ غُلَامٌ اَبْكَمُ لِامْرَأَةٍ مِّنْ خَثْعَمَ.

596 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ مَسَحَ رَأْسَ حَنْظَلَةَ ابْنِ حَزِيْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ
اِذَا تَوَرَّمَ رَأْسُ رَجُلٍ اَوْ ثَدْىُ شَاةٍ وُّضِعَ عَلٰى مَوْضِعِ يَدِهِ الشَّرِيْفَةِ زَالَ مِنْهُ الْوَرَمُ.

597 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَلَّمَهُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ.

598 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ رَدَّ عَلٰى اَهْلِ بِيْرِ مَعُوْنَةَ السَّلَامَ.

599 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَانَ يُكَلِّمُ كُلَّ اَحَدٍ بِلِسَانِهٖ.

600 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَلَّمَ الذِّئْبُ اُهْبَانَ فِىْ شَانِهٖ.

601 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَنْبَأَ بِاِيْفَاءِ الذِّئْبِ بِمَا كَفَلَ لِاُهْبَانَ.

602 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ قُرَيْشًا اَنَّ فِيْهِمْ مَنْ يَّجْمَعُ عَلَيْهِ الْاَحْزَابَ يَعْنِىْ
اَبَا سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

603 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَآءَ اِلَيْهِ شَجَرَةٌ لِّطَلَبِ قُرَيْشٍ فَانْشَقَّتْ بِاَمْرِهٖ فَذَهَبَ
النِّصْفُ اِلٰى مَنْبَتِهٖ وَقَامَ النِّصْفُ الْاٰخَرُ عِنْدَهٗ ثُمَّ ذَهَبَ الْاٰخَرُ وَجَآءَ اِلَيْهِ الْاَوَّلُ.

604 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَانَ اِذَا مَشٰى عَلَى الْعِضَاةِ تَضَعُ اِمْرَأَةُ اَبِىْ لَهَبٍ عَلٰى
طَرِيْقِهٖ عَادَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ كَثِيْبًا اَهْيَلَ.

605 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَجُلٌ يُّقَالُ الْوَلِيْدُ هُوَ شَرٌّ
لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهٖ.

606 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَكَلَ الْاَسَدُ اِمْرَأَةً بِهٖ.

607 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَارَ بِهِ الْخَشَبُ سَيْفًا فِىْ يَدِ مَسْلَمَةَ ابْنِ اَسْلَمَ.

608 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَثْمَرَتْ بِهِ النَّخْلَةُ الْيَابِسَةُ فِىْ بَيْتِ اَبِى الْهَيْثَمِ.

609 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ صَلّٰى جَهْرًا عَلَيْهِ الْبَيْتُ الْحَرَامُ.

610 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ رَافِعَ ابْنَ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمَا رَاٰى فِى
الْمَنَامِ.

611 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَبْرَأَ سَاقَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَتِيْكٍ.

612 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اِمْتَلَأَتْ بِهٖ مِنَ السَّمْنِ عُكَّةُ اُمِّ شَرِيْكٍ.

613 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ قَامَ بِهِ السَّمْنُ فِىْ تِلْكَ الْعُكَّةِ۔

614 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَخْبَرَ بِفَتْحِ مَكَّةَ۔

615 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ كَثُرَ فِىْ وَلِيْمَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِهِ الْحَيْسُ۔

616 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَفَاقَ بِهِ مَجْنُوْنُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ۔

617 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ قَالَ اِنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَظْهَرُ مَا دَامَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَيًّا۔

618 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَخْبَرَ بِالْقَتْلِ فِى الْعِرَاقِ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

619 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِقُدُوْمِ غُلَامِهٖ۔

620 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَخْبَرَ بَعْضَ جَارِهٖ بِمَآ اَسَرَّ مِنْ اِسْلَامِهٖ۔

621 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ خَرَجَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِى الْقُبُوْرِ۔

622 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَخْبَرَ خُرَيْمَ ابْنَ يَعْلٰى بِمَآ اَخْبَرَتْهُ عَنْهُ الْجِنُّ فِى الدَّيْجُوْرِ۔

623 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ بُوْرِكَ بِهٖ طَعَامُ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا الَّذِىْ طَبَخَتْ لِلْغَدَاةِ۔

624 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ نَحْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ اَزْوَاجَهُ الطَّاهِرَاتِ۔

625 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ وُلِدَ بِهٖ سَبْعُوْنَ اِبْنًا لِّمَالِكِ ابْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

626 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ قَالَ لِقَيْسِ بْنِ خَرَشَةَ عَسٰى اَنْ يَّلِيَكَ بَعْدِىْ وُلَاةٌ لَّا تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَقُوْلَ مَعَهُمُ الْحَقَّ حِيْنَ الْبَيْعَةِ۔

627 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ قَالَ لِقَيْسٍ حِيْنَ قَالَ لَهُ وَاللّٰهِ لَا اُبَايِعُكَ عَلٰى شَيْءٍ اِلَّا وَفَيْتُ بِهٖ اِذًا لَّا يَضُرُّكَ بَشَرٌ۔

628 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ صَارَ بِهٖ صَدْرُ عَائِذِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْوَرَ۔

629 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِىْ اَطْعَمَ مِنْ شَاةٍ اَمْتُشِعَتْ ثَلٰثِيْنَ وَمِائَةَ اِنْسَانٍ۔

630 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اُرْسِلَ عَلٰى اَهْلِ نَجْرَانَ بِهِ الْقُمَّلُ فَكُشِفَتْ عَنْهُمْ بِالْاِيْمَانِ۔

631 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ عَذُبَ الْمَآءُ الْمَالِحُ لِبِيْرِ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِهٖ۔

632 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اِسْوَدَّ بِهٖ شَعْرُ يَهُوْدِيٍّ حَلَبَ نَاقَتَهٗ مِنْ اَجْلِهٖ۔

633 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَدِيَّ ابْنَ حَاتِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّكَ كُنْتَ مِرْبَاعًا مِّنْ قَوْمِكَ۔

634 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَخَذَ بِمِنْخَرِ ِۨ الصَّبِيِّ الَّذِىْ كَانَ بِهٖ جُنُوْنٌ فَزَالَ عَنْهُ ذٰلِكَ۔

635 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ كَلَّمَهُ الْاَسَدُ۔

636 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ عُدِمَ لِهِشَامِ ابْنِ الْحَارِثِ بِهِ الْغِلُّ وَ الْحَسَدُ۔

637 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اِمْتَلَأَتْ بِهٖ عُكَّةُ اُمِّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا مِنَ السَّمْنِ۔

638 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ نَفٰى مِنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَجَعَ الْبَطْنِ۔

639 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ نَبَعَ مِنْ ۢ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ فَتَوَضَّأَ بِهٖ سَبْعُوْنَ رَجُلًا۔

640 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِاتِّخَاذِ بَنِىْ اُمَيَّةَ مَالَ اللهِ دُوَلًا۔

641 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ مَا شَابَ بِهٖ عُمَيْرُ ابْنُ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

642 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ شَكَى الْبَعِيْرُ الْمَصْرُوْعُ اِلَيْهِ الْجُوْعَ وَ الْبَرْدَ۔

643 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اُرْسِلَ عَلٰى قَوْمٍ ۢ بِهِ الضَّفَادِعُ۔

644 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اُرْسِلَ عَلٰى قَبِيْلَةٍ ۢ بِهِ الْجَرَادُ ثُمَّ رَفَعَ۔

645 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ مَسَحَ رَأْسَ عَمْرِو ابْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَصَارَ رَأْسُهٗ اَبْيَضَ وَ مَا مَرَّتْ يَدُهٗ عَلَيْهِ مِنْ شَعْرِهٖ اَسْوَدُ۔

646 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ وَضَعَ قَضِيْبًا عَلٰى بَطْنِ رَجُلٍ عَقِيْمٍ فَرُزِقَ الْوَلَدَ۔

647 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِفَتْحِ اَيْلَةَ اَصْحَابَهٗ۔

648 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَخْبَرَ مِقْدَادَ ابْنَ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِالَّذِىْ اَرَادَ اَنْ

يَشْرَبْ شَرَابَهٗ۔

649 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِنَّ هَيَجَانَ هٰذِهِ الرِّيْحِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ۔

650 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ الصَّنَمُ عَنْ م بَعْثِهٖ غَسَّانَ وَالْعِصَامَ وَالطَّارِقَ۔

651 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَبَذَتِ الْاَرْضُ بِهِ الرَّجُلَ الَّذِىْ كَذَبَ عَلَيْهِ۔

652 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ انْقَطَعَتْ يَدُ اَبِىْ جَهْلٍ اِذْ اَرَادَ رَمْىَ الْحَجَرِ اِلَيْهِ۔

653 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَزَلَ لِشَهَادَتِهِ الْعِذْقُ وَرَجَعَ اِلٰى مَكَانِهٖ۔

654 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ رَسُوْلَ اَهْلِ الْيَمَنِ وَالطَّآئِفِ بِمَا سَمِعُوْا مِنَ
الْهَاتِفِ فِىْ شَانِهٖ۔

655 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هَدَّدَ اَبَا جَهْلٍ فِى الْبَيْتِ لَهُ الشَّخْصُ الزَّنْجِيُّ الْهَآئِلُ۔

656 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَكَلَّمَ مِنْ اَجْلِهٖ صَنَمُ اَبِىْ جَهْلٍ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا صَنَمٌ م بَاطِلٌ۔

657 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ ابْنَ الزِّبَعْرٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتٰى وَفِىْ وَجْهِهٖ نُوْرُ
الْاِسْلَامِ۔

658 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الْاَنْصَارَ يَقِلُّوْنَ فَيَكُوْنُوْنَ كَالْمِلْحِ فِى
الطَّعَامِ۔

659 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الْاَنْصَارَ يَقِلُّوْنَ بَعْدَهٗ اَثَرَةً فَاَصَابَتْهُمْ فِىْ
اَيَّامِ مُّعَاوِيَةَ ابْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

660 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِاَنْ يَّقْدُمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَّتَكَلَّمُ بِلِسَانِ شَيْطَانٍ
فَظَهَرَ فِى الْاٰنِ۔

661 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ رَجُلَيْنِ بِاغْتِيَابِهِمَا سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

662 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَالَ بِهٖ بَقَآءُ اَبِىْ ثَرْوَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

663 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَضَآءَ بِهٖ سَوْطُ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

664 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ وَافِدَ كِسْرٰى بِمَا اَضْمَرَ مِنْ خَبَرِ الطَّآئِرِ۔

665 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ اِنَّ فِىْ اَصْحَابِىْ اِثْنَىْ عَشَرَ مُنَافِقًا ثَمَانِيَةٌ تَكْفِيْهِمُ

الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِّنْ نَارٍ۔

666 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا نَآئِمَانِ فِىْ خَطِيْرَةِ بَنِى النَّجَّارِ۔

667 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقْتُلُهٗ غُلَامٌ لِّلْمُغِيْرَةِ۔

668 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ بَلَآءً تُصِيْبُ كَعْبَ ابْنَ عُجْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

669 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ صَارَ بِهِ الْفَتَى الَّذِىْ اِسْتَأْذَنَهٗ لِلزِّنَا ذَا الْعَفَافِ۔

670 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ صَافَحَهٗ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِىْ اَثْنَآءِ الطَّوَافِ۔

671 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ وَاَقَرَّ بِرِسَالَتِهٖ۔

672 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ حَبِيْبَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمَآ اَضْمَرَ فِىْ نَفْسِهٖ مِنْ حَالِ اِبْنَتِهٖ۔

673 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ جَآءَ اِلَيْهِ شَجَرَةٌ وَّهُوَ نَآئِمٌ لِّتُسَلِّمَ عَلَيْهِ۔

674 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَنْجَى الصَّبِىَّ الْمَاْءُوْفَ الَّذِىْ جَآءَتْ بِهٖ اُمُّهٗ فِى السَّفَرِ اِلَيْهِ۔

675 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِذْ طَلَبَ مِنْهُ حَرَاسَةَ وَقْتِ الصَّلٰوةِ اَنْتَ تَنَامُ۔

676 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ بِاَنْ يُّدْفَنَ عِنْدَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

677 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ رَاَتْ عَآئِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَلٰى عِمَامَتِهٖ وَثَوْبِهٖ بِتَغَطِّىْ رِدَآئِهٖ بَلَلَ مَطَرِ عَالَمِ الْغَيْبِ۔

678 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَمُوْتُ بِاَرْضِ الرُّوْمِ بِلَا رَيْبٍ۔

679 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ صَارَ بِهٖ فَرَسُ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بَحْرًا۔

680 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ صَارَ بِهٖ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حِبْرًا۔

681 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِاِتْيَانِ مُضَرَ صَاحِبِ الْبِئْرِ۔

682 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ لِاَزْوَاجِهٖ اَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ جَمَلٍ تَسِيْرُ حَتّٰى تَنْبَحَ عَلَيْهَا كِلَابُ الْجَوْابِ يُقْتَلُ حَوْلَهَا رِجَالٌ كَثِيْرٌ۔

683 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ وَّقْعَةِ الْجَمَلِ وَ غَلَبَةِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ ذٰلِكَ الْحَرْبِ۔

684 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اُبَيَّ ابْنَ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالَّذِىْ جَآءَهٗ فِىْ صِفَةِ الْكَلْبِ۔

685 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ صَاحِبَةَ الْجَمَلِ تَنْجُوْا بَعْدَ مَا قَرُبَتْ بِالْهَلَكَةِ۔

686 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ لِعُقْبَةَ ابْنِ اَبِىْ مُعِيْطٍ اِنِّىْ اَرٰى رَأْسَكَ عَلَى السَّيْفِ خَارِجَ مَكَّةَ۔

687 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ نَادٰى اَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ بِالْعِرْضِ الْبَارِحَةِ۔

688 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ مَسَحَ رَأْسَ اُمِّ اَزْهَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَ بَرَّكَ عَلَيْهَا فَصَارَتْ اِمْرَأَةً صَالِحَةً۔

689 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ بِظُهُوْرِ قَوْمٍ يَبْغَضُوْنَ اَصْحَابَهُ الْكِرَامِ۔

690 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ اِنَّكَ لَا تَمُوْتُ شَهِيْدًا لِّعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

691 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ جَآءَهٗ لِلتَّهْنِيَةِ اَرْبَعِمِائَةِ اَلْفٍ وَّ اَرْبَعَةٌ وَّ عِشْرُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ اِذْ وُلِدَ الْحُسَيْنُ۔

692 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ قَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ اِنَّ فِىْ عَبَآءَتِكَ الْحَمَامَةَ مَعَ الْفَرْخَتَيْنِ۔

693 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَزَالَ الْاُدْرَةَ مِنْ رَّجُلٍ وَّ نَفٰى۔

694 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَلَّمَهُ الْمَرْوَةُ وَ الصَّفَا۔

695 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ رُزِقَ دِحْيَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِدُعَآئِهِ الْاِيْمَانَ۔

696 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ دِحْيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْاٰنَ۔

697 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ سَاَلَتْهُ الْوُحُوْشُ وَ الطُّيُوْرُ اَنْ تُعِيْنَهٗ عَلَى الْكُفَّارِ۔

698 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَدْرَكَ مِقْدَادُ ابْنُ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهِ الْقِنْطَارَ۔

699 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَكَلَ مَعَ اِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ خُوَانٍ نُزِّلَ مِنَ السَّمَآءِ۔

700 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَامَتْ نَاقَتُهٗ فِى الْهَوَآءِ۔

701 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ دَعَا لِامْرَأَةٍ بِالسَّتْرِ فَلَمْ تَنْكَشِفْ اَبَدًا ۢ بَعْدَ ذٰلِكَ۔

702 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَيَّنَ قَوْلَ الطَّآئِرِ لِاَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

703 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَبَذَتِ الْاَرْضُ بِهِ الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ يَكْتُبُ الْوَحْىَ فَارْتَدَّ عَنِ الْاِسْلَامِ۔

704 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَجَدَ جُيُوْشُهُ الْجِيَاعُ بِخَيْبَرَ بِدُعَآئِهِ الطَّعَامَ۔

اَلْحِزْبُ السَّادِسُ

705 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اِذَا رَكَعَ يَرَى الْاَرَاضِىَ حَتَّى الْحُوْتَ۔

706 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَىِّ مَرَضٍ يَّمُوْتُ۔

707 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ مَسْجِدَهٗ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ۔

708 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِقَتْلِ ابْنِ اَبِى الْحَقِيْقِ اَصْحَابُهُ الْاَطْهَارُ۔

709 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَحْرَقَتِ الصَّاعِقَةُ مِنْ اَجْلِهٖ كَافِرًا مِّنْ طَوَاغِيْتِ الْعَرَبِ۔

710 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا شَابَ بِهٖ عَمْرُو بْنُ اَخْطَبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

711 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَنْ يُّقْتَلَ ابْنُهٗ۔

712 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا بَلَّ الْمَطَرُ بِهٖ صَحْبَهٗ۔

713 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَسْمَعُ صَرِيْرَ اَقْلَامِ الْمَلَآئِكَةِ فِى السَّمَآءِ بِاُذُنَيْهِ۔

714 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرٰى حَمْزَةَ جِبْرِيْلَ فَوَقَعَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ۔

715 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَفَعَ اَبُوْ جَهْلٍ مِّنْ اَجْلِهٖ حَجَرًا فَشَلَّتْ يَدُهٗ اِلٰى عُنُقِهٖ۔

716 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حَالَ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الْمَخْزُوْمِىِّ شَىْءٌ كَالْفِيْلِ يَضْرِبُ الْاَرْضَ بِذَنَبِهٖ۔

717 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خُطِفَ لَهٗ بَصَرُ رَجُلٍ مِّنْ ۢ بَنِى الْمُغِيْرَةِ۔

718 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ اِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ مُصِيْبُوْنَ مَفْتُوْحٌ لَّكُمْ يَعْنِى الْبِلَادَ الْكَثِيْرَةَ۔

719 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ سَمِعَ الْاَعْدَآءُ قِرَآءَتَهٗ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَ يَرَوْهُ فَرَجَعُوْا خَآئِبِيْنَ۔

720 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ بَيَّنَ لِحُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَسْمَآءَ الْمُنَافِقِيْنَ۔

721 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ نَبَتَ بِيُمْنِهٖ غَدِيْرَتَا اَسْمَا بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا۔

722 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مَا ابْيَضَّ بِهٖ لِرَجُلٍ شَعْرَةٌ وَّقَدْ بَلَغَ ثَمَانِيْنَ۔

723 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَبْرَاَ يَدَ الصَّبِىِّ الْمُنْكَسِرَةَ۔

724 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَسْلَمَتْ بِهٖ اُمُّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا۔

725 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَحَبَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَ اُمَّهٗ بِهِ الْمُؤْمِنُوْنَ۔

726 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِمَا هَمَّ عَلَى الْعَقَبَةِ الْمُنَافِقُوْنَ۔

727 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ دَرَّ لِاَعْنُزِ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِهِ اللَّبَنُ۔

728 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ عَذُبَ بِهٖ مَآءُ بِئْرِ الْيَمَنِ۔

729 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ بَيَّنَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ اُنَيْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حِلْيَةَ سُفْيَانَ ابْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهٗ اِذَا رَاَيْتَ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اُلْقِىَ فِىْ قَلْبِكَ الْخَوْفُ۔

730 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِنَصْرِ الْمَلَآئِكَةِ يَوْمَ اُحُدٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

731 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ دَعَا لِرَاهِبٍ سَقِيْمٍ فَبَرَءَ مِنْ حِيْنِهٖ وَقَامَ۔

732 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَجَابَ عَنْ ثَلَاثٍ عَبْدَ اللهِ ابْنَ سَلَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

733 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ صَحَّ بِهِ الصَّبِىُّ الَّذِىْ جَآءَتْ اُمُّهٗ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِلَيْهِ۔

734 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اِنْتَظَرَ ابْنَةَ مَلِكِ الرُّوْمِ حِيْنَ قَدِمَتْ مَعَ فَتًى مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ۔

735 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ سلم عَلَيْهِ كَثِيْبُ الرَّمْلِ الطَّوِيْلِ۔

736 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ بِفَقْدِ بَصَرِهٖ لَمَّا رَاٰی جِبْرِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ۔

737 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ بِعَوْدِ بَصَرِهٖ بَعْدَ الْعَمٰی۔

738 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ کَلَّمَتْهُ الْحُمّٰی۔

739 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ اِنَّ طِیْبَةَ وَ صِبْیَانَهَا لَا یُمَسُّوْنَ حَتّٰی یُجْزِیَ اللهُ فَرَجَهُمْ عَلٰی یَدِ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ۔

740 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ اَلْخِلَافَةُ بَعْدِیْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً۔

741 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سَلَّمَتِ الْغَزَالَةُ عَلَیْهِ۔

742 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اِحْتَرَقَتْ شَفَتَا عُقْبَةَ ابْنِ اَبِیْ مُعَیْطٍ اِذْ بَزَقَ اِلَیْهِ۔

743 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بُوْرِكَ بِهٖ طَعَامُ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَ امْرَأَتِهٖ۔

744 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِوُقُوْعِ الرِّدَّةِ بَعْدَ مَوْتِهٖ۔

745 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ رَاٰهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ یَوْمًا یَّرْتَفِعُ مِنْهُ النُّوْرُ اِلَی السَّمَآءِ۔

746 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ نَفٰی مِنْ صَبِیٍّ دَآءَ الْاَحْشَآءِ۔

747 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ دَعَا الشَّجَرَةَ الَّتِیْ خُلِقَتْ مِنْ اَوَّلِ قَطْرَةِ دُمُوْعِ اٰدَمَ اِذْ اُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَاَتَتْهُ وَ سَجَدَتْ یَدَیْهِ۔

748 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ طَارَتْ بِهٖ عَیْنَا حَکَمِ ابْنِ اَبِی الْعَاصِ اِذْ غَمَزَ عَلَیْهِ۔

749 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ مَنْ سَئَلَ وَ لَهٗ قِیْمَةُ اُوْقِیَةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ لِاَبِیْ سَعِیْدٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ۔

750 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سَمِعَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ صَوْتَهٗ مِنْ بَعِیْدٍ۔

751 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَرْسَلَ عَلِیًّا رَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَعَ الْیَهُوْدِ وَ اَمَرَهٗ اَنْ یَّقُوْلَ لِلْمَیِّتِ الَّذِیْ یُشِیْرُوْنَ اِلَیْهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُمْ بِاِذْنِ اللهِ الَّذِیْ یُحْیِ الْمَوْتٰی فَقَامَ مِنْ قَبْرِهٖ۔

752 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَالَ بِرَأْسِهٖ نَحْوَ الْجَبَلِ یَوْمَ اُحُدٍ فَخَرَقَهٗ بِمِقْدَارِهٖ۔

753 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ لِرَجُلٍ ضَرَبَ اللّٰہُ عُنُقَهٗ فِیْ سَبِیْلِهٖ فَمَاتَ شَھِیْدًا۔

754 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ یَعِیْشُ وَحِیْدًا یَّمُوْتُ وَحِیْدًا۔

755 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ اِنَّ اَبَا ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ یَمُوْتُ بِالْبَادِیَةِ وَ یَحْضُرُ وَقْتَ وَفَاتِهٖ جَمْعٌ مِّنْ اَھْلِ الْاِسْلَامِ۔

756 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَبَا ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ بِاِخْرَاجٍ مِّنَ الْمَدِیْنَةِ وَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ۔

757 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَسَحَ رَأْسَ قَیْسِ ابْنِ زَیْدٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ فَمَآ اِبْیَضَّ مِنْهُ مَوْضِعُ یَدِهِ الشَّرِیْفَةِ۔

758 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ عَلِیًّا بِاَنْ یَّمْلِكَ جَارِیَةً مِّنْ بَنِیْ حَنِیْفَةَ۔

759 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ عَلِیًّا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ یُوْلَدُ لَهٗ مِنْ تِلْكَ الْجَارِیَةِ غُلَامٌ۔

760 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَتَاهُ ابْنُ الشَّیْطَانِ فَدَخَلَ فِیْ رِبْقَةِ الْاِسْلَامِ۔

761 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بَصَّرَ مَرْاَةً مِّنْ بَنِیْ سُلَیْمٍ بِلَا شَكٍّ۔

762 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سَمِعَ صَیَّادٌ بِیَمِیْنِهٖ۔

763 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَشْبَعَ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ مِّنْ ذٰلِكَ السَّمَكِ۔

764 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ ذَھَبَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمَا اِلٰی بَیْتِھِمَا بِنُوْرِ وَجْهِهِ الْمُبَارَكِ۔

765 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ سَعْدًا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ لَا یَمُوْتُ مِنْ ھٰذَا الْمَرَضِ۔

766 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَسَحَ مَدْلُوْكٍ فَکَانَ مَوْضِعُ یَدِهٖ مِنْهُ اَسْوَدَ وَ سَآئِرُهٗ اَبْیَضَ۔

767 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَبْرَأَ رِجْلَ اَبِیْ قَتَادَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ۔

768 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ زَالَ بِهٖ قِطَافُ حِمَارِ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ۔

769 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ رَبِحَ بِهٖ عَرْقَدَةُ فِیْ صَفْقَقَتِهٖ۔

770 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ مَا تَرَكَ قَايِدَ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ تَنْقَضِ الدُّنْيَا اِلَّا سَمَّاهُ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ وَاِسْمِ قَبِيْلَتِهٖ۔

771 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَنْ اِتْيَانِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ۔

772 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ يَأْتِيْكُمْ رَجُلٌ مِّنَ الْيَمَنِ يُقَالُ اُوَيْسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

773 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ بَيَّنَ لِاَصْحَابِهٖ حِلْيَةَ اُوَيْسِ الْقَرَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

774 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِخُرُوْجِ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ۔

775 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ فَيْرُوْزًا قَتَلَ الْاَسْوَدَ الْكَذَّابَ۔

776 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ مَا نَقَصَ بِهِ الثَّمَرَاتُ الَّتِىْ اَخْرَجَهَا بِلَالٌ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مِنَ الْجِرَابِ۔

777 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَبْرَأَ شَجَّةَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اُنَيْسٍ۔

778 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَعِيْشَ سَعِيْدًا وَّ تَمُوْتَ شَهِيْدًا لِثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

779 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالَّذِىْ غَلَّ الْبُرُوْدَةَ مِنَ الْمَغَانِمِ۔

780 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْتُلُهُ ابْنُ مُلْجِمٍ۔

781 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اُمَيَّةَ ابْنِ خَلْفٍ ݨِ بِالْقَتْلِ۔

782 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْرَجَ السَّهْمَ مِنْ صَدْرِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ وَّ تَرَكَ النَّصْلَ۔

783 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ بَيَّنَ الذِّيْبُ شَانَهٗ سَلَمَةَ ابْنِ الْاَكْوَاعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

784 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ نَبَتَ بِهٖ شَعْرُ رَأْسِ هُلْبٍ ݨِ الْاَقْرَاعِ۔

785 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَضَاۤءَ بِهٖ نُوْرٌ كَالْمِصْبَاحِ فِيْمَا بَيْنَ عَيْنَىِ الطُّفَيْلِ۔

786 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ تَدَاوَلَ بِهِ الصَّحَابَةُ مِنْ قَطْعَةٍ مِّنْ غُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ۔

787 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِارْتِحَالِ الظَّعِيْنَةِ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ تَعَالٰى وَ تَقَدَّسَ۔

788 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ صَرَعَ عُقْبَةَ ابْنَ اَبِیْ مُعَیْطٍ بِدُعَآئِهِ الْفَرَسُ۔

789 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نَبَّأَهُ الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ۔

790 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بَادَ بِهٖ مُلْکُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِیِّ۔

791 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَبْرَأَ لِاَبِیْ دُجَانَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبْعِیْنَ جِرَاحَةً۔

792 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَهْلَ الْمَدِیْنَةِ یَوْمَ دَخَلَهَا عَمَّا اَکَلُوا الْبَارِحَةَ۔

793 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَامَ سَرِیْعًا مِّنْ جِدَارِ بَنِی النَّضِیْرِ۔

794 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْاَسِیْرِ۔

795 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ لِاَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ اَسِیْرَکَ سَیَعُوْدُ۔

796 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَسَاقَطَ بِهٖ شَعْرُ الرَّجُلِ الَّذِیْ کَانَ یَحْفَظُهٗ فِی السُّجُوْدِ۔

797 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتَ قَوْلَ الْمَلَآئِکَةِ۔

798 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَلَّمَتْهُ السَّمَکَةُ۔

799 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِمَوْتِ عَاصِمِ ابْنِ ثَابِتٍ وَّ رُفَقَآئِهٖ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ۔

800 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قُتِلَ نَوْفَلُ ابْنُ خُوَیْلِدٍ بِدُعَآئِهٖ۔

801 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِقُدُوْمِ وَفْدِ الْاَشْعَرِیِّیْنَ۔

802 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بَلَغَ مُلْکُ اُمَّتِهٖ مَا زُوِیَ لَهٗ مِنَ الْاَرْضِ بِالْیَقِیْنِ۔

803 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ دَخَلَ بِهِ الْغَنَمُ اِذْ اَسْلَمَ الرَّاعِیْ فِی الْحِصَارِ۔

804 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ عَنِ الْجِمَالَاتِ حَارِثَ ابْنَ اَبِیْ ضِرَارٍ۔

805 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَا قَاحَ اَثَرُ السَّهْمِ فِیْ وَجْهِ اَبِیْ قَتَادَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذْ بَصَقَ عَلَیْهِ۔

806 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اِسْتَأْذَنَتْهُ الشَّجَرَةُ اَنْ تَمِیْلَ وَتَنْظُرَ اِلَیْهِ۔

807 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ رَبِحَ بَیْعُ صُهَیْبٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

808 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَدَّ السَّلَامَ عَلٰی خُبَیْبٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

809 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ رُزِقَ بِهٖ فَتًى مِّنْ وَّفْدِ تُجِيْبَ غِنَى الْقَلْبِ۔

810 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ زَيْدَ ابْنَ صُوْحَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَسْبِقُهٗ عُضْوٌ مِّنْهُ اِلَى الْجَنَّةِ فَقُطِعَتْ يَدُهٗ فِى الْحَرْبِ۔

811 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مَا اسْتَطَاعَ بِهِ الرَّجُلُ رَفْعَ الْيَدِ الْيُمْنٰى اِلٰى فِيْهِ۔

812 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مُطِرَ بِهٖ بِلَادُ وَفْدِ بَنِىْ مُرَّةَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ دَعَا فِيْهِ۔

813 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ قَالَ بِهٖ فَرَسُ النُّعْمَانِ اِنَّ مَنْ آمَنَ بِهٖ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى۔

814 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ الْمُلْكَ لِمُقَوْقَسٍ لَّا يَبْقٰى۔

815 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَخْبَرَ مَعْشَرَ عُلَمَآءِ الْيَهُوْدِ بِابْنِ صُوْرِيَا۔

816 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ كَلَّمَ الذِّيْبُ اَبَا جَهْلٍ فِىْ شَانِهِ الْاَعْلٰى۔

817 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَنْبَأَ بِفَتْحِ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ۔

818 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مَالَتْ عُمَيْرَةُ بِنْتُ اَبِى الْحَكَمِ بِدُعَآئِهٖ اِلَى الْاَبِ۔

819 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ قَالَ مَا فِى الْمَدِيْنَةِ شِعْبٌ وَّلَا ثُقْبٌ اِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ۔

820 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ مُطِرَ بِهٖ بِلَادُ وَفْدِ سَلَامَانَ۔

821 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ اَعْلَمَ اَصْحَابَهٗ فِىْ سَفَرٍ بِاَنَّهُمْ يَفْقِدُوْنَ الْمَآءَ فِىْ غَدٍ۔

822 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ قَامَ بِهِ الطِّيْبُ لِعُتْبَةَ ابْنِ فَرْقَدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ۔

823 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ عَطِشَ حِيْنَ رَجَعَ مِنَ الطَّآئِفِ فَنَبَعَ مِنْ م بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ۔

824 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ كَلَّمَ عَقِيْلَ ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا بِهِ الْجَبَلُ۔

825 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ جَآءَتْ اِلَيْهِ شَجَرَةٌ حِيْنَ قَالَ لَهَا عَقِيْلٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ يَدْعُوْكِ۔

826 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ قَالَ لِعُرْوَةَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ سَاَلَهٗ اَنْ يَّرْجِعَ اِلٰى قَوْمِهٖ وَيَدْعُوْهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ اِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّهُمْ قَاتِلُوْكَ۔

827 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ زَوَّدَ عُمَرُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَمْرِهٖ مِنَ التَّمْرِ الْقَلِيْلِ اَرْبَعَمِائَةِ رَاكِبٍ۔

828 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ قَالَ يَوْمًا لِّاَصْحَابِهٖ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ مِّنْ هٰذَا الْوَادِیْ رَجُلٌ فَاَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عَلِیُّ ابْنُ اَبِیْ طَالِبٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

829 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ اَعْلَمَ بِكَنْزِ اَبِی الْحَقِيْقِ بِخَيْبَرَ۔

830 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِمَنْ قَالَ {لَا تَنْفِرُوْا فِی الْحَرِّ}۔

831 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِمَا اٰمَدَّهٗ مُلُوْكُ حُمَيْرٍ۔

832 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ اَشْبَعَ ثَلٰثَةَ رِجَالٍ فِیْ يَوْمٍ ثُمَّ عَشَرَةً فِی الثَّانِیْ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ بِلَالٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ فِی السَّفَرِ۔

833 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَصْحَابَهٗ فِیْ بَعْضِ غَزَوَاتِهٖ اِنَّهُمْ يَلْقَوْنَ عَدُوًّا غَدًا۔

834 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ وُلِدَ بِهٖ لِبُهَيَّةَ الْبَكْرِيَّةِ سِتُّوْنَ وَلَدًا۔

835 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ اَرَادَ اَبُوْ جَهْلٍ رَمْیَ الصَّخْرَةِ اِلَيْهِ فَانْقَلَبَتْ عَلٰى صَدْرِهٖ وَيَدَيْهِ۔

836 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ كَلَّمَهٗ صَبِیٌّ ۨ ابْنُ شَهْرَيْنِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ۔

837 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِاِتْيَانِ الْمَلَائِكَةِ بِالْكَفَنِ وَ الْحُنُوْطِ لِاُمِّ هٰذَا الصَّبِیِّ۔

838 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ سَارَ بِهِ الْفَرَسُ الْاَعْجَفُ لِجُعَيْلِ الْاَشْجَعِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

839 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ رَبِحَ بِهٖ ذٰلِكَ الْفَرَسَ جُعَيْلٌ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

840 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ كَانَ اِذَا هَمَّ اَرْبَدُ ابْنُ قَيْسٍ اَنْ يَّضْرِبَهٗ وَجَدَ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ نَفْسِهٖ عَامِرَ ابْنَ الطُّفَيْلِ۔

841 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ هَلَكَ بِدُعَائِهٖ اَرْبَدُ بِالصَّاعِقَةِ وَ عَامِرٌ ۨ بِالطَّاعُوْنِ۔

842 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ قَالَ يَوْمَ اُحُدٍ اِنَّ قُرَيْشًا ۨ بَعْدَ هٰذَا لَا يَنْصُرُوْنَ عَلَيْنَا وَلَا يَغْلِبُوْنَ۔

843 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَا نَقَصَ الطَّعَامُ بِاَکْلِہٖ۔

844 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سَکَّنَ جِرَآءً بِرَکْضِہٖ۔

845 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِالَّذِیْ اِسْتَاْجَرَتْہُ قُرَیْشٌ لِّقَتْلِہٖ۔

846 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ کَلَّمَ الْمُعُوْزُ رَاعِیًا قَصَدَ ذَبْحَھَا مِنْ اَجْلِہٖ۔

اَلْحِزْبُ السَّابِعُ

847 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ رَاٰی فَوْقَ رَأْسِہٖ نَضْرُ ابْنُ الْحَارِثِ حَیَّاتٍ سُوْدٍ فِی الْھَوَآءِ۔

848 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِفَتْحِ الْحِیْرَۃِ وَ اَسْرِ شَیْمَآءَ رَاکِبَۃً عَلَی الْبَغْلَۃِ الْبَیْضَآءِ۔

849 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ لِخُزَیْمِ ابْنِ اَوْسٍ حِیْنَ اِسْتَوْھَبَہٗ شَیْمَآءَ ھِیَ لَکَ۔

850 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَبَا حُذَیْفَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ بِالشَّھَادَۃِ فَاَدْرَکَ۔

851 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَا نَقَصَ مِنْ قِرْبَتَیِ الْغُلَامِ الْاَسْوَدِ بِہِ الْمَآءُ۔

852 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ صَارَ بِلَمْسِہٖ وَجْہُ ذٰلِکَ الْغُلَامِ مُنِیْرًا کَبَیْضَآءَ۔

853 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَا جَلَسَ عَلٰی جَسَدِہٖ وَ ثِیَابِہِ الذُّبَابُ۔

854 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَا ضَعُفَ الْمَرْکَبُ الَّذِیْ رَکِبَ عَلَیْہِ وَ مَا شَابَ۔

855 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بَیَّضَ اٰذَانَ الْغَنَمِ۔

856 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَبْرَأَ سَاقَ عَلِیِّ ابْنِ الْحَکَمِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔

857 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَرْوٰی اَھْلَ الصُّفَّۃِ وَ اَبَا ھُرَیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اِذْ جَلَسَ لِلْجُوْعِ عَلَی الطَّرِیْقِ بِقَدَحٍ مِّنَ اللَّبَنِ اُھْدِیَ اِلَیْہِ۔

858 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ دَلَّ طَآئِرٌ سَقَطَ عَبَّاسَ ابْنَ مِرْدَاسٍ عَلَیْہِ۔

859 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَحْیٰی عَنَاقَ الْاَنْصَارِیِّ۔

860 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بَیَّنَ الذِّیْبُ شَانَہٗ لِلرَّاعِیْ۔

861 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَالَ لِھٰذَا الرَّاعِیْ عُدْ اِلٰی غَنَمِکَ تَجِدْھَا بِوَفْرِھَا فَوَجَدَھَا کَذٰلِکَ۔

862 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَرَكَ لَحْمَ الشَّاةِ الَّتِيْ اُخِذَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَالِكِ۔

863 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ الصَّنَمُ بِرِسَالَتِهٖ عَبَّاسَ ابْنَ مِرْدَاسٍ۔

864 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بَقِيَ بِدُعَائِهِ الْخِلَافَةُ فِيْ عَقِبِ الْعَبَّاسِ۔

865 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ يُوْجَدُ مِنْ فَمِهٖ لِلنَّوْمِ رَائِحَةُ الطَّعَامِ۔

866 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ بِالْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ اَصْحَابُهُ الْكِرَامُ۔

867 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ بِالتَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَانِ۔

868 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْرَجَ السِّحْرَ مِنْ بِئْرِ ذَرْوَانَ۔

869 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَشْبَعَ بِصَاعٍ مِّنَ التَّمْرِ جَيْشَهٗ۔

870 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ لَا يَتَمَزَّقُ كُلُّ لِبَاسٍ لَّبِسَهٗ۔

871 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ طَالَ بِهٖ عُمُرُ اَبِي الْيَسَرِ۔

872 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّكَ تُقَاتِلُ الْمَارِقِيْنَ مِنَ الدِّيْنِ وَيُقْتَلُ فِيْهِمْ رَجُلٌ اَسْوَدُ اِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْاَةِ تَدَرْدَرُ۔

873 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ سَتَرَتْهُ الْاَشْجَارُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ۔

874 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ فَارَ الْمَاءُ مِنْ بِئْرِ الْحُدَيْبِيَّةِ بِمَاءِ مَضْمَضَتِهٖ۔

875 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ لِاُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ۔

876 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ فِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُصْلِحُ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

877 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَضَاءَ بِهٖ كَالْمِرْاٰةِ وَجْهُ قَتَادَةَ ابْنِ مِلْحَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

878 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ دَعَا اُمَّ اَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ اَصَابَهَا كَسْرٌ فَصَحَّتْ وَقَامَتْ اِلَيْهِ فِي الْاٰنِ۔

879 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَلْقَتِ الْحَيَّةُ بِاَمْرِهِ السَّمَّ۔

880 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ اَنَا مَعَ كُلِّكُمْ عِنْدَ الْمُنَاضَلَةِ لِجَمْعٍ مِّنْ اَسْلَمَ۔

881 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَفَى الْمَرَضَ مِنْ وَّلِيْدِ ابْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِالدُّعَآءِ۔

882 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخَذَ غُرَابُ اَحَدٍ خُفَّيْهِ فَنَفَضَهُ فِى الْهَوَآءِ۔

883 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَرْحِ السَّاقِ بَعْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ۔

884 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِّعَالُهُمُ الشَّعْرُ۔

885 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ مَاحَثَ بِهٖ فَاطِمَةُ الزَّهْرَآءُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا۔

886 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ اَصْحَابَهٗ بِاَنْ يَّطْلُعَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ هٰذِهِ الصَّحْرَآءِ۔

887 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ ضَرَبَ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِالرِّجْلِ اِذْ كَانَ شَاكِيًا فَمَا اشْتَكَى الْوَجَعَ بَعْدَ ذٰلِكَ۔

888 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ لِحُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَ لِاُمِّكَ۔

889 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَآءَتْ اِلَيْهِ نَخْلَةٌ لِّدَعْوَتِهٖ۔

890 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ شَهِدَ صَنَمُ حُصَيْنٍ بِنُبُوَّتِهٖ۔

891 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَآءَ اِلَيْهِ وَافِدُ السِّبَاعِ۔

892 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ شَكٰى اِلَيْهِ جَمَلٌ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّبَاعِ۔

893 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ طَالَ بِهٖ عُمْرُ اُمِّ حَارِثَةَ وَ اُخْتِهٖ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا۔

894 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ بَيَّنَ لِاَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ فِىْ شَانِهٖ لِزَوْجَتِهٖ۔

895 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمَا تَفَكَّرَ مِنْ تَطْلِيْقِ زَوْجَتِهٖ لِاِفْشَآءِ السِّرِّ۔

896 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَرْسَلَ فِىْ اِثْرِ الْعُرَنِيِّيْنَ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ۔

897 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ قَالَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لِرَاجِزِ بَنِىْ كَعْبٍ۔

898 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ بَعْدَ مَا صَلَّی الْعَصْرَ مِنَ الدَّاعِیْ عَلٰی هٰذَا الْكَلْبِ.

899 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِرَمْیِ مَكَّةَ اَفْلَاذَ كَبِدِهَا يَعْنِيْ خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيْدِ وَعَمْرَو ابْنَ الْعَاصِ وَعُثْمَانَ ابْنَ طَلْحَةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

900 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِاِشَارَةِ اَبِیْ لُبَابَةَ حِیْنَ حَذَّرَ بَنِیْ قُرَیْظَةَ.

901 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِالْقَتْلِ ابْنِ الزُّبَیْرِ.

902 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ تَقْتُلُكَ الْحُمّٰی لِزَیْدِ الْخَیْرِ.

903 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ بِخُرُوْجِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ بِالرَّایَاتِ السُّوْدِ.

904 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَبَا عَامِرٍ بِالْاَخْبَارِ الَّتِیْ اَخْبَرَتْهُ بِهَا عَنْهُ الْیَهُوْدُ.

905 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَاتَ بِهٖ اَبُوْ عَامِرٍ مَّغْمُوْمًا غَرِیْبًا.

906 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ لِاَبِیْ ذَرِّنِ اقْتَحِمِ الْاَجَمَةَ تَرٰی عَجِیْبًا.

907 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ دَرَّ لِلشَّاةِ لَهُ اللَّبَنُ لِمِقْدَادِ الْاَسْوَدِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ.

908 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ سَفِیْنَةَ بِمَا فَعَلَ بِهِ الْاَسَدُ.

909 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَضَآءَ بِهٖ زِیَادُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ اُخْتِ مَیْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ.

910 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بُوْرِكَ بِهٖ طَعَامٌ صَنَعَ لِعَشِیْرَتِهِ الْاَقْرَبِیْنَ.

911 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَرْوٰی بِقَدَحٍ مِّنَ الْمَآءِ تِلْكَ الْعَشِیْرَةَ.

912 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَشْبَعَ مِنَ الثَّرِیْدِ وَبِمِقْدَارِ لُقْمَةٍ مِّنْهُ اَبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ.

913 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَاٰی عِنْدَهٗ شُوَاظًا شَیْبَةُ ابْنُ عُثْمَانَ.

914 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ زَالَ بِهٖ مِنْ شَیْبَةَ وَسَاوِسُ الشَّیْطَانِ.

915 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ شَیْبَةَ بِالْاَشْیَآءِ الَّتِیْ اَضْمَرَ فِیْ نَفْسِهٖ وَلَمْ یُظْهِرْهَا عَلٰی اَحَدٍ.

916 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ رَجُلًا اَنَّ ضِرْسَهٗ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ فَارْتَدَّ.

917 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِقُدُوْمِ عِكْرِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّمُهَاجِرٌ۔

918 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَا اَضْمَرَ فِىْ نَفْسِهٖ مِنْ خَبَرِ الطَّآئِرِ۔

919 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بِوُقُوْعِ الْمَوْتَانِ بَعْدَ فَتْحِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ۔

920 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّهٗ سَتَخْدِمُ اُمَّتِىْ بَنَاتُ الرُّوْمِ وَفَارِسَ۔

921 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِتَسَلُّطِ شِرَارِ الْاُمَّةِ عَلٰى خِيَارِهَا حِيْنَ سُبِىَ اَوْلَادُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ وَاسْتُخْدِمُوْا۔

922 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ الْمُنَافِقِيْنَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِمَا قَالُوْا۔

923 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لِعُثْمَانَ ابْنِ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقَعُ يَوْمًا فِىْ يَدِىْ مِفْتَاحُ الْكَعْبَةِ۔

924 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَلَّى الْجَنَازَةَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِىْ حِيْنَ الْغَيْبَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

925 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِاِسْمِ وَهْبِ ابْنِ السَّمَاعِ وَقُدُوْمِهٖ عَلَيْهِ۔

926 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اُلْهِمَ بِيُمْنِهٖ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ لِسَانَ كُلِّ مَلِكٍ ذَهَبَ بِالْكِتَابِ اِلَيْهِ۔

927 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ مُحَمَّدَ ابْنَ مَسْلَمَةَ اَنَّكَ تَقْتُلُ غَدًا قَاتِلَ اَخِيْكَ كِنَانَةَ۔

928 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ غَدَا عَلَيْهِ اَبُوْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهٗ لَقَدْ ضَحِكَ اللّٰهُ فُلَانٍ وَّفُلَانَةٍ۔

929 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَكٰى لِبُكَآءِ اَصْحَابِهٖ اُحُدٌ۔

930 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قُتِلَ بِدُعَآئِهٖ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ وُدٍّ۔

931 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَبَعَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ لِزِيَادِ ابْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى السَّفَرِ۔

932 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَبِحَ بِهٖ فِى الصَّفْقَةِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

933 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِبِنَآءِ بَغْدَادَ.

934 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَشْبَعَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِمِائَةِ رَاكِبٍ بِاَرْبَعَةِ اَمْدَادٍ.

935 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَذُبَ بِهٖ مَآءٌ سَمَّاهُ نُعْمَانَ.

936 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَمِعَتْ لَهٗ صَيْحَةً قَوْمُ عَطْفَانَ.

937 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَلَّمَهُ الْجَمَلُ فِىْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ حَكَمَ عَلَيْهِ لِلسَّرَقَةِ اَنْ يُّقْطَعَ.

938 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بِالْبَرَصِ رَجُلًا مِّنْ وَّفْدِ بَنِى النَّخْعِ.

939 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ فَارَ الْمَآءُ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهٖ.

940 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بُوْرِكَتِ الشَّاةُ الْمَشْوِيَّةُ لِخَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بِهٖ.

941 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَبَعَ فِىْ غَزْوَةِ بُوَاطٍ مِّنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ.

942 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَمُوْتُ بِاَرْضٍ قَفْرَآءَ.

943 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَعْرَابِيًّا اَنَّ فِىْ مِشْمَنَتِكَ ظَبْيَةً.

944 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَهِدَ بِرِسَالَتِهٖ ذٰلِكَ الظَّبْيَةُ بِلَا مِرْيَةٍ.

945 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَنْبَاَ عَلِيًّا بِمَا قَالَ الْخِفْشَانِ لِتِلْكَ الظَّبْيَةِ وَاَخْبَرَ.

946 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِالَّذِىْ غَلَّ الشَّمْلَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

947 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا اُحْتُرِقَ بِهٖ سُفْرَةُ اَبِى الدَّرْدَآءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

948 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَادَ بِهٖ طَعَامُ وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَآءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا.

949 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ دَخَلَ صَوْمَعَةَ الْيَهُوْدِ فَانْقَطَعَتْ سَلَاسِلُ الْقَنَادِيْلِ.

950 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْلَمَ بِخُرُوْجِهٖ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ اَصْحَابَهٗ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

951 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَرَجَ بِيُمْنِهِ الْمَآءُ اِلٰى رَأْسِ الْبِيْرِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ نَوْبَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَغَارَ بِقَعْرِهَا يَوْمَ نَوْبَةِ الْكُفَّارِ.

952 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَارَ رَمْلًا وَّرِمَادًا بِهِ الْاَحْجَارُ.

953 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَالَ فِىْ صَوْمَعَةِ بَحِيْرَا لِاِظْلَالِهِ الشَّجَرُ.

954 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَنْبَأَ بِقَتْلِ اَهْلِ جُرَشٍ وَّ اَخْبَرَ۔

955 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَخْبَرَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِىْ قُتِلُوْا فِيْهَا۔

956 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اِخْضَرَّتِ الشَّجَرَةُ الْيَابِسَةُ حِيْنَ جَلَسَ تَحْتَهَا۔

957 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ ظَلَّلَتْهُ الْغَمَامَةُ۔

958 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ لَفَظَتْ بِهِ الْاَرْضُ مُحَلِّمَ ابْنَ جُثَامَةَ۔

959 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَرْوٰى بِفَضْلِ وُضُوْئِهٖ مَا فَوْقَ الْفَيْنِ۔

960 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ قَالَ لِمَعْشَرٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِنَّكُمْ جِئْتُمْ لِتَسْاَلُوْنِىْ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ۔

961 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَخْبَرَ بِاَنَّ الْاَرَضَةَ اَكَلَتْ مَا فِىْ سِفْرِ الْعَهْدِ وَاَبْقَتِ اسْمَ اللّٰهِ۔

962 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ عُرِمَ بِهٖ لِبَنَاتِ مَسْعُوْدٍ خُلُوْفُ الْاَفْوَاهِ۔

963 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ شَلَّتْ لَهٗ يَدُ كَاتِبِ سِفْرِ الْعَهْدِ۔

964 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ كَانَ يُنَاغِى الْقَمَرَ وَ يُشِيْرُ اِلَيْهِ فَيَمِيْلُ اِلٰى اَىِّ جَانِبٍ يُّشِيْرُ اِذْ كَانَ فِى الْمَهْدِ۔

965 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ كَلَّمَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَ هِىَ فِىْ بَطْنِ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

966 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَلَّفَ بِهٖ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ۔

967 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اِنْفَجَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ لِظَمَاءِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

968 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ شَهِدَ عِنْدَهُ الْبَعِيْرُ عَلٰى مُدَّعِىْ مَالِكِهٖ اَنَّهٗ كَاذِبٌ۔

969 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَبْرَأَ جُرْحَ حَارِثِ بْنِ اَوْسٍ۔

970 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ جَآءَهٗ جِبْرِيْلُ بِالْعِنَبِ وَ الرُّمَّانِ مِنَ الْفِرْدَوْسِ۔

971 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ سَبَّحَ فِىْ كَفِّهٖ ذٰلِكَ الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ۔

972 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ بِلَالًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَهْدَاهُ الشَّيْطَانُ۔

973 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ قَالَ لِخَالِدِ ابْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّكَ تَجِدُ اُكَيْدَ

رَدُوْمَة يَصِيْدُ۔

974 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَنْبَأَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِهُبُوْبِ الرِّيْحِ الشَّدِيْدِ۔

975 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَالَ بِهِ الْخُنَاقُ۔

976 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ الْمَرْكَبِ حِيْنَ رَجَعَ مِنَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى رُئِىَ سَاطِعًا فِى الزِّقَاقِ۔

977 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَارَ بِهِ جَمَلًا خَدِيْجَةَ عَلَيْهَا الرِّضْوَانُ۔

978 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَظَلَّهُ فِىْ سَفَرِ التِّجَارَةِ الْمَلَكَانِ۔

979 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخَذَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ ذٰلِكَ السَّفَرِ زِمَامَهُ۔

980 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ يَرٰى مَا خَلْفَهُ كَمَا يَرٰى مَآ اَمَامَهُ۔

981 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ كُلَّمَا طَافَ قَبْلَ ظُهُوْرِ الْاِسْلَامِ خَرَّ لَهُ الْاَصْنَامُ سَاجِدِيْنَ۔

982 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَيَّنَ حِلْيَةَ الْمَرْأَ الْمَخْطُوْبَةِ لِعَآئِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔

983 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بُوْرِكَ بِهٖ طَعَامُ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ۔

984 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَحْرَقَتْ مَعْشَرَ النَّصَارٰى مِنْ اَجْلِهِ النَّارُ الَّتِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۔

985 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَيَّنَ لِحَلِيْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا شَانَهُ الْغَنَمُ وَالْحِمَارُ۔

986 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْخِ الْيَمَنِىِّ الَّذِىْ اَعْطَاهُ الْاَشْعَارَ۔

987 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَخَرَجَ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهٖ نَخْلَةٌ عَظِيْمَةٌ۔

988 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا نَبَتَ بِهٖ رُبَاعِيَةُ اَوْلَادِ مَنْ كَسَرَ رُبَاعِيَتَهُ الْكَرِيْمَةَ۔

989 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَخْتَفِى الضَّبُّ الَّذِىْ كَانَ فِىْ بَيْتِهٖ حِيْنَ دُخُوْلِهِ الْبَيْتَ وَيَخْرُجُ حِيْنَ خُرُوْجِهٖ مِنْ بَيْتِهٖ۔


990 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ فَاطِمَةَ بِحُضُوْرِ مَوْتِهٖ۔

991 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ قَالَ اِنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِىْ لُحُوْقًا بِىْ لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَآءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا۔


992 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ سَمّٰى ابْنَ اُمِّ الْفَضْلِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الَّذِىْ جَآءَتْ بِهٖ اِلَيْهِ حِيْنَ وَلَدَتْهُ اَبَا الْاُمَرَآءِ۔

993 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ صَارَ بِهِ الْجِلْدُ حَرِيْرًا لِلْحَسَنَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا۔

994 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّهٗ يُتَوَفّٰى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ۔







وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

مَجْمُوعَةُ

فَتْحِ الرَّسُولِ ﷺ

تالیف

القطب الربانی العارف الصمدانی

السید محمد عثمان المیرغنی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو

افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم

محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادرية 19

الباکستان

0092-3335187573

فتح الرسول ﷺ

بارگاہِ نبوی ﷺ میں دُرودوسلام کی مقبول کتاب ''**فتح الرسول و مفتاح الدخول لمن اراد الوصول لحضرة الرسول** ﷺ'' قطبِ ربانی، عارفِ صمدانی، حضرت السید محمد عثمان المیر غنی رضی اللہ عنہ کی تصنیفِ مبارکہ ہے۔ سرکارِ دوعالم ﷺ نے آپ کو بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو اِس کتاب کو پڑھنے پر مداومت اختیار کرے گا اللہ تبارک وتعالیٰ اُس بندے کو فتوحات اور کمالات سے نوازدے گا۔

حضرت سیدی محمد عثمان المیر غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ''**حضر موت**'' کا ایک بزرگ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، میں نے آپ ﷺ سے عرض کی یارسول اللہ ﷺ کون سا دُرود آپ کو زیادہ پسند ہے؟ تاکہ میں اُسے پابندی سے پڑھا کروں۔ جس پر آپ ﷺ نے اِرشاد فرمایا کہ میرا پسندیدہ دُرود شریف وہ ہے جو محمد عثمان المیر غنی نے تحریر کیا ہے اور وہ اِس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ حضر موت کے یہ بزرگ اپنے شہر سے اِس مقبول شخصیت سے دُرود حاصل کرنے کیلئے نکلے اور سیدی محمد عثمان المیر غنی کی بارگاہِ اقدس میں پہنچ کر آپ سے اِس مقبول دُرودِ پاک کو حاصل کیا۔

خلیفہ عبداللہ بن اسماعیل الیمانی بیان کرتے ہیں کہ اُنہیں بروز جمعۃ المبارک 1252ھ کو خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس پر اُنہوں نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ یارسول اللہ ﷺ کون سا دُرودِ پاک آپ کو محبوب ہے؟ آقائے دوعالم ﷺ نے اِرشاد فرمایا، ''محمد عثمان المیر غنی کا دُرود ''فتح الرسول'' مجھے محبوب ہے''۔

حضرت سیدی محمد عثمان المیر غنی کے مزید 3 درج ذیل مجموعۂ دُرودوسلام بھی اِس انسائیکلوپیڈیا کی زینت بنائے جارہے ہیں۔

۱- صلاة باب الفیض والمدد

حضرت سیدی محمد عثمان المیر غنی رضی اللہ عنہ اِس دُرودِ پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اِس دُرود کو تحریر کرنے کا حکم ہوا، پھر میں نے بارگاہِ سیدِ کائنات ﷺ میں پیش ہوکر اُس کو تحریر کرنے کی ابتداء کی۔ بعد میں اِس دُرودِ پاک کو پابندی سے پڑھنے والے کیلئے اشارہ ہوا کہ اِس کے پڑھنے سے زیارت کی سعادت نصیب ہوگی۔

۲- صلاة نُور الانوار

حضرت سیدی محمد عثمان المیر غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکارِ دوعالم ﷺ پر دُرود بھیجنا سب سے بہترین تحفہ ہے، تو میں نے اِرادہ کیا کہ اپنے بھائیوں کیلئے صیغہ ہائے دُرودوسلام کی ایک تسبیح حروفِ تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے دوں تاکہ وہ اُن کے انوار وبرکات اور خیرِ کثیر سے مستفیض ہوں۔

۳- جواهر السطح

حضرت سیدی محمد عثمان المیر غنی رضی اللہ عنہ نے اِس دُرودِ پاک کو قرآنِ پاک کی سورۃ الفتح کی چند آیاتِ بینات سے ایک گلدستہ ترتیب دے کر بارگاہِ نبوی ﷺ میں پیش کیا۔

فَتْحُ الرَّسُوْلِ وَ مِفْتَاحُ الدُّخُوْلِ

لِمَنْ اَرَادَ الْوُصُوْلَ لِحَضْرَةِ الرَّسُوْلِ

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ

1 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُقَدِّمُ اِلَيْكَ بَيْنَ يَدَیْ كُلِّ نَفْسٍ وَّ لَمْحَةٍ وَّ لَحْظَةٍ وَّ طَرْفَةٍ يَّطْرِفُ بِهَآ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلُ الْاَرْضِ وَ كُلُّ شَیْءٍ هُوَ فِیْ عِلْمِكَ كَآئِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ، اُقَدِّمُ اِلَيْكَ بَيْنَ يَدَیْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: اَتَانِیْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهٗ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی، فَقُلْتُ اٰمِيْنَ۔ وَ قَالَ: مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی۔ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ۔ وَ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی۔ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا تُلِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ، وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْيَقِيْنِ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ اَتَانِیْ جِبْرِيْلُ يَوْمًا فَقَالَ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ قَدْ جِئْتُكَ بِبِشَارَةٍ لَّمْ اٰتِ بِهَآ اَحَدًا قَبْلَكَ، وَ هِیَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَقُوْلُ لَكَ: مَنْ صَلّٰی عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهٗ اِنْ كَانَ قَآئِمًا قَبْلَ اَنْ يَّقْعُدَ۔ وَ اِنْ كَانَ قَاعِدًا قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ، فَعِنْدَهَا خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِی الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْفَآئِزِيْنَ بِحِفْظِ الْمُصْحَفِ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَی الرَّاحِمِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَیَّ فَعَمِّمُوْا۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ شَرْحِ الشِّرْعَةِ، وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الشَّرَفِ وَ الرِّفْعَةِ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَی الْاٰمِرِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: اِذَا صَلّٰی اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ الثَّنَآءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَآءَ وَ يُكْثِرْ مِنْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِی الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَ لَوَامِعِ الْاَنْوَارِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْبَرَرَةِ الْاَخْيَارِ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَی الْمُذَكِّرِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: اِذَا نَسِيْتُمْ شَيْئًا فَصَلُّوْا عَلَیَّ تَذْكُرُوْهُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا كُرِّرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ أَهْلِ السِّرِّ الْمَتِيْنِ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْقَائِلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ حِيْنَ قَالَ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا إِذًا تُكْفٰى هَمُّكَ، وَ يُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سُمِعَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمَصَابِيْحِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ أَهْلِ السَّنَنِ الصَّالِحِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُنَبِّهِ لَنَا بِقَوْلِهٖ أَرْبَعٌ مِّنَ الْجَفَا: أَنْ يَّبُوْلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ، وَّ أَنْ يَّمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ أَنْ يَسْمَعَ النِّدَآءَ وَلَا يَشْهَدَ مِثْلَ مَا يَشْهَدُ الْمُؤَذِّنُ، وَ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الرُّحَمَاءِ بَيْنَهُمُ الْأَشِدَّآءِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُقَرِّبِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَقْرَبُكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا حُكِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَ النُّزْهَةِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ التَّارِكِيْنَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُشَرِّفِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَغْفِرَةٌ لِّذُنُوْبِكُمْ وَ اطْلُبُوْا لِيَ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّ وَسِيْلَتِيْ شَفَاعَةٌ لَّكُمْ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْمُهْتَدِيْنَ بِهَدْيِهِ الْمُنِيْرِ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُطَهِّرِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَّكُمْ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رَاجَعَ مُحَدِّثٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ السَّادَةِ الْأَكْرَمِيْنَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الدَّاعِيْ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا صَلّٰى عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْهَا۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا حُدِّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ كُلِّ عَشِيْرٍ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُنَبِّهِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّآءِ وَ الْيَوْمِ

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا كُرِّرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَهْلِ السِّرِّ الْمَتِيْنِ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْقَائِلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ حِيْنَ قَالَ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سُمِعَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمَصَابِيْحِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَهْلِ السَّنَنِ الصَّالِحِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمُنَبِّهِ لَنَا بِقَوْلِهٖ أَرْبَعٌ مِّنَ الْجَفَا: أَنْ يَّبُوْلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَّأَنْ يَّمْسَحَ جَبْهَتَهٗ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَسْمَعَ النِّدَآءَ وَلَا يَشْهَدَ مِثْلَ مَا يَشْهَدُ الْمُؤَذِّنُ، وَأَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهٗ فَلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الرُّحَمَآءِ بَيْنَهُمُ الْأَشِدَّآءِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمُقَرِّبِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَقْرَبُكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا حُكِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَالنُّزْهَةِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ التَّارِكِيْنَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمُشَرِّفِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَغْفِرَةٌ لِّذُنُوْبِكُمْ وَاطْلُبُوْا إِلَيَّ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيْلَةَ فَإِنَّ وَسِيْلَتِيْ شَفَاعَةٌ لَّكُمْ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمُهْتَدِيْنَ بِهَدْيِهِ الْمُنِيْرِ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمُطَهِّرِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَّكُمْ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رَاجَعَ مُحَدِّثٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْأَكْرَمِيْنَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الدَّاعِيْ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهٗ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا صَلّٰى عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهٗ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْهَا۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا حُدِّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَكُلِّ عَشِيْرٍ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمُنَبِّهِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّآءِ وَالْيَوْمِ

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُتَعَطِّفِ لَنَا بِقَوْلِهٖ : اَلصَّلَاةُ عَلَيَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ فَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ ثَمَانِيْنَ عَامًا ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ السَّآئِرِيْنَ سِيْرَةً ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُرْشِدِ لِفَضْلِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ كَمَا فِيْ كَشْفِ الْغُمَّةِ بِقَوْلِهٖ : هٰكَذَا عَدَّهُنَّ فِيْ يَدَيَّ جِبْرَآئِيْلُ، وَ قَالَ : عَدَّهُنَّ فِيْ يَدَيَّ مِيْكَآئِيْلُ، وَ قَالَ : عَدَّهُنَّ فِيْ يَدَيَّ اِسْرَافِيْلُ، وَ قَالَ : عَدَّهُنَّ فِيْ يَدَيَّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهٗ، فَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ بِهِنَّ شَهِدْتُّ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ وَ شَفَعْتُ لَهٗ ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ
عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ
عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ فِى الْجَنَّةِ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ
اِبْرَاهِيْمَ وَ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ
اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ
اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

56 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِیْ فِیْ کُلِّ کَرْبٍ، وَّ اَنْتَ رَجَآئِیْ فِیْ کُلِّ شِدَّةٍ، وَ اَنْتَ لِیْ فِیْ کُلِّ اَمْرٍ نَزَلَ بِیْ ثِقَةٌ وَّ عُدَّةٌ، فَکَمْ مِنْ کَرْبٍ قَدْ یَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِیْهِ الْحِیْلَةُ وَ یَرْغَبُ عَنْهُ الصَّدِیْقُ وَ یَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ. اَنْزَلْتُهُ بِكَ، وَ شَکَوْتُهُ اِلَیْكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَ کَشَفْتَهُ، فَاَنْتَ صَاحِبُ کُلِّ حَاجَةٍ وَّ وَلِیُّ کُلِّ نِعْمَةٍ، اَنْتَ الَّذِیْ حَفِظْتَ الْغُلَامَ بِصَلَاحِ اَبَوَیْهِ فَاحْفَظْنِیْ بِمَا حَفِظْتَهُ بِهٖ وَلَا تَجْعَلْنِیْ فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْاَلُكَ بِکُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّیْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِیْ عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ، وَ اَسْاَلُكَ بِالْاِسْمِ الْاَعْظَمِ الَّذِیْ اِذَا سُئِلْتَ بِهٖ کَانَ حَقًّا عَلَیْكَ اَنْ تُجِیْبَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَسْاَلُكَ اَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِیْ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْاَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ الَّذِیْ مَلَأَ اَرْکَانَ عَرْشِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَ قَامَتْ بِهٖ عَوَالِمُ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِی الْقَدْرِ الْعَظِیْمِ وَ عَلٰی آلِ نَبِیِّ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ فِیْ کُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ تَعْظِیْمًا لِّحَقِّكَ یَا مَوْلَانَا یَا مُحَمَّدُ یَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِیْمِ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اجْمَعْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَهٗ کَمَا جَمَعْتَ بَیْنَ الرُّوْحِ وَ النَّفْسِ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا یَقْظَةً وَّ مَنَامًا وَّ اجْعَلْهُ یَا رَبِّ رُوْحًا لِّذَاتِیْ مِنْ جَمِیْعِ الْوُجُوْهِ فِی الدُّنْیَا قَبْلَ الْاٰخِرَةِ یَا عَظِیْمُ.

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ مِّنْهُ انْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ، وَ انْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ وَ فِیْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَآئِقُ وَ تَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ آدَمَ فَاَعْجَزَ الْخَلَآئِقَ وَ لَهٗ تَضَآءَلَتِ الْفُهُوْمُ فَلَمْ یُدْرِکْهُ مِنَّا سَابِقٌ وَّ لَا لَاحِقٌ، فَرِیَاضُ الْمَلَکُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهٖ مُوْنِقَةٌ، وَ حِیَاضُ الْجَبَرُوْتِ بِفَیْضِ اَنْوَارِهٖ مُتَدَفِّقَةٌ، وَلَا شَیْءَ اِلَّا وَ هُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ، اِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ کَمَا قِیْلَ الْمَوْسُوْطُ، صَلَاةً تَلِیْقُ بِكَ مِنْكَ اِلَیْهِ کَمَا هُوَ اَهْلُهٗ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ سِرُّكَ الْجَامِعُ الدَّآلُّ عَلَیْكَ وَ حِجَابُكَ الْاَعْظَمُ الْقَآئِمُ لَكَ بَیْنَ یَدَیْكَ.

اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنِیْ بِنَسَبِهٖ وَ حَقِّقْنِیْ بِحَسَبِهٖ وَ عَرِّفْنِیْ اِیَّاهُ مَعْرِفَةً اَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَّوَارِدِ الْجَهْلِ، وَ اَکْرَعُ بِهَا مِنْ مَّوَاهِبِ الْفَضْلِ، وَ احْمِلْنِیْ عَلٰی سَبِیْلِهٖ اِلٰی حَضْرَتِكَ حَمْلًا مَّحْفُوْفًا بِنُصْرَتِكَ، وَ اقْذِفْ بِیْ عَلَی الْبَاطِلِ فَاَدْمَغَهٗ، وَ زُجَّ بِیْ فِیْ بِحَارِ الْاَحَدِیَّةِ وَ انْشُلْنِیْ مِنْ اَوْحَالِ التَّوْحِیْدِ، وَ اَغْرِقْنِیْ فِیْ عَیْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتّٰی لَاۤ اَرٰی وَلَاۤ اَسْمَعَ وَلَاۤ اَجِدَ وَلَاۤ اُحِسَّ اِلَّا بِهَا.

وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ الْحِجَابَ الْاَعْظَمَ حَیَاةَ رُوْحِیْ وَ رُوْحَهٗ سِرَّ حَقِیْقَتِیْ وَ حَقِیْقَتَهٗ جَامِعَ عَوَالِمِیْ بِتَحْقِیْقِ الْحَقِّ الْاَوَّلِ یَاۤ اَوَّلُ یَاۤ آخِرُ یَا ظَاهِرُ یَا بَاطِنُ، اِسْمَعْ نِدَآئِیْ بِمَا سَمِعْتَ بِهٖ نِدَآءَ عَبْدِكَ زَکَرِیَّآءَ، وَ انْصُرْنِیْ بِكَ لَكَ وَ اَیِّدْنِیْ بِكَ لَكَ وَ اجْمَعْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكَ وَ حُلْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ غَیْرِكَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ، {اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ} {رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَیِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا} {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِکَتَهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا} صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ وَ

تَحِيَّاتِهٖ وَ رَحْمَتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِيْبِنَا وَ شَفِيْعِنَا وَ بَشِيْرِنَا وَ سِرَاجِنَا وَ قُرَّةِ اَعْيُنِنَا وَ وَسِيْلَتِنَآ اِلٰى رَبِّنَآ اَبِي الْقَاسِمِ الْاَمِيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَعْلٰى بَرَكَةٍ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَ اٰيَاتِهٖ وَ كَلِمَاتِهٖ وَ حُرُوْفِهٖ وَ نُقَطِهٖ وَ شَكْلِهٖ وَ هَمْزِهٖ وَ سَكَنَاتِهٖ وَ مُعْجَمِهٖ وَ مُهْمَلِهٖ وَ مُفَصَّلِهٖ وَ مُجْمَلِهٖ وَ جُزْئِيَّاتِهٖ وَ كُلِّيَاتِهٖ وَ مَنْطُوْقِهٖ وَ مَفْهُوْمِهٖ وَ اِشَارَاتِهٖ وَ خَاصِّهٖ وَ عَامِّهٖ وَ نَاسِخِهٖ وَ مَنْسُوْخِهٖ وَ اَمْرِهٖ وَ نَهْيِهٖ وَ وَعْدِهٖ وَ وَعِيْدِهٖ وَ قِصَصِهٖ وَ اَمْثَالِهٖ وَ عَدَدَ مَآ اَحْصٰى وَ مِلْءَ مَآ اَحْصٰى وَ عَدَدَ الْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ وَ مَنْ رَّوَاهَا وَ الْاٰثَارِ ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ، وَ لَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ اَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَ خَزَائِنِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْاَصْلِيَّةِ، وَ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ، فَهُمْ مِنْهُ وَ اِلَيْهِ ۔ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ، اِلٰى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ اَفْنَيْتَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ، الْفَاتِحِ، الْخَاتِمِ مِيْمِ الْمَجْدِ، وَ حَآءِ الرَّحْمَةِ، وَ مِيْمِ الْمُلْكِ، وَ دَالِ الدَّوَامِ، صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِ مُلْكِكَ، بَاقِيَةً م بِبَقَآءِ عِزِّكَ، لَا يُعَادُ لَهَا شَيْءٌ دُوْنَ عِلْمِكَ، عَدَدَ مَا كَانَ، وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ، وَ عَدَدَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ مُلْكِكَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَّ سَلَامًا اَنْتَ لَهُمَآ اَهْلٌ، وَّ هُوَ لَهُمَآ اَهْلٌ، عَدَدَ مَا عَلِمْتَ، وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ، وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ، وَ اَدِمْ ذٰلِكَ اَبَدًا م بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذَالِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ م بَقِيَ، وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَآ اِنْتِهَآءَ، وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَآ اِنْقِضَآءَ، صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ، بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ عَلٰى ذٰلِكَ ۔ اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَمِلْءَ مَا عَلِمْتَ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ عَلٰى كُلِّ مَلَكٍ وَّ عَلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عَلٰى كُلِّ وَلِيٍّ عَشْرًا۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ يَا آحَدُ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اِنْسَانِ عَيْنِ الْمَمَالِكِ، وَ رُوْحِ دَوَآئِرِ الْمَدَدِ وَ الْمَسَالِكِ، ظِلِّكَ الْمَمْدُوْدِ لِكُلِّ مُقَرَّبٍ، وَّ فَيْئِكَ الْمَسْعُوْدِ لِكُلِّ مُحَبَّبٍ، سِرِّ حَقَآئِقِ الْجَمَالِ الْاَعْظَمِ، وَ نُوْرِ دَقَآئِقِ الْجَلَالِ الْاَكْرَمِ، قِبْلَةِ التَّجَلِّي الذَّاتِيِّ، وَ مَظْهَرِ النُّوْرِ الصِّفَاتِيِّ، وَ مَجْلَى الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ الْمَكْنُوْنِ، حَقِيْقَةِ الْعَرْشِ الْمَخْزُوْنِ، الْحَآئِزِ لِعِلْمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ۔ اَللّٰهُمَّ بِجَاهِهِ الْاَعْلٰى، وَ سِرِّهِ الْاَغْلٰى، اِفْتَحْ لَنَا بَابَ حَضَرَاتِهٖ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شُهُوْدِ ذَاتِهٖ، وَ قَرِّبْنَا لَدَيْهِ فِيْ كُلِّ مَشْهَدٍ، وَّ حَقِّقْنَا بِهٖ فِيْ كُلِّ مَهْبَطٍ وَّ مَصْعَدٍ، وَّ اَنِلْ آلَهٗ، وَ صَحْبَهٗ، مِمَّا اَنَلْتَهٗ مِنَ التَّسْلِيْمِ بِالتَّبَعِيَّةِ، يَا عَلِيُّ يَا حَكِيْمُ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى عَيْنِ الرَّحْمَةِ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سِرِّ الْحِكْمَةِ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى بَابِ الْحَضْرَةِ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَقْصُوْدِ النَّظْرَةِ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى طِبِّ الْاَرْوَاحِ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى قُوَّتِ الْاَشْبَاحِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى قُوَّةِ الصَّلَاحِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مُرْوِى الظَّمَا۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مُذْهِبِ الْعَمٰى۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ الْحِمَا۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مُفِيْضِ النِّتَاجِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى النُّوْرِ السِّرَاجِ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى الْبَحْرِ الثَّجَّاجِ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مُتَلَاطِمِ الْاَمْوَاجِ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نُوْرِ الْبَصَآئِرِ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَدَدِ الدَّوَآئِرِ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَطْلُوْبِ الْحَظَآئِرِ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الرَّسُوْلِ الطَّاهِرِ، وَالنَّبِىِّ الْفَاخِرِ، الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ، الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ، مُبِيْدِ الْمَنَاكِرِ، مُشَيِّدِ الْاَوَامِرِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا سُطِّرَ بِالْمَسَاطِرِ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِ الْقُلُوْبِ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمُطَّلِعِ عَلَى الْغُيُوْبِ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى حِجَابِ كُلِّ عَارِفٍ مَّحْبُوْبٍ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سِرِّ الْعَدَدِ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُمِدِّ الْمَدَدِ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ لَّا يُسَاوِيْهِ اَحَدٌ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى ذِى الْوَجْهِ الْاَقْمَرِ، وَ اللَّوْنِ الْاَزْهَرِ، وَ الرِّيْحِ الْاَعْطَرِ، وَ السَّيِّدِ الْاَكْبَرِ، حَبِيْبِكَ الْاَفْخَرِ، وَخَلِيْلِكَ الْاَطْهَرِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ السِّرِّ الْاَظْهَرِ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ بِهٖ تُقْبَلُ الْاَعْمَالُ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ بِهٖ تُصْلَحُ الْاَحْوَالُ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ بِهٖ يُحْسَنُ خِتَامُ الْاٰجَالِ۔

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَ عَلَيْكَ التُّكْلَانُ۔

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا، وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِىْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الطَّاهِرِ الْمُؤَيَّدِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ فِى الطَّرِيْقَةِ جَدَّ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوْٓءً اَوْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ۔

اَلْبَابُ الثَّانِىْ

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَىَّ

صَلاۃً۔

97 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَ قُرِیَٔ فِی الشِّفَا وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْوَفَا۔

98 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : اِنَّ اللهَ اَوْحٰی اِلٰی مُوْسٰی اِنْ اَرَدْتَّ اَنْ اَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَيْكَ مِنْ كَلَامِكَ اِلٰی لِسَانِكَ، وَمِنْ رُّوْحِكَ اِلٰی جَسَدِكَ، فَاَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ۔

99 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ اَبْصَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِی الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْمَقَامِ الْمُشَرَّفِ۔

100 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : اِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا وَّ اَعْطَاهُ اَسْمَآءَ الْخَلَآئِقِ كُلِّهَا فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا بَلَّغَنِیْ اِسْمَهٗ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذِهٖ هَدِيَّةٌ مِّنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ۔

101 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ قَرَاَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِی الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ التُّحَفِ وَ الظُّرَفِ۔

102 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : اِنَّ اللهَ وَكَّلَ عَلٰی قَبْرِیْ مَلَآئِكَةً يُّبَلِّغُوْنِیْ عَنْ اُمَّتِی السَّلَامَ۔

103 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سَطَّرَهُ ابْنُ الْجَزَرِیِّ عَلَی الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الظَّفَرِ وَ التَّمْكِيْنِ۔

104 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ اِنَّ الدُّعَآءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَیْءٌ حَتّٰی يُصَلّٰی عَلَیَّ۔

105 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِیَٔ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِی الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ الْمُكَرَّمِيْنَ الْاَحْبَابِ۔

106 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : اِنِّیْ رَاَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا فِيْمَا رَاَيْتُ رَجُلًا مِّنْ اُمَّتِیْ يَزْحَفُ عَلَی الصِّرَاطِ اَحْيَانًا وَ يُكَبُّ اَحْيَانًا، وَّ يَتَعَلَّقُ اَحْيَانًا، فَجَآءَتْهُ صَلَاتُهٗ عَلَیَّ فَاَخَذَتْ بِيَدِهٖ وَ اَقَامَتْهُ عَلٰی قَدَمَيْهِ، وَ مَضٰی عَلَی الصِّرَاطِ۔

107 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ نَّظَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِیْ رَوْضَةِ الْعُلَمَآءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ الْمُنَافِقِيْنَ فِی الْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ۔

108 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : اِنِّیْ لَقِيْتُ جِبْرِيْلَ فَبَشَّرَنِیْ وَ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰی عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُّ شُكْرًا لِلّٰهِ۔

109 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَآ اُبْصِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِی الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ

الْجَالِسِيْنَ تَحْتَ ظِلِّ لِوَآءِ حَمْدِهِ الْمَتِيْنِ۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اَوَّلُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ اَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ حَيَاةِ الْعُلُوْمِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْخِيَرَةِ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا تَقَلْقَلَ اللِّسَانُ بِهٖ فِي الْمَصَابِيْحِ بِرِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِّنْ حَلَالٍ فَاَطْعَمَ نَفْسَهٗ وَكَسَاهَا فَمَنْ دُوْنَهٗ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا لَهٗ زَكَاةٌ، وَّاَيُّمَا رَجُلٍ مُّسْلِمٍ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِيْ دُعَآئِهٖ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاِنَّهَا لَهٗ زَكَاةٌ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ التَّنْوِيْرِ۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اَيُّهَا الْمُصَلِّيْ، اُدْعُ تُجَبْ قَالَهٗ لِرَجُلٍ صَلّٰى فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَصَلّٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قَرَأَهٗ قَارِئٌ فِي الْمَصَابِيْحِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الْوَرَعِ الصَّحِيْحِ۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: جَآءَنِيْ جِبْرِيْلُ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا يُصَلِّيْ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلَّا وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قَرَأَهٗ قَارِئٌ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ دَآئِرَةِ الشَّرَفِ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ وَسُمِعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الْمَنْهَلِ الْحَلِيِّ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِيْ جِبْرِيْلُ آنِفًا وَّاَخْبَرَنِيْ عَنْ رَّبِّيْ جَلَّ جَلَالُهٗ فَقَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُّسْلِمٍ صَلّٰى عَلَيْكَ مَرَّةً وَّاحِدَةً اِلَّا صَلَّيْتُ اَنَا وَمَلَآئِكَتِيْ عَلَيْهِ عَشْرًا،

فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَإِنِّي رَجُلٌ مِّنَ الْمُرْسَلِينَ.

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي رَوْضَةِ الْعُلَمَاءِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ عَدَدَ كُلِّ سَالِكٍ.

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَآ اُبْصِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمَصَابِيْحِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ التَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحِ.

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي حَيَاةِ الْعُلُوْمِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا كُشِفَ بِبَرَكَتِهِمُ الْهُمُوْمُ.

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: صَلُّوْا عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ.

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ.

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَّكُمْ.

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَآ اُبْصِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الشَّانِ الْكَبِيْرِ.

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

133 اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى

آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سُطِّرَ فِي الشِّفَا بِسَنَدِ اَهْلِ الْبَيْتِ اَنَّهُ قَالَ : عَدَّهُنَّ فِيْ يَدَيَّ جِبْرِيْلُ وَ قَالَ هٰكَذَا نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً هُوَ اَهْلُهَا۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰهُمَّ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ، وَ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهٗ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ ۔ وَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ۔ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ ۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى صَلَاةٌ ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى بَرَكَةٌ ۔

154 اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى سَلَامٌ ۔ وَّ ارْحَمْ مُحَمَّدًا حَتّٰى لَا يَبْقٰى رَحْمَةٌ ۔

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْكُبْرٰى، وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ فِي الْآخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى كَمَا آتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْآخِرَةِ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْآخِرَةِ، وَ ارْحَمْ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْآخِرَةِ، وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْآخِرَةِ۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ حَكٰى كَعْبُ الْأَحْبَارِ تَقْسِيْمَ بَعْضِ أَسْمَآئِهٖ عَلٰى بَعْضِ الْآثَارِ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَبْدَ الْكَرِيْمِ۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ أَهْلِ النَّارِ عَبْدَ الْجَبَّارِ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ أَهْلِ الْعَرْشِ عَبْدَ الْحَمِيْدِ۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ سَائِرِ الْمَلَآئِكَةِ عَبْدَ الْمَجِيْدِ۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ سَائِرِ الْأَنْبِيَآءِ عَبْدَ الْوَهَّابِ۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ الشَّيَاطِيْنِ عَبْدَ الْقَهَّارِ۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ الْجِنِّ عَبْدَ الرَّحِيْمِ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ فِي الْجِبَالِ عَبْدَ الْخَالِقِ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ فِي الْبَرِّ عَبْدَ الْقَادِرِ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ فِي الْبَحْرِ عَبْدَ الْمُهَيْمِنِ۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ الْحِيْتَانِ عَبْدَ الْقُدُّوْسِ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ الْهَوَآمِّ عَبْدَ الْغِيَاثِ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ الْوُحُوْشِ عَبْدَ الرَّزَّاقِ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ السِّبَاعِ عَبْدَ السَّلَامِ۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ الْبَهَآئِمِ عَبْدَ الْمُؤْمِنِ۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ الطُّيُوْرِ عَبْدَ الْغَفَّارِ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى فِي التَّوْرَاةِ مُوْدْ مُوْدْ۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى فِي الْإِنْجِيْلِ طَابْ طَابْ۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى فِي الصُّحُفِ عَاقِبْ۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى فِي الزُّبُوْرِ فَارُوْقْ۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَ اللّٰهِ طٰهٰ وَ يٰسٓ۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُسَمّٰى سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عِنْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُكَنّٰى بِاَبِى الْقَاسِمِ لِقِسْمَتِهِ الْجَنَّةَ بَيْنَ اَهْلِهَا اَجْمَعِيْنَ۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ بِعَدَدِ الرِّزْقِ وَالْمَرْزُوْقِيْنَ۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّارْزُقْنَا كَمَالَ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ وَجَمِيْعَ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَ
الْمُعَافَاةِ الدَّآئِمَةِ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَدْخِلْنَا فِىْ عِبَادِكَ الشَّاكِرِيْنَ۔

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الشَّفِيْعِ الرَّحِيْمِ الْمُخْبِرِ عَنْ رَّبِّهِ الْكَرِيْمِ اَنَّ لِلّٰهِ فِىْ كُلِّ
نَفَسٍ مِائَةَ اَلْفِ فَرَجٍ قَرِيْبٍ۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقُطْبِ الْكَامِلِ، وَعَلٰى اَخِيْهِ جِبْرِيْلَ الْمُطَوَّقِ بِالنُّوْرِ۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اتَّصَلَتِ الْعُيُوْنُ بِالنَّظَرِ وَتَزَخْرَفَتِ الْاَرَضُوْنَ بِالْمَطَرِ وَ
حَجَّ حَاجٌّ، وَاعْتَمَرَ وَلَبّٰى وَحَلَقَ وَنَحَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَقَبَّلَ الْحَجَرَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ وَقَامَتْ بِهٖ عَوَالِمُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهٗ عِلْمُكَ وَاَنْ تَجْمَعَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ، كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ
الرُّوْحِ وَالنَّفْسِ، وَاَنْ تَجْعَلَهٗ يَارَبِّ رُوْحًا لِّذَاتِىْ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ فِى الدُّنْيَا قَبْلَ الْاٰخِرَةِ، يَقْظَةً وَّمَنَامًا
ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ، اٰمِيْنَ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ وَبَارِكْ وَهَبْ لَنَا
اللّٰهُمَّ مِنْ رِّزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْوَاسِعِ الْمُبَارَكِ مَا تَصُوْنُ بِهٖ وُجُوْهَنَا عَنِ التَّعَرُّضِ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ
خَلْقِكَ وَاجْعَلْ لَنَا اللّٰهُمَّ طَرِيْقًا سَهْلًا مِّنْ غَيْرِ تَعَسُّرٍ وَّلَا نَصَبٍ وَّلَا تَبِعَةٍ وَّجَنِّبْنَا اللّٰهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ
كَانَ وَاَيْنَ كَانَ وَكَيْفَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَهْلِهٖ وَاقْبِضْ عَنَّآ اَيْدِيَهُمْ وَاصْرِفْ عَنَّا
قُلُوْبَهُمْ حَتّٰى لَا نَتَقَلَّبَ اِلَّا فِيْمَا يُرْضِيْكَ وَلَا نَسْتَعِيْنَ بِنِعْمَتِكَ اِلَّا عَلٰى مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرِّكَ الْجَامِعِ الدَّالِّ عَلَيْكَ مُحَمَّدِكَ الْمُصْطَفٰى كَمَا هُوَ لَآئِقٌ بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ وَسَلِّمْ
عَلَيْهِ بِمَا هُوَ خَصِيْصٌ بِهٖ مِنَ السَّلَامِ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ صَلَاتِهٖ صِلَةً وَّعَآئِدًا، تُتَمِّمُ بِهِمَا وُجُوْدَنَا،
وَتُعَمِّمُ بِهِمَا شُهُوْدَنَا، وَتُخَصِّصُ بِهِمَا مَزِيْدَنَا، وَمِنْ سَلَامِهٖ اِسْلَامًا وَسَلَامَةً يُّنَزِّهَانِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ مِنْ شَوَآئِبِ الْاِرَادَاتِ وَالْاِخْتِيَارَاتِ، وَالتَّدْبِيْرَاتِ وَالْاِضْطِرَارَاتِ، لِنَأْتِيَكَ بِالْقَوَالِبِ
الْمُسْلِمَةِ، وَالْقُلُوْبِ السَّلِيْمَةِ، حَسْبَمَا هُوَ لَدَيْكَ مِنَ الْكَمَالِ الْاَقْدَسِ، وَالْجَمَالِ الْاَنْفَسِ۔

اَللّٰهُمَّ بِكَ تَوَسَّلْتُ، وَ مِنْكَ سَأَلْتُ، وَ فِيْكَ لَا فِيْ سِوَاكَ رَغِبْتُ، لَآ اَسْأَلُ مِنْكَ سِوَاكَ وَلَآ اَطْلُبُ مِنْكَ اِلَّآ اِيَّاكَ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِيْ قُبُوْلِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ بِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَ الْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى، وَ الرَّسُوْلِ الْمُرْتَضٰى، وَ النَّبِيِّ الْمُجْتَبٰى، وَ بِهٖ اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةً اَبَدِيَّةً دَيْمُوْمِيَّةً قَيُّوْمِيَّةً اِلٰهِيَّةً رَبَّانِيَّةً تَلِيْقُ بِمُقَدَّسِ كَمَالِهِ الْاَقْدَسِ وَ تَصْلُحُ لِكِبَرِ مَقَامِهِ الْاَنْفَسِ، وَ تُحَقِّقُ قَآئِلَهَا بِشُهُوْدِ جَمَالِهٖ وَ يُؤْنَسُ بِمَعَانٍ تَفُوْقُ اَنِيْسَ ظِبَآءِ الْحَيِّ فِي الْمَكْنَسِ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الَّذِيْنَ بِهِمْ كُلُّ فَضْلٍ تَأَسَّسَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا تَآمَّيْنِ دَآئِمَيْنِ بِدَوَامِ اللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ، وَ الصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ، التَّآمَّانِ الْاَكْمَلَانِ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي انْعَقَدَتْ لَهُ الْعِزَّةُ فِي الْاَزَلِ وَ انْسَحَبَ فَضْلُهَا اِلٰى مَا لَمْ يَزَلْ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كُلَّمَا لَهُ التَّجَلِّيْ يَتَجَدَّدُ، فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ م بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ يَا اَحَدُ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ دُلَّنِيْ بِهٖ عَلَيْكَ۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ قَرِّبْنِيْ بِبَرَكَتِهٖ اِلَيْكَ۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَوْقِفْنِيْ بِجَاهِهٖ لَدَيْكَ۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مِيْزَابِ حَضْرَتِكَ الْعِنْدِيَّةِ، سَقْفِ كَعْبَةِ كَمَالَاتِكَ الرَّبَّانِيَّةِ، حَجَرِ بَيْعَتِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ، رُكْنٍ يَمَانِيْ اَسْرَارِكَ الْفَرْدَانِيَّةِ، حِجْرِ اَمْنِكَ الَّذِيْ مَنْ دَخَلَهُ اٰمِنٌ مِنْ سَطْوَاتِكَ الرَّهَبُوْتِيَّةِ، مَقَامِ خُلَّتِكَ الَّذِيْ مَنْ غَابَ فِيْهِ لَمْ تُدْرِكْ حَقِيْقَتَهُ الْعَوَالِمُ الْخَلْقِيَّةُ، مُلْتَزَمِ الْتِزَامِكَ الَّذِيْ مَنْ تَمَسَّكَ بِهٖ اَدْرَكَ الْفَوَآئِضَ الرَّغَبُوْتِيَّةَ، مَآءِ زَمْزَمِكَ الَّذِيْ مَنْ شَرِبَ مِنْ اِفَاضَتِهِ اسْتَكْمَلَ الْاُنْسِيَّةَ۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رُكْنِكَ الْمُشَيَّدِ، وَ خَلِيْفَتِكَ الْمُؤَيَّدِ، وَ بَيْتِكَ الْوَاسِعِ لِتَجَلِّيْكَ، وَ عَرْشِكَ الْحَامِلِ لِتَوَلِّيْكَ، وَ كُرْسِيِّكَ الْقَادِرِ لِتَدَلِّيْكَ، بَاطِنِ دِيْوَانِ قُدْسِكَ الْاَعْلٰى، ظَاهِرِ دِيْوَانِ كِبْرِيَآئِكَ الْاَوْلٰى، السَّامِعِ بِكَ مِنْكَ، وَ الْاٰخِذِ لَهٗ عَنْكَ، وَ الْقَآئِمِ لَكَ فِيْكَ، وَ الطَّالِعِ لِاَعْلٰى مَرَاقِيْكَ، الدَّاخِلِ فِيْ اَعْلٰى مَجَالِيْكَ، وَ الْخَارِجِ لِمَعَالِيْكَ وَ الْغَآئِبِ فِيْ تَعَالِيْكَ، مِغْنَاطِيْسِ ظُهُوْرِ مَبَادِيْكَ، وَ يَعْسُوْبِ بُطُوْنِ تَنَاهِي الْعَظَمَةِ يَا مَلِيْكُ، اَحْمَدِكَ الْمَحْمُوْدِ لِتَوَلِّيْكَ، وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِكَ الْمَقْصُوْدِ لِتَمَلِّيْكَ۔

اَللّٰهُمَّ بِبَدْئِهٖ وَ اِنْتِهَاهُ اَوْرِدْنَا حِمَاهُ، وَ اسْقِنَا مِنْ مُحَيَّاهُ، وَ تَوَلَّنَا بِمَا بِهِ اسْمُكَ الرَّحِيْمُ تَوَلَّاهُ، وَ اَتْبِعْ اٰلَهٗ وَ صَحْبَهٗ فِي الصَّلَاةِ يَا مَوْلَاهُ اٰمِيْنَ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمَعْصُوْمِ مِنَ الْاَدْنَاسِ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمَحْفُوْظِ مِنْ مُّلَاحَظَةِ الْاَرْجَاسِ۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُمِدِّ جَمِيْعِ النَّاسِ۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سِرِّ الْاَسَاسِ۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى النُّوْرِ الْغَطَّاسِ۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى خَيْرِ مَنْ دَعَآ اِلٰى جَنَابِكَ، وَصَارَ اِلٰى رِحَابِكَ وَاَدْخَلَ الْخَوَاصَّ مِنْ م بَابِكَ، سَيِّدِ الْاَشْرَافِ الظِّرَافِ، وَسَنَدِ السَّادَاتِ الْعِفَافِ، وَاَكْرَمِ مَنْ قَامَ بِالْاِنْصَافِ، الْمَوْصُوْفِ فِيْ سُوْرَةِ الْاَعْرَافِ۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى اِمَامِ الدُّعَاةِ وَمُمِدِّ الْقَادَاتِ۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى غَيْثِ السَّادَاتِ وَغَوْثِ اَهْلِ الْعَظَمَاتِ۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ، وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ م بِنَا صِيَتِهٖ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَّ اَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَّ اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَّ اَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِيْ لِاَكْمَلِ الرُّسُلِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَمَنْ مَّنْصِبُ فَيْضِهٖ يَعْلُوْ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ۔

اَلْبَابُ الثَّالِثُ

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ، وَّمَغْفِرَةٌ لِّذُنُوْبِكُمْ۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سَمِعَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ حَيَاةِ الْعُلُوْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الْفَضْلِ الْمَعْلُوْمِ۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ صَلُّوْا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَآءِ وَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ اَبْصَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمُقَرَّبِيْنَ اِلَى اللّٰهِ الْكَبِيْرِ۔

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: صَلُّوْا عَلَيَّ وَعَلٰى اَنْبِيَآءِ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِيْ۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلَى النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ عَدَدَ مَا نُظِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ
الصَّغِيْرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : صَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّيْنَ اِذَا ذَكَرْتُمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ قَدْ بُعِثُوْا كَمَا
بُعِثْتُ۔

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلَى النَّبِيِّيْنَ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ الْمُبِيْنُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَ
عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الظَّفَرِ وَ التَّمْكِيْنِ۔

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّيْ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ، فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُه،
وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُه، قَالَه، لِرَجُلٍ صَلّٰى فَدَعَا لِنَفْسِه۔

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سَمِعَهُ اَحَدٌ فِي الْمَصَابِيْحِ عَنْ فُضَالَةَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ ذَوِي
الْجَلَالَةِ۔

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا ذُكِرَتْ هٰذِهِ الصَّلَاةُ فِيْ مَشَارِقِ الْاَنْوَارِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَّضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمُتَلَقِّيْنَ مِنْهُ۔

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى
اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ، كَمَا
بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَتْ هٰذِهِ الصَّلَاةُ فِيْ مَشَارِقِ الْاَنْوَارِ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ نِ
السَّاعِدِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ عَدَدَ كُلِّ رَاكِعٍ وَّ سَاجِدٍ۔

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : كُلُّ دُعَاءٍ مَّحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى
اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا اُبْصِرَ هٰذَا الْخَبَرُ الْمُبِيْنُ، وَ قُرِئَ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، كَمَا قَالَهُ
عَلِيٌّ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْهُ۔

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ كُلُّ كَلَامٍ لَّا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ فَيُبْدَاُ بِهٖ وَ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَهُوَ اَقْطَعُ
مَمْحُوْقٌ مِّنْ كُلِّ بَرَكَةٍ۔

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا ذَكَرَ جَدِّي الْمِيرْ غَنِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْمَشَارِقِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ الْحِزْبِ الْفَائِقِ۔

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: لَوْ اَنَّ عَبْدًا جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ اَهْلِ الدُّنْيَا، وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهَا الصَّلَاةُ عَلَيَّ رُدَّتْ عَلٰى صَاحِبِهَا وَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ۔

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ التُّحَفِ وَ الظُّرَفِ۔

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: لَيْسَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ اَحَدٌ يَّوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ۔

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ اَبْصَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ التَّمْكِيْنِ۔

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ مَجْلِسٍ وَّلَمْ يُصَلُّوْا عَلَيَّ اِلٰى اَنْ تَفَرَّقُوْا اِلَّا كَقَوْمٍ تَفَرَّقُوْا عَنْ مَّيِّتٍ وَّلَمْ يُغَسِّلُوْهُ۔

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْحَائِزِيْنَ لِلشَّرَفِ۔

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا ثُمَّ تَفَرَّقُوْا مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَّا تَفَرَّقُوْا عَلٰى اَنْتَنِ مِنْ رِّيْحِ الْجِيْفَةِ۔

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ رَّاٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الزَّاهِرِ وَ قَرَاهُ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَنْ نَّظَرَهُ وَ دَرَاهُ۔

229 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا لَا يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَّا كَانَ حَسْرَةً وَّاِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ۔

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا تُلِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ رَوْضَةِ الْعُلَمَآءِ وَ الشِّفَا، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَا بَرَقَ بَرْقٌ وَّ رَفْرَفَا۔

231 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا لَّمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ، وَ لَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ۔

232 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ اَبْصَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاَخْيَارِ الرَّاضِيْنَ۔

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَا مِنْ اَحَدٍ يُّسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ

السَّلَامُ۔

234 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ تَلَفَّظَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِي الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ عَدَدَ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَكَانَ لَهٗ نَصِيْرٌ۔

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَا مِنْ دُعَآءٍ اِلَّا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ، فَاِذَا فُعِلَ ذٰلِكَ انْخَرَقَ ذَالِكَ الْحِجَابُ وَدَخَلَ الدُّعَآءُ، وَاِنْ لَّمْ يُفْعَلْ ذٰلِكَ يَرْجِعُ الدُّعَآءُ۔

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ رَّاٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ فِيْ رَوْضَةِ الْعُلَمَآءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ النُّجُوْمِ الثَّوَاقِبِ۔

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ رُّوِىَ عَنْهُ فِي الشِّفَا اَنَّهٗ قَالَ وَهُوَ سَيِّدُ اَهْلِ الْوَفَا: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَآ اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَّبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

239 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

240 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّاٰلَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

242 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ۔

244 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

245 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَآلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَآلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ تَرَحَّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ۔

246 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِهٖ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ ارْحَمْ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ۔

247 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ، وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ۔

248 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ ذُرِّیَّتِهٖ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

249 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ، کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

250 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَھْلِ بَیْتِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ وَ مُحِبِّیْهِ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَشْیَاعِهٖ وَ عَلَیْنَا مَعَھُمْ اَجْمَعِیْنَ، یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

251 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مَلَآئِکَتِكَ الْمُقَرَّبِیْنَ، وَ عَلٰی اَنْبِیَآئِكَ الْمُطَهَّرِیْنَ، وَ عَلٰی رُسُلِكَ الْمُرْسَلِیْنَ، وَ عَلٰی حَمَلَةِ عَرْشِكَ، وَ عَلٰی جِبْرِیْلَ وَ مِیْکَآئِیْلَ، وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ رِضْوَانَ خَازِنِ الْجَنَّةِ، وَ مَالِكٍ خَازِنِ النَّارِ، وَ رُوْمَانَ وَ مُنْکَرٍ وَّ نَکِیْرٍ، وَّ صَلِّ عَلَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِیْنَ، وَ صَلِّ عَلٰی اَھْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِیْنَ مِنْ اَھْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَھْلِ الْاَرْضِیْنَ۔

252 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِهٖ عَدَدَ نَعْمَآءِ اللهِ الْکَرِیْمِ وَ اَفْضَالِهٖ۔

253 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی فَاتِحِ الذِّرْوَةِ الْکُلِّیَّةِ الرَّبَّانِیَّةِ الْاِلٰهِیَّةِ الْقُدْسِیَّةِ بِالْخَوَاتِیْمِ الْعَنْبَرِیَّةِ النَّدِیَّةِ الْمِسْکِیَّةِ الْخَاصَّةِ الْعَامَّةِ الْمُحَمَّدِیَّةِ الْکَامِلَةِ الْمُکَمَّلَةِ الْاَحْمَدِیَّةِ۔

254 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ اَنْتَ بِکَلِمَاتِكَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّهْبَطِ التَّفْصِیْلِ الْاَلِفِ الْجَامِعِ شَتَّاتِ الْعَوَالِمِ اِلٰی مَظْهَرِ قَرَارِ الْحَقِّ بُغْیَةِ کُلِّ نِهَایَةٍ، وَّ مُرَادِ کُلِّ بِدَایَةٍ صَلَاةً یَّغْمُرُ مَزِیْدُھَا کُلَّ ثَوَابٍ وَّ جَزَآءٍ اِلٰی اَبَدِیَّةِ عِلْمِكَ۔

255 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۢ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَکَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْکِكَ، وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ، وَ طَرِیْقِ شَرِیْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِیْدِكَ اِنْسَانِ عَیْنِ

الْوُجُوْدِ، وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ، الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ وَ رِفْقِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

256 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَزِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا فِيْ عِلْمِكَ عَدَدَ جَوَاهِرِ اَفْرَادِ كُرَّةِ الْعَالَمِ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

257 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَآمَّةً وَّسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامًا تَآمًّا صَلَاةً اَنَالُ بِبَرَكَتِهَا حُسْنَ الْخَوَاتِمِ فِيْ كُلِّ عَمَلٍ مُّقَرَّبٍ۔

258 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَنَالُ بِبَرَكَتِهَا حُسْنَ الْخِتَامِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ السَّلَامُ۔

259 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سِرِّ عِنَايَتِكَ، وَ نُوْرِ رِعَايَتِكَ، وَ مَظْهَرِ هِدَايَتِكَ، وَ بَابِ حَضَرَاتِكَ، وَ مَقْصُوْدِ نَظَرَاتِكَ، وَ مَطْلُوْبِ تَجَلِّيَاتِكَ، الْقَآئِمِ بِاَوَامِرِكَ الْعَلِيَّةِ، وَ السَّاعِيْ فِيْ مَرْضَاتِكَ الْبَهِيَّةِ، وَ النَّاصِرِ لِدِيْنِكَ بِكَ وَ الْعَاضِدِ لِشَرِيْعَتِكَ، حَبِيْبِكَ الرَّاضِيْ لِرِضَآئِكَ، وَ الْغَاضِبِ لِغَضَبِكَ، الدَّآلِّ عَلٰى جَنَابِكَ، وَ الدَّاعِيْ اِلٰى رِحَابِكَ، مَنْ هُوَ عَيْنُ بَابِكَ، وَ حَبِيْبُ اَحْبَابِكَ، وَ اَنِيْسُ طُلَّابِكَ، وَ خَلِيْلُ اَلْبَابِكَ، مُصْطَفَاكَ لِعُلَاكَ، وَ مُجْتَبَاكَ لِسَنَاكَ، وَ مُنْتَقَاكَ لِرِضَاكَ۔

اَللّٰهُمَّ بِعِنَايَتِهٖ حُفَّنَا، وَ بِرِعَايَتِهٖ خُصَّنَا، وَ بِفِنَآئِهٖ اَنْزِلْنَا، وَ عَلٰى قَدَمِهٖ ثَبِّتْنَا، وَ اِلٰى غَيْرِكَ لَا تَكِلْنَا، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خُلَاصَةِ الْاَكْوَانِ، مِنْ م بَعْدِهٖ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّتَعَاقَبَانِ عَلٰى مَمَرِّ الْجَدِيْدَانِ يَآ اَللّٰهُ يَا وَلِيُّ يَا رَحْمٰنُ۔

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سِرِّ الْقُرْبِ۔

261 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى بَابِ الْحُبِّ۔

262 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى طِبِّ الْاَفْئِدَةِ۔

263 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُمِدِّ الْمَآئِدَةِ۔

264 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى ظِلِّ الْاَنْوَارِ الْعَلِيَّةِ۔

265 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى فَيْئِ النَّيِّرَاتِ الْبَهِيَّةِ۔

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى شَمْسِ الْحَقَآئِقِ۔

267 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى قَمَرِ الرَّقَآئِقِ۔

268 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى النَّجْمِ الثَّاقِبِ۔

269 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الرَّاقِيْ فِيْ اَعْلَى الْمَرَاتِبِ۔

270 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْبَرْقِ الْخَاطِفِ۔

271 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الرَّعْدِ الْقَاصِفِ۔

272 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ كُلِّ عَارِفٍ۔

273 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُمِدِّ كُلِّ غَارِفٍ۔

274 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيْبِنَا، وَقُرَّةِ اَعْيُنِنَا وَ ثَمَرَةِ فُؤَادِنَا، وَنُوْرِ قُلُوْبِنَا، وَسِرِّ سَرَآئِرِنَا، وَفَهْمِ عُقُوْلِنَا، وَبَاصِرِ بَصِيْرَتِنَا وَبَصَرِ بَصَرِنَا۔

اَللّٰھُمَّ بَصِّرْنَا لَهٗ بِهٖ، وَاَسْمِعْنَا مِنْهُ عَنْهُ، وَاَفْنِنَا فِيْ جَمَالِهٖ، وَغَيِّبْنَا بِجَلَالِهٖ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَحْبِهٖ وَآلِهٖ۔

275 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى اللَّبِيْبِ الْاَعْلٰى۔

276 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الطَّبِيْبِ الْاَغْلٰى۔

277 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيْبِ الْاَوْلٰى۔

278 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَعْدِ الْعَالَمِيْنَ۔

279 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ۔

اَلْبَابُ الرَّابِعُ

280 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ فِيْ حَقِّهِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ اَمْحَقُ لِلذُّنُوْبِ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ لِلنَّارِ، وَ السَّلَامُ عَلَيَّ اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ۔

281 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الشِّفَا، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الْوَفَا۔

282 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ فِيْ جَنَابِهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْحَقُ لِلذُّنُوْبِ مِنَ الْمَآءِ۔

283 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَتَكَرَّمْ وَ تَعَطَّفْ۔

284 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْقَائِلِ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ: اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تُصَافِحَنِيْ غَدًا تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ فَصَلِّ عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ۔

285 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا تُلِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ حَيَاةِ الْعُلُوْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمَصَابِيْحِ النُّجُوْمِ۔

286 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْجَاذِبِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: اِنَّ اَقْرَبَكُمْ مِنِّيْ مَنْزِلَةً اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً۔

287 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الَّذِيْنَ هُمْ لِلّٰهِ اَخْوَفُ۔

288 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُبَشِّرِ لَنَا بِقَوْلِهٖ اِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِيْ: اَلَا اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ۔

289 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْمُلَازِمِيْنَ لِلْعُكُوْفِ۔

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : اِنَّ لِلّٰهِ الْمَلَائِكَةَ سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِي السَّلَامَ۔

291 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمَصَابِيْحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۔

292 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُخْبِرِ لَنَا بِقَوْلِهٖ: اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنَنِي الصَّلَاةَ عَلَيَّ مِنْ اُمَّتِيْ فَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ۔

293 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْفَائِزِيْنَ بِالتُّحَفِ۔

294 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً فِي الْهَوَاءِ بِاَيْدِيْهِمْ قَرَاطِيْسُ مِنْ نُّوْرٍ، وَّ اَقْلَامٌ مِّنْ نُّوْرٍ، لَّا يَكْتُبُوْنَ اِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِيْ۔

295 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا قِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خَيْرِ مَنْ اَنْصَفَ۔

296 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً م بِاَيْدِيْهِمْ قَرَاطِيْسُ كُلُّهَا مِنْ فِضَّةٍ، وَّ اَقْلَامٌ كُلُّهَا مِنْ ذَهَبٍ، لَّا يَكْتُبُوْنَ اِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِيْ۔

297 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدِّ مَا قِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خَيْرِ مَنْ اَنْصَفَ۔

298 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاقْتِلَاعِ مَدِيْنَةٍ غَضِبَ عَلٰى اَهْلِهَا فَرَحِمَهُمْ ذٰلِكَ الْمَلَكُ وَ لَمْ يُبَادِرْ اِلَى اقْتِلَاعِهَا فَغَضِبَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ كَسَّرَ اَجْنِحَتَهٗ، فَمَرَّ بِهٖ جِبْرِيْلُ فَشَكٰى اِلَيْهِ حَالَهٗ فَسَاَلَ اللّٰهَ فَاَمَرَهٗ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَصَلّٰى، فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَ رَدَّ

عَلَيْهِ اَجْنِحَتَهُ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

299 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدِّ مَا سُمِعَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِى الْمُسْتَطْرَفِ وَ الشِّفَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاَتْقِيَاءِ الشُّرَفَا۔

300 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِيْهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالُوْا وَ كَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ، وَ قَدْ اَرِمْتَ اَىْ بَلِيْتَ قَالَ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ۔

301 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِىْ لَوَامِعِ الْاَنْوَارِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الصَّفْوَةِ الْاَخْيَارِ۔

302 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : اِنَّ هٰذَا مِنَ الْعِلْمِ الْمَكْنُوْنِ لَوْ لَا اَنَّكُمْ سَاَلْتُمُوْنِىْ مَا اَخْبَرْتُكُمْ بِهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى وَ كَّلَ بِىْ مَلَكَيْنِ فَلَا اُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ فَيُصَلِّىْ عَلَيَّ اِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى وَ مَلَآئِكَتُهُ جَوَابًا لِّذَيْنِكَ الْمَلَكَيْنِ آمِيْنَ۔

303 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدِّ مَا ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِىْ رَوْضَةِ الْعُلَمَاءِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ كُلِّ مَنْ اِلَيْهِ انْتَمٰى۔

304 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : اِنَّهُ جَآءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ لَكَ : اَمَا يُرْضِيْكَ اَنْ لَّا يُصَلِّىَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَّ لَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

305 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدِّ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِى الْمَصَابِيْحِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْوَرَعِ الصَّحِيْحِ۔

306 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : مَا مِنْ مُّسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ وَ يَتَصَافَحَانِ وَ يُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِىِّ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَنْصَرِفَا حَتّٰى يُغْفَرَ لَهُمَا ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ وَ مَا تَاَخَّرَ۔

307 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِىْ رَوْضَةِ الْعُلَمَا، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ خَصِّصْ وَ عَمِّمَا۔

308 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يُّسَلِّمُ عَلَيَّ اِذَا مُتُّ اِلَّا جَآءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَيَقُوْلُ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُّقْرِئُكَ السَّلَامَ، فَاَقُوْلُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ۔

309 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا كُرِّرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِىْ تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ

الرَّاكِعِيْنَ السَّاجِدِيْنَ۔

310 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مِنَ الْجَفَآ اَنْ اُذْكَرَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ۔

311 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا تُكُلِّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِي الزَّاهِرِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَكُلِّ مُهَاجِرٍ۔

312 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ جَعَلَ جَمِيْعَ دُعَآئِهِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ حَوَآئِجَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ۔

313 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا حُكِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الْجَاهِ وَ الشَّرَفِ۔

314 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ ذَكَرَنِيْ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ۔

315 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْخَاشِعِيْنَ لِلْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ۔

316 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

317 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا كُشِفَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْفِكْرَةِ وَالتَّبْصِيْرِ۔

318 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَاَخْطَأَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَقَدْ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ۔

319 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا ثَبَتَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَّ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ عَلٰى نَهْجِهٖ يَسِيْرُ۔

320 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

321 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ، وَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ، عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، اِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا، يَّغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْآخِرُوْنَ۔

322 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَبْلِغْهُ الْوَسِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ مَوَدَّتَهُ، وَفِيْ اَعْلَى عِلِّيِّيْنَ ذِكْرَهُ وَدَارَهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، {رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

323 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

324 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

325 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

326 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

327 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

328 صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالٰى وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

329 اَلسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلٰى اَنْبِيَآءِ اللهِ وَ رُسُلِهٖ، اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مَنْ غَابَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَهِدَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ، وَ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ مَا وَلَدَا وَ ارْحَمْهُمَا، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

330 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

331 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ، وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ

اَقصَى الغَايَاتِ، مِنْ جَمِيعِ الخَيرَاتِ، فِي الحَيَاةِ وَ بَعْدَ المَمَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا۔

332 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ، وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِيْنَ، وَ

333 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ، وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِيْنَ، وَ عَلٰى صَحَابَتِهٖ وَ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ صَلَاةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ، وَّ هُوَ لَهَا اَهْلٌ، بَاقِيَةً اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ، وَ عَدَدَ كَمَالِهٖ، اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اَبَدَ الْآبِدِيْنَ، وَ دَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ، وَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ وَّ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ، لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ۔

334 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَ دَوَآئِهَا وَ عَافِيَةِ الْاَبْدَانِ وَ شِفَآئِهَا، وَ نُوْرِ الْاَبْصَارِ وَ ضِيَآئِهَا، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

335 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً، وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً۔

336 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سُلَّمِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، الْمُنْطَوِيَةِ فِي الْحُرُوْفِ الْقُرْآنِيَّةِ، مَهْبَطِ الدَّقَائِقِ الرَّبَّانِيَّةِ النَّازِلَةِ مِنَ الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ الْمُفَصَّلَةِ بِالْاَنْوَارِ الْمُتَجَلِّيَةِ، فِيْ لُبَابِ بَوَاطِنِ الْحُرُوْفِ الْقُرْآنِيَّةِ الصِّفَاتِيَّةِ فَهُوَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، مَرْكَزُ حَقَائِقِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، مُفِيْضُ الْاَنْوَارِ اِلٰى حَضَرَاتِهِمْ مِنْ حَضْرَتِهِ الْمَخْصُوْصَةِ الْخَتْمِيَّةِ، شَارِبُ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ، مِنْ م بَاطِنِ بَوَاطِنِ الْكِبْرِيَاءِ، مُوْصِلُ الْخُصُوْصِيَّاتِ الْاِلٰهِيَّةِ اِلٰى اَهْلِ الْاِصْطِفَاءِ، مَرْكَزُ دَائِرَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْاَوْلِيَاءِ، مُنْزِلُ النُّوْرِ بِالنُّوْرِ، الْمُشَاهِدُ بِالذَّاتِ، الْمُكَاشِفُ بِالصِّفَاتِ، الْعَارِفُ بِظُهُوْرِ تَجَلِّي الذَّاتِ، فِي الْاَسْمَاءِ وَ الصِّفَاتِ، الْعَارِفُ بِظُهُوْرِ تَجَلِّي الْقُرْآنِ الذَّاتِيِّ فِي الْفُرْقَانِ الصِّفَاتِيِّ، فَمِنْ هُنَا ظَهَرَتِ الْوَحْدَتَانِ الْمُتَعَاكِسَتَانِ، الْحَاوِيَتَانِ عَلَى الطَّرَفَيْنِ۔

337 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللَّطِيْفَةِ الْقُدْسِيَّةِ، الْمَكْسُوَّةِ بِالْاَكْسِيَةِ النُّوْرَانِيَّةِ، السَّارِيَةِ فِي الْمَرَاتِبِ الْاِلٰهِيَّةِ، الْمُتَكَمِّلَةِ بِالْاَسْمَاءِ وَ الصِّفَاتِ الْاَزَلِيَّةِ، الْمُفِيْضَةِ اَنْوَارَهَا عَلَى الْاَرْوَاحِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، الْمُتَوَجِّهَةِ اِلَى الْحَقَائِقِ الْحَقِيْقِيَّةِ، النَّافِيَةِ لِظُلُمَاتِ الْاَكْوَانِ الْعَدَمِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ۔

338 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْكَاشِفِ عَنِ الْمُسَمّٰى بِالْوَحْدَةِ الذَّاتِيَّةِ۔

339 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْاِجْمَالِ الذَّاتِيِّ الْقُرْآنِيِّ، حَاوِي التَّفْصِيْلِ الصِّفَاتِيِّ الْفُرْقَانِيِّ۔

340 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصُّوْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَآءِ قُدْسِ غَيْبِ الْهُوِيَّةِ الْبَاطِنِ الْفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا الْاِلٰهِيِّ لِاَبْوَابِ الْوُجُوْدِ الْقَائِمِ بِهَا مِنْ مَّطْلَعِ ظُهُوْرِهَا الْقَدِيْمِ اِلٰى

اسْتِوَآءِ اِظْهَارِهَا لِلْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ۔

341 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حَقِيْقَةِ الصَّلَاةِ، وَرُوْحِ الْكَلِمَاتِ، قِوَامِ الْمَعَانِي الذَّاتِيَّاتِ، وَ حَقِيْقَةِ الْاَحْرُفِ الْقُدْسِيَّاتِ، وَصُوْرَةِ الْحَقَآئِقِ الْفُرْقَانِيَّاتِ التَّفْصِيْلِيَّاتِ۔

342 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَمْعِيَّةِ الْبَرْزَخِيَّةِ، الْكَاشِفَةِ عَنِ الْعَالَمِيْنَ، الْهَادِيْ بِهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً، لِّكُلِّ قَلْبٍ مُّنِيْبٍ، اِلٰى صِرَاطِهَا الرَّبَّانِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ، فِي الْحَضْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ۔

343 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّوْصِلِ الْاَرْوَاحِ بَعْدَ عَدَمِهَآ اِلٰى نِهَايَةِ غَايَةِ الْوُجُوْدِ وَ النُّوْرِ۔

344 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ الْاَرْوَاحِ الْاَزَلِيَّةِ، فِي الْمَدَارِجِ الظُّهُوْرِيَّةِ۔

345 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، الْجَاذِبَةِ لِلْاَرْوَاحِ الْمَعْنَوِيَّةِ۔

346 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْوُجُوْدِيَّةِ، الذَّاهِبَةِ لِظُلُمَاتِ الطَّبَآئِعِ الْحِسِّيَّةِ وَ الْمَعْنَوِيَّةِ۔

347 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّسْتَقَرِّ بُرُوْزِ الْمَعَانِي الرَّحْمَانِيَّةِ، مِنْهَا خَرَجَتِ الْخُلَّةُ الْاِبْرَاهِيْمِيَّةُ، وَمِنْهَا حَصَلَ النِّدَآءُ بِالْمَعَانِي الْقُدْسِيَّةِ، لِلْحَقِيْقَةِ الْمُوْسَوِيَّةِ۔

348 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ جَعَلْتَ وُجُوْدَكَ الْبَاقِيْ، عِوَضًا عَنْ وُجُوْدِهِ النَّامِيْ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

349 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْمِلَاحِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لَيْسَ لِسَآئِرِ الْمُحِبِّيْنَ عَنْ ظِلِّهٖ بَرَاحٌ، وَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تُطِيْرُ اِلَيْهِ الْعُشَّاقُ مِنْ غَيْرِ جَنَاحٍ، وَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُسَمّٰى دِرْعُهُ ذَاتَ الْوِشَاحِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْاَلُكَ بِاَنِّيْٓ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔

اَللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى حَبِيْبِكَ الْاَكْرَمِ، وَ نَبِيِّكَ الْاَعْظَمِ، وَ رَسُوْلِكَ الْاَفْخَمِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ وَ عَلٰى كُلِّ لَآئِذٍ بِعَالِيْ جَنَابِهٖ، وَاجْمَعْنِيْ عَلَيْهِ فِيْ مَشَاهِدِ قُدْسِهٖ، وَ مَعَاهِدِ اُنْسِهٖ۔

350 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ۔

351 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

352 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهٗ۔

353 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ۔

354 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ۔

355 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ۔

356 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

357 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَبِيْنَآ اِبْرَاهِيْمَ۔

358 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ، وَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ۔

359 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُوْلِ الْاَمِيْنِ، الَّذِىْ قَالَ فِىْ حَقِّهِ الْمَلِكُ الْمُبِيْنُ : { وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ } عَدَدَ مَنْ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

360 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رُوْحِ الْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَ كَثِيْبِ تَجَلِّى الْمُنَةِ الْاَسْمٰى، حِجَابِ حِجَابِ صَوْنِ الْاَحْمٰى، وَ بُرْقُعِ جَمَالِ الْوَجْهِ الْمَصُوْنِ الْمُقَدَّسِ، وَ نِقَابِ جَلَالِ الْعَظَمَةِ الْاَقْدَسِ، اُسِّ جِدَارِ عَوَالِمِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ، وَ اَصْلِ مَدَارِ مَبْنَى الْجَبَرُوْتِ وَ الرَّحَمُوْتِ نُقْطَةِ حَضْرَةِ اللَّاهُوْتِ، وَ سِرِّ خَلْقِ النَّاسُوْتِ، قُوَّةِ قُوَّةِ الْبَهَمُوْتِ، اَمِيْنِ الرَّغَبُوْتِ وَ الرَّهَبُوْتِ۔

اَللّٰهُمَّ بِسِرِّهِ الْجَامِعِ، وَ نُوْرِهِ السَّاطِعِ، هَبْنَا لَهُ مِنْ مَّحْضِ النَّوَالِ، وَ اعْطِنَآ اِيَّاهُ مِنْ فَضْلِ الْاَفْضَالِ، وَ اجْعَلْنَا وَ اِيَّاهُ مِنْ عَظِيْمِ الْاِقْبَالِ، وَ اَتْبِعْ آلَهُ وَ صَحْبَهُ فِىْ هٰذَا الْمَجَالِ، يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ۔

361 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا وَقَفَ بِبَابِهٖ وَاقِفٌ۔

362 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَكَفَ عَلٰى جَنَابِهٖ عَاكِفٌ۔

363 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَاذَ بِهٖ خَآئِفٌ۔

364 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَمِعَ فِىْ فَضْلِهٖ عَارِفٌ۔

365 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَلَبَ لِسَبِيْلِهٖ غَارِفٌ۔

366 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اَعْذَبَ لِشَرْعِهٖ آلِفٌ۔

367 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّطْلَقِ الْخُصُوْصِ، وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ وَ بَحْرِ النُّصُوْصِ، جَوْهَرِ الْفُصُوْصِ، وَ عَيْنِ كُلِّ مَنْ هُوَ فِى الْحَضْرَةِ مَنْصُوْصٌ، اِمَامِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ هُمَامِ اَكَابِرِ الْعُظَمَآءِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ سَاقِى الْاَعْيَانِ، مِنْ حَضْرَةِ الْمَنَّانِ، وَ مُرَقِّى الْاَكَابِرِ، اِلٰى طُلُوْعِ الْمَنَابِرِ، اَللّٰهُمَّ بِتَرَقِّيْهِ رَقِّنَا، وَ مِنْ يَّدَيْهِ اسْقِنَا، وَ بِهَدْيِهٖ اِهْدِنَا، وَ بِبِرِّهٖ عَنِ الْمَعَاصِى احْمِنَا، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مِنْ م بَعْدِهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ، مَا مُحِىَ بِبَرَكَتِهٖ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْاٰثَامُ، آمِيْنَ يَا كَرِيْمُ يَا عَظِيْمُ، يَامَنْ هُوَ لِلْغُيُوْبِ

عَلَّامٍ۔

368 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ الْخَلَآئِقِ۔

369 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَحْرِ الرَّآئِقِ۔

370 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَرْقِ اللَّامِعِ۔

371 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ السَّاطِعِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَآ اَمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ، وَتَرُدُّ بِهَآ اُلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَآءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَآءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَآءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَآءِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِيْ لِمُصْطَفَاكَ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ عُلَاكَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَّفِيْ عَيْنِيْ نُوْرًا، وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا، وَّعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَّمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَّمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَّاجْعَلْ لِيْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّظَلَمْتُ نَفْسِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ۔

اَلْبَابُ الْخَامِسُ

372 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ۔

373 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ التَّبْصِيْرِ۔

374 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَآ اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

375 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمَصَابِيْحِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ ذَوِي الْمَنْهَجِ الصَّحِيْحِ، النَّاجِيْنَ فِي الْيَوْمِ الْفَضِيْحِ۔

376 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللهَ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِائَةِ مَرَّةٍ لَّمْ يَفْتَقِرْ اَبَدًا، وَهُدِمَتْ ذُنُوْبُهٗ وَمُحِيَتْ خَطَايَاهُ، وَدَامَ سُرُوْرُهٗ، وَاسْتُجِيْبَ دُعَاؤُهٗ، وَاُعْطِيَ اَمَلَهٗ، وَاُعِيْنَ عَلٰى عَدُوِّهٖ، وَعَلٰى اَسْبَابِ الْخَيْرِ، وَكَانَ مِمَّنْ يُّرَافِقُ نَبِيَّهٗ فِيْ

الْجِنَانِ۔

377 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ النَّآئِلِیْنَ الشَّرَفِ۔

378 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ عَشْرًا فَكَاَنَّمَآ اَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنَ النَّارِ۔

379 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ وَ تَمِّمْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِي الشِّفَا، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْوَفَا۔

380 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ وَ تَمِّمْ عَلٰی مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ عَشْرًا۔

381 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِي الْمَشَارِقِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ ذَوِی الْقَدَمِ السَّابِقِ۔

382 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ وَ تَمِّمْ عَلٰی مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَّ حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیْئَاتٍ وَّ رُفِعَتْ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ۔

383 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِیْرِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ الْفَآئِزِیْنَ بِالْفَخْرِ الْكَبِیْرِ۔

384 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ صَلَاةً وَّاحِدَةً اَمَرَ اللّٰهُ حَافِظَیْهِ اَنْ لَّا یَكْتُبَا عَلَیْهِ ذَنْبًا ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ۔

385 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ عَلَیْهِ بِعَدَدِ مَنْ اَبْصَرَ هٰذَا الْحَدِیْثَ فِي الزَّاهِرِ وَ الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ اَهْلِ الْبِرِّ وَ التُّحَفِ۔

386 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ مَرَّةً وَّاحِدَةً خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ قَوْلِهٖ مَلَكًا لَّهٗ، جَنَاحَانِ، جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ، وَ جَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ، وَ رَأْسُهٗ وَ عُنُقُهٗ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ هُوَ یَقُوْلُ: اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی عَبْدِكَ، مَا دَامَ یُصَلِّيْ عَلٰی نَبِیِّكَ۔

387 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ بِعَدَدِ مَنْ نَّظَرَ هٰذَا الْحَدِیْثَ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ كُلِّ آیَةٍ فِي الْمُصْحَفِ۔

388 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ عَشْرًا، وَّ مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ عَشْرًا، صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ مِائَةً، وَّ مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ مِائَةً، صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ اَلْفًا، وَّ مَنْ صَلّٰی عَلَيَّ اَلْفًا لَا یُعَذِّبُهُ اللّٰهُ بِالنَّارِ۔

389 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْقُصُوْرِ وَ الْغُرَفِ۔

390 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ اَلْفَ مَرَّةٍ بُشِّرَ بِالْجَنَّةِ قَبْلَ مَوْتِهٖ۔

391 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا نُظِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَ غَيْرِهٖ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَنِّهٖ وَ خَيْرِهٖ۔

392 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَّمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ فِي الْجَنَّةِ۔

393 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَنْ قَرَأَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِيْ حَيَاةِ الْعُلُوْمِ عَنْ اَنَسٍ بِرِوَايَةِ اَبِيْ حَفْصِ بْنِ شَاهِيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ السَّالِكِيْنَ۔

394 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهٗ قِيْرَاطًا، وَّ الْقِيْرَاطُ مِثْلُ اُحُدٍ۔

395 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ قَرَأَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الرَّاوِيْنَ عَنْهُ۔

396 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ مُّحِيَتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً۔

397 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَ غَيْرِهٖ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ السَّائِرِيْنَ بِسَيْرِهٖ۔

398 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَّ حِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

399 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الْكَبِيْرِ وَ الصَّغِيْرِ۔

400 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ كُنْتُ شَفِيْعَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَاَنَا بَرِيْءٌ مِّنْهُ۔

401 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَنْ نَّظَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِعَدَدِ مَنْ تَشَرَّفَ۔

402 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ كُنْتُ شَفِيْعَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

403 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي النُّزْهَةِ، عَنْ اَبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِعَدَدِ الْمُحِبِّيْنَ الصَّادِقِيْنَ بِالتَّحْقِيْقِ۔

404 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مَرَّةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً۔

405 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ بِرِوَايَةِ اَحْمَدَ، وَ عَلَى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الشُّكْرِ وَ الْحَمْدِ۔

406 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

407 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ، وَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ، وَرَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بِحَقِّ كُلِّ آيَةٍ اَنْزَلْتَهَا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، بَلِّغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنِّيْ تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا۔

408 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

409 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

410 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً، وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً، وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ، وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ، وَ اجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

411 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

412 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ۔

413 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

414 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

415 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ، وَ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي

الْاَجْسَادِ. وَ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ. اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنِّيْ تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا.

416 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

417 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَابًّا فَتِيًّا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا نَّبِيًّا.

418 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَرْضٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرِّضَا، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدًا اَبَدًا.

419 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَآ اَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَآ اَرَدْتَّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ.

420 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِّضَا نَفْسِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِيْ لَا تَنْفَدُ.

اَللّٰهُمَّ وَ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ، وَ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ.

اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَه، وَ اَبْلِجْ حُجَّتَه، وَ اَبْلِغْهُ مَأْمُوْلَه، فِيْ اَهْلِ بَيْتِه وَ اُمَّتِه.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَتَكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

421 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّثْلَ ذَالِكَ، وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مِّثْلَ ذَالِكَ.

422 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى.

423 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الصَّلَاةَ التَّآمَّةَ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْبَرَكَةَ التَّآمَّةَ، وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّلَامَ التَّآمَّ.

424 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْخَيْرِ، وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ، وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ.

425 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ، وَ دَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ.

426 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ، الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْهِرَاوَةِ، وَ الْجِهَادِ وَ الْمَغْنَمِ، صَاحِبِ الْخَيْرِ وَ الْمِيْرِ، صَاحِبِ السَّرَايَا وَ الْعَطَايَا، وَ الْاٰيَاتِ

الْمُعْجِزَاتِ، وَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ، وَ الْمَقَامِ الْمَشْهُوْدِ، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الشَّفَاعَةِ وَ السُّجُوْدِ، لِلرَّبِّ الْمَحْمُوْدِ وَ الْمَعْبُوْدِ۔

427 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۢ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔

428 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى تَاجِ السَّلْطَنَةِ الْعُظْمٰى، وَ اِكْلِيْلِ الْهَامِ الْاَسْمٰى، عَرُوْسِ حَضْرَتِكَ الْعُلْيَا، وَ يَعْسُوْبِ نَظْرَتِكَ الْقُصْيَا، جَامِعِ الْجَمَالِ وَ الْجَمِيْلِ، وَ مَجْمَعِ الْكَمَالِ وَ الْجَلِيْلِ، الظَّاهِرِ بِكَ فِيْ كُلِّ الظَّوَاهِرِ وَ الْبَوَاطِنِ فِيْ غَيَابَاتِ الْعِزِّ الْفَاخِرِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُمَجَّدِ الْاَمْجَدِ، نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ، وَ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الرَّمْزِ الْمُكَلْثَمِ، وَ الْغَيْثِ الْمُغَمْغَمِ وَ الْغَوْثِ الْاَعْظَمِ، وَ الْقَلْبِ الْاَفْخَمِ، نُقْطَةِ دَوَآئِرِ الْكَمَالِ، وَ هَالَةِ مَرَاكِزِ الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ، مُفْرَدِكَ الْاَوْحَدِ، وَ مَقْصِدِكَ الْاَحْمَدِ، وَ مَلْحَظِكَ الْاَمْجَدِ، لَابِسِ الْخِلْعَاتِ الْاِخْتِصَاصِيَّةِ مِنْ حَضْرَتِكَ الصَّمَدِيَّةِ، وَ خَالِعِ الْخِلَعِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ، عَلٰى اٰلِ الْحَضَرَاتِ النَّبَوِيَّةِ وَ مُمِدِّ الْجُوْدِ اِلٰى سَآئِرِ الْوُجُوْدِ، فَحِيَاضُ الْكَوْنِ بِهٖ فَآئِضَةٌ، وَّ رِيَاضُ الْجُوْدِ بِجَمَالِهٖ رَآئِضَةٌ، فَسُبْحَانَ مَنْ اَبْدَاهُ وَ اَسْدَاهُ وَ تَعَالٰى مَنْ خَصَّهٗ وَ اصْطَفَاهُ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ بِمَا بِهٖ اِخْتَصَّ وَ بِمَا لَهٗ انْتَصَّ، اَنْ تَشْمَلَنَا فِيْ ذٰلِكَ، وَ اَنْ تَخُصَّنَا بِبَعْضِ مَا هُنَالِكَ۔

اَللّٰهُمَّ بِذٰلِكَ عُمَّنَا، وَ بِمَا هُنَالِكَ اُمَّنَا وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

429 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْفَرْدِ الْجَامِعِ، وَ الْغَيْثِ الْهَامِعِ، وَ النُّوْرِ السَّاطِعِ، شَمْسِ الْحَقِّ وَ الْحَقِيْقَةِ، وَ مِصْبَاحِ الشَّرِيْعَةِ وَ الطَّرِيْقَةِ، وَ مَجْلَى الذَّاتِ وَ الصِّفَاتِ، وَ مَجْمَعِ الْاَسْمَآءِ وَ الْمُسَمَّيَاتِ، حَقِّ الْحَقِّ الَّذِيْ لَيْسَ فَوْقَهٗ حَقٌّ، وَّ نُوْرِ النُّوْرِ فِي الْبُطُوْنِ وَ الظُّهُوْرِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ مَنْ وَّالَاهُ، وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ تَوَلَّاهُ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

430 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ صَلَاةَ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ عَلَيْهِ، وَ اَجْرِ يَا رَبِّ لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِيْ اَمْرِيْ۔

431 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰدَمَ وَ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

432 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ، وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَ النَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔

433 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اللَّطِيْفَةِ الْاَحْمَدِيَّةِ شَمْسِ سَمَآءِ الْاَسْرَارِ، وَ مَظْهَرِ الْاَنْوَارِ وَ مَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ وَ قُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ۔

اَللّٰهُمَّ بِسِرِّهٖ لَدَيْكَ وَ بِسَيْرِهٖ اِلَيْكَ، اٰمِنْ خَوْفِيْ وَ اَقِلْ عَثْرَتِيْ وَ اَذْهِبْ حُزْنِيْ وَ حِرْصِيْ، وَ كُنْ لِّيْ وَ خُذْنِيْ اِلَيْكَ

مِنِّيْ، وَ ارْزُقْنِي الْفَنَآءَ عَنِّيْ، وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَفْتُوْنًا م بِنَفْسِيْ، مَحْجُوْبًا م بِحِسِّيْ، وَ اكْشِفْ لِيْ عَنْ كُلِّ سِرٍّ مَّكْتُوْمٍ وَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَآ اَللّٰهُ.

434 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا سَهَا عَنْهُ الْغَافِلُوْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهٖ الْغَافِلُوْنَ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اَفْضَلَ وَ اَكْثَرَ وَ اَزْكٰى مَا صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ وَ زَكَّانَا وَ اِيَّاكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَ السَّلَامِ عَلَيْهِ اَفْضَلَ مَا زَكّٰى اَحَدًا مِّنْ اُمَّتِهٖ بِالصَّلٰوةِ وَ السَّلَامِ عَلَيْهِ، وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، وَ جَزَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازٰى بِهٖ مُرْسَلًا عَمَّنْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ، فَاِنَّهٗ اَنْقَذَنَا بِهٖ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ جَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ دَآئِنِيْنَ بِدِيْنِهِ الَّذِي ارْتَضٰى وَ اصْطَفٰى بِهٖ مَلٰۤئِكَتَهٗ وَ مَنْ اَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهٖ فَمَا بِنَا مِنْ نِّعْمَةٍ ظَهَرَتْ وَلَا بَطَنَتْ نِلْنَا بِهَا حَظًّا فِيْ دِيْنٍ وَّ دُنْيَا وَ دَفَعَ عَنَّا بِهَا مَكْرُوْهًا فِيْهِمَآ اَوْ فِيْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اِلَّا وَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَبُهَا، الْقَآئِدُ اِلٰى خَيْرِهَا، وَ الْهَادِيْ اِلٰى رَشَادِهَا، الذَّآئِدُ عَنِ الْهَلَكَةِ وَ مَوَارِدَ السُّوْءِ فِيْ خِلَافِ الرُّشْدِ الْمُنَبِّهُ لِلْاَسْبَابِ الَّتِيْ تُوْرِدُ الْهَلَكَةَ، الْقَآئِمُ بِالنَّصِيْحَةِ فِي الْاِرْشَادِ وَ الْاِنْذَارِ مِنْهَا، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

435 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَنَالُ بِبَرَكَتِهَا التَّسْلِيْمَ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ.

436 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُدْرِكُ بِبَرَكَتِهَا الْاِخْلَاصَ فِيْ سَآئِرِ الْاَعْمَالِ.

437 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُصْلِحُ لِيْ بِبَرَكَتِهَا الْاَقْوَالَ وَ الْاَفْعَالَ.

438 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُحْفَظُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ.

439 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَعْتَصِمُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الشَّهَوَاتِ.

440 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُعَاذُ بِهَا مِنْ كُلِّ الْغَفَلَاتِ.

441 اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفِيَّ اللّٰهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفْوَةَ اللّٰهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَآ اِبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَحْبُوْبَ الْحَضَرَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا يَعْسُوْبَ الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَطْلُوْبَ النَّظَرَاتِ الْحَقِّيَّةِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَئِيْسَ دِيْوَانِ الْكِبْرِيَآءِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا فَرِيْدَ الْاَجِلِيَّاءِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَآ اِمَامَ اَهْلِ بِسَاطِ الْقُرْبِ،

اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا ذَا الْجَمَالِ الْمَحْبُوْبِ لِاَهْلِ الْحُبِّ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا جَبَلَ قَافِ عَظَمَةِ التَّجَلِّيَاتِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا بَحْرَ مُحِيْطِ اَسْرَارِ الصِّفَاتِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا مَّا يَكُوْنَانِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ الذَّاتِ، وَ آلِكَ وَ صَحْبِكَ وَ الزَّوْجَاتِ.

442 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى جَمَالِ حَضَرَاتِكَ، وَ جَمِيْلِ مَصْنُوْعَاتِكَ، وَ مِرْآةِ ذَاتِكَ، وَ مَجْلٰى صِفَاتِكَ، قِبْلَةِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ وِجْهَةِ عَظَمَاتِكَ وَ مِنْحَةِ هِبَاتِكَ، وَ عَظِيْمِ مَمْلَكَتِكَ، اِنْسَانِ عَيْنِ مُكَوَّنَاتِكَ، وَ فَرِيْدِ جَلِيْلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، الْمُصَفَّى الْمُصْطَفٰى، الْمُوَفّٰى ذِي الْوَفَا وَ الْمُنَقَّى الْمُنْتَقٰى، وَ الْمَرَقَّى الْمُرْتَقٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْمُجْتَبٰى، وَسِيْلَةِ آدَمَ وَ الْخَلِيْلِ، وَاسِطَةِ مُوْسٰى وَ نُوْحِ نِ الْجَلِيْلِ، مُمِدِّ عِيْسٰى وَ دَاوٗدَ خَلِيْفَتِكَ الْجَمِيْلِ الْفَيَّاضِ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّ رَسُوْلٍ، وَ الْمُوْهِبِ الْوَهْبِيِّ لِكُلِّ وَلِيٍّ فَاضِلٍ وَّ مَفْضُوْلٍ، وَّ خِزَانَةِ عَطَاءِ الْمَلَآئِكَةِ الْكِرَامِ وَ وَلِيِّ خِزَانَتِكَ لِكُلِّ الْكَائِنَاتِ بِلَا كَلَامٍ.

443 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِنَا الصَّافِيْ.

444 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى طَبِيْبِنَا الشَّافِيْ.

445 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى خَلِيْلِنَا الْوَافِيْ.

446 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَوْعِدِنَا الْمُوَافِيْ.

447 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى خِلِّنَا الشَّافِيْ.

448 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى غِيَاثِنَا الْكَافِيْ.

449 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى بَحْرِ الْعَظَمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ بَرِّ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، بَاطِنِ الْعُلُوْمِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَ ظَاهِرِ الْاَنْوَارِ الْوَجْهِيَّةِ، قُطْبِ كَثِيْبِ الزِّيَادَاتِ فِي الْجِنَانِ، وَ غَوْثِ حَضْرَةِ الْوَسِيْلَةِ وَ الْاِحْسَانِ، السَّارِيْ سِرُّهٗ لِجَمِيْعِ الْاَعْيَانِ، وَ الْفَآئِضِ نُوْرُهٗ عَلٰى جَمِيْعِ الْخِلَّانِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِكَ الْمَحْمُوْدِ صَفِيِّكَ يَا رَحْمٰنُ اَللّٰهُمَّ صَفِّنَا بِصَفَآئِهٖ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَخِلَّآئِهٖ، وَ صَدِّرْنَا فِيْ صَدْرِ حِمَآئِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مِنْ مبَعْدِهٖ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّدُوْمَانِ بِدَوَامِ عَطَآئِهٖ.

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَ كَاشِفَ الْغَمِّ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ، رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا، اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ، اِرْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

اَلْبَابُ السَّادِسُ

450 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

451 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ مَشَارِقِ الْاَنْوَارِ بِرِوَايَةِ اَحْمَدَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ عُلُوِّ اَهْلِ الْمَشْهَدِ۔

452 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَّمْ تَزَلِ الْمَلَآئِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَا دَامَ اسْمِيْ فِيْ ذٰلِكَ الْكِتَابِ۔

453 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ التُّحَفِ۔

454 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ فَقَدْ اَتْعَبَ كَاتِبِيْهِ۔

455 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْمُطَهَّرِيْنَ مِنَ الْاَدْنَاسِ۔

456 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَآءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ، وَ الصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

457 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ مَشَارِقِ الْاَنْوَارِ عَنْ جَابِرٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خَيْرِ الْقَبَآئِلِ وَ الْعَشَآئِرِ۔

458 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ اَنْعِمْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ نَّسِيَ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ، فَقَدْ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ۔

459 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خَيْرِ الْاُمَّةِ اَجْمَعِيْنَ۔

460 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ نَّسِيَ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ نَسِيَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ۔

461 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الزَّاهِرِ وَ الشِّفَآءِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الصَّفَآءِ۔

462 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: نَادٰى جِبْرِيْلُ تِلْقَآءَ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ الرَّحْمٰنُ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ ذُكِرْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ دَخَلَ النَّارَ۔

463 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْ اَحْيَآءِ الْعُلُوْمِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَا نُصِرَ مَظْلُوْمٌ۔

464 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَّلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَّ صَلُّوْا عَلَيَّ

فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَیَّ تَبْلُغُنِیْ حَیْثُمَا كُنْتُمْ۔

465 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الْمَصَابِیْحِ وَالشِّفَآءِ، وَعَلٰی اٰلِ وَصَحْبِهٖ مَا اُیِّدَ اَهْلُ الْوَفَآءِ۔

466 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: لَا تَجْفُوْنِیْ بَعْدَ مَوْتِیْ، قِیْلَ وَمَا الْجَفَآءُ بِكَ؟ قَالَ مَنْ ذُكِرَ اسْمِیْ عِنْدَهٗ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَقَدْ جَفَانِیْ۔

467 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِیْ حَیَاةِ الْعُلُوْمِ عَنِ ابْنِ اَبِیْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا قَرَأَهُ الْقَارِءُوْنَ وَعَلِمُوْا مَا فِیْهِ۔

468 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: لَا صَلَاةَ بِغَیْرِ وُضُوْءٍ، وَّلَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَّمْ یُؤْمِنْ بِیْ، وَفِیْ رِوَایَةِ الطَّبَرَانِیْ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ یُصَلِّ عَلَیَّ۔

469 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الزَّاهِرِ، وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا صَدَّقَ مُسْلِمٌ وَّجَحَدَ كَافِرٌ۔

470 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فِیْ صَلَاتِهٖ۔

471 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الْمُسْتَطْرَفِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِیِّ، وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ بِعَدَدِ الْوَاقِفِ وَالْقَاعِدِ۔

472 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: لَا یَرٰی وَجْهِیْ ثَلَاثَةٌ: اَلْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ، وَتَارِكُ سُنَّتِیْ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ۔

473 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِیْ حَیَاةِ الْعُلُوْمِ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ۔

474 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: لَا یَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ۔

475 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الْمُسْتَطْرَفِ، وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَهْلِ الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ۔

476 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: یَآ اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَآ اَكْثَرُكُمْ عَلَیَّ صَلَاةً فِیْ دَارِ الدُّنْیَا۔

477 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِیْ حَیَاةِ الْعُلُوْمِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ بُدُوْرِ الْحَوَالِكِ۔

478 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ: یُؤْمَرُ بِرَجُلٍ اِلَی النَّارِ فَاَقُوْلُ رُدُّوْهُ اِلَی الْمِیْزَانِ وَاَضَعُ لَهٗ شَیْئًا

كَالْاَنْمُلَةِ فِيْ مِيْزَانِهٖ وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَيَّ فَتَرْجَحُ مِيْزَانُهٗ وَيُنَادٰى سَعِدَ فُلَانٌ"۔

479 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ النَّاجِيْنَ يَوْمَ الْمَوْقِفِ۔

480 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: يُؤْمَرُ بِقَوْمٍ اِلَى الْجَنَّةِ فَيُخْطِئُوْنَ بِهِمُ الطَّرِيْقَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلِمَ ذٰلِكَ قَالَ سَمِعُوْا اِسْمِيْ فَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَيَّ۔

481 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الْمُسْتَطْرَفِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا قَرَأَ قَارِيءٌ فِي الْمُصْحَفِ۔

482 اَللّٰهُمَّ احْرُسْنِيْ بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِيْ بِكَنَفِكَ الَّذِيْ لَا يُرَامُ، وَارْحَمْنِيْ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ، فَلَا اَهْلِكُ وَاَنْتَ رَجَائِيْ فَكَمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ اَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِيْ وَكَمْ مِّنْ م بَلِيَّةٍ اِبْتَلَيْتَنِيْ بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِيْ، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهٖ شُكْرِيْ فَلَمْ يَحْرِمْنِيْ، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهٖ صَبْرِيْ فَلَمْ يَخْذُلْنِيْ، وَيَا مَنْ رَّاٰنِيْ عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِيْ، يَاذَا النَّعْمَآءِ الَّتِيْ لَا تُحْصٰى عَدَدًا، اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّبِكَ اَدْرَأُ فِيْ نُحُوْرِ الْاَعْدَآءِ وَالْجَبَّارِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى دِيْنِيْ بِالدُّنْيَا، وَعَلٰى اٰخِرَتِيْ بِالتَّقْوٰى، وَاحْفَظْنِيْ فِيْمَآ اُغْتَبُ عَنْهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ فِيْمَا حَظَرْتَهٗ عَلَيَّ يَا مَنْ لَّا تَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ، وَلَا يَنْقُصُهُ الْعَفْوُ هَبْ لِيْ مَا لَا يَنْقُصُكَ، وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَضُرُّكَ، اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ اَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيْبًا، وَّصَبْرًا جَمِيْلًا، وَّرِزْقًا وَّاسِعًا، وَّالْعَافِيَةَ مِنَ الْبَلَايَا وَشُكْرَ الْعَافِيَةِ، وَاَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ، وَاَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَاَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَاَسْأَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ۔

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا يُّوَافِيْ

٥ نِعَمَهٗ وَيُكَافِيْ مَزِيْدَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاِذَآ اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ۔

483 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

484 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْآخِرُوْنَ۔

485 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

486 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

487 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ، وَ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

488 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

489 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً هُوَ اَهْلُهَا۔

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الزَّبُوْرِ وَ الْفُرْقَانِ الْعَظِيْمِ۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَّ اَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَّ اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَّ اَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، فَلَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

490 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الزَّكِيِّ الْخُلُقِ وَ النَّفْسِ، وَ صَفِيِّكَ الطَّيِّبِ الْمَنْبَتِ وَ الْغَرْسِ الَّذِيْ لَمَّا دَخَلَ جَنَّةَ حَظِيْرَةِ الْقُدْسِ رَحَّبَتْ وَ سَهَّلَتْ وَ قَالَتْ هٰذَا وَ

اللهِ رُوْحُ الْقُدُسِ، وَسَيِّدُ الْاَمْلَاكِ، وَالْجِنِّ وَالْاِنْسِ، سَيِّدِيْ وَمَوْلَايَ رَسُوْلُ اللهِ۔

491 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى دَائِرَةِ الْاِحَاطَةِ الْعُظْمٰى وَ مَرْكَزِ مُحِيْطِ الْفَلَكِ الْاَسْنٰى، عَبْدِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عُلُوْمِكَ بِمَا لَمْ تُهَيِّئْ لَهٗ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ، سُلْطَانِ مَمَالِيْكِ الْعِزَّةِ بِكَ فِيْ كَافَّةِ بِلَادِكَ، بَحْرِ اَسْرَارِكَ الَّتِيْ تَلَاطَمَتْ بِرِيَاحِ الْيَقِيْنِ الصَّمَدَانِيِّ اَمْوَاجُهٗ، قَآئِدِ جَيْشِ النُّبُوَّةِ الَّتِيْ تَسَارَعَتْ بِكَ اِلَيْكَ اَفْوَاجُهٗ، خَلِيْفَتِكَ عَلٰى كَافَّةِ خَلِيْقَتِكَ، اَمِيْنِكَ عَلٰى جَمِيْعِ بَرِيَّتِكَ، مَنْ غَايَةُ الْمُجِدِّ وَ الْمُجِيْدِ فِي الثَّنَآءِ عَلَيْهِ الْاِعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ عَنِ اكْتِنَاهِ صِفَاتِهٖ، وَ نِهَايَةُ الْبَلِيْغِ الْمُبَالِغِ اَنْ لَّا يَصِلَ اِلٰى مَبَالِغِ الْحَمْدِ عَلٰى مَكَارِمِهٖ وَ هِبَاتِهٖ سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَّكَ عَلَيْهِ سِيَادَةٌ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنَ الْحَمْدِ بِكَ لَكَ اِصْدَارَهٗ وَ اِيْرَادَهٗ، وَ عَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ، وَ صَحْبِهِ الْعِظَامِ، وَ وَارِثِيْهِ الْفِخَامِ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }۔

492 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰدَمَ وَ حَوَّآءَ، وَ عَلٰى شِيْثٍ وَّ نُوْحٍ، وَّ عَلٰى دَاوٗدَ وَ سُلَيْمَانَ، وَ عَلٰى يَعْقُوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ الْاَسْبَاطِ، وَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى، وَ عَلَى الْخَضِرِ وَ اِلْيَاسَ، وَ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ عَلٰى خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ سِرَاجِ الْعَالَمِيْنَ، وَ اِمَامِ الْمُهْتَدِيْنَ وَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، سِرِّكَ الْمَكْنُوْنِ، وَ غَيْبِكَ الْمَخْزُوْنِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ، وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ۔

493 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَآئِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عِزْرَآئِيْلَ وَ عَلٰى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ الْكَرُوْبِيِّيْنَ، وَ عَلٰى زُوَّارِ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ عَلٰى سَآئِرِ الْمَلَآئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ، وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

494 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَحْمَدِ اَمْرِكَ، وَ رَسُوْلِ خَلْقِكَ، وَ اَسْعَدِ كَوْنِكَ، اَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِهٖ وَ بِهٖ اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَآئِمَةً ذَاتِيَّةً خَاصَّةً بِهٖ فِيْ جَمِيْعِ الْمَوَاجِهِ الْحَرْفِيَّةِ وَ الْاِسْمِيَّةِ، وَ سَآئِرِ مَرَاتِبِهِ الْعَقْلِيَّةِ وَ الْعِلْمِيَّةِ، صَلَاةً لَّا يُمْكِنُ اِنْفِصَالُهَا بِسَبَبٍ وَّلَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ بَلْ يَسْتَحِيْلُ عَقْلًا وَّ نَقْلًا وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاُمَّهَاتِ الْجَوَامِعِ وَ الْخَزَآئِنِ اللَّوَامِعِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

495 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحُرُوْفِ وَ جَرَيَانِ الْقَلَمِ۔

496 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مَنْ تَجَلّٰى فِيْ قَلْبِهٖ حَازَ سِرَّ الْاَسْرَارِ۔

497 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مَنْ تَجَلّٰى عَلٰى قَلْبِهٖ صَارَ بَحْرَ الْاَنْوَارِ۔

498 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مَنْ تَجَلّٰى لِقَلْبِهٖ نَالَ سِرَّ الْاَخْيَارِ۔

499 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ وَ عُلَاهُ۔

500 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهٖ وَسَنَاهُ.

501 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهٖ وَثَنَاهُ.

502 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى قُوْتِ الْاَرْوَاحِ وَالْاَشْبَاحِ وَقُوَّةِ دَوَآئِرِ النِّتَاجِ وَالْفَلَاحِ، وَسِرِّ مَقَامِ النَّجَاحِ وَالصَّلَاحِ، مَحْمُوْدِكَ فِيْ كُلِّ حَضْرَةٍ اِلٰهِيَّةٍ، وَّمَقْصُوْدِكَ فِيْ كُلِّ نَظْرَةٍ رَحِيْمِيَّةٍ، وَّمَوْعُوْدِكَ فِيْ كُلِّ مُبَشِّرَةٍ عَلَيْهِ، صَاحِبِ السِّرِّ الْمَكْتُوْمِ، وَالْعِلْمِ الَّذِيْ بِفُؤَادِهٖ مَخْتُوْمٌ، وَّعَنْ سِوَاهُ مِنَ الْغَيْرِ مَخْتُوْمٌ، اَلْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِكَ الرَّبَّانِيَّةِ، وَالْمُتَّصِفِ بِاَوْصَافِكَ السَّنِيَّةِ، اَلْفَانِيْ فِيْكَ فِيْ كُلِّ الْاَوْقَاتِ، وَالْبَاقِيْ بِكَ فِيْ جَمِيْعِ الْحَالَاتِ، وَالسَّامِعِ مِنْكَ فِيْ جَمِيْعِ الْمُخَاطَبَاتِ، وَالنَّاظِرِ لَكَ فِيْ سَآئِرِ النَّظَرَاتِ، وَالنَّاطِقِ بِسِرِّ الْوَحْدَانِيَّةِ، وَالْمُشَاهِدِ لِكَمَالِ الْاَحَدِيَّةِ.

اَللّٰهُمَّ اسْمِعْنَا بِحَقِّهٖ لَذِيْذَ الْخِطَابِ، وَاَبْصِرْنَا بِجَاهِهٖ عَظِيْمَ الْجَنَابِ، وَاَدْخِلْنَا بِجَاهِهٖ اِلٰى صَدْرِ الْمِحْرَابِ وَاَتْبِعْ اٰلَهٗ وَصَحْبَهٗ فِيْمَآ اَنَلْتَهٗ يَا وَهَّابُ.

503 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الْتَزَمَ بِالْمُلْتَزَمِ عَآئِذٌ.

504 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَعَلَّقَ بِاَسْتَارِ الْبَيْتِ لَآئِذٌ.

505 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا وَقَفَ بِبَابِ الْكَعْبَةِ وَاقِفٌ.

506 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا صَلّٰى تَحْتَ الْمِيْزَابِ مُحْسِنٌ.

507 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ عَلَى النِّيَّةِ مُؤْمِنٌ.

508 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى حَاجٌّ وَّمُتَيَقِّنٌ.

509 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قُبِلَ بِبَرَكَتِهٖ فِيْ هٰذِهِ الْمَشَاعِرِ وَاقِفٌ فِيْ كُلِّ مَوْطِنٍ.

510 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى اَمِيْنِكَ الْمَأْمُوْنِ وَصَاحِبِ سِرِّكَ الْمَخْزُوْنِ، وَحَافِظِ عِلْمِكَ الْمَكْنُوْنِ، بَيْتِ الْاَنْوَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَعَرْشِ الْاَسْرَارِ الْعَلِيَّةِ، وَبَحْرِ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّةِ.

اَللّٰهُمَّ بِجَاهِهِ الْكَرِيْمِ عُمَّنَا مِنْهُ بِفَيْضٍ عَظِيْمٍ، وَاَمِتْنَا فِيْ قَدَمِهٖ يَا حَلِيْمُ.

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَآئِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَآ اَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ، وَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ، وَ مُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِیْ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْخُلْدِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِیْ لِاَشْرَفِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ۔

اَلْبَابُ السَّابِعُ

511 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَآئِكَةُ، وَ مَنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَآئِكَةُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَ مَنْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ، لَمْ يَبْقَ فِی السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ شَیْءٌ اِلَّا وَ صَلّٰى عَلَيْهِ۔

512 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِی الْمُسْتَطْرَفِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِقَدْرِ عَظْمَةِ الْمَالِكِ۔

513 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ عَشْرًا اِذَآ اَصْبَحَ، وَ عَشْرًا اِذَآ اَمْسٰى، اَذَابَ اللّٰهُ ذُنُوْبَهٗ، كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِی الْمَآءِ۔

514 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا قُرِیَٔ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ دُرَرِ الْوَاعِظِيْنَ، وَ دَقَآئِقِ الْاَخْيَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خِيَارِ اَهْلِ الرُّحَمَا۔

515 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ عَشْرًا اِذَآ اَصْبَحَ وَ عَشْرًا اِذَآ اَمْسٰى اٰمَنَهُ اللّٰهُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ كَانَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ۔

516 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ دُرَرِ الْوَاعِظِيْنَ وَ دَقَآئِقِ الْاَخْبَارِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَآ اَنْبَتَ اللّٰهُ بِالْاَمْطَارِ۔

517 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَا اللّٰهَ تَقَبَّلَ اللّٰهُ صَلَاتَهٗ، وَ دُعَآءَهٗ، وَ قَضٰى حَوَآئِجَهٗ۔

518 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِی الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْغُرَفِ۔

519 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ يَقُوْلُ لَهٗ مَلَكٌ: غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ، وَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اٰمِيْنَ۔

520 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ دُرَرِ الْوَاعِظِيْنَ وَ دَقَآئِقِ الْاَخْبَارِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ۔

521 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ مِنْ اُمَّتِیْ مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِهٖ صَلَاةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَّرَفَعَ لَهٗ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَّمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ۔

522 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ السَّابِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ۔

523 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حُبًّا لِّیْ وَ شَوْقًا اِلَیَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّغْفِرَ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ ذَالِكَ الْيَوْمَ۔

524 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ نِصَابِ الْاَخْيَارِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِعَدَدِ الْاَخْيَارِ وَ الْفُجَّارِ۔

525 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَآئِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّیْ عَلَیَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّنْ ذَالِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ۔

526 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِی الزَّاهِرِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ كُلِّ طَيِّبٍ وَّ طَاهِرٍ۔

527 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ فِی الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِلْاٰخِرَةِ وَ ثَلَاثِيْنَ لِلدُّنْيَا

528 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ تَنْبِيْهِ الْغَافِلِيْنَ عَنْ جَابِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِعَدَدِ مَنْ رَّاٰهُ وَ اَخَذَ عَنْهُ۔

529 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ، قَضَى اللّٰهُ لَهٗ فِیْ ذَالِكَ الْيَوْمِ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْ حَوَآئِجِ الْاٰخِرَةِ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا۔

530 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ رَوْضَةِ الْعُلَمَآءِ عَنْ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَنْ وَّفٰى بِحُقُوْقِ الْحَنِيْفِيَّةِ۔

531 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ فِیْ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَمِائَةِ مَرَّةٍ لَّمْ يَفْتَقِرْ اَبَدًا۔

532 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِیْ اِحْيَآءِ الْعُلُوْمِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ خَوَاطِرِ النُّفُوْسِ وَ الرُّسُوْمِ۔

533 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْ حَوَآئِجِ الْاٰخِرَةِ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا، وَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلٰى صَلَاتِهٖ مَلَكًا حَتّٰى يُدْخِلَهَا فِیْ قَبْرِیْ كَمَا يُدْخِلُ عَلٰى اَحَدِكُمُ الْهَدَايَا، وَ يُخْبِرُنِیْ بِاِسْمِهٖ، فَاُثْبِتُهٗ عِنْدِیْ فِیْ صَحِيْفَةٍ بَيْضَآءَ، وَ اُكَافِئُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

534 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِیالنُّزْهَةِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَا تَعَاقَبَتِ الْخَیْرَاتُ مِنْهُ ۔

535 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِیْنَ مَرَّةً، غَفَرَ اللهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ ثَمَانِیْنَ سَنَةً وَّ مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَمِائَةِ مَرَّةٍ لَّمْ یَفْتَقِرْ اَبَدًا ۔

536 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الشِّفَا، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الصِّدْقِ وَ الصَّفَا ۔

537 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهٗ خَطِیْئَةُ ثَمَانِیْنَ سَنَةً ۔

538 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الزَّاهِرِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِعَدَدِ الْمَحَارِیْبِ وَ الْمَنَابِرِ ۔

539 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ فِیْ كُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

540 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِیْ رَوْضَةِ الْعُلَمَآءِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَا هَامَ الْهَآئِمُوْنَ بِمَحَبَّةِ الْحُكَمَآءِ ۔

541 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ مِائَةَ مَرَّةٍ یَّوْمَ الْجُمُعَةِ اُعْطِیَ مِنَ النُّوْرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَالَوِ اجْتَمَعَ اَهْلُ الدُّنْیَا لَوَسِعَهُمْ ۔

542 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِیْ رَوْضَةِ الْعُلَمَآءِ عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ بِعَدَدِ الْفَآئِقِ وَ الْغَآئِبِ فِیْهِ بِهٖ عَنْهُ ۔

543 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ اَوْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللهُ لَهٗ خَطِیْئَةَ ثَمَانِیْنَ سَنَةً ۔

544 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الْمُسْتَطْرَفِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَا جَرَتِ الْمِیَاهُ بِالسَّرَفِ ۔

545 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ قَالَ : مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ عِنْدَ قَبْرِیْ سَمِعْتُهٗ، وَ مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ نَآئِیًا اُبْلِغْتُهٗ ۔

546 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ عَدَدَ مَا رُوِیَ هٰذَا الْحَدِیْثُ فِی الْجَامِعِ الصَّغِیْرِ، وَ مِشْكَاةِ الْاَنْوَارِ، وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَا دَامَتْ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ ۔

547 اَللّٰھُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی آلِ

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ، وَّ يَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْدٍ وَّ يَا قَرِيْبًا غَيْرَ بَعِيْدٍ، وَّ يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ، وَّ يَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوْبٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ، اَسْأَلُكَ بِاِسْمِكَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِيْ عَنَتْ لَهُ الْوُجُوْهُ، وَ خَشَعَتْ لَهُ الْاَصْوَاتُ، وَ وَجِلَتْ لَهُ الْقُلُوْبُ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ اَنْ تَفْعَلَ بِيْ مَا يَلِيْقُ بِفَضْلِكَ يَا اَللّٰهُ، اَنْتَ اللّٰهُ لَا غَيْرُكَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ۔

548 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الْاَخْيَارِ وَ اقْضِ حَاجَتِيْ يَا رَحْمٰنُ، وَ اجْعَلِ الْخِيَرَةَ فِيْ ذَالِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

549 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلَّمَ۔

550 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ۔

551 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

552 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَ تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔

553 صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ، وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ مَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ، الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى اَحْمَدَ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

554 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، وَ مَغْفِرَتُهٗ، وَ رِضْوَانُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مِّنْ اَكْرَمِ عِبَادِكَ، وَ مِنْ اَوْفَرِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَّ اَعْظَمِهِمْ خَطَرًا وَّ اَمْكَنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً۔

اَللّٰهُمَّ اَتْبِعْهُ مِنْ اُمَّتِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ مَا تُقِرُّ عَيْنَهٗ، وَ اجْزِهٖ عَنَّا خَيْرَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَ اجْزِ الْاَنْبِيَآءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا، وَّ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

555 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً، وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ، وَ اجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

556 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ اَثْنَيْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ جَمِيْعِ الْكَائِنَاتِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ جَمِيْعِ الْمَعْلُوْمَاتِ۔

557 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ مَظْهَرِ الْاَحَدِيَّةِ، وَ مَجْلَى التَّجَلِّيَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، وَ مَجْمَعِ الصِّفَاتِ الْكُلِّيَّةِ، نُوْرِ الْوُجُوْدِ، وَ سِرَاجِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، اِمَامِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَ قِبْلَةِ جَمِيْعِ الْعَالَمِيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَرْبَابِ الْكَمَالَاتِ اللَّاهُوْتِيَّةِ، وَ الصِّفَاتِ الرَّحَمُوْتِيَّةِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا اِلٰى يَوْمِ لِقَآئِهٖ وَ الْحَشْرِ تَحْتَ لِوَآئِهٖ۔

558 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ، الرَّسُوْلِ الْكَامِلِ، الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللّٰهِ بِدَوَامِ اللّٰهِ، صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً، وَ اَسْاَلُكَ بِهَا مِنَ الرَّفِيْقِ اَحْسَنَهٗ، وَ مِنَ الطَّرِيْقِ اَسْهَلَهٗ، وَ مِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهٗ، وَ مِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهٗ، وَ مِنَ الْمَكَانِ اَفْسَحَهٗ، وَ مِنَ الْعَيْشِ اَرْغَدَهٗ، وَ مِنَ الرِّزْقِ اَطْيَبَهٗ، وَ اَوْسَعَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ، وَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ مَا مَضٰى وَ تَحْفَظَنِيْ فِيْمَا بَقِيَ۔

559 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَدَ كَمَالِهٖ صَلَاةً تَكُوْنُ لَهٗ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً۔

560 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ۔

561 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ۔

562 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

اَللّٰهُمَّ يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ، وَ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ، وَ يَا صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ، صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرٰى بِالسَّجِيَّةِ، وَ اغْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْعُلَا فِيْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ.

563 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْاَمِيْنِ وَ عَلٰى سَائِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ عَلَى الْاَوْلِيَآءِ وَ عَلٰى جَمِيْعِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهٗ عِلْمُكَ آمِيْنَ.

564 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ، وَ مَنْ ٭ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا اَمَدَ لَهَا وَلَا اِنْتِهَآءَ وَلَا غَايَةَ لَهَا وَلَا اِنْقِضَآءَ صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً ٭ بِدَوَامِكَ وَ بَاقِيَةً ٭ بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ.

565 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نُوْرِكَ الْاَسْنٰى، وَ سِرِّكَ الْاَبْهٰى، وَ حَبِيْبِكَ الْاَعْلٰى، وَ صَفِيِّكَ الْاَزْكٰى، وَاسِطَةِ اَهْلِ الْحُبِّ، وَ قِبْلَةِ اَهْلِ الْقُرْبِ، رُوْحِ الْمُشَاهَدَةِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، وَ لَوْحِ اَسْرَارِ الْقَيُّوْمِيَّةِ، تَرْجُمَانِ الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ، لِسَانِ الْغَيْبِ الَّذِيْ لَا يُحِيْطُ بِهٖ اَحَدٌ، صُوْرَةِ الْحَقِيْقَةِ الْفَرْدَانِيَّةِ، وَ حَقِيْقَةِ الصُّوْرَةِ الْمُزَيَّنَةِ بِالْاَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، اِنْسَانِ اللّٰهِ الْمُخْتَصِّ بِالْعِبَارَةِ عَنْهُ، سِرِّ قَابِلِيَّةِ النَّهْيِ الْاِمْكَانِي الْمُتَلَقَّاةِ مِنْهُ اَحْمَدَ مَنْ حَمِدَ وَ حُمِدَ عِنْدَ رَبِّهٖ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ بِتَفْصِيْلِ التَّكْمِيْلِ الذَّاتِيْ فِيْ مَرَاتِبِ قُرْبِهٖ غَايَةِ طَرَفِ الذِّرْوَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْاَوَّلِ نَظَرًا وَّ اِمْدَادًا ٭ بِدَايَةِ نُقْطَةِ الْاِنْفِعَالِ الْوُجُوْدِيِّ اِرْشَادًا وَّ اِسْعَادًا، اَمِيْنِ اللّٰهِ عَلٰى سِرِّ الْاُلُوْهِيَّةِ الْمُطَلْسَمِ، وَ حَفِيْظِهٖ عَلٰى غَيْبِ اللَّاهُوْتِيَّةِ الْمُكَلْثَمِ، مَنْ لَّا تُدْرِكُ الْعُقُوْلُ الْكَامِلَةُ مِنْهُ، اِلَّا مِقْدَارَ مَا تَقُوْمُ بِهٖ عَلَيْهَا حُجَّتُهُ الْبَاهِرَةُ، وَلَا تَعْرِفُ النُّفُوْسُ الْعَرْشِيَّةُ مِنْ حَقِيْقَتِهٖ اِلَّا مَا يَتَعَرَّفُ لَهَا مِنْ لَّوَامِعِ اَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ مُنْتَهٰى هِمَمِ الْقُدْسِيِّيْنَ وَ قَدْ بَدَعُوْا مِمَّا فَوْقَ عَالَمِ الطَّبَائِعِ مَرْمٰى اَبْصَارِ الْمُوَحِّدِيْنَ، وَ قَدْ طَمِحَتْ لِمُشَاهَدَةِ السِّرِّ الْجَامِعِ مَنْ لَّا تُجْلٰى اَشِعَّةُ اللّٰهِ لِقَلْبٍ اِلَّا مِنْ مِّرْآةِ سِرِّهٖ، وَ هِيَ النُّوْرُ الْمُطْلَقُ، وَلَا تُتْلٰى مَزَامِيْرُهٗ عَلٰى لِسَانٍ اِلَّا بِرَنَّاتِ ذِكْرِهٖ، وَ هُوَ الْوِتْرُ الشَّفْعُ الْمُحَقَّقُ، الْمَحْكُوْمِ بِالْجَهْلِ عَلٰى كُلِّ مَنِ ادَّعٰى مَعْرِفَةَ اللّٰهِ مُجَرَّدَةً فِيْ نَفْسِ الْاَمْرِ عَنْ نَّفْسِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، الْفَرْعِ الْحَدَثَانِ الْمُتَرَعْرِعِ فِيْ نَمَآئِهٖ بِمَا يَمُدُّ بِهٖ كُلَّ اَصْلٍ اَبَدِيٍّ جَلٰى شَجَرَةِ الْقِدَمِ، خُلَاصَةِ نُسْخَتَيِ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ نِعْمَ الْعَبْدُ الَّذِيْ بِهٖ كَمَالُ الْكَمَالِ وَ عَابِدِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلَا اِتِّحَادٍ وَّلَا حُلُوْلٍ وَّلَا اِتِّصَالٍ وَّلَا اِنْفِصَالٍ، اَلدَّاعِيْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ، وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ نَّبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الرَّسُوْلِ بِالذَّاتِ وَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ اَشْرَفُ التَّسْلِيْمِ، يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ.

566 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَمَالِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِخْتِصَاصِيَّةِ، وَ جَلَالِ التَّدَلِّيَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْبَاطِنِ بِكَ

فِيْ غَيَابَاتِ الْعِزِّ الْاَكْبَرِ الظَّاهِرِ بِنُوْرِكَ فِيْ مَشَاهِدِ الْمَجْدِ الْاَفْخَرِ، عَزِيْزِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدَانِيَّةِ، وَ سُلْطَانِ الْمَمْلَكَةِ الْاَحَدِيَّةِ، عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ كَمَا هُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ كَافَّةُ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ مُسْتَوٰى لِتَجَلِّيْ عَظَمَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ، وَ حِكَمِكَ فِيْ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ، مَنْ كَحَّلْتَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ مُقْلَتَه، فَرَاٰى ذَاتَكَ الْعُلْيَا جِهَارًا، وَّ سَتَرْتَ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فِيْ بَاطِنِهٖ لَكَ اَسْرَارًا، وَّ فَلَقْتَ بِكَلِمَةِ خُصُوْصِيَّتِهٖ السَّيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا الْمُحَمَّدِيَّةِ بِحَارَ الْجَمْعِ، وَ مَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَ جَمَالِكَ وَ خِطَابِكَ، الْقَلْبَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ، وَ اَخَّرْتَ عَنْ مَقَامِهٖ تَأْخِيْرًا ذَاتِيًا كُلَّ اَحَدٍ، وَّ جَعَلْتَه، بِحُكْمِ اَحَدِيَّتِكَ وِتْرَ الْعَدَدِ، لِوَآءَ عِزَّتِكَ الْخَافِقِ، لِسَانَ حِكْمَتِكَ النَّاطِقِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ شِيْعَتِهٖ وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ يَا اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُه، وَ افْعَلْ بِنَا مَآ اَنْتَ اَهْلُه، فَاَنْتَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اٰمِيْنَ۔

567 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَنْ تَجَلّٰى فِيْ رُوْحِهٖ فَازَ بِالْوُجُوْدِ۔

568 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَنْ تَجَلّٰى عَلٰى رُوْحِهٖ نَالَ الشُّهُوْدَ۔

569 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَنْ ظَهَرَ لِرُوْحِهٖ حُظِيَ بِالسُّعُوْدِ۔

570 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى قُطْبِ دَآئِرَةِ الرِّسَالَةِ وَ غَوْثِ حِيْطَةِ النُّبُوَّةِ وَ الْجَلَالَةِ، وَ غَيْثِ دَوَآئِرِ الْمَمْلَكَةِ وَ الْعَدَالَةِ، وَ مَدَدِ حَيْطَاتِ الْوِلَايَةِ وَ الْفَضَالَةِ، وَ فَيْضِ مَجَالِي الْقُرْبِ وَ الدَّلَالَةِ، اَفْضَلِ مَنْ قَامَ لَكَ بِالدَّلَالَةِ، وَ اَعْظَمِ مَنْ وَّفٰى بِحُقُوْقِ الْكَمَالَةِ، وَ اَجَلِّ مَنْ تَجَلّٰى بِالْجَمَالَةِ، وَ اَشْرَفِ مَنْ سَقٰى بِاَحْسَنِ مَقَالَةٍ، وَّ اَكْمَلِ مَنْ لِّلْكَمَالِ نَالَه، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِكَ الْمَاحِيْ لِدَوَاوِيْنِ الْبِطَالَةِ، وَ اَحْمَدِكَ الْمُصَفّٰى مِنْ خَيْرِ سُلَالَةٍ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَاهِهٖ اَنْ تُخْرِجَنَا مِنَ الْحُثَالَةِ، وَ اَنْ تُبْعِدَنَا مِنْ اَحْوَالِ الْمَلَالَةِ، وَ اَنْ تَسْقِيَنَا مِنْ صَافِيْ شَرَابِهٖ وَ زُلَالِهٖ، وَ اَنْ تُتْبِعَ لَه فِي الصَّلَاةِ صَحْبَه، وَ اٰلَه، يَا كَبِيْرُ يَا مُعِيْنُ، وَ اَنْ تُحَقِّقَنَا بِالْوَكَالَةِ۔

571 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَعَلَّقَ بِشُبَّاكِهٖ مُحِبٌّ۔

572 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا وَقَفَ بِمُوَاجَهَتِهٖ صَبٌّ۔

573 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَعَدَ فِيْ رَوْضَتِهٖ مُخْلِصٌ تَقِيٌّ۔

574 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَخَلَ حُجْرَتَه، نَقِيٌّ۔

575 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا صَلّٰى فِيْ مِحْرَابِهٖ مُقْتَدِيٌّ۔

576 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَلَعَ عَلٰى مِنْبَرِهٖ مُرْتَقٍ لِّيَرْتَقِيَ۔

577 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَضَرَّعَ فِيْ مُتَهَجَّدِهٖ زَآئِرٌ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَأَدَّبَ عِنْدَ الْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ دَاخِل"۔

578 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَبَّلَ الْكَوْكَبَ وَاصِل"۔

579 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اسْتُجِيْبَ فِيْ هٰذَا الْاَمَاكِنِ لِدَاعٍ مُّشْتَاق"۔

580 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَالَ فِيْ هٰذِهِ الْمَوَاطِنِ مَقْصُوْدَهٗ مِصْدَاق"۔

581 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ وَعَظِّمْ وَتَحَنَّنْ وَتَفَضَّلْ وَتَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ،

582 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ وَعَظِّمْ وَتَحَنَّنْ وَتَفَضَّلْ وَتَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ،
اَعْظَمِ مَنْ قَامَ بِدِيْنِكَ، وَاَشْرَفِ مَنْ دَعَا لِشَرْعِكَ، اَمِيْنِكَ سَيِّدِ مَنْ وَّلَدَهٗ اٰدَمُ وَحَوَّآءُ، الرَّسُوْلِ الَّذِيْ
اَخْبَرْتَ عَنْهُ اَنَّهٗ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى، وَاَعْلَمْتَ اَنَّ مَنْ اَحَبَّهٗ جَلَالَهُ الْجَوٰى، وَنَالَ الرِّوٰى۔
اَللّٰهُمَّ اجْلِنَا بِهٖ، وَاَرْوِنَا مِنْ شِرْبِهٖ، وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِهٖ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ۔



مَجْمُوعَةُ صَلَوَاتِ النَّبَوِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ

1- صَلَاةُ بَابِ الْفَيْضِ وَالْمَدَدِ

مِنْ حَضْرَةِ الرَّسُولِ السَّنَدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ

1 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُوْلِ، دَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِهٖ وَذَكَرْتُ وَصْفَهٗ بِمَدَدِهٖ.

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ هٰذَا الضَّرِيْحِ الشَّرِيْفِ، نَبِيِّكَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُنِيْفِ، مَنْ تَسَابَقَتْ أَنْوَارُ الْخُصُوْصِ لِإِدْرَاكِ سِرِّهٖ، فَلَمْ تُدْرِكْ إِلَّا خَيَالَهٗ، وَهُوَ مِنْ بِرِّهٖ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَأَزْوَاجِهٖ وَحِزْبِهٖ.

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ بِهِ الْأَوْزَارُ تُزَالُ، وَبِحُبِّهِ الْأَسْرَارُ تُنَالُ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهِ الْأَبْدَالِ.

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ، وَوَلِيِّ النَّظْرَةِ، وَعَظِيْمِ هٰذَا الْفِطْرَةِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَهْلِ النُّصْرَةِ.

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ بِهٖ تُفْرَجُ الْكُرَبُ، وَتُدْفَعُ الْبَلَايَا الْآتِيَةُ بِالْكُبَبِ، وَتُحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتُرْفَعُ الْهُمُوْمُ وَالشُّدَدُ، وَتُقْضَى الْحَوَائِجُ، وَتُرْفَعُ الْمُهِمَّاتُ، وَتُنَالُ الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الْعَطِيَّاتِ، وَتَحْسُنُ الْخَوَاتِمُ، الَّتِيْ هِيَ أَقْصَى الْبُغْيَاتِ، وَعَلٰى آلِهٖ صَحْبِهٖ سُفُنِ النَّجَاةِ.

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى صَاحِبِ هٰذِهِ الرَّوْضَةِ الزَّكِيَّةِ، وَالصِّفَةِ الْهَنِيَّةِ الرَّضِيَّةِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الصَّادِقِيْنَ الطَّوِيَّةِ.

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ عَمُوْدُ نُوْرِهٖ صَاعِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ، عَلَيْهِ خَوَّاصُ أَمْلَاكِهٖ تَدُوْرُ وَتَتَقَوّٰى عَلٰى حَمْلِ مَا عَلَيْهَا مِنْ فُخُوْرٍ. وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَهْلِ الْخُمُوْلِ وَالظُّهُوْرِ.

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: مَا بَيْنَ قَبْرِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجِنَانِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَهْلِ الْإِحْسَانِ.

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَهْلِ سِرِّ الطَّاعَةِ.

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ يَّتَجَلّٰى فِيْ حُجْرَتِهٖ لِزُوَّارِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ تَحُفُّ وَتَكْشَحُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَظِيْمِ أَنْوَارِهٖ وَتُحِيْطُ بِهِمْ خَوَّاصُ أَهْلِ بَيْتِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَعْضُ أَنْصَارِهٖ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَزْوَاجِهٖ وَشِيْعَتِهٖ وَأَصْهَارِهٖ.

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ وَكَرِّمْ وَتَعَطَّفْ عَلٰى صَاحِبِ هٰذِهِ الْحَضْرَةِ، وَالْجَوْهَرَةِ الْبَاصِرَةِ، مَظْهَرِ تَجَلِّيْ فَيْضِكَ الْمُقَدَّسِ، وَمَجْلٰى نُوْرِ ذَاتِكَ الْأَقْدَسِ، الْمُتَّصِلِ سِرُّهٗ مِنْ هٰذَا الرَّمْسِ

الْكَرِيْمِ، إِلٰى كَمَالِكَ الْعَظِيْمِ، وَ مَنْ يَمُدُّ الْمَدَدَ الْأَجَلَّ لِزُوَّارِهِ الْوَاقِفِيْنَ حَوْلَ هٰذِهِ الْحُجْرَةِ عَلٰى وَجَلٍ، وَّ وَمِنْ ثَمَّ تُنْثَرُ الْأَنْوَارُ، عَلٰى جَمِيْعِ الزُّوَّارِ عَلٰى حَسَبِ قَابِلِيَّةِ الْأَسْرَارِ، اَللّٰهُمَّ بِجَاهِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، وَ الرَّسُوْلِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَبِيْبِ الْفَخِيْمِ، نَسْأَلُكَ الْهِدَايَةَ إِلٰى سَبِيْلِكَ وَطَرِيْقِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، وَشُهُوْدِ نُوْرِهِ الْخَطَّافِ، بِبَرْقِهِ لِأَفْئِدَةِ أَهْلِ الْأَلْطَافِ، وَ نُقْسِمُ اللّٰهُمَّ بِهٖ عَلَيْكَ، وَ نَقِفُ بِجَاهِهٖ بَيْنَ يَدَيْكَ، نَطْلُبُ بِذَالِكَ الْاِسْتِقَامَةَ عَلٰى قَدَمِهٖ، وَالْفَوْزَ بِسِرِّهٖ، وَالْمَوْتَ بِحَرَمِهٖ، يَا صَاحِبَ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ الَّتِيْ فَاقَتِ الْجِنَانَ، يَا وَاهِبَ هٰذِهِ الْأَنْوَارِ، الَّتِيْ لَمْ تَفُتْ مِنَ الزُّوَّارِ إِنْسَانٌ يَا عَظِيْمَ مَمْلَكَةِ الرَّحْمٰنِ يَا رَئِيْسَ دِيْوَانِ الْحَنَّانِ يَا ذَا التَّصَرُّفِ فِيْ جَلِيْلِ مَدَدِ الْمَنَّانِ، هَا نَحْنُ وَقَفْنَا بِبَابِكَ نُصَلِّيْ وَ نُسَلِّمُ عَلٰى عَظِيْمِ جَنَابِكَ طَالِبِيْنَ بَعْدَ تَذَلُّلِنَا بِرِحَابِكَ سِرًّا عَنْهُ تَكِلُّ الْعُقُوْلُ، وَ فَيْضًا دُوْنَهٗ، تَتَحَيَّرُ الْفُحُوْلُ حَتّٰى يَصِلَ سِرُّ الْقَلْبِ بِسِرِّ صَدْرِكَ وَيَتَحَلّٰى لُبُّ الْفُؤَادِ بِجَمِيْلِ جَلَالِ فَخْرِكَ وَتُدْهِشُ الْعُقُوْلُ عَمَّا لَا تَحْصُرُهُ النُّقُوْلُ.

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ زَارَهٗ فَقُبِلَ، وَ قَصَدَهٗ فَجُعِلَ مِمَّنْ وُّصِلَ وَ لَاذَ بِهٖ فَفَازَ بِدُخُوْلِ حَضْرَتِهٖ وَ تَمَسَّكَ بِحُبِّهٖ فَحَظِيَ بِجَمِيْلِ نَظْرَتِهٖ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ بَادِرُوْا إِلٰى زِيَارَةِ الرَّسُوْلِ أَمَا تَرَوْنَ الْأَنْوَارَ تَنْتَشِرُ مِنَ الْقَبْرِ تَدُوْرُ بِعِزَّتِهٖ عَلٰى كُلِّ عَظِيْمٍ وَّ فَخُوْرٍ، يَا سَيِّدِيْ يَا صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ الَّذِيْ هُوَ أَزْكٰى مِنْ حَوَى الْفَخْرِ، هَا نَحْنُ نُمَرِّغُ الْوَجْهَ عَلَى الْأَعْتَابِ وَ نَطْلُبُ بِذَالِكَ دُخُوْلَ الرِّحَابِ أَجِبْ بِطَرِيْقِ السُّؤَالِ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ وَ لِلْفَيْضِ وَ الْفَخْرِ وَ قُلِ ادْخُلُوْا إِلٰى جَنَابِيْ وَ احْظُوْا بِشُهُوْدِ جَمَالِيْ فِيْ رِحَابِيْ دَوَامَ شُهُوْدِيْ لَكُمْ دُنْيَا وَ أُخْرٰى، فُزْتُمْ بِسِرِّيْ مَعَ كُلِّ دَرَجَةٍ فَخْرًا، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ، لَبَّيْكَ يَا خَلِيْلَ اللّٰهِ، لَبَّيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، لَبَّيْكَ يَا مَحْبُوْبَ اللّٰهِ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَخَلْنَا إِلٰى حِمَاكَ بِكَ وَ وَصَلْنَا إِلٰى رِضَاكَ بِسَبَبِكَ، اتَّصَلَ السِّرُّ بِالسِّرِّ زَالَ النِّقَابُ وَ شَهِدَ الْجَمَالُ يَا بَرُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَاللّٰهِ مَا أَبْهٰى جَمَالَ النَّبِيِّ وَاللّٰهِ مَا أَحْلٰى بَهَاءَ طَلْعَتِهٖ نُوْرُ مُحَيَّاهُ جَلَا ظُلْمَتِيْ، وَبِسِرِّهٖ أَحْظٰى بِسَرِيْرَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى آلِكَ وَ صَحْبِكَ وَمَنْ حَلَّ فِيْ رِحَابِكَ.

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ وَّجْهُهٗ أَجْلٰى مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ طَلْعَتُهٗ أَحْلٰى مِنْ أَحْلَى السُّكَّرِ صَاحِبِ الْجَبْهَةِ الْوَاسِعَةِ وَ الْجَبِيْنِ الَّذِيْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ، وَ الْأَنْفِ الَّذِيْ هُوَ أَقْوَمُ مِنَ الْمُهَنَّدِ الْجَلِيْلِ، وَ الْفَمِ الَّذِيْ بِوُسْعِهٖ ظَهَرَ السِّرُّ الْجَمِيْلُ، مَنْ شَجَّتُهٗ، كَالْهِلَالِ دَارَةٌ، فِيْ وَجْهِهِ الْجَمَالُ، وَ ثَنَايَاهُ فَاقَتِ الدُّرَّ النَّضِيْدَ، وَ عُنُقُهٗ لَا يُمَاثِلُهٗ، وَ تَاللّٰهِ فِي الْعَالَمِ جِيْدٌ، وَ الْحَاصِلُ أَنَّ الْأَبْصَارَ وَ الْبَصَائِرَ لَا تَسْتَطِيْعُ وَصْفَكَ يَا ذَا الْجَلِيْلِ الْفَاخِرِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَآلِكَ وَصَحْبِكَ وَمَنْ حَلَّ فِيْ حِزْبِكَ.

[الثلث الثاني]

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ أَهْلِ الْأَحْوَالِ الْمَتِيْنَةِ.

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا وَ صَاعِنَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَهْلِ الْغِنَا.

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ بِالْمَدِيْنَةِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَنْ خَمُرَتْ لَهُمُ الْعَجِيْنَةُ.

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ حَضَرَتْهُ حَضْرَةُ الْحَقِّ، كَمَا اَخْبَرَنِيْ بِالْمَدِيْنَةِ حِيْنَ زِيَارَتِيْ بِمَشْهَدٍ صِدْقٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ خَوَاصِّ صَحْبِهٖ حَوْلَ ضَرِيْحِهٖ حَآفِّيْنَ، وَ اَكَابِرِ الرُّسُلِ وَ الْاَمْلَاكِ وَ الْاَوْلِيَآءِ عَلٰى ذَالِكَ الْمَنْزِلِ عَاكِفِيْنَ، عَظِيْمِ مَمْلَكَةِ الْاَحَدِ، بِلَا حَصْرٍ وَّلَا حَدٍّ، كَبِيْرِ دَوَاوِيْنِ الرَّحِيْمِ الْجَلِيْلِ، عَلَى الْاِجْمَالِ وَ التَّفْصِيْلِ، عَرْشِ تَجَلِّي الْقَدِيْمِ بِغَيْرِ تَأْخِيْرٍ وَّلَا تَقْدِيْمٍ مِّحْرَابِ حَظَآئِرِ الْكِبْرِيَآءِ مَحَلِّ مَدَدِ الْاَنْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اٰلِهٖ وَ اَنْجَابِهٖ وَ اَهْلِ دَوْلَتِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ، صَلَاةً يُّعَطِّرُ بِشَذَاهَا الْاَكْوَانُ، وَ يُفْتَحُ بِهَا بَابُ السِّرِّ لِاَهْلِ الْاِحْسَانِ، وَ يَرْقٰى بِهَا الْقَارِئُ لِاَعْلٰى مَقَامَاتِ ذِي الْعِرْفَانِ اٰمِيْنَ. يَآ اَللهُ يَا هُوَ يَا رَحِيْمُ يَا عَظِيْمُ يَا رَحْمٰنُ.

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ مِّنْ مُّحَيَّاهُ ابْتَهَجَتِ الْكِيَانُ، وَ مِنْ ضِيَاهُ تَنَوَّرَتِ الْاِنْسُ وَ الْجَآنُّ وَ مِنْ حِمَاهُ تَكَمَّلَتِ الْخَوَآصُّ بِسِرِّ الْاِيْقَانِ، وَ مِنْ رُّبَاهُ تَمَلَّتِ الْاَكَابِرُ بِفَيْضٍ وَّ عِرْفَانٍ، وَّ مِنْ سَنَاهُ اسْتَبْصَرَتِ الْاَعْيَانُ، لَمَّا شَاهَدُوْهُ بِالْعِيَانِ، مُحَمَّدِكَ الْمَحْمُوْدِ، وَ مُصْطَفَاكَ الْمَقْصُوْدِ، وَ مُنْتَقَاكَ الْمَمْدُوْدِ، وَ مُجْتَلَاكَ الْمَشْهُوْدِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ اٰمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْاَعْلٰى، الَّذِيْ اَشْرَقَ عَلٰى مُصْطَفَاكَ الْاَجْلٰى، وَ اَمَدَّ كُلَّ الْكِيَانِ عُلُوًّا وَّ سُفْلٰى، اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلٰى مُحَيَّا مَحْبُوْبِكَ الْاَجْلٰى، وَ عَلٰى جَسَدِهِ الْاَعْلٰى، وَ عَلٰى رُوْحِهٖ وَ ضَرِيْحِهِ الْاَوْلٰى، وَ اَنْ تَجْمَعَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهٗ فِي الدَّارَيْنِ يَآ اَعْلٰى، وَ اَنْ تَجْعَلَهٗ اَصْلًا يَآ اَحَدِيَّ الذَّاتِ، وَ يَا وَاحِدَ الصِّفَاتِ، وَ يَا عَظِيْمَ الْاَسْمَآءِ وَ الْمُسَمَّيَاتِ، يَا مَنْ لَّا تُدْرِكُ الْاَفْئِدَةُ مِنْ كَمَالَاتِهٖ اِلَّا بَعْضَ ذَرَّاتٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، وَ اَقَامَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَ خَصَّنَا مِنْكَ، وَ جَعَلَ مُرَادَنَآ اِلَيْكَ اٰمِيْنَ.

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ تَفَلَ فِيْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَ مَجَّ فِيْهَا وَ دَعَا لَهَا فَكَانَ مَآؤُهَا شِفَآءً وَّ اِعَانَةً عَلَى الطَّاعَةِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَنْ كُلُّ فَرْدٍ مِّنْهُمْ لِلدِّيْنِ اَشَاعَهٗ.

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ اَشَارَ اَنَّ فِيْ مَسْجِدِهٖ سَارِيَةً لَّوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا عِنْدَهَا لَاسْتَهَمُوْا عَلَى الدُّعَآءِ وَ الْوُقُوْفِ وَ الصَّلَاةِ بِقُرْبِهَا، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْفَآئِزِيْنَ بِبِرِّهَا.

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَنَالُ بِسِرِّهَا حِفْظَ الْقُرْاٰنِ وَ الْعَمَلِ بِهٖ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْاِتْقَانِ.

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَحْظٰى بِبَرَكَتِهَا التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِيْ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْمَأْخُوْذِ مِنْهُمْ اِلَى اللهِ بِالنَّوَاصِيْ.

الْكَرَاسِي الَّتِيْ عِنْدَ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ النَّآئِلِيْنَ الدُّنُوَّ مِنْ حَضْرَةِ ابْنِ عَدْنَانَ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ تَعَبِ الْمُرُوْرِ عَلَى الصِّرَاطِ الشَّدِيْدِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الرَّأْيِ السَّدِيْدِ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَدْخُلُ بِهَا الْجَنَّةَ وَ اَرْتَقِيْ بِبَرَكَتِهَا فِيْهَا لِاَعْلٰى دَرَجَتِهَا بِمَحْضِ الْفَضْلِ مَعَ التَّوْفِيْقِ لِعَمَلِهَا وَ الْمِنَّةِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الصَّابِرِيْنَ عَلَى الْمِحْنَةِ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّجْعَلُ بِبَرَكَتِهَا فِيْ وَسَطِ الْكَثِيْبِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الشَّأْنِ الْعَجِيْبِ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نُّبَلَّغُ بِهَا الْقُرْبَ مِنْهُ فِي الْوَسِيْلَةِ مَعَ سَيِّدَتِي الزَّهْرَا وَ ابْنَيْهَا وَ الْمُنْتَظَرِ ذِي الْفَضِيْلَةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْاَسْرَارِ الْجَمِيْلَةِ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُفْنِيْنِيْ فِيْهِ وَ تُبْقِيْنِيْ بِهٖ حَتّٰى اَكُوْنَ فِيْ كُلِّ الْمَشَاهِدِ حَاضِرًا مَّعَهُ فِيْهِ لَهٗ بِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ حِزْبِهٖ، آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَشْفِيْ بِبَرَكَتِهَا سُقْمَنَا وَ مَرْضَانَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ ذُخْرَانَا۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُصْلِحُ بِهَا بَنَاتَنَا وَ اَبْنَآئَنَا، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ سِرًّا وَّ اِعْلَانًا۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُتِمُّ بِهَا نِعْمَانَا، وَ تُوَفِّقُنَا لِشُكْرِهَا يَا مَوْلَانَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ فَضْلًا وَّ اِحْسَانًا۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي الْحَرَمَيْنِ مِنْ زُوَّارٍ، وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاَطْهَارِ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ حَجَّ وَ زَارَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاَخْيَارِ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ تَمَسَّكَ بِالْمُلْتَزَمِ وَ شُبَّاكِ الْمُخْتَارِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاَنْصَارِ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ وَ الْحُجْرَةَ الزَّاهِرَةَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْاَنْوَارِ الْفَاخِرَةِ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ شَرِبَ مِنْ بِئْرِ زَمْزَمَ وَ عَدَدَ مَنْ شَرِبَ مِنَ الْمِيَاهِ الْمَاثُوْرَةِ عَنِ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ لِّسَبِيْلِهٖ اَمَّ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ دَخَلَ حِجْرَ اِسْمَاعِيْلَ وَ الرَّوْضَةَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كُلٌّ مِّنْهُمْ مِنْ مَّدَدِهٖ مَلَأَ حَوْضَه۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: وَجَبَتْ شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَآئِرِ مِنْ اُمَّتِيْ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اُمْحُ عَنَّا مَا وَقَعَ مِنَّا مِنْ هٰذِهِ الْقَبَاحَةِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الطَّاعَةِ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْقَآئِلِ: اَنَا فَرَطُكُمْ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ نِعْمَ هُمْ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْقَآئِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا لَهَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ سَارَ عَلٰى مِنْوَالِهَا۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الَّذِيْ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الرَّحْمَةِ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى عَرْشِ تَجَلِّيَاتِ الذَّاتِ، كُرْسِيِّ اَنْوَارِ الصِّفَاتِ، رُوْحِ الْعَالَمِ وَ سِرِّهِ الْمَكْنُوْنِ، مُمِدِّ الْكَوْنِ وَ اُسِّ جِدَارِهِ الْمَخْزُوْنِ، مَنْ تَخْدُمُه رُؤَسَآءُ الْمَلَآئِكَةِ، وَ تَتَشَرَّفُ بِخِدْمَتِهٖ وَ تَتَّضِعُ لَدَيْهِ اَكَابِرُ الرُّسُلِ وَ تَتَحَلّٰى بِحِلْيَتِهٖ، اَمِيْنِ خَزَآئِنِ الْعَطَآءِ الْاِلٰهِيْ، وَ بَابِ فَيْضِ رَبِّنَا الزَّاهِيْ۔

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا مِنْ بَابِهٖ، وَ اَلْحِقْنَا فِيْ جَنَابِهٖ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَحْبَابِهٖ، وَ اَتْبِعْ آلَهٗ وَ صَحْبَهٗ فِي الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ وَ الْبَرَكَةِ، وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَمَسَّكَ بِهَدْيِهٖ، وَهَدٰى غَيْرَهٗ تَرْكَه آمِيْنَ يَا رَحِيْمُ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْفَةِ الْحَقِّ، مَظْهَرِ الْحَقِّ بَابِ الْحَقِّ، وَاسِطَةِ الْحَقِّ، قَآئِلِ الْحَقِّ، لِسَانِ الْحَقِّ، تَرْجُمَانِ الْحَقِّ، عَاقِدِ الْحَقِّ، آمِرِ الْحَقِّ، دَاعِي الْحَقِّ، وَلِيِّ الْحَقِّ، نَاصِرِ الْحَقِّ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمُتَحَقِّقِيْنَ بِالْحَقِّ آمِيْنَ يَا حَقُّ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اتِّبَاعُه، وَ مَحَبَّتُه، وَ اسْتِحْضَارُهُ الصُّوْرِيُّ وَ الْمَعْنَوِيُّ قُرْبَةٌ، وَّ بِهِمْ يَحْصُلُ اَكْمَلُ التَّرَقِّيْ، وَ اَعْظَمُ السُّلُوْكِ، وَ التَّعَلُّقُ بِهِمْ هُوَ اَقْرَبُ الطُّرُقِ اِلَيْكَ يَا مَالِكَ الْمُلُوْكِ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ بَابُ الْقُرْبِ وَ سِرُّ الْحُبِّ، كَرِيْمُ الْحَضْرَةِ وَ وَلِيُّ النَّصْرَةِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الشُّهْرَةِ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: اَنَا خَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ، وَ مَسْجِدِيْ خَاتَمُ الْمَسَاجِدِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَهْلِ الْمَعَاهِدِ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَالَ: صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا بِاَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، وَ اَخْرَجَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ جَعَلَ الصَّلَاةَ فِيْهِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ، فَسُبْحَانَ الْاِلٰهِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ تَبِعَ هُدَاهُ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْقَآئِلِ: اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْقَآئِمِيْنَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ مُخْلِصُوْنَ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ تَشَرَّفَتْ بِهِ الْمَوْجُوْدَاتُ، وَ تَعَطَّرَتْ بِهٖ

الْكَائِنَاتُ. مَا بَدَأَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَ عَرَفَ اَنَّ فَضْلَه، وَ فَضْلَ بَلَدِهٖ لَا يُحْصٰى وَ عَلِمَ آمِيْن، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ جِيْرَانِهٖ اَهْلِ السِّرِّ الْمَتِيْنِ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَوَاتِيْ فِيْ صَحَآئِفِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، وَ اَدِمْ عَلَيْهِ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ.

2- صَلَاةُ نُوْرِ الْاَنْوَارِ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ

حَرْفِ ''ء'' (همزه)

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لَاذَتْ بِهٖ جَمِيْعُ الْاَنْبِيَآءِ.

2 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تَفَجَّرَ مِنْ م بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ.

3 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ.

4 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ.

5 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَشْفِيْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ دَآءٍ.

حَرْفِ ''ب''

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَّمْ تَزَلِ الْمَلَآئِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَه، مَا دَامَ اِسْمِيْ فِيْ ذَالِكَ الْكِتَابِ.

7 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ رَاَى اللّٰهَ بِبَصَرِهٖ وَ شُرِّفَ بِلَذِيْذِ الْخِطَابِ.

8 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَطَّهُ الْقَلَمُ وَ اَحْصَاهُ الْكِتَابُ.

9 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ظَهَرَ نَجْمٌ وَّ غَابَ.

10 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ نَجِّنَا بِهَا مِنْ اَلِيْمِ

الْعَذَابِ۔

11 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا ذَخِيْرَةً لِّيَوْمِ الْعَرْضِ وَ الْحِسَابِ۔

حَرْفِ "ت"

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُرُوْفِ وَ الْآيَاتِ۔

13 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَائِلِ: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِنْ اُمَّتِيْ كُتِبَتْ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ۔

14 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔

15 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ لَوْلَاهُ لَمَا ظَهَرَ لِلْعَالَمِ اَمْرٌ مِّنَ الْخَفِيَّاتِ۔

16 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَا فِي الْجَنَّةِ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ۔

حَرْفِ "ث"

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ ؍ بِرَحْمَتِكَ يَسْتَغِيْثُ۔

18 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ قِنَا بِهَا شَرَّ كُلِّ خَبِيْثٍ۔

حَرْفِ "ج"

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللِّوَآءِ وَ التَّاجِ۔

20 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ تَكَامَلَ لَهُ السُّرُوْرُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ۔

21 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَائِلِ: يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ۔

22 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَلَاطَمَتْ فِى الْاَبْحُرِ الْاَمْوَاجُ۔

حَرْفِ "ح"

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اشْتَدَّتِ الرِّيَاحُ۔

24 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَنَفَّسَتِ الْاَرْوَاحُ۔

25 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ۔

26 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْزُقْنَا بِهَا التَّقْوٰى وَ الصَّلَاحَ۔

حَرْفِ "خ"

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ شَرْعُهٗ لِجَمِيْعِ الشَّرَآئِعِ نَاسِخٌ۔

28 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَأَدَّبَ تِلْمِيْذٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمَشَايِخِ۔

حَرْفِ "د"

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْاَحْجَارُ الْجَلَامِدُ۔

30 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ رَاكِعٍ وَّ سَاجِدٍ۔

31 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مُتَفَقِّهٍ وَّ عَابِدٍ۔

32 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَلِّغْنَا بِهَآ اَعْلَا الْمَقَاصِدِ۔

33 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقِيْنَا بِهَا شَرَّ كُلِّ مُعَانِدٍ۔

حَرْفِ "ذ"

34 اَللّٰھُمَّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّیِّدِ الْمَلَاذِ۔

35 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّمَنْ بِجَنَابِهٖ قَدْ لَاذَ۔

حَرْفِ "ر"

36 اَللّٰھُمَّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِیْرٌ۔

37 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اكْتَسَبَ مِنْ نُّوْرِهِ الْبَدْرُ الْمُنِیْرُ۔

38 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَیْسَ لَهٗ فِی الْوُجُوْدِ نَظِیْرٌ۔

39 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَلَّمَهُ الضَّبُّ وَشَكَا اِلَیْهِ الْبَعِیْرُ۔

40 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّهَوِّنْ عَلَیْنَا بِبَرَكَتِهٖ كُلَّ اَمْرٍ عَسِیْرٍ۔

41 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقِیْنَا بِهَا عَذَابَ السَّعِیْرِ۔

حَرْفِ "ز"

42 اَللّٰھُمَّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَنْ قَصَدَهٗ جَمِیْعَ الْخَیْرَاتِ حَازَ۔

43 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَنْ عَمِلَ بِسُنَّتِهٖ فَقَدْ فَازَ۔

44 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا حُسْنَ الْمَفَازِ۔

حَرْفِ "س"

45 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّذِیْرِ لِكَافَّةِ النَّاسِ۔

46 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ الْاَنْفَاسُ۔

47 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا الرِّجْسَ وَ الْوَسْوَاسَ۔

حَرْفِ "ش"

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ اِذَا مَشٰى فِي الْبَرِّ الْاَقْفَرِ تَتَعَلَّقُ بِاَذْيَالِهِ الْوُحُوْشُ۔

49 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ الْطُفْ بِنَا {يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ}۔

حَرْفِ "ص"

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ طَائِعٍ وَّ عَاصٍ۔

51 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَسْرَارِ سُوْرَةِ الْاِخْلَاصِ۔

52 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَطْلِقْنَا مِنْ سِجْنِ الْاَقْفَاصِ۔

53 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ بِهَا قُلُوْبَنَا مِنَ الْيَقِيْنِ وَ الْاِخْلَاصِ۔

حَرْفِ "ض"

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ مَا وَقَعَ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ۔

55 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالسَّاقِيْ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ۔

56 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّسْتَعِيْنُ بِهَا عَلٰى اَدَاءِ السُّنَّةِ وَ الْفَرْضِ۔

حَرۡفِ "ط"

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنَّاهِيْ عَنِ التَّبْذِيْرِ وَالتَّفْرِيْطِ۔

58 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّنَجِّنَا مِنْ هَوْلِ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ۔

حَرۡفِ "ظ"

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُنَجِّيْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ۔

60 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاحْفَظْنَا مِنَ الْمَكَارِهِ يَا حَفِيْظُ۔

حَرۡفِ "ع"

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ۔

62 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ مَنْ اَمَّهٗ جَمِيْعَ الْخَيْرَاتِ يَجْمَعُ۔

63 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ۔

64 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَعَا دَاعٍ وَّتَضَرَّعَ۔

65 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ اِلٰى يَوْمٍ فِيْهِ لِلْمُذْنِبِيْنَ يَشْفَعُ۔

حَرۡفِ "غ"

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ ﴿اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ﴾۔

67 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَّلَاغٍ۔

68 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ فَاِنَّهٗ يَزِيْدُ فِي الدِّمَاغِ۔

69 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاكْفِنَا بِهَا شَرَّ كُلِّ بَاغٍ۔

حَرْفِ "ف"

70 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْاَشْرَافِ۔

71 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بِهٖ هُدِیْنَا مِنَ الْخِلَافِ۔

72 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آمِنَّا مِمَّا نَخَافُ۔

73 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدْرِكُنَا بِهَا بِاَسْعَفِ الْاَلْطَافِ۔

حَرْفِ "ق"

74 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُرَاقِ۔

75 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْكَرِیْمِ الْخَلَّاقِ۔

76 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ خَلْقِكَ عَلَی الْاِطْلَاقِ۔

77 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بَیَّنَ اَحْكَامَ الطَّلَاقِ۔

78 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا هَامَ اِلٰی جَمَالِهٖ مُشْتَاقٌ۔

79 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ وَسِّعْ لَنَا بِهَا الْاَرْزَاقِ۔

80 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَیْنِ اِلٰی یَوْمِ التَّلَاقِ۔

حَرْفِ "ك"

81 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَوْصٰی بِاتِّخَاذِ السِّوَاكِ۔

82 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ وَفِّقْنَا لِمَا فِیْهِ رِضَاكَ۔

83 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

84 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ نَجِّنَا بِهَا مِنَ الْهَلَاكِ۔

حَرْفِ "ل"

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ۔

86 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّاقِيْ مَنْ اَحَبَّهٗ مِنْ سَلْسَبِيْلٍ۔

87 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: زَيِّنُوا الْعِيْدَيْنِ بِالتَّهْلِيْلِ۔

88 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ}۔

89 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اسْتُرْنَا بِسَتْرِكَ الْجَمِيْلِ۔

حَرْفِ "م"

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْاَنَامِ۔

91 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ يُصَلِّيْ وَ النَّاسُ نِيَامٌ۔

92 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَمَّ بِهٖ عِقْدُ نِظَامِ النَّبِيِّيْنَ فَهُوَ لَهُمْ مِسْكُ الْخِتَامِ۔

93 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَاشِقٌ اِلٰى حَبِيْبِهٖ هَامَ۔

94 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ هَبْ لَنَا حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ۔

95 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْزُقْنَا بِبَرَكَتِهٖ حُسْنَ الْخِتَامِ۔

حَرْفِ "ن"

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ بِالدَّلَآئِلِ

وَالْبُرْهَانِ۔

97 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ فِى التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ۔

98 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ فِىْ رَمَضَانَ۔

99 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ: {هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ۔

100 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّقِنَا شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ۔

101 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاغْفِرْ لَنَا يَكُوْنُ وَمَا قَدْ كَانَ۔

102 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْتَقِىْ بِهَآ اِلٰى مُنْتَهَى الْفِرْدَوْسِ فِىْ اَعْلَا الْجِنَانِ۔

حَرْفِ "ه"

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِذَا نَامَ لَا يَغْفُلُ قَلْبُهٗ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

104 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اخْتَارَهُ اللّٰهُ وَ اصْطَفَاهُ۔

105 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا تَمَنَّاهُ۔

106 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّبَسُّمُ مِنَ اللّٰهِ۔

107 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرِ مَا تُحِبُّهٗ وَتَرْضَاهُ۔

108 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّتَوَفَّنَا عَلٰى قَوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

حرفِ "و"

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ وَلَا يَنْطِقُ بِالْهَوٰى۔

110 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى۔

111 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَسْوَا۔

112 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَلْبِسْنَا مِنْكَ لِبَاسَ التَّقْوٰى۔

حرفِ "لام الف"

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُنْزَلِ عَلَيْهِ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى}۔

114 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ نُصِبَ لَهُ الْمِعْرَاجُ لَيْلًا۔

115 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ الْخَلَا وَ الْمَلَا۔

حرفِ "ی"

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ۔

117 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ نَبِيٍّ۔

118 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مُضَرَ وَ قُصَيٍّ۔

119 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَيِّتٍ وَّ حَيٍّ۔

120 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ شَيْءٌ"۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، وَ الرَّسُوْلِ الْعَظِيْمِ، وَ الْحَبِيْبِ الْفَخِيْمِ، نَسْاَلُكَ الْهِدَايَةَ اِلٰى سَبِيْلِكَ وَ طَرِيْقِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، وَ اَنْ تَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِيْنَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ التَّسْلِيْمِ نَالُوا الْمَقَامَ

الرَّفِيعَ الْكَرِيمَ، وَ نُقْسِمُ اللّٰهُمَّ بِهِ عَلَيْكَ، وَ نَقِفُ بِجَاهِهِ بَيْنَ يَدَيْكَ، نَطْلُبُ بِذَالِكَ الْإِسْتِقَامَةَ عَلٰى قَدَمِهِ وَ الْفَوْزَ بِسِرِّهِ، وَ الْمَوْتَ بِحَرَمِهِ، لَبَّيْكَ يَا صَاحِبَ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ الَّتِي فَاقَتِ الْجِنَانَ، يَا وَاهِبَ هٰذِهِ الْأَنْوَارِ الَّتِي لَمْ تَفُتْ مِنَ الزُّوَّارِ إِنْسَانٌ، يَا عَظِيمَ مَمْلَكَةِ الرَّحْمٰنِ، يَا رَئِيسَ دِيْوَانِ الْحَنَّانِ، الْمُتَصَرِّفَ فِي جَلِيلِ مَدَدِ الْمَنَّانِ، هَا نَحْنُ وَقَفْنَا بِبَابِكَ نُصَلِّي وَ نُسَلِّمُ عَلٰى عَظِيمِ جَنَابِكَ، طَالِبِينَ بَعْدَ تَذَلُّلِنَا بِرِحَابِكَ، سِرًّا عَنْهُ تَكِلُّ الْعُقُولُ، وَ فَيْضًا دُونَهُ تَتَحَيَّرُ الْفُحُولُ، حَتّٰى يَصِلَ سِرُّ الْقَلْبِ بِسِرِّ صَدْرِكَ وَ يَتَحَلّٰى لُبُّ الْفُؤَادِ بِجَمِيلِ جَلَالِ فَخْرِكَ.

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ، وَ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ، صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ زَارَهُ فَقُبِلَ، وَ قَصَدَهُ فَجُعِلَ مِمَّنْ وَّصَلَ، وَلَاذَ بِهِ فَفَازَ بِدُخُولِ حَضْرَتِهِ، وَ تَمَسَّكَ بِحُبِّهِ فَحَظِيَ بِجَمِيلِ نَظْرَتِهِ.

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْإِسْتِمْسَاكَ بِسُنَّتِهِ، وَ الْمَوْتَ عَلٰى مِلَّتِهِ، وَ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ شَرْبَةً هَنِيئَةً مَّرِيئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ كَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰى وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

3- صَلَاةُ جَوَاهِرِ السَّطْحِ فِي الصَّلَاةِ بِسُورَةِ الْفَتْحِ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَظْهَرِ فَضْلِكَ الْعَمِيمِ وَ مَجْلٰى فَيْضِكَ الْفَخِيمِ الْمَغْفُورِ لَهُ، كَمَا نَصَّ الْبَارِي فَنَسْأَلُ اللّٰهَ بِهِ الْأَسْرَارَ وَ الْمَوَاهِبَ مِنْ مِّنَحِهِ مَا يَمْلَأُ الْوُجُودَ ظِلًّا وَّ فَيْئًا {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}.

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَغْفِرُ لَنَا بِهَا مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَا أَخَّرْنَاهُ وَ تُدْنِينَا لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ مَنْ آلَ إِلَيْهِ آمِينَ.

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمُعَايِنِ فِي كُلِّ الْمَوَاقِعِ الْعَظِيمَةِ وَ الْمُؤَيَّدِ بِالتَّأْيِيدِ الْإِلٰهِيَّةِ الْكَرِيمَةِ الْمُعْتَزِّ بِاعْتِزَازِكَ الْمُرْتَفِعِ عَلٰى مَنْ سِوَاهُ حَقًّا وَّ تَمْيِيزًا بِتَمَامِ {وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا}.

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ امْنَحْنَا اللّٰهُمَّ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَأْيِيدًا يَّرْفَعُنَا لَدَيْهِ وَ اتْبَعْ آلَهُ وَ صَحْبَهُ فِي الْبِرِّ يَا مَنْ لَّا يَخْفٰى شَيْءٌ عَلَيْهِ.

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ مَّلَأْتَ قَلْبَهُ سَكِينَةً وَّ اطْمِئْنَانًا، وَّ مِنْهُ أُمِدَّ بِهِمَا كُلُّ مُؤْمِنٍ فَمُلِئَ إِيمَانًا، عَظِيمِ جُودِ مَمْلَكَةِ مَوْلَاهُ، رَئِيسِ دَوَاوِينِ مَنِ اجْتَبَاهُ وَ اصْطَفَاهُ {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ امْلَأْ قُلُوبَنَا سَكِينَةً وَّ إِيمَانًا يُّقَرِّبُنَا لَدَيْهِ.

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَتْحَ خَزَآئِنِهٖ وَ جَعَلَهُ الْبَابَ وَ الْمُمِدَّ لِكُلِّ مَدَايِنِهٖ الَّذِيْ نَصَبَه لِلْمَدَدِ بِكُلِّ تَوْفِيْقٍ يُّنِيْلُ الْعَبْدَ تَكْرِيْمًا، وَّ اَهَّلَه لِكُلِّ فَيْضٍ يَّعْمَلُ صَاحِبُه مَا يَمْحُوْ سَيِّئَاتِهٖ وَيَزِيْدُه تَفْخِيْمًا {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذَالِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا}.

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اَدْخِلْنَا لِجَنَابِهٖ لِنَحْظٰى بِمَا لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ اَهْلِ قُرْبِهٖ آمِيْنَ.

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ انْتَقَمَ اللّٰهُ بِهٖ مِنْ اَعْدَآئِهٖ وَ جَعَلَه مَظْهَرَ بَطْشِهٖ عَلٰى مَنْ وَّجَّهَ وَجْهَه لِسِوَاهُ سَيْفِ اللّٰهِ وَ الْمَدَدِ لِاِهْلَاكِ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ لَّيْسَ مُسْتَقِيْمًا لِّيُذِيْقَهُ اَلَمَ مُخَالَفَاتٍ بِقَهْرِ مَوْلَاهُ قَدِيْمًا {وَ يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكَاتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا}.

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ خَلِّصْنِيْ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُبْعِدَاتِ وَ قَرِّبْنِيْ لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ نَالَ لِقُرْبِهٖ آمِيْنَ.

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ قُوَّةُ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَ مُؤَيِّدُ جُنُوْدِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ اِلَى الْبَهَمُوْتِ الْمُمِدِّ لِاَهْلِ الْحَقِّ هَدْيًا قَوِيْمًا {وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا}.

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا مِنْ جُنُوْدِ الْفَآئِزِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ.

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُمِدِّ لِكُلِّ الْعَوَالِمِ، وَ بَشِيْرِكَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ صَالِحٍ لِّنَفْسِهٖ حَاكِمٍ، وَّ نَذِيْرِكَ لِمَنْ هُوَ لِنَفْسِهٖ ظَالِمٌ الْمُعْلِمِ لَنَا عَنْهُ بِذَالِكَ تَخْبِيْرًا، {يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا}.

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْهُ شَاهِدًا لَّنَا مُبَشِّرًا بِفَتْحِ مَا لَدَيْهِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ الْمُنْتَمِيْنَ اِلَيْهِ آمِيْنَ.

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَنْ اَغْرَقْتَه فِيْ عُلَاكَ وَ غَيَّبْتَه بِكَ عَنْ سِوَاكَ، وَ جَعَلْتَه لَنَا عَلٰى ذَالِكَ دَلِيْلًا بِتَوْحِيْدِ الضَّمِيْرِ فِيْ قَوْلِكَ تَكْمِيْلًا {لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا}.

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ امْنَحْنَا الْفَنَآءَ فِيْهِ وَ لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خِزَانَةِ بَعْضِ سِرِّهِ الْمُمْتَدِّ مِنْكَ اِلَيْهِ آمِيْنَ.

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَنْتَ سَمْعُهٗ وَ بَصَرُهٗ وَ فُؤَادُهُ الَّذِىْ لَا يَنْطِقُ
اِلَّا بِكَ وَلَا يَرٰى اِلَّا بِكَ يَا مَوْلَاهُ الَّذِىْ مَنْ عَاهَدَهٗ فَكَاَنَّمَا عَاهَدَ الْاِلٰهَ، وَ الْمُوْفِىْ بِالْعَهْدِ فَازَ بِحُسْنِ عُلَاهُ، وَ
النَّاقِضُ لِذَالِكَ خَسِرَ دُنْيَاهُ وَ اُخْرَاهُ، فَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ كَمَا يَعْلَمُ الْاَوَّاهُ {اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا
يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ
فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا} يَالَهٗ مِنْ اَجْرٍ ۢ بِغِنَائِهٖ فِيْهِ اُكْرِمَ بِهٖ تَكْرِيْمًا۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْهُ اللّٰهُمَّ لِىْ سَمْعًا وَّ بَصَرًا وَّ قُوًى لِّاَفْنٰى لَدَيْهِ وَ
عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ طَالِبِيْهِ وَ مُحِبِّيْهِ اٰمِيْنَ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَطْلَعْتَهٗ عَلٰى مَا يُسِرُّهُ النَّاسُ وَ اَعْلَمْتَهٗ
بِحَالِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِّاَجْلِكَ وَ مَنْ تَرَكَهٗ نِفَاقًا وَّ اِرْجَاسًا، اَلْمُظْهِرِ لَهٗ مِثْلَ ذَالِكَ فِىْ كِتَابِكَ مَرَّةً ۢ بَعْدَ
اُخْرٰى يَالَهٗ تَبْصِيْرًا {سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا
يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ
بِكُمْ نَفْعًا ۢ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا}۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اجْعَلْنَا بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَّمْ يُشْغَلْ بِسِوَاهُ عَنْ مَّا لَدَيْهِ وَ عَلٰى
اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْعَائِدِ مِنْ كُلِّ غَزَوَاتِهٖ بِالنَّصْرِ، وَ الرَّاجِعِ بِجَمِيْعِ
تَوَجُّهَاتِهٖ بِالظَّفْرِ مَعَ الصَّبْرِ، اَلْمُدَمِّرِ اَعْدَآئَهٗ تَدْمِيْرًا، وَ الْمُخَيِّبِ لِظَنِّ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْهِ تَخْيِيْبًا فَحَبَا
الْمُخْبِىْ لَهُمْ بِشِدَّةِ عَزْمِهٖ فِيْكَ وَ تَنْفِيْذِ اَوَامِرِكَ عَمَّآ اَتٰى مَسْطُوْرًا {بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذَالِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا ۢ بُوْرًا}۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اَيِّدْنَا بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلٰى اَنْفُسِنَا وَ الْمُنَافِقِيْنَ وَ عَظِّمْنَا لَدَيْهِ وَ
عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاَتْقِيَاءِ اٰمِيْنَ يَا وَلِىَّ الْاَوْلِيَاءِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ قَرَنْتَ اسْمَهٗ بِاِسْمِكَ وَ جَعَلْتَ الْاِيْمَانَ لَا يَكُوْنُ لِاَحَدٍ حَتّٰى يَأْتِىَ بِذِكْرِهٖ
مَعَ ذِكْرِكَ، وَ اَعْلَمْتَنَآ اَنَّ مَنْ جَآءَ بِذَالِكَ نَالَ فَوْزًا عَظِيْمًا {وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ ۢ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا}۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اَفْنِنَا فِىْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهٖ لِنَحْضَرَ لَدَيْكَ وَ لَدَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ
الْعَارِفِيْنَ وَ اكْفِنَا شَرَّ الْاِشْتِغَالِ بِغَيْرِكَ وَ غَيْرِهٖ يَا مُبِيْنُ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْفَتِكَ فِىْ مُلْكِكَ وَ مَلَكُوْتِكَ وَ وَلِيِّكَ فِىْ جَبَرُوْتِكَ
وَ رَحَمُوْتِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ كَانَ اللّٰهُ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾ مَنْ مَّغْفِرَتُكَ مَغْفِرَتُه، وَنِقْمَتُكَ نِقْمَتُه، فَمَآ اَعْظَمَهٗ جَبَّارًا حَلِيْمًا۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَهَبْنَا مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَآمِنَّا مِنْ نِّقْمَتِهٖ وَاحْضُرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ إِقَامَتَنَا لَدَيْهِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ آمِيْنَ يَا وَلِيَّ الْاِنْعَامِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ يَقْطَعُ طَمَعَ مَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِ الرَّحْمٰنِ، وَيُؤَيِّسُ مَنْ مَّالَ اِلَى الدُّنْيَا بِغَيْرِ سَبِيْلِ الْمَنَّانِ فَلَا يَجِدُوْنَ لَدَيْهِ إِذَا طَمِعُوْا حَظًّا وَّلَا طَمَعًا وَّلَا مَنْفَعَةً وَّلَا تَبْجِيْلًا ﴿ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴾۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاقْطَعْ طَمَعَنَا بِكَ وَبِهٖ مِنْ غَيْرِكَ وَمِنْ غَيْرِهٖ بِمَا لَدَيْهِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَا تَأْخُذُه، فِي اللّٰهِ لَوْمَةُ لَآئِمٍ، وَلَا يَنْفَكُّ عَزْمُه، مِنَ الْاَمْرِ بِأَوَامِرِ الْمَلِكِ الْحَاكِمِ، مَنْ لَّا يَتْرُكُ مَنْ مَّالَ لِغَيْرِ اللّٰهِ يَسْتَأْنِسُ بِمَتَاعِهٖ وَهَوَاهُ، بَلْ يَحُثُّه، بِأَمْرِ رَبِّهٖ عَلَى الْاِيْمَانِ اَوْ يَنْتَقِمُ مِنْهُ بِسَيْفِ اللّٰهِ وَيُبَاشِرُ مِثْلَ ذَالِكَ فَإِمَّا فَوْزًا اَوْ هَلَاكًا عَظِيْمًا ﴿ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَّاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴾۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاَوْلِنَا مِنَ الصِّدْقِ فِيْ مُعَامَلَتِهٖ مَا نُرْسَمُ بِهٖ فِيْ دِيْوَانِ اَحْبَابِهِ الَّذِيْنَ لَدَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ خُلَاصَةِ اللّٰهِ وَحِزْبِهٖ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ رُفِعَ الْحَرَجُ عَنْ م بَعْضِ النَّاسِ وَبِهٖ يَفُوْزُ الطَّآئِعُ وَيَهْلِكُ مُرْتَكِبُ الْاَرْجَاسِ، الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ فِيْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ تَعْرِيْفًا وَّتَحْكِيْمًا ﴿ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه، يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴾۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَارْحَمْنَا بِفَضْلِ الطَّاعَاتِ وَالصَّرْفِ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَحَقِّقْنَا بِمَا لَدَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الطَّآئِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ آمِيْنَ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَنْ عَاهَدَه، رَضِيْتَ عَنْهُ وَاَعْطَيْتَهُ السَّكِيْنَةَ وَالْفَتْحَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْبُوْبُكَ الَّذِيْ مَنْ عَقَدَ مَعَهٗ نَالَ رِضَاكَ وَفَازَ بِبِرِّكَ وَسَنَاكَ حَبِيْبُكَ مَظْهَرُ رِضْوَانِكَ اَكْرِمْ بِكَ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَّحْبُوْبًا حَبِيْبًا ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴾۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اَنِلْنَا رِضَاهُ الَّذِىْ هُوَ عَيْنُ رِضَاكَ لِنَكُوْنَ مِنَ الْاَعِزَّةِ لَدَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمُبَايِعِيْنَ صَلَاةً تَّصِلُ بِهَا لِلْأَخْذِ عَنْهُ وَ التَّعْيِيْنِ لَدَيْهِ يَا مُبِيْنُ.

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَآئِمُ وَ ذَالِكَ مِنْ كَمَالِ اِعْتِنَآئِكَ بِهٖ يَا عَالِمُ فَحَظُوْا بِهٖ وَ اسْتَعَانُوْا عَلٰى اُمُوْرِ الدَّارَيْنِ بِاِعْطَآءِ كَرِيْمًا {وَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا}.

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اَنِلْنَا خَيْرَ غَنَآئِمِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ لَدَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْاَبْرَارِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ.

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَنْجَزْتَهٗ مَا وَعَدْتَّهٗ هُوَ وَ اُمَّتَهٗ مِنْ مَحْضِ كَرَمِكَ وَ اَعَنْتَهٗ وَ مَعَ ذَالِكَ صَرَفْتَ عَنْهُمْ كَيْدَ الْاَعْدَآءِ وَ اَوْصَلْتَهُمْ خَيْرًا عَظِيْمًا فَيَا لَكُمْ يَآ اُمَّةَ هٰذَا النَّبِيِّ مِنْ بِرِّ الدَّارَيْنِ مِنْ رَّسُوْلِكُمْ اَعْظِمْ بِهٖ رَحِيْمًا {وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَ كَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا}.

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اقْسِمْ لَنَا بِبَرَكَتِهٖ غَنِيْمَةَ السَّعَادَةِ وَ ارْزُقْنَا بِكَمَالِ الْاِيْمَانِ بِكَ وَ بِهٖ حُسْنَ الْهِدَايَةِ.

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ مَنَحْتَ اُمَّتَهٗ بِهٖ خَيْرًا كَثِيْرًا، وَ سَيَّرْتَ لَهُمْ مِّنْهُ فِى الدَّارَيْنِ فَضْلًا عَزِيْزًا، فَقُلْتَ {وَ اُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا}.

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ يَسِّرْ لَنَا فِى الدَّارَيْنِ غَايَةَ الْقُرْبِ لَدَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَنِ اعْتِمَادُهُمْ عَلَيْهِ.

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَعْطَيْتَهٗ وَ اُمَّتَهٗ عَلَى الْاَعْدَآءِ نَصْرًا كَبِيْرًا وَ مَنَحْتَهُمْ مِنْ اِعَانَتِكَ تَأْيِيْدًا نَّصِيْرًا، فَهَنِيْئًا لَّكُمْ يَا اُمَّةَ الْهَادِىْ لَا يُصَادِمُكُمْ اَحَدٌ اِلَّا بَآءَ خِزْيًا وَّ تَصْغِيْرًا {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا}.

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ انْصُرْنَا بِهٖ عَلَى الْاَعْدَآءِ نَصْرًا يُّدْنِيْنَا لَدَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْمَنْصُوْرِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اٰمِيْنَ.

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْمَحْفُوْفِ بِعَيْنِ الْعِنَايَةِ وَ الْمُسَاعَدِ بِتَأْيِيْدِ الرِّعَايَةِ يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ الَّذِىْ نَصَرَ لَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ قَبْلِكَ نَصِيْرًا {سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا}.

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ حُفَّنَا بِعَيْنِ عِنَايَةِ الرِّضَا لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْمُعَايِنِيْنَ وَ خِيَارِ
الْاُمَّةِ اَجْمَعِيْنَ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَفَيْتَ بِبَرَكَتِهٖ شَرَّ الْاَعْدَآءِ وَ صَرَفْتَ
هِمَّتَهُمْ عَنِ الشُّغْلِ بِهِمْ وَ جَعَلْتَهَا شُغْلًا مبِكَ لِئَلَّا تَضِيْعَ اَوْقَاتِهِمْ سُدًى فَعَادَ مِنَ الْاَعْدَآءِ مَنِ اهْتَدٰى
وَ تَرَكَ الرَّدٰى فَظَهَرَتِ الرَّحْمَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَ فِيْ ذَالِكَ تَبْصِيْرًا فَقُلْتَ {وَ هُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ م بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا}۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اكْفِنَا شَرَّ السُّوْءِ وَ اكْفِهٖ شَرَّنَا وَ حَقِّقْنَا مَعَ الْحَبِيْبِ بِمَا لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ
وَصَحْبِهِ الْوَاقِفِيْنَ لِطَاعَتِهٖ بَيْنَ يَدَيْهِ آمِيْنَ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِبَرَكَتِهٖ صَرَفْتَ عَنِ الْاُمَّةِ اَذَى الْكَافِرِيْنَ وَ
اَوْصَلْتَهُمْ اِلٰى مَقْصُوْدِهِمْ بِرَأْفَةٍ وَّ تَحْنِيْنٍ وَ لَوْلَاهُ لَتَعِبُوْا وَلَمْ يُدْرِكُوْا شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ بَلْ رُبَّمَا ضَاعُوْا
خَسَارًا وَّلَمْ يُحِيْطُوْا بِمَا هُنَالِكَ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ اِعْلَامًا لَّهُمْ بِشَأْنِهٖ وَ صَرْفَ الْاَسْوَا وَ ذَالِكَ اِعَانَةً لَّهٗ وَ
تَكْرِيْمًا فَقُلْتَ {هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ وَلَوْلَا
رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ م بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ
اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا}۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ آمِنَّا بِهٖ فِي الدَّارَيْنِ اَمْنًا نَّسْتَرِيْحُ بِهٖ وَ نُلْحَقُ لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ
مَنْ نَّالَ لِقُرْبِهٖ آمِيْنَ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ السَّكِيْنَةَ وَ مَلَأْتَ فُؤَادَهٗ بِهَا وَ
مِنْهُ مَدَدْتَ اُمَّتَهُ الْحَصِيْنَةَ وَ حَقَّقْتَهٗ بِتَقْوَاكَ فَاَمَدَّ مِنْهَا خَوَآصَّ حِمَاكَ فَمَنْ تَبِعَهٗ نَالَ مِنْهَا حَظًّا وَّافِرًا،
وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا نَالَ بُعْدًا وَّ خُسْرًا، وَصَارَ خَاسِرًا فَهُوَ حَبِيْبُكَ الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ اِخْبَارًا وَّ تَبْشِيْرًا عَظِيْمًا {اِذْ
جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ
اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَ كَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا}۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قِنَا شَرَّ حَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ حَظِيَ
بِالتَّقْوٰى لَدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنْ اَحَبَّ لِحِزْبِهٖ آمِيْنَ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُعَلَّمِ مِنْكَ مَنَامًا وَّ يَقَظَةً م بِمَا اَنْتَ مُوْقِعُهٗ فِي
الْكَوْنِ فَيَسْمَعُهٗ فَيُبَيِّنُهٗ فَيُفِيْدُ اُمَّتَهٗ مِنْ ذَالِكَ مَا يَلِيْقُ بِهِمْ فَيُؤَدُّوْنَ حَقَّهٗ وَ يُؤْمِنُوْنَ فَيَحِلُّ الْاِنْعَامُ
بِهِمْ بِبُشْرٰى لَكُمْ يَآ اُمَّةَ الْحَبِيْبِ بِالْفَتْحِ وَ النَّصْرِ وَ التَّأْيِيْدِ مِدَادًا عَجِيْبًا {لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا
بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ

تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴾۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَامْنَحْنَا فَتْحًا قَرِيْبًا يُّقِيْمُنَا لَدَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ الْفَآئِزِيْنَ بِالْفَتْحِ وَ
اَحْبَابِهِ الرَّاقِيْنَ لِاَعْلَى السَّطْحِ آمِيْنَ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ بَعَثْتَه، بِمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَحَلَّيْتَه، بِالْهُدٰى وَ
الْعَطْفِ وَ الْاِشْفَاقِ وَ جَعَلْتَ دِيْنَه، اَعْلَا الْاَدْيَانِ وَ حَقَّقْتَه، بِالْحَقِّ فَلَا يَنْطِقُ اِلَّا بِهٖ يَا رَحْمٰنُ فَجَآءَ اِلَيْكُمْ
اَيُّهَا الْخَلْقُ بِاِذْنِ مَوْلَاهُ مُنَفِّذًا لِاَوَامِرِهٖ تَنْفِيْذًا ﴿ هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه، بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه،
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴾۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ حَقِّقْنَا بِدِيْنِهِ الَّذِىْ هُوَ قَآئِمٌ لَّدَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الْوَاقِفِيْنَ مَعَ
الْحَقِّ وَاَحْبَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِصِدْقٍ آمِيْنَ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ اَرْحَمِ الرُّحَمَآءِ اَعْظَمِ الْعَابِدِيْنَ رَاكِعًا وَّ
سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا، اَلْفَآئِزِ بِرِضْوَانِكَ الْاَكْبَرِ، وَ الْمُمِدِّ لِخَوَآصِّ اُمَّتِهٖ مَعَ التَّرَحُّمِ وَ التَّعَبُّدِ حَظًّا وَّافِرًا،
اَلْمُفِيْضِ رُوْحَ قُوَّةِ التَّعَبُّدِ وَ سِرَّ التَّرَحُّمِ عَلٰى اُمَّتِهٖ سِرًّا وَّ اِعْلَانًا ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَه، اَشِدَّآءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ﴾۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ اَنِلْنَا مِنْهُ رَحْمَةً وَّ قُوَّةً عَلَى الطَّاعَةِ نَفُوْزُ بِهَا لَدَيْهِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهِ
الرُّحَمَآءِ بَيْنَهُمْ، اَلْاَشِدَّآءِ عَلَى الْكُفَّارِ كَمَآ اَتٰى مُحْكَمًا آمِيْنَ۔


57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُعْتَنٰى بِهٖ مِنَ الْاَزَلِ الْمُبَشِّرِ بِهٖ كُلُّ رَسُوْلٍ اَجَلَّ،
الْمَوْصُوْفُوْنَ اَصْحَابُه، فِى الْكُتُبِ الْقَدِيْمَةِ بِالْبَطْشِ وَ الْاِنْتِقَامِ وَ التَّاَلُّفِ بَيْنَهُمْ مَنًّا عَلَيْهِمْ مِنَ اللّٰهِ
كَرِيْمًا ﴿ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ
اَخْرَجَ شَطْاَه، فَاٰزَرَه، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَامْنَحْنَا الْاِئْتِلَافَ الَّذِىْ يُقَرِّبُنَا لَدَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ آلَ اِلَيْهِ
آمِيْنَ۔


59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ هُوَ سِرُّ كِتَابِكَ وَ نُوْرُ آيَاتِكَ وَ حِجَابُكَ عَدَدَ
آيَاتِ سُوْرَةِ الْفَتْحِ وَ كَلِمَاتِهَا وَ حُرُوْفِهَا وَ نُقَطِهَا وَ شَكْلَاتِهَا۔

60 وَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْآنِ وَ آيَاتِهٖ وَ كَلِمَاتِهٖ وَ حُرُوْفِهٖ وَ نُقَطِهٖ وَ شَكْلَاتِهٖ۔

61 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ كُتُبِكَ الْقَدِيْمَةِ وَ سُوَرِهَا وَ آيَاتِهَا وَ كَلِمَاتِهَا وَ حُرُوْفِهَا وَ نُقَطِهَا وَ شَكْلِهَا وَ
امْنَحْنَا اللّٰهُمَّ سِرَّهَا وَ اَطْلِعْنَا عَلٰى عِلْمِهَا وَ ارْزُقْنَا الْعَمَلَ بِشَرِيْعَتِهٖ وَ اَتْبِعْ آلَه، وَ صَحْبَه، فِى الصَّلَاةِ وَ
السَّلَامِ، وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى مَنْ اُلِّفَتْ فِىْ رَوْضَتِهٖ هٰذِهِ الصَّلَوَاتُ۔



سورة الفاتحة



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

خَزِينَةُ الْبَرَكَاتِ

فِي الصَّلَاةِ عَلٰى نَبِيِّ الْغَفَّارِ ﷺ

مِنْ تَالِيفَاتِ

عَبْدِ الْغَفَّارِ

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

المكتبة القادرية 20 الباكستان
0092-3335187573

خزينة البركات فى الصلاة على النبى الغفار ﷺ

من تأليفاتِ

عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ

ابتدائے 14 ویں صدی ہجری میں امام مسجد سادھوان، لاہور پیر عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ کی سعی جمیلہ سے دُرود وسلام کے موضوع پر چند بزرگوں کی کتابیں منظرِ عام پر آئیں۔

دورانِ حصولِ کتب برائے انسائیکلو پیڈیا چند بزرگوں کے گلدستۂ ہائے دُرود وسلام تک ہمیں رسائی ہوئی جنہیں پیر عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کروایا تھا۔

اُن بزرگوں کے درج ذیل صیغہ ہائے دُرود وسلام کو بھی اِس انسائیکلو پیڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے۔

١- بدر الدجیٰ فی حلية المصطفی ﷺ

٢- صلاة الاسنیٰ

٣- دُرودِ غوثیه شریف

٤- جوهر المتقین

٥- دُرودِ شفاء مسمیٰ قضائے حاجات از خواجه بزرگ

٦- دُرود شفاء از خواجه خورد

خَزِینَۃُ الْبَرَکَاتِ

فِي الصَّلَاۃِ عَلٰی نَبِيِّ الْغَفَّارِ ﷺ

مِنْ تَالِیْفَاتِ

عَبْدِ الْغَفَّارِ

بَدْرُ الدُّجیٰ فِیْ حِلْیَةِ الْمُصْطَفٰی

لِمَوْلَانَا مُحَمَّدْ اَسْلَمْ اَلْکَشْمِیْرِیْ

رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ

1 نَحْمَدُكَ یَا بَارِئَ النَّسَمِ وَ بَادِئَ النِّعَمِ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَآؤُكَ عَلٰی مَآ اَرْسَلْتَ اِلَیْنَا نَبِیًّا عَرَبِیًّا وَّ اَخْرَجْتَنَا بِهٖ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَ هَدَیْتَنَا صِرَاطًا سَوِیًّا فَهُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْكَوْنِ حَتّٰی قُلْتَ لَهٗ اَنَا وَ اَنْتَ وَ مَا سِوٰی ذٰلِكَ خَلَقْتُهَا مِنْ اَجْلِكَ اِذَا قَرَّبْتَهٗ اِلَیْكَ نَجِیًّا وَّ خَلَقْتَهٗ اَحْسَنَ الْخَلْقِ وَ فَضَّلْتَهٗ عَلَیْهِمْ فَضْلًا جَلِیًّا فَمَنْ كَانَ مَحْبُوْبَكَ كَیْفَ لَا یَكُوْنُ اَجْمَلَ وَ كَیْفَ لَا یَكُوْنُ قَدْرُهٗ عَلِیًّا۔

اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ حُسْنِهٖ وَ جَمَالِهٖ بُكْرَةً وَّ عَشِیًّا اَمَّا بَعْدُ فَلَمَّا كَانَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اَجْمَلَ النَّاسِ قَاطِبَةً هَمَّمْتُ اَنْ اَجْمَعَ حِلْیَتَهُ الْعَالِیَةَ لِیَتَلَذَّذَ غَایَةَ التَّلَذُّذِ وَ اٰلِهٖ وَ جَمَالِهٖ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ فَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ فِیْ اِدْرَاكِ هٰذَا الْمَرَامِ فَقَطَفْتُهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ ضَمَمْتُ اِلَیْهَا الصَّلَاةَ لِتَكُوْنَ نُوْرًا عَلَی النُّوْرِ وَ تَزِیْدُ سُرُوْرًا عَلَی السُّرُوْرِ فَجَآءَتْ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالٰی بَاكُوْرَةً لَّمْ تَكْتَحِلْ اِلَی الْاٰنِ بِثَانِیْهَا عَیْنُ الزَّمَانِ وَ مَآ اَلَّفْتُهَا اِلَّا لِتُبَلِّغَنِیْ اِلٰی جَنَابِهِ الْكَرِیْمِ وَ تَنْصُرَنِیْ بِنَسِیْمِ لُطْفِهِ الْعَمِیْمِ وَ سَمَّیْتُهَا بِالْحِلْیَةِ الشَّرِیْفَةِ اِذْ نَظَمْتُهَا فِیْ سِلْكِ التَّحْرِیْرِ وَ اَرْجُو الْقُبُوْلَ مِنَ اللهِ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ یَتَلَأْلَأُ وَجْهُهٗ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ سَوَآءَ الْبَطْنِ وَ الصَّدْرِ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ حَسَنَ الْجِسْمِ اَزْهَرَ اللَّوْنِ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ یَمْشِیْ بِالْهَوْنِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ اَبْیَضَ كَاَنَّمَا صِیْغَ مِنَ الْفِضَّةِ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ وَجْهُهٗ اَبْیَضَ مُشْرَبًا بِالْحُمْرَةِ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِیْ فِیْ وَجْهِهٖ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ رَقِیْقَ الْبَشْرَةِ وَلَمْ یَكُنْ شَیْءٌ اَصْفٰی مِنْ جِلْدِهٖ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ كَاَنَّ مَآءَ الذَّهَبِ یَجْرِیْ فِیْ صَفْحَةِ خَدِّهٖ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ رَوْنَقُ الْجَمَالِ یَطَّرِدُ فِیْ اَسِرَّةِ جَبِیْنِهٖ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ لَمْ یَكُنْ بِالْاٰدَمِ وَلَا بِالْاَبْیَضِ الْاَمْهَقِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ كَثِيْرَ الْعَرَقِ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ حَتّٰى كَاَنَّهٗ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَّكَانَ عَرَقُهٗ فِيْ وَجْهِهٖ كَالدُّرَرِ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ لَمْ يَكُنْ ۢ بِالْمُطَّهَمِ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ لَمْ يَكُنْ ۢ بِالْمُكَلْثَمِ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اَثَرُ الْمِخْيَطِ فِيْ صَدْرِهٖ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ تَدْوِيْرٌ قَلِيْلٌ فِيْ وَجْهِهٖ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ وَسِيْمًا تَسِيْمًا رَحْبَ الرَّاحَةِ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ عُنُقُهٗ جِيْدُ دُمْيَةٍ فِيْ صَفَاءِ الْفِضَّةِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ سَطْعٌ فِيْ عُنُقِهٖ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ يَتَبَرَّقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ عُنُقًا۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ جَبِيْنُهٗ بَرَّاقًا۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ رَبْعَةً اِلَى الطُّوْلِ اَقْرَبُ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوْعِ وَاَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ لَمْ يَكُنْ ۢ بِالطَّوِيْلِ الْبَآئِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ جَلِيْلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ يُنْسَبُ اِلَى الرَّبْعَةِ اِذَا مَشٰى وَحْدَهٗ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اِذَا مَشٰى مَعَ الطَّوِيْلِ طَالَهٗ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اَزَجَّ الْحَاجِبَيْنِ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ عِبَادِ اللّٰهِ شَفَتَيْنِ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَتْ حَوَاجِبُهٗ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ لَمْ يَكُنْ قَصِيْرَ الذَّقَنِ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ كَانَ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ عِرْقٌ يُّدِرُّهُ الْغَضَبُ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ إِذَا مَشٰى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ دَقِيْقَ الْحَاجِبَيْنِ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ إِذَا سُرَّ يُرٰى شَخْصُ الْجُدُرِ فِىْ وَجْهِهِ الْحَسَنِ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَوْنُ اِبْطَيْهِ اَبْيَضَ كَلَوْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ إِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَهٗ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ دُوْنَ الْوَفْرَةِ وَكَانَ لَهٗ شَعْرٌ يَّضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ شَعْرُهٗ إِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَابَتْ رَائِحَةُ اِبْطَيْهِ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ إِذَا انْفَرَقَتْ عَقِيْقَتُهٗ فَرَقَ وَإِلَّا فَلَا۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ جَعْدًا رَّجِلًا۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّبْطِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مَوْصُوْلَ مَا بَيْنَ لَبَّتِهٖ وَسُرَّتِهٖ بِشَعْرٍ يَّجْرِىْ كَالْخَطِّ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ حَسَنَ الشَّعْرِ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مُفَاضَ الْبَطْنِ عَرِيْضَ الصَّدْرِ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ ذَا غَدَائِرَ اَرْبَعٍ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ طَوِيْلَ الْاَصَابِعِ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَشْعَرَ اَعَالِى الصَّدْرِ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ شَدِيْدَ سَوَادِ الشَّعْرِ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ فِىْ رَأْسِهٖ شَيْبٌ اِلَّا شَعَرَاتٌ فِى الْفَرْقِ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ الْبَيَاضُ فِىْ عَنْفَقَتِهٖ وَفِى الصُّدْغَيْنِ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاعِدَيْنِ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ فِىْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ إِلَّا عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مَسِيْحَ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُوْ عَنْهُمَا الْمَآءُ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَهٗ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهٗ أَحْمَرُ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ رَآئِحَتُهٗ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ عَرَقُهٗ أَطْيَبَ الطِّيْبِ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَجْمَلَ النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ وَّأَجْلَاهُمْ وَأَحْسَنَهُمْ مِّنْ قَرِيْبٍ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَجْرَدَ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَنْوَرَ الْمُتَجَرَّدِ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ ذَا الْمَسْرُبَةِ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ ظَهْرُهٗ كَالسَّبِيْكَةِ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ حَسَنَ الْأَرْنَبَةِ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَقْنَى الْأَنْفِ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ خَافِضَ الطَّرْفِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَقْنَى الْعِرْنِيْنِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ وَاسِعَ الْجَبِيْنِ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ضَلِيْعَ الْفَمِ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَلَا لِعِرْنِيْنِهٖ نُوْرٌ يَّحْسَبُهٗ مَنْ لَّمْ يَتَأَمَّلْ أَشَمَّ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ تَآمَّ الْأُذُنَيْنِ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مُشْرِقَ الْوَجْنَةِ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَحْوَرَ أَنْجَلَ الْمُقْلَةِ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ أَسِيْلَ الْخَدَّيْنِ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ۔

84 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ طَوِیْلَ شَقِّ الْعَیْنَیْنِ۔

85 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ عَظِیْمَ الْمَنْکِبَیْنِ۔

86 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اَھْدَبَ الْاَشْفَارِ۔

87 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ لِیَدِہٖ طِیْبٌ کَاَنَّہٗ مُخْرَجَۃٌ مِّنْ جُوْنَۃِ الْعَطَّارِ۔

88 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اَشْکَلَ اَیْ کَانَتْ شَثْنَ الْکَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ۔

89 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَتْ کَفُّہٗ اَلْیَنَ مِنَ الْحَرِیْرِ وَ الدِّیْبَاجِ۔

90 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ غَلَبَ ضَوْءُہٗ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَ السِّرَاجِ۔

91 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اَکْحَلَ الْعَیْنَیْنِ وَلَیْسَ بِاَکْحَلِ۔

92 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ نَظْرُہٗ اِلَی الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ نَظْرِہٖ اِلَی السَّمَآءِ اَطْوَلَ۔

93 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمْ یَصِفْہٗ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّہَ وَجْھَہٗ بِالْقَمَرِ لَیْلَۃَ الْبَدْرِ۔

94 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ حَسَنَ الشَّعْرِ۔

95 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اَشْنَبَ۔

96 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ سَبْطَ الْقَصَبِ۔

97 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ مُفَلَّجَ الْاَسْنَانِ۔

98 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فِیْ لَیْلَۃِ اِضْحِیَانِ۔

99 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ بَرَّاقَ الثَّنَایَا۔

100 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ یَرٰی اَحَدَ عَشَرَ نَجْمًا فِی الثُّرَیَّا۔

101 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اَفْلَجَ الثَّنْتَیْنِ۔

102 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَعْرٌ سِوَی الْمَسْرُبَۃِ عَلَی الْبَطْنِ وَ الثَّدْیَیْنِ۔

103 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ دَقِیْقَ الْمَسْرُبَۃِ ضَخْمَ الْعِظَامِ۔

104 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اِذَا تَبَسَّمَ یَفْتَرُّ عَنْ مِّثْلِ سَنَآءِ الْبَرْقِ اَوْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ ذَرِيْعَ الْمِشْيَةِ۔

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ لِحْيَتُهٗ تَمْلَأُ صَدْرَهٗ۔

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ نَاعِتُهٗ لَمْ اٰتِ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ لِحْيَتُهٗ اَسْوَدَ۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ كَفُّهٗ مِنَ الثَّلْجِ اَبْرَدَ۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِّحْيَتِهٖ مِنَ الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ بَطْنُهٗ كَالْقَرَاطِيْسِ الْمُثَنّٰى بَعْضُهَا عَلَى الْبَعْضِ۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ ضَخْمَ الْهَامَةِ۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ خَاتَمُ نُبُوَّتِهٖ بِضْعَةً نَّاشِزَةً كَبَيْضَةِ الْحَمَامَةِ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ عِنْدَ نَاغِضِ كِتْفِهِ الْيُسْرٰى۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَتَكَفَّاُ اِذَا مَشٰى۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَتَلَأْلَأُ خَاتَمُ نُبُوَّتِهٖ۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اِصْبَعُ قَدَمَيْهِ السَّبَابَةِ اَطْوَلَ مِنْ سَآئِرِ اَصَابِعِهٖ۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مَكْتُوْبًا عَلٰى خَاتَمِ نُبُوَّتِهِ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ تَوَجَّهْ حَيْثُ شِئْتَ فَاِنَّكَ مَنْصُوْرٌ"۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ النُّوْرُ۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ طَوِيْلَ الزَّنْدَيْنِ۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ رَقِيْقَ الْاَنَامِلِ۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ عَبْلَ الْاَسَافِلِ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَشْعَرَ الْمَنْكَبَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ رَحْبَ الْقَدَمَيْنِ۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ لَهٗ حُمُوْشَةٌ فِى السَّاقَيْنِ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مَنْهُوْسَ الْعَقِبَيْنِ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَحْسَنَ الْبَشَرِ قَدَمًا۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ فَخْمًا مُّفَخَّمًا۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ خِنْصَرُ رِجْلِهٖ مُتَظَاهِرَةً۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ سَاقُهٗ كَاَنَّهُمَا جُمَّارَةٌ كَانَ بَادِنًا حِيْنَ اَسَنَّ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ وَكَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ دَآئِمَ الْبِشْرِ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَطِيْفَ الظَّاهِرِ وَكَانَتِ الْمُلَاحَظَةُ جُلَّ نَظَرِهٖ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ التَّبَسُّمُ جُلَّ ضِحْكِهٖ۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مَنْ رَّاٰهُ بَدَاهَةً هَابَهٗ۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مَنْ خَالَطَهٗ مَعْرِفَةً اَحَبَّهٗ۔

اَللّٰهُمَّ بِجَاهِ حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ عَلَيْهِ صَلَاتُكَ وَسَلَامُكَ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ وَّحِيْنٍ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ السُّعَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ} يَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَيَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا دَآئِمًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

صَلَاةُ الْاَسْنٰی

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

2 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

3 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه سُبْحَانَه وَ تَعَالٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا يَلِيْقُ بِعِظَمِ شَرَفِهٖ وَ كَمَالِهٖ وَ رِضَاكَ عَنْهُ وَ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَه عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ رِضٰى نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَكْمَلَهَا وَ اَتَمَّهَا كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَذٰلِكَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَبَدًا اَفْضَلَ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ آلِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ زِدْهُ تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

6 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه سُبْحَانَه وَ تَعَالٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

7 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه سُبْحَانَه وَ تَعَالٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

8 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه سُبْحَانَه وَ تَعَالٰى اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ

عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ ۔

9 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ ۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ۔

10 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ ۔
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ
رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ
وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ۔

14 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا
جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ، مَّجِيْدٌ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ
وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ اٰمَنَ بِكَ وَ بِكِتَابِكَ وَ اَعْطِهِ
اَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَ اٰتِهِ الشَّرَفَ عَلٰى خَلْقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اجْزِهٖ خَيْرَ الْجَزَاءِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا سَهَا

عَنْهُ الْغَافِلُوْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُه، وَ مُسْتَحِقُّه، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُه، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّ مَلَكٍ وَّ وَلِيٍّ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضٰى نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

24 اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُه۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، سُبْحَانَه، وَتَعَالٰى۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُه، وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُه، عَدَدَ مَا مَضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَآ اِنْتِهَآءَ وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَآ اِنْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَه، عَلٰى ذٰلِكَ۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ حَمِدَ لَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يَحْمِدْكَ وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ اَنْ تُحْمَدَ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صل عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْآخِرَةِ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ

الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ.

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّيْنَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَأِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَّلَمْ اَرَهُ وَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهٗ وَارْزُقْنِيْ مَحَبَّتَهٗ وَتَوَفَّنِيْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِهٖ شَرَابًا مَّرِيْئًا سَائِغًا هَنِيْئًا لَّآ اَظْمَأُ بَعْدَهٗ اَبَدًا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنِّيْ تَحِيَّةً وَّسَلَامًا.

اَللّٰهُمَّ كَمَآ اٰمَنْتُ بِهٖ وَلَمْ اَرَهُ فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَسَلَّمَ صَلَاةً هُوَ اَهْلُهَا.

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَسَلَامُهٗ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَاصْطَفَيْتَهٗ عَلَى الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَمِلْءَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَزِنَةَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَعَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ط فِيْ ذٰلِكَ اَلْفَ مَرَّةٍ فِيْ اَلْفِ مَرَّةٍ فِيْ كُلِّ نَفَسٍ وَّلَمْحَةٍ وَّلَحْظَةٍ وَّطَرْفَةٍ يَّطْرُفُ بِهَآ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ كَذٰلِكَ.

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَكَرَّرَ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدَانِ وَاَضَآءَ الْقَمَرَانِ وَبَلِّغْ رُوْحَهٗ وَرُوْحَ اَهْلِ بَيْتِهٖ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ.

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ بِعَدَدِ اَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ وَبِعَدَدِ اَقْطَارِ الْاَمْطَارِ وَبِعَدَدِ دَوَآبِّ الْبَرَارِيْ وَالْبِحَارِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ كَذٰلِكَ.

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ كَذٰلِكَ.

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَا خَلَقْتَ وَ ذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ وَ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ
سَمٰوَاتِكَ اِلٰى اَرْضِكَ مِنْ حِيْنَ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ
سَلِّمْ كَذٰلِكَ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَّ لِحَقِّهٖ
اَدَاءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا وَّ اجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ
نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ
الْاَوْلِيَآءِ وَ الْمُتَّقِيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ مَلَآئِكَتِكَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ
وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ
الْعَاهَاتِ وَ الْاَهْوَالِ وَ الْآفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُ
لَنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ وَ جَمِيْعِ الْمُرَادَاتِ فِي الْحَيَاةِ
وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ نَبِيِّ
الرَّحْمَةِ وَ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ
الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ عَدَدَ مَا فِيْ
عِلْمِكَ وَ زِنَةَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ مِلْءَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ مَبْلَغَ رِضَاكَ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ كَذٰلِكَ
كُلِّهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِ كُلٍّ وَّ اَزْوَاجِ كُلٍّ وَّ
اَصْحَابِ كُلٍّ مِّنْهُمْ وَ التَّابِعِيْنَ وَ عَلٰى كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ تَعَالٰى فِي الْعَالَمِيْنَ وَ سَآئِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ
الْآخِرِيْنَ عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ مِلْءَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ زِنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ ارْحَمْنَآ اِلٰهَنَا
بِحُرْمَتِهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنَا وَ عَافِنَا مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَّ عَاهَةٍ وَّ اعْفُ عَنَّا وَ عَامِلْنَا بِلُطْفِكَ الْجَمِيْلِ وَلَا تُسَلِّطْ
عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ شَفِيْعِنَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَهْلِ
بَيْتِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ صَلَاةً نَّاشِئَةً مِّنْ مَّعْدِنِ السِّرِّ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ وَلَا يَعْرِفُهٗ اَحَدٌ اِلَّآ اَنْتَ اَوْ
هُوَ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ وَ شَرِّفْ وَ عَظِّمْ وَ مَجِّدْ عَلٰى حَسَبِ قُرْبِهٖ وَ دَرَجَتِهٖ عِنْدَكَ وَ مِقْدَارِ اِكْرَامِكَ وَ مَحَبَّتِكَ لَهٗ وَ
صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ عَدَدَ كُلِّ عِلْمٍ عَلَّمْتَهٗ لَهٗ وَ كُلِّ فَضْلٍ خَصَّصْتَهٗ بِهٖ وَ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَهَا عَلَيْهِ
صَلَاةً جَامِعَةً لِّجَمِيْعِ الْمَرَاتِبِ وَ شَامِلَةً لِّكُلِّ الْخَيْرَاتِ مَا يُمْكِنُ اَنْ يُّتَصَوَّرَ وَ مَا لَا يُتَصَوَّرُ وَ مَا يَظْهَرُ عَلٰى
اَحَدٍ وَّلَا يَظْهَرُ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ نَجِيِّكَ وَ
خِيَرَتِكَ وَ خِيَرَةِ خَلْقِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ هَادِيًا لِّلضَّالِّيْنَ وَ شَفِيْعًا لِّلْمُذْنِبِيْنَ وَ دَلِيْلًا
لِّلْمُتَحَيِّرِيْنَ وَ طَرِيْقًا لِّلْعَارِفِيْنَ وَ اِمَامًا لِّلْمُتَّقِيْنَ وَ نُوْرًا لِّلْمُسْتَبْصِرِيْنَ وَ رَاحِمًا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ وَ بَشِيْرًا
لِّلْمُطِيْعِيْنَ وَ نَذِيْرًا لِّلْعَاصِيْنَ وَ رَؤُوْفًا وَّ رَحِيْمًا ۢ بِالْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِىْ نَوَّرْتَ قَلْبَهٗ وَ شَرَحْتَ صَدْرَهٗ وَ رَفَعْتَ
ذِكْرَهٗ وَ عَظَّمْتَ قَدْرَهٗ وَ اَعْلَيْتَ كَلِمَتَهٗ وَ اَيَّدْتَّ دِيْنَهٗ وَ اَثْبَتَّ يَقِيْنَهٗ وَ رَحِمْتَ اُمَّتَهٗ وَ تَمَّمْتَ بَرَكَاتَهٗ ـ

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ صَلَاةً تُنَوِّرُ بِهَا الْقُلُوْبَ وَ تَغْفِرُ بِهَا الذُّنُوْبَ وَ تَسْتُرُ بِهَا الْعُيُوْبَ وَ
تَكْشِفُ الْكُرُوْبَ وَ تُفَرِّجُ الْهُمُوْمَ وَ تُزِيْلُ الْغُمُوْمَ وَ تَدْفَعُ الْبَلَاۤءَ وَ تُزِيْلُ الشِّقَاۤءَ وَ تُنَزِّلُ الشِّفَاۤءَ وَ تُسَهِّلُ
الْاُمُوْرَ وَ تَشْرَحُ الصُّدُوْرَ وَ تُوَسِّعُ الْقُبُوْرَ وَ تُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَ تُثْقِلُ الْمِيْزَانَ وَ تُهَيِّئُ
الْجِنَانَ وَ تُعِدُّ اللِّقَاۤءَ وَ تُتِمُّ النَّعْمَاۤءَ صَلَاةً تُصْلِحُ بِهَا الْاَحْوَالَ وَ تُفَرِّغُ الْبَالَ وَ تُصَفِّى الْوَقْتَ وَ تُجَنِّبُ
الْمَقْتَ صَلَاةً تَعُمُّ بَرَكَاتُهَا وَ تُحِيْطُ كَرَامَاتُهَا وَ تُشِيْعُ اَنْوَارُهَا وَ تَظْهَرُ اَسْرَارُهَا صَلَاةً مُّوْجِبَةً لِّلسَّدَادِ وَ
بَاعِثَةً عَلَى الرَّشَادِ مَانِعَةً عَنِ الضَّلَالِ دَافِعَةً لِّلْاِخْتِلَالِ مُحَصِّلَةً لِّلْكَمَالِ صَلَاةً لَّا تَدَعُ خَيْرًا مِّنْ خَيْرَاتِ
الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اِلَّا حَصَّلْتَهَا وَلَا تَتْرُكُ كَمَالًا مِّنْ كَمَالَاتِ الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ اِلَّا اَتْمَمْتَهَا وَ اَكْمَلْتَهَا صَلَاةً
دَاۤئِمَةً مُّتَّصِلَةً ۢ بَاقِيَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ وَّاقِعَةً ۢ بِلِسَانِ الْحَالِ وَ الْقَالِ مُؤَدِّيَةً جَمِيْعَ الْحُقُوْقِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ
صَلَاةً رَّاضِيَةً مَّرْضِيَّةً كَامِلَةً مُّكَمِّلَةً تَآمَّةً مُّتَمِّمَةً نَّامِيَةً مُّنْمِيَةً مَّقْبُوْلَةً مَّشْمُوْلَةً جَلِيْلَةً جَزِيْلَةً نُوْرًا
سُرُوْرًا ۢ بَهَاۤءً ضِيَاۤءً سَنَاۤءً شِفَاۤءً غِنَاۤءً عِلْمًا عَمَلًا حَالًا ذَوْقًا وَّجْدًا اَوَّلًا اٰخِرًا ظَاهِرًا ۢ بَاطِنًا ۢ بِرَحْمَتِكَ وَ
فَضْلِكَ وَ جُوْدِكَ وَ عِنَايَتِكَ وَ رِعَايَتِكَ وَ كِلَاۤئَتِكَ وَ حِمَايَتِكَ يَآ اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ وَ خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ وَ يَآ اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ وَ يَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ مِنْ اَزَلِ الْاٰزَالِ اِلٰى اَبَدِ الْاٰبِدِيْنَ
بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ {وَ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} اٰمِيْنَ ـ

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَّ لِحَقِّهٖ
اَدَاۤءً وَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا
جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى ـ

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا ـ


45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ وَ مِرْاٰتِ الذَّاتِ وَ الصِّفَاتِ وَ مَنْبَعِ
الْمُشَاهَدَاتِ وَ مَعْدَنِ التَّجَلِّيَاتِ مُوْصِلِ الْعِبَادِ اِلٰى رَبِّ الْاَرْبَابِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ
اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ـ

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهٗ ـ

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْأَجْسَادِ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى۔



دُرُوْدِ غَوْثِیَہ شَرِیْف

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُسْلِمِيْنَ -

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الصَّالِحِيْنَ -

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُصْلِحِيْنَ -

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الصَّادِقِيْنَ -

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُصَدِّقِيْنَ -

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُجَاهِدِيْنَ -

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الشَّاهِدِيْنَ -

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَشْهُوْدِيْنَ -

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَسْعُوْدِيْنَ -

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُرَابِطِيْنَ -

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُنْجِيْنَ -

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُفْلِحِيْنَ -

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُجْتَبِيْنَ -

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ التَّآئِبِيْنَ -

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْخَآئِفِيْنَ -

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْقَآئِمِيْنَ -

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الرَّاكِعِيْنَ -

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ السَّاجِدِيْنَ -

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْقَاعِدِيْنَ -

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْفَازِعِيْنَ -

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الصَّابِرِيْنَ -

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الزَّاهِدِيْنَ -

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُوْقِنِيْنَ -

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُنَاجِيْنَ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْقَانِعِيْنَ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْجَآئِعِيْنَ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْخَاشِعِيْنَ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْبَاكِيْنَ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْعَاطِفِيْنَ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْحَافِظِيْنَ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُبَارِكِيْنَ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ النَّاصِرِيْنَ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَنْصُوْرِيْنَ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الظَّافِرِيْنَ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُظَفَّرِيْنَ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُشْفِقِيْنَ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَرْزُوْقِيْنَ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْجَوَّادِيْنَ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُبَاذِلِيْنَ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ النَّادِمِيْنَ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَوَّلِيْنَ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاٰخِرِيْنَ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الصَّآئِمِيْنَ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ التَّوَّابِيْنَ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُنِيْبِيْنَ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُوَافِقِيْنَ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْعَابِدِيْنَ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَسَاكِيْنَ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْفَائِزِيْنَ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُطِيْعِيْنَ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْعَالِمِيْنَ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْعَامِلِيْنَ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْوَارِثِيْنَ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْعَاقِلِيْنَ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُعَلِّمِيْنَ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُفَسِّرِيْنَ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْفَاصِلِيْنَ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الرَّاشِدِيْنَ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُرْشِدِيْنَ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الطَّالِبِيْنَ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَطْلُوْبِيْنَ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُرِيْدِيْنَ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الذَّاكِرِيْنَ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَذْكُوْرِيْنَ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُسَبِّحِيْنَ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُهَلِّلِيْنَ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُقَدِّسِيْنَ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُحَجِّدِيْنَ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُوَحِّدِيْنَ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْحَامِدِيْنَ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَحْمُوْدِيْنَ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْوَاهِبِيْنَ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَوَّابِيْنَ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْوَاصِلِيْنَ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُحِبِّيْنَ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَحْبُوْبِيْنَ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَوْدُوْدِيْنَ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَقْبُوْلِيْنَ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُشْتَاقِيْنَ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْعَاشِقِيْنَ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَعْشُوْقِيْنَ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْعَارِفِيْنَ۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمَعْرُوْفِيْنَ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ السَّآئِلِيْنَ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُعَاهِدِيْنَ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْكَامِلِيْنَ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُكَمِّلِيْنَ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُحَقِّقِيْنَ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُدَقِّقِيْنَ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُمَهِّدِيْنَ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الرَّاضِيْنَ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْمُرْضِيْنَ۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ النَّاصِحِيْنَ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاٰمِرِيْنَ۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ النَّاهِيْنَ۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْوَافِيْنَ۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِ الْمُوْفِيْنَ۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِ الْمَسْئُوْلِيْنَ۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِ الْمُتَضَرِّعِيْنَ۔

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِ الصِّدِّيْقِيْنَ۔

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِ الْمُقَرَّبِيْنَ۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِ الْاَقْرَبِيْنَ۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِ الْاَنْجَبِيْنَ۔

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْاَكْرَمِيْنَ۔

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْمُكَرَّمِيْنَ۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْاَمْجَدِيْنَ۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْاَشْرَفِيْنَ۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْمُحَلِّقِيْنَ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْمُقَصِّرِيْنَ۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْحَجَّازِيْنَ۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْعَمَّارِيْنَ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى السَّابِقِيْنَ۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْمَسْبُوْقِيْنَ۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْاَوَّلِيْنَ۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْآخِرِيْنَ۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْاَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنَ۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْعَاشِقِيْنَ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْمُحِبِّيْنَ۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْمَحْبُوْبِيْنَ۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَعَلٰى غَوْثِنَا فِى الْوَاصِلِيْنَ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْمُوَصِّلِيْنَ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْمَشَائِخِيْنَ۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْعَالَمِيْنَ يَا اَللّٰهُ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْعَامِلِيْنَ يَا اَللّٰهُ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْوَاهِبِيْنَ يَا اَللّٰهُ۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْفَانِيْنَ يَا اَللّٰهُ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْبَاقِيْنَ يَا اَللّٰهُ۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فِي الْمَحْبُوْبِيْنَ يَا اَللّٰهُ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا الْغَوْثِ الْحَسَنِيِّ الْحُسَيْنِيِّ وَ هُوَ غَوْثُ الثَّقَلَيْنِ شَيْخُ الْكَوْنَيْنِ سَيِّدُنَا شَاهُ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اَرْضَاهُ عَنَّا۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَوْلِيَآءِ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَبْرَارِ۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَبْدَالِ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَوْتَادِ۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَخْيَارِ۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ النُّقَصَآءِ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ النُّجَبَآءِ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَعْمَادِ۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَقْطَابِ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الْاَزْهَادِ۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا قُطْبِ رَبَّانِيْ غَوْثِ الصَّمَدَانِيْ مَحْبُوْبِ سُبْحَانِيْ شَيْخِ الْمَلَكِ وَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ حَضْرَتْ مِيْرَانْ سَيِّدْ شَاهْ مُحَمَّدٍ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا غَوْثِ الْاَعْظَمِ سُلْطَانْ مُحْيِ الدِّيْنِ قُطْبِ الْعَصْرَانِيْ۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا شَاهْ مُحْيِ الدِّيْنِ غَوْثِ السُّبْحَانِيْ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا فَقِيْرُ مُحْيِ الدِّيْنِ الْعَاشِقِ الْحَنَّانِيْ۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا وَ سَيِّدِنَا مُحْيِ الدِّيْنِ الْمَعْشُوْقِ الْمَنَّانِيْ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مَخْدُوْمُ مُحْيِ الدِّيْنِ شَيْخِ السُّلْطَانِيْ۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا وَ مَوْلَانَا مُحْيِ الدِّيْنِ وَلِيِّ الْبُرْهَانِيْ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا غَرِيْبِ وَلِيْ مُحْيِ الدِّيْنِ سَيِّدْ شَاهْ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِيِّ الْحُسَيْنِيِّ الْجِيْلَانِيْ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا قُطْبِ رَبَّانِيْ شَاهْ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا غَوْثِ الصَّمَدَانِيْ شَاهْ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مُحِبِّ رَحْمَانِيْ شَاهْ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مَحْبُوْبِ سُبْحَانِيْ سَيِّدِ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ شَاهِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مَقْصُوْدِ سُلْطَانِيْ شَاهْ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا قُطْبِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ شَاهِ وَلَايَتْ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا سُلْطَانِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ شَاهْ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا شَاهِ شَاهَانِ شَاهْ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا الْبَازِ الْاَشْهَبِ فِي الْعُلْيَا مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا الْغَوْثِ الْاَعْظَمِ شَيْخِ الثَّقَلَيْنِ شَيْخِ

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْخِ الْمَلَكِ وَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ شَيْخ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ.

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا غَوْثِ الْاَعْظَمِ شَيْخِ الثَّقَلَيْنِ كَرِيْمِ الطَّرَفَيْنِ وَ غَوْثِنَا وَ شَيْخِنَا شَيْخ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ صَلَاةً زَاكِيَةً عِنْدَ اللّٰهِ رَافِعَةً كَفٰى بِهٖ عِبَادَتُهٗ وَ تَوْحِيْدُهٗ.

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ بِاَفْضَلِ صَلَاةٍ وَّ تَحِيَّةٍ وَّ اَزْكٰى رَاْفَةٍ وَّ اَتَمِّ بَرَكَاتٍ وَّ سَلَامٍ.

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِاَفْضَلِ ثَنَآءٍ وَّ اَكْمَلِ تَحِيَّةٍ وَّ اَزْكٰى رَاْفَةٍ وَّ صَلَاةٍ وَّ اَطْيَبِ بَرَكَاتٍ.

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا شَيْخ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْاَنَامِ وَ حُرُوْفِ الْكَلَامِ وَ عَدَدِ الْاَيَّامِ وَ قَطَرَاتِ الْغَمَامِ عَلَى الدَّوَامِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّائَةَ اَلْفِ اَلْفِ مَرَّةٍ.

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ بِعَدَدِ كُلِّ وَقْتٍ وَّ اَوَانٍ وَّ فِيْ كُلِّ حِيْنٍ وَّ زَمَانٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ كُلِّهٖ بِالْاَضْعَافِ الَّتِيْ لَا يُحْصِيْهَا غَيْرُكَ اِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ.

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ اٰخِرِ الزَّمَانِ مَا اخْتَلَفَ الْمَلْوَانِ وَ تَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَ تَكَرَّرَ الْجَدِيْدَانِ وَ اسْتَصْحَبَ الْفَرْقَدَانِ وَ افْتَرَقَ الضِّدَّانِ وَ اسْتَضَاْ الْقُرْاٰنِ بَلِّغْ مِنَّا اِلٰى رُوْحِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اِلٰى رُوْحِ شَيْخ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ اَلْفَ اَلْفِ تَحِيَّةٍ وَّ سَلَامٍ.

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ عَلٰى شَيْخ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ اَلْفَ اَلْفِ تَحِيَّةٍ وَّ صَلَاةٍ تَكُوْنُ لَكَ بِهٖ رِضًا وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ مُسْتَحِقُّهٗ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ.

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا شَيْخ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ نَفَذَتْ بِهٖ مَشِيْئَتُكَ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ زَوَاكِيَ رَأْفَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ حُجَّتِكَ فِيْ اَرْضِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ مُسْتَحِقُّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ شَيْخِ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ وَ اجْزِهٖ عَنْ اَصْحَابِهٖ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ عَلٰى غَوْثِنَا مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ يَآ اَللّٰهُ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ عَلَى الشَّيْخِ مُحْيِ الدِّيْنِ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الصَّلَاةِ اَنْ تُكْرِمَنِيْ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ نَوِّرْنِيْ بِاَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ فِي الْمَنَامِ وَ اَنْ تَغْفِرَلِيْ وَ تَرْحَمَنِيْ وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ وَ تُوْصِلَنِيْ اِلٰى مُرَادِيْ وَ اَتْمِمْ نِيَّتِيْ وَ اخْتِمْ لِيْ بِخَيْرٍ وَّ قِنِيْ شَرَّ الظَّالِمِيْنَ وَ نَجِّنِيْ مِنْ نَّوْمَةِ الْغَافِلِيْنَ وَ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِكَ وَ تُوْجِبَ لِيْ رِضْوَانَكَ وَ جِنَانَكَ وَ تَقْضِيَ حَاجَتِيْ بِكَرَمِكَ وَ تَرْفَعَ دَرَجَتِيْ بِفَضْلِكَ وَ تَمْحُوَ عَنِّيْ سَيِّئَاتِيْ بِعَفْوِكَ وَ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ وَ ارْحَمْنِيْ بِمَشْهُوْدِ نَبِيِّيْ وَ حَبِيْبِيْ وَ مَحْبُوْبِيْ وَ شَيْخِيْ وَ قُطْبِيْ وَ غَوْثِيْ وَ رُوْحِيْ بِمُشَاهَدَاتِكَ وَ جَمْعِيَّتِكَ بِشُهُوْدِنَا وَ احْشُرْنَا وَ اِيَّاهُ لَكَ فِيْ زُمْرَةِ السُّعَدَآءِ وَ الْمَسَاكِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْبِغْ عَلَيَّ مِنْ حَلَالِ رِزْقِكَ وَ ارْزُقْ حُظُوْظَ جَمَالِ اُنْسِكَ وَ ذَوْقِ كَمَالِ كِبْرِيَآءِ ذَاتِكَ بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

جَوْهَرُ الْمُتَّقِيْن

1 وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مِنْهُ اسْتِمْدَادُ جَمِيْعِ الْاَشْيَآءِ۔

3 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ فَازَ اَتْبَاعُهُ السُّعَدَآءُ۔

4 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ تَمَنَّتْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ اُمَّتِهِ الْاَنْبِيَآءُ۔

5 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَزَالَ عَنِ الْقُلُوْبِ الْغِشَآءَ۔

6 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ صَلَاةً تَتْحُفُنَا بِهَا فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ رَفَعَهُ اللهُ اِلَى الْعُلٰى۔

8 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اِنْخَفَضَ الْكُفْرُ وَسَمَا الْاِيْمَانُ وَعَلَا۔

9 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ نَطَقَ لَهُ الْجَمَلُ وَالضَّبُّ وَالْحِصَآءُ۔

10 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مُعْجِزَاتُهٗ لَا تُسْتَقْصٰى۔

11 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ صَلَاةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ وَالْهَوٰى۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ هُوَ اَحَقُّ بِالْمَحَبَّةِ مِنْ كُلِّ حَبِيْبٍ۔

13 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اُعْطِىَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

فَاقَ كُلَّ لَبِيْبٍ۔

14 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَظْهَرَ اللّٰهُ بِهٖ شَمْسَ الْحَقِّ بَعْدَ الْمَغِيْبِ۔

15 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ طَهَّرَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ مَعِيْبٍ۔

16 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ صَلَاةً تُنِيْلُنَا بِهَا مِنَ الْمَحَبَّةِ اَعْظَمَ نَصِيْبٍ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ الْقَائِلِ اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ۔

18 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ رَأَى اللّٰهَ بِعَيْنَيْ رَأْسِهٖ عَشَرَ مَرَّاتٍ۔

19 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا رَوَتِ الْمُحَدِّثُوْنَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔

20 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّائِمِ التَّرَقِّيْ فِي الْحَيَاتِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ۔

21 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ لِلْمَلْهُوْفِ مُغِيْثٌ۔

23 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ التَّحْدِيْثِ۔

24 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ عِنْدَ ذِكْرِهٖ يَسْتَلِذُّ الْحَدِيْثُ۔

25 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنَزَّهِ عَنِ التَّلْوِيْثِ۔

26 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا كُلَّ خَبِيْثٍ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ هُوَ لِلْمُرْسَلِيْنَ تَاجٌ۔

28 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ كَانَ يُجْهِدُ الْقَوْمَ اِذَا سَاجَ۔

29 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ خَرَجَ مَعَهٗ نُوْرٌ وَّهَّاجٌ۔

30 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ كَانَ كَفُّهٗ اَلْيَنَ مِنَ الدِّيْبَاجِ۔

31 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِرَاجٌ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ جَبَلَ عَلَى السَّمَاحِ۔

33 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اُمِرَتِ الْاَنْبِيَآءُ بِلُزُوْمِ جَنَابِهِ الْفِيَاحِ۔

34 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ كَانَ اِذَا سَلَكَ طَرِيْقًا تَارَّجَ طِيْبُ عِرْقِهٖ بِهٖ فَاحَ۔

35 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَفَجَّرَ الْمَآءُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهٖ وَ سَاحَ۔

36 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ اَهْلِ الْفَلَاحِ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ كَانَ اِذَا تَبِعَهٗ سُرَاقَةُ غَاصَ فَرَسُهٗ فِى الْاَرْضِ وَ سَاخَ۔

38 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ ذِىْ اُذُنٍ وَّ صِمَاخٍ۔

39 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا وَفّٰى مُرِيْدٌ بِعَهْدِ اُسْتَاذِهٖ فَشَاخَ۔

40 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اتَّصَفَ مُحِبٌّ بِاَنِيْنٍ وَ

صُرَاخٍ۔

41 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُزِيْلُ بِهَا عَنَّا الْاَوْسَاخَ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِىْ نَابَتِ الْاَنْبِيَآءُ عَنْهُ فِى التَّبْلِيْغِ لِلْعِبَادِ۔

43 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْهَادِىْ اِلٰى سُبُلِ الرَّشَادِ۔

44 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْاَشْهَادِ۔

45 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا يَوْمَ يَنْقَطِعُ الْوِدَادُ۔

46 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا السَّدَادَ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاَمْرِ النَّافِذِ۔

48 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْمُنْجِىْ مِنَ الْهَنَابِذِ۔

49 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْمُخْتَارِ مِنَ الْاِشَاوِذِ۔

50 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔

51 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُلْحِقُنَا بِمَنْ هُوَ لِلْغَيْرِ نَابِذٌ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ اَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ۔

53 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِىْ مَنِ اتَّبَعَ سُنَّتَه نَالَ الْاَنْوَارَ۔

54 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خُطُوَاتِ النَّاسِ فِى الْاَسْفَارِ۔

55 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَعَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَعَدَدَ مَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَآءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔

56 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْتَبُ بِهَا مِنَ الْاَبْرَارِ۔

57 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ هُوَ لِصِفَاتِ الْكَمَالِ حَآئِزٌ۔

58 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ هُوَ بِأَعْلَى الدَّرَجَاتِ فَآئِزٌ۔

59 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غِيَاثُنَا عِنْدَ اِشْتِدَادِ الْهَزَاهِزِ۔

60 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ هُوَ فِيْ كَلَامِهٖ لِلْعَارِفِيْنَ رَامِزٌ۔

61 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنَ الْمَفَاوِزِ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ رُفِعَ لَهٗ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ فَلَمَّا رُفِعَ لَهٗ وَرَآهُ أَزَالَ الْاِلْتِبَاسَ۔

63 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ انْطَبَعَتْ رَآئِحَتُهٗ فِيْ يَدِ الْمَآسِّ۔

64 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ رَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ الْاِيَاسِ۔

65 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ فِي الْخُلُقِ وَالْخَلْقِ أَكْمَلَ النَّاسِ۔

66 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّحْصُلُ لَنَا بِهَا مِنَ اللّٰهِ الْاِئْتِنَاسُ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ كَانَ مِنْ هَيْبَتِهٖ

يَقُوْمُ بِمَنْ رَآهُ اِنْدِهَاش۔

68 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُرْسَلِ لِصَلَاحِ الْمَعَادِ وَ الْمَعَاش۔

69 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ يَحْصُلُ لِلْقُلُوْبِ الصَّافِيَةِ عِنْدَ ذِكْرِهٖ اِنْتِعَاش۔

70 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا جَلِيْلِ الْمُشَاش۔

71 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّكُوْنُ لَنَا بِهَا مِنْهُ الْبَشَاش۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْ سُلَالَةٍ كَذَهَبٍ خَالِص۔

73 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ عَنْ حَاجَةِ الْمِسْكِيْنِ فَاحِص۔

74 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَعْرُوْفِ بِاَجْمَلِ الْخَصَآئِص۔

75 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا حَنَّتْ اِلَيْهِ قَلَآئِص۔

76 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلْحَقُ بِهَا مَنْ هُوَ لِلْخَيْرَاتِ قَانِص۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ لَا يَزُوْلُ عَنِ الْحَقِّ فِى الْبَسْطِ وَالْقَبْض۔

78 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَنْحَدِرُ مِنْ اَعَالِى الْاَرْض۔

79 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِالشَّفَاعَةِ وَ اللِّوَآءِ وَالْحَوْض۔

80 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَرَكَاتِ فِى السُّنَّةِ وَ

الْفَرْضِ۔

81 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ بِهَا مِنَ الْفَآئِزِيْنَ يَوْمَ الْعَرْضِ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ لَا يَضْبِطُ مَكَارِمَه ضَابِطٌ۔

83 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ كَانَ لِلْحَجَرِ عَلٰى بَطْنِهِ الشَّرِيْفِ مِنَ الْجُوْعِ رَابِطٌ۔

84 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ عَمَّتْ اَيَادِيْهِ الطَّامِعَ وَالْقَانِطَ۔

85 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَخَذَتِ الْاَمْلَاكُ بِرِكَابِهٖ صَاعِدًا وَّهَابِطًا۔

86 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْفِيْنَا بِهَا شَرَّ كُلِّ قَاسِطٍ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِ اَوْصَافِهٖ كُلُّ حَافِظٍ۔

88 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ تَكَلَّمَ بِجَمِيْعِ اللُّغَاتِ فَكَانَ اَحْسَنَ لَافِظٍ۔

89 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مُتَّعِظٍ وَّ اَبْلَغِ وَاعِظٍ۔

90 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ كَانَ لِنَفْعِ اُمَّتِهٖ عَلَى الدَّوَامِ مُلَاحِظٌ۔

91 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقِيْنَا بِهَا شَرَّ كُلِّ لَاحِظٍ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَدْعُوٍّ وَّ اَوَّلِ شَافِعٍ۔

93 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ بِذِكْرِهٖ تَشَرَّفَتِ

الْمَسَامِعِ۔

94 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ لِّلْبَابِ قَارِعٍ۔

95 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَنْتَهِىْ دُوْنَ مَرْتَبَتِهٖ الْمَطَامِعُ۔

96 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا كُلَّ عِلْمٍ نَّافِعٍ۔

97 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ الْبَلَاغِ۔

98 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَ الْفَرَاغِ۔

99 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبَلِّغِ عَنْ رَّبِّهٖ اَكْمَلِ اِبْلَاغٍ۔

100 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَوْلَاهُ مَا بَقِىَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ بَاغٍ۔

101 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْبَغُ بِهَا عَلَيْنَا النِّعَمَ اَتَمَّ اِسْبَاغٍ۔

102 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لِهِمَّتِهٖ فِى الطَّاعَاتِ صَارِفٌ۔

103 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِعُلُوْمٍ وَّ مَعَارِفٍ۔

104 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْبَعِ الْكَرَمِ وَاَمَانِ كُلِّ خَآئِفٍ كَانَ يُمَازِحُ وَلَا يُخَالِفُ۔

105 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا اَمَانًا مِّنْ جَمِيْعِ الْمَخَاوِفِ۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْخَلَآئِقِ۔

107 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُؤَيَّدِ بِالْخَوَارِقِ۔

108 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ وَقَفَتِ الشَّمْسُ تَصْدِيْقًا لِّوَعْدِهِ السَّابِقِ۔

109 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ عَمَّ كَرَمُهُ السَّابِقَ وَ اللَّاحِقَ۔

110 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَبَحَّرُ بِهَا فِیْ عِلْمِ الْحَقَآئِقِ۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ هُوَ مِنْ اَوَّلِ نَشْاَتِهٖ حَاجِزٌ لِّكُلِّ قَبِيْحٍ وَّ تَارِكٍ۔

112 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ عَجَزَ عَنْ اِدْرَاكِ حَقِيْقَتِهٖ كُلُّ سَالِكٍ۔

113 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّجَّانَا اللهُ عَنِ الْمَهَالِكِ۔

114 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُؤَهِّلُنَا بِهَا لِحَمْلِ اَسْرَارِكَ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ هُوَ الْحَبِيْبُ وَ الْخَلِيْلُ۔

116 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مِنْهُ وَ اِلَيْهِ عِلْمُ جِبْرَآئِيْلَ۔

117 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ مِنْ قِيَامِهِ اللَّيْلَ الطَّوِيْلَ۔

118 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَحْيَا الْمَوْتٰى بِاِذْنِ الْجَلِيْلِ۔

119 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْفَعُهُمْ بِهَا سِرَّ التَّنْزِيْلِ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْعَالِمِ بِمَا كَانَ وَ بِمَا

يَكُوْنُ مِنْ قِبَلِ الْعَلِيْمِ۔

121 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَسْرٰى بِهٖ فِى اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ۔

122 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُخَاطَبِ بِقَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ}۔

123 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْعِلْمِ وَ مَظْهَرِ سِرِّ الْحَكِيْمِ۔

124 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا كُلَّ خَيْرٍ عَمِيْمٍ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ اَقَرَّ بِفَضْلِهِ السَّابِقُوْنَ وَاللَّاحِقُوْنَ۔

126 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ لَمْ يَزَلْ فِىْ حِرْزِهٖ مَكْنُوْنٌ۔

127 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ اَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ ذَاتِ الْكُمُوْنِ۔

128 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ حَجَبَ جَلَالُهٗ جَمَالَهُ الْمَصُوْنَ۔

129 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا مَا نَالَهُ الذَّاهِدُوْنَ۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ هُوَ اَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللّٰهِ۔

131 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ بَلَغَ مِنَ التَّوَاضُعِ مُنْتَهَاهُ۔

132 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَمَالِ اللّٰهِ وَ كَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِ اللّٰهِ۔

133 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ اِصْطَفَاهُ رَبُّه، وَ اَدْنَاهُ۔

134 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا رِضَاكَ وَ رِضَاهُ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ طُهِرَتْ آبَاؤُه، مِنَ السِّفَاحِ وَ الْعُتُوِّ۔

136 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الرَّاقِیْ اِلٰى اَعْلٰى مَرَاتِبِ الْعُلُوِّ۔

137 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ نَالَ غَايَةَ الْقُرْبِ وَ الدُّنُوِّ۔

138 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ كَمَالَاتُه، دَائِمَةُ النُّمُوِّ۔

139 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا السُّمُوِّ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ كَانَ اِذَا سُئِلَ لَا يَقُوْلُ لَا۔

141 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ هُوَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوْلٰى۔

142 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ سَأَلَ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى۔

143 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ هُوَ اَجَلُّ الْوَرٰى ذِكْرًا وَّ اَحْلَا۔

144 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُمْلِیْ بِهَا عَلَيْنَا الْاَسْرَارَ وَ تَجَلّٰى۔

145 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ السَّاقِی الشَّرَابِ الْاِلٰہِیِّ۔

146 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ كَفَاهُ اللّٰهُ كُلَّ

مُسْتَهْزِئٍ وَّ شَقِيٍّ۔

147 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تَشَرَّفَ اَتْبَاعُهٗ كُلُّ
رَسُوْلٍ وَّنَبِيٍّ۔

148 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تَمَّ بِذَاتِهٖ اِنْتِظَامُ
عِقْدِ النُّبُوَّةِ الْجَوْهَرِيِّ۔

149 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُقَرِّبُنَا مِنْ حَضَرَاتِ
الْعَلِيِّ۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَّهُ الْمِنَّةُ عَلَى الْعِبَادِ وَرَاحِمُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِيْ يَوْمِ الْمَعَادِ نَسْئَلُكَ بِحَقِّ ذَاتِكَ الَّتِيْ لَا تُنْكَرُ وَ اَسْمَائِكَ الَّتِيْ لَيْسَ لِمَعَانِيْهَا حَدٌّ يَّحْصَرُ اَنْ تُذِيْقَنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِكَ وَلَا تَشْغَلْنَا بِغَيْرِكَ وَ اسْتَعْمِلْنَا فِيْ مَرْضَاتِكَ اِلٰهَنَا اِنَّ ظُلْمَةَ الذُّنُوْبِ قَدْ اَعْمَتِ الْبَصِيْرَةَ وَ تَنَاوُلَ الشَّهَوَاتِ قَدْ اَطْفَأَ نُوْرَ السَّرِيْرَةِ وَ نَحْنُ عَبِيْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُعْتَرِفُوْنَ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ مُمْتَثِلُوْنَ لِاَوَامِرِكَ وَلِنَوَاهِيْكَ نَسْتَشْفِعُ اِلَيْكَ بِكُلِّ حَبِيْبٍ وَّ خَلِيْلٍ وَّ بِكُلِّ مُقَرَّبٍ اِلَيْكَ بِلَا تَمْثِيْلٍ اَنْ تَهَبَ لَنَا نُوْرًا فِي الْبَصِيْرَةِ لَا يُوْصَفُ وَ عِلْمًا لَّكَ يُصْرَفُ قَلْبًا مُّؤْمِنًا مُّطْمَئِنًّا وَّلَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا وَقَعَ مِنَّا وَ نَسْئَلُكَ بِحَقِّ عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ وَ مُنْقِذِ النَّاسِ مِنَ الْمَهْلَكَةِ الَّذِيْ رَفَعْتَهٗ وَ كَلَّمْتَهٗ وَ اخْتَرْتَهٗ وَ اصْطَفَيْتَهٗ اَنْ تَهَبَ لَنَا رِضَاكَ وَ رِضَاهُ لِنَفُوْزَ بِمَا اَمَّلْنَاهُ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الرِّضَا وَ الْعَفْوَ عَمَّا مَضٰى يَا مَنْ يَّعْفُوْ عَنِ الزَّلَّاتِ وَ يَرْحَمُ الْعُصَاةَ وَ يَمْحُو السَّيِّئَاتِ يَآ اِلٰهِيْ عَلَى الذُّنُوْبِ نَدِمْنَا وَ عَلٰى عَدَمِ الْعَوْدِ عَزَمْنَا وَ بِنَبِيِّكَ تَوَسَّلْنَا وَ اِلَيْكَ تَقَرَّبْنَا فَلَا تَرُدَّنَا وَلَا تَقْطَعْ حَبْلَ رَجَائِنَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا وَقَعَ مِنَّا فِيْ صَبَاحِنَا وَ مَسَائِنَا يَآ اِلٰهِيْ اِنْ طَرَدْتَّنَا عَنْ بَابِكَ فَعَلٰى بَابِ مَنْ نَّقِفُ وَ اِنْ قَطَعْتَ رَجَائَنَا مِنْ جَنَابِكَ فَمَنْ نَّرْتَجِيْهِ وَ نَسْتَعْطِفُ كَيْفَ وَ قَدْ اَطْمَعْتَ كُلَّ شَقِيٍّ هَالِكٍ فَالْمُؤْمِنُوْنَ اَوْلٰى بِذَالِكَ يَآ اِلٰهِيْ سَارَتِ السُّفُنُ وَ سَفِيْنَتِيْ وَقَفَتْ وَ انْتَهَتِ النُّفُوْسُ وَ نَفْسِيْ مَا انْتَهَتْ اِلٰهِيْ اَسْئَلُكَ فَتْحًا لِّلْاَبْوَابِ تَرْحِيْبًا بِالطُّلَّابِ۔

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشِّرْكِ بُعْدًا لَّيْسَ لَهٗ حَدٌّ وَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْاِيْمَانِ وَ امْزِجْهُ بِالرُّوْحِ وَ الْجَسَدِ۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ فَاِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعَوَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ۔

صَلَاةُ الْعُظْمٰى شَرِيْف

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُحَمِّدُنَا بِهَا الْحَقِيْقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ بِحَاءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمَيِ الْمُلْكِ وَدَالِّ الدَّوَامِ كَحَمْدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اَحْمَدَ صَلَاةً تُحْمَدُ بِهَا مِنَّا حَمْدًا مُّتَوَالِيًا مُّتَوَاتِرًا مُّتَضَاعِفًا مُّتَّسِقًا مُّتَّسِعًا مُّسْتَوْثِقًا {مُبَشِّرًا ۢ بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ ۢ بَعْدِي اسْمُه اَحْمَدُ}۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حَامِدٍ صَلَاةً تُحْمَدُ بِهَا مِنَّا حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَحْمُوْدٍ صَلَاةً تُحْمَدُ بِهَا مِنَّا حَمْدًا جَزِيْلًا جَمِيْلًا دَآئِمًا ۢ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ بِعِزَّةٍ {عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا}۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اَحِيْدٍ صَلَاةً تُحِيْدُنَا بِهَا عَنْ دِيَاجِ الظُّلُمَاتِ الْاَنَانِيَّةِ وَ الْوَهْمِيَّةِ بِرُتْبَةِ وَحْدَةٍ اَحَدِيَّةٍ وَّوَاحِدِيَّةٍ {قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۚ اَللهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ}۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى وَحِيْدٍ صَلَاةً تُوَحِّدُنَا بِهَا بِتَوْحِيْدِ وَحِيْدٍ وَّ وَحْدِيَّةٍ وَّ وَحْدَانِيَّةٍ {وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ}۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَاحٍ صَلَاةً تَمْحُوْ بِهَا فِيْ اِدْرَاكِ كُنْهِ كَيْفِيَةِ ذَاتِكَ ذَوَاتَنَا {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَه اُمُّ الْكِتَابِ}۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى حَاشِرٍ صَلَاةً تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَاقِبٍ صَلَاةً تُعَاقِبُ بِهَا لَنَا بَرَكَةً دَآئِمَةَ الْاِتِّصَالِ وَ التَّوَالِيْ مُتَعَاقِبَةً ۢ بِتَعَاقُبِ الْاَيَّامِ وَ اللَّيَالِيْ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى طٰهٰ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا بِطَآئِهَا طَلَبَ الْاَبْلَجِ وَ الْاَفْلَجِ وَ بِهَآئِهَا هِدَايَةَ الْاَبْهَجِ وَ الْاَنْهَجِ {طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى}۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى يٰسٓ صَلَاةً تَخُصُّنَا بِهَا بِنِدَاءِ يَآئِهَا بِمَحَبَّةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ بِسِرِّ سِيْنِهَا فِيْ اَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ {يٰسٓ ۚ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ ۚ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ}۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى طَاهِرٍ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ وَ الْاَهْوَالِ الرَّدِيَّةِ {اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ}۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُطَهِّرٍ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا بِهَا عَنْ قَاذُوْرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَ الشَّهَوَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ بِطَهَارَةِ الْمُطَهَّرَةِ فَاطَّهَّرُوْا .

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى طَيِّبٍ صَلَاةً تُطَيِّبُنَا بِهَا بِطَلَبِ الطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ بِطِيْبِ كَلِمَةٍ ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ﴾ .

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدٍ صَلَاةً تُعَظِّمُنَا بِهَا بِعَظْمَةِ بَلَاغَةِ سَيَّادَةِ كَرَامَةِ ﴿ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ﴾ .

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلٍ صَلَاةً تُرْسِلُنَا بِهَا اِلٰى غُرُفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى الَّتِىْ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا ﴿ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴾ .

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيٍّ صَلَاةً تُنَبِّئُنَا بِهَا بِالْاٰدَابِ وَ الْحِكَمِ وَ تُوَفِّقُنَا بِهَا لِلْاٰدَابِ وَ الْحِلْمِ ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ ﴾ .

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ الْاَزَلِيَّةِ وَ مَرْحُوْمِ الرَّحِيْمِ الرَّاحِمِ الْاَبَدِيَّةِ صَلَاةً دَآئِمَةً تَرْحَمُ بِهَا صُدُوْرَنَا بِاٰثَارِ اَسْرَارِ اَنْوَارِ رَحْمَتِكَ الرَّحِيْمِ عَظِيْمًا ﴿ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴾ .

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَيِّمٍ صَلَاةً تُقِيْمُنَا بِهَا عَلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ الْمُقِيْمِ ﴿ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ .

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَامِعٍ صَلَاةً تَجْمَعُ بِهَا فِيْنَا حُبَّكَ وَ حُبَّ الْعَمَلِ الَّذِىْ يُقَرِّبُنَا اِلٰى حُبِّكَ ﴿ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ﴾ .

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُقْتَفٍ صَلَاةً تُوَرِّثُنَا بِهَا وِرَاثَةَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ ﴿ وَ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ ﴾ .

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُقَفٍّ صَلَاةً تَسْتَقِيْمُنَا بِهَا بِاِسْتِقَامَةِ الْمُحِبِّيْنَ وَ وِرَاثَةِ الْمَحْبُوْبِيْنَ ﴿ وَ قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ﴾ .

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ الْمَلَاحِمِ صَلَاةً تُمِدُّنَا بِهَا بِفُتُوْحَاتِ الْمَكِّيَّةِ وَ ظُهُوْرَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَ الْكَمَالَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ ﴿ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾ .

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ الرَّاحَةِ صَلَاةً تُرِيْحُنَا بِهَا بِرَاحَةِ الذِّكْرِ وَ الْفِكْرِ فِى التَّوْحِيْدِ وَ الْعِرْفَانِ ﴿ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ النَّعِيْمِ ﴾ .

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى كَامِلٍ صَلَاةً تُكَمِّلُنَا بِهَا بِكَمَالَاتِ الْاَخْلَاقِ الرَّضِيَّةِ وَ اٰيَاتِ الْاَوْصَافِ الْمَرْضِيَّةِ بِكَمَالٍ ﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ﴾ .

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اِكْلِيْلٍ صَلَاةً تُكَلِّلُ بِهَا رُؤُوسَنَا بِاَكْلِيْلِ لَطَآئِفِ السِّرِيَّةِ وَ اَلْطَافِ الْخَفِيَّةِ {اَللّٰهُ
لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ}.

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُدَّثِّرٍ صَلَاةً تُدَثِّرُنَا بِهَا كَسَاءَ التَّقْيِيْسِ وَ الْمِثَالِ {يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَاَنْذِرْ . وَرَبَّكَ
فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}.

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُزَّمِّلٍ صَلَاةً تُزَمِّلُنَا بِهَا مُزَمِّلًا مُّسَتِّرًا ، بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ
بِالْمُوَحِّدِيْنَ بِتَزْمِيْلِ الْكَلِمَةِ {يَآ اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}.

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ صَلَاةً تُعَبِّدُنَا بِهَا بِمَرَاتِبِ الْعُلْيَا فِيْ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى بِعِجْزٍ {قَالَ اِنِّيْ
عَبْدُ اللّٰهِ}.

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حَبِيْبِ اللّٰهِ صَلَاةً تُحِبُّ بِهَآ اِلَيْنَا مَحْبُوْبِيَّتَكَ بِحُبٍّ {قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ}.

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَفِيِّ اللّٰهِ صَلَاةً تَصْطَفِيْنَا بِهَا بِاِصْطِفَاءِ زَكِيَّةِ السِّرِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ {اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ}.

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَجِيِّ اللّٰهِ صَلَاةً تُنَاجِيْنَا بِهَا بِنَجْوَةِ رُمُوْزِ الْعِرْفَانِ بِبَحْرِ عِرْفَانِ اَصْلِكَ وَ بِفَجْوَةِ
رُمُوْزِ تَوْحِيْدِ وَصْلِكَ كَمَا قُلْتَ {وَ قَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا}.

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى كَلِيْمِ اللّٰهِ صَلَاةً تُكَلِّمُنَا بِهَا بِكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَ الصِّدْقِ بِكَلَامٍ {وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى
تَكْلِيْمًا}.

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى خَاتِمِ الْاَنْبِيَآءِ صَلَاةً تَخْتِمُنَا بِهَا بِخَاتِمِ النَّاجِيْنَ وَ الرَّاجِيْنَ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ
اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ}.

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى خَاتِمِ الرُّسُلِ صَلَاةً تَبْعَثُنَا بِهَا مَعَ النَّبِيّٖنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ بِتَفَضُّلٍ {تِلْكَ الرُّسُلُ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ}.

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحْيٍ صَلَاةً تُحْيِيْنَا بِهَا حَيَاةً طَيِّبَةً اَبَدِيَّةً فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ وَّ حَيٌّ ، بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ
وَّ حَيٌّ دُوْنَ كُلِّ حَيٍّ وَّ حَيٌّ لَّمْ يَرِثِ الْحَيَاةَ مِنْ كُلِّ حَيٍّ {اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ}.

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُذَكِّرٍ صَلَاةً تُذَكِّرُنَا بِهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ {ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ}.

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَاصِرٍ صَلَاةً تَنْصُرُنَا بِهَا نُصْرَةً كَامِلَةً ، بِاَشَائِرِ بَشَائِرٍ {يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ

بِنَصْرِ اللهِ}۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْصُوْرٍ صَلَاةً تُؤَيِّدُنَا بِهَا بِنَصْرِكَ الْعَزِيْزِ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا ۔ بِالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ {وَ

يَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا}۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَاةً تَرْحَمُنَا بِهَا بِتَرْحِيْمِ تَكْرِيْمِ تَصْرِيْحِ تَشْرِيْحِ شَئَابِيْبِ الشُّهُوْدِ

مِلْئَ سِجَالِ زُلَالِ فُضَالِ فُيُوْضٍ {وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ}۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّ التَّوْبَةِ صَلَاةً تَقْبَلُ بِهَا تَوْبَتَنَا وَ تَغْسِلُ بِهَا حُوْبَتَنَا وَ تَقْضِيْ بِهَا دُيُوْنَنَا وَ

تُصْلِحُ بِهَا أَحْوَالَنَا {يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا}۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حَرِيْصٍ عَلَيْكُمْ صَلَاةً تَحْرُمُنَا بِهَا بِحِرْصٍ {مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفُ الرَّحِيْمُ}۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَعْلُوْمٍ صَلَاةً تُعَلِّمُنَا بِهَا عُلُوْمَ اللَّدُنِّيَّةِ وَ اللَّدُنِّيَّةِ الْعُلُوْمِيَّةِ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ

مَّعْلُوْمٍ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى شَهِيْرٍ صَلَاةً تَشْهِرُنَا بِتَشْهِيْرِ الشَّرَآئِفِ وَ تَسْيِيْرِ اِلٰى رَجَّافِ الْعَوَارِفِ الْمَعَارِفِ {

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ}۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى شَاهِدٍ صَلَاةً تَشْهَدُنَا بِهَا بِشَهَادَةِ اَسْرَارِ الْاَحَقِّ الْاَزَلِ وَ مُشَاهَدَةِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ

الْاَوَّلِ بِشَهَادَةِ {اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ}۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى شَهِيْدٍ صَلَاةً تَشْهَدُ بِهَا شُهُوْدَنَا فِيْ مُشَاهَدَةِ عِرْفَانِ وَحْدَةِ اللهِ {وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيْدٌ}۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَشْهُوْدٍ صَلَاةً تَشْهَدُنَا بِهَا اِلٰى شُهُوْدِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ بِشُهُوْدِ شَهَادَةٍ وَّ شَاهِدٍ وَّ

مَشْهُوْدٍ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى بَشِيْرٍ صَلَاةً تُبَشِّرُنَا بِهَا بِاِشَارَةِ بَشَارَةِ كَبَارَةِ {فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ اَجْرٍ كَرِيْمٍ}۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُبَشِّرٍ صَلَاةً تُبَشِّرُنَا بِهَا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا اِلٰى اللهِ بِبِشَارَةِ نَذَارَةٍ فِي اللهِ {اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاكَ

شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللهِ}۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُنْذِرٍ صَلَاةً تُنْذِرُنَا بِهَا مِنْ خَشْيَتِكَ بِاِنْذَارِ {اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ

الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ}۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نُوْرٍ صَلَاةً تُنَوِّرُنَا بِهَا بِنُوْرِ مُنْتَهَى الْعَارِفِيْنَ اِلٰى مَرْكَزِ جَلَالِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ {اَللهُ

نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ}۔

52 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سِرَاجٍ صَلَاۃً تَبْھَجُنَا بِھَا بَھْجَۃَ قَمَرِ الْحَقَآئِقِ الصَّمَدَانِیَّتِکَ {تَبٰرَکَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِیْھَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِیْرًا}۔

53 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مِصْبَاحٍ صَلَاۃً تُصْبِحُنَا بِھَا بِفَصَاحَۃِ صَرَاحَۃِ صَبَاحَۃٍ {مَثَلُ نُوْرِہٖ كَمِشْكٰوۃٍ فِیْھَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِیْ زُجَاجَۃٍ}۔

54 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی ھُدًی صَلَاۃً تَھْدِیْنَا بِھَا مِنَ الْخَلْقِ اِلَی الْحَقِّ {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھَدٰىنَا لِنَھْتَدِیَ لَوْلَآ اَنْ ھَدٰىنَا اللّٰہُ}۔

55 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَھْدِیٍّ صَلَاۃً تَھْدِیْنَا بِھَا طَرِیْقَ مَحَبَّتِکَ وَ قُرْبَ وَصْلِ اَصْلِکَ بِصِرَاطِ {اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ}۔

56 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُنِیْرٍ صَلَاۃً تُنَوِّرُنَا بِھَا بِلَوَامِعِ بَوَارِقِ شَوَارِقِ نُوْرِ ذَاتِکَ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰہِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّلَا ھُدًی وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِیْرٍ}۔

57 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی دَاعٍ صَلَاۃً تَدْعُوْنَا بِھَآ اِلٰی تَوْحِیْدِ بَقَآءِ شُھُوْدِ وَصْلِکَ وَ ذُرْوَۃِ لِقَآءِ وُجُوْدِ اَصْلِکَ {وَمَنْ یَّدْعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰھًا اٰخَرَ لَا بُرْھَانَ لَہٗ بِہٖ فَاِنَّمَا حِسَابُہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ}۔

58 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَدْعُوٍّ صَلَاۃً تَدْعُوْنَا بِھَا بِدَعْوَۃِ الْخَلْقِ اِلَی الْحَقِّ وَھُوَ الْحَقُّ حَقٌّ {وَقُلِ ادْعُوا اللّٰہَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ}۔

59 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُجِیْبٍ صَلَاۃً تُجِیْبُنَا بِھَا دُعَآئَنَا حِیْنَ نُنَاجِیْکَ رَاغِبًا وَّافِیًا ۢ بِوَفَآءِ عَھْدِکَ {اُجِیْبُ دَعْوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ}۔

60 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُجَابٍ صَلَاۃً تُجِیْبُ بِھَا سُوَالَنَا حِیْنَ نَسْئَلُکَ رَاجِیًا خَافِیًا كَافِیًا وَّافِیًا ۢ بِاِجَابَۃِ دَعْوَۃِ {اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ}۔

61 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی حَفِیٍّ صَلَاۃً تَحْفٰی بِھَا وَ الْطُفْنَا بِحَفِیٍّ حَفِیٍّ حَفِیٍّ لُّطْفِکَ الْحَفِیِّ الْحَفِیِّ الْحَفِیِّ الْحَفِیِّ وَ بِاِکْرَامٍ {سَاَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّیْ اِنَّہٗ کَانَ بِیْ حَفِیًّا}۔

62 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی عَفُوٍّ صَلَاۃً تَعْفُوْ بِھَا عَنَّا خَطَایَانَا الْجَلِیَّۃَ وَ الْخَفِیَّۃَ {بِاَنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا}۔

63 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی وَلِیٍّ صَلَاۃً تُوَلِّیْنَا بِھَا بِوِلَایَۃِ الْحَقِّ وَ بِوِدَادَۃِ الْحَقِیْقَۃِ الْحَقِّ {لَیْسَ لَھَا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَلِیٌّ وَّلَا شَفِیْعٌ}۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حَقٍّ صَلَاةً تُحَقِّقُنَا بِهَا بِحَقِّ الْحَقِّ وَ حَقِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيِّ {وَ يَسْتَنْبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ط
قُلْ اِيْ وَ رَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ}۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَوِيٍّ صَلَاةً تُقَوِّيْ بِهَا قُوَّتَنَا الرُّوْحِيَّةَ بِتَقْوِيَةِ الْاِيْمَانِ وَ الْاِيْقَانِ {اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيْزٌ}۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اَمِيْنٍ صَلَاةً تُؤَمِّنُ بِهَا بِاَمِيْنِ الشَّرِيْعَةِ وَ الطَّرِيْقَةِ وَ الْحَقِيْقَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِمَا قَالَ
اَمِيْنُ الْكَامِلِ فِيْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى {اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ}۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَأْمُوْنٍ صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا الضِّيْقَ الْكَوْنَيْنِ وَلَا تُحَمِّلْنَا بِهَا مَا لَا نُطِيْقُ فِي
الدَّارَيْنِ {اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ}۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى كَرِيْمٍ صَلَاةً تُكَرِّمُنَا بِهَا بِنُزُلِكَ مَنْزِلًا لِّلْكَرَامَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِتَنْزِيْلِ {هُوَ مَغْفِرَةٌ وَّ
رِزْقٌ كَرِيْمٌ}۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُكْرَمٍ صَلَاةً تُكَرِّمُنَا بِهَا بِاِبْتِلَاءِ كَرَامَةٍ ۔ بِالتَّكْرِيْمِ وَ التَّعْظِيْمِ وَ التَّبْجِيْلِ وَ
التَّجْلِيْلِ {فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ}۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَكِيْنٍ صَلَاةً تُمَكِّنُنَا بِهَا مَدَارِجَ فَنَاءِ الْاَطْلَقِ اِلٰى مَعَارِجِ بَقَاءِ الْمُطْلَقِ {بِاَنَّهٗ
لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ}۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَتِيْنٍ صَلَاةً تُثَبِّتُنَا بِهَا بِحَبْلِ الْمَتِيْنِ بِحُرْمَةِ {وَ اُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ}۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُبِيْنٍ صَلَاةً تُبِيْنُ لَنَا بِهَا حَقًّا مِّنْ حُجُبٍ لِّلْغُيُوْبِ وَ حَدَاتِكَ الْعُرَفَاءُ {يَعْلَمُوْنَ اَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ}۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُؤَمِّلٍ صَلَاةً تُؤَمِّلُ بِهَآ اٰمَالَنَا فِيْ دَرْكِ حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ {وَ هُوَ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا}۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى وُصُوْلٍ صَلَاةً تُوَصِّلُنَا بِهَا بِحُصُوْلِ قُبُوْلِ اُصُوْلِ وُصُوْلِ بِوَصْلِ اَصْلِ {مَآ اَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ}۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى ذِيْ قُوَّةٍ صَلَاةً تُقَوِّيْ بِهَا هِمَمَنَا عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ فِي اللّٰهِ {اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو
الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ}۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى ذِيْ حُرْمَةٍ صَلَاةً تُحَرِّمُنَا بِهَا بِحُرُمَاتِ قُرْبِكَ عَنْ قُرُبَاتِ بُعْدِكَ فِيْ جِهَادِ النَّفْسِ {
وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى ذِىْ مَكَانَةٍ صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتَنَا وَ تُبَلِّجُ بِهَا حُجَّتَنَا وَ تُفَلِّجُ بِهَا كُرْبَتَنَا وَ تُفَرِّجُ بِهَا غُرْبَتَنَا اِلٰى {يَوْمَ يُنَادِى الْمُنَادِىْ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ}۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى ذِىْ عِزٍّ صَلَاةً تُعِزُّنَا بِهَا بِعِزِّ جَلَالِكَ وَ بِجَلَالِ عِزَّتِكَ وَ جَمَالِ عَظْمَتِكَ وَ عَظْمَةِ جَمَالِكَ وَ كَمَالِ قُدْرَتِكَ وَ قُدْرَةِ كَمَالِكَ {اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا}۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى ذِىْ فَضْلٍ صَلَاةً تَفَضُّلُنَا بِهَا بِفَضِيْلَةِ اِلْهَامِ فَضْلِ عَظْمَتِكَ {وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ}۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُطَاعٍ صَلَاةً تُطِيْعُنَا بِهَا شَرِيْعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ طَرِيْقَةَ الْاَحْمَدِيَّةِ وَ حَقِيْقَةَ السِّرِّ مَدِيَّةِ وَمَعْرِفَةَ الْاِلٰهِيَّةِ بِاِطَاعَةِ {اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ}۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُطِيْعٍ صَلَاةً تُطِيْعُنَا بِهَا الْقَالَ وَ الْحَالَ اِلٰى ذٰلِكَ الْقَالِ وَ الْحَالِ {مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ}۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَدَمِ صِدْقٍ صَلَاةً تُقَدِّمُنَا بِهَآ اِلٰى صِدْقِ الْمَصْدُوْقِيْنَ الْمُقَرَّبِيْنَ الْمَحْبُوْبِيْنَ الْمُبَشِّرِيْنَ {وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ}۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رَحْمَةٍ صَلَاةً تَرْحَمُنَا بِهَا مِنْ اَمْوَاجِ بَحْرِ جُوْدِ اِحْسَانِكَ الْوَاسِعِ الَّذِىْ لَا سَاحِلَ لَهَا وَلَا غَايَةَ لَهَا {اَلَآ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ}۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى بُشْرٰى صَلَاةً تُبَشِّرُنَا بِهَا بِغَايَةِ بِدَايَةِ نِهَايَةِ اٰيَةِ {لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ}۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى غَوْثٍ صَلَاةً تُغِيْثُنَا بِهَا يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنَا اَنْ {لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ}۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى غَيْثٍ صَلَاةً تَسْقِيْنَا بِهَا مِنْ شَرَابِ مُشَاهَدَاتِ مَحَبَّتِكَ بِسِقَايَةِ نِهَايَةِ {وَ سَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا}۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى غِيَاثٍ صَلَاةً تُغِيْثُنَا بِهَا غَيْثًا مُّغِيْثًا يَا مُغِيْثُ اَغِثْنَا {بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ}۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نِعْمَةِ اللّٰهِ صَلَاةً تَنْعَمُنَا بِهَا مَعَ الَّذِيْنَ {اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ}۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى هَدِيَّةِ اللّٰهِ صَلَاةً تَهْدِىْ لَنَا بِهَا هَدِيَّةَ الْعِرْفَانِ بِهَدِيَّةِ الْهِدَايَةِ {وَ اِنِّىْ مُرْسِلَةٌ

اِلَيهِمْ بِهِدَايَتِهٖ}۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عُرْوَةٍ وُّثْقٰى صَلَاةً تُثَبِّتُنَا بِهَا اَبَدَ الْاٰبَدِ {بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ}۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صِرَاطِ اللّٰهِ صَلَاةً تَسْلُكُنَا بِهَا مَسْلَكَ صِرَاطِ عِبَادَتِكَ الصَّالِحِيْنَ الَّذِيْنَ {لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ}۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صَلَاةً تَسْتَقِيْمُنَا بِهَا هِدَايَةً كَامِلَةً ، بِدُعَاءِ {اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ}۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ صَلَاةً تَطْمَئِنُّ بِهَا قُلُوْبَنَا كَمَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ {اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ}۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيْفِ اللّٰهِ صَلَاةً تَقْطَعُ بِهَا هَوَاجِسَ قُلُوْبِنَا بِالسُّيُوْفِ الصَّارِمَاتِ الْاٰمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهِيْ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ الشَّامِلِ {نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ}۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حِزْبِ اللّٰهِ صَلَاةً تَغْلِبُنَا بِهَا بِجَزْبَةِ الذِّكْرِ وَ غَلَبَةِ الْفِكْرِ {اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ}۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى النَّجْمِ الثَّاقِبِ صَلَاةً تَثْقِبُ بِهَا طُرُقَنَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنُجُوْمِ الْكَوَاكِبِ وَ بِثُقُوْبِ النَّجْمِ الثَّاقِبِ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُصْطَفٰى صَلَاةً تَصْطَفِيْنَا بِهَا فِي الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ وَ الْكَرَامَاتِ الْاِرْتِضَآئِيَّةِ وَالْاِرْتِفَآئِيَّةِ {وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ}۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُجْتَبٰى صَلَاةً تَجْتَبِيْنَا بِهَا بِاِجْتِبَآءِ الْعَطُوْفَةِ الرَّؤُوْفَةِ {فَاجْتَبَاهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصَّالِحِيْنَ}۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُنْتَقٰى صَلَاةً تَنْتَقِيْنَا بِهَا بِكِرَامِ ذِى الْكِرَامِ لَكَ وَ بِجَلَالِ ذِى الْجَلَالِ لَكَ {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ}۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اُمِّيٍّ صَلَاةً تُعَلِّمُنَا بِهَا حَقَآئِقَ الْاَمَانِيْ بِفَصَاحَةٍ بَرَاعَةٍ {وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ اِلَّآ اَمَانِيَّ}۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُخْتَارٍ صَلَاةً تَخْتَارُ لَنَا بِهَا بِجَمِيْلِ حَمِيْدِ اِخْتِيَارِكَ فِيْ جَمِيْعِ تَوَجُّهَاتِنَا {وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ}۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَجِيْرٍ صَلَاةً تُجِيْرُنَا بِهَا اَجْرًا عَظِيْمًا {وَاللهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ}.

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَبَّارٍ صَلَاةً تُجِيْرُنَا بِهَا عَلَى الْحَسَنَاتِ وَتُجِيْرُ بِهَا عَنَّا السَّيِّئَاتِ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنَ التَّمَرُّدِ الْبَاعِثِ لِقَوْلِ {وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ}.

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَبِي الْقَاسِمِ صَلَاةً تَقْسِمُ بِهَا عَلَيْنَا وَعَلٰى ذُرِّيَّتِنَا كَاْسًا مِّنَ الْفِرْدَوْسِ {وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا}.

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَبِي الطَّاهِرِ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَذُرِّيَّتِنَا بِطُهُوْرِ طُهُوْرِ سُهُوْرٍ {اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا}.

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَبِي الطَّيِّبِ صَلَاةً تُطَيِّبُنَا بِهَا بِتَطْيِيْبِ الطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ}.

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ صَلَاةً تُثَبِّتُنَا بِهَا مَعَ اَوْلَادِنَا عَلٰى مِلَّةِ خَلِيْلِ اللهِ وَدَعْوَةِ حَبِيْبِ اللهِ {رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ}.

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُشَفَّعٍ صَلَاةً تُقْبَلُ بِهَا فِيْنَا شَفَاعَتُهٗ {يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا}.

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى شَفِيْعٍ صَلَاةً تَشْفَعُ لَنَا بِهَا بِشَفَاعَةٍ حَسَنَةٍ مَّقْبُوْلَةٍ {مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا}.

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَالِحٍ صَلَاةً تُصْلِحُنَا بِهَا صَلَاحَ الْمَحَجَّةِ الشَّرِيْفَةِ وَفَلَاحَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ بِرَبَاحٍ رَوَاحٍ فَصَاحٍ {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُصْلِحٍ صَلَاةً تُصْلِحُ بِهَآ اَحْوَالَنَا بِهِدَايَةِ الْوِلَايَةِ وَبِرَشَادَةِ الْبَغَايَةِ مِنَ الْمُصْلِحِ.

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُهَيْمِنٍ صَلَاةً تَحْفَظُنَا بِهَا بِوُجُوْدِ شُهُوْدِكَ {اَلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ}.

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَادِقٍ صَلَاةً تَصْدُقُنَا بِهَا بِتَصْدِيْقِ الْقَالِ وَتَحْقِيْقِ الْحَالِ {وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلًا}.

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُصَدَّقٍ صَلَاةً تُصَدِّقُ بِهَا رَجَآءَ بَقَآئِنَا {وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا}.

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صِدْقٍ صَلَاةً تُصَدِّقُنَا بِهَآ اَصْدَقَ الْقَوْلِ فِي الذِّكْرِ وَاَنْجَحَ الْحَوْلِ فِي الْفِكْرِ {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا}.

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَاةً تَهْدِيْنَا بِهَآ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ط صِرَاطِ مَحَبَّتِكَ وَ عِرْفَانِكَ كَمَا قُلْتَ لِسَيِّدِ رَسُوْلِكَ {اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ}۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ صَلَاةً تُعْطِنَا بِهَا اِمَامًا كَامِلًا مُّكَمِّلًا وَّ اَتْقِنَا بِهَا عَنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ فِتَنِ اَمْوَالِنَا وَ اَوْلَادِنَا نَارًا {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا}۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ صَلَاةً تَشُدُّ بِهَا زِمَامَنَا عَلٰى صِرَاطِ الْاِسْتِقَامَةِ بِمَقَآئِدِ الْغُرِّ الرَّصِيْنِ {صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ صَلَاةً تُوَدِّدُنَا بِهَا بِوِدَادِ رَشَادِ اَزْدَادِ خُلُوْصِ خُصُوْصِ خَصَآئِصِ الرَّحْمٰنِ {وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا}۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى بَرٍّ صَلَاةً تَبَرُّ بِهَآ اَقْوَالَنَا وَ اَعْمَالَنَا وَ اَحْوَالَنَا {كَلَّا اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ}۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُبَرٍّ صَلَاةً تُبِرُّ الْاَبْرَارَ {اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ}۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى وَجِيْهٍ صَلَاةً تَوَجَّهُ لَنَا بِهَا بِجَمَالِ وَجْهِكَ وَ جَلَالِ عَظَمَتِكَ {وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ}۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَصِيْحٍ صَلَاةً تَنْصِحُنَا بِهَا بِنَاصِحِ تَوْحِيْدِكَ وَ اَمْحَاضِ تَمْجِيْدِكَ وَلَا شَرِيْكَ لَكَ فِيْ اِلٰهِيَّتِكَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ {وَ اَنْصَحُ لَكُمْ}۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَاصِحٍ صَلَاةً تَنْصِحُنَا بِهَا بِاِخْلَاصِ التَّفْرِيْدِ بِطُوْلِ تَعَبُّدِكَ لَمْ نَعْلَمْ مَاهِيَّتَكَ اَللّٰهُ قَالَ {وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ}۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى وَكِيْلٍ صَلَاةً تُوَكِّلُنَا بِهَا الْخَيْرَاتِ بِوَكَالَةِ الْحَقِّ {وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ}۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُتَوَكِّلٍ صَلَاةً تَتَوَكَّلُنَا بِهَا عَلٰى ذَاتِكَ فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِنَا {وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ}۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى كَفِيْلٍ صَلَاةً تُكَفِّلُ بِهَا لِقَضَآءِ حَوَآئِجِنَا كَفِيْلًا مُّكَفِّلًا مُّتَكَفِّلًا مُّكَمِّلًا {وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا}۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى شَفِيْقٍ صَلَاةً تَشْفِقُنَا بِهَا بِشَفْقَةِ حَمْدِ الْحَامِدِيْنَ وَ بِوَحْدَةِ تَوْحِيْدِ الْمُوَحِّدِيْنَ {اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ}۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُقِيمِ السُّنَّةِ صَلَاةً تُقِيمُنَا بِهَا عَلَى السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ بِإِقَامَةِ حُدُوْدِ {اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا}.

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُقَدَّسٍ صَلَاةً تُقَدِّسُنَا بِهَا قَلْبَ الْجَزُوْعِ بِالتُّقٰى وَ نَفْسَ الْهَلُوْعِ عَنِ الْهَوٰى بِتَقْدِيْسِ الْمُقَدَّسِ طُوٰى {هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ}.

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الرُّوْحِ الْقُدُسِ صَلَاةً تُقَدِّسُ بِهَا وُجُوْهَنَا كَرُوْحِ الْقُدُسِ الْمُقَدَّسِ بِالتَّفَرُّدِ وَ التَّجَرُّدِ بِرَوَائِحِ لَوَائِحِ سَوَانِحِ {وَ اَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ}.

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ الْحَقِّ صَلَاةً تُحَقِّقُ بِهَا وُثُوْقَنَا بِحَقِيْقَةِ حَقٍّ {وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا}.

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ الْقِسْطِ صَلَاةً تُقْسِطُ لَنَا بِهَا مَحَبَّةَ الْمُقْسِطِيْنَ وَ بِحُكْمِ {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ}.

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى كَافٍ صَلَاةً تَكْفِيْنَا بِهَا كِفَايَةَ وِلَايَةٍ وِدَادَةَ نَصَارَةٍ {كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّ كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا}.

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُكْتَفٍ صَلَاةً تَكْفِيْنَا بِهَا بِتَوَجُّهِ الْمَحَبَّةِ الذَّاتِيَّةِ الْجَاذِبَةِ اِلٰى شُهُوْدِ مُطْلَقِ الْجَلَالِيَّتِكَ {وَ كَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّ نَصِيْرًا}.

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى بَالِغٍ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَا اِلٰى نَيْلِ بَقَآءٍ لَا يَزَالُ {اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}.

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُبَلِّغٍ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مَا لَا نِهَايَةَ لَهَا وَ هُوَ هٰذَا {بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ}.

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى شَافٍ صَلَاةً تَشْفِيْنَا بِهَا عَنْ اَسْقَامِ الْخَطِيَّاتِ الظَّاهِرَةِ وَ الْبَاطِنَةِ {وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا}.

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى وَاصِلٍ صَلَاةً تُوَصِّلُنَا بِهَا اِلَى الْمَحَبَّةِ وَ الْمَوَدَّةِ مِنْ تَعْطِيْفِ تَالِيْفٍ وَ تَاصِيْفٍ {يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ}.

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَوْصُوْلٍ صَلَاةً تُوْصِلُنَا بِهَا لِحُصُوْلِ وُصُوْلِ قَبُوْلِ تَدْمِيْرِ تَيْسِيْرِ تَسْخِيْرِ اَسْرَارِ اَنْوَارِ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗ.

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَابِقٍ صَلَاةً تَسْبِقُنَا بِهَا فِيْ زُمْرَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ {وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ}.

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَآئِقٍ صَلَاةً تُسِيْقُنَا بِهَا اِلٰى لِقَآئِكَ فِيْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَّسَاعَةٍ وَّوَقْتٍ مُّبَارَكَةٍ {وَجَآءَ
تْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ}.

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى هَادٍ صَلَاةً تَهْدِيْنَا بِهَا اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى الْعَارِفِيْنَ وَمَرْكَزِ جَلَالِ نُوْرِ الْمُبِيْنِ {
فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ}.

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُهْتَدٍ صَلَاةً تَهْدِيْنَا بِهَا بِاَسْرَارِ وُجُوْدِكَ الْاَعْلٰى {مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ}.

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُقَدِّمٍ صَلَاةً تُقَدِّمُنَا بِهَا اِلٰى دَرَجَةِ الْمَوْقِفِ مَوْقِفِ مَوَاقِفِ الْمُقَرَّبِيْنَ {وَقَدِمْنَا
اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا}.

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَزِيْزٍ صَلَاةً تُعِزُّنَا بِهَا بِعَزِيْزِ اِعْزَازِ تَعَزُّزِ عِزَّتِكَ {وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ}.

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى فَاضِلٍ صَلَاةً تُفَضِّلُنَا بِهَا بِفَضْلِكَ الْكَامِلِ وَلُطْفِكَ الْكَافِلِ وَوَصْلِكَ الْحَاصِلِ {
ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ}.

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُفَضَّلٍ صَلَاةً تُفَضِّلُنَا بِهَا بِتَوَاتُرِ مُتَّصِلِ مُفَضَّلِ فَضْلٍ {اَلَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا
مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا}.

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى فَاتِحٍ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا مَفَاتِيْحَ الْغَيْبِ لِخَزَآئِنِ السِّرِّ الْمَكْنُوْنِ فِيْ مَكْنُوْنِ السِّرِّ
مِنْ سِرِّ سِرِّكَ جِنَانِ الْمَعَارِفِ وَبِفَتْحِ {اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ
مَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا}.

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مِفْتَاحٍ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بَهْجَةَ مَسَرَّةٍ مَيْسَّرَةٍ مُفَرَّحَةٍ مُفَتَّحَةٍ {وَهُوَ الْفَتَّاحُ
الْعَلِيْمُ}.

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا اَبْوَابَ اَسْرَارِ الْغَيْبِ بِلَطَآئِفِ عَوَاطِفِ {وَ
عِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ}.

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا مَفَاتِيْحَ كُنُوْزِ حَقَآئِقِ الْاَشْيَآءِ كَمَا هِيَ بِفُتُوْحِ
{فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ}.

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَلَمِ الْاِيْمَانِ صَلَاةً تُعَلِّمُنَا بِهَا بِعَلَامَاتِ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ {لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا
مَّعَ اِيْمَانِهِمْ}.

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عِلْمِ الْيَقِيْنِ صَلَاةً تُيَقِّنُنَا بِهَا بِعَلَامَاتِ عِلْمِ يَقِيْنِ الْعُلَمَآءِ وَعَيْنِ يَقِيْنِ الْخُلَفَآءِ
وَحَقِّ يَقِيْنِ الْاَنْبِيَآءِ وَبِعِلْمِ {كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ}.

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى دَلِيْلِ الْخَيْرَاتِ صَلَاةً تُدَلِّلُنَا بِهَا بِدَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ وَ شَوَارِقِ الْاَنْوَارِ وَ تُخَيِّرُنَا بِهَا بِخَيْرِ خَيْرِ الْاَخْيَارِ الْاَبْرَارِ {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ صَلَاةً تُصَحِّحُ لَنَا بِهَا بِصَحَاحٍ فَصَاحٍ فُرَاحٍ صُرَاحٍ قُرَاحٍ مَعَادِنِ ذَخَائِرِ سَرَآئِرِ {اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مُقِيْلِ الْعَثَرَاتِ صَلَاةً تُقِيْلُ بِهَا عَثَرَاتِنَا كُلَّهَا {اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا}۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَفُوْحٍ عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَاةً تُصْفِحُ بِهَا عَنْ زُلَلِنَا الْغَيْرِيَّةِ بِفَضْلِ {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا}۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ صَلَاةً تُشَفِّعُهٗ بِهَا فِيْنَا عِنْدَ اللّٰهِ {مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ}۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْمَقَامِ صَلَاةً تُعْطِيْنَا بِهَا دَرَجَةَ الْخَائِفِيْنَ فِيْ مَقَامِ الْعُلٰى {وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۔ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى}۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْقَدَمِ صَلَاةً تُثَبِّتُ بِهَا اَقْدَامَنَا عَلٰى طَاعَاتِكَ وَ اِمْتِثَالِ اَوَامِرِكَ {يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ}۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَخْصُوْصٍ م بِالْعِزِّ صَلَاةً تُعِزُّنَا بِهَا بِاِعْزَازِ الْقُرْبِ وَ الرِّفْعَةِ وَ الرَّفِيْعَةِ وَ بِاِعْرَاضِ الْكُرْبِ وَ الذِّلَّةِ وَ الذَّلِيْعَةِ بِاَنَّكَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَخْصُوْصٍ م بِالْمَجْدِ صَلَاةً تُمَجِّدُنَا بِهَا بِتَمْجِيْدِ تَعْظِيْمِ عَظَمَةِ كِبْرِيَآئِهٖ تَعَالٰى {اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ}۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَخْصُوْصٍ م بِالشَّرَفِ صَلَاةً تُشَرِّفُنَا بِهَا بِشَرَافَةِ الْاِلْهَامَاتِ الْقُدْسِيَّةِ وَ الْمُلْهِمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ {فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى}۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ صَلَاةً تُوَسِّلُنَا بِهَا اِلٰى مَعَارِفِ الرَّبَّانِيِّ وَ سِرِّ الْبِرِّيِّ بِوَسِيْلَةٍ وَ كِيْلَةٍ {وَ ابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ}۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ السَّيْفِ صَلَاةً تُقَلِّدُنَا بِهَا بِسَيْفِ الْهَيْبَةِ الشِّدَّةِ وَ الْقُوَّةِ وَ الْمَنَعَةِ مِنْ م بَأْسِ الْجَبَرُوْتِ عِزَّةٍ {وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ}۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ صَلَاةً تُفَضِّلُنَا بِهَا بِمَا يُقَرِّبُنَا اِلَيْكَ بِفَضْلِ فَضِيْلَةٍ {ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ}۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْإِزَارِ صَلَاةً تُؤَزِّرُنَا بِهَا إِزَارَ الْفَقْرِ فَخْرِيْ وَالْفَقْرُ مِنِّيْ {وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ}۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْحُجَّةِ صَلَاةً تُبَلِّجُ بِهَا حُجَّتَنَا وَتُفَلِّجُ بِهَا صُدُوْرَنَا وَتُفَرِّجُ بِهَا مَأْمُوْلَنَا {لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ}۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ السُّلْطَانِ صَلَاةً تُبَيِّنُ بِهَا بُرْهَانَنَا وَتُشَدِّدُ بِهَا بُنْيَانَنَا وَتُيَقِّنُ بِهَا إِيْقَانَنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الرِّدَآءِ صَلَاةً تُسِيْلُ عَلَيْنَا بِهَا كُنُفَ سِتْرِ حِجَابِ نِظَافَةِ مَلَاحَةٍ {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَا مِنْ حَضِيْضِ التَّدَنُّسِ إِلٰى دَرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ الْعُلٰى {اَلَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى}۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ التَّاجِ صَلَاةً تُتَوِّجُنَا بِهَا بِتَاجِ مَهَابَةِ كِبْرِيَآءِ جَلَالِ مَلَكُوْتِ عِزِّ عَظَمَةِ اللهِ {إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا}۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْمِغْفَرِ صَلَاةً تُلْبِسُنَا بِهَا خِلْعَةَ إِكْلَالِ إِقْبَالِ إِجْمَالِ إِجْلَالِ وَصْلِ جَنَّتِكَ {وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ}۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ اللِّوَآءِ صَلَاةً تَحْشُرُنَا بِهَآ أَفْضَلَ الْفُضَلَآءِ مَعَ الْعَطَآءِ الْأَحْمَدِ تَحْتَ لِوَآءِ الْحَمْدِ {لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ}۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ صَلَاةً تُسَيِّرُنَا بِهَا بِسَيْرِ سِرِّ أَسْرَارِ سَرَارِيْرِ سَرَآئِرِ {سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى}۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْقَضِيْبِ صَلَاةً تَقْطَعُ بِهَا عَنَّا حُجُبَ أَكْبَارِ الْأَنَانِيَّةِ وَحُجُبَ أَكْدَارِ الْغَيْرِيَّةِ بِقَضْبِ الْعَيْنِيَّةِ {أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ}۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْبُرَاقِ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَآ إِلٰى طُرُقِ بُحْبُوْحَةِ حَضْرَةِ أَحَدِيَّتِكَ كَبَرْقِ الْبُرُوْقِ الْبُرَاقِ {فَفِرُّوْا إِلَى اللهِ}۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْخَاتَمِ صَلَاةً تَخْتِمُ بِهَا فِيْ صُدُوْرِنَا بِخَتْمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ {وَخِتَامُهٗ مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ}۔

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْعَلَامَةِ صَلَاةً تُعَلِّمُنَا بِهَا بِعَلَامَاتِ سُبُحَاتِ آثَارِ أَسْرَارِ أَنْوَارِ النُّبُوَّةِ {

الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ}۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْبُرْهَانِ صَلَاةً تُحْرِزُنَا بِهَا بِحِمَايَةٍ كِفَايَةٍ وِقَايَةٍ حَقِيْقَةٍ بُرْهَانٍ حِرْزٍ أَمَانٍ {يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ}۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْبَيَانِ صَلَاةً تُبَيِّنُ بِهَا عَلَيْنَا مُعْضِلَاتِ حَرَفَاتِ عَوِيْصَاتِ الْقُرْآنِ {لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ}۔

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى فَصِيْحِ اللِّسَانِ صَلَاةً تَفْصِحُ لَنَا بِهَا بِالْفَصَاحَةِ وَالْبَرَاعَةِ وَالْبَلَاغَةِ {رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ۙ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ}۔

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُطَهِّرِ الْجَنَانِ صَلَاةً تُطَهِّرُ بِهَا جَنَانَنَا بِطَهَارَةِ الزَّكِيَّةِ الرَّضِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ {اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ}۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَؤُوْفٍ صَلَاةً تَعْطِفُ لَنَا بِهَا بِرَأْفَةٍ رَحْمَةٍ رِقَّةٍ {ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ} {وَاِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ}۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَحِيْمٍ صَلَاةً تَرْحَمُنَا بِهَا بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ {فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ}۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اُذُنِ خَيْرٍ صَلَاةً تَسْمَعُنَا بِهَا كَلِمَاتِ الْحَقِّ وَالْيَقِيْنِ {وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ط قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ}۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَحِيْحِ الْاِسْلَامِ صَلَاةً تَسْلِمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ وَالْاَسْقَامِ وَالْاٰفَاتِ وَالْعَاهَاتِ {وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ}۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ صَلَاةً تُغْمِسُنَا بِهَا فِيْ بِحَارِ اَنْوَارِكَ وَاسْقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ بِسِيَادَةٍ {سَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ}۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَيْنِ النَّعِيْمِ صَلَاةً تُنَعِّمُنَا بِهَا بِنَعْمَآئِهِ الشَّامِلَةِ وَالْاٰئِهِ الْكَامِلَةِ بِتَنْعِيْمِ تَكْرِيْمِ تَعْمِيْمِ {ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ}۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَيْنِ الْغُرِّ صَلَاةً تَقُوْدُنَا بِهَآ اِلَيْكَ قَآئِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ بِغُرِّ نُوْرٍ {وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ط وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ}۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَعْدِ اللّٰهِ صَلَاةً تُسْعِدُنَا بِهَا بِالسَّعَادَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْمَغْفِرَةِ {فَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ}۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى خَطِيْبِ الْاُمَمِ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنَ الشَّدَآئِدِ وَالْاَهْوَالِ وَالْهِبَاطِ وَالْمِبَاطِ وَ

الْمِيَاطِ {وَشَدَدْنَا مُلْكَه وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ}۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَلَمِ الْهُدٰى صَلَاةً تُعَلِّمُنَا بِهَا بِهِدَايَةِ الْهَجَاجِ وَوِلَايَةِ الْوَهَاجِ وَرِعَايَةِ الرَّهَاجِ وَ عِنَايَةِ الْعِجَاجِ {وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ}۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى كَاشِفِ الْكُرَبِ صَلَاةً تَكْشِفُ بِهَا عَنَّا كُرُبَاتِ الزَّلْزَلَةِ الشَّوْقِ وَوَلْوَلَةِ الذَّوْقِ {وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَه اِلَّا هُوَ}۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَافِعِ الرُّتَبِ صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا مَرْتَبَتَنَا مِنْ مَّرَاتِبِ عُبُوْدِيَّةِ الْكَثْرَةِ مِنَ الْخَلْقِ اِلٰى مَعْبُوْدِيَّةِ الْوَحْدَةِ فِي الْحَقِّ بِاِشَارَةِ بِشَارَةِ {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ}۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عِزِّ الْعَرَبِ صَلَاةً تُعِزُّنَا بِهَا بِرُوْحِ الْعَرَبِ الْاَكْرَمِ وَ يَوْحِ الْعَجَمِ الْاَعْظَمِ بِسَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ {وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ}۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْفَرَجِ صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا هُمُوْمَنَا كُلَّهَا مِنْ بِدَايَةِ الْفُرُوْجِ الْفُلُوْجِ اِلٰى نِهَايَةِ الْعُرُوْجِ الْوُلُوْجِ {مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ}۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَفِيْعِ الدَّرَجِ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ الْقُرَبِ {رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ}۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى كَرِيْمِ الْمَخْرَجِ صَلَاةً تُكَرِّمُنَا بِهَا مِنْ خُرُوْجِ فَنَآءِ السُّفْلِى الْاَزَلِيِّ اِلٰى بَقَآءِ الْعِلْوِيِّ الْاَبَدِيِّ {يَآ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ}۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى ذِي الْقِبْلَتَيْنِ صَلَاةً تُقَلِّبُنَا بِهَا مِنْ قِبْلَةِ الْقَلْبَيْنِ وَ كَعْبَةِ الْقِبْلَتَيْنِ {اِلٰى قِبْلَةٍ تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ الثَّقَلَيْنِ صَلَاةً تُخَفِّفُنَا بِهَا ثِقَالَةُ الدَّارَيْنِ وَ شِقَاوَةُ الْكَوْنَيْنِ {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ}۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْفُرْقَانِ صَلَاةً تُفَرِّقُنَا بِهَا فِيْمَا بَيْنَ فَنَآءِ اَنَانِيَّةِ الطَّبِيْعَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ بَقَآءِ شُهُوْدِ الْوَحْدَانِيَّةِ الْاُلُوْهِيَّةِ الْاَحَدِيَّةِ {تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ}۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى صَاحِبِ الْكَوْثَرِ صَلَاةً تُسْقِيْنَا بِهَا مِنْ شَرَابِ حَوْضِ الْكَوْثَرِ شُرْبَةً هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ط لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدَ الْاَبَدِ كَمَا ظَهَرَ مِنْ وَحْدَةِ الْحَالِ اِلٰى كَثْرَةِ الْمَقَالِ {اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ} وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ سَمْعًا یَّسْمَعُ آیَاتِكَ وَ عَقْلًا یَّفْهَمُ اِیْمَانَكَ وَ بَصَرًا یَّرٰی قُدْرَتَكَ وَ فُؤَادًا یَّعْرِفُ عَظْمَتَكَ وَ قَلْبًا یَّعْتَقِدُ تَوْحِیْدَكَ وَ سَیْرًا یَّتَیَسَّرُ بِاَسْرَارِكَ وَ نُوْرًا یَّتَنَوَّرُ بِعِرْفَانِكَ وَ حَالًا یَّتَصَوَّرُ بِخَیَالِكَ وَ خَیَالًا یَّتَوَصَّلُ بِوَصْلِ اَصْلِكَ وَ اجْعَلْنِیْ فِیْ وِلَایَةِ عِصْمَتِكَ وَ دِرَایَةِ عَظْمَتِكَ وَ بِدَایَةِ وَسْمَتِكَ وَ نِهَایَةِ قُرْبَتِكَ مَا لَا یَسَعُهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا یُصِیْغُهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا یُرْسِلُهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا یُصِیْبُهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا یُدْرِكُهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا یُوْصِلُهٗ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا مَعِیْهٗ اِلَّا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اَحْرِقْ عَوَارِضَ خَیَالِیْ مِنْ نَّارِ عِشْقِكَ وَ شَوْقِیْ اِلٰی جَلَالِكَ وَ جَمَالِكَ وَ قَطِّعْ حِجَابًا مِّنْ بَیْنِیْ وَ بَیْنِكَ وَ نَوِّرْ قَلْبِیْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَ ارْزُقْنِیْ كَاْسًا مِّنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَ خِلْعَةِ وِصَالِكَ وَ تَشْرِیْفِ لِقَآئِكَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ۔



سُوْرَةُ الْفَاتِحَة

درود شفاء شریف

مسمی بقضائے حاجات

از خواجہ بزرگ

1328ھجری

1 يَا اَللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَامِعِ بِحَقِيْقَتِهٖ لِجَمِيْعِ الْحَقَآئِقِ، وَ بِرُوْحِهٖ بِجَمِيْعِ الْاَرْوَاحِ، وَ بِشَرِيْعَتِهٖ لِجَمِيْعِ الشَّرَآئِعِ، وَ بِنُبُوَّتِهٖ لِجَمِيْعِ النُّبُوَّاتِ، وَ بِوِلَايَتِهٖ لِجَمِيْعِ الْوِلَايَاتِ، وَ بِقَلْبِهٖ لِجَمِيْعِ الْقُلُوْبِ، اَشْرَفِ الْخَلَآئِقِ، وَ شَمْسِ الطَّرَآئِقِ نُوْرٍ يُّهْتَدٰى بِهٖ اِلَى الْحَقِّ وَ ظِلٍّ لَّا وَاسِطَةَ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ النُّوْرِ الْمُطْلَقِ، اَصْلِ الْاُصُوْلِ، اَلْمُنَزَّهِ عَنِ الْاِتِّحَادِ وَ الْحُلُوْلِ، اَلظَّاهِرِ بِنُوْرِهٖ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِيْنَ، اَلْبَاطِنِ بِكُنْهِهٖ عَنْ اِدْرَاكِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، اَلسَّيِّدِ الَّذِىْ بِحَقِيْقَتِهٖ وَاسِطَةُ الْوُجُوْدِ وَ الشُّهُوْدِ، بَيْنَ الذَّاتِ وَ سَآئِرِ الْحَقَآئِقِ وَ بِصُوْرَتِهِ الْمَظْهَرِيَّةِ غَايَةُ تَوَجُّهِ الْخَالِقِ وَ عِنَايَتِهٖ اِلَى الْخَلَآئِقِ الْمَحْمُوْدِ فِي الْمَلَكُوْتِ وَ النَّاسُوْتِ، وَ الْمَشْهُوْدِ فِي الْجَبَرُوْتِ وَ اللَّاهُوْتِ الْمُبِيْنِ الَّذِىْ هُوَ بَدْرُ لَيَالِى التَّعَيُّنَاتِ، وَ شَمْسُ كُرَّاتِ التَّنَزُّلَاتِ الْكَامِلِ الَّذِىْ كَمُلَتْ بِهِ الْاِنْسَانِيَّةُ وَ الظَّاهِرِ الَّذِىْ ظَهَرَتْ بِهِ الرَّحْمَانِيَّةُ لَوْلَا نُزُوْلُهٗ لَمَا تَعَدَّدَ الْوَاحِدُ وَ لَوْلَا عُرُوْجُهٗ لَمَا اتَّحَدَ الْمُتَعَدِّدُ الْوَاحِدُ حَقِيْقَتُهٗ، وَ الْمُتَعَدِّدُ صُوْرَتُهٗ، اٰدَمُ وَ مَنْ بَعْدَهٗ نُوَّابُهٗ، وَ صُوَرُ جَلَالِهٖ ط وَ جِبْرِيْلُ وَ مَنْ تَحْتَهٗ اَتْبَاعُهٗ، وَ شُعَاعَاتُ شَمْسِ جَمَالِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَهٗ، وَ خَلَقَهٗ، عَلٰى هٰذِهِ الْحَقِيْقَةِ الْحَقَّانِيَّةِ وَ صَوَّرَهٗ، وَ قَدَّرَهٗ، عَلٰى هٰذِهِ الْهَيْئَةِ الْاِلٰهِيَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَوَسَّلُ بِهٖ فِىْ حَضْرَتِكَ وَ مَا تَوَسَّلَ بِهٖ كُلُّ ذِىْ حَاجَةٍ اِلٰى جَنَابِ قُدْسِكَ اِلَّا اَوْصَلْتَهٗ اِلٰى مَطْلُوْبِهٖ فَاَسْئَلُكَ مُتَوَسِّلًا م بِثَنَآءِ حَبِيْبِكَ الَّذِىْ قُلْتَ فِىْ شَانِهِ الْعَلِيِّ مِنْ لَّدُنِ الْعَرْشِ اِلٰى تَحْتَ الْاَرْضِيْنَ كُلُّهُمْ يَطْلُبُوْنَ رِضَآئِىْ وَ اَنَا اَطْلُبُ رِضَآئَكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ تُسَهِّلَ حُزُوْنَةَ اَمْرِىْ وَ تُذَلِّلَ صُعُوْبَتَهٗ، وَ تُعْطِيَنِىْ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ اَكْثَرَ مِمَّآ اَرْجُوْ وَ تَصْرِفُ عَنِّى الشَّرَّ اَكْثَرَ مِمَّآ اَخَافُ وَ تُثَبِّتَنِىْ عَلٰى طَرِيْقَتِهِ التَّوَكُّلِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ غِنَآءِ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا وَ تُقِيْمَنِىْ عَلٰى شَرِيْعَتِكَ الْغَرَّآءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ وَ طَرِيْقَتِكَ الْمُوْصِلَةِ اِلَى الْمَقَامِ الْاَحَدِىِّ التَّوْحِيْدِىِّ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ جَاهِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ۔

2 يَا اَللهُ يَا مُجِيْبُ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَحَدُ اٰثَارِهَا الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا اَنْ تُعْطِىَ سُؤَالَ مَنْ تَوَسَّلَ بِاِسْمِهِ الْمُبَارَكِ اِلٰى حَضْرَتِكَ ط وَ سَلَامًا مِّنْ فُرُوْعِهِ الْمُنْشَعِبَةِ مِنْهُ وَ تُسَلِّمَ مَنْ سَئَلَكَ مُتَوَسِّلًا م بِهٖ مِنْ اَهْلِ الْاِبْتِلَآءِ مِمَّا يَخَافُ ط وَ مِنْ سَآئِرِ الْاٰفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ ط وَ مُبَارَكَةً مِنْ لَّوَازِمِهَا

الْبَيِّنَةِ، اَنْ تَجْعَلَ فِيْ رِزْقِ الْمُتَوَسِّلِ بِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ بَرَكَةً عَامَّةً تَامَّةً۔

3 يَآ اَللّٰهُ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رَسُوْلِنَا الَّذِىْ هُوَ اَشْرَفُ الْمُبْدَعَاتِ وَ اَفْضَلُ الْمَخْلُوْقَاتِ، وَ خَيْرُ الْمُمْكِنَاتِ وَ اَنْوَرُ الْمَجَالِيْ وَ اَصْفَى الْمَظَاهِرِ، وَ النُّوْرُ الْاِلٰهِيُّ الْقُدْسِيُّ الْمُتَجَلِّيْ فِي الصُّوْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَ السِّرُّ الْمُبْهَمُ الذَّاتِيُّ الظَّاهِرُ فِي الْهَيْئَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ كُلُّ مَا ظَهَرَ فِي الْوُجُوْدِ فَهُوَ وَصْفٌ مِّنْ اَوْصَافِهٖ، وَ كُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْكَوْنِ فَهُوَ نَعْتٌ مِّنْ نُّعُوْتِهٖ، اَلْاَنْبِيَآءُ ظِلَالُ نُبُوَّتِهٖ ط وَ الْاَوْلِيَآءُ آثَارُ وِلَايَتِهٖ، وَ الْمَلَآئِكَةُ اَمْوَاجُ بَحْرِ خُلُقِهٖ وَ هُوَ الْبَحْرُ الْمَوَّاجُ الزُّخَارُ، وَ هُوَ مَعْدِنُ جَوَاهِرِ الْمَوْجُوْدَاتِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ وَ النَّاسُوْتِيَّةِ۔

يَآ اَللّٰهُ ثَبِّتْنِيْ عَلٰى طَرِيْقِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ اَوْصِلْنِيْ اِلٰى مَرَاتِبِ الرِّجَالِ الْكَامِلِيْنَ، بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ جَاهِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ وَ اسْتَجِبْ دُعَآئِيْ بِصَدَقَةِ مُحَمَّدٍ۔

4 يَآ اَللّٰهُ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ اَضْعَافَ مَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ وَ اَضْعَافَ مَا تَصَوَّرَهٗ اَوْ اَدْرَكَهٗ عَقْلٌ اَوْ وَهْمٌ اَوْ حِسٌّ اَوْ كَشْفٌ مِّنَ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ وَ الْبَرَكَاتِ وَ اَضْعَافَ مَا لَا يَتَنَاهٰى اِلٰى مَا لَا يَتَنَاهٰى صَلَاةً م بِهَا تَدْفَعُ عَنْ قَلْبِيْ مَرَضَ التَّوَجُّهِ اِلٰى غَيْرِكَ وَ عَنْ جِسْمِي الْعَمَلَ بِمَا يُخَالِفُ شَرِيْعَةَ حَبِيْبِكَ وَ سَلَامًا م بِهٖ تَجْعَلُنِيْ غَنِيًّا عَمَّنْ سِوَاكَ ثَابِتًا عَلٰى طَرِيْقَتِهِ الصُّوْفِيَّةِ الْمُحَقِّقِيْنَ الْكَامِلِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ وَرَثَةُ حَبِيْبِكَ الْمُرْتَضٰى اِلَيْكَ۔

5 يَآ اَللّٰهُ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمَحْبُوْبِ الْمُقَدَّسِ عَنْ اَنْ يُّحِبَّهٗ اَحَدٌ اَوْ يَعْرِفَهٗ كَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيِّ اِلَّآ اَنْتَ فَهُوَ خَاصُّكَ وَ مَخْصُوْصُكَ كَمَآ اَنَّكَ لَا يَعْرِفُكَ مَحْبُوْبُكَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ط فَاَنْتَ بِعِنَايَاتِكَ الْخَاصَّةِ خَاصُّهٗ وَ مَخْصُوْصُهٗ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ اِجَابَةَ دُعَآئِيْ مِنَ الْاٰثَارِ الَّتِيْ لَا تَتَنَاهٰى بِصَلَوَاتِكَ وَ تَسْلِيْمَاتِكَ عَلَى الْحَبِيْبِ الْفَرْدِ الذَّاتِيِّ وَ النَّعْتِيِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

6 يَآ اَللّٰهُ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ ارْحَمْ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الْمُتَذَلِّلِ الْمُتَوَسِّلِ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ الرَّاجِيْ لِعِنَايَتِكَ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ جَاهِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ ط وَ ادْفَعْ عَنِّي الْاَمْرَاضَ الْقَلْبِيَّةَ وَ الْقَالَبِيَّةَ لَا سِيَّمَا مَرَضَ التَّوَجُّهِ اِلٰى غَيْرِكَ ط وَ ارْزُقْنِيْ رِزْقًا وَّاسِعًا عَلَى الدَّوَامِ وَاصِلًا مِّنْكَ اِلٰى عَبْدِكَ عَلٰى طَرِيْقَةِ الْخَاصِّ وَ الْعَامِ عَارِيًا عَنِ الْكُلَفِ وَ الْمِحَنِ خَالِيًا عَنْ م بَوَآئِقِ الدَّهْرِ وَ شَدَآئِدِ الْفِتَنِ نَافِعًا فِي الدِّيْنِ وَ الْبَدَنِ ط يَا مَنْ فَضْلُهٗ عَظِيْمٌ وَّ لُطْفُهٗ عَمِيْمٌ وَّ اِحْسَانُهٗ قَدِيْمٌ وَ نَفْسُهٗ كَرِيْمٌ وَّ رَسُوْلُهٗ رَحِيْمٌ۔

7 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُصَلِّيْ عَلٰى حَبِيْبِكَ وَ الْمُحِبُّ اِذَا رَاٰى اَحَدًا يُّصَلِّيْ عَلٰى حَبِيْبِهٖ يَرْحَمُ عَلَيْهِ وَ يَجْعَلُهٗ فَآئِزًا م بِمَقْصُوْدِهٖ فَارْحَمْنِيْ وَ هَبْ لِيْ سُؤْلِيْ وَ اغْفِرْ لِيْ وَ لِلْمُنْتَسِبِيْنَ اِلَيَّ ط وَ اقْضِ حَاجَتِيْ وَ حَاجَةَ كُلِّ مَنِ الْتَجٰى اِلَيَّ

بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ وَ جَاهِهٖ عِنْدَكَ۔

اَللّٰهُمَّ كَيْفَ اَصْدُرُ عَنْ م بَابِكَ خَآئِبًا وَّ قَدْ وَرَدْتُّهٗ، عَلٰى ثِقَةٍ م بِكَ وَ اَجِبْ دُعَآئِىْ بِحُرْمَةِ مَنْ لَّا يُرَدُّ دُعَآءُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ فَاِنِّىْ مُتَوَسِّلٌ م بِهٖ اِلَيْكَ فَبِعِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ ثَبِّتْنِىْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْاَكْمَلِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ عَلٰى طَرِيْقَتِكَ الْمُوْصِلَةِ اِلَى الْمَقَامِ الْاَحَدِيِّ التَّوْحِيْدِيِّ آمِيْنَ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ مَظْهَرِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ مِرْاٰتِ الرُّبُوْبِيَّةِ مَنْ رَّحِمَ بِهِ الْحَقُّ عَلٰى عَبْدِهٖ وَ رَبّٰى بِهِ الرَّبُّ الْمُطْلَقُ حَقَآئِقَ الْاَشْيَآءِ وَ صُوَرَهَا وَ هُوَ نُوْرٌ يُّهْتَدٰى بِهٖ اِلٰى غَايَةِ مَرَاتِبِ الْاِيْمَانِ وَ قُدْوَةٌ يُّقْتَدٰى بِهٖ فِىْ سُلُوْكِ طَرِيْقِ الْوُصُوْلِ اِلٰى اَقْصٰى مَنَازِلِ الشُّهُوْدِ وَ الْعِيَانِ الَّذِىْ لَا يُمْكِنُ الْوُصُوْلُ اِلٰى حَقِيْقَةِ الْعُلْيَا لِاَحَدٍ وَّلَا يَصِحُّ شُهُوْدُهَا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَهٗ، وَ سَلَكَ سَبِيْلَهٗ، غَايَةَ الْاَمَلِ۔

اَللّٰهُمَّ ثَنَآئِىْ وَ صَلَوَاتِىْ وَ تَسْلِيْمَاتِىْ عَلٰى حَبِيْبِكَ مِنْ اَكْمَلِ الْوَسَآئِلِ وَ اَعَزِّ الذَّرَآئِعِ لِىْ فِىْ حَضْرَتِكَ۔

9 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُصَلِّىْ وَ اُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِكَ وَ اَقُوْلُ اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ الْمُنْبَسَطَ فِى الْخَلَآئِقِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَخْرَ آدَمَ وَ مَنْ م بَعْدَهٗ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَحْرَ الْوِلَايَةِ الَّذِىْ عِيْسٰى مِنْ جَدَاوِلِهٖ ط اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طُوْرَ النُّبُوَّةِ الَّذِىْ مُوْسٰى مِنْ جَوَانِبِهٖ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ظَهَرَ فِيْهِ الْاَسْمَآءُ وَ الصِّفَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ كُلُّهَا عَلٰى وَجْهِ الْاِعْتِدَالِ التَّآمِّ بِلَا غَالِبِيَّةٍ وَّ مَغْلُوْبِيَّةٍ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَوَابُ سَلَامِهٖ قَضَآءُ الْحَاجَاتِ وَ سَلَامَةُ اَصْحَابِ الْاٰفَاتِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَتَوَقَّعُ وَ اَرْجُوْ اِعْتِمَادًا عَلٰى كَرَمِهِ الذَّاتِىِّ وَ الصِّفَاتِىِّ جَوَابَ سَلَامٍ حَتّٰى اَسْلَمَ عَنْ جَمِيْعِ الْاٰفَاتِ الدِّيْنِيَّةِ وَ الدُّنْيَوِيَّةِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ هُوَ الْوَسِيْلَةُ وَ الْفَضِيْلَةُ لَنَا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّ آدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَ الطِّيْنِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَانَ فَيَّاضًا وَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَوَسَّلُ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ وَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُرِيَنِىْ فِىْ مَنَامِىْ وَ يَقْظَتِىْ لِقَآءَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْ تُعْطِيَنِىْ مَا رَجَوْتُ مِنْكَ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اِذَا تَوَسَّلْتُ اِلَيْكَ بِمَنْ سِوَاكَ فَاَنْتَ الْوَسِيْلَةُ فِى الْحَقِيْقَةِ فَاِنَّ مَنْ سِوَاكَ لِمَظْهَرِيَّةِ صِفَاتِكَ حَقِيْقٌ م بِاَنْ يُّتَوَسَّلَ بِهٖ ط فَاَنْتَ الْمَسْئُوْلُ وَ اَنْتَ الْوَسِيْلَةُ فَاقْضِ حَاجَتِى الَّتِىْ تَعْلَمُهَا بِحُرْمَةِ سِرِّكَ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ عَيْنُ الْمَقْصُوْدِ۔

10 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً تُعَلِّمُنِىْ بِهَا طَرِيْقَ السُّلُوْكِ اِلٰى حَضْرَتِكَ وَ اِلٰى مَآ اَوْصَلْتَ اِلَيْهِ اَوْلِيَآئَكَ آمِيْنَ يَا مُجِيْبَ السَّآئِلِيْنَ۔

11 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْحَقِيْقَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُحِيْطَةِ بِالْحَقَآئِقِ وَ الْاَعْيَانِ وَ النُّقْطَةِ الْبَسِيْطَةِ الْمُتَمِّمَةِ

لِمَنَازِلِ الْاِيْمَانِ وَ الْاِحْسَانِ وَ الدَّآئِرَةِ الْكُبْرٰى الشَّامِلَةِ لِجَمِيْعِ الدَّوَآئِرِ الْوُجُوْدِيَّةِ الظُّهُوْرِيَّةِ التَّعَيُّنِيَّةِ۔

12 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حُبُّهٗ حَقِيْقَةُ الْاِيْمَانِ وَحُضُوْرُهٗ كَمَالُ الْاِحْسَانِ۔

13 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ بِظُهُوْرِهٖ لَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّسْمِيَةِ۔

14 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ لِعُلُوِّ شَانِهٖ لَا يُشَارُ اِلَيْهِ بِاِسْمٍ وَّلَا يُكْشَفُ عَنْهُ بِحَدٍّ۔

15 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ الَّذِيْ لَا يُمْكِنُ اَنْ يُّدْرِكَ كُنْهَ وَصْفِهٖ مُكْتَنِهٌ اَوْ يَكْتَنِهَ دَقِيْقَةَ نَعْتِهٖ مُدْرِكٌ۔

16 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اَضْعَافَ مَرَاتِبِ الْعَدَدِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ۔

17 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ جَوَاهِرِ الْفَرْدَةِ الْقِرَآءَةِ الَّتِيْ اَثْبَتَهَا الْكَلَامِيُّوْنَ۔

18 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ الْاِسْتِعْدَادَاتِ الَّتِيْ اَثْبَتَهَا الْعَقْلِيُّوْنَ۔

19 وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَقْضِيْ بِهَا حَاجَتِيْ مِنْ حَيْثُ اِنِّيْ مِنْ كِلَابِ بَابِهٖ وَسَلَامًا تُسَلِّمُنِيْ بِهٖ مِنْ آفَةِ تَاخِيْرِ اِجَابَةِ دُعَآئِيْ لِاَنِّيْ مِنَ الْفُقَرَآءِ السَّآئِلِيْنَ فِيْ جَنَابِهٖ وَمُبَارَكَةً تَجْعَلُ بِهَا بَرَكَةً فِيْ قَوْلِيْ وَفِعْلِيْ وَعُمْرِيْ لِاَجْلِ كَوْنِيْ مِنْ اَذِلَّةِ عُبَيْدٍ لَّهٗ وَلِاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ قَضَآءُ حَاجَتِيْ بِالنَّظَرِ اِلٰى هِمَّتِيْ وَ مَرْتَبَتِيْ عَظِيْمٌ لَّا بِالنَّظَرِ اِلٰى ذَاتِكَ وَ اِلَى الْوَسِيْلَةِ الْعَظِيْمِ فَاَعْطِنِيْ مَا رَجَوْتُ مِنْكَ بِحُرْمَةِ اَمْرِهٖ وَ شَرَفِ حَالِهٖ وَ عِزَّةِ مَنْصَبِهٖ وَ عُلُوِّ مَرْتَبَتِهٖ وَ سُمُوِّ قَدْرِهٖ وَ اَرِنِيْ حَقَآئِقَ الْاَشْيَآءِ كَمَا هِيَ مَعَ طُوْلِ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ الْاِسْتِقَامَةِ عَلٰى شَرِيْعَةِ حَبِيْبِكَ الَّتِيْ تُوْصِلُ اِلَى التَّوْحِيْدِ الْاَحَدِيِّ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعِزَّتِهٖ وَشَرَفِهٖ وَجَاهِهٖ وَقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ۔

اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دُعَآئِيْ فَاِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ بِمَنْ تُجِيْبُ مَنْ يَّتَوَسَّلُ بِهٖ، اَللّٰهُمَّ حَمْدُكَ فَوْقَ طَاقَتِيْ وَ ثَنَآءُ حَبِيْبِكَ وَرَآءَ قُدْرَتِيْ اِلَّا اِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ فِيْ جَمِيْعِ مَسَآئِلِيْ بِاِسْمِ حَبِيْبِكَ الَّذِيْ اِسْمُهٗ فَوْقَ الْمُسَمَّيَاتِ وَ مَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ بِحَبِيْبِكَ فَاِنَّ التَّوَسُّلَ بِذَاتِ حَبِيْبِكَ تَقْتَضِي الْاِتِّصَالَ بِهٖ وَ هُوَ غَايَةُ الْغَايَاتِ وَلَا غَايَةَ فَوْقَهٗ وَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ حَبِيْبَكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ اِسْمِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اِذَا سُئِلَ مُحِبٌّ بِاِسْمِ مُحِبٍّ وَّلَهٗ قُوَّةُ اِعْطَآءٍ فَيُعْطِيْهِ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ وَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِبُّكَ وَحَبِيْبُكَ وَ تَوَسَّلْتُ وَسَئَلْتُ بِاِسْمِهِ الْعَظِيْمِ مِنْكَ اَنْ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ تَحْصِيْلِ الْكَمَالَاتِ الْاِنْسَانِيَّةِ الْعِرْفَانِيَّةِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّذِيْ هُوَ صَاحِبُ الْاَسْمَآءِ وَ مَلِكُ الْمُسَمَّيَاتِ صَاحِبِ الْحُجَجِ الْقَطْعِيَّةِ وَ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ ط اَلْغَنِيُّ عَنْ تَوْصِيْفِنَا وَ الْمُسْتَغْنِيْ عَنْ تَكْرِيْمِنَا، اَلْمُخْتَصُّ بِسِرِّ اَوْ اَدْنٰى وَ النُّوْنِ وَ الْقَلَمِ الْاَعْلٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَاةً شَامِلَةً لِجَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ وَسَلَامًا مُتَضَمِّنًا لِجَمِيْعِ التَّسْلِيْمَاتِ وَبَرَكَةً حَاوِيَةً لِجَمِيْعِ الْبَرَكَاتِ كُلُّهُمْ نَاشِيَةٌ مِّنْ عِلْمِكَ

الْقَدِيْمِ وَ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ صَلَوَاتُ اللهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ حَمَلَةِ عَرْشِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ مِنْ
زَمَنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلٰى اِنْقِضَآءِ الدُّنْيَا بَلْ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ عَلٰى مَنْ هُوَ حَقِيْقَةُ مَنْشَآءِ الصَّلَوَاتِ
وَ مَنْبَعِ الْبَرَكَاتِ الَّذِيْ صَدَرْنَا عَنْ صِفَاتِكَ بِتَوَسُّطِهٖ لَوْلَاهُ لَمَا اهْتَدَيْنَآ اِلٰى نُوْرِ الْوُجُوْدِ وَ الَّذِيْ حَصَلْنَا
عَنْ آيَاتِكَ بِنُوْرِهٖ لَوْلَاهُ لَمَا ظَفَرْنَا بِالْعِيَانِ وَ الشُّهُوْدِ فَبِحَقِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِيْ هُوَ خَيْرُ
الْمَحْبُوْبِيْنَ وَ خَيْرُ الْمُحِبِّيْنَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَيَّ بِعَيْنِ اللُّطْفِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ تَرْزُقَنِيْ اَقْصٰى مَرَاتِبِ الشُّهُوْدِ وَ
الْعِيَانِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَ الْمَوَدَّةِ وَ تُعْطِيَنِيْ سُؤْلِيْ وَ تَجْعَلَنِيْ مُتَوَكِّلًا قَانِعًا غَنِيًّا عَنِ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا بِحُرْمَةِ مَنْ
هُوَ خَيْرُ الْقَانِعِيْنَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ الْمُعْرِضِيْنَ عَنِ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِيْ مَآ اَحْبَبْتَ اَحَدًا اِلَّا بِتَوَسُّطِ
حُبِّكَ اِيَّاهُ فَاِنَّهُ الْمَحْبُوْبُ الْمَرْضِيُّ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْمَحْبُوْبِيْنَ وَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ مِنْ غَيْرِ
عِلَّةٍ وَّ فَقْرٍ وَّ فَاقَةٍ فِيْ اِتِّبَاعِ شَرِيْعَتِكَ الْجَامِعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دَعْوَتِيْ وَ اقْضِ حَاجَتِيْ وَ حَاجَةَ كُلِّ مَنِ الْتَجٰى اِلَيَّ ط فَاِنْ اَرَدْتَّ فَمَنْ لِّيْ اَسْئَلُهٗ سِوَاكَ ط وَ مَنْ
سِوٰى حَبِيْبِكَ اَتَوَسَّلُ بِهٖ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْمَسْئُوْلُ وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ الْوَسِيْلَةُ وَ الذَّرِيْعَةُ
وَهُوَ مَحْبُوْبُكَ وَ اَنْتَ قُلْتَ فِيْ شَانِهِ الْعَلِيِّ اَفْدَيْتُ مُلْكِيْ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَلَا بُدَّ لِيْ مِنَ الرَّجَآءِ الْقَوِيِّ الْقَطْعِيِّ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اِنِّيْ عَاجِزٌ عَلٰى اِقَامَةِ اَسْبَابِ حُصُوْلِيْ عَلَى الْكَمَالَاتِ وَ وُصُوْلِيْ اِلَى الْمَطَالِبِ الْكُلِّيَّةِ وَ
اَعْلَى الْمَقَامَاتِ اِلَّا اِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ بِالصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ عَلٰى مَنْ هُوَ لَهَا اَهْلٌ وَّلَا تَرُدُّ سُؤَالَ الْمُتَوَسِّلِ
بِهٖ فَاَجِبْ سُؤَالِيْ وَ اَغْنِ قَلْبِيْ وَ احْفَظْنِيْ وَ اَوْلَادِيْ مِمَّا لَا تَرْضَاهُ مِنَ التَّذَلُّلِ عَلٰى بَابِ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا۔

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ تَاخِيْرُ اِجَابَةِ دُعَآئِيْ مِنْ جِهَةِ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ الْحُقُوْقِ الَّذِيْنَ قَصَّرْتُ فِيْ حُقُوْقِهِمْ فَارْضِهٖ عَنِّيْ وَ
اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنَ التَّقْصِيْرِ وَ اِنْ كَانَ بِسَبَبِ الذُّنُوْبِ وَ الْعِصْيَانِ فَاِنِّيْ اِعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ وَ تُبْتُ اِلَيْكَ
فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ ط وَ اَنْتَ قُلْتَ قَوْلُكَ صِدْقٌ وَّ وَعْدُكَ حَقٌّ {لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ
اللهِ ط اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ} وَاِنْ كَانَ بِسَبَبِ مَانِعٍ آخَرَ لَآ اَعْلَمُ ط وَ اَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوْبِ فَادْفَعْ ذٰلِكَ الْمَانِعَ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ جَاهِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ وَ اَجِبْ دُعَآئِيْ وَ
دُعَآءَ كُلِّ مَنِ الْتَجٰى اِلَيَّ وَ دُعَآءَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ دُعَآءَ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى
جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى مَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ يَا مَنْ
هُوَ الْمُثْبِتُ وَ الْمَاحِيْ يَا مَنْ هُوَ لَا يُسْئَلُ غَيْرُهٗ يَا مَنْ هُوَ لَا يَرُدُّ السَّآئِلَ ط يَا مَنْ هُوَ الرَّحِيْمُ الْكَرِيْمُ
اللَّطِيْفُ الرَّؤُوْفُ الْجَوَّادُ۔

20 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ هَبْ لِيْ
سُؤْلِيْ بِحُرْمَتِهٖ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ {اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ط غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ} يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

درود شفاء

از خواجہ خُورد

1 اَللّٰهُمَّ یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا شَافِیْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی حَبِیْبِكَ وَ خَاتِمِ اَنْبِیَآئِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ صَحْبِهٖ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ الَّذِیْ مَا تَوَسَّلَ بِهٖ ذُوْ حَاجَةٍ اِلٰی حَضْرَتِكَ اِلَّآ اَوْصَلْتَهٗ اِلٰی مَطْلُوْبِهٖ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ اشْفِنِیْ وَ صَحِّحْنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِیْ عَلٰی طَرِیْقَةِ التَّوَكُّلِ وَ غِنَآءِ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْیَا وَ اَهْلِهَا۔

3 اَللّٰهُمَّ یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا شَافِیْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی رَسُوْلِكَ وَ حَبِیْبِكَ وَ خَاتِمِ رُسُلِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ لَا یُدْرِکُه، وَاصِف، وَّلَا یُکْنِهُه، نَاعِت، صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَ اشْفِنِیْ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا وَّ وَفِّقْنِیْ لِمَا تُحِبُّه، وَ یُحِبُّه، حَبِیْبُكَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ۔

5 اَللّٰهُمَّ یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا شَافِیْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی شِفَآءِ صُدُوْرِنَا وَ نُوْرِ قُلُوْبِنَا وَ رُوْحِ اَرْوَاحِنَا وَ حَیَاتِ حَقَآئِقِنَا حَبِیْبِكَ مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ هُوَ الْوَسِیْلَةُ فِی الْمَطَالِبِ الدِّیْنِیَّةِ وَ الدُّنْیَوِیَّةِ الْمَرْضِیَّةِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ عِنْدَكَ وَ اشْفِنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ صَحِّحْنِیْ وَ وَفِّقْنِیْ لِمُتَابَعَتِهٖ فِی الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ وَ ثَبِّتْنِیْ عَلٰی طَرِیْقَةِ الْمَحَبَّةِ الْحَقِیْقَةِ الْمَرْضِیَّةِ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِكَ وَ اَشْرَفِ بَرِیَّتِكَ وَ اَفْضَلِ مَصْنُوْعَاتِكَ وَ رُسُلِكَ الْاَكْمَلِ وَ حَبِیْبِكَ الْاَجْمَلِ وَ خَلِیْلِكَ الْاَفْضَلِ مُحَمَّدِ نِ الْحَامِدِ الْمَحْمُوْدِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ الَّذِیْ خَصَّصْتَه، بِمَحَبَّتِكَ الْخَاصَّةِ وَ عِنَایَتِكَ التَّامَّةِ وَ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ۔

8 اَللّٰهُمَّ یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا شَافِیْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ عَلٰی سَآئِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِیْنَ اَجْمَعِیْنَ وَ اشْفِنِیْ وَ صَحِّحْنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ وَ وَفِّقْنِیْ لِاِتِّبَاعِ طَرِیْقَتِهِ الْاَنِیْقَةِ بِحُرْمَتِهٖ وَ عِزَّتِهٖ عِنْدَكَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔

9 اَللّٰهُمَّ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا شَافِيْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ فِي الْعَالَمِيْنَ وَالنُّوْرِ الْمُنَوَّرِ
لِلْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ جَمَالِكَ الْجَلِيْلِ الْجَمِيْلِ وَنُوْرِكَ الْمُتَجَلِّيْ فِيْ كُلِّ ظِلٍّ وَّاَصِيْلٍ وَّكُلِّ مَدْلُوْلٍ وَّدَلِيْلٍ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَوْلَادِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ
وَبِحُرْمَةِ اٰلِهٖ وَبِحُرْمَةِ اَصْحَابِهٖ وَبِحُرْمَةِ اَزْوَاجِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَوْلَادِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاشْفِنِيْ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا عَاجِلًا
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

11 اَللّٰهُمَّ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا شَافِيْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ صَلَاةً وَّسَلَامًا وَّبَرَكَةً لَّا نِهَايَةَ لَهَا عَلٰى حَبِيْبِكَ
مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَا نِهَايَةَ لِحُسْنِهٖ وَجَمَالِهٖ وَلَا غَايَةَ لِفَضْلِهٖ وَكَمَالِهٖ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا وَّقَوِّنِيْ وَ
صَحِّحْ جِسْمِيْ وَقَلْبِيْ وَوَفِّقْنِيْ لِمَا يُوْصِلُنِيْ اِلٰى رِضَاكَ وَرِضَآءِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

13 اَللّٰهُمَّ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا شَافِيْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى خَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَنَجِيِّكَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِيِّ الرُّوْحَانِيِّ اللَّطِيْفِ الظَّاهِرِ فِيْ اَحْسَنِ الصُّوَرِ وَاَجْمَلِ الْوُجُوْهِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ فِي الْمَلَكُوْتِ وَالنَّاسُوْتِ وَالْمَشْهُوْدِ فِي الْجَبَرُوْتِ وَاللَّاهُوْتِ حَمِدَ اللّٰهَ وَحَمِدَهُ اللّٰهُ وَ
شَهِدَ اللّٰهَ وَشَهِدَهُ اللّٰهُ لَا يَحْمَدِ اللّٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَلَا يَشْهَدُهٗ اِلَّا اللّٰهُ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى مَنِ اسْتَفَاضَ مِنْهُ الْوُجُوْدُ وَالشُّهُوْدُ عَلٰى حَسْبِ اِسْتِعْدَادِهٖ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ الشَّاهِدِ الْمَشْهُوْدِ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى هٰذَا الْخَلِيْلِ الْحَامِدِ الْمَحْمُوْدِ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى هٰذَا الرَّسُوْلِ الْوَاجِدِ الْمَوْجُوْدِ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى هٰذَا الْحَبِيْبِ الْمُحِبِّ الْمَحْبُوْبِ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى هٰذَا الصَّفِيِّ الطَّالِبِ الْمَطْلُوْبِ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ
اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ صَلَاةً وَّسَلَامًا وَّبَرَكَةً مِّنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى نُوْرِكَ الْعَزِيْزِ وَشُعَاعِكَ الْغَالِبِ وَرُوْحِكَ السَّارِيِّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ
الْحَبِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَيْكَ فِيْ صِحَّةِ بَدَنِيْ وَقُوَّةِ جِسْمِيْ فَشَرِّفْنِيْ بِاَنْ يَّكُوْنَ هُوَ وَسِيْلَةً لِّيْ وَاَقْبِلْ مُلْتَمِسِيْ
بِحُرْمَتِهٖ وَبِحُرْمَةِ مَنْ لَّهُ الْعِزَّةُ وَالْقَبُوْلُ عِنْدَهٗ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مُقَرَّبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الصُّوَرِ الْعِلْمِيَّةِ لِشُيُوْنِكَ وَ اِعْتِبَارَاتِكَ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ ذَاتِكَ وَ صِفَاتِكَ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رُوْحِ خَلْقِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ عَالَمِ الْاَرْوَاحِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى قَلْبِ الْخَلَآئِقِ وَسْطِ الْبَرَايَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ عَالَمِ الْمِثَالِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى آخِرِ التَّجَلِّيَاتِ وَ غَايَةِ الظُّهُوْرَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ عَالَمِ الْاَجْسَامِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَقْصُوْدِ الْمَحْبُوْبِ فِي الْكُلِّ وَ مِنَ الْكُلِّ فِي الْعَالَمِ الْاِنْسَانِيِّ الْكَمَالِيِّ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى سَآئِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ وَ شَرَفِهٖ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ مَلَآئِكَتِكَ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِيْ عَلَى الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّآءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَنْوَرِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ الْاَجْمَعِيَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِمَحَبَّتِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ فِيْ شِفَآئِيْ وَ صِحَّتِيْ فَاشْفِنِيْ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا عَاجِلًا۔

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ اشْفِنِيْ وَ ثَبِّتْنِيْ عَلَى التَّوَكُّلِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ غِنَآءِ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا وَ احْفَظْنِيْ عَنْ جَمِيْعِ الْاَعْدَآءِ الْاٰفَاقِيَّةِ وَ الْاَنْفُسِيَّةِ وَ غَلَبَتِهِمْ وَ احْفَظْنِيْ وَ احْفَظْ اَوْلَادِيْ عَنِ التَّذَلُّلِ وَ غَلَبَةِ الْاَعْدَآءِ وَ وَفِّقْهُمْ لِمُتَابَعَةِ الشَّرِيْعَةِ وَ الطَّرِيْقَةِ الْمَاخُوْذَتَيْنِ مِنْ اَقْوَالِ حَبِيْبِكَ وَ اَفْعَالِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔

30 اَللّٰهُمَّ يَا اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا شَافِيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اَصْلِ الْاُصُوْلِ الْمُنَزَّهِ عَنِ الْاِتِّحَادِ وَ الْحُلُوْلِ الظَّاهِرِ بِنُوْرِهٖ فِي السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ، الْبَاطِنِ بِكُنْهِهٖ عَنْ اِدْرَاكِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اَوَّلِ الْاَوَآئِلِ وَ الْاٰخِرِ الْاَوَاخِرِ وَ بَاطِنِ الْبَوَاطِنِ وَ ظَاهِرِ الظَّوَاهِرِ الَّذِيْ هُوَ بِحَقِيْقَتِهٖ وَاسِطَةُ الْوُجُوْدِ وَ الشُّهُوْدِ بَيْنَ الذَّاتِ وَ الصِّفَاتِ وَ سَآئِرِ الْحَقَآئِقِ وَ بِصُوْرَةِ الْمَظْهَرِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ غَايَةُ تَوَجُّهِ الْخَالِقِ وَ عِنَايَتِهٖ اِلَى الْخَلَآئِقِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تَشْفِیَنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا عَاجِلًا ۔
بَدَنِیًّا قَلْبِیًّا رُوْحِیًّا ظَاهِرِیًّا ۔ بَاطِنِیًّا عِلْمِیًّا عَمَلِیًّا حَالِیًّا وَّ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ جَسَدِیْ وَ لَحْمِیْ وَ عَظْمِیْ وَ دَمِیْ وَ
عَصَبِیْ وَ حَوَآسِّیْ وَ قُوَآئِیْ وَ جَمِیْعِ اَعْضَآءِ بَدَنِیْ وَ اَجْزَآءِ
كُلَّ مَرَضٍ قَدِیْمٍ اَوْ حَدِیْثٍ دَمَوِیٍّ اَوْ بَلْغَمِیٍّ اَوْ سَوْدَاوِیٍّ اَوْ غَیْرِهَا وَ تُصَحِّحَنِیْ وَ تُقَوِّیَنِیْ وَ تَجْعَلَنِیْ طَوِیْلَ
الْعُمْرِ وَ تُثَبِّتَنِیْ عَلٰی طَرِیْقَةِ الْمُحَمَّدِیَّةِ الْاَكْمَلِیَّةِ فِی الشَّرِیْعَةِ وَ الْحَقِیْقَةِ وَ تُوْصِلَنِیْ اِلٰی مَا یَطْلُبُهٗ قَلْبِیْ حَتّٰی
یَغْلِبَ عَلَیْهِ حَالُ الْاِیْمَانِ وَ تُقَوِّیَنِیْ فِیْهِ وَصْفَ الْاِحْسَانِ ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تَشْفِیَنِیْ بِصَدَقَةِ مُحَمَّدٍ وَّ اَوْلَادِهٖ وَ تُصَحِّحَنِیْ وَ تُقَوِّیَنِیْ وَ تَجْعَلَنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ۔

31 اَللّٰهُمَّ یَآ اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا شَافِیْ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ
اَجْمَعِیْنَ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ اشْفِنِیْ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا ۔ بِحُرْمَتِهٖ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ یَا
رَبَّ الْعَالَمِیْنَ ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اشْفِ جَسَدِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ صَحِّحْ جِسْمِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ اَزِلْ
مَرَضِیْ بِحُرْمَتِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اُقْسِمُ عَلَیْكَ بِحَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِیْنَ اَنْ تَشْفِیَنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ وَ
بِشَرَفِهٖ عِنْدَكَ ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ صَلٰوةً وَّ سَلَامًا وَّ بَرَكَةً كُلُّهَا نَاشِیَةٌ مِّنْ مَّحْضِ فَضْلِكَ وَ حُبِّكَ وَ عَلٰٓی اٰلِهٖ وَ
اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۔

34 اَللّٰهُمَّ یَآ اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا شَافِیْ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی حَبِیْبِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَا
تَوَسَّلَ بِهٖ اَحَدٌ اِلَّا وَصَلَ اِلٰی مَقْصُوْدِهٖ وَ مَا اسْتَشْفٰی بِهٖ مَرِیْضٌ اِلَّا شُفِیَ مِنْ مَّرَضِهٖ فَهُوَ وَسِیْلَةُ الْعَالَمِیْنَ
فِیْ مَطَالِبِهِمْ اِلَیْكَ وَ هُوَ شِفَآءُ الْمَرَضِ النَّازِلِ مِنْ لَّدَیْكَ ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَتَوَسَّلُ بِهٖ فِیْ صِحَّتِیْ وَ شِفَآئِیْ فَصَحِّحْنِیْ وَ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ عِنْدَكَ ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰٓی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ قِبْلَتِنَا حَبِیْبِكَ وَ صَفِیِّكَ وَ خَلِیْلِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَا یَأْسَ عَلٰی بَابِهٖ لِذَوِی الْحَاجَاتِ وَ لَا خَیْبَةَ فِیْ حَضْرَتِهٖ لِاَهْلِ الْمُرَادَاتِ ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَهٗ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ وَ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ شِفَآءً كَامِلًا وَّ اجْعَلْهُ لِیْ
شَفِیْعًا فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ۔

38 اَللّٰهُمَّ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا شَافِيْ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ،
وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ قَلْبِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ نَفْسِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ جَسَدِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ عَيْنِيْ وَ بَصَرِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ سَمْعِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ فَمِيْ وَ لِسَانِيْ وَ شَفَتِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ شَآمَّتِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ وَجْهِيْ وَ جَبْهَتِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ صَدْرِيْ وَ فِيْ جِلْدِيْ وَ فِيْ لَحْمِيْ وَ فِيْ دَمِيْ وَ فِيْ عَظْمِيْ وَ فِيْ عَصَبِيْ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ جَمِيْعِ اَجْزَآئِيْ وَ اَعْضَآئِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّيَّتِيْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

39 اَللّٰهُمَّ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا شَافِيْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْجَامِعِ بِحَقِيْقَتِهٖ
لِجَمِيْعِ الْحَقَآئِقِ ط وَ بِرُوْحِهٖ لِجَمِيْعِ الْاَرْوَاحِ وَ بِشَرِيْعَتِهٖ لِجَمِيْعِ الشَّرَآئِعِ وَ بِنُبُوَّتِهٖ لِجَمِيْعِ النُّبُوَّاتِ وَ بِوِلَايَتِهٖ
لِجَمِيْعِ الْوِلَايَاتِ وَ بِقَلْبِهٖ لِجَمِيْعِ الْقُلُوْبِ شَرَفُ الْخَلَآئِقِ وَ شَمْسُ الطَّرَآئِقِ نُوْرٌ يُّهْتَدٰى بِهٖ اِلَى الْحَقِّ وَ ظِلٌّ
لَّا وَاسِطَةَ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ النُّوْرِ الْمُطْلَقِ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِنُبُوَّتِهٖ وَ
بِوِلَايَتِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ مُخْتَارِكَ وَ نُوْرِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ
الَّذِيْ عَمَّ نُوْرُهٗ وَ كَمُلَ ظُهُوْرُهٗ وَ جَلَّ سِرُّهٗ وَ شَمَلَ بِرُّهٗ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا مِّنْ كُلِّ مَرَضٍ وَّ صَحِّحْنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِیْ
عَلَى السُّنَّةِ السَّنِیَّةِ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَعْدِنِ اَنْوَارِكَ وَ مَخْزَنِ اَسْرَارِكَ وَ مَحَلِّ عِنَایَاتِكَ وَ تَجَلِّیَاتِكَ وَ مَنْزَلِ
شُعَاعَاتِكَ وَ ظُهُوْرَاتِكَ مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَا نُوْرَ اِلَّا هُوَ وَلَا ظُهُوْرَ اِلَّا هُوَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَوْلِیَآءِ
اُمَّتِهٖ اَجْمَعِیْنَ۔
اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ صَحِّحْنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِیْ عَلَى الطَّرِیْقَةِ الشَّرِیْعَةِ الْغَرَّآءِ
الْمُحَمَّدِیَّةِ الْاَكْمَلِیَّةِ اٰمِیْنَ۔

43 اَللّٰهُمَّ یَآ اَللهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا شَافِیْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَامِدِ الْمَحْمُوْدِ
الشَّاهِدِ الْمَشْهُوْدِ نُقْطَةِ دَآئِرَةِ الشُّهُوْدِ وَ الْوُجُوْدِ قِبْلَةِ كُلِّ مَعْدُوْمٍ وَّ مُمْكِنٍ وَّ مَوْجُوْدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ
اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ صَحِّحْنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِیْ عَلَى الطَّرِیْقَةِ الْغَرَّآءِ
الْمُحَمَّدِیَّةِ الْاَكْمَلِیَّةِ الْاَجْمَعِیَّةِ الْاَحَدِیَّةِ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ فِی الْجِبَالِ وَ
كُلِّ قَطْرَةٍ فِی الْبِحَارِ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ فِیْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ لَحْظَةٍ۔
اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ۔

45 اَللّٰهُمَّ یَآ اَللهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا كَرِیْمُ یَا شَافِیْ یَا مُجِیْبُ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدِنِ الْوَحِیْدِ الْفَرِیْدِ الْمُتَفَرِّدِ فِیْ مَقَامِ الْفَرْدَانِیَّةِ عَنِ الشِّرْكَةِ الثَّابِتَةِ لِنَبِیٍّ اَوْ مَلَكٍ بِتَفْرِیْدِكَ اِیَّاهُ
عَنْ اَنْ یَّصِلَ اِلَیْهِ غَیْرُهٗ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِیْنَ اِلٰى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ
شِفَآءً كَامِلًا تَآمًّا عَاجِلًا وَّ صَحِّحْنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ وَ اهْدِنِی الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ
التَّوْحِیْدِ الْاَكْمَلِیِّ الْمُحَمَّدِیِّ الْاَجْمَعِیِّ الْاَحَدِیِّ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقُطْبِ السَّرْمَدِیِّ وَ النُّوْرِ السَّاطِعِ الْاَزَلِیِّ الْاَبَدِیِّ
بَدْرِ لَیَالِی التَّعَیُّنَاتِ وَ شَمْسِ كُرَّاتِ التَّنَزُّلَاتِ الْمُسَمّٰى الَّذِیْ مِیْمُ اِسْمِهِ الْمِیْمُ الْمُؤْمِنِیُّ الْمُهَیْمِنِیُّ وَ
حَآءُ اِسْمِهِ الْحَآءُ الْحَسْبِیُّ الْحَفِیُّ وَ دَالُ اِسْمِهِ الدَّالُ الْاَحَدِیُّ الْوَاحِدِیُّ فِیْ صِفَاتِهٖ۔
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلَیْهِ وَ تُؤْمِنَنِیْ مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَّ تُثَبِّتَنِیْ فِی الطَّرِیْقَةِ
الْمُحَمَّدِیَّةِ الْاَكْمَلِیَّةِ وَ تَشْفِیَنِیْ بِحُرْمَتِهٖ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا نَّافِعًا فِی الْبَدَنِ وَ الْقَلْبِ فِی الدِّیْنِ وَ الدُّنْیَا
اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْاَرْوَاحِ.

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْجَبَرُوْتِ.

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى قَلْبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْعَمَاءِ.

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اِسْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ اَشْرَفِ الْمُسَمَّيَاتِ.

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى عَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بَصَرِهٖ فِي الْقُلُوْبِ الْجَلِيَّةِ.

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَمْعِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اُذُنِهٖ فِي الْبَصَائِرِ الثَّاقِبَةِ.

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى شَمِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي النَّفَحَاتِ الْغَيْبِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ.

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى ذَوْقِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْاَذْوَاقِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ التَّجَلِّيَاتِ الذَّوْقِيَّةِ.

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى لَمْسِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ صُوَرِ التَّجَلِّيَاتِ اللَّمْسِيَّةِ الْمِثَالِيَّةِ.

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى وَجْهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْوُجُوْهِ الْمُسْتَوْعِبَةِ الْمَرْئِيَّةِ فِي الْمِرْآتِ الْوَحْدَةِ لِلنُّدْرِ مِنَ الْكُمَّلِ.

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى بَطْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْبَوَاطِنِ الْقُدْسِيَّةِ.

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اَيْدِيْ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْقُدْرَةِ الْمَوْهُوْبَةِ لِلْعَارِفِيْنَ.

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اَرْجُلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ رُؤُوْسِ الْمُقَدَّسِيْنَ السَّالِكِيْنَ فِيْ مَنْهَجِ الْعِلْمِ وَ الْعِرْفَانِ.

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى ظَهْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الظَّوَاهِرِ الْعَالِيَةِ الْغَالِيَةِ.

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَ صَحِّحْنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَ قَوِّنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحُرْمَتِهٖ وَ ثَبِّتْنِيْ بِحُرْمَتِهٖ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْعَلِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيْبِ الْمُطْلَقِ الذَّاتِيِّ وَالنَّبِيِّ الْاَكْمَلِ السَّرْمَدِيِّ الْوَاصِلِ فِيْ كُلِّ كَمَالٍ اِلٰى كَمَالِهٖ وَفِيْ كُلِّ فَضْلٍ اِلٰى غَايَةِ حُسْنِهٖ وَجَمَالِهِ الْجَلِيْلِ الْجَمِيْلِ وَالْجَمِيْلِ الْجَلِيْلِ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَهٗ وَخَلَقَهٗ عَلٰى هٰذِهِ الْحَقِيْقَةِ الْحَقَّانِيَّةِ وَصَوَّرَهٗ وَقَدَّرَهٗ عَلٰى هٰذِهِ الْهَيْئَةِ الْاِلٰهِيَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ الَّذِيْ يَقْصُدُهٗ كُلُّ قَاصِدٍ وَّيَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ كُلُّ مُتَوَجِّهٍ وَّيُحِبُّهٗ كُلُّ مُحِبٍّ وَّيَسْتَشْفِيْ مِنْهُ وَبِهٖ كُلُّ مَرِضٍ جَسَدِيٍّ اَوْ رُوْحِيٍّ اَوْ قَلْبِيٍّ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَشْفِيْ مِنْهُ وَبِهٖ فِيْ حَضْرَتِكَ فَاجْعَلْهُ شِفَآءً لِّيْ بِحُرْمَتِهٖ وَبِعِزَّتِهٖ وَبِقَبُوْلِهٖ وَشَرَفِهٖ عِنْدَكَ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاشْفِنِيْ شِفَآءً تَامًّا كَامِلًا عَاجِلًا آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مِيْمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُحِيْطِ بِمَعِيَّتِهِ الْمُثْبَتَةِ لِسَائِرِ الْمَعْلُوْمَاتِ الْمُتَعَيِّنَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَيْنِ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى حَآءِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَاوِيْ لِكُلِّ الْحَقَائِقِ بِسِرِّ حَيَاتِهِ الْحَقِيَّةِ الْحَقِيْقَةِ الْحَسْبِيَّةِ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مِيْمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَاحِيْ لِلْاَمْرَاضِ وَالْاٰفَاتِ عَنْ اَلْوَاحِ وُجُوْدَاتِ الْمُحِبِّيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى دَالِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّالِ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً ضَآلَّةً دَلَآئِلُنَا الْعَقْلِيَّةُ الْعَمْيَآءُ لِدِيْنِ الْاِسْلَامِ الرَّبَّانِيِّ الْمَنَّانِيِّ الْمُحَمَّدِيِّ الْاَكْمَلِيِّ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَصِّ بِمَقَامِ اَوْ اَدْنٰى وَالْمَخْصُوْصِ بِالْوَحْدَةِ الْكُبْرٰى وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ شِفَآءً تَامًّا كَامِلًا عَاجِلًا وَّصَحِّحْنِيْ وَقَوِّنِيْ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَاَقِمْنِيْ فِيْ مَقَامِ التَّوَكُّلِ وَالرِّضَآءِ وَالْغَنَآءِ عَنِ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا وَالْحُبِّ الْحَقِيْقِيِّ الْمَرْضِيِّ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى نُوْرِ الْحَقَآئِقِ الْغَيْبِيَّةِ الْمُسْتَكِنَّةِ فِيْ وَحْدَةِ الذَّاتِ الْوَحْدَانِيِّ وَسِرِّ الذَّوَاتِ الْعَيْنِيَّةِ الْبَارِزَةِ فِيْ مَرَاتِبِ الْوُجُوْدِ الْكَوْنِيِّ الْخَلْقَانِيِّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّافِيْ لِمَرْضَانَا وَالْهَادِيْ لِمَنْ ضَلَّ مِنَّا حَبِيْبِ الْخَالِقِ وَالْخَلْقِ وَاسِطَةِ الْاِرْتِبَاطِ بَيْنَ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَرَابِطَةِ الْاِلْتِيَامِ بَيْنَ الصِّفَاتِ وَالْاَفْعَالِ مَنْ تَمَيَّزَ بِحَقِيْقَةِ الْعَالِيَةِ بُطُوْنُ الْاَحَدِيَّةِ عَنْ ظُهُوْرِ الْوَاحِدِيَّةِ وَتَفَرَّدَ بِظِلِّهِ الْعَامِ الْوُجُوْبُ عَنِ الْاِمْكَانِ كَمُلَتْ بِهِ الْاِنْسَانِيَّةُ وَظَهَرَتْ بِهِ الرَّحْمَانِيَّةُ لَوْلَا نُزُوْلُهٗ لَمَا تَعَدَّدَ الْوَاحِدُ وَلَوْلَا عُرُوْجُهٗ لَمَا اتَّحَدَ الْمُتَعَدِّدُ اَلْوَاحِدُ حَقِيْقَتُهٗ وَالْمُتَعَدِّدُ صُوْرَتُهٗ وَهُوَ الْفَاعِلُ الْمُنْفَعِلُ وَالْمُتَرَقِّيْ

الْمُتَنَزِّلُ آدَمُ وَ مَنْ بَعْدَه نُوَّابُه وَ صُوَرُ ظِلَالِهٖ وَ جِبْرِيْلُ وَ مَنْ تَحْتَه اَتْبَاعُه وَ شُعَاعَاتُ شَمْسِ جَمَالِهٖ النُّوْرِ الْقُدْسِيُّ الْمُتَشَعْشِعُ فِي الظِّلَالِ وَ الْكَمَالِ الْاِلٰهِيِّ الظَّاهِرُ فِي الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ الَّذِيْ هُوَ نُوْرُ الْاَنْوَارِ وَسِرُّ الْاَسْرَارِ سِرِّيَّتُه فَوْقَ نُوْرِيَّتِهٖ وَنُوْرِيَّتُه فَوْقَ سِرِّيَّتِهٖ نُوْرٌ بِمَا هُوَ سِرٌّ وَسِرٌّ بِمَا هُوَ نُوْرٌ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ اشْفِنِيْ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا عَاجِلًا وَّ صَحِّحْنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِعِزَّتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِشَرَفِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِقَبُوْلِهٖ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامِ وَ اشْفِنِيْ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اَخَصِّ خَوَآصِّكَ وَ اَحَبِّ اَحْبَابِكَ وَ اَقْرَبِ مُقَرَّبِيْكَ وَ اَفْضَلِ الْمُفْضِلِيْنَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ بِجَمِيْعِ الْاَلْسِنَةِ الْحِسِّيَّةِ وَ الْمَعْنَوِيَّةِ وَ الْحَالِيَّةِ وَ الْاِسْتِعْدَادِيَّةِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَيْكَ فِيْ اَنْ تَشْفِيَنِيْ وَ تُصَحِّحَنِيْ وَ تُقَوِّيَنِيْ وَ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ تُثَبِّتَنِيْ عَلٰى طَرِيْقَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ تُوْصِلَنِيْ اِلٰى مَرَاتِبِ الرِّجَالِ الْكَامِلِيْنَ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الْمَحْبُوْبِ الْمُقَدَّسِ عَنْ اَنْ يُّحِبَّه اَحَدٌ اَوْ يَعْرِفَه اَحَدٌ كَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ الْعَزِيْزِ الْاَعْلٰى اِلَّا اَنْتَ فَهُوَ خَاصُّكَ وَ مَخْصُوْصُكَ كَمَآ اَنَّكَ لَا يَعْرِفُكَ اَحَدٌ كَمَا يَعْرِفُكَ هُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَنْتَ بِعِنَايَاتِكَ الْخَاصَّةِ خَاصُّه وَ مَخْصُوْصُه۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَ هُوَ وَ لَيْسَ اَحَدٌ بَيْنَه وَ بَيْنَكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُقْسِمُ عَلَيْكَ بِالسِّرِّ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه اَنْ تَشْفِيَنِيْ وَ تُصَحِّحَنِيْ وَ تُقَوِّيَنِيْ وَ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ تُثَبِّتَنِيْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْمَرْضِيَّةِ عِنْدَه وَ عِنْدَكَ فَاشْفِنِيْ شِفَآءً شَامِلًا عَاجِلًا آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نُوْرِكَ الْمُنَزَّهِ الْمُشَبَّهِ وَ سِرِّكَ الْمُقَدَّسِ الْمُصَوَّرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّافِي الْكَافِيْ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ سَآئِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ الْمُقَرَّبِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِحُرْمَةِ مَنِ اتَّبَعَهُ اشْفِنِيْ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا وَ اجْعَلْنِيْ قَوِيًّا صَحِيْحًا مُّعَافًا فِي الْبَدَنِ وَ الْقَلْبِ وَ الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا وَ طَوِّلْ عُمْرِيْ وَ ثَبِّتْنِيْ عَلٰى طَرِيْقَةِ الصُّوْفِيَّةِ الْمُحَقِّقِيْنَ الْكَامِلِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ وَرَثَةُ حَبِيْبِكَ الْاَصْفَى الْمُجْتَبَى الْمُرْتَضٰى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَبِيْبِكَ ذٰلِكَ النُّوْرُ الْعَالِیْ وَ السِّرُّ الْمُتَعَالِیْ اَنْ تَشْفِيَنِیْ مِنْ جَمِيْعِ الْاَمْرَاضِ وَ تُصَحِّحَنِیْ وَ تُقَوِّيَنِیْ وَ تَجْعَلَنِیْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

78 اَللّٰهُمَّ يَآ اللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا لَطِيْفُ يَا شَافِیْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّحْمِيْدَاتِ الَّتِیْ لَا نِهَايَةَ لَهَا صَلَاةً اَحَدُ آثَارِهَا الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ اَنْ تَشْفِیَ مَنْ تَوَسَّلَ بِاِسْمِهِ الْمُبَارَكِ اِلٰى حَضْرَتِكَ مِنَ الْمَرْضٰى شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا شَامِلًا ، بِظَاهِرِهٖ وَ بَاطِنِهٖ وَ سَلَامًا مِّنْ فُرُوْعِهِ الْمُنْشَعِبَةِ مِنْهُ اَنْ تُسَلِّمَ مَنْ سَئَلَكَ مُتَوَسِّلًا ، بِهٖ مِنْ اَهْلِ الْاِبْتِلَآءِ مِمَّا يَخَافُ وَ مِنْ سَآئِرِ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ مُبَارَكَةً مِّنْ لَّوَازِمِهَا الْبَيِّنَةِ اَنْ تَجْعَلَ فِیْ اَعْمَارِ الْمُتَوَسِّلِيْنَ بِحَضْرَتِهِ الْمُقَدَّسَةِ اِلَى اللهِ وَ اَدْيَانِهِمْ وَ اَذْوَاقِهِمُ الْمَرْضِيَّةِ بَرَكَةً عَآمَّةً تَآمَّةً۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَ اشْفِ هٰذَا الْفَقِيْرَ الْمَرِيْضَ الْمُتَوَسِّلَ بِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اجْعَلْهُ سَالِمًا مِّنْ كُلِّ آفَةٍ ، بَدَنِيَّةٍ وَّ دِيْنِيَّةٍ وَّ بَارِكْ فِیْ عُمْرِهٖ وَ دِيْنِهٖ وَ عَمَلِهٖ وَ مَعْرِفَتِهٖ بِرِضَاكَ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِشَرَفِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِقَبُوْلِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِعِزَّتِهٖ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ، الَّذِیْ حَقِيْقَتُهٗ. هِیَ الْحَمْدُ الْكُلِّیُّ وَ تَعَيُّنُهُ الْكُلِّیُّ الْعِلْمِیُّ هُوَ الْمَحْمُوْدُ الْمُطْلَقُ وَ صُوْرَتُهُ الْاِمْكَانِیُّ الْكَوْنِیُّ وَ هُوَ الْحَامِدُ فَهُوَ الْحَمْدُ وَ الْمَحْمُوْدُ وَ الْحَامِدُ كَمَآ اَنَّهُ الْعِشْقُ وَ الْمَعْشُوْقُ وَ الْعَاشِقُ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ اشْفِنِیْ بِعِزَّتِهٖ وَ اشْفِنِیْ بِشَرَفِهٖ وَ اشْفِنِیْ بِقَبُوْلِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِعِزَّتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِشَرَفِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِقَبُوْلِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرِ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرِ الرُّسُلِ الْبَشَرِيِّيْنَ وَ الْمَلَكِيِّيْنَ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَآصِّكَ وَ خَلِيْلِكَ اَضْعَافَ مَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ وَ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَضْعَافَ مَا تَصَوَّرَهٗ وَ اَدْرَكَهٗ عَقْلٌ اَوْ وَهْمٌ اَوْ حِسٌّ اَوْ كَشْفٌ مِّنَ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ وَ الْبَرَكَاتِ وَ اَضْعَافَ مَا لَا يَتَنَاهٰى بِمَا لَا يَتَنَاهٰى۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ سَآئِرِ صُلَحَآءِ اُمَّتِهٖ۔
اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ وَ صَحِّحْنِیْ وَ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِیْ عَلٰى شَرِيْعَتِكَ الْغَرَّآءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ وَ

طَرِيْقَتِكَ الْمُوْصِلَةِ إِلَى الْمَقَامِ الْاَحَدِيِّ التَّوْحِيْدِيِّ بِحُرْمَتِهٖ وَ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى اَفْضَلِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَ اَشْرَفِ الْمُبْدَعَاتِ وَ خَيْرِ الْمُمْكِنَاتِ اَنْوَرِ الْمَجَالِيْ وَ اَصْفَى الْمَظَاهِرِ النُّوْرِ الْاِلٰهِيِّ الْقُدُّوْسِيِّ الْمُتَجَلِّيْ فِي الصُّوْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَ السِّرِّ الْمُبْهَمِ الذَّاتِيِّ الظَّاهِرِ فِي الْهَيْئَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ رُوْح" كُلِّيّ" جَمِيْعُ الْاَرْوَاحِ شُعَاعَاتُه، وَعَقْل" كُلِّيّ" سَائِرُ الْعُقُوْلِ اَجْزَاؤُه، وَ جُزْئِيَّاتُه، كُلُّ مَا ظَهَرَ فِي الْوُجُوْدِ فَهُوَ وَصْف" مِّنْ اَوْصَافِهٖ وَ كُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْكَوْنِ فَهُوَ نَعْت" مِّنْ نُّعُوْتِهِ الْاَنْبِيَآءُ ظِلَالُ نُبُوَّتِهٖ وَ الْاَوْلِيَآءُ آثَارُ وِلَايَتِهٖ وَ الْمَلَآئِكَةُ اَمْوَاجُ بَحْرِ خُلُقِهِ الْعَظِيْمِ وَ هُوَ الْبَحْرُ الْمَوَّاجُ الزَّخَّارُ وَ هُوَ مَعْدِنُ جَوَاهِرِ الْوُجُوْدَاتِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ وَ النَّاسُوْتِيَّةِ، اَلْمَلَكُوْتُ يَمِيْنُه، وَ النَّاسُوْتُ يَسَارُه، وَ الْجَبَرُوْتُ قَلْبُه، وَ اللَّاهُوْتُ رُوْحُه، صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِشَرَفِهٖ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِعِزَّتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِقَبُوْلِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ يَّتَمَسَّكُ بِعُرْوَتِهٖ كُلُّ طَالِبٍ صَادِقٍ وَّ يَتَشَبَّثُ بِذَيْلِهٖ كُلُّ مُحِبٍّ هَآئِمٍ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الدَّلِيْلِ الْقَاطِعِ وَ الْبُرْهَانِ السَّاطِعِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ كَآفَّةً، اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ اشْفِنِيْ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا عَاجِلًا آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ نُوَّابِهٖ قَبْلَه، اَوْ بَعْدَه، وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللهِ الرَّحْمَةَ الْوَاسِعَةَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اللهِ الْمُنْبَسِطَ فِي الْخَلَآئِقِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَخْرَ آدَمَ وَ مَنْ م بَعْدَه، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَرَفَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مَنْ دُوْنَه، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَحْرَ الْوِلَايَةِ الَّذِيْ عِيْسٰى مِنْ جَدَاوِلِهٖ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طُوْرَ النُّبُوَّةِ الَّذِيْ مُوْسٰى مِنْ جَوَانِبِهٖ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خُلَفَآؤُه، اَرْكَانُ الدِّيْنِ الْحَنَفِيِّ الْكَمَالِيِّ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَصْحَابُه، نُجُوْمُ فَلَكِ الْهِدَايَةِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اُمَّتُه، خَيْرُ الْاُمَمِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرِيْعَتُه، نَاسِخُ الشَّرَآئِعِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ طَرِيْقَتُه، بَيْنَ الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ لَا يَغْلِبُ جَمَالُه، عَلٰى جَلَالِهٖ وَلَا جَلَالُه، عَلٰى جَمَالِهٖ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ظَهَرَ فِيْهِ الْاَسْمَآءُ وَ الصِّفَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ كُلُّهَا عَلٰى وَجْهِ الْاِعْتِدَالِ التَّآمِّ بِلَا غَالِبِيَّةٍ وَّ مَغْلُوْبِيَّةٍ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَوَابُ سَلَامِهٖ شِفَآءُ الْمَرْضٰى وَ سَلَامَةُ اَصْحَابِ الْاٰفَةِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَتَوَقَّعُ وَ اَرْجُوْ اِعْتِمَادًا عَلٰى كَرَمِهٖ

الْعَامِّ الذَّاتِيِّ وَ الصِّفَاتِيِّ جَوَابَ سَلَامٍ حَتّٰى اَسْلَمَ عَنْ جَمِيْعِ الْاٰفَاتِ وَ اشْفِنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْاَمْرَاضِ وَ اَتَوَسَّلُ بِكَرَمِهٖ اِلَيْهِ فِيْ هٰذَا الْمَطْلَبِ الْعَالِيِّ۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ عِتْرَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْنِيْ بِجَوَابِ سَلَامٍ مِّنْهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحُرْمَتِهٖ وَ عِزَّتِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ وَ شَرَفِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ يَّرْجِعُ اِلَيْهِ كُلُّ صَلَاةٍ وَّ سَلَامٍ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ تُفِيْضُ وَ تَرِدُ عَلَيْهِ كُلُّ رَحْمَةٍ وَّ عِنَايَةٍ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَ الطِّيْنِ، اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَانَ فَيَّاضًا وَّ جِبْرِيْلُ بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِيْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ التَّوْحِيْدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ اَوْصِلْنِيْ اِلٰى ذِرْوَتِهَا بِحُرْمَتِهٖ وَ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَجْمَعِ الْحَقَائِقِ وَ مَنْبَعِ الْمَعَارِفِ النُّوْرِ الْوَحْدَانِيِّ الْمُتَعَدِّدِ فِي الْمَجَالِيْ وَ السِّرِّ الرَّبَّانِيِّ الْمُسْتَتِرِ فِي الصُّوَرِ وَ الْمَعَانِيْ وَ هُوَ رِدَآءُ الْكِبْرِيَآءِ وَ اِزَارُ الْعَظَمَةِ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ اهْدِنِي الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِمَعْرِفَةِ ذَاتِكَ وَ صِفَاتِكَ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ اٰمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ فِي الْعَالَمِيْنَ النُّوْرِ الْقَاهِرِ الْغَالِبِ الَّذِيْ اِضْمَحَلَّتْ بِهٖ ظُلُمَاتُ الْكُفْرِ وَ الْمَعَاصِيْ مِنَ الْاَدَانِيْ وَ الْاَقَاصِيْ۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ وَ عَافِنِيْ مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَّ عَاهَةٍ مْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِعِزَّتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِشَرَفِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِقَبُوْلِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ حَازَ جَمِيْعَ الْكَمَالَاتِ دُوْنَ الْاِلٰهِيَّةِ وَ اسْتَوْعَبَ كَافَّةَ اَصْنَافِ الشَّرَفِ بَعْدَ الرُّبُوْبِيَّةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَامِدِ لِلْحَقِّ بِلِسَانِ كُلِّ ذِيْ لِسَانٍ وَّ بِلِسَانِهِ الْخَاصَّةِ بِهٖ وَ الْمَحْمُوْدِ لِلْحَقِّ اَيْضًا مْ بِلِسَانِ كُلِّ ذِيْ لِسَانٍ وَّ بِقَوْلِهِ الْخَاصِّ بِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مُتَوَسِّلًا مْ بِهٰذَا الْحَامِدِ الْحَمَّادِ الْمَحْمُوْدِ الْمُحَمَّدِ اَنْ تَشْفِيَنِيْ وَ تُقَوِّيَنِيْ شِفَآءً مْ بَدَنِيًّا وَّ قَلْبِيًّا وَّ قُوَّةً ظَاهِرِيَّةً وَّ بَاطِنِيَّةً وَّ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ عِبَادَتِكَ وَ عُبُوْدِيَّتِكَ وَ عُبُوْدَتِكَ وَ تُثَبِّتَنِيْ عَلٰى

الطَّرِيْقَةِ الْخَاصَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ الْمَعْرِفَةِ

98 التَّوْحِيْدِيَّةِ الْأَكْمَلِيَّةِ الْأَجْمَعِيَّةِ الْأَحَدِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ هُوَ الْوَسِيْلَةُ وَ الْفَضِيْلَةُ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْأُخْرَى وَ سَلَّمَ ۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ ۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَصِّ بِمَا لَمْ يَصِلْ اِلَيْهِ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ الْكُمَّلِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَاحِدٌ مِّنَ الرُّوْحَانِيَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ مَنِ اتَّبَعَهٗ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ وَ اشْفِنِيْ شِفَاءً تَامًّا كَامِلًا شَامِلًا لِّلظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ وَ عَامًّا لِّلصُّوَرِ وَ الْمَعَانِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ ثَبِّتْنِيْ عَلَى طَلَبِ الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ هِيَ الْكَمَالُ وَ فَوْقَ الْكَمَالِ وَ اَوْصِلْنِيْ اِلَيْهَا بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ مَلَائِكَتِكَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةَ الْاَثَرِ شَامِلَةَ الْحِكَمِ كَافَّةَ الْخَلَائِقِ لَا سِيَّمَا اُمَّتَهٗ خَيْرَ الْاُمَمِ ۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ كُلِّ الْكُلِّ وَ كُلِّيِّ الْكُلِّيَّاتِ اَجْمَعَ وَ عَلَى آلِهِ الَّذِيْنَ لَهُمْ شَرَفٌ وَّ فَضْلٌ عَلَى كُلِّ آلٍ وَّ عَلَى اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ عِنْدَهُمْ مِّنَ الْفَضْلِ وَ الْمَنْقَبَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِّنْ اَصْحَابٍ ۔

اَللّٰهُمَّ شَرِّفْنِيْ بِاَنْ تَقَبَّلَ سُؤْلِيْ بِوَسِيْلَتِهِ الْجَمِيْلَةِ وَ كَرِّمْنِيْ بِاَنْ اُشْفٰى مُتَوَسِّلًا بِاِسْمِهٖ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ شِفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا شَامِلًا وَّ صَحِّحْنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ اِتِّبَاعِ شَرْعِكَ وَ سُنَّةِ حَبِيْبِكَ وَ اهْدِنِيْ صِرَاطَ الْمَعْرِفَةِ الْكَامِلَةِ الذَّوْقِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ ۔

اَللّٰهُمَّ اَجِبْ سُؤَالِيْ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِعِزَّةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِقَبُوْلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِشَرَفِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ، وَ اشْفِنِيْ بِحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بِصَدَقَتِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرِ الْمَحْبُوْبِيْنَ ۔

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرِ الْعَارِفِيْنَ ۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرِ الْوَاصِلِيْنَ ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اشْفِنِىْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِصَدَقَتِهٖ آمِيْن۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مِيْمُه يَدُلُّ عَلٰى كَمَالِهٖ وَ تَمَامِهٖ ذَاتًا وَّ حَاؤُه يَدُلُّ عَلٰى اِسْتِجْمَاعِهٖ لِاُصُوْلِ الصِّفَاتِ الْوُجُوْدِيَّةِ وَ مِيْمُهُ الثَّانِىْ يَدُلُّ عَلٰى كَمَالِهٖ وَ تَمَامِهٖ صِفَةً كَمَا يُشْعِرُ اِلَيْهِ وُقُوْعُه بَعْدَ الْحَآءِ وَ دَالُه يَدُلُّ عَلٰى تَرْبِيْعِهِ الْكَمَالِيَّةِ بَيْنَ الْاَوَّلِيَّةِ وَ الْاٰخِرِيَّةِ وَ الظَّاهِرِيَّةِ وَ الْبَاطِنِيَّةِ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِىْ وَ امْحُ عَنْ لَّوْحِ وُجُوْدِىْ رَقْمَ الْمَرَضِ الْقَالَبِىِّ بِحُرْمَةِ مِيْمِهِ الْمَاحِىْ وَ حَوِّلْ وَجْهَ الْبَلِيَّةِ عَنِّىْ بِحُرْمَةِ حَآئِهِ الْمُحَوِّلِ بِالْحَقِّ ثُمَّ امْحُ رَقْمَ الْمَرَضِ الْقَلْبِىِّ بِحُرْمَةِ مِيْمِهِ الثَّانِىْ وَ دُلَّنِىْ عَلٰى مَا يَدْفَعُ عَنِّىْ مَرَضَ التَّوَجُّهِ اِلٰى غَيْرِكَ وَ الْعَمَلَ بِمَا يُخَالِفُ الشَّرِيْعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ بِحُرْمَةِ دَالِهِ الدَّلِيْلِ لِلْعَالَمِيْنَ اِلَى الْحَقِّ الصِّرْفِ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِ هٰذَا الْعَبْدَ الْمُتَذَلِّلَ الْمُتَوَسِّلَ بِحَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ وَ عِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَ كَرِّمْ وَ عَظِّمْ وَ شَرِّفْ كَمَا يَلِيْقُ بِحُسْنِهٖ وَ جَمَالِهٖ وَ فَضْلِهٖ وَ كَمَالِهٖ بِحُرْمَتِهٖ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّ هُوَ لَهَا اَهْلٌ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِصَلَاةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلَامِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَرَكَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بَارِكْ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَهْبَطِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ مُنْزِلِ التَّدَلِّيَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ الْمُتَمَكِّنِ فِىْ نُقْطَةِ وَسَطِ الدَّوَآئِرِ الْوُجُوْدِيَّةِ وَ الْمُسْتَقِرِّ فِىْ عَيْنِ مَرْكَزِ الْاَفْلَاكِ الظُّهُوْرِيَّةِ بَاطِنُ كُلِّ ظَاهِرٍ وَّ ظَاهِرُ كُلِّ بَاطِنٍ مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ بِكُلِّ قَوْلٍ وَّ كُلِّ فِعْلٍ وَّ كُلِّ حَالٍ وَّ كُلِّ اِسْتِعْدَادٍ مِّنْ حَيْثُ وَحْدَتِهِ الذَّاتِيَّةِ لَا يَخْلُوْا عَنْهَا ذَرَّةٌ وَّ لَوْ خَلَتْ عَنْهَا لَهَلَكَتْ وَ بَطَلَتْ فِيْهِ حَقِيْقَةُ الْحَقَآئِقِ وَ حَقِيَّةُ الْحُقُوْقِ عِلْمِيَّةً كَانَتْ اَوْ عَيْنِيَّةً عَقْلِيَّةً كَانَتْ اَوْ شَرْعِيَّةً فَكُلُّ مَا ظَهَرَ اَوْ يَظْهَرُ اَوْ بَطَنَ اَوْ يَبْطُنُ فَبِنُوْرِهٖ اَوْ بِسِرِّهٖ لَا يَعْرِفُهُ الْعَارِفُ كَمَا هُوَ فَاِنَّه عَيْنُ الْعَارِفِ مُحِيْطٌ بِهٖ وَ مَثَلُ الْعَارِفِ عِنْدَه كَمَثَلِ الْقَطْرَةِ عِنْدَ الْبَحْرِ الزَّخَّارِ وَ هُوَ ظِلُّ اللّٰهِ الْاَوَّلِ الْوَاجِبِ وَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ ظِلُّه۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْاَخْيَارِ وَ شَرَفِ الْاَشْرَافِ وَ نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَ سِرِّ

الْاَسْرَارِ وَ خَلِیْفَۃِ الْخُلَفَآءِ وَ نَبِیِّ الْاَنْبِیَآءِ وَ رُوْحِ الْاَرْوَاحِ وَ عَقْلِ الْعُقُوْلِ وَ نَفْسِ النُّفُوْسِ وَ قَلْبِ الْقُلُوْبِ وَ جِسْمِ الْاَجْسَامِ وَ عُنْصُرِ الْعَنَاصِرِ وَ اَصْلِ الْاُصُوْلِ وَ فَلَكِ الْاَفْلَاكِ وَ الْعَرْشِ الْاَعْظَمِ وَ الْكُرْسِیِّ الْاَكْرَمِ وَ الْمَظْهَرِ الْاَتَمِّ وَ الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَ اشْفِنِیْ وَ عَافِنِیْ مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَّ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ بَدَنِیٍّ اَوْ دِیْنِیٍّ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ وَیَا خَیْرَ النَّاصِرِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ شِفَآئِیْ وَ صِحَّتِیْ وَ قُوَّتِیْ وَ طُوْلَ عُمْرِیْ فِی الْاِسْتِقَامَۃِ عَلَی الشَّرِیْعَۃِ وَ الطَّرِیْقَۃِ مِنَ الْاٰثَارِ لَا یَتَنَاهٰی بِصَلَاتِكَ وَ سَلَامِكَ عَلَی الْحَبِیْبِ الْفَرْدِ الذَّاتِیِّ وَ النَّعْتِیِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ مَا دَامَتِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ وَ الْبَرَكَۃُ فِیْ خَزَآئِنِ غَیْبِكَ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَازِنِ رَحْمَتِكَ وَ نَدِیْمِ حَضْرَتِكَ وَ نَجِیِّ غَیْبِكَ وَ خَلِیْفَۃِ مَمْلَكَتِكَ صَلٰوۃً وَّ سَلَامًا وَّ بَرَكَۃً تَسْتَوْعِبُ اٰثَارُهَا جَمِیْعَ الْكَآئِنَاتِ وَ تَشْتَمِلُ اَنْوَارُهَا كُلَّ الْمَخْلُوْقَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِیْ، اَللّٰهُمَّ امْلَأْ قَلْبِیْ بِنُوْرِ مَحَبَّتِهٖ وَ مَعْرِفَتِهٖ وَ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ اٰمِیْنَ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی مَنْ هُوَ سَیِّدُنَا وَ قِبْلَتُنَا وَ اِمَامُنَا وَ اَمَامُنَا وَ عَلٰی یَمِیْنِنَا وَ عَلٰی یَسَارِنَا وَ مُحِیْطٌ بِنَا وَ فِیْ عُیُوْنِنَا وَ فِیْ اَسْمَاعِنَا وَ فِیْ قُلُوْبِنَا وَ فِیْ اَرْوَاحِنَا وَ فِیْ دِیْنِنَا وَ فِیْ اِیْمَانِنَا وَ فِیْ اَعْمَالِنَا الصَّالِحَاتِ وَ فِیْ اِنَابَتِنَا وَ مَنْ بِهٖ بَقَاؤُنَا وَ وُجُوْدُنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ لَا یَغِیْبُ عَنَّا وَ اِنْ غِبْنَا عَنْهُ وَلَا یَظْهَرُ عَلَیْنَا وَ اِنْ كُنَّا ظَاهِرِیْنَ عَلَیْهِ وَ هُوَ الظَّاهِرُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّ الْبَاطِنُ عَنْ كُلِّ شَیْءٍ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُصَلِّیْ عَلَیْهِ فَاِنَّهٗ مَحْبُوْبُكَ وَ الْمُحِبُّ اِذَا رَاٰی اَحَدًا یُّصَلِّیْ عَلٰی مَحْبُوْبِهٖ وَ یَدْعُوْا لَهٗ فَاِنَّهٗ یَرْحَمُ عَلَیْهِ وَ یَجْعَلُهٗ فَآئِزًا بِمَقْصُوْدِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ فَارْحَمْنِیْ وَ هَبْ لِیْ سُؤَالِیْ وَ اشْفِنِیْ شِفَآءً كَامِلًا عَاجِلًا وَّ قَوِّنِیْ وَ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ فِیْ مَحَبَّتِكَ وَ اِتِّبَاعِ حَبِیْبِكَ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ عِتْرَتِهٖ وَسَآئِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِیْنَ وَ الْمَلٰٓئِكَۃِ الْمُقَرَّبِیْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِصَدَاقَتِهٖ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِعِزَّتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِشَرَفِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِقَبُوْلِهٖ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ بَارَكَ وَ عَظَّمَ وَ مَجَّدَ مِنَ الْاَزَلِ اِلَی الْاَبَدِ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ مُعَلِّمِ الْمَلَكُوْتِ وَالنَّاسُوْتِ وَمُقَرِّبِ الْجَبَرُوْتِ وَاللَّاهُوْتِ وَمُتَمَكِّنِ حَضْرَتِ الْهَاهُوْتِ، اَلنُّوْرِ الْفَالِقِ الْمُظْلِمَاتِ وَالْفَارُوْقِ بَيْنَ الْوُجُوْدَاتِ وَالْعَدَمَاتِ مَعْدِنِ الظُّهُوْرِ وَمَرْكَزِ الْبُطُوْنِ فِيْهِ الْحَرَكَةُ وَفِيْهِ السُّكُوْنُ۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَآئِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَصَحِّحْنِيْ بِعِزَّتِهٖ وَقَوِّنِيْ بِشَرَفِهٖ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمُرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَاِتِّبَاعِهٖ بِقَبُوْلِهٖ وَمَحَبَّتِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَاشْفِنِيْ۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ اٰمِيْنَ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمِرْاٰتِ الرُّبُوْبِيَّةِ مَنْ رَّحِمَ بِهِ الْحَقُّ عَلٰى عَبْدِهٖ وَرَبّٰى بِهِ الرَّبُّ الْمُطْلَقُ حَقَآئِقَ الْاَشْيَآءِ وَصُوَرَهَا وَاَحْوَالِهَا نُوْرٌ يُّهْتَدٰى بِهٖ اِلٰى غَايَةِ مَرَاتِبِ الْاِيْمَانِ وَمَنَازِلِ الْاِحْسَانِ وَقُدْوَةٌ يُّقْتَدٰى بِهٖ فِيْ سُلُوْكِ طَرِيْقِ الْوُصُوْلِ اِلَى الْمَطْلَبِ الَّذِيْ لَا مَطْلَبَ فَوْقَهٗ دُنْيًا وَّاٰخِرَةً اِمَامُ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاَعْظَمُ الْخُلَفَآءِ الْاِلٰهِيِّيْنَ رَأْسُ الْحَامِدِيْنَ وَرَئِيْسُ الْمَحْمُوْدِيْنَ الَّذِيْنَ حَقِيْقَتُهٗ مِرْاٰتُ اَخَصِّ الْخُصُوْصِ فِيْ مُشَاهَدَةِ الذَّاتِ وَتَعَيُّنُهُ الْكُلِّيُّ اِذَا تَجَلّٰى يَفْنَى التَّعَيُّنَاتُ التَّحْتَانِيَّةُ الْعَارِضَةُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ حِيْنَ الْوُصُوْلِ اِلَيْهِ فِيْ بَعْضِ الْاٰنَاتِ النُّوْرِ الْبَارِقِ الَّذِيْ لَا يُمْكِنُ الْوُصُوْلُ الدَّآئِمُ اِلٰى حَقِيْقَتِهِ الْعُلْيَا لِاَحَدٍ وَّلَا يَصِحُّ شُهُوْدُهَا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَهٗ وَسَلَكَ سَبِيْلَهٗ غَايَةَ الْاَمَلِ۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَعِتْرَتِهٖ وَسَآئِرِ صُلَحَآءِ اُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ وَبِعِزَّتِهٖ وَبِشَرَفِهٖ وَبِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ اشْفِنِيْ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا عَاجِلًا وَّقَوِّنِيْ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمُرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَاِتِّبَاعِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِيْ مِنْ سُؤْلِيْ بِحُرْمَتِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ الَّذِيْ جَمِيْعُ الْمَعْلُوْمَاتِ مُنْدَرِجَةٌ فِيْ عُلُوْمِ حَقِيْقَتِهٖ كَانْدِرَاجِ اللَّوَازِمِ فِي الْمَلْزُوْمِ وَجَمِيْعُ الْحَقَآئِقِ كَالْجُزْئِيَّاتِ اَوْ كَالظِّلَالِ لِنُوْرِهِ الْكُلِّيِّ الظَّاهِرِ فِيْ صُوَرِ الْكُلِّ لِلْخُصُوْصِ وَالْعُمُوْمِ الْقِبْلَةِ الْاَصْلِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ فِيْ ثَلٰثِ مَرَاتِبِ الْمَرْتَبَةِ الْعَرْشِيَّةِ الْمُحَدَّدَةِ الْمُتَوَجِّهِ اِلَيْهَا الْاَرْوَاحُ وَالْمَرْتَبَةِ الْبَدَنِيَّةِ الْمُحَدَّدَةِ الْمُتَوَجِّهِ اِلَيْهَا الْاَجْسَامُ وَالْمَرْتَبَةِ

الْقَلْبِيَّةِ الْغَيْرِ الْمُحَدَّدَةِ الْمُتَوَجِّهِ اِلَيْهَا الْقُلُوْبُ الْقُدْسِيَّةُ الْجَامِعَةُ الْمُتَنَزِّلَةُ فِي الْحَقِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ
فَالْعَارِفُ لَا يَشْهَدُ فِيْ هٰذِهِ الْمَرَاتِبِ الثَّلٰثِ اِلَّا الْحَقِيْقَةَ الْمُرَتِّبَةَ لِلْمَرَاتِبِ وَ الْمُوَصِّلَةَ لِلْوُصُوْلِ۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ
اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دُعَائِيْ بِحُرْمَةِ مَنْ لَّا يُرَدُّ دُعَاءُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ فَاِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ بِهٖ اِلَيْكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ بِحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِصَفِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِخَلِيْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِنَبِيِّكَ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِنَجِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ وَ بِرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاشْفِنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ
مَحَبَّتِكَ وَ اَتْبَاعِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بَارِكْ وَ عَظِّمْ وَ مَجِّدْ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اَشْرَفِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ ذِكْرُهٗ ذِكْرُكَ وَ حُبُّهٗ حُبُّكَ
وَ ثَنَاؤُهٗ ثَنَاؤُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ نُوْرُهٗ اَعْلَى الْاَنْوَارِ وَ عِلْمُهٗ
اَوْسَعُ الْعُلُوْمِ وَ قَلْبُهٗ اَكْمَلُ الْقُلُوْبِ وَ صُوْرَتُهٗ اَحْسَنُ الصُّوَرِ وَ جِسْمُهٗ اَصْفَى الْاَجْسَامِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اِسْمُهٗ شِفَاءُ الْمَرْضٰى وَ وَجْهُهٗ شَمْسُ الْهُدٰى وَ عَيْنُهٗ مَجْلَى الرَّبِّ
الْاَعْلٰى وَ جَبْهَتُهُ اللَّوْحُ الْقُدْسِيُّ الْمَكْتُوْبُ فِيْهِ نُقُوْشُ الْاَرْوَاحِ الْجَبَرُوْتِيَّةِ الْمُسْتَنِيْرَةِ مِنَ الْمَقَامِ
الْاَرْفَعِ الْاَقْصٰى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ بَحْرُ الْوِلَايَاتِ وَ طُوْرُ
النُّبُوَّاتِ وَ لُجَّةُ الْمُعْجِزَاتِ وَ حِرْزُ قَصَبَاتِ الرِّسَالَاتِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔
اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ
مُنَافِنِ الَّذِيْ طَهَّرَتْ كُلَّ مَنْ لَّهٗ نِسْبَةٌ اِلَيْهِ اَصْلِيَّةٌ اَوْ فَرْعِيَّةٌ۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ
اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ اللَّائِقُ الْمُسْتَعِدُّ وَ الْحَقِيقُ الْمُتَهَيِّئُ بِصُورَتِهٖ وَ حَقِيقَتِهٖ وَ جَمْعِيَّتِهٖ لِاَنْ تُصَلِّيْ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلَيْهِ صَلَاةً شَامِلَةً كَامِلَةً وَّ سَلَامًا شَافِيًا كَافِيًا وَّ مُبَارَكَةً عَظِيْمَةً قَوِيَّةً سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُكَرَّمِ الْمُعَظَّمِ فِي السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِيْنَ وَ فِيْ رُسُلِ الْبَشَرِ وَ الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ الْمُفَرَّدِ الْمُتَاَثِّرِ بِالْمَرْتَبَةِ الْاَدْنَوِيَّةِ الْاَعْلَوِيَّةِ النَّافِيَةِ لِجَمِيْعِ اَصْنَافِ التَّعَدُّدِ وَ اَقْسَامِ الثَّنَوِيَّةِ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمُرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ اَتْبَاعِهٖ۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْعَارِفِيْنَ الَّذِيْ نَزَّلْتَ كَلَامَكَ الْقَدِيْمَ عَلَيْهِ عَلٰى حَسْبِ اِسْتِعْدَادِهٖ كَلَامًا جَامِعًا ۔ بَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَ التَّنْزِيْهِ مُبَيِّنًا لِحَقَآئِقِ التَّوْحِيْدِ وَ اَسْرَارِ الْوَحْدَةِ فِيْ عَيْنِ تَشْرِيْعِ الْاَحْكَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْوَجِيْهِ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ عِنْدَكَ آمِيْنَ۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اشْفِنِيْ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اشْفِنِيْ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اشْفِنِيْ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ ذَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ رَأْسِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ وَجْهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ شَعْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ جَبْهَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ حَاجِبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ عَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ اُذُنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ اَنْفِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ شَفَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ اَسْنَانِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ لِسَانِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ ذَقَنِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ جِیْدِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ صَدْرِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ بَطْنِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ ظَھْرِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ اَیْدِیْ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ اَرْجُلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ اَصَابِعِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ اَقْدَامِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ لِبَاسِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ مَاْکُوْلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ مَشْرُوْبِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ مَسْکَنِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ کُلِّ عُضْوٍ مِّنْ اَعْضَآءِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰھُمَّ اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ تُرَابِ اَقْدَامِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

161 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی کُلِّ عُضْوٍ مِّنْ اَعْضَآءِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ وَ
اشْفِنِیْ بِحُرْمَۃِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ۔

162 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الصَّادُ مِنَ الْحُرُوْفِ۔

163 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ اللَّامُ مِنَ الْحُرُوْفِ۔

164 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ السِّیْنُ مِنَ الْحُرُوْفِ۔

165 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْمِیْمُ مِنَ الْحُرُوْفِ۔

166 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْبَآءُ مِنَ الْحُرُوْفِ۔

167 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْاَلِفُ مِنَ الْحُرُوْفِ۔

168 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الرَّآءُ مِنَ الْحُرُوْفِ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْكَافُ مِنَ الْحُرُوْفِ.

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْهَآءُ مِنَ الْحُرُوْفِ.

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْوَاوُ مِنَ الْحُرُوْفِ.

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ التَّآءُ مِنَ الْحُرُوْفِ.

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْحُرُوْفُ صُوَرَ الْمَعَانِيْ.

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ الْحَقَآئِقُ ثَابِتَةً.

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ الْوِلَايَةُ مُتَحَقِّقَةً.

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاشْفِنِيْ وَصَحِّحْنِيْ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ اٰمِيْنَ.

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا شَافِيْ عَلٰى حَبِيْبِكَ مَظْهَرِ رَحْمَتِكَ وَمَجْلٰى كَرَمِكَ وَمِرْاٰتِ فَضْلِكَ مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الدِّيْنُ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامَ وَمَا دَامَ الْاِحْسَانُ كَمَالَ الْاِنْسَانِ.

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْاَلِفُ اَوَّلَ الْحُرُوْفِ.

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ الْحُرُوْفِ الْقُدْسِيَّةِ الْمَكْتُوْبَةِ فِيْ لَوْحِ الْوُجُوْدِ.

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَصَحِّحْنِيْ وَقَوِّنِيْ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَاِتِّبَاعِهٖ بِحُرْمَتِهٖ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ لَوْ كَانَتِ الْاَفْلَاكُ اَوْرَاقًا وَّالْاَشْجَارُ اَقْلَامًا وَّالْبِحَارُ مِدَادًا لَّمَا وَسِعَتْ حَصْرَ مَنَاقِبِهٖ وَعَدَّ كَمَالَاتِهٖ.

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَسَآئِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ اشْفِنِيْ وَصَحِّحْنِيْ وَقَوِّنِيْ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ عِبَادَتِكَ وَعُبُوْدِيَّتِكَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ.

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ مَا دَامَ الْمُمْكِنُ مُحْتَاجًا اِلَى الْوَاجِبِ وَالْاُمَّةُ اِلَى النَّبِيِّ وَالرَّشَادُ اِلٰى مُتَابَعَةِ الشَّرِيْعَةِ.

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الدَّآءِ وَالدَّوَآءِ.

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ نُجُوْمِ الْاَفْلَاكِ وَ اَوْرَاقِ الْاَشْجَارِ وَ قَطَرَاتِ الْاَمْطَارِ وَ ذَرَّاتِ الرِّمَالِ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ جَوَاهِرِ الْفَرْدِ الَّتِىْ اَثْبَتَهَا الْكَلَامِيُّوْنَ۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ الْاِسْتِعْدَادَاتِ الَّتِىْ ذَكَرَهَا الْعَقْلِيُّوْنَ۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ الْمَذَاهِبِ وَ الْمَشَارِبِ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ الْاَقْوَالِ وَ الْاَحْوَالِ۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ الْمَعْدُوْمَاتِ۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ آيَاتِكَ الْبَيِّنَاتِ۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ بِعَدَدِ مَقْدُوْرَاتِكَ وَ بِعَدَدِ مُرَادَاتِكَ وَ بِعَدَدِ مَسْمُوْعَاتِكَ وَ بِعَدَدِ مُبْصَرَاتِكَ وَ بِعَدَدِ كَلِمَاتِكَ وَ بِعَدَدِ مَرْضَاتِكَ وَ بِعَدَدِ مَكَوَّنَاتِكَ وَ بِعَدَدِ ظِلَالِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَوْقَ الْعَدِّ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَارِجَ الْحَدِّ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ مَقْدُوْرَاتِكَ۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِحُرْمَتِهٖ وَ صَحِّحْنِىْ بِعِزَّتِهٖ وَ قَوِّنِىْ بِشَرَفِهٖ وَ اجْعَلْنِىْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِقَبُوْلِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ اَجِبْ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَشْفِيْنِىْ بِهٖ مِنْ حَيْثُ اَنِّىْ مِنْ كِلَابِ بَابِهٖ وَ سَلَامًا تُسَلِّمُنِىْ بِهٖ مِنَ الْآفَاتِ لِاَنِّىْ مِنَ الْفُقَرَآءِ السَّآئِلِيْنَ فِىْ جَنَابِهٖ وَ مُبَارَكَةً تَجْعَلُ بِهَا بَرَكَةً فِىْ عُمْرِىْ لِاَجْلِ كَوْنِىْ مِنْ اَذِلَّةِ عَبِيْدِ اللّٰهِ وَ عَبِيْدِ آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ اقْبَلْ عُذْرِىْ وَ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَ تُبْ عَلَيَّ بِالْعِنَايَةِ الْخَاصَّةِ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ الَّذِىْ لَا يُشَارِكُهٗ فِىْ مَقَامِهِ الْخَاصِّ اَحَدٌ، مِّنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ وَ اشْفِنِىْ وَ قَوِّنِىْ وَ اجْعَلْنِىْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْمَا تُحِبُّهٗ، وَ يُحِبُّهٗ، وَ تَرْضَاهُ، وَ يَرْضَاهُ، آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِرَحْمَتِكَ الْعَآمَّةِ الْوَاسِعَةِ كُلَّ شَيْءٍ يَّا اَرْحَم

الرَّاحِمِيْنَ.

199 اَللّٰهُمَّ يَآ اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا لَطِيْفُ يَا كَرِيْمُ يَا شَافِيْ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ قِبْلَتِنَا حَبِيْبِكَ الصَّفِيِّ الرَّضِيِّ الْمَرْضِيِّ الْمَالِكِ مُخْتَارِكَ مُصْطَفٰكَ مُحَمَّدِ نِ الْهَادِيْ لِلدِّيْنِ الْقَدِيْمِ وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ الْمُوْصِلِ لِلطَّالِبِيْنَ اِلٰى طَلَبِهِمْ وَ السَّالِكِيْنَ اِلٰى مَقْصُوْدِهِمْ اَقْوَى الدَّلَائِلِ وَ اَعْلَى الْوَسَائِلِ النُّوْرِ الشَّرِيْفِ الْمُضِيْءِ لِلْعَالَمِيْنَ وَ الْجَوْهَرِ اللَّطِيْفِ الْمُنَوَّرِ بِالْهِدَايَةِ لِلْغَافِلِيْنَ وَ هُوَ الْمُظْهِرُ الْاَتَمُّ الْاَكْمَلُ لِاِلْطَافِكَ وَ عِنَايَاتِكَ.

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ عَلٰى مَا يَلِيْقُ بِكَ وَ يَلِيْقُ بِهٖ.

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَسْبَ عَظَمَةِ حَقِيْقَةِ الْعَلِيَّةِ وَ بِعَدَدِ صُوَرِكَ الْعِلْمِيَّةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ الْكَوْنِيَّةِ وَ بِعَدَدِ اَرْوَاحِكَ اللَّطِيْفَةِ الْمُجَرَّدَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَ النَّفْسِيَّةِ وَ بِعَدَدِ الصُّوَرِ الْمِثَالِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَ الْمُقَيَّدَةِ وَ بِعَدَدِ صُوَرِ الْاَجْسَامِ وَ الْحِسِّيَّةِ وَ الشَّهَادِيَّةِ وَ اَحْوَالِهَا وَ اَعْرَاضِهَا.

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بِعَدَدِ كُلِّ مَا وُجِدَ وَ سَيُوْجَدُ.

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ حُبِّكَ وَ اِتِّبَاعِهٖ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ عِنْدَكَ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ وَلَا تَرُدَّ فَاِنْ رَدَدْتَّ فَمَنْ لِّيْ اَسْئَلُهٗ سِوَاكَ وَ مَنْ لِّيْ سِوَاهُ اَتَوَسَّلُ بِهٖ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الْمَسْئُوْلُ وَ اَنْتَ الْكَرِيْمُ الرَّحِيْمُ وَ مُحَمَّدُ نِ الْوَسِيْلَةُ وَ الذَّرِيْعَةُ وَ هُوَ مَحْبُوْبُكَ فَلَا بُدَّ لِيْ مِنَ الرَّجَاءِ الْقَوِيِّ الْقَطْعِيِّ. اَللّٰهُمَّ لَا تُبَدِّلْ رَجَائِيْ بِحُرْمَةِ مَحْبُوْبِكَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنْ اَزَلِ الْاٰزَالِ اِلٰى اَبَدِ الْاٰبَادِ.

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحُرْمَتِهٖ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ.

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَحْبُوْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تَجَلَّيْتَ وَ تَعَيَّنْتَ اَوَّلًا م بِصُوْرَةِ حَقِيْقَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَلِيَّةِ الْعَالِيَةِ الْمُطْلَقَةِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى سَائِرِ الْحَقَائِقِ الْمُقَيَّدَةِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى غَيْبِ غُيُوْبِكَ الَّذِيْ لَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ تَعَيُّنٌ ” وَّلَا يَصِلُ اِلَيْهِ وَصْفٌ ” وَّ لَيْسَتْ تِلْكَ الْحَقِيْقَةُ اِلَّا صُوْرَةَ عِلْمِكَ بِذَاتِكَ وَ صِفَاتِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْاِجْمَالِيِّ الْاِنْدِرَاجِيِّ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى جَمِيْعِ الْحَقَائِقِ الَّتِيْ هِيَ صُوَرُكَ الْعِلْمِيَّةُ التَّفْصِيْلِيَّةُ لِلشُّيُوْنِ وَ الصِّفَاتُ الْوُجُوْدِيَّةُ الْاِلٰهِيَّةُ وَ الْكَوْنِيَّةُ مُتَمَيِّزَةً كُلُّ صُوْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ عَنْ غَيْرِهَا فَالصُّوَرُ التَّفْصِيْلِيَّةُ هِيَ جَانِبُ ظُهُوْرِ تِلْكَ الْحَقِيْقَةُ الْعَلِيَّةُ كَمَا اَنَّ اَحَدِيَّتَكَ جَانِبُ بُطُوْنِهٖ وَ تِلْكَ الْحَقِيْقَةُ بَرْزَخَةٌ م بَيْنَ الْبُطُوْنِ وَ الظُّهُوْرِ الْاَحَدِيَّةِ وَ الْوَاحِدِيَّةِ ثُمَّ تَجَلَّيْتَ بِصُوْرَةِ ظُهُوْرِ تِلْكَ الْحَقِيْقَةِ وَ ظِلِّهَا الَّذِيْ يُسَمّٰى بِالْحَقِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ الْوُجُوْدِ الْعَامِّ وَ هٰذَا الظِّلُّ بَرْزَخٌ م بَيْنَ الْوُجُوْبِ وَ الْاِمْكَانِ

الْاُلُوهِيَّةِ وَ الْعُبُوْدِيَّةِ فَيَشْتَمِلُ سَآئِرَ الْحَقَآئِقِ اِلٰهِيَّةً كَانَتْ اَوْ خَلْقَانِيَّةً وَّ فِىْ هٰذَا الْبَرْزَخِ تَحَقَّقَتِ الْحَقَآئِقُ كُلُّهَا وَ تَمَيَّزَتْ بِهِ الْوُجُوْبِيَّةُ عَنِ الْاِمْكَانِيَّةِ۔

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ عَلٰى مَا جَعَلْتَ حَبِيْبَكَ بِحَيْثُ لَوْلَا حَقِيْقَتُهٗ لَمَا تَحَقَّقَ الظُّهُوْرُ وَلَوْلَا ظِلُّهُ الْاَوَّلُ لَمَا ظَهَرَتِ الرُّبُوْبِيَّةُ، اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ عَلٰى ظُهُوْرِكَ الَّذِىْ الْوُجُوْدُ مِنْ اٰثَارِهٖ اَنْتَ بِمَا اَنْتَ فَوْقَ الْوُجُوْدِ وَ فَوْقَ الْعَدَمِ۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حَبِيْبِكَ الَّذِىْ حَقِيْقَةُ الْعَالَمِ ظِلُّ حَقِيْقَتِهٖ وَ حَقِيْقَتُهٗ ظِلُّكَ فَالْعَالَمُ ظِلُّ ظِلِّ ظِلِّكَ اَنْتَ الْمُنَزَّهُ عَنْ اَنْ يَّصِلَ اِلَيْكَ غَيْرُكَ اَنْتَ الْمُقَدَّسُ عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ شَىْءٌ عَيْنَكَ اَنْتَ بِمَا اَنْتَ وَلَا شَيْءَ مَعَكَ فَكَيْفَ يَكُوْنُ شَىْءٌ عَيْنَكَ۔

206 يَا اَللّٰهُ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُنَزِّهِكَ وَ مُقَدِّسِكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِجَنَابِكَ فَوْقَ مَا نَزَّهْنَا وَ قَدَّسْنَا فَاِنَّ تَنْزِيْهَنَا عِنْدَ تَنْزِيْهِهٖ تَشْبِيْهٌ وَّ تَقْدِيْسَنَا لَدٰى تَقْدِيْسِهٖ تَخْلِيْطٌ وَّ تَنْزِيْهُكَ نَفْسَكَ فَوْقَ التَّنْزِيْهَاتِ وَ تَقْدِيْسُكَ ذَاتَكَ اَعْلَى التَّقْدِيْسَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِحُرْمَةِ تَقْدِيْسِكَ وَ تَنْزِيْهِكَ وَ بِعِزَّةِ تَقْدِيْسِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَنْزِيْهِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ كُلُّ مَا تَصَوَّرْنَا اَوْ تَعَقَّلْنَا فَهُوَ دُوْنَ ذَاتِكَ وَلَيْسَ لِلْعُقُوْلِ وَ الْكُشُوْفِ اِلَيْكَ سَبِيْلٌ۔

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ عُذْرِىْ وَ تُبْ عَلَىَّ وَ اشْفِنِىْ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ اشْفِنِىْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ اِنَّ الْوُجُوْدَ اَثَرُ ذَاتِكَ وَ صِفَاتِكَ مُتَفَرِّعٌ عَلَيْهَا لِاَنَّ الْوُجُوْدَ مُحِيْطٌ بِذَاتِكَ وَ صِفَاتِكَ فَاَنْتَ الْوُجُوْدُ الَّذِىْ بِكَ الْوُجُوْدُ وَ اَنْتَ النُّوْرُ الَّذِىْ مِنْكَ النُّوْرُ۔

اَللّٰهُمَّ بِحَيَاتِكَ وَ بِعِلْمِكَ وَ سَمْعِكَ وَ بَصَرِكَ وَ كَلَامِكَ وَ اِرَادَتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ فِعْلِكَ هِىَ صِفَاتُكَ الْقَدِيْمِيَّةُ الْاَبَدِيَّةُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى مَظْهَرِ نُوْرِكَ الْاَتَمِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْ تَشْفِيَنِىْ وَ تُقَوِّيَنِىْ وَ تَجْعَلَنِىْ طَوِيْلَ الْعُمُرِ فِىْ اِتِّبَاعِ شَرِيْعَتِكَ الْجَامِعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ الْخَاتِمِيَّةِ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ الْمُجَابِ دُعَآءُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ اَلْبَتَّةَ۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ مَا دَامَتِ الصَّلَوٰتُ وَ التَّسْلِيْمَاتُ وَ الْبَرَكَاتُ نَسَبًا نَّاشِيَةً مِّنْ حَضَرَاتِ صِفَاتِكَ الذَّاتِيَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّ ذَاتَكَ سَرْمَدِيَّةٌ وَّ صِفَاتِ ذَاتِكَ سَرْمَدِيَّةٌ وَّ اَسْمَآءَ ذَاتِكَ سَرْمَدِيَّةٌ لَّا حُدُوْثَ فِيْهَا وَلَا تَجَدُّدَ

وَلَا تَكَثُّرَ فِيهَا وَلَا تَعَدُّدَ فَكَيْفَ يُدْرِكُكَ مَنْ هُوَ فِيْ عَيْنِ الْحُدُوْثِ دَائِمًا وَّفِيْ مَحْضِ التَّجَدُّدِ ثَابِتًا۔

209 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ صُدُوْرُنَا عَنْ صِفَاتِكَ بِتَوَسُّطِهٖ لَوْلَاهُ لَمَا اهْتَدَيْنَا اِلٰى نُوْرِ الْوُجُوْدِ وَ حَصَلْنَا عَلٰى آيَاتِكَ بِنُوْرِهٖ لَوْلَاهُ لَمَا ظَهَرْنَا بِالْعِيَانِ وَ الشُّهُوْدِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّذِيْ هُوَ خَيْرُ الْمُحِبِّيْنَ وَ خَيْرُ الْمَحْبُوْبِيْنَ اَنْ تَنْظُرَنِيْ بِعَيْنِ الْحُبِّ وَ تَشْفِيَنِيْ شِفَآءً كَامِلًا شَامِلًا لِّلظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ وَ تُصَحِّحَنِيْ وَ تُقَوِّيَنِيْ وَ تُزِيْلَ عَنِّي الْاَمْرَاضَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنَ الْحَرَارَةِ اَوْ مِنَ الْبُرُوْدَةِ اَوْ مِنْ اِجْتِمَاعِهِمَا وَ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ حُبِّكَ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بَارَكَ وَ عَظَّمَ وَ مَجَّدَ۔

210 اَللّٰهُمَّ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا لَطِيْفُ يَا شَافِيْ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَ خَيْرِ مَنْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ خَيْرِ مَنْ تُبَارِكُ عَلَيْهِ صَلَاةً خَيْرَ الصَّلَوَاتِ وَ تَسْلِيْمًا خَيْرَ التَّسْلِيْمَاتِ وَ بَرَكَةً خَيْرَ الْبَرَكَاتِ وَ اَنْ تَرْحَمَنِيْ وَ تَشْفِيَنِيْ بِحُرْمَتِهٖ رَحْمَةً نَّاشِيَةً مِّنْ مَحْضِ فَضْلِكَ دُوْنَ عَمَلٍ مِّنِّيْ وَ شِفَآءً حَاصِلًا مِّنْ عَيْنِ لُطْفِكَ دُوْنَ سَبَبٍ مِّنْ اَحَدٍ غَيْرِكَ۔

اَللّٰهُمَّ لَوْ جَعَلْتَ اَحَدًا مِّنْ اَسْبَابِ شِفَآئِيْ فَهٰذَا مِنْ عَيْنِ لُطْفِكَ دُوْنَ سَبَبٍ فَاَنْتَ الْمُسَبِّبُ وَ الْاَسْبَابُ مِنْكَ. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّذِيْ اسْمُهٗ شِفَآءُ الْمَرْضٰى۔

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ كَمَا صَدَرْنَا عَنْ حَضْرَتِكَ بِتَوَسُّطِ نَشْأَتِهِ الْاِنْسَانِيَّةِ الْجَمْعِيَّةِ شُهُوْدًا وَّ وُجُوْدًا وَّ لِهٰذَا كَانَ خَاتِمَ الْاَنْبِيَآءِ وَ تَوَقَّفَتِ السَّاعَةُ عَلٰى وُجُوْدِهٖ۔

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ مَحَبَّتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِعِزَّتِهٖ وَ بِشَرَفِهٖ وَ بِقَبُوْلِهٖ۔

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطَرَاتِ دُمُوْعِ الْعَاشِقِيْنَ۔

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الذَّاكِرِيْنَ۔

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْاَحْوَالِ الْمُعْتَوِرَةِ عَلٰى قُلُوْبِ الْعَارِفِيْنَ مِنْ اَهْلِ التَّلْوِيْنِ۔

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى لَكَ وَ صَلّٰى عَلَيْهِ۔

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ لَكَ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ رَكَعَاتِ الْمُتَطَوِّعِيْنَ الْمُتَعَبِّدِيْنَ۔

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ سَجَدَاتِ الشَّاكِرِيْنَ الْمُؤَيِّدِيْنَ حُقُوْقَ الْعُبُوْدِيَّةِ۔

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِعَدَدِ شُيُوْنِكَ مِنْ اَوَّلِ الْاَزَلِ اِلٰى آخِرِ الْاَبَدِ۔

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِكَ وَ صَفِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ، الَّذِيْ مَا خَابَ مَنْ تَشَبَّثَ بِذَيْلِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ حُبِّكَ وَ اِتِّبَاعِهٖ بِحُرْمَتِهٖ وَ بِصَدَقَتِهٖ ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ۔

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ، الَّذِيْ مُعْجِزَتُهُ الْقُرْآنُ الْحَكِيْمُ وَ شَرِيْعَتُهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ وَ مِلَّتُهٗ ، خَيْرُ الْمِلَلِ وَ الْاَدْيَانِ وَ سُنَّتُهٗ ، اَعْلَى السُّنَنِ وَ الطُّرُقِ الْمُوْصِلَةِ اِلَى الرَّحْمٰنِ۔

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بَارَكَ وَ عَظَّمَ وَ مَجَّدَ وَ كَرَّمَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ، الشَّافِيْ بِشِفَآئِكَ وَ الْكَافِيْ بِكِفَايَتِكَ وَ الْكَرِيْمِ بِكَرَمِكَ وَ اللَّطِيْفِ بِلُطْفِكَ صَلَاةً فِيْهَا شِفَآءُ آلَافِ مِثْلِيْ وَ سَلَامًا مِّنْهُ سَلَامَةُ آلَافِ مِثْلِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَكْرُوْهَاتِ وَ بَرَكَةً ، بِهَا بَرَكَةُ الْاَعْمَالِ لِآلَافِ مِثْلِيْ۔

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔

227 اَللّٰهُمَّ صَلَوَاتُكَ وَ صَلَوَاتُ مَلَآئِكَتِكَ وَ صَلَوَاتُ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ اِلَى انْقِضَآءِ الدُّنْيَا عَلٰى مَنْ هُوَ حَقِيْقَةُ مَنْشَأِ الصَّلَوَاتِ وَ مَنْبَعِ الْكَرَامَاتِ۔

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

229 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِيْ عَلٰى حَبِيْبِكَ وَ تَسْلِيْمَاتِيْ عَلٰى حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلَّمَ مَنْ هُوَ اَكْمَلُ الْوَسَآئِلِ وَ اَعَزُّ الذَّرَآئِعِ لِيْ فِيْ حَضْرَتِكَ۔

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

231 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُصَلِّيْ وَ اُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَقُوْلُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ فِيْ حَضْرَتِكَ بِهٰذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ وَ اَسْئَلُكَ شِفَآئِيْ وَ صِحَّتِيْ وَ قُوَّتِيْ وَ طُوْلَ عُمْرِيْ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ اِتِّبَاعِ اَشْرَفِ مَخْلُوْقَاتِكَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ.

232 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَّ سَلَامًا وَّ بَرَكَةً هِيَ عَيْنُ الْمِيَاهِ الصَّافِيَةِ بِهَا حَيَاةُ الْقُلُوْبِ الْجَلِيَّةِ وَ شَمْسُ الْاَنْوَارِ الْبَارِقَةِ الَّتِيْ بِهَا اَضَآءَ الْاَرْوَاحُ النُّوْرِيَّةُ.

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ شِفَآءً تَآمًّا عَامًّا وَّ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ حُضُوْرِكَ بِحُرْمَتِهٖ وَ عِزَّتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ قَبُوْلِهٖ وَ جَمَالِهٖ وَ نُوْرِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

234 اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّيْ وَ رَبَّ الْخَلَآئِقِ كُلِّهَا اَسْئَلُكَ مُتَوَسِّلًا ، بِحَبِيْبِكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى حَبِيْبِكَ وَ تُسَلِّمَ وَ تُبَارِكَ عَلَيْهِ وَ تَشْفِيَنِيْ بِحُرْمَةِ مَنْ تَشَبَّثَ بِذَيْلِ مُتَابَعَةِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اِذَا تَوَسَّلْتُ اِلَيْكَ بِمَنْ سِوَاكَ فَاَنْتَ الْوَسِيْلَةُ فِي الْحَقِيْقَةِ فَاِنَّ مَنْ سِوَاكَ لِمَظْهَرِيَّةِ صِفَاتِكَ حَقِيْقٌ ، بِاَنْ يُّتَوَسَّلَ بِهٖ فَاَنْتَ الْمَسْئُوْلُ وَ اَنْتَ الْوَسِيْلَةُ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ بِحَبِيْبِكَ الَّذِيْ هُوَ مَظْهَرُكَ الْاَتَمُّ وَ نُوْرُكَ الْاَسْنَى الْاَبْهَى الْاَكْرَمُ وَ هُوَ بِحَقِيْقَتِهٖ لَيْسَ سِوَاكَ وَ جَمِيْعُ الْاَشْيَآءِ وَ اِنْ كَانَتْ شَرِيْفَةً ، بِحَقَآئِقِهَا فَهِيَ لِحَقَآئِقِهَا اَيْضًا سِوَاكَ كَمَا اَنَّهَا بِصُوَرِهَا سِوَاكَ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّ حَقِيْقَةَ حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هِيَ الْوَحْدَةُ الْكُبْرَى الذَّاتِيَّةُ الَّتِيْ لَا تُزِيْدُ عَلٰى ذَاتِكَ وَ تَشْتَمِلُ عَلٰى مَا فِيْ ذَاتِكَ فَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَلَقْتَهٗ مِنْ ذَاتِكَ وَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَلَقْتَهٗ مِنْ صِفَاتِكَ الزَّآئِدَةِ.

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ خَلَقْتَهٗ مِنْ ذَاتِكَ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ اِلٰى ذَاتِكَ بِذَاتِكَ وَ نِعْمَ الْمَسْئُوْلُ وَ نِعْمَ الْوَسِيْلَةُ.

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ اَتَوَسَّلُ بِهٖ فِيْ اِيْمَانِيْ وَ فِيْ اِسْلَامِيْ وَ فِيْ اِحْسَانِيْ وَ فِيْ دِيْنِيْ وَ فِيْ دُنْيَايَ وَ فِيْ اٰخِرَتِيْ وَ فِيْ عِلْمِيْ وَ فِيْ عَمَلِيْ وَ فِيْ حَالِيْ وَ فِيْ مَقَامِيْ وَ فِيْ ذَوْقِيْ وَ فِيْ مَعْرِفَتِيْ وَ فِيْ رَجَآئِيْ وَ فِيْ شِفَآئِيْ وَ فِيْ قُوَّتِيْ وَ فِيْ طُوْلِ عُمْرِيْ وَ فِيْ جِسْمِيْ وَ فِيْ رُوْحَانِيَّتِيْ وَ فِيْ وُجُوْدِيْ وَ فِيْ حَيَاتِيْ وَ فِيْ جَمِيْعِ صِفَاتِيَ الَّتِيْ بِهَا قِيَامِيْ وَ كَلَامِيْ وَ كَمَالِيْ وَلَا اَتَوَسَّلُ اِلَّا بِهٖ اَوْ بِمَنْ لَّهٗ كَالظِّلِّ اَوِ الْجُزْءِ اَوِ الْجُزْئِيِّ فَهٰذَا اَيْضًا تَوَسُّلٌ ، بِهٖ.

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَسِيْلَةِ فِيْ كُلِّ الْاُمُوْرِ لِلْكُلِّ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى

آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا تَجْعَلُه سَبَبًا لِّحُصُوْلِيْ عَلَى الْكَمَالَاتِ وَ
وُصُوْلِيْ بِاَعْلَى الْمَقَامَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ اَجِبْ سُوَالِيْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعْلَمُ لَا تَرُدُّ سُؤَالَ مَنْ تَوَسَّلَ بِحَبِيْبِكَ الْاَعْظَمِ الْاَكْرَمِ صَلَّى اللهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَعَ ذٰلِكَ اَدْعُوْ اِلَيْكَ اَنْ لَّا تَرُدَّ سُؤَالِيْ فِيْ شِفَآئِيْ وَ قُوَّتِيْ وَ طُوْلِ عُمْرِيْ وَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ
اَجِبْ فَاِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ "بِمَنْ تُجِيْبُ مَنْ يَّتَوَسَّلُ بِهٖ۔

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ حُبُّه، حَقِيْقَةُ الْاِيْمَانِ وَ حُضُوْرُه، كَمَالُ
الْاِحْسَانِ۔

239 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ
وَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ الْمُحِبِّيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

240 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ" وَّ هُوَ لَهَا اَهْلٌ"۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ كَمَا وَهَبْتَنِيْ بِصَدَقَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ وُجُوْدًا وَّ حَيَاةً وَّ عِلْمًا وَّ سَآئِرِ الصِّفَاتِ
الْوُجُوْدِيَّةِ هَبْ لِيْ بِصَدَقَتِهٖ شِفَآءً كَامِلًا وَّ صِحَّةً تَآمَّةً وَّ عُمْرًا طَوِيْلًا وَّ اِيْمَانًا حَقِيْقِيًّا صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْمَطْلُوْبُ بِالنَّظْرِ اِلٰى كَرَمِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بِالْقِيَاسِ اِلَى الْوَسِيْلَةِ وَ هُوَ حَبِيْبُكَ
السِّرُّ مَدِيُّ شَيْءٌ" حَقِيْرٌ"، اَللّٰهُمَّ فَاَعْطِنِيْ ذٰلِكَ الشَّيْءَ الْحَقِيْرَ بِالنَّظْرِ اِلَيْكَ وَ بِالنَّظْرِ اِلَى الْوَسِيْلَةِ الْعَظِيْمِ
بِالنَّظْرِ اِلٰى هِمَّتِيْ وَ مَرْتَبَتِيْ۔ اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اَزِلِ الْاَمْرَاضَ الظَّاهِرَةَ وَ الْبَاطِنَةَ وَ
الْاَمْرَاضَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنَ الْحَرَارَةِ وَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنَ الْبُرُوْدَةِ وَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنْ اِجْتِمَاعِهِمَا وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ
الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ اِتِّبَاعِ اَوَامِرِكَ۔

اَللّٰهُمَّ كَمْ مِّنْ سَآئِلٍ قَدْ اَجَبْتَ سُؤَالَه، وَ كَمْ مِّنْ مَّرِيْضٍ قَدْ شَفَيْتَه، وَ كَمْ مِّنْ طَالِبٍ اَوْصَلْتَه، اِلٰى
طَلَبِهٖ وَ كَمْ مِّنْ جَاهِلٍ عَلَّمْتَه، وَ كَمْ مِّنْ غَافِلٍ نَّبَّهْتَه، وَ كَمْ مِّنْ مُّتَضَرِّعٍ ذَلِيْلٍ عَزَّزْتَه،۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُدُّ نَفْسِيْ مِنْ تِلْكَ الْمَرْضَى الَّتِيْ قَدْ شَفَيْتَهُمْ فَلَا تَجْعَلْ رَجَآئِيْ هٰذَا بَاطِلًا۔

اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ مَعْذِرَتِيْ وَ تَوْبَتِيْ وَ اَوْصِلْنِيْ اِلٰى مَقْصُوْدِيْ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ شِفَآءً كَامِلًا شَامِلًا لِّلظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ وَ بِعِزَّتِهٖ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ
عِنْدَكَ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَةِ مَنْ تُجِيْبُ دُعَآءَ مَنْ قَالَ بَعْدَ دُعَآئِهٖ بِحُرْمَتِهٖ۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ سَآئِرِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ
الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ وَاجْعَلْنِیْ مَشْفِیًّا مَّرْضِیًّا مُّعَافًا۔

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ وَاحْفَظْ اَوْلَادِیْ مِمَّا لَا تَرْضَاهُ، وَمِنْ غَلَبَةِ الْاَعْدَاءِ وَمِنَ التَّذَلُّلِ عَلٰی بَابِ الدُّنْیَا وَاَهْلِهَا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ قَانِعًا مُّتَوَكِّلًا شَاكِرًا رَّاضِیًا ، بِحُرْمَةِ مَنْ هُوَ خَیْرُ الْقَانِعِیْنَ الْمُتَوَكِّلِیْنَ الشَّاكِرِیْنَ الرَّاضِیْنَ فِی الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ۔

242 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَیْهِ. اَللّٰهُمَّ یَا مَنْ لَّا خَالِقَ اِلَّا اَنْتَ صَلَوَاتُكَ وَتَسْلِیْمَاتُكَ وَمُبَارَكَاتُكَ وَتَعْظِیْمَاتُكَ وَتَكْرِیْمَاتُكَ وَتَمْجِیْدَاتُكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَبِیْبِكَ الَّذِیْ مَا اَحْبَبْتَ اَحَدًا اِلَّا بِتَوَسُّطِ حُبِّكَ اِیَّاهُ فَاِنَّهُ الْمَحْبُوْبُ الْمَرْضِیُّ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْمَحْبُوْبِیْنَ وَالْمَطْلُوْبُ الْاَصْلِیُّ مِنَ الْمَطْلُوْبِیْنَ۔

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاشْفِنِیْ وَعَافِنِیْ عَلٰی وَجْهٍ لَّا یَبْقٰی لِیْ اَوْ لِاَحَدٍ غَیْرِیْ فِیْ مَظَنَّةُ الْمَرَضِ وَانْحِرَافُ الْمِزَاجِ مِنَ الْاِسْتِقَامَةِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا الْمَرَضُ الَّذِیْ لَا یَزُوْلُ بِالْكُلِّیَّةِ مِنْ بَدَنِیْ مُنْذُ سَنَتَیْنِ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ مَّحْضِ انْحِرَافِ الْمِزَاجِ دُوْنَ اَمْرٍ خَارِجٍ فَاَصْلِحِ الْمِزَاجَ. اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ كَانَ فِیْهِ مَدْخَلٌ لِّلْغَیْرِ مِنْ جِهَةِ السِّحْرِ اَوِ الْهِمَّةِ فَرُدَّهُ اِلَی الْجِبَالِ وَالْجَزَآئِرِ مِنْ مَّسْكَنِ مُتَمَرِّدَةِ الْجِنِّ وَالشَّیَاطِیْنِ اَوْ اِلَیْهِ اِنْ كَانَ مِنْ مُّسْتَحَقِّیْهِ وَاِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ الْحُقُوْقِ الَّذِیْنَ قَصَّرْتُ فِیْ حُقُوْقِهِمْ فَاَرْضِهٖ عَنِّیْ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ مِنَ التَّقْصِیْرِ فَادْفَعِ الْمَرَضَ. اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اشْفِنِیْ وَعَافِنِیْ وَادْفَعْ مَرَضِیْ مِنْ اَیِّ جِهَةٍ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْجِنِّ اَوِ الْاِنْسِ۔

244 اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَالِبُ عَلَی الْكُلِّ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَادِرُ عَلَی الْكُلِّ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی عِتْرَةِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی كُلِّ مَنِ انْتَسَبَ اِلَیْهِ صُوْرَةً اَوْ مَعْنًی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَعَظَّمَ وَمَجَّدَ وَكَرَّمَ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَعْلَمُ اِنِّیْ عَاجِزٌ عَنْ اِقَامَةِ اَسْبَابِ صِحَّتِیْ وَعَافِیَتِیْ اِلَّا اِنِّیْ تَوَسَّلْتُ بِالصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِیْمَاتِ عَلٰی مَنْ هُوَ لَهَا اَهْلٌ وَّلَا یُرَدُّ سُوَالُ الْمُتَوَسِّلِ بِهٖ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ فَاَجِبْ سُؤَالِیْ وَاشْفِنِیْ وَقَوِّنِیْ وَصَحِّحْنِیْ وَاجْعَلْنِیْ طَوِیْلًا لْعُمُرِ فِیْ مَحَبَّتِكَ وَالْاِسْتِقَامَةِ عَلٰی شَرِیْعَتِكَ۔

245 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَیْهِ وَعَلٰی كُلِّ مَنْ لَّهٗ نِسْبَةٌ اِلَیْهِ صُوْرَةً اَوْ مَعْنًی دِیْنِیَّةً اَوْ طِیْنِیَّةً قَلْبِیَّةً اَوْ رُوْحِیَّةً نَّبَوِیَّةً اَوْ وَلَوِیَّةً. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ وَعَافِنِیْ بِعِزَّتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ وَعَافِنِیْ بِشَرَفِهٖ. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ وَعَافِنِیْ بِحُرْمَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِیْ وَعَافِنِیْ بِقَبُوْلِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ اَجِبْ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ۔

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ۔

247 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِلٰی یَوْمِ الْحِسَابِ وَالْعَرْضِ۔

248 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِلٰى اَبَدِ الْاٰبِدِيْنَ۔

249 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ هُوَ خَيْرُ النَّبِيِّيْنَ۔

250 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَتْبَاعِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ اٰلُهٗ خَيْرَ اٰلٍ وَّ اَصْحَابُهٗ خَيْرَ اَصْحَابٍ وَّ اَزْوَاجُهٗ خَيْرَ اَزْوَاجٍ وَّ اَتْبَاعُهٗ خَيْرَ اَتْبَاعٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَعَظَّمَ وَمَجَّدَ وَكَرَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ اٰلِهٖ وَ شَرَفِ حَالِهٖ وَ عِزَّةِ مَنْصَبِهٖ وَ عُلُوِّ مَرْتَبَتِهٖ وَ سُمُوِّ قَدْرِهٖ وَ اشْفِنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ حُبِّكَ وَ حُبِّ حَبِيْبِكَ وَ اِتِّبَاعِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَعَظَّمَ وَمَجَّدَ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ، اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔

251 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَقِيْقَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُحِيْطَةِ بِالْحَقَائِقِ وَ الْاَعْيَانِ وَ النُّقْطَةِ الْبَسِيْطَةِ الْمُتَمِّمَةِ لِمَنَازِلِ الْاِيْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ وَ الْاِحْسَانِ وَ الدَّآئِرَةِ الْكُبْرَى الشَّامِلَةِ جَمِيْعَ الدَّوَآئِرِ الْوُجُوْدِيَّةِ الظُّهُوْرِ التَّعَيُّنِيَّةِ۔

252 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ هُوَ الَّذِيْ لَا يُمْكِنُ اَنْ يُّدْرِكَ كُنْهَ وَصْفِهٖ مُكْتَنِهٌ" اَوْ يَكْتَنِهَ دَقِيْقَةَ نَعْتِهٖ مُدْرِكٌ"۔

253 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اشْفِنِيْ بِصَدَقَتِهٖ وَ صَدَقَةِ اَوْلَادِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوِّنِيْ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِهٖ وَاِتِّبَاعِهٖ۔

254 اَللّٰهُمَّ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا شَافِيْ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْلِكَ الْاَعْظَمِ وَ صَفِيِّكَ الْاَكْرَمِ الْاَتَمِّ صَلَاةً تَشْفِيْ بِهَا اَجْسَامَنَا وَ اَرْوَاحَنَا وَ سَلَامًا تُسَلِّمُ بِهٖ دِيْنَنَا وَ اِيْمَانَنَا عَنِ الزَّوَالِ وَبَرَكَةً تَزِيْدُ بِهَا اٰثَارَ اَعْمَالِنَا الصَّالِحَةِ۔

255 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَبِحُرْمَةِ اَوْلَادِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اٰمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِمَا رَحِمْتَ بِهِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَ اَجِبْنَا بِمَآ اَجَبْتَ بِهِ السَّآئِلِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ طَوِّلْ عُمْرِيْ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اٰلِهِ السَّابِقِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ الَّذِيْ هُوَ قُطْبُ الْاَقْطَابِ الْفَرْدَانِيِّ السَّرْمَدِيِّ۔

256 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ اَضْعَافَ مَرَاتِبِ الْعَدَدِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِمَرَاتِبِ الْعَدَدِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ۔

257 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اشْفِنِيْ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اشْفِنِيْ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اشْفِنِيْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اشْفِنِيْ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِصَدَقَةِ صَلَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِصَدَقَةِ سَلَامِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِصَدَقَةِ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحُرْمَةِ سِرِّكَ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْمَطْلَبُ فِيْ غَايَةِ الْحَقَارَةِ إِذَا نَظَرْتُ إِلٰى كَرَمِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ عِظَمِ الْوَسِيْلَةِ الَّذِيْ تَوَسَّلْتُ بِهٖ۔

258 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى ذٰلِكَ الْوَسِيْلَةِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ هُوَ عَيْنُ الْمَقْصُوْدِ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ وَفِّقْنِيْ لِمَرْضَاتِكَ۔ اَللّٰهُمَّ قَوِّنِيْ وَ عَلِّمْنِيْ طَرِيْقَ السُّلُوْكِ إِلٰى حَضْرَتِكَ۔

اَللّٰهُمَّ صَحِّحْنِيْ وَ اَوْصِلْنِيْ إِلٰى مَا اَوْصَلْتَ إِلَيْهِ اَوْلِيَآئَكَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَ اَقِمْنِيْ فِيْ مَقَامِ التَّوْحِيْدِ الْاَكْمَلِيِّ الْاَجْمَعِيِّ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

259 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الدَّآءِ وَ الدَّوَآءِ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ۔

261 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَاتِحِ بَابِ الشَّفَاعَةِ۔

262 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّقْطَةِ دَآئِرَةِ الرَّحْمَةِ۔

263 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صُوْرَةِ تَعَيُّنِ الْوَحْدَةِ۔

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ صَحِّحْنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحُرْمَتِهٖ۔ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔

264 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ هُوَ اَهْلٌ لِّلصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ وَ الْبَرَكَاتِ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ وَّ بَعْدَ كُلِّ اَحَدٍ وَّ مَعَ كُلِّ اَحَدٍ اَهْلِيَّةً كَامِلَةً تَآمَّةً بِجِسْمِهٖ وَ بِرُوْحِهٖ وَ بِقَلْبِهٖ وَ جَمِيْعِ لَطَآئِفِهٖ وَ حَقَآئِقِهٖ۔

265 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ هُوَ ذَاتُهٗ اَشْرَفُ الذَّوَاتِ وَ اِسْمُهٗ اَشْرَفُ الْاَسْمَآءِ۔

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ جَمِيْعُ الْاَسْمَآءِ الشَّرِيْفَةِ اَسْمَآءُ اِسْمِهٖ۔

267 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ لِظُهُوْرِهٖ لَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّسْمِيَةِ۔

268 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ هُوَ لِعُلُوِّ شَانِهٖ لَا يُشَارُ اِلَيْهِ بِاسْمٍ وَّلَا يُكْشَفُ عَنْهُ بِحَدٍّ۔

269 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ جَمِيْعُ الرُّوْحَانِيَّاتِ وَالْجِسْمَانِيَّاتِ فِدَاهُ۔

270 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اغْفِرْ اُمَّةَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اشْفِ اَحْقَرَ اُمَّةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَذَلَّ اُمَّةِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

271 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ هٰذَا الْعَبْدَ الذَّلِيْلَ الَّذِيْ كُلُّهٗ مَعْصِيَةٌ وَّ اشْفِ الذَّلِيْلَ بِحُرْمَةِ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ وَهُوَ اَعَزُّ خَلْقِكَ
وَ اَكْرَمُ بَرِيَّتِكَ وَ اَشْرَفُ مَخْلُوْقَاتِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحْمَدُكَ عَنْ شَرَفِ تَوَسُّلِيْ بِاَشْرَفِ الْوَسَائِلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
اَسْتَعِيْنُكَ فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِيْ وَ اُصَلِّيْ عَلٰى مَنْ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّيْ جَمِيْعُ الْخَلَائِقِ صَلَاةً قَوْلِيَّةً وَّ فِعْلِيَّةً وَّ
حَالِيَّةً وَّ اِسْتِعْدَادِيَّةً كَمَا نَحْمَدُكَ بِهٰذِهِ الْمَرَاتِبِ وَ اَسْتَشْفِيْ حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِنْكَ وَ عَلٰى حَبِيْبِكَ الصَّلَوَاتُ الْمُكَرَّمَاتُ اَنْتَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ تَشْفِيَنِيْ وَ تُصَحِّحَنِيْ وَ
تُقَوِّيَنِيْ وَ تَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ سُلُوْكِ طَرِيْقِ الْوُصُوْلِ اِلَى الْمَقْصَدِ الْقُصْوٰى وَ الْغَايَةِ الْعُلْيَا اٰمِيْنَ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

272 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً شَامِلَةً لِّجَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ ط وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
سَلَامًا مُّتَضَمِّنًا لِّجَمِيْعِ التَّسْلِيْمَاتِ ط وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَرَكَةً حَاوِيَةً لِّجَمِيْعِ الْبَرَكَاتِ۔

273 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا وَّ بَرَكَةً نَّاشِيَةً مِّنْ عِلْمِكَ
الْقَدِيْمِ وَفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ مُتَضَمِّنَةً لِّدَقَائِقِ رَحْمَتِكَ الْعَامَّةِ الْوَاسِعَةِ وَاَسْرَارِ لُطْفِكَ الشَّامِلِ الْكَامِلِ۔

274 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ
حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ مَحَبَّتِكَ وَ مَحَبَّةِ
حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ۔ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔
اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ۔ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَتِهٖ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ هُوَ الْمَوْجُوْدُ الْحَقُّ وَ كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَاهُ بَاطِلٌ۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ هُوَ الْمُثْبِتُ وَ الْمَاحِيْ۔ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ هُوَ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَ يَشْفِي الْمَرْضٰى۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ لَّا

يُسْئَلُ غَيْرُهُ۔ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ هُوَ الرَّحِيْمُ الْكَرِيْمُ اللَّطِيْفُ الرَّؤُوْفُ الْجَوَادُ۔ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ هُوَ رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ۔

275 اَللّٰهُمَّ يَا اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهٖ اشْفِنِيْ وَ عَافِنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ حُبِّكَ الْمُفْرِطِ الْغَالِبِ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ السَّرْمَدِيِّ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ۔

اَللّٰهُمَّ يَا اَللهُ يَا بَاقِيْ يَا مُجِيْبُ اَجِبْ دَعْوَتِيْ بِحُرْمَةِ اَسْمَآئِكَ الْحُسْنٰى وَ بِحُرْمَةِ اِسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَ بِحُرْمَةِ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَ بِحُرْمَةِ سُوْرَةِ اَلَمْ نَشْرَحْ۔

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الشَّافِيْ لِلْمَرْضَى الْقَالَبِيَّةِ وَ الْقَلْبِيَّةِ۔

277 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ لَحْظَةٍ وَّ فِيْ كُلِّ اٰنٍ مَّفْرُوْغٍ مِّنَ الْاِمْتِدَادِ السَّرْمَدِيِّ الزَّمَانِيِّ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ۔

278 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَحْبُوْبِ الْمُطْلَقِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

279 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدِكَ الْحَبِيْبِ الْحَسِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اشْفِنِيْ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِي الصِّحَّةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الْمَحَبَّةِ الْمَرْضِيَّةِ وَ الطَّرِيْقَةِ الشَّرْعِيَّةِ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ بِحُرْمَةِ مَنْ لَّا تَرُدُّ سُؤَالَ مَنْ يَّسْئَلُ بِحُرْمَتِهٖ وَ اجْعَلْهُ وَسِيْلَةً۔

280 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ سَيِّدِ الْاَشْرَافِ وَ شَرَفِ شَرَآئِفِ الْاَوْصَافِ۔

281 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْمُتَخَلِّقِيْنَ بِاَخْلَاقِهٖ وَ الْمُتَاَدِّبِيْنَ بِاٰدَابِهٖ وَ اشْفِنِيْ بِحُرْمَتِهٖ وَ قَوِّنِيْ وَ اجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ حُبِّكَ وَ اِتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ. اَللّٰهُمَّ اَجِبْ. اَللّٰهُمَّ يَا اَللهُ يَا بَاقِيْ يَا مُجِيْبُ اِكْفِنِيْ وَ اَجِبْنِيْ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ۔

282 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا جَمِيْعَ اُمَّتِهٖ وَ تُوْصِلُ بِهَا كُلَّ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ اِلٰى حُسْنِ عَاقِبَتِهٖ۔

283 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ مِ بَحْرِ الرَّحْمَةِ وَ طَوْدِ الْجُوْدِ وَ سَمَآءِ الْعَظَمَةِ وَ عَرْشِ النُّوْرِ۔

284 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْمُخْتَصِّ بِسِرِّ اَوْ اَدْنٰى وَالْمُصَوَّرِ بِاللَّوْحِ وَالنُّوْنِ وَالْقَلَمِ الْاَعْلٰى مُحَمَّدِكَ
الَّذِىْ هُوَ صُوْرَتُكَ الْخَاصَّةُ وَصِفَتُكَ الذَّاتِيَّةُ الْقُدْمٰى۔

285 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى مَنْ آلَ اَمْرُه اِلَيْهِ صُوْرَةً اَوْ مَعْنًى، اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِهِ اجْعَلْنِىْ مُشْفِيًّا
مُّعَافًا صَحِيْحًا سَالِمًا مِّنْ جَمِيْعِ الْاَمْرَاضِ وَالْآفَاتِ وَالْمَكْرُوْهَاتِ فِى الْاُوْلٰى وَالْاُخْرٰى وَطَوِّلْ عُمْرِىْ وَ
اَعْظِمْ اَمْرِىْ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ ثُمَّ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ اِلٰى مَا يَتَنَاهٰى۔

286 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شُعَاعِ الذَّاتِ الْقَدِيْمِيَّةِ السَّرْمَدِيَّةِ النُّوْرِيَّةِ وَنُوْرِ اَفْلَاكِ الْوُجُوْدِ
الْكُلِّيَّةِ الظُّهُوْرِيَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ حَمْدُكَ فَوْقَ طَاقَتِىْ وَثَنَآءُ حَبِيْبِكَ وَرَآءَ قُدْرَتِىْ، اَللّٰهُمَّ اَنَا الْمُقَصِّرُ فِىْ حَمْدِكَ وَفِىْ ثَنَآءِ حَبِيْبِكَ وَفِىْ
طَاعَتِكَ وَفِىْ اِتِّبَاعِ شَرِيْعَتِكَ اِلَّآ اِنِّىْ مُتَوَسِّلٌ فِىْ جَمِيْعِ مَسَآئِلِىْ بِاِسْمِ حَبِيْبِكَ الَّذِىْ اِسْمُه فَوْقَ
الْمُسَمَّيَاتِ وَاَشْرَفُ مِنَ الْمَعَانِىْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مُتَوَسِّلٌ مبِحَبِيْبِكَ فَاِنَّ
التَّوَسُّلَ بِنَفْسِ حَبِيْبِكَ اِقْتَضَى الْاِتِّصَالَ بِه وَهُوَ غَايَاتُ الْغَايَاتِ وَلَا غَايَةَ فَوْقَه، فَاِنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَنَّ
حَبِيْبَكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ اِسْمِه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هُوَ كَمَا قَالُوْا اِنَّ الْاِسْمَ هُوَ عَيْنُ الْمُسَمّٰى
فَهٰذَا شَرَفٌ عَظِيْمٌ وَّفَضْلٌ جَسِيْمٌ مِّنْ قِبَلِ حَبِيْبِكَ اِلَىَّ۔

287 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّافْعَلْ مَآ اَطْلُبُ
مِنْكَ وَاَتَوَسَّلُ فِيْهِ بِاِسْمِ حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بَلْ بِحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوِّنِىْ وَاجْعَلْنِىْ
طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِىْ تَحْصِيْلِ الْكَمَالَاتِ الْاِنْسَانِيَّةِ الْعِرْفَانِيَّةِ الْفُرْقَانِيَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ۔


288 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاَسْمَآءِ وَمَلِكِ الْمُسَمَّيَاتِ۔

289 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْحُجَجِ الْقَطْعِيَّةِ وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ۔

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَرْزَخِ الْاَكْبَرِ وَالْعَيْنِ الْاَنْوَرِ۔

291 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَئِيْسِ الْاَحْبَابِ۔

292 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْغَنِيِّ عَنْ تَوْصِيْفِنَا وَالْمُسْتَغْنٰى عَنْ تَكْرِيْمِنَا وَهُوَ
الْمُكَرَّمُ الْمُكَرَّمُ وَالْمُعَظَّمُ الْمُعَظَّمُ، اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِحُرْمَةِ نُوْرِه وَعِزَّةِ سِرِّه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَلدُّرُّ الْفَائِقُ

فِي الصَّلَاةِ

عَلٰی اَشْرَفِ الْخَلَائِقِ ﷺ

مصطفی کمال الدین الصدیقی البکری

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری


ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری


المكتبة القادرية 21 الباكستان
0092-3335187573

الدّرُّ الفائق

صاحبِ تصانیفِ کثیرہ حضرت شیخ مصطفیٰ کمال الدین البکری رضی اللہ عنہ کتاب مذکورہ بالا کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ کئی احباب نے درُودوسلام کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں اور اُن بابرکت کتب کے فیوضات سے لوگ مستفیض بھی ہو رہے ہیں تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اِس بابرکت کام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں۔ پھر میں نے استخارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے مدد چاہی اور درُودوسلام کی اِس کتاب کو حروفِ تہجی کے لحاظ سے بنام ''**الدر الفائق فی الصلاۃ علی اشرف الخلائق** ﷺ'' موسوم کر دیا۔

حضرت علامہ مصطفیٰ کمال الدین البکری رضی اللہ عنہ کے حالاتِ زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 185 کے قریب کتابیں تحریر فرمائیں۔
کتاب الدرالفائق کے قلمی نسخے کے سرورق اور مقدمے کے پہلے صفحے کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔


الدر الفائق فی الصلاۃ
علی اشرف الخلائق
لسیدنا ومولانا
مصطفی البکری
الصدیقی
الحسینی
رحمہ
اللہ


بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ الذی یصلی علینا بالصلاۃ علی نبینا
واحدۃ بعشر او یضاعف لنا بالصلاۃ والتسلیم
علیہ الی ما لہ غنیمۃ واجرا، وصلی اللہ وسلم
علی سیدنا محمد ما صلی علیہ مصل سرا وجہرا
وعلی الہ واصحابہ ما تلا تال سبحان الذی اسری
وبعد فانی لما رایت کثیرا من الناس قد
صنفوا فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کتبا وافاضوا علینا من عجائب تلک الصلوات
الشریفۃ سحبا، اردت ان اشارکہم فیما
ینتحونہ بسبب ذلک من الامداد، نعسی
ببرکۃ الصلاۃ علیہ احظی بنیل القبول والاسعاد
ثم انی لما اردت ان اتطفل علی جنابہ
الشریف

الدر الفائق فی الصلاۃ علی اشرف الخلائق ﷺ

حرفِ "ا"

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِمِ بِالْوَفَآءِ۔

2 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَنْعُوْتِ بِالصَّفَآءِ۔

3 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْاِسْرَآءِ۔

4 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَامِدِ عَلَى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ

5 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُسْتَحِقِّ لِلثَّنَآءِ۔

6 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّآئِلِ لِلْمُنَآءِ۔

7 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَقْرِضُوا اللهَ فَاللهُ اَحَقُّ بِالْوَفَآءِ۔

8 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ خَافِضَ الطَّرْفِ نَظْرُهٗ اِلَى الْاَرْضِ اَطْوَلُ مِنْ نَّظْرِهٖ اِلَى السَّمَآءِ۔

9 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ اَكْثَرُ طَعَامِهٖ مِنَ التَّمْرِ وَالْمَآءِ۔

10 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُشَتِّتِ لِلْاَعْدَآءِ۔

11 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُلْحِقُنَا بِمَقَامَاتِ السُّعَدَآءِ۔

12 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الزَّاهِدِ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبِ فِي الْاُخْرٰى۔

13 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى۔

14 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّاعِيْ اِلَى الْهُدٰى۔

15 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالسُّدٰى۔

16 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الْعَطَآءِ وَالنَّدٰى۔

17 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْقِذِ مِنَ الرَّدٰى۔

18 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نَالَ اَعْلٰى مَنَازِلِ الرِّضٰى۔

19 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اِطَّلَعَهُ اللهُ عَلٰى مَا يَكُوْنُ وَعَلٰى مَا قَدْ مَضٰى۔

20 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نَالَ الْمَكَانَةَ الزُّلْفٰى۔

21 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اِكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى۔

22 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْاَنْبِيَآءِ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى۔

23 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَحْوَالُهُ الْحَمِيْدَةُ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى۔

24 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَامِلِ فِى النُّوْرِ وَالْبَهَآءِ۔

25 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَقْبَلَ عَلَى اللهِ وَمَا انْتَهٰى۔

26 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّاقِیْ اِلَى السَّمَآءِ۔

27 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُجَنِّبُنَا مَا عَنْهُ الْحَقُّ نَهٰى۔

حرفِ ''ب''

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّانِیْ مِنْ حَضَرَاتِ الْقَرِيْبِ۔

29 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لِمَنْ نَادَاهُ يُجِيْبُ۔

30 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَوْصُوْفِ بِالْحَبِيْبِ۔

31 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَوَاضِعِ الْمُنِيْبِ۔

32 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ هُوَ لِلْقُلُوْبِ الْمَرْضٰى طَبِيْبٌ۔

33 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ كَثِيْرَ الْبُكَآءِ وَالنَّحِيْبِ۔

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ هُوَ لِلْاُمَمِ خَطِیْبٌ۔
34 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ عَرَقُہٗ اَطْیَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْخَالِصِ الطَّیِّبِ۔
35 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمْ یَكُنْ لِّشَیْئٍ قَطُّ یَعِیْبُ۔
36 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَآءَ بِالْعَجَبِ الْعَجِیْبِ۔
37 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَآءَ بِالْعَجَبِ الْعَجِیْبِ۔
38 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْبِرِ عَنْ رُّؤْیَةِ الْكَثِیْبِ۔
39 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُفَرِّجِ عَنِ الْمَحْزُوْنِ الْكَئِیْبِ۔
40 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللهَ تَعَالٰی یَبْغُضُ الشَّیْخَ الْغَرِیْبَ۔
41 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اُنْزِلَ عَلَیْهِ {وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ}۔
42 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ یُعِیْنُ الْخَادِمَ وَ یُكَرِّمُ الْغَرِیْبَ۔
43 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نَالَ غَایَةَ الْوَصْلِ وَ التَّقْرِیْبِ۔
44 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَهَذَّبُ نُفُوْسُنَا بِهَا كَمَالَ التَّهْذِیْبِ۔

حرفِ ''ت''

45 اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَیَّدِ بِالْمُعْجِزَاتِ۔
46 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَخَلِّقِ بِالْكَمَالَاتِ۔
47 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ فِی الْمَقَالَاتِ۔
48 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ۔

49 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ تَشَرَّفَتْ بِظُهُوْرِهِ الْمَوْجُوْدَاتُ۔

50 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرُوْسِ الْحَضَرَاتِ۔

51 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ يُسَلِّمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

52 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُشَاهِدِ لِلذَّاتِ۔

53 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُتَحَقِّقِ فِى الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ۔

54 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَرْفُوْعِ الذِّكْرُ فِى السَّمٰوٰتِ الْعُلْوِيَّاتِ۔

55 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْاَزَلِيَّاتِ وَ الْاَبَدِيَّاتِ۔

56 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَحْفُوْفِ بِاَنْوَاعِ الْعِنَايَاتِ۔

57 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِّنَ الْغَفَلَاتِ۔

58 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُخَلِّصُنَا مِنَ الْحُظُوْظِ وَ الشَّهَوَاتِ۔

حرفِ "ث"

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَدِيْمٍ وَّ حَادِثٍ۔

60 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَّ مُحَادِثٍ۔

61 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ رَاحِلٍ وَّ مَاكِثٍ۔

62 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مُكَفِّرٍ وَّ حَانِثٍ۔

63 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ حَافِظٍ وَّ نَاكِثٍ۔

64 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مُدَقِّقٍ وَّ بَاحِثٍ۔

65 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مُوَرِّثٍ وَّ وَارِثٍ۔

66 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا مِنَ الْقَبَآئِحِ وَ الْخَبَآئِثِ۔

حرفِ "ج"

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَبَّتِ الْحُجَّاجُ.

68 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَهٗ سَرِيْرُ قَوَامِهٖ مِنْ سَاجٍ.

69 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ لِلْهُدٰى سِرَاجٌ.

70 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَوْثِ كُلِّ طَالِبٍ وَّمُحْتَاجٍ.

71 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْتَقِلِ وَلَهٗ بُرْدَةٌ عِنْدَ النِّسَاجِ.

72 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ فِى التَّلْبِيَةِ عَجَّاجٌ.

73 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ فِىْ نَحْرِ الْاِبِلِ ثَجَّاجٌ.

74 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اَذْهَبَ نُوْرُ النَّهَارِ اللَّيْلَ الدَّاجَ.

75 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا هَامَ عَاشِقٌ اِلَى الْحَبِيْبِ وَهَاجَ.

76 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَاحَ فِى الْوُجُوْدِ نُوْرٌ وَّهَّاجٌ.

77 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اِشْتَدَّتِ الرِّيَاحُ وَتَلَاطَمَتِ الْاَمْوَاجُ.

78 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاِسْرَآءِ وَالْمِعْرَاجِ.

79 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَلَكَ بِاُمَّتِهٖ اَوْضَحَ مِنْهَاجٍ.

80 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مِنْ دُعَآئِهٖ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحُجَّاجِ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحُجَّاجُ.

81 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْسُوْنَا مِنَ الْقَبُوْلِ اَبْهَجَ تَاجٍ.

حرفِ ''ح''

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْمِلَاحِ۔

83 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ بَحْرُ السَّمَاحِ۔

84 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَيْسَ لِسَآئِرِ الْمُحِبِّيْنَ عَنْ ظِلِّهٖ بَرَاحٌ۔

85 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَطِيْرُ اِلَيْهِ الْعُشَّاقُ مِنْ غَيْرِ جَنَاحٍ۔

86 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُسَمّٰى دِرْعُهٗ ذَاتَ الْوِشَاحِ۔

87 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّاقِىْ لِمُحِبِّيْهِ كُؤُوْسَ الرَّاحِ۔

88 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَالَ الْمُنٰى مِنَ الْكَرِيْمِ الْفَتَّاحِ۔

89 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَا يُنْكِرُ اللَّعِبَ الْمُبَاحَ۔

90 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ۔

91 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اِلَيْهِ قُلُوْبُ اَهْلِ الصَّبَابَةِ تَرْتَاحُ۔

92 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَلٰى نَظْرَةٍ مِنْ جَمَالِهٖ تَسِيْلُ الْاَرْوَاحُ۔

93 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنْ لَّهِيْبِ مَحَبَّتِهٖ تَذُوْبُ الْاَشْبَاحُ۔

94 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَخْتَفِى الْاَنْوَارُ اِذَا مَا جَمَالُهٗ لَاحَ۔

95 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُلْطِفِ لِلْاَوَانِىْ وَالْاَقْدَاحِ۔

96 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَاحَ نَجْمٌ اَوْ تَبَلَّجَ صَبَاحٌ۔

97 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَالُ بِهَا كَمَالُ الْفَوْزِ وَ الرَّبَاحِ۔

حرفِ "خ"

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ حَصَلَ لَهٗ كَمَالُ التَّجْرِیْدِ وَالْاِنْسِلَاخِ۔

99 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَاَدَّبَ مُرِیْدٌ بِحَضْرَةِ الْاَشْیَاخِ۔

100 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَامَ جَمَلٌ وَّ نَاخَ۔

101 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَبَّرَ شَابٌ وَّ شَاخَ۔

102 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَتَبَ اِسْمَهٗ نَسَّاخٌ۔

103 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ فِیْ نَوْمِهٖ نَفَّاخٌ۔

104 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَمَا الْاَنِیْنُ وَ الصُّرَاخُ۔

105 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَاَلَ جَامِدٌ وَّ سَاخَ۔

106 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا مِنَ الْاَدْرَانِ وَ الْاَوْسَاخِ۔

حرفِ "د"

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ بَلَغَ الْمُرَادَ۔

108 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَوْضَحَ لِلطَّالِبِیْنَ طَرِیْقَ السَّدَادِ۔

109 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْكَامِلِ فِی الْقُبُوْلِ وَ الْاِسْتِعْدَادِ۔

110 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ ظَهَرَ بِهِ الْوُجُوْدُ وَ الْاِیْجَادُ۔

111 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُنِیْلِ لِاَتْبَاعِهِ الْاَسْعَافَ وَ الْاَسْعَادَ۔

112 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّافِيْ بِالتَّوْحِيْدِ شُهُوْدَ الْاَعْدَادِ۔

113 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ كَثِيْرَ الْبُكَآءِ مِنْ خَوْفِ الْمَعَادِ۔

114 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ}۔

115 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَوْصٰى بِحِفْظِ الْوِدَادِ۔

116 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مِنْهُ الْمَدَدُ وَ الْاِسْتِمْدَادُ۔

117 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوْضِحُ لَنَا سَبِيْلَ الرَّشَادِ۔

حرفِ "ذ"

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حَصَلَ لَنَا بِمَبْعَثِهٖ كَمَالُ الْاِسْتِنْقَاذِ۔

119 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْنَا بِمَحَبَّتِهٖ كُلَّ الْاِسْتِحْوَاذِ۔

120 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ وَجَدْنَا بِالْبَلَايَا اِسْتِلْذَاذِ۔

121 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اِسْتَخْلَصَ مَنْ بِجَنَابِهٖ قَدْ لَاذَ۔

122 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَعَاذَ مَنْ بِهٖ قَدِ اِسْتَعَاذَ۔

123 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَلَانَ قُلُوْبًا فِي الْفَظَاظَةِ كَالْفُوْلَاذِ۔

124 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ اَكْرَمُ الْعَشَآئِرِ وَ الْاَفْخَاذِ۔

125 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لِلْبَاطِلِ نَبَّاذٌ۔

126 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَأَدَّبَ مُرِيْدٌ بِحَضْرَةِ الْأُسْتَاذِ۔
127 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَعَتَ هِنْدِيٌّ ”بِأَنَّهٗ جَذَّاذٌ“۔
128 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا فِي الْمُهِمَّاتِ عِيَاذًا۔

حرفِ ”ر“

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَيْضِ الْمِدْرَارِ۔
130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا حَوَّتْ بَعْضَ صِفَاتِهِ الْأَسْفَارُ۔
131 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْكِذْبُ فِي الْأَخْبَارِ
132 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ يُرْخِي الْإِزَارَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ۔
133 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَلَأْلَأَتْ مِنْ نُّوْرِ جَبْهَتِهِ الْأَنْوَارُ۔
134 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ أَنْوَارُ طَلْعَتِهٖ تَفُوْقُ الْأَقْمَارَ۔
135 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ يَنْبُوْعُ الْأَسْرَارِ۔
136 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ إِسْمُ سَيْفِهٖ ذُو الْفِقَارِ۔
137 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ أَوْصٰى بِالْجَارِ۔
138 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ}۔
139 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَامِلِ فِيْ سَائِرِ الْأَطْوَارِ۔
140 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا خَلَقَ مِثْلَهٗ فِيْ جَمِيْعِ الْأَدْوَارِ۔
141 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ مِنْ

الْقِيَامِ فِی الْاَسْحَارِ۔

142 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ کَانَ یَرٰی فِی الظُّلْمَۃِ کَمَا یَرٰی فِی النَّھَارِ۔

143 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: وَیْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔

144 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَکْشِفُ بِھَا عَنَّا الْحُجُبَ وَ الْاَسْتَارَ۔

حرفِ "ز"

145 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَنِ اقْتَدٰی بِہٖ قَدْ فَازَ۔

146 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَنْ اَمَّہٗ جَمِیْعَ الْخَیْرَاتِ حَازَ۔

147 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ مَنْ اَحَبَّہٗ عَلَی الصِّرَاطِ جَازَ۔

148 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ حُبُّہٗ حَقِیْقَۃٌ وَّ مَا عَدَاہُ مَجَازٌ۔

149 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ لِلْحُلَّۃِ الْاَحْمَدِیَّۃِ طِرَازٌ۔

150 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنْعَۃِ وَ الْاِعْتِزَازِ۔

151 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ لَا تُقَاوِمُہُ الْاَسَدُ فِی الْبَرَازِ۔

152 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا حَنَّ مُشْتَاقٌ اِلٰی اَرْضِ الْحِجَازِ۔

153 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قُتِلَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ مَغَازٌ۔

154 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ فَرَّقَ بَیْنَ الْمَنْعِ وَ الْجَوَازِ۔

155 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَوَّحَ لِلْعَارِفِیْنَ ضِمْنَ اِشَارَاتٍ وَّ اَلْغَازٍ۔

156 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا غَلَبَ الْعُشَّاقَ عِنْدَ ذِکْرِهِ الطَّرَبُ وَالْاِهْتِزَازُ۔

157 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّحْتَرِزُ بِهَا مِنَ الْمَعَاصِیْ کَمَالَ الْاِحْتِرَازِ۔

حرفِ "س"

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصَفّٰی مِنَ الْاَدْنَاسِ۔

159 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُحَافِظِ عَلٰی حِفْظِ الْاَنْفَاسِ۔

160 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَحْکَمَ لِهٰذَا الدِّیْنِ الْاَسَاسَ۔

161 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّاقِیْ مِنَ الْخَمْرِ الْاُوْلٰی بِالْکَاْسِ وَالطَّاسِ۔

162 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَیْسَ لَهٗ مِثْلٌ عَلَیْهِ یُقَاسُ۔

163 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنَزَّلِ عَلَیْهِ {قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ}۔

164 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِهٖ {وَاللّٰهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}۔

165 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بِهٖ زَالَ عَنَّا الشَّكُّ وَ الْاِلْتِبَاسُ۔

166 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَنْ سَنَا نُوْرُهُ الْاِقْتِبَاسُ۔

167 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُصَیِّرُنَا مِنَ الْاَکْیَاسِ۔

حرفِ "ش"

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النُّوْرِ الْمُتَلَاشِيْ۔

169 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ السِّرِّ الْفَاشِيْ۔

170 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ السَّيِّدِ الْمُتَحَاشِيْ۔

171 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْخَائِفِ الْخَاشِيْ۔

172 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ فِي الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَاءِ نَاشِيْ۔

173 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ لَعَنَ الْمُرْتَشِيْ وَالرَّاشِيْ۔

174 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ السَّاعِيْ لِأُمَّتِهٖ بِصَلَاحِ الْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ۔

175 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ نَهٰى عَنِ اسْتِمَاعِ الْوَاشِيْ۔

176 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمُسْعِفِ لِمُحِبِّيْهِ بِالْاِنْعَاشِ۔

177 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدْخِلُنَا حَضَائِرَ الْاِنْدِهَاشِ۔

حرفِ "ص"

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ السَّاعِيْ فِي الْخَلَاصِ۔

179 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمُنْجِيْ مِنْ ضَيْقِ الْاَقْفَاصِ۔

180 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْقُطْبِ الْغَوَّاصِ۔

181 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمُرْشِدِ لِلْعَامِ وَالْخَاصِ۔

182 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ مِنَ الْاِخْلَاصِ۔

183 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّهٗ لَيْسَ شَيْءٌ فِي الْاَوْقَاصِ۔

184 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ خَيَّرَ بَيْنَ الدِّيَةِ وَ الْقِصَاصِ۔

185 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمَمْنُوْحِ مِنْ خَزَائِنِ

الْاِخْتِصَاصِ.
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّلْاَسَدِ الضَّوَارِيْ قَنَاص".
186 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدْنِيْ مِنَّا كُلَّ قَاصٍ.
187 وَصَلِّ وَسَلِّمْ

حرفِ "ض"

عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {قُلْ سِيْرُوْا
188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
فِي الْاَرْضِ}.
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الشَّفِيْعِ يَوْمَ الْعَرْضِ.
189 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ مَحَبَّتُه عَلَى الْاُمَّةِ
190 وَصَلِّ وَسَلِّمْ
فَرْضٌ".
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ السَّاقِيْ لِلْخَلَآئِقِ مِنَ الْحَوْضِ.
191 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ عَامِلٌ "بِبَقِيَّةِ الْاَدْيَانِ
192 وَصَلِّ وَسَلِّمْ
بِالْهَرْضِ.
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ صَرَّفَ فِي الْوُجُوْدِ بِالطُّوْلِ
193 وَصَلِّ وَسَلِّمْ
وَالْعَرْضِ.
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ اَخْبَرَ بِاَنَّه يَزِيْدُ الْمَحَبَّةَ
194 وَصَلِّ وَسَلِّمْ
الْقَرْضُ.
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْقَآئِلِ: اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَمِيْنٌ"
195 وَصَلِّ وَسَلِّمْ
فِي السَّمَآءِ اَمِيْنٌ" فِي الْاَرْضِ.
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ نَهٰى عَنْ مُعَامَلَةِ الرَّجُلِ
196 وَصَلِّ وَسَلِّمْ
عَرَضَ اَخِيْهِ بِالْقَرْضِ.
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى الْقِيَامِ
197 وَصَلِّ وَسَلِّمْ
بِالْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ.

حرفِ "ط"

عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ جَلَّتْ مَعَانِيْهِ حَصْرًا
198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَّضَبْطًا.

199 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ رَقّٰى وَتَخَطّٰى۔

200 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ أَفَاضَ وَأَعْطٰى۔

201 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ أَحْكَمَ الْقَوَاعِدَ رَبْطًا۔

202 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَمْ يَكْتُبْ بِالْقَلَمِ خَطًّا۔

203 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَنْ قَصَدَهٗ جَمِيْعَ الْخَيْرَاتِ يُعْطٰى۔

204 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ حَادَ عَنْ شَرِيْعَتِهٖ سَبِيْلَ النَّجَاةِ أَخْطَأَ۔

205 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَصَرِّفِ فِيْ حَالَةٍ قَبْضًا وَّبَسْطًا۔

206 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَلْفَلَقُ جُبٌّ فِيْ جَهَنَّمَ مُغَطّٰى۔

207 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُقِيْمِ لِلدِّيْنِ قِسْطًا۔

208 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَزْدَادُ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ غَبْطًا۔

حرفِ "ظ"

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَصِيْحِ الْأَلْفَاظِ۔

210 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لِأَهْلِ الضَّلَالِ لَفَّاظٌ۔

211 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا رُوَتْ عَنْهُ إِلَّا الثِّقَاةُ الْحُفَّاظُ۔

212 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمَوْعُوْظِيْنَ وَالْوُعَاظِ۔

213 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ: "عَلَيْهَا مَلَآئِكَةٌ غِلَاظٌ"۔

214 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَازَمَ بِحُبٍّ فِيْ هَوَاهُ الْإِسْتِيْقَاظُ۔

215 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُرْسَلِ عَلٰى أَعْدَآئِهٖ مِنَ النَّارِ

شَوَاظٌ۔

216 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِیْ مَا کَانَتْ تَتَمَکَّنُ مِنْ مُّشَاهَدَتِهِ الْاِلْحَاظُ۔

217 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِیْ نَجَّانَا اللهُ بِهٖ مِنَ الشِّدَادِ الْغِلَاظِ۔

218 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً یَّحْصُلُ لَنَا بِهَا مِنْ کُلِّ وَاعِظٍ اِتِّعَاظٌ۔

حرفِ ”ع“

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِیْ لَهٗ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ مَقْطُوْعٌ۔

220 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاَمْرِ الْمُطَاعِ الْمَسْمُوْعِ۔

221 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَدَدِ لَیْسَ بِمَقْطُوْعٍ وَّلَا مَمْنُوْعٍ۔

222 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِلْمِ الْمَرْفُوْعِ۔

223 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنِ الْخَیْرُ فِیْ ذَاتِهٖ مَجْمُوْعٌ۔

224 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِیْ کَانَ لَا یُطِیْبُ لَهُ الْهُجُوْعُ۔

225 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِیْ یَضَعُ الْحَجَرَ عَلٰی بَطْنِهِ الشَّرِیْفِ مِنَ الْجُوْعِ۔

226 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنِ الْغَالِبُ عَلٰی اَحْوَالِهِ الْخُشُوْعُ۔

227 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِیْ کَانَ یَلْبِسُ الْکِسَاءَ الْمَرْقُوْعَ۔

228 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِیْ حُبُّهٗ مُتَمَکِّنٌ م بَیْنَ الضُّلُوْعِ۔

229 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ مِنْ سُمَاتِهِ الْإِنْكِسَارُ وَ الْخُضُوْعُ۔

230 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْاَصْلِ الْاَصِيْلِ وَمَا عَدَاهُ الْفُرُوْعُ۔

231 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَارَ مِنَ الْجُفُوْنِ غَزِيْرُ الدُّمُوْعِ۔

232 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يُّصِيْرُ بِهَا الطَّرْفُ هَمُوْعًا۔

حرفِ "غ"

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ عَلَى الْاَعْتَابِ تَمَرَّغُوْا۔

234 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لِّاَنْعَامِكَ اِبْتَغُوْا۔

235 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لِّاَوَامِرِكَ بَلَغُوْا۔

236 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ اِلٰى طَاعَتِكَ تَفَرَّغُوْا۔

237 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لِّكَلَامِ الْقَوَاطِعِ الْغَوْا۔

238 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لِّلْمَرَامِ بُلِّغُوْا۔

239 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ فِي الْكَمَالَاتِ اصْبَغُوْا۔

240 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ عَلٰى اَحْبَابِكَ بَغَوْا۔

241 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لِّقُلُوْبِهِمْ فَرَغُوْا۔

242 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لِّاَعْلَى الْمَقَاصِدِ تَبْلُغُ۔

حرفِ "ف"

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَشْرَافِ۔

244 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خُلَاصَةِ بَنِيْ عَبْدِ مُنَافٍ۔

245 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمِيْلِ النُّعُوْتِ وَ الْاَوْصَافِ۔

246 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْبَحْرِ الَّذِيْ مِنْهُ الْاِغْتِرَافُ۔

247 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاِنْصَافِ وَ

الْاِعْتِرَافِ۔

248 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ فِي الْحَقِّ لَا يَرْهَبُ وَلَا يَخَافُ۔

249 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَمَرَ بِالْكَفَافِ وَ الْعَفَافِ۔

250 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اُوْحِيَ اِلَيْهِ بِعَدَمِ التَّقْتِيْرِ وَالْاِسْرَافِ۔

251 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَزَالَ اللهُ بِهٖ عَنَّا الْخِلَافَ۔

252 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَنْقَذَنَا مِنَ الرَّدٰى وَ الْاِتْلَافِ۔

253 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا كَمَالَ الْاِنْكِشَافِ وَالْاِسْتِشْرَافِ۔

حرفِ "ق"

254 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مِنْهُ تَنَوَّعَتِ الطَّرَآئِقُ۔

255 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَآئِقِ فَوْقَ كُلِّ فَآئِقٍ۔

256 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْفُوْظِ مِنْ جَمِيْعِ الْعَوَآئِقِ۔

257 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ عَنْهُ ظَهَرَتِ الرَّقَآئِقُ۔

258 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ اَكْرَمُ الْخَلَآئِقِ۔

259 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ مَنْبَعُ الدَّقَآئِقِ۔

260 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُشْرِقَةِ بِهِ الْحَدَآئِقِ۔

261 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَامِعِ لِاَشْتَاتِ الْحَقَآئِقِ۔

262 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَحَقِّقِ الذَّآئِقِ۔

263 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَاطِعِ لِجَمِيْعِ الْعَلَآئِقِ۔

264 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لِكُلِّ فَلَّاحٍ سَآئِقٌ۔

265 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَشْرَبُ بِهَا مِنَ الشَّرَابِ الرَّآئِقِ۔

حرفِ "ك"

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَصَرِّفِ فِیْ سَآئِرِ الْمَمَالِكِ وَ الْاَمْلَاكِ۔

267 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّافِعِ مُحِبِّيْهِ عَلَى السَّمَاكِ۔

268 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِی الْبِحَارِ مِنَ الْاَسْمَاكِ۔

269 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَالِیْ عَنَّا ظُلْمَةَ الْاَحْلَاكِ۔

270 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَعَاجِمِ وَ الْاَتْرَاكِ۔

271 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ ضَاحِكٍ وَّ بَاكٍ۔

272 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مُتَيَقِّنٍ وَّ شَاكٍ۔

273 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَوْصٰى بِاتِّخَاذِ السِّوَاكِ۔

274 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ بِلَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ۔

275 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُطْلِقُ بِهَا مِنَ الْاَشْرَاكِ۔

حرفِ "ل"

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لِاُمَّتِهٖ دَلِيْلٌ وَّ نِعْمَ الدَّلِيْلُ۔

277 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ يَقْنَعُ بِالْقَلِيْلِ۔

278 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ خَادِمُهٗ جِبْرِيْلُ۔

279 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ هُوَ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ۔

280 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَيْسَ لَهٗ نَظِيْرٌ وَّ لَا مَثِيْلٌ۔

281 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ مِنْ مُّعْجِزَاتِهٖ تَكْثِیْرُ الْقَلِیْلِ۔

282 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ كَانَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالتَّرْتِیْلِ۔

283 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ جَآءَ بِالْاِیْضَاحِ وَ التَّفْصِیْلِ۔

284 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ اُلْقِیَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ الثَّقِیْلُ۔

285 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ كَانَ عَنِ الْحَقِّ لَا یَمِیْلُ۔

286 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ بِالنَّظْرِ اِلَیْهِ یَشْفِی الْعَلِیْلُ۔

287 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ كَانَ فِیْ كَلَامِهٖ "تَرْتِیْلٌ" وَّ "تَرْسِیْلٌ"۔

288 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ بِطِیْبِ حَدِیْثِهٖ یَبْرُدُ الْغَلِیْلُ۔

289 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقِیْنَا مِنَ التَّشْبِیْهِ وَ التَّعْطِیْلِ۔

حرفِ "م"

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ السَّیِّدِ الْهُمَامِ۔

291 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ۔

292 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّصْبَاحِ الظَّلَامِ۔

293 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ كَانَ قَلِیْلَ الْكَلَامِ۔

294 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِیْ كَانَ تَكْفِیْهِ اللُّقْمَةُ مِنَ الطَّعَامِ۔

295 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الدَّاعِیْ اِلَی الْاِیْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ۔

296 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْمُوْصِيْ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ۔

297 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ كَانَ يَقُوْمُ بِاللَّيْلِ وَ
النَّاسُ يَنَامُ۔

298 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ۔

299 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَائِلِ: اَلسِّوَاكُ شِفَاءٌ مِّنْ
كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ۔

300 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَاحَ عَلَى الْغُصُوْنِ حِمَامٌ۔

301 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلٰى مَدَى الْأَيَّامِ وَالْأَعْوَامِ۔

302 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُحِبٌّ إِلٰى جَمَالِهِ قَدْ هَامَ۔

303 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا مِنِ اقْتِرَافِ
الْآثَامِ۔

حرفِ ''ن''

304 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السِّرِّ الْمَصُوْنِ۔

305 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْأَمِيْنِ الْمَأْمُوْنِ۔

306 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْجَوْهَرِ الْمَكْنُوْنِ۔

307 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْبَحْرِ الْفَيَّاضِ الْهَتُوْنِ۔

308 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْكَاتِمِ لِلْعِلْمِ الْمَخْزُوْنِ۔

309 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ أُعْطِيَ التَّصْرِيْفَ بِالْكَافِ
وَالنُّوْنِ۔

310 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالَّذِيْ يُعْجِزُ عَنْ وَّصْفِ نُعُوْتِهِ
الْوَاصِفُوْنَ۔

311 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْمُخْبِرِ عَمَّا كَانَ وَعَمَّا
سَيَكُوْنُ۔

312 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ {نٓ وَالْقَلَمِ وَ
مَا يَسْطُرُوْنَ}۔

313 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَکْثِرُوْا ذِکْرَ اللهِ تَعَالٰی حَتّٰی یَقُوْلُوْا مَجْنُوْن"۔

314 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَا خَلَا مِنْ حُبِّهٖ اِلَّا قَلْب"مَّفْتُوْن"۔

315 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: فِیْ کُلِّ قَرْنٍ مِّنْ اُمَّتِیْ سَابِقُوْنَ۔

316 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَفَاضَ اللهُ مِنْ م بَیْنِ اَصَابِعِهٖ عُیُوْنٌ۔

317 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْتَقِیْ بِهَا عَنِ الْمَقَامِ الدُّوْنِ۔

حرفِ "ہ"

318 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَشْرَقَتِ الْاَکْوَانُ مِنْ نُوْرِ مُحَیَّاهُ۔

319 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ حَیَّاهُ اللهُ وَبَیَّاهُ۔

320 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَزَالَ اللهُ بِهٖ عَنَّا الْاِشْتِبَاهَ۔

321 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَرْفُوْعِ الذِّکْرِ وَالْعَرِیْضِ الْجَاهِ۔

322 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بَلَّغَهُ اللهُ مُنَاهُ۔

323 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَمَّلَ اللهُ سُنَاهُ۔

324 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اِجْتَبَاهُ وَاصْطَفَاهُ۔

325 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَرَّبَهُ اللهُ وَاَدْنَاهُ۔

326 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّانِیْ کَقَابِ قَوْسَیْنِ مِنْ مَّوْلَاهُ۔

327 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِیْبِ الَّذِیْ مَنَّاهُ اللهُ وَاَعْطَاهُ۔

328 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَا يُؤْذِىْ مَنْ اٰذَاهُ۔

329 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ إِذَا مَشٰى مَعَ الطَّوِيْلِ سَاوَاهُ۔

330 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَيْسَ بِغَافِلٍ وَّلَا سَاهٍ۔

331 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

332 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّحْصُلُ لَنَا بِهَا كَمَالُ الْاِنْتِبَاهِ۔

حرفِ "و"

333 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَرِبْنَا مِنْ حُبِّنَا لَهٗ تَهْوٰى۔

334 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ غَيْرَهُ الْقَلْبُ لَا يَهْوٰى۔

335 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بِهٖ مَنَحْنَا دُخُوْلَ جَنَّةِ الْمَأْوٰى۔

336 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَلْبَسَنَا لِبَاسَ التَّقْوٰى۔

337 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاهِىْ عَنْ اِظْهَارِ الشِّكْوٰى۔

338 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ لَّيْسَ لِقَلْبٍ عَنْ حُبِّهٖ سَلْوٰى۔

339 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خُصَّ بِاَنَّ ذِكْرَهٗ يَنْشُرُ وَلَا يُطْوٰى۔

340 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّافِعِ بِهِ اللّٰهُ عَنَّا الْبَلَايَا وَالْاَسْوَا۔

341 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِمِ فِىْ مَنْصَبِ الْاِرْشَادِ وَالدَّاعِىْ لِلْحَقِّ فِى السِّرِّ وَالنَّجْوٰى۔

342 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً م بِهَا عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْاَقْوٰى تَقْوٰى۔

حرفِ "الف لام"

343 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِی الْمَقَامِ الْاَعْلٰی۔

344 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ دَنٰی فَتَدَلّٰی۔

345 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ عَنَّا الْغَیَاهِبُ جَلَا۔

346 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَارِئٌ لِّلْقُرْآنِ تَلَا۔

347 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰی}۔

348 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَزَیِّنِ بِاَشْرَفِ الْحُلٰی۔

349 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّاقِیْ لِمُحِبِّیْهِ كُؤُوْسَ الطِّلَا۔

350 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّاقِیْ اِلٰی رَفْرَفِ الْعُلٰی۔

351 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ذِكْرُ اِسْمِهٖ حَلَا۔

352 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَاشِقٌ اَحْبَابَهٗ مَا سَلَا۔

353 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ مُتَنَفِّسٌ فِی الْمَلَا۔

354 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدْفَعُ عَنَّا كُلَّ وَبَآءٍ وَّغَلَا۔

حرفِ "ی"

355 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مِنْ صِفَاتِهِ الْاِنْجَازُ وَ اللهِ۔

356 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كُوِيَتِ الْاَحْشَآءُ بِالْمَحَبَّةِ كَيًّا فَوْقَ كَیٍّ۔

357 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَسَخَتِ الشَّمْسُ بِالْفَیِّ۔

358 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مُضَرٍ وَّقُصَیٍّ۔

359 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَوٰی بِحُبِّ الْغَرَامِ طَیَّ۔

360 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تُغْنِیْ عَاشِقٌ بِدَعْدٍ وَّمَیٍّ۔

361 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَیِّتٍ وَّحَیٍّ۔

362 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَهْلِ الرَّشَادِ وَالْغَيِّ۔

363 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ۔

364 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ آلِ طَيٍّ۔

365 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُقَرِّبُنَآ اِلٰى حَضَرَاتِ الْحَيِّ۔




أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير ۝ لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَلصَّلَاتُ الْبَرِيَّةُ

فِي الصَّلَاةِ عَلٰى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ﷺ

مصطفى كمال الدين الصديقى البكرى

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری


ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

المكتبة القادرية 22 الباكستان
0092-3335187573


الصلات البرية

دُرود وسلام کے ایک ہزار (1000) نادر صیغہ ہا پر مشتمل کتاب ''**الصلات البرية**'' حضرت شیخ مصطفیٰ کمال الدین البکری کی تصنیفِ مبارکہ ہے۔ مقدمۂ کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اِس سے پہلے دُرود وسلام کی ایک کتاب ''**الدر الفائق**'' ترتیب دی لیکن وہ حجم میں چھوٹی تھی۔ پھر میں نے استخارہ کیا اور اللہ تبارک وتعالیٰ سے مدد چاہی کہ میں ایک بڑی کتاب ترتیب دوں کیونکہ روایات سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ ''**ان من صلی علیه الفا حرم الله جسده علی النار**'' ''جس نے سرکارِ دوعالم ﷺ پر ایک ہزار مرتبہ دُرودِ پاک پڑھا تو اللہ تبارک وتعالیٰ اُس پر آگ کو حرام کردے گا''۔ پھر میں نے اس کتابِ مبارکہ کے صیغہ ہائے دُرود وسلام کو حروفِ تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر اِس کا نام ''**الصلات البرية فی الصلاة علی خیر البرية** ﷺ'' رکھا۔

کتاب ''**الصلات البرية**'' کے قلمی نسخے کا سرورق اور مقدمے کے پہلے صفحے کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔



الصلاة البريه في الصلاة
على خير البريه تاليف
الامام والسيد الهمام
جناب سيدي مصطفى
الصديقي نفعنا
الله بعلومه
امين امين
امين



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى اختصنا بسيد الانام نبيا
ورسولا، وخصنا بسند لا يفنا ومليا مامولا
وخلصنا بمدد لا يسام مرضيا مقبولا، وعرفنا
معروفا معروفا غير منكور نلنا بقبوله نبولا
وعمر قلوبنا بما غمرها من بره ومنحنا منه
وصولا، وكان بنا رؤفا ولنا وصولا، خاض به
اتباعه بحر النجاة فعاد حبلهم به موصولا،
كشف عنهم قناع الجهل فازال وهلا وسقام
من اعذب منهله نهلا، وصير عليهم الحزن سهلا،
وذلل الهم الصعاب وما كان في العطا ملولا، به
ظهرت خزائن الجود، وفاضت على كل موجود،
فيضا اقدسيا من حضرة الوجود، حتى عمت الحوادث
شمولا

الصلات البرية فی الصلاۃ علی خیر البریة

حَرْفِ ''ء'' (ھمزہ)

1 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَیْسَ شَیْءٌ اَکْرَمَ عَلَی اللهِ تَعَالٰی مِنَ الدُّعَآءِ۔

2 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَآءِ۔

3 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْجَنَّةُ دَارُ الْاَسْخِیَآءِ۔

4 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنْ اَرَادَ اَھْلَ الْمَدِیْنَةِ بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللهُ كَمَا یَذُوْبُ الْمِلْحُ فِی الْمَآءِ۔

5 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنْ مَّاتَ فِیْ بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَكَاَنَّمَا مَاتَ فِی السَّمَآءِ۔

6 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِیَآءِ یُحِبُّھُمْ اَھْلُ السَّمَآءِ۔

7 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْغَنِیْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِی الشِّتَآءِ۔

8 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الْمَلَآئِكَةَ لَتَفْرَحُ بِذِھَابِ الشِّتَآءِ رَحْمَةً لِّلْفُقَرَآءِ۔

9 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللهَ یُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلٰی قَدْرِ الْبَلَآءِ۔

10 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ تُكْرِمَةُ الْجُلَسَآءِ۔

11 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَاَ غَرِیْبًا وَّسَیَعُوْدُ غَرِیْبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰی لِلْغُرَبَآءِ۔

12 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللهَ تَعَالٰی یُحِبُّ الْمُلِحِّیْنَ فِی الدُّعَآءِ۔

13 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَقْرِضُوا اللهَ فَاللهُ

اَحَقُّ بِالْوَفَآءِ۔

14 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: حَمْلُ الْعَصَآءِ عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ وَ سُنَّةُ الْاَنْبِیَآءِ۔

15 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: یَقُوْلُ اللّٰهُ لِلدُّنْیَا مُرِّیْ عَلٰی اَوْلِیَآئِیْ۔

16 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: لَیْسَ مَنْ مَّاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَیِّتٍ اِنَّمَا الْمَیِّتُ مَیِّتُ الْاَحْیَآءِ۔

17 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ سَمْحَ الْبَیْعِ سَمْحَ الشِّرَآءِ سَمْحَ الْقَضَآءِ سَمْحَ الْاِقْتِضَآءِ۔

18 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِتَّقُوا اللّٰهَ فِی النِّسَآءِ۔

19 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَحْسَنُ الْهَدْیِ هَدْیُ الْاَنْبِیَآءِ۔

20 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِرْحَمْ مَنْ فِی الْاَرْضِ یَرْحَمْكَ مَنْ فِی السَّمَآءِ۔

21 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِحْفَظُوْنِیْ فِی الْعَبَّاسِ فَاِنَّهٗ بَقِیَّةُ آبَآئِیْ۔

22 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِنَّمَا هَلَاكُ النَّاسِ بِاِتِّبَاعِ الْهَوٰی وَحُبِّ الثَّنَآءِ۔

23 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِیْ مِنْ دُعَآئِهٖ: اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا تَفْضَحْنَا یَوْمَ اللِّقَآءِ۔

24 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِنَّ اَوَّلَ مَا یُحْكَمُ بَیْنَ الْعِبَادِ فِی الدِّمَآءِ۔

25 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِنَّ فِیْ حَوْضِیْ مِنَ الْاَبَارِیْقِ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَآءِ۔

26 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِنَّمَا الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ۔

27 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرٍ

الْقُرَّاءِ۔

28 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ۔

29 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ۔

30 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ۔

31 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: سَيَكُوْنُ اَقْوَامٌ يَّعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَآءِ۔

32 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ نَزَلَ بِهٖ مَلَكٌ مِّنَ السَّمَآءِ۔

33 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ مِائَةٍ فِي النِّسَآءِ۔

34 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّقِفُ بِهَا عَلَى الْكَنْزِ الْمَخْفِيِّ وَالسِّرِّ الْعَمَآءِ۔

حَرْفِ "ا"

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْحَلِيْمُ يَتَغَافَلُ وَالْكَرِيْمُ إِذَا قَدَرَ عَفَا۔

36 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْمُصَافَحَةُ مِنْ وَّرَاءِ الثِّيَابِ جَفَا۔

37 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ بَدٰى جَفَا۔

38 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَثَلُ اَبِيْ بَكْرٍ مَّثَلُ اللَّبَنِ فِي الصَّفَا۔

39 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ الَّذِيْ اَنْزَلَ الدَّاءَ اَنْزَلَ الشِّفَآءَ۔

40 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ فِيْ اُمَّتِيْ خَسْفًا وَّمَسْخًا وَّقَذْفًا۔

41 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: مَنْ اَحَبَّ الْعَرَبَ فَهُوَ حُبِّيْ حَقًّا۔

42 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: اِنِّيْ لَاَمْزَحُ وَلَا اَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا۔

43 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: اَلْمَهْدِيُّ مِنَّا يَخْتِمُ بِهِ الدِّيْنُ كَمَا فَتَحَ بِنَا۔

44 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَحَضَرَ الْعَشَآءُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَآءِ۔

45 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: مَنْ يَّمْلِكُ عَيْنَيْهِ يَبْكِيْ كَمَا يَشَآءُ۔

46 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا۔

47 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: تَهَادُوْا تَزْدَادُوْا حُبًّا۔

48 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: بِالدَّاخِلِ دَهْشَةٌ فَتَلَقَّوْهُ بِمَرْحَبًا۔

49 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا۔

50 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مِنْ دُعَآئِهٖ: اَللّٰهُمَّ احْفَظِ الْعُلَمَآءَ۔

51 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ فَخْمًا مُّفَخَّمًا۔

52 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ لَا يَضْحَكُ اِلَّا تَبَسُّمًا۔

53 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَّقَدَمًا۔

54 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى۔

55 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِذَآ اِسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوْا عَرَضًا۔

56 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَلصَّبْرُ رِضًا۔

57 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ كَانَ يَلْبِسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَآءَ۔

58 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ كَانَ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطًا۔

59 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ كَانَ اِذَا سُئِلَ اَعْطٰى۔

60 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ كَانَ يُحِبُّ الدُّبَّا۔

61 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ رُّزِقَ لُبًّا۔

62 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ۔

63 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَلْفَلَقُ جُبٌّ فِيْ جَهَنَّمَ مُغَطًّى۔

64 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: مَا قَلَّ وَ كَفٰى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَاَلْهٰى۔

65 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَّطَغٰى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَأَ وَ الْمُنْتَهٰى۔

66 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهٖ حَيًّا۔

67 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا۔

68 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ مِنْ دُعَآئِهٖ: اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِيْ فَقِيْرًا وَّلَا تُوَفَّنِيْ غَنِيًّا۔

69 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا مَكَانًا عَلِيًّا۔

حَرْفِ ''ب''

70 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَا مِنْ شَیْئٍ اَحَبُّ اِلَی اللّٰہِ مِنْ شَابٍ تَآئِبٍ۔

71 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: تَمَسَّکُوْا بِبَقَایَا الْمَصَآئِبِ۔

72 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الشَّاھِدَ یَرٰی مَالَا یَرَی الْغَآئِبُ۔

73 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِذَا اَصَابَ اَحَدَکُمْ مُصِیْبَۃٌ فَلْیَذْکُرْ مُصِیْبَتَہٗ بِیْ فَاِنَّھَا مِنْ اَعْظَمِ الْمَصَآئِبِ۔

74 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا تَتْرُکُوْا رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَاِنَّ فِیْھِمَا الرَّغَآئِبَ۔

75 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَسْرَعُ الدُّعَآءِ اِجَابَۃً دَعْوَۃُ غَآئِبٍ لِّغَآئِبٍ۔

76 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: سُبْحَانَ مَنْ زَیَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحَآءِ وَ النِّسَآءَ بِالذَّوَآئِبِ۔

77 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: عَلَیْکُمْ بِرَکْعَتَیِ الضُّحٰی فَاِنَّ فِیْھِمَا الرَّغَآئِبَ۔

78 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِکُمْ فَلْیَسْتَرْجِعْ فَاِنَّھَا مِنَ الْمَصَآئِبِ۔

79 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنِّیْ اُحَدِّثُکُمْ لِحَدِیْثٍ فَلْیُحَدِّثِ الْحَاضِرُوْنَ مِنْکُمُ الْغَآئِبَ۔

80 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْرَفِ وَاسِطَۃٍ وَّ اَعْرَفِ نَآئِبٍ۔

81 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفَ عَلٰی کُلِّ مُشْرِفٍ وَّ ھُوَ اَشْرَفُ الْعَصَآئِبِ۔

82 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُخْلِصِ الْمُخَلِّصِ وَ الْمُخَلَّصِ مِنَ الشَّوَآئِبِ۔

83 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا آبَ آیِبٌ'' اَوْ تَابَ تَآئِبٌ''۔

84 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّفَرِّقِ الْكَتَآئِبِ جَامِعِ الْاَطَايِبِ۔

85 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الرَّأْيِ الصَّآئِبِ وَ السَّهْمِ الصَّآئِبِ۔

86 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْحَاضِرِ فِيْ حَبِيْبِهٖ وَ الْغَآئِبِ۔

87 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا انْجَبَتِ النَّجَآئِبُ وَ رَبَّيَتِ الرَّبَآئِبُ۔

88 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْحَبَآئِبِ وَ مَظْهَرِ الْعَجَآئِبِ۔

89 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا هَطَلَتِ الصَّحَابُ وَ بَطَلَتْ اَعْمَالُ كُلِّ خَآئِبٍ۔

90 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَسَفَتْ شَمْسٌ اَوْ كَشَفَتْ خُمُرَهَا الْاَبْكَارُ وَ الثَّوَآئِبُ۔

91 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا شَبَّ حِرْصٌ وَّ اَمَلٌ مِّنْ شَآئِبٍ۔

92 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَجَا مُصَلٍّ م بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَآئِبِ۔

93 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَلْبُ الْمُحِبِّ بِنَارِ الْهَيَامِ ذَآئِبٌ۔

94 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا حَنَّ لِاَرْضِهٖ نُوْقٌ وَّ نَجَآئِبُ۔

95 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّهْدِي الرَّغَآئِبِ وَ مُبْدِئِ الْغَرَآئِبِ۔

96 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اهْتَدٰى مُسْتَرْجِعٌ عِنْدَ حُلُوْلِ الْمَصَآئِبِ۔

97 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مِنْ سَطْوَتِهٖ كُلُّ عَدُوٍّ هَآئِبٌ۔

98 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ضَرَبَتِ الضَّرَآئِبُ.

99 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الرَّغَائِبِ.

100 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا غَابَ غَآئِبٌ" اَوْ عَابَ عَآئِبٌ".

101 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اِرْتَقٰى رَاقٍ" فَوْقَ الْحَدَآئِبِ.

102 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَثُرَتِ الشَّوَآئِبُ وَ قَلَّتِ السَّوَآئِبُ.

103 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا دَرَجَتِ الدَّوَارِجُ وَ دَبَّتِ الدَّبَآئِبُ.

104 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّسْقٰى بِهَا مِنْ لَّبَنِ الْعِلْمِ الْمَجْهُوْلِ لَدَى الْعُقُوْلِ وَ الْغَآئِبِ.

حَرْفِ "ت"

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

106 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ.

107 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَ بَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ.

108 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنِّيْ اُكْرِهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ.

109 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِبْتَهِلُوْا الْعَفْوَ عَنْ عَثَرَاتِ ذَوِي الْمَرْوَاتِ.

110 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

111 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا تُكْرِهُوا الْبَنَاتَ فَاِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ.

112 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اُذْكُرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ۔

113 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَنْ تَوَضَّاَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ۔

114 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ۔

115 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ۔

116 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّهْرَانِ مِنَ الْجَنَّةِ النِّیْلُ وَ الْفُرَاتُ۔

117 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِنَّهٗ قَدْ لَعَنَ الْمُوْصِلَاتِ۔

118 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُسْتَوْلَاتِ۔

119 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: صَلِّ بَیْنَ الْعِشَآءَیْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ۔

120 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلصَّدَقَاتُ بِالْغُدُوَّاتِ یُذْهِبْنَ بِالْعَاهَاتِ۔

121 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَا قِصَاصَ فِیْمَا دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ۔

122 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِنَّمَا یُبْعَثُ الْمُقْتَتِلُوْنَ عَلَى النِّیَّاتِ۔

123 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: طَالِبُ الْعِلْمِ بَیْنَ الْجُهَّالِ كَالْحَیِّ بَیْنَ الْاَمْوَاتِ۔

124 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: رَحِمَ اللّٰهُ الْمُتَخَلِّلِیْنَ وَ الْمُتَخَلِّلَاتِ۔

125 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: مَنْ قَرَأَ يٰسٓ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشَرَ مَرَّاتٍ۔

126 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ۔

127 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَابَقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ۔

128 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ كَانَ يُصَلِّي الضُّحٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ۔

129 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ نَهٰى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ۔

130 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ كَانَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَكْثَرَ الصُّمَاتَ۔

131 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ حُرِّمَ نِدَاؤُهٗ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ۔

132 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ كَانَ يُعِيْدُ الْكَلِمَةَ لِتُعْقَلَ عَنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

133 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ شُقَّ عَنْ صَدْرِهٖ خَمْسَ مَرَّاتٍ۔

134 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: لَعَنَ اللّٰهُ الْمُسَوِّفَاتِ۔

135 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: لَعَنَ اللّٰهُ دَاخِلَاتِ الْحَمَّامَاتِ۔

136 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرَقِّيْ بِهَآ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ۔

حَرْفِ "ث"

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَلْوُدُّ يُوْرَثُ وَ الْعَدَاوَةُ تُوْرَثُ۔

138 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ يَمِيْنِهٖ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ۔

139 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلنَّوْمُ حَدَثٌ وَّ الْغَشْيَانُ حَدَثٌ۔

140 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلنُّبُوَّةُ لَا تُوْرَثُ۔

141 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلنَّبِیُّ لَا يُوْرَثُ۔

142 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: إِذَا بَلَغَ الْمَآءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبُثَ۔

143 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِیُّ صَلِّ عَلَيْهِ وَوَرِثَ۔

144 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَهُوَ فِیْ صَلَاةٍ مَّا لَمْ يُحْدِثْ۔

145 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: إِنَّ اللهَ تَعَالٰی يَبْغَضُ الْوَسَخَ وَالشَّعَثَ۔

146 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ۔

147 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلْغَلَسُ حَدَثٌ۔

148 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: لَا يُصَلِّیْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِّنَ الْحَدَثِ۔

149 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلنَّبِیُّ لَا يُوْرَثُ۔

150 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلشُّفْعَةُ لَا تُوْرَثُ۔

151 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ۔

152 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: لَا تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّآئِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ۔

153 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: لَا يُبَاعُ الْوَلَآءُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ۔

154 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ أَمَرَ الصِّدِّيْقَ بِالصِّدْقِ إِذَا حَدَثَ۔

155 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ لَا يَعِيْ وَلَا يَلْهَثُ۔

156 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ إِذَا
جَلَسَ يَتَحَدَّثُ۔

157 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ لَا يُحَرِّكُ عُضْوًا
عَبَثًا۔

158 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ فِىْ غَارِ حِرَاءَ
يَتَحَنَّثُ۔

159 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ يَشُدُّ صُلْبَهٗ بِالْحَجَرِ
مِنَ الْغَرَثِ۔

160 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ رُبَّمَا يَضَعُ يَدَهٗ عَلٰى
لِحْيَتِهٖ فِى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ۔

161 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ يَبْتَسِمُ إِذَا بِحَدِيْثٍ
حَدَثَ۔

162 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ أَخْبَرَ أَنَّ اللّٰهَ لَمَّا خَلَقَ
الْمَعِيْشَةَ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِى الْغَنَمِ وَالْحَرْثِ۔

163 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ طَهَّرَنَا مِنَ الدَّنَسِ وَ
الْخُبُثِ۔

164 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لِلْعُلُوْمِ فِىْ أُمَّتِهٖ بَثَّ۔

165 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ عَلَى التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ
حَثَّ۔

166 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ أَمَرَنَا بِالتَّوْحِيْدِ مِنْ
ثُلُثٍ۔

167 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مَيَّزَ بَيْنَ السَّمِيْنِ وَ
الْغَثِّ۔

168 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ أَمَرَ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَقَضَاءِ
النَّفَثِ۔

169 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَبَتَ الشَّثُّ اَوْ تَحَرَّكَ
الشَّبَثُ۔

170 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ بِهَا وَفَآءً بِالْعُهُوْدِ وَ
مَا نَكَثَ۔

حَرْفِ "ج"

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: حَدِّثُوْا عَنْ م بَنِیْ
اِسْرَآئِيْلَ وَلَا حَرَجَ۔

172 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: اَلزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ
السَّبِيْلُ فِی الْحَجِّ۔

173 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ
اَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ۔

174 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: هَلُمَّ اِلٰى جِهَادٍ وَّلَا
شَوْكَةَ فِيْهِ الْحَجُّ۔

175 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الْعُمْرَةَ لَقَرِيْنَةُ
الْحَجِّ۔

176 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ۔

177 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَ
الثَّجُّ۔

178 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ
اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ۔

179 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اَحَبَّ عِبَادُ اللهِ
الَّذِيْنَ يَسْأَلُوْنَ الْفَرَجَ۔

180 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: بَيْنَ يَدِی السَّاعَةِ
اَيَّامُ الْهَرَجِ۔

181 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَآئِلِ: يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ يُظْهَرُ
الْجَهْلُ وَ الْفِتَنُ وَ يُكْثَرُ الْهَرَجُ۔

182 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: اِذَا اَرَدْتَ اَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ حَتّٰى يُرِيَكَ اللهُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ.

183 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: اِنَّمَا الْاِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ لَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

184 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: اَلْمَرْاَةُ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

185 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ مِّنْكُمْ فَلْيَتَزَوَّجْ.

186 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: لَا قَوَدَ فِيْ شَلَلٍ وَّلَا عَرَجٍ.

187 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: بِرُّ الْحَجِّ الْعَجُّ وَ الثَّجُّ.

188 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: مَنْ خَافَ اَدْلَجَ.

189 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: آخِرُ وَطْأَةٍ وَّطْأَهَا اللهُ بِوَجٍّ.

190 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ.

191 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تَوَقُّعُ الْفَرَجِ.

192 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الَّذِيْ اُخْبِرَ اَنَّ الْبُكَآءَ لَيْسَ فِيْهِ حَرَجٌ.

193 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: اِنَّ جِهَادَ الْكَبِيْرِ وَ الصَّغِيْرِ وَ الضَّعِيْفِ وَ الْمَرْاَةِ الْعُمْرَةُ وَ الْحَجُّ.

194 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الَّذِيْ مِنْ اَسْمَآئِهٖ صَاحِبُ الْفَرَجِ.

195 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْمَوْصُوْفِ بِاَنَّهٗ اَغَرُّ اَبْلَجُ.

196 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَائِلِ: لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ وَلَا

يَتَزَوَّجُ۔

197 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ۔

198 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: حُسْنُ الْخُلُقِ يُذِيْبُ الذُّنُوْبَ كَمَا تُذِيْبُ النَّارُ الثَّلْجَ۔

199 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: آتِيْهَا عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِذَا كَانَ فِي الْفَرَجِ۔

200 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ۔

حَرْفِ ''ح''

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَا طَلَاقَ اِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ۔

202 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اُغْدُوْا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَاِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَّنَجَاحٌ۔

203 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ۔

204 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِغْتَسِلْ وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ۔

205 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ الضِّرَاحُ۔

206 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِخْفُوْا الْخِطْبَةَ وَاَظْهِرُوْا النِّكَاحَ۔

207 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْا الْمِصْبَاحَ۔

208 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ خِطْبَةٍ وَّنِكَاحٍ۔

209 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَلْاِحْصَانُ اِحْصَانَانِ
اِحْصَانُ عِفَافٍ وَّاِحْصَانُ نِكَاحٍ۔

210 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَا يُصْلِحُ الْمَكْرَ وَ
الْخَدِيْعَةَ اِلَّا فِي النِّكَاحِ۔

211 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ
بِالنِّكَاحِ۔

212 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مِنْ اَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ
اَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ۔

213 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِيَّاكُمْ وَالْمِزَاحَ۔

214 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَنْ اَحَبَّ فِطْرَتِيْ
فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِيْ وَاِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ۔

215 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اُخْبِرَ اَنَّ اَوَّلَ مَنْ يَّاْكُلُ
مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ اَبُو الدَّحْدَاحِ۔

216 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اُخْبِرَ اَنَّ الصَّيْفَ اُنْثٰى وَ
فِيْهِ النِّتَاجُ وَالشِّتَاءُ ذَكَرٌ وَّفِيْهِ اللِّقَاحُ۔

217 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اُخْبِرَ اَنَّ اللهَ لَا يُؤَاخِذُ
الصَّادِقَ فِي الْمِزَاحِ۔

218 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُسَمّٰى دِرْعُهٗ ذَاتَ الْوِشَاحِ۔

219 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَ
رَاحَ اَعَدَّ اللهُ لَهٗ مَنْزِلًا مِّنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ۔

220 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ كَانَ لَا يُنْكِرُ اللَّعِبَ
الْمُبَاحَ۔

221 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَوْ اَنَّ امْرَاً اطَّلَعَ
عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهٗ بِحَصَاةٍ فَفَقَاْتَ عَيْنَهٗ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ۔

222 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اُخْبِرَ اَنَّ حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ
لِلْجَنَّةِ مِفْتَاحٌ۔

223 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اُخْبِرَ اَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِیْ بِیَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔

224 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "لَا تَسُبُّوا الْاَئِمَّةَ وَ ادْعُوْا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ فَاِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ"۔

225 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اُخْبِرَ اَنَّهٗ لَیْسَ مِنَّا مَنْ حَمَلَ عَلَیْنَا السِّلَاحَ۔

226 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّسْقٰی بِهَا مِنْ صَافِی الْاَقْدَاحِ۔

حَرْفِ "خ"

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلَّذِیْ كَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ۔

228 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ یُكْرِهُ الْوَسَخَ۔

229 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ عَنْ صِفَاتِ الْبَشَرِیَّةِ انْسَلَخَ۔

230 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الشَّهْرُ انْسَلَخَ۔

231 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ حُبُّهٗ فِی الْقُلُوْبِ رَسَخَ۔

232 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الْحُبُّ لِلسُّلُوِّ نَسَخَ۔

233 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اللّٰهُ لِحُكْمٍ اَوْ آیَةٍ نَّسَخَ۔

234 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَقَشَّعَ الْغَمَامُ وَانْفَسَخَ۔

235 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَاقِدٌ عُقْدَةً فَسَخَ۔

236 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَاسِخٌ لِّمَا نَسَخَ مَسَخَ۔

237 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اللّٰهُ مِنَ الْاُمَمِ مَسَخَ۔

238 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ هُوَ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ بَرْزَخٌ"۔

239 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَمَدَ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْبَرْزَخِ۔

240 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: مَا سَحَابٌ رُخٌ وَّ مَصَابُ جَفْنِهٖ زَخٌ.

241 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَطَعَ مُدْلِجٌ فَرْسَخًا فَفَرْسَخْ.

242 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا هَمٌّ عَنِ الْقَلْبِ تَفَرْسَخْ.

243 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا جَبَلٌ عَلَا وَبَذَخَ.

244 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا رَجُلٌ تَعَاظَمَ وَبَذَخَ.

245 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَلِمَ عَالِمٌ فِيْ عِلْمِهٖ نَسَخَ.

246 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَهُرَ قَلْبٌ مِّنْ ذَمِيْمِ السَّنْخِ.

247 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَثُرَ فِي الْاَرْضِ السَّبَخِ.

248 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَامَ اِمْرَؤُ نَفْسَهٗ وَوَبَّخَ.

249 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُؤَرِّخٌ أَرَّخَ وَمُنَادٍ اِسْتَصْرَخَ.

250 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عُرُوْسٌ بِالطِّيْبِ تَضَمَّخَ.

251 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا حَبِيْبٌ عَلَى الْمُحِبِّ شَمَخَ.

252 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُتَوَاضِعُ رَأْسِ الرِّئَاسَةِ شَدَخَ.

253 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ظَهَرَ قَلْبٌ م بِالذُّنُوْبِ مُوْسِخْ.

254 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا أَضْرَمَ النَّارَ مَنْ نَّفَخَ.

255 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّثُوْرُ اِذَا فِي الصُّوْرِ نُفِخَ.

256 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا فَقَدَ أَخٌ لِّأَخٍ.

257 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا صِيْدَ طَيْرٌ م بِفَخٍ.

258 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا بَاضَ طَيْرٌ وَّفَرَخْ.

259 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْحُ الْغَيْرَ مِنَ الْفُؤَادِ وَتَنْسَخْ.

حَرْفِ "د"

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: كُنْتُ نَبِیًّا وَّ آدَمُ بَیْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ۔

261 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُخْبِرِ اَنَّ الدُّعَآءَ بَیْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ لَا یُرَدُّ۔

262 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: دُعَآءُ الْمُحْسِنِ اِلَیْهِ لِلْمُحْسِنِ لَهٗ لَا یُرَدُّ۔

263 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّیْسَ عَلَیْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"۔

264 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْوَالِیْ مِنَ الرَّعِیَّةِ كَالرُّوْحِ مِنَ الْجَسَدِ۔

265 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: نَحْنُ اَهْلُ بَیْتٍ لَّا یُقَاسُ بِنَآ اَحَدٌ"۔

266 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَّلَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ۔

267 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَهْلُ الْجَنَّةِ یَدْعُوْنَ بِاَسْمَآئِهِمْ اِلَّا آدَمَ فَاِنَّهٗ یُكْنٰی اَبَا مُحَمَّدٍ۔

268 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنِّیْ اُكْرِهُ اَنْ یُّشَارِكَنِیْ فِیْ طُهُوْرِیْ اَحَدٌ"۔

269 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی یُحِبُّ اَنْ یُّحْمَدَ۔

270 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنِ اكْتَحَلَ بِاِثْمِدٍ یَّوْمَ عَاشُوْرَآءَ لَمْ یَرْمَدْ۔

271 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا تُبَاعُ اُمُّ الْوَلَدِ۔

272 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ

الْاَبَدِ۔

273 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ۔

274 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: دُعَاءُ الْاَخِ لِاَخِيْهِ فِيْ ظَهْرِ الْغَيْبِ لَا يُرَدُّ۔

275 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ۔

276 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ اِلَّا الْقَضَاءُ وَالْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ۔

277 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَوْلَا وَعِيْدُ اللّٰهِ وَعِقَابُهٗ لَاتَّكَلَ كُلُّ اَحَدٍ۔

278 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهٖ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ لَّا تُرَدُّ۔

279 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَسْتُ اَدْخُلُ دَارًا فِيْهَا نَوْحٌ وَّلَا كَلْبٌ اَسْوَدُ۔

280 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِتَّقُوا الْمَجْذُوْمَ كَمَا يُتَّقَى الْاَسَدُ۔

281 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَكْلُ السَّمَكِ يَذْهَبُ بِالْجَسَدِ۔

282 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَّ ثَمَرَةُ الْقَلْبِ الْوَلَدُ۔

283 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ارْتَفَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ۔

284 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ۔

285 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ ۨ الْبَقَاءَ رَزَقَهُمُ الْعَفَافَ وَالْقَصْدَ۔

286 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ

بِقِيْعِ الْغَرْقَدِ۔

287 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَالزُّهْدُ غِنَى الْاَبَدِ۔

288 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ نِّسْبَةً وَّ نِسْبَةُ اللهِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ۔

289 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَوَّلُ الْمُرْسَلِيْنَ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ۔

290 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ اَسْوَاطٍ اِلَّا فِيْ حَدٍّ۔

291 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا يُغْرَمُ السَّارِقُ اِذَا اُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ۔

292 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: وَعْدُ الْمُؤْمِنِ كَاَخْذٍ بِالْيَدِ۔

293 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: وَحُدُّ اللهِ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْاَحَدِ۔

294 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ اَحَدٌ وَّ لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اَحَدٌ۔

295 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نُّسِيْرُ بِهَآ اَبَدَ الْاَبَدِ اِلٰى حَضَرَاتِ الْاَحَدِ۔

حَرْفِ "ذ"

296 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اُحْشَرُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا۔

297 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: وَيْلٌ لِّلْمُكْثِرِيْنَ اِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا۔

298 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّمَا يَكْفِيْكَ

هٰكَذَا ۔

299 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: مَا أُحِبُّ إِنِّي حَاكَيْتُ إِنْسَانًا وَّ أَنَّ لِي كَذَا وَ كَذَا ۔

300 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هٰكَذَا ۔

301 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: يَقُوْلُ اللهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِي هٰكَذَا رَفَعْتُهٗ هٰكَذَا ۔

302 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اَلصَّلَاةُ عَلٰى ظَهْرِ الدَّابَّةِ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا ۔

303 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَّا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسَبُ الشَّهْرَ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا ۔

304 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا ۔

305 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْإِبْتِهَالِ هٰكَذَا ۔

306 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الَّذِي نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلَّا هٰكَذَا ۔

307 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: دَعُوْا صُوَيْحِبِي هٰذَا ۔

308 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اَلْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مَسْجِدِي هٰذَا ۔

309 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي يَوْمِي هٰذَا ۔

310 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: نِعْمَ الْمَوْضِعُ الْحَمَّامِ هٰذَا ۔

311 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُّنَقِّشَ نَقْشَ خَاتِمِي هٰذَا ۔

312 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَا أُرْسِلَ عَلٰى عَادٍ
مِّنَ الرِّيْحِ إِلَّا قَدْرَ خَاتَمِيْ هٰذَا۔

313 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: يُكَسِّرُ حَرٌّ هٰذَا بَرْدٌ
هٰذَا۔

314 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَيَرْقِيَنَّ جَبَّارٌ مِّنْ
بَنِيْ أُمَيَّةَ مِنْبَرِيْ هٰذَا۔

315 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْقَرُّ بُؤْسٌ وَّالْحَرُّ
أَذًى۔

316 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: هُدْنَةٌ عَلٰى دُخْنٍ وَّ
جَمَاعَةٌ عَلٰى أَقْذَاءٍ۔

317 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: خُذُوْا مِنْ هٰذَا وَدَعُوْا
هٰذَا۔

318 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَا يَقُوْمُ أَحَدُكُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ وَبِهٖ أَذًى۔

319 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْحَقُّ مَعَ ذَا الْحَقُّ مَعَ
ذَا۔

320 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ
بِعَقِيْقَتِهٖ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذٰى۔

321 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِّنَ
الدَّاءِ يُعْدِيْ فَهُوَ هٰذَا۔

322 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: ثَلَاثَةٌ مِّنْ أَعْمَالِ
الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ النَّاسُ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَوْلُهُمْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا۔

323 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الْمِسْكُ سَادًا وَّشَاذًا۔

324 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الْمُحِبُّ وَالْمُسْتَهَامُ مِنَ
الْهَجْرِ اسْتِعَاذًا۔

325 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَلَاذِ الْأَعْظَمِ وَأَنْعَمَ بِهٖ

مَلَاذًا۔

326 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اَکْثَرَ فَاقِدُ اَحْبَابِہٖ مُنْ مَاذَا۔

327 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا وَافٰی مُرِیْدٌ اُسْتَاذًا۔

328 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا صَیَّرَ الْوُصُوْلُ الْبَیْنَ جُذَاذًا۔

329 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُحِبٌّ وَّصَبَ بِالْاَعْتَابِ لَاذًا۔

330 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَلِیْنُ قُلُوْبًا کَانَتْ فُوْلَاذًا۔

حَرْفِ ''ر''

331 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ مِنِّیْ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ۔

332 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِقْتَدُوْا بِاللَّذَیْنِ مِنْ م بَعْدِیْ اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ۔

333 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: خَیْرُ اُمَّتِیْ بَعْدِیْ اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ۔

334 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ۔

335 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: وَزِیْرَایَ مِنَ السَّمَآءِ جِبْرِیْلُ وَ مِیْکَآئِیْلُ وَ مِنَ الْاَرْضِ اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ۔

336 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ۔

337 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ اَفْضَلَ مِنْ عِلْمٍ یُّنْشَرُ۔

338 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلشَّامُ اَرْضُ الْمَحْشَرِ وَ الْمَنْشَرِ۔

339 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِذَا نَزَلَ الْقَضَآءُ عَمِیَ

الْبَصَرُ۔

340 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا يُغْنِیْ حَذَرٌ مِّنْ قَدَرٍ۔

341 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلدَّاعِیْ بِلَا عَمَلٍ كَالرَّامِیْ بِلَا وَتَرٍ۔

342 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: ذَهَبَ صَفْوُ الدُّنْيَا وَ بَقِیَ الْكَدَرُ۔

343 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ۔

344 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ۔

345 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: سَيُصِيبُ اُمَّتِیْ دَآءُ الْاُمَمِ الْاَشَرِ وَ الْبَطَرِ۔

346 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: قَالَ جِبْرِيْلُ لِیْ: لَيَبْكِی الْاِسْلَامُ عَلٰی مَوْتِ عُمَرَ۔

347 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: صَآئِمُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِی الْحَضَرِ۔

348 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: يُحْشَرُ الْجَبَّارُوْنَ فِیْ صُوْرَةِ الذَّرِّ۔

349 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: عَزَمْتُ عَلٰی اُمَّتِیْ اَنْ لَّا يَتَكَلَّمُوْا فِی الْقَدَرِ۔

350 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللهَ تَعَالٰی يُغَارُ لِلْمُسْلِمِ فَلْيَغُرْ۔

351 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْهَدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَ الْقَلْبِ وَ الْبَصَرِ۔

352 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: رَحِمَ اللهُ مُوْسٰی قَدْ اُوْذِیَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ۔

353 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهٗ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ۔

354 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ أَغْضِبُ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ۔

355 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: إِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جَنِبَ الْفِتَنَ وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ۔

356 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ۔

357 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: إِجْتَنِبُوْا مَآ أَسْكَرَ۔

358 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: بَخِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ بِاللُّبَانِ وَالْمُرِّ وَالسَّعْتَرِ۔

359 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: رَحِمَ اللّٰهُ إِمْرَأً قَصَرَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ۔

360 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: رُبَّ قَآئِمٍ لَّيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهٖ إِلَّا السَّهَرَ۔

361 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: تَكْفِيْكَ قِرَآءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ۔

362 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: اَلْعَبْدُ آمِنٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مَا اسْتَغْفَرَ۔

363 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَآئِكُمْ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيْهِ كَفَرَ۔

364 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: صَلَاةٌ تَلُمُّ شَعْثَنَا عِنْدَ الْكِبَرِ۔

حَرْفِ ''ز''

365 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ: إِحْرِزُوا الشُّهْرَتَيْنِ الصُّوْفَ وَالْخَزَّ۔

366 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدّٰى زَكَاتَه، فَزَكّٰى فَلَيْسَ بِكَنْزٍ۔

367 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلدُّنْيَا كَنْزٌ وَّ الدِّرْهَمُ كَنْزٌ وَّ الْقِيْرَاطُ كَنْزٌ۔

368 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَىُّ مَالٍ اُدِّيَتْ زَكَاتُه، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ۔

369 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَا الْمَوْتُ فِيْمَا بَعْدَه، اِلَّا كَنَطْحَةِ عَنْزٍ۔

370 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللهَ يَحْمَدُ عَلَى الْكَيْسِ وَيَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ۔

371 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْاَمَانَةُ عِزٌّ۔

372 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: سَيِّدُ الطَّعَامِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْاَرُزُّ۔

373 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً وَّاَوْجَزَ۔

374 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَه، فَرَسٌ اَشْقَرُ يُسَمَّى الْمُرْتَجِزَ۔

375 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَّا يَمَلُّ مِنْ حَدِيْثِهٖ اَطْنَبَ وَ اَوْجَزَ۔

376 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَهٰى اَنَّ شُعُوْرَ النِّسَاءِ تُجَزَّ۔

377 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَه، بِسَاطٌ يُّسَمَّى الْكَزَّ۔

378 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ كَفُّه، اَلْيَنَ مِنَ الْخَزِّ۔

379 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ يَلْبَسُ مَا وَجَدَ غَيْرَ الْقَزِّ۔

380 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ عَزَّ بِهِ الدِّيْنُ بَعْدَ مَا عَزَّ۔

381 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ قَوّٰى لَنَا غَرَآئِبَ الْمَعَانِیْ فِیْ عَجَآئِبِ الْمَبَانِیْ اَبْرَزَ۔

382 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ نَسَجَ لِاُمَّتِهٖ ثَوْبَ الْهُدٰى وَطَرَزَ۔

383 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِیْ وَصْفُ كَمَالَاتِهٖ اَعْجَزَ۔

384 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَآئِرٌ جَمَزَ وَّمَرْكُوْبٌ فِیْ مَشْيِهٖ غَمَزَ۔

385 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُلْغِزٌ اَلْغَزَ وَهَمَّازٌ هَمَزَ۔

386 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اَبْصَرَ الْاَخْرَزَ وَاخْتَصَرَ مَنْ رَّمَزَ۔

387 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الدَّهْرُ لِمُقِلٍّ اَعْوَزَ۔

388 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَالِكُ مَفَازَةٍ فَوَّزَ۔

389 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُصَلٍّ فِی الصَّلَاةِ تَجَوَّزَ۔

390 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَامِلٌ قَصَبَ السَّبَقِ اَحْرَزَ۔

391 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مَوْعِدٌ لِوَعْدِهٖ اَنْجَزَ۔

392 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ذَكَرَ حَبِيْبٌ بِذِكْرِهِ الْاَرْوَاحُ وَالْاَشْبَاحُ تَهْتَزُّ۔

393 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اِمْرَءٌ بِإِزَارِهٖ اِحْتَجَزَ۔

394 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَبِسَ الْبَزَّ وَجَالِسٌ اِسْتَوْفَزَ۔

395 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُفْرِزٌ فِی الْاَمْرِ اَفْرَزَ۔

396 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا شَاعِرٌ ارْتَجَزَ اَوْ عَارِفٌ لِلسِّرِّ خَبَزَ۔

397 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً بِهَا وَتَدٌ فِی الْقَلْبِ يُغْرَزُ۔

حَرْفِ "س"

398 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَبُوْبَكْرٍ وَّ عُمَرُ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ مِنَ الرَّاْسِ۔

399 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ۔

400 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: تَزَوَّجُوْا فِي الْحَجَرِ الصَّالِحِ فَاِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاس"۔

401 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْخِضْرُ هُوَ اِلْيَاس"۔

402 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ۔

403 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِسْتَقِمْ وَ لْيُحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ۔

404 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَسْعَدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَبَّاسُ۔

405 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ اَشَدُّ النَّاسِ لُطْفًا بِالْعَبَّاسِ۔

406 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللّٰهَ يُكْرِهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّثَاؤُبِ وَ الْعُطَاسِ۔

407 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَوْ تَمَّتِ الْبَقَرَةُ ثَلَاثَمِائَةِ آيَةٍ لَتَكَلَّمَتِ الْبَقَرُ مَعَ النَّاسِ۔

408 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِيْ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ۔

409 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِيْ مَنَامِهٖ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ۔

410 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ اَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَ مَنْ اَسْخَطَ النَّاسَ بِرِضَى اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ۔

411 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: طُوْبٰى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ۔

412 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى حَثَالَةِ النَّاسِ۔

413 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ۔

414 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ۔

415 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: يَا اَبَا بَكْرٍ اِنْ اَقَمْتَ فَتَقَدَّمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ۔

416 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔

417 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ۔

418 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ مِنْ اَغْيَرِ النَّاسِ۔

419 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: قُسِمَ الْحِفْظُ عَشَرَةَ اَجْزَاءٍ فَتِسْعَةٌ فِي التُّرْكِ وَجُزْءٌ فِيْ سَائِرِ النَّاسِ۔

420 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: قُسِمَ الْحَيَاءُ عَشَرَةَ اَجْزَاءٍ فَتِسْعَةٌ فِي الْعَرَبِ وَجُزْءٌ فِيْ سَائِرِ النَّاسِ۔

421 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْغِنَى الْيَأْسُ مِمَّا فِيْ اَيْدِي النَّاسِ۔

422 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: شِرَارُ اُمَّتِيْ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ فِي النَّاسِ۔

423 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ اَكْثَرُ النَّاسِ۔

424 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: بُعِثْتُ بِمُدَارَةِ

النَّاسِ۔

425 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ اُخْبِرَ اَنَّ تَرْجُمَانَ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ۔

426 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ دَعَا بِالسِّتْرِ مِنَ النَّارِ لِلْعَبَّاسِ وَلِذُرِّیَّةِ الْعَبَّاسِ۔

427 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ بَعْدَ الْاِیْمَانِ بِاللّٰہِ التَّوَدُّدُ اِلَی النَّاسِ۔

428 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُہٗ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّہٗ اِسْتِغْنَاؤُہٗ عَمَّا فِیْ اَیْدِی النَّاسِ۔

429 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ کَانَ مِنْ اَصْبَرِ النَّاسِ عَلٰی اَقْذَارِ النَّاسِ۔

430 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: عُنْوَانُ کِتَابِ الْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ حُسْنُ ثَنَآءِ النَّاسِ۔

431 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: مَنْ آثَرَ مَحَامِدَ اللّٰہِ عَلٰی مَحَامِدِ النَّاسِ کَفَاہُ اللّٰہُ مَؤُنَۃَ النَّاسِ۔

432 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَعْمُرُ مِنَّا بِالشُّھُوْدِ الْحَوَاسِ وَ الْاَنْفَاسِ۔

حَرْفِ "ش"

433 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: اِنَّ اَھْلَ الْفِرْدَوْسِ یَسْمَعُوْنَ اَطِیْطَ الْعَرْشِ۔

434 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: اُعْطِیْتُ آیَۃَ الْکُرْسِیِّ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ۔

435 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: فَاتِحَۃُ الْکِتَابِ اُنْزِلَتْ مِنْ کَنْزٍ تَحْتِ الْعَرْشِ۔

436 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِلِ: اِنَّ جِبْرِیْلَ عَاتَبَنِیْ فِی الْعَرْشِ۔

437 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: إِنَّ الْمُتَحَابِّيْنَ فِي اللهِ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ۔

438 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: مِنْ كَرَامَتِيْ عَلٰى رَبِّيْ قُعُوْدِيْ عَلَى الْعَرْشِ۔

439 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: اَلرَّحْمُ شَجْنَةٌ مُّعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ۔

440 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: رَأَيْتُ الْمَرْزَنْجُوْشَ نَابِتًا تَحْتَ الْعَرْشِ۔

441 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: بَابُ الرِّزْقِ مَفْتُوْحٌ اِلٰى بَابِ الْعَرْشِ۔

442 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: اِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذٰلِكَ الْعَرْشُ۔

443 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: كُلُّ شَيْئٍ خَطَاءٌ اِلَّا السَّيْفَ لِكُلِّ خَطَآءٍ اَرْشٌ۔

444 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ۔

445 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ۔

446 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: اَلضَّبُعُ صَيْدٌ وَّفِيْهِ كَبْشٌ۔

447 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: اِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ۔

448 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ۔

449 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِاَرْبَعٍ: بِالسَّخَآءِ وَالشَّجَاعَةِ وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَشِدَّةِ الْبَطْشِ۔

450 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيْ نَهٰى اَنَّ التَّمْرَ عَمَّا فِيْهِ

يُفَتِّشُ۔

451 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ شَرَّشَ كَرَّمَ حُبَّه وَ
عَرَّشَ۔

452 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ لِمَيِّتِ الْقُلُوْبِ اَحْيٰ وَ
اَنْعَشَ۔

453 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: مَا مُرْتَاجٌ بِالْمِلَاحِ
تَحَرَّشَ۔

454 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَتْبَاعِهٖ مَقَاعِدُ الْقُرْبِ
فَرَّشَ۔

455 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اَزَالَ رِيَاهُ الْعَطَشَ۔

456 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الَّذِىْ اِذَآ اُغْدِقَ اِنْعَامُهٗ
اُدْهِشَ۔

457 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا رَكِبَ تَقَرَّشَ وَ مُفْتَرِشٌ
اِفْتَرَشَ۔

458 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اِنْسِيٌّ مِنَ الْاِنْسِ تَوَحَّشَ۔

459 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مِنَ الْاِنْسِ مُسْتَاْنِسٌ
اِسْتَوْحَشَ۔

460 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا غَآئِبُ مُحِبِّيْهِ اَوْحَشَ۔

461 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَبْدُ اللهِ فِي الْعَرْشِ وَ
الْفَرْشِ۔

462 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اللَّيْلُ غَطَشَ وَ الظَّلَامُ
دَغَشَ۔

463 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا زَالَ الْغَبَشُ۔

464 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مَرِيْضٌ مِّنْ مَّرَضِهٖ دَرْعَشَ۔

465 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُقْرِئُ ضَيْفَهٗ فِيْ وَجْهِهٖ بَشَّ۔

466 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا زَالَ الْخَفَشُ وَ بَاحِثٌ فَتَّشَ۔

467 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَاتِبٌ" خَرْبَشَ اَوْ نَاجِشٌ" نَجَشَ۔

468 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نُّسَلِّمُ بِهَا مِنْ اٰفَتَى الْخَرَسِ وَ الطَّرَشِ۔

حَرْفِ "ص"

469 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: اَلصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبْعِيْنَ نَوْعًا مِّنْ اَنْوَاعِ الْبَلَاءِ اَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ۔

470 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: اِيَّاكُمْ وَ الْبَوْلَ فِي الْمَقَابِرِ فَاِنَّهٗ يُوْرِثُ الْبَرَصَ۔

471 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: اِذَا هَاجَ الدَّمُ بِاَحَدِكُمْ فَلْيُهَرِّقْهُ وَلَوْ بِمِشْقَصٍ۔

472 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: اَفْضَلُ اُمَّتِي الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِالرُّخَصِ۔

473 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اُخْبِرَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُقْبِلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا لَهٗ خَلَصٌ"۔

474 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اُمِرَ اَنَّ الرُّؤْيَا عَلَى الصِّدِّيْقِ نَقْصٌ"۔

475 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ الْمُخْلِصِيْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ فَهَنِيْئًا لِّمَنْ اَخْلَصَ۔

476 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ خَلَصَ وَ تَخَلَّصَ۔

477 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا زَادَ نُوْرٌ" وَّ اِيْمَانٌ" وَّ نَقَصَ"۔

478 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَالَبَ قُرْبٌ" عَنِ الْمُقَرِّبِ فَحَصَ۔

479 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الْحَقُّ حَصْحَصَ۔

480 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اِنْتَهَزَتِ الْفُرَصُ وَ زَالَتِ الْغُصْغُصُ۔

481 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا شَاخِصٌ لِّجَمَالِهٖ شَخَصَ۔

482 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا رَامٍ اَشْخَصَ وَسَهْمٌ شَخَصَ۔

483 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَاكِصٌ عَلٰى عَقِبَيْهِ نَكَصَ۔

484 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الْحَقُّ لِلذُّنُوْبِ مَحَصَ۔

485 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا زَالَ الْقَنَصُ اَوْ قَانِصٌ قَنَّصَ۔

486 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا وَجَدَ ذُو الضِّيْقِ مُخْلِصٌ۔

487 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا غَاصَ غَوَّاصٌ وَّمَا بَرَقَ وَ بَصَّ۔

488 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا بَعِيْرٌ قَمَصَ اَوْ ظَبْيٌ قَفَصَ۔

489 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَالِبٌ اَغْوَصَ۔

490 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا خَمِيْصُ الْحَشَا مَشٰى عَلٰى قَدَمٍ اَخْمَصَ۔

491 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا حَرِيْصٌ عَلَى الدُّنْيَا حَرَصَ۔

492 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَهُ الْحَقُّ بِكُلِّ كَمَالٍ قَدْ خَصَّ۔

493 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ ظِلُّ الضَّلَالِ قَلَصَ۔

494 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ۔

495 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تُلِيَتْ سُوْرَةُ الْقَصَصِ۔

496 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَرُوْبٌ بِالْوَجْدِ رَقَصَ۔

497 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا زَادَ كَيْلٌ مَيْلًا اَوْ نَقَصَ۔

498 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا كَاتِبٌ لِّكُتَّابٍ طَلَسَ اَوْ قَصَّ۔

499 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُخَلِّصُ بِهَا مِنْ ضِيْقِ

الْقَفَصِ۔

حَرْفِ "ض"

500 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ فَوْقَ سَمَآئِهٖ اَنْ يُّخَطَّأَ اَبُوْ بَكْرٍ ؓ الصِّدِّيْقُ فِي الْاَرْضِ۔

501 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: لَا تَسُبُّوا السُّلْطَانَ فَاِنَّهٗ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔

502 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: وَقِّرُوْا عُلَمَآءَ اُمَّتِيْ فَاِنَّهُمْ نُجُوْمُ الْاَرْضِ۔

503 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَّعَنَتْهُ مَلٰٓئِكَةُ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ۔

504 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مَنْ لَّا يُصِيْبُ اَنْفُهُ الْاَرْضَ۔

505 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ اَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ۔

506 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ۔

507 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اُطْلُبُوا الرِّزْقَ فِيْ خَبَايَا الْاَرْضِ۔

508 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اِنَّ فَنَآ اُمَّتِيْ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ۔

509 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اَلْحُمّٰى رَآئِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔

510 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: بَيْنَ الْخُصُوْصِ وَ الْعُمُوْمِ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ۔

511 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ۔

512 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: مَا مَاتَ نَبِيٌّ اِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ۔

513 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: مِقْرَاضُ الْمَحَبَّةِ الْقَرْضُ۔

514 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا وَلَا يَبْغِيْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ۔

515 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَلْعَالِمُ اَمِيْنُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔

516 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَلْقُرْاٰنُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

517 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا اِلَّا الْجَانَ الْاَبْيَضَ۔

518 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَمِيْنٌ فِي السَّمَآءِ اَمِيْنٌ فِي الْاَرْضِ۔

519 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَنْتُمْ شُهَدَآءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ۔

520 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اُوْصِيْكُمْ بِالتُّجَّارِ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ بُرُدُ الْاٰفَاقِ وَاُمَنَآءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔

521 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَلْمُهَاجِرُوْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ۔

522 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَلْجَنَّةُ فِي السَّمَآءِ وَالنَّارُ فِي الْاَرْضِ۔

523 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَلسَّلَامُ اَمَانُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔

524 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ حُبَّ اَبِيْ بَكْرٍ وَّشُكْرَهٗ عَلٰى اُمَّتِهٖ فَرْضٌ۔

525 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ اَهْلَ السَّمَآءِ لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَّا الْاَذَانَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ۔

526 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: طَلْحَةُ شَهِيْدٌ يَّمْشِيْ عَلٰی وَجْهِ الْاَرْضِ۔

527 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ اِذَا بَصَقَ فِيْ ثَوْبِهٖ رَدَّ بَعْضَهٗ عَلٰی بَعْضٍ۔

528 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ الْغِنٰی غِنَی النَّفْسِ لَا كَثْرَةُ الْعَرَضِ۔

529 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَوْعَدَ مَنْ عَرَضَ اَخِيْهِ قَرْضٌ۔

530 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ اِنْ فُرِشَ لَهٗ اِضْطَجَعَ وَاِلَّا نَامَ عَلَی الْاَرْضِ۔

531 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِمَامَةِ الَّتِيْ لَمْ يَتَحَرَّرْ شَيْءٌ فِيْ طُوْلِهَا وَالْعَرْضِ۔

532 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ اِذَا غَضِبَ مِنْ شَيْءٍ بِذِكْرِهٖ عَرَضَ۔

533 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَجْعَلُنَا مِمَّنْ جَنَاحَهٗ خَفَضَ۔

حَرْفِ "ط"

534 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ اَبَابَكْرٍ لَّمْ يَسُؤْنِيْ قَطُّ۔

535 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: خَيْرُ الْاُمُوْرِ الْوَسَطُ۔

536 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَّا يَقُوْمُوْنَ بِالْقِسْطِ۔

537 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمِيْ اِلَی الْخَطِّ۔

538 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: عَلَيَّ إِذَا عَلَا قَدَّ وَإِذَا وَسَطَ قَطَّ۔

539 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: لَا نَذْرَ فِيْ غَلَطٍ۔

540 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: خَيْرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ۔

541 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: مَآ أَعَزَّ اللّٰهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَلَآ أَذَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ۔

542 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: مَآ أَمْعَرَ حَاجٌّ قَطُّ۔

543 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: مَآ أَفْلَحَ صَاحِبُ عِيَالٍ قَطُّ۔

544 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: مَا مَحَقَ الْإِسْلَامُ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ قَطُّ۔

545 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: تَوَضَّؤُوْا مِمَّا غَيَّرَتْهُ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ۔

546 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: أَفْضَلُ اللَّيْلِ جَوْفُهُ الْأَوْسَطُ۔

547 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَآئِلِ: مَا كَفَرَ بِاللّٰهِ شَيْءٌ قَطُّ۔

548 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِيْ أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ رَّضِيَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ۔

549 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِيْ مَا عَابَ طَعَامًا قَطُّ۔

550 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِيْ كَانَ يُلْحِسُ الْقَصْعَةَ وَيَتَتَبَّعُ مِنَ السُّفْرَةِ مَا سَقَطَ۔

551 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِيْ أَخْبَرَ أَنَّ إِدْرِيْسَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ خَطٌّ۔

552 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِيْ شَعْرُهُ غَيْرُ جَعْدٍ وَّلَا

قَطِطٍ بَلْ وَسَطٍ۔

553 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ هُوَ لَنَا فَرَطٌ وَّ نِعْمَ الْفَرَطُ۔

554 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْخَبِیْرِ الَّذِیْ عَنْ حَقَآئِقِ الْاُمُوْرِ سَقَطٌ۔

555 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ عَلَیْهِ جِبْرِیْلُ بِالْوَحْیِ هَبَطَ۔

556 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ مَا شَآءَ قَطُّ۔

557 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ لَهُ الْحُسْنٰى فَقَطْ۔

558 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ نَجَا مِنْ حُبِّهٖ بِعَظْمِهٖ وَ دَمِهٖ اِخْتَلَطَ۔

559 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ مَنْ خَالَفَهٗ مِنْ عَیْنِ اللّٰهِ وَ رِعَایَتِهٖ سَقَطَ۔

560 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ مَنْ حَادَ عَنْ طَرِیْقِهٖ هَمَطَ۔

561 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ بَسَطَ۔

562 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اللّٰهُ عَلَى الْقُلُوْبِ رَبَطَ۔

563 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اِمْرَؤٌ مِّنْ مَّسِّ الشَّیْطَانِ لَهٗ یَتَخَبَّطُ۔

564 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الشِّرْكُ لِعَمَلِ صَاحِبِهٖ اُحِیْطَ۔

565 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُتَعَاظِمٌ فِیْ ثَوْبِهٖ خَطْخَطَ۔

566 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا جَآءَ الْفَرَجُ بَعْدَ مَا كَادَ الْعَبْدُ یَقْنُطُ۔

567 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا جَاهِلٌ لِشَرٍّ تَأَبَّطَ۔

568 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجُوْ بِهَا مِنَ الْغَضَبِ وَ

السَّخَطِ۔

حَرْفِ"ظ"

569 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَا تَكُنْ حُلْوًا فَتُؤْكَلُ وَلَا مُرًّا فَتُلْفَظَ۔

570 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا لَطَهَّرَهَا الْمَآءُ وَ الْقَرَظُ۔

571 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَيْسَ بِغَلِيْظِ قَلْبٍ" وَّلَا فَظٍّ"۔

572 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ تَقْشَعِرُّ الْجُلُوْدُ مِنْ كَلَامِهٖ اِذَا وَعَظَ۔

573 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ الْمَوْتَ كَظٌّ" لَّيْسَ كَالْكَظِّ۔

574 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ عَلَى الْاَعْدَآءِ الْقَوْلُ اَغْلَظُ۔

575 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَنَا مِنْ سُنَّةِ الْغَفْلَةِ اَيْقَظَ۔

576 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَمَّلَ اللهُ بِهِ الْحَظَّ۔

577 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَبَّه، عَلٰى اُمَّتِهٖ اِسْتَحْفَظَ۔

578 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْبِرِ اَنَّ مَنْ حَفِظَ اللهَ فَاللهُ لَه، يَحْفَظُ۔

579 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مَوْعُوْظٌ" بِاِخْلَاصٍ وَّ اَعِظَه، اِتَّعَظَ۔

580 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا لَافِظٌ بِمُحْكَمِ الْقَوْلِ لَفَظَ۔

581 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُتَلَفِّفٌ بِهِيَامِهٖ اَقْوَالُ لَوَامِهٖ لَفَظَ۔

582 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الْمَآءُ انْدَلَطَ۔

583 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا خَاطِرٌ تَغَلَّطَ۔

584 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا آمِرٌ تَكَعَّظَ۔

585 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا السَّهْمُ عَظْعَظَ۔

586 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا سَائِرٌ فِيْ سَيْرِهٖ دَلَظَ اَوْ نَائِمٌ اِسْتَيْقَظَ۔

587 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَذِيْرُ الشَّيْبِ بِلِسَانِ حَالِهٖ وَعَظَ۔

588 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا آمِرٌ عَلٰى مَعَانِيْهِ بَهَظَ۔

589 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَاظَ يَوْمٌ وَالْمُسَافِرُ فِيْهِ تَقَيَّظَ۔

590 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَدُوٌّ عَلٰى عَدُوِّهٖ تَغَيَّظَ۔

591 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَدَارَسَتِ الْحُفَّظُ۔

592 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا حَفِظَ الْقُرْآنَ مَنْ لِّلْقُرْآنِ يَحْفَظُ۔

593 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا آمِرٌ فَاظَ اَوْ مَاشٍ جَاظَ۔

594 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مَطْلَبٌ مَّسَّهٗ غَنَظَ۔

595 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا آكِلٌ بِلِسَانِهٖ تَلَمَّظَ۔

596 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا خَائِفٌ مِّنْ عَدُوِّهٖ تَحَفَّظَ۔

597 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا تَدَارَسَتِ الْحُفَّظُ وَوَجَدَ حَافِظٌ وَّاَحْفَظُ۔

598 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَبَدَ اَجْعَظَ وَاسْتَعْمَلَ الشَّمْظَ۔

599 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا طَالِبٌ مَّسَّهٗ غَنَظَ۔

600 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا قَارِظٌ جَنَى الْقَرَظَ۔

601 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً بِهَا لَنَا عُیُوْنُ الرِّضَا تَلحَظ۔

حَرْفِ "ع"

602 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَثَلُ اَبِیْ بَکْرٍ کَالْغَیْثِ اَیْنَمَا وَقَعَ نَفَعَ۔

603 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَلَاکُ الدِّیْنِ الْوَرَعُ۔

604 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: نَهَانِیَ اللّٰهُ عَنِ الْفَزَعِ۔

605 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَیْسَ مِنْ اُمَّتِیْ اَصْحَابُ الْبِدَعِ۔

606 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَّا یَنْفَعُ۔

607 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: کَفٰی بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ یُّحَدِّثَ بِکُلِّ مَا یَسْمَعُ۔

608 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّمَا السُّجُوْدُ عَلٰی مَنِ اسْتَمَعَ۔

609 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰی مَنِ اضْطَجَعَ۔

610 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: نُوْرُ الْحِکْمَةِ الْجُوْعُ وَ التَّبَاعُدُ عَنِ الشِّبَعِ۔

611 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: خَیْرُ السُّوْدَانِ لُقْمَانُ وَبِلَالٌ وَمَهْجَعُ۔

612 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لِلْمُنْصِتِ الَّذِیْ لَا یَسْمَعُ کَاَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِیْ یَسْمَعُ۔

613 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ لِلْاَنْصَارِ: اِنَّکُمْ لَتُکَثِّرُوْنَ عِنْدَ الْفَزَعِ وَ تُقِلُّوْنَ عِنْدَ الطَّمَعِ۔

614 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَانِعُ الزَّکَاةِ یُطَوَّقُ

بِشُجَاعٍ اَقْرَعُ۔

615 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلَّا فَدَعْ۔

616 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: كُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَّا يُبْدَئُ فِيْهِ بِسْمِ اللهِ فَهُوَ اَقْطَعُ۔

617 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِذَا اتَّبَعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوْا حَتّٰی تُوْضَعَ۔

618 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّ اِسْرَافِيْلَ لَيَتَوَاضَعُ لِلّٰهِ حَتّٰی يَصِيْرَ كَاَنَّهُ الْوَضَعُ۔

619 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْمُهْلِكَاتُ ثَلَاثٌ اِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَشُحٌّ مُّطَاعٌ وَّهَوًی مُّتَّبَعٌ۔

620 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ۔

621 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: لَا يُكَبَّرُ عَلَی الْجَنَائِزِ اِلَّا اَرْبَعٌ۔

622 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: لَا عُهْدَةَ فَوْقَ اَرْبَعٍ۔

623 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: قَالَ اللهُ لَمْ يَتَقَرَّبْ اِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُوْنَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ۔

624 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ۔

625 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: سَيِّدُ الشُّهُوْرِ رَمَضَانُ وَسَيِّدُ الْاَيَّامِ الْجُمُعُ۔

626 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنْتَهَی الْاِيْمَانُ اِلَی الْوَرَعِ۔

627 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَخْبَرَ: اَنَّ اللهَ اِذَا تَجَلّٰی لِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهٖ لَهٗ خَضَعَ۔

628 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ كَانَ إِذَا مَشٰى تَقَلَّعَ۔

629 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ نَهٰى اَنْ يُّقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتّٰى يُرْفَعَ۔

630 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ نَهٰى اَنَّ الْقُمَّلَةَ بِالنَّوَاةِ تُقْصَعُ۔

631 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ كَانَ يَسْمَعُ الشِّعْرَ مِنَ الشُّعَرَآءِ وَيُعْطِيْهِمْ وَيَهَبُهُمُ الْخِلَعَ۔

632 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ نَهٰى عَنْ دَوَآءٍ يُّتَّخَذُ فِيْهِ الضِّفْدَعُ۔

633 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ كَانَ إِذَا اَرَادَ السَّفَرَ بَيْنَ نِسَآئِهٖ اَقْرَعَ۔

634 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ لِّبَابِ الْجَنَّةِ يَقْرَعُ۔

635 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْطَعُ عَنَّا مَا عَنِ الْحُبِّ يَقْطَعُ۔

حَرْفِ "غ"

636 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ لِعِبَادَةِ مَوْلَاهُ تَفَرَّغَ۔

637 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْاٰمِرِ بِغُسْلِ الْاِنَآءِ سَبْعًا إِذَا الْكَلْبُ فِيْهِ وَلَغَ۔

638 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اٰمَرَ بِتَغْيِيْرِ الشَّيْبِ وَاجْتِنَابِ السَّوَادِ لِمَنْ صَبَغَ۔

639 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْاَنَامِ نَزَغَ۔

640 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا ضِيَآءُ الشَّمْسِ بَزَغَ۔

641 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا الشَّيْبُ بِرَأْسٍ تَفَشَّغَ۔

642 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ مَا مُتَكَلِّمٌ "فِيْ كَلَامِهٖ

تَفَشَّغَ۔

643 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا بِالطِّيْبِ رَجُلٌ بَطَغَ۔

644 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ حَبِيْبُهٗ عَلَيْهِ الْكَمَالَاتُ
اَفْرَغَ۔

645 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ نُوْرُهٗ مِنْ مَّرَاحِلِ عَلَى
الْحُجَّاجِ نَبِغَ۔

646 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لِاَقْصَى الْكَمَالَاتِ
اَفْرَغَ۔

647 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لِاَقْصَى الْكَمَالَاتِ بَلَغَ۔

648 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كُلَّمَآ اُوْحِيَ اِلَيْهِ لِاُمَّتِهٖ
بَلَّغَ۔

649 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَا مُحِبٌّ عَلَى الْاَعْتَابِ
تَمَرَّغَ۔

650 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا مُوَاصِلٌ فِي النَّعِيْمِ رَبَغَ۔

651 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ مَا قَتَلَ الذَّمَّ اِذَا تَبَوَّغَ۔

652 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَقْرَبُ لَدَغَ۔

653 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اَدِيْمَ انْدَبَغَ اَوْ حَرْفٌ اِلَّا
لَثِغَ۔

654 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا نَجَا امْرُؤٌ مِّنَ الْوَتَغِ۔

655 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّآ اٰكِلَ لِلطَّعَامِ مَضَغَ۔

656 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا فِي الْعَطِيَّةِ شَحِيْحٌ اَوْ سَئِغٌ۔

657 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا رَأْسَ ثَمِغَ اَوْ لَهٗ اَحَدٌ ثَلَغَ۔

658 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا عَنِ الرَّذَآئِلِ ذَا فَتُوَّةٍ اِمْتَسَغَ۔

659 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نُّبَلِّغُ بِهَا كُلَّ مُبَلَّغٍ۔

حَرفِ ''ف''

660 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ۔

661 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اِيَّاكَ وَ قَرِيْنَ السُّوْءِ فَاِنَّكَ بِهٖ تُعْرَفُ۔

662 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ تَقُوْلُ الْمَلَآئِكَةُ مَا قَدَّمَ وَ تَقُوْلُ النَّاسُ مَا خَلَّفَ۔

663 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَآ اِئْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَآ اِخْتَلَفَ۔

664 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: مَوْتُ الْفُجَآءَةِ أَخْذَةُ اَسِفٍ۔

665 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّحِبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ۔

666 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: مَا تَغَيَّرَتِ الْاَقْدَامُ فِيْ مَشْيٍ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مَنْ رَّقَعَ صَفًّ۔

667 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اَلْمَهْدِيُّ مِنِّيْ وَهُوَ اَجْلَى الْوَجْهِ اَقْنَى الْاَنْفِ۔

668 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اَكْثَرُ مِنْ اَكْلَةٍ كُلَّ يَوْمٍ سَرَفٌ۔

669 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: عَلَّمَ اللهُ آدَمَ اَلْفَ حَرْفَةٍ مِّنَ الْحِرَفِ۔

670 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اَلْمُؤْمِنُ يَأْلِفُ وَ يُؤْلِفُ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَّا يَأْلِفُ وَلَا يُؤْلِفُ۔

671 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: دَعْهَا عَنْكَ فَاِنَّ مِنَ الْغُرَفِ التَّلَفَ۔

672 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الْقَآئِلِ: اَلْعِدَةُ دَيْنٌ وَّيْلٌ لِّمَنْ وَّعَدَ ثُمَّ خَلَفَ۔

673 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: وَيْحُ الْفَرَاخِ فَرَاخِ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنْ خَلِيْفَةٍ مُّسْتَخْلَفٍ مُّتْرِفٍ۔

674 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ۔

675 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ۔

676 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَلثَّالِثَةُ فِي الْوُضُوْءِ شَرَفٌ وَّالرَّابِعَةُ سَرَفٌ۔

677 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ يُعْطِيْهِمْ مَا سَأَلُوْا وَيَسْتَجِيْبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا وَيُخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوْا الدِّرْهَمَ أَلْفَ أَلْفٍ۔

678 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَلْحَجُّ سَبِيْلُ اللّٰهِ تَضْعَفُ فِيْهِ النَّفَقَةُ بِسَبْعِ مِّائَةِ ضِعْفٍ۔

679 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: فِيْ أُمَّتِيْ مَسْخٌ وَّقَذْفٌ وَّخَسْفٌ۔

680 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَنْ قَرَأَ عِنْدَ أَمِيْرٍ كِتَابَ اللّٰهِ لَعَنَهُ اللّٰهُ بِكُلِّ حَرْفٍ۔

681 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْفِيْلِ أَعْفَاهُ اللّٰهُ مِنَ الْمَسْخِ وَالْخَسْفِ۔

682 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِرْمُوْا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَزَفِ۔

683 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَا تَمْضِيْ مِائَةُ سَنَةٍ وَّعَيْنٌ تَطْرُفُ۔

684 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: آتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ۔

685 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ كَانَ أَخْوَفُ الْخَلْقِ مِنَ اللّٰهِ لِأَنَّهُ بِهٖ أَعْرَفُ۔

686 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الَّذِیْ کَانَ یَقُوْلُ وَ الَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ اِذَا حَلَفَ۔

687 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ مَنْ عَرَفَ نَفْسَہٗ لِرَبِّہٖ عَرَفَ۔

688 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الَّذِیْ کَانَ یَأْخُذُ بِالْقَذْفِ۔

689 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الَّذِیْ کَانَ یُکْرِہُ نِکَاحَ السِّرِّ حَتّٰی یُضْرَبَ بِالدَّفِّ۔

690 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الَّذِیْ کَانَ اِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ۔

691 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّہٗ یُنْصَبُ لِکُلِّ غَادِرٍ لِّوَآءٌ ‟ ں بِہٖ یُعْرَفُ۔

692 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ حَمَلَۃَ الْقُرْآنِ مِنْ اُمَّتِہٖ وَ اَصْحَابَ اللَّیْلِ مِنْ غَیْرِھِمْ اَشْرَفُ۔

693 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَرَقّٰی بِھَا لِلْمَنْزِلِ الْاَشْرَفِ۔

حَرْفِ ‟ق‟

694 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الْقَآئِلِ: اَلذَّبِیْحُ ھُوَ اِسْحَاقُ۔

695 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الْقَآئِلِ: حُبُّ اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرٍ اِیْمَانٌ ‟ وَّ بُغْضُھُمَا نِفَاقٌ ‟۔

696 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الْقَآئِلِ: حُبُّ عَلِیٍّ ں بَرَآءَۃٌ ‟ مِّنَ النِّفَاقِ۔

697 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الْقَآئِلِ: حُبُّ الْعَرَبِ اِیْمَانٌ ‟ وَّ بُغْضُھُمْ نِفَاقٌ ‟۔

698 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الْقَآئِلِ: مَنْ اَحْسَنَ اَنْ یَّتَکَلَّمَ بِالْعَرَبِیَّۃِ فَلَا یَتَکَلَّمَنَّ بِالْفَارِسِیَّۃِ فَاِنَّہٗ یُوْرِثُ النِّفَاقَ۔

699 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ں الْقَآئِلِ: طُوْبٰی لِلْعُلَمَآءِ طُوْبٰی لِلْعِبَادِ وَیْلٌ ‟ لِّاَھْلِ الْاَسْوَاقِ۔

700 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْاِخْتِلَافُ اِلَى الْمَسَاجِدِ رَحْمَةٌ وَّالْاِجْتِنَابُ عَنْهَا نِفَاقٌ۔

701 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاقِ۔

702 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ۔

703 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: حُبُّ الْاَنْصَارِ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ وَبُغْضُ الْاَنْصَارِ اٰيَةُ النِّفَاقِ۔

704 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: سَيُشَدِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِرِجَالٍ لَّيْسَ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ خَلَاقٌ۔

705 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ۔

706 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ صَالِحَ الْاَخْلَاقِ۔

707 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَقَدْ اَكَلَ الدَّجَّالُ وَمَشٰى فِي الْاَسْوَاقِ۔

708 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ۔

709 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَا اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِيْ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ اِلَّا بَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ۔

710 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَّعُلَمَاءُ فُسَّاقٌ۔

711 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ اَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ۔

712 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَنْتُمُ الْيَوْمَ فِي الْمِضْمَارِ وَغَدًا فِي السِّبَاقِ۔

713 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلتَّضَلُّعُ مِنْ مَّآءِ زَمْزَمَ بَرَآءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ۔

714 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: خَيْرُ الْبَقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَشَرُّ الْبَقَاعِ الْاَسْوَاقُ۔

715 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: يَآ اُمَّ هَانِئٍ هٰذِهٖ صَلَاةُ الْاِشْرَاقِ۔

716 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: لَا يَجُوْزُ لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْمَعْتُوْهِ بَيْعٌ وَّلَا شِرَآءٌ وَّلَا طَلَاقٌ۔

717 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: لَا قَيْلُوْلَةَ فِي الطَّلَاقِ۔

718 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلْمِرَآءُ مِنَ النِّفَاقِ۔

719 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: مَنْ مَّثَّلَ بِالشَّعْرِ فَلَيْسَ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ خَلَاقٌ۔

720 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الصَّيَّاحَ فِي الْاَسْوَاقِ۔

721 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلْكِذْبُ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ النِّفَاقِ۔

722 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الطَّلَاقَ وَيُحِبُّ الْعِتَاقَ۔

723 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ زِنَا النِّسَآءِ بَيْنَهُنَّ السِّحَاقُ۔

724 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَكْلُ الطِّيْنِ يُوْرِثُ النِّفَاقَ۔

725 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ۔

726 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: فِيْ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ

شِفَاءٌ "وَّإِنَّهَا تِرْيَاق".

727 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً غَسَلَتْهُ اِمْرَأَتُهٗ وَكُفِّنَ فِيْ أَخْلَاقٍ.

728 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّحْصُلُ لَنَا بِهَا كَمَالُ الْفُتُوْحِ وَالْإِشْرَاقِ.

حَرْفِ "ك"

729 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَالْكِذْبَ وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهٗ يُنَجِّيْكَ.

730 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: يَا عَلِيُّ طُوْبٰى لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَّقَ فِيْكَ.

731 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ مِمَّا يَلِيْكَ.

732 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلْعَرْشُ عَلٰى مُلْكٍ مِّنْ لُّؤْلُؤٍ عَلٰى صُوْرَةِ دِيْكٍ.

733 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: إِذَا سَجَدْتَّ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلَا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيْكِ.

734 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ أَخْبَرَ أَنَّ صَدِيْقَهٗ وَصَدِيْقُ صَدِيْقِهِ الدِّيْكُ.

735 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصِلَ صَدِيْقَ أَبِيْكَ.

736 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: شَرُّ الْمَالِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيْكُ.

737 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلْمَمَالِيْكِ.

738 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: لَا تُظْهِرُ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ.

739 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: خَيْرُ الرِّزْقِ مَا لَا يُطْغِيْكَ وَلَا يُلْهِيْكَ۔

740 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَنْتَ وَ مَالُكَ لِاَبِيْكَ۔

741 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ وَ مَالَكَ مِنْ كَسْبِ اَبِيْكَ۔

742 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: تُحَلِّلْ اَنَّكَ اَكَلْتَ لَحْمَ اَخِيْكَ۔

743 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِسْقِهٖ عَسَلًا صَدَقَ اللّٰهُ وَ كَذِبَ بَطْنُ اَخِيْكَ۔

744 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيْكَ۔

745 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا غُلَامُ وَ بَارَكَ لِاُمِّكَ فِيْكَ۔

746 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهٗ يَكْفِيْكَ۔

747 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: صَدَقَ اللّٰهُ وَ كَذِبَ بَطْنُ اَخِيْكَ۔

748 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: أَعْدٰى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِيْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ۔

749 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِحْفَظْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْكَ وَ جَنْبَيْكَ۔

750 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَ رِجْلَيْكَ۔

751 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: اَنْعِمْ عَلٰى نَفْسِكَ كَمَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ۔

752 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: يَا عَلِيُّ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ

وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ۔

753 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلَّذِیْ كَانَ لَا يَدْعُوْهُ إِلَّا قَالَ لَبَّيْكَ۔

754 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: عُدْ مَنْ لَّا يَعُوْدُكَ وَ اهْدِ لِمَنْ لَّا يَهْدِيْ إِلَيْكَ۔

755 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: صَلَاةُ النَّهَارِ عُجْمَاءُ وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ شَمْعُ أُذُنَيْكَ۔

756 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: لَا تَتَّهِمِ اللّٰهَ فِيْ شَيْءٍ قَضَاهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ۔

757 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ۔

758 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی يَا ابْنَ آدَمَ قُمْ إِلَيَّ أَمْشِيْ إِلَيْكَ وَ امْشِ إِلَيَّ أُهَرْوِلْ إِلَيْكَ۔

759 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: إِذَا آتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ۔

760 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ۔

761 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ۔

762 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ۔

763 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا مِمَّا لَدَيْكَ۔

حَرْفِ "ل"

764 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ الضَّيْفَ إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ۔

765 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: أَوَّلُ مَنْ جَزَعَ مِنَ

الشَّيْبِ اِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ۔

766 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْخُبْزَ الْمُبَلْقَسَ اِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ۔

767 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَمَّآ اُلْقِیَ اِبْرَاهِيْمُ فِی النَّارِ قَالَ حَسْبِیَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

768 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهٖ اِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ اُلْقِیَ فِی النَّارِ حَسْبِیَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

769 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَلُوْمُ عَلَی الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَاِذَا غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

770 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِذَا وَقَعْتُمْ فِی الْاَمْرِ الْعَظِيْمِ فَقُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

771 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: كُلُّ الْعَرَبِ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ۔

772 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: جَآءَنِیْ جِبْرِيْلُ فَلَقَّنَنِیْ لُغَةَ اَبِیْ اِسْمَاعِيْلَ۔

773 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَنْ صَلَّی قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِّنْ بَنِیْ اِسْمَاعِيْلَ۔

774 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: جَبَلُ الْخَلِيْلِ مُقَدَّسٌ وَّ اِنَّ الْفِتْنَةَ لَمَّا ظَهَرَتْ فِیْ بَنِیْ اِسْرَآئِيْلَ اَوْحَی اللّٰهُ اِلٰی اَنْبِيَآئِهِمْ اَنْ يَّغْدُوْا بِذَرَارِيِّهِمْ اِلٰی جَبَلِ الْخَلِيْلِ۔

775 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: مَآءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهٗ فَاِنْ شَرِبْتَهٗ تَسْتَشْفِیْ شَفَاكَ اللّٰهُ وَ اِنْ شَرِبْتَهٗ مُسْتَعِيْذًا اَعَاذَكَ اللّٰهُ وَ اِنْ شَرِبْتَهٗ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَ اللّٰهُ وَاِنْ شَرِبْتَهٗ لِشِبَعِكَ اَشْبَعَكَ اللّٰهُ وَهِیَ هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ وَ سُقْيَا اِسْمَاعِيْلَ۔

776 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: قَسَمٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ۔

777 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: كَيْفَ وَ قَدْ قِيْلَ۔

778 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: اَلَا اِنَّ كُلَّ جَوَّادٍ فِي الْجَنَّةِ حَتْمًا عَلَى اللّٰهِ وَ اَنَا بِهٖ كَفِيْلٌ.

779 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ.

780 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: قِيْلُوْا فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَا تُقِيْلُ.

781 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: كِيْلُوا الطَّعَامَ فَاِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيْلِ.

782 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: زَمْزَمُ حَفْنَةٌ مِّنْ جَنَاحِ جِبْرِيْلَ.

783 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: لَيُغَشِّيَنَّ اُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَّ يُمْسِيْ كَافِرًا يَبِيْعُ اَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا قَلِيْلٍ.

784 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: اَلْخَيْرُ كَثِيْرٌ وَّ مَنْ يَّعْمَلُ بِهٖ قَلِيْلٌ.

785 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: اِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَّ لَا يُؤَخِّرُ وَ اِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ.

786 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: مُؤَذِّنُ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ جِبْرِيْلُ وَ اِمَامُهُمْ مِيْكَآئِيْلُ.

787 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَادِمُهٗ جِبْرِيْلُ.

788 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَخْبَرَ اَنَّهٗ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ.

789 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالْقَآئِلِ: دَحْيَةُ الْكَلْبِيْ شِبْهُ جِبْرِيْلَ.

790 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‍ِالَّذِيْ مِنْ مُّعْجِزَاتِهٖ تَكْثِيْرُ الْقَلِيْلِ.

791 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اللهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ لِاَنَّه جَمِيْلٌ.

792 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَّلَا مَنَّانٌ وَّلَا بَخِيْلٌ.

793 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: دَعُوْهُ يَئِنُّ فَاِنَّ الْاَنِيْنَ اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَآءِ اللهِ تَعَالٰى يَسْتَرِيْحُ اِلَيْهِ الْعَلِيْلُ.

794 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّشْفِىْ بِهَا الْعَلِيْلُ.

795 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّا مَعْشَرَ الْاَنْبِيَآءِ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْبَلَآءُ.

796 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللهَ يَتَعَاهَدُ عَبْدَه بِالْبَلَآءِ.

797 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللهَ يُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلٰى قَدْرِ الْبَلَآءِ.

798 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّذْهَبَ اِلَى الْخَلَآءِ وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَذْهَبْ اِلَى الْخَلَآءِ.

799 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِذَا بَلَغَتْ بَنُوْ اُمَيَّةَ ثَلَاثِيْنَ رَجُلًا اتَّخَذُوْا عِبَادَ اللهِ خَوَلًا وَّمَالَ اللهِ دَوَلًا وَّكِتَابَ اللهِ دَخَلًا.

800 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَّا دَامَ مُنْتَعِلًا.

801 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّ اُمَّتِىْ اُمَّةٌ مَّرْحُوْمَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اِنَّمَا عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ وَالْبَلَآءُ.

802 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّ فِى الصَّلَاةِ لَشُغْلًا.

803 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى.

804 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: خِيَارُكُمْ اَطْوَلُكُمْ اَعْمَارًا وَّاَحْسَنُكُمْ عَمَلًا.

805 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلدُّعَآءُ يَرُدُّ الْبَلَآءَ۔

806 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلصَّابِرُ الصَّابِرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْاُوْلٰى۔

807 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلصَّبْرُ يَأْتِيْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى شِدَّةِ الْبَلَآءِ۔

808 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: عِظَمُ الْجَزَآءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَآءِ۔

809 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لِكُلِّ شَيْءٍ اَنْفَقَةٌ وَّ اَنَّ اَنْفَقَةَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيْرَةُ الْاُوْلٰى۔

810 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَيَوَدُّنَّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ اَهْلِ الْبَلَآءِ۔

811 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا تَزَوَّجُوا الْحُمْقٰى فَاِنَّ صُحْبَتَهُنَّ بَلَآءٌ۔

812 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَآءَ۔

813 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِغْتَنِمُوْا دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُبْتَلٰى۔

814 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الصَّدَقَةَ تَخَطّٰى رِقَابَ الْبَلَآءِ۔

815 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا۔

816 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَآ اَدْرِيْ الْعُزَيْرُ نَبِيٌّ اَمْ لَا۔

817 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا۔

818 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَا يَزَالُ الْاِسْلَامُ

عَزِيزًا اِلٰى اِثْنَیْ عَشَرَ رَجُلًا۔

819 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَاِذَا زَادَ فَاِنْ شِئْتَ شَمِّتْهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا۔

820 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلًا اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا۔

821 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَّلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا۔

822 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَ ارْحَمْنِیْ وَ اَلْحِقْنِیْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰی۔

823 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْقَضَآءِ وَجَهْدِ الْبَلَآءِ۔

824 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْبِرُّ لَا يُبْلٰی۔

825 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: لَا تَمْنَعُوا الْمَآءَ وَ الْكَلَأَ۔

826 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللّٰهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِّائَةِ اَهْلِ بَيْتٍ مِّنْ جِيْرَانِهِ الْبَلَآءَ۔

827 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰی۔

828 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِیْ اَمْلَاْ قَلْبَكَ غِنًی وَّ اَمْلَاْ يَدَيْكَ رِزْقًا يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُبَاعِدْ مِنِّیْ فَاَمْلَاْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَّ اَمْلَاْ يَدَيْكَ شُغْلًا۔

829 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً بِهَا الْحَبِيْبُ يَتَجَلّٰی۔

حَرْفِ "م"

830 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَوَّلُ مَنْ قَصَّ شَارِبَهٗ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

831 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَوَّلُ مَنْ اَرْسَلَ نُوْحٌ

عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

832 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَوَّلُ مَنْ اَذِنَ فِي السَّمَآءِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

833 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لَوْ لَا اَبُوْ بَكْرِ ۨالصِّدِّيْقُ لَذَهَبَ الْاِسْلَامُ۔

834 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: يَآ اَبَا بَكْرٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكَ مِنَ اللّٰهِ السَّلَامَ۔

835 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلَ السَّلَامِ وَ حُسْنَ الْكَلَامِ۔

836 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَلْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَ الْمُلْكُ بِالشَّامِ۔

837 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: غُبَارُ الْمَدِيْنَةِ شِفَآءٌ مِّنَ الْجُذَامِ۔

838 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُّكَلِّمُ بِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ۔

839 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِذَا ذَلَّتِ الْعَرَبُ ذَلَّ الْاِسْلَامُ۔

840 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَبْغَضُ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخِصَامُ۔

841 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اِنَّمَا حَرُّ جَهَنَّمَ عَلٰى اُمَّتِيْ مِثْلُ الْحَمَّامِ۔

842 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: اَلْحِنَآءُ بَعْدَ النُّوْرَةِ اَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ۔

843 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: كُلُوْا الْخَمْسَ فَاِنَّهٗ يُوْرِثُ النُّعَاسَ وَ يُضْهِمُ الطَّعَامَ۔

844 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَّ

زَكَاةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ۔

845 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ۔

846 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: مَنْ اَكَلَ الْقِثَّآءَ بِلَحْمٍ وُّقِيَ الْجُذَامَ۔

847 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيْ فَاِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْاَرْحَامِ۔

848 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَآءِ شِفَآءٌ اِلَّا السَّامَ۔

849 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَطْوَعُكُمْ لِلّٰهِ الَّذِيْ يَبْدَأُ صَاحِبَهٗ بِالسَّلَامِ۔

850 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلْاِيْمَانُ اِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ۔

851 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ۔

852 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اِنَّ لِلّٰهِ مَلَآئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ اُمَّتِي السَّلَامَ۔

853 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلطَّوَافُ صَلَاةٌ فَاَقِلُّوْا فِيْهِ الْكَلَامَ۔

854 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: شَمِّتْ اَخَاكَ ثَلَاثًا فَاِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ۔

855 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ۔

856 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: اَلشُّوْنِيْزُ شِفَآءٌ مِّنْ كُلِّ دَآءٍ اِلَّا السَّامَ۔

857 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: مَا اَحَدٌ يُّسَلِّمُ عَلَيَّ

إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَىٰ رُوحِي حَتّٰى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔

858 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ۔

859 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: اَلسِّوَاكُ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ۔

860 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ۔

861 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: خُرُوجُ الْاٰيَاتِ بَعْضُهَا عَلٰى أَثَرِ بَعْضٍ يَّتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِي النِّظَامِ۔

862 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الزِّحَامِ۔

حَرْفِ "ن"

863 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَأَحْيٰى أُمَّتِي عُثْمَانُ۔

864 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَّرَفِيْقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ۔

865 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيْلٌ وَّخَلِيْلِي عُثْمَانُ۔

866 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ أَنْ زَوِّجْ اِبْنَتَكَ مِنْ عُثْمَانَ۔

867 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: أَشَدُّ أُمَّتِي حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ۔

868 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: اجْمَعْ عِطْفَيْ رِدَائِكَ يَا عُثْمَانُ۔

869 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: قَالَ اللهُ يَا مُوسٰى كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ۔

870 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِلِ: لَا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ

فَاِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ۔

871 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لِكُلِّ شَیْءٍ عَرُوْسٌ وَّ عَرُوْسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمٰنُ۔

872 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ تُجَّارِ الرَّحْمٰنِ۔

873 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّیْطَانُ۔

874 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمُ الْبَیَانَ كُلَّ الْبَیَانِ۔

875 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِرْفَعُوا الْقُمَامَةَ مِنْ بُیُوْتِكُمْ فَاِنَّهَا مُقِیْلُ الشَّیْطَانِ۔

876 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِسْتَعِیْنُوْا عَلٰی اُمُوْرِكُمْ بِالْكِتْمَانِ۔

877 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِذَا كَتَبَ اَحَدُكُمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَلْیَمُدَّ الرَّحْمٰنَ۔

878 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَی اللهِ حِفْظُ اللِّسَانِ۔

879 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِحْذَرُوْا كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِیْمٍ بِاللِّسَانِ۔

880 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَی اللهِ عَبْدُ اللهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ۔

881 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْعِزُّ مَقْسُوْمٌ وَّ طَلَبُهٗ غُمُوْمٌ وَّ اَحْزَانٌ۔

882 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْاِنَاةُ مِنَ اللهِ وَ الْعُجْلَةُ مِنَ الشَّیْطَانِ۔

883 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اِنَّ اللهَ یَبْعَثُ الرُّكْنَ

الْاَسْوَدُوَلَهٗ عَيْنَانِ۔

884 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ قِرَآءَةُ الْقُرْآنِ۔

885 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ رَمَضَانَ۔

886 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ۔

887 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ رُبُعُ الْقُرْآنِ۔

888 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلدَّاعِيْ وَ الْمُؤْمِنُ فِي الْاَجْرِ شَرِيْكَانِ۔

889 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْقَبْرُ يَأْكُلُ الشَّحْمَ وَ اللَّحْمَ وَلَا يَأْكُلُ الْاِيْمَانَ۔

890 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِذَا تَثَآءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدُّهٗ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ۔

891 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلتَّثَاؤُبُ الشَّدِيْدُ وَ الْعَطْسَةُ الشَّدِيْدَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔

892 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ يَّجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ اِلٰى عِلْمِهٖ وَ كُلُّ صَاحِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ۔

893 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَغْنَى النَّاسِ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ۔

894 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ هَوَانًا اَنْفَقَ مَالَهٗ فِي الْبُنْيَانِ۔

895 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَلْاِيْمَانُ عَقْدٌ م بِالْقَلْبِ وَاِقْرَارٌ م بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ م بِالْاَرْكَانِ۔

896 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِيَّاكُمْ وَ الْحُمْرَةَ فَاِنَّهَا مِنْ اَحَبِّ الزِّيْنَةِ اِلَى الشَّيْطَانِ۔

897 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً نَّدْخُلُ بِهَا جَنَّةَ الْاِحْسَانِ۔

حَرْفِ "ه"

898 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ فِيْمَنْ لَّيْسَ لَهٗ اِلَّا اللّٰهُ۔

899 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ اَلْجَفَآءُ جَفَآءٌ، اِنَّ جَفَآءً فِي الدِّيْنِ وَ جَفَآءً عَلَى الْاِخْوَانِ فِي اللّٰهِ۔

900 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: بَجِّلُوا الْمَشَايِخَ فَاِنَّ تَبْجِيْلَ الْمَشَايِخِ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ۔

901 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَوَاخُوْا فِي اللّٰهِ۔

902 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مِنَ الْاَبْدَالِ الرِّضَآءُ بِالْقَضَآءِ وَ الصَّبْرُ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَ الْغَضَبُ فِيْ ذَاتِ اللّٰهِ۔

903 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلٰى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

904 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَّا يَجِدُ نَاصِرًا غَيْرَ اللّٰهِ۔

905 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّهٗ مَلِكُ الْاَمْلَاكِ لَا مَلِكَ اِلَّا اللّٰهُ۔

906 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهٗ، فَمَنْ اَكْرَمَ الْخُبْزَ فَقَدْ اَكْرَمَ اللّٰهَ۔

907 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اِنَّ السَّعَادَةَ كُلَّ السَّعَادَةِ طُوْلُ الْعُمْرِ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ۔

908 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: مَنْ سَلَّ سَيْفَهٗ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ بَايَعَ اللّٰهَ۔

909 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: اِذَا سَمِعْتَ النِّدَآءَ فَاَجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ۔

910 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا
عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ۔

911 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: اِنَّ صَاحِبَ السُّلْطَانِ
عَلٰى بَابٍ عَنَتٍ اِلَّا مَنْ عَصِمَ اللّٰهُ۔

912 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: اَكْبَرُ الْكَبَآئِرِ سُوْءُ
الظَّنِّ بِاللّٰهِ۔

913 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: اِنَّ اَهْلَ الْبَيْتِ اِذَا
تَوَاصَلُوْا اَجْرَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ وَكَانُوْا فِيْ كَنَفِ اللّٰهِ۔

914 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ
اللّٰهِ۔

915 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: اَلدَّوَآءُ مِنَ الْقَدَرِ وَقَدْ
يَنْفَعُ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

916 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّجِدَ
حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا اللّٰهَ۔

917 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: مَنْ رَّاٰى نِعْمَةً
فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنِ اسْتَبْطَئَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَمَنْ ضَرَبَهٗ اَمْرٌ فَلْيَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

918 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: مَنْ رَّبَّ صَغِيْرًا حَتّٰى
يَقُوْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللّٰهُ۔

919 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا اِذَا رُؤُوْا
ذُكِرَ اللّٰهُ۔

920 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: اِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّنَ فِيْ
دِيْنِ اللّٰهِ۔

921 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ
الشَّرِّ اَنْ يُّشَارَ اِلَيْهِ فِيْ دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصِمَهُ اللّٰهُ۔

922 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ࣙ الْقَآئِلِ: لِكُلِّ دَآءٍ دَوَآءٌ فَاِذَا
اُصِيْبَ دَوَآءُ الدَّآءِ بَرِئَ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

923 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّهْبَانِيَّةٌ" وَّ رَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ۔

924 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنِ اعْتَزَّ بِالْعَبِيْدِ أَذَلَّهُ اللهُ۔

925 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ أَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ مَكْتُوْبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِس "مِّنْ رَّحْمَةِ اللهِ۔

926 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ أَرْضٰى سُلْطَانًا بِمَا يَسْخَطُ اللهُ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ اللهِ۔

927 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ أَرَادَ عِزًّا بِلَا عَشِيْرَةٍ فَلْيَتَّقِ اللهَ۔

928 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّرْتَعَ فِيْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ۔

929 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاؤُهُ بِمَا قَضَى اللهُ۔

930 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

931 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

932 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً يَّتَيَسَّرُ لَنَا بِهَا عِلْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

حَرْفِ "و"

933 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: يَآ اَبَا بَكْرٍ كَفِّيْ وَ كَفُّ فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ۔

934 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: اَلْقُرْآنُ هُوَ الدَّوَاءُ۔

935 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: مَنْ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ اِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوٰى۔

936 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: تَدَاوَوْا فَإِنَّ الَّذِيْ
أَنْزَلَ الدَّآءَ أَنْزَلَ الدَّوَآءَ.

937 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: كَرَمُ الدُّنْيَا الْغِنٰى وَ
كَرَمُ الْاٰخِرَةِ التَّقْوٰى.

938 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتّٰى يَكُوْنَ قَلْبُهٗ وَلِسَانُهٗ سَوَآءً.

939 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: مَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ
اِنْصِرَافُكَ إِلٰى أَهْلِكَ فِي الْاَجْرِ سَوَآءٌ.

940 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْحَسَبُ الْمَالُ وَ
الْكَرَمُ التَّقْوٰى.

941 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: أَبْغَضُ إِلٰهٍ عُبِدَ عِنْدَ
اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ الْهَوٰى.

942 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: قِرَآءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ
وَقِرَآءَةُ الْعَالِمِ عَلَيْكَ سَوَآءٌ.

943 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: أَلَا هَلْ عَسٰى رَجُلٌ
يَبِيْتُ ابْنُ عَمِّهٖ طَاوِيًا وَّفِصَالُهٗ رِوَآءٌ.

944 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْاٰخِذُ وَالْمُعْطِيْ فِي
الرِّبَا سَوَآءٌ.

945 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَةٌ لَّا
فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلٰى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوٰى.

946 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْفِتْنَةُ تَلْقَحُ
بِالنَّجْوٰى وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوٰى.

947 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: اَلْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ
سَوَآءٌ.

948 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَآءٌ.

949 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: إِنْ سَمِعْتَ الْاَذَانَ

فَأَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا۔

950 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا۔

951 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ اغْنِنِيْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّيْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى۔

952 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: اَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَآءٌ۔

953 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: اَكْثِرُوا التَّفَكُّرَ وَالْبُكَآءَ لَا تَخْتَلِفَنَّ بِكُمُ الْاَهْوَآءُ۔

954 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَهْوَآءِ۔

955 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: مَا تَوَكَّلَ مَنِ اسْتَرْقٰى اَوِ اكْتَوٰى۔

956 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: شَرَفُ الدُّنْيَا الْغِنٰى وَشَرَفُ الْاٰخِرَةِ التَّقْوٰى۔

957 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى۔

958 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الْقَائِلِ: اَلْاَسْنَانُ سَوَآءٌ خَمْسًا خَمْسًا الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَآءٌ۔

959 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الَّذِىْ اَخْبَرَ اَنَّ اَوْثَقَ الْعُرٰى كَلِمَةُ التَّقْوٰى۔

960 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الَّذِىْ كَانَ اِذَا سَجَدَ خَوّٰى۔

961 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الَّذِىْ كَانَ لَهٗ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْقُصْوَآءَ۔

962 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍ الَّذِىْ كَانَ يُكْرِهُ الْبَوْلَ فِى الْهَوَآءِ۔

963 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الَّذِیْ اَخْبَرَ اَنَّ اٰفَةَ الدِّیْنِ الْهَوٰی۔

964 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْمُسَمّٰی بِصَاحِبِ التَّاجِ وَ الْمِعْرَاجِ وَ اللِّوَآءِ۔

965 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الَّذِیْ نَهٰی عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ لِلدَّوَآءِ۔

966 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَبِیْنَا اٰدَمَ وَ اُمِّنَا حَوَّآءَ۔

967 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَّفْهَمُ بِهَا سِرَّ الرَّحْمٰنِ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی۔

حَرْفِ "ی"

968 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: اَلْبَخِیْلُ كُلُّ الْبَخِیْلِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ۔

969 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ۔

970 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: اَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ فِی اللَّیْلَةِ الْغَرَّآءِ وَ الْیَوْمِ الْاَزْهَرِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَیَّ۔

971 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: اِنَّ اللّٰهَ حَیٌّ سَتِیْرٌ یُّحِبُّ الْحَیَآءَ وَ السِّتْرَ فَاِنْ اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ یَّغْتَسِلَ فَلْیَتَوَارَ بِشَیْءٍ۔

972 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: رَبِّ اَعِنِّیْ وَلَا تُعِنْ عَلَیَّ۔

973 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: رَأَیْتُ رَبِّیْ لَیْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ۔

974 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: سَاَلْتُ رَبِّیْ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ فَاَبٰی عَلَیَّ۔

975 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ڹِ الْقَآئِلِ: اَلْعِبَادَةُ فِی الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَیَّ۔

976 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: کَفٰی بِہٖ شُحًّا اَنْ اُذْکَرَ عِنْدَ رَجُلٍ وَّلَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ۔

977 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنْ اَرَادَ اَنْ یَّصُوْمَ فَلْیَتَسَحَّرْ بِشَیْءٍ۔

978 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاَکْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَیَّ۔

979 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَللّٰھُمَّ لَا اُحِلُّ لَھُمْ اَنْ یُّکَذِّبُوْا عَلَیَّ۔

980 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اُمِرْتُ بِالسِّوَاکِ حَتّٰی خَشِیْتُ اَنْ یُّکْتَبَ عَلَیَّ۔

981 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الْمَآءَ لَیْسَ عَلَیْہِ جَنَابَةٌ وَّلَا یُنَجِّسُہٗ شَیْءٌ۔

982 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الْمَیِّتَ یَنْضَحُ عَلَیْہِ الْحَمِیْمُ بِبُکَآءِ الْحَیِّ۔

983 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اُمِرْتُ بِرَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَالضُّحٰی وَلَمْ تُکْتَبْ عَلَیَّ۔

984 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً مَّا ھِیَ لِشَیْءٍ۔

985 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: زَیِّنُوْا مَجَالِسَکُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ۔

986 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَیْسَ لِلْقَآئِلِ شَیْءٌ۔

987 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَیْسَ فِی الْاَوْقَاصِ شَیْءٌ۔

988 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنِ اتَّقَی اللّٰہَ وَقَاہُ اللّٰہُ کُلَّ شَیْءٍ۔

989 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَا مَحَقَ الْاِسْلَامَ

976 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: كَفٰى بِهٖ شُحًّا اَنْ اُذْكَرَ عِنْدَ رَجُلٍ وَّلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ۔

977 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّصُوْمَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ۔

978 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ۔

979 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اَللّٰهُمَّ لَا اُحِلُّ لَهُمْ اَنْ يُّكَذِّبُوْا عَلَيَّ۔

980 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُّكْتَبَ عَلَيَّ۔

981 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الْمَآءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ وَّلَا يُنَجِّسُهٗ شَيْءٌ۔

982 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ الْمَيِّتَ يَنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيْمُ بِبُكَآءِ الْحَيِّ۔

983 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالضُّحٰى وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيَّ۔

984 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: اِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْاَةِ لَشُعْبَةً مَّا هِيَ لِشَيْءٍ۔

985 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ۔

986 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ۔

987 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: لَيْسَ فِي الْاَوْقَاصِ شَيْءٌ۔

988 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَقَاهُ اللّٰهُ كُلَّ شَيْءٍ۔

989 وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: مَا مَحَقَ الْاِسْلَامَ

مُحَقّ الشُّحّ شَیْء''۔

990 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: لَیْسَ الْبِرُّ فِیْ حُسْنِ اللِّبَاسِ وَ الزِّیِّ۔

991 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: اُسَامَةُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَیَّ۔

992 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: الْمَیِّتُ یُعَذَّبُ بِبُکَاءِ الْحَیِّ۔

993 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّا یُصَلِّیْ عَلَیَّ۔

994 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ نَهٰی عَنِ الْکَیِّ۔

995 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ نَهٰی اَنْ یَّسْتَمِعَ مِنَ الْحَرِیْرِ بِشَیْءٍ۔


996 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ اُخْبِرَ اَنَّ عَیَّ اللِّسَانِ لَیْسَ هُوَ الْعَیُّ۔

997 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ نَهٰی عَنِ النَّظَرِ اِلٰی فَخِذِ الْمَیِّتِ وَ الْحَیِّ۔

998 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ نَهٰی اَنْ یُّکْتَبَ عَلَی الْقَبْرِ شَیْء''۔

999 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ هُوَ فِیْ قَبْرِهِ الشَّرِیْفِ حَیّ''۔

1000 وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ شَاهَدَ جَمَالَ الْحَیِّ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنَالُ بِهَا حُسْنَ الْخِتَامِ وَ نُدْرِكُ سِرَّ وَ اِنَّ مِنْ شَیْءٍ۔



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَلصَّلَوَاتُ الْهَامِعَةُ بِمَحَبَّةِ الْخُلَفَآءِ الْجَامِعَةِ

مصطفى كمال الدين الصديقي البكري

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المكتبة القادرية 23 الباكستان
0092-3335187573

الصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء الجامعة

دُرود وسلام کی یہ جامع کتاب جس کے صیغوں میں خلفائے راشدین کے بارے میں واردہ احادیثِ نبویہ ﷺ کو شامل کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ مصطفیٰ کمال الدین صدیقی قادری خلوتی رضی اللہ عنہ کی تصنیفِ لطیف ہے۔ جس کے خطبہ میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اُس ذات کیلئے ہیں جس نے صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب قرار دیا۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم اور اُس کی توفیق سے دُرود وسلام کی کتاب ''**الصلات البرية**'' جب مکمل ہوئی تو مجھے شوق دامن گیر ہوا کہ دُرود وسلام کی ایک ایسی کتاب تحریر کروں جن میں اُن احادیثِ نبویہ ﷺ کو شامل کروں، جن میں خصوصیت کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین کے فضائل ومناقب موجود ہوں۔ پھر میں نے ایک مقدمہ، آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد اُسے ''**الصلوات الهامعة بمحبة الخلفاء الجامعة**'' کے نام سے موسوم کر دیا۔

☆ مقدمہ میں دُرود وسلام کے بعد اُن احادیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے جن میں صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے، تنقیص کرنے، بغض رکھنے اور اعراض کرنے والوں کیلئے سخت قسم کی وعیدیں موجود ہیں۔

☆ آٹھ ابواب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

باب اول	خصوصیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل
باب دوم	خصوصیت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل
باب سوم	خصوصیت سے دونوں شیخین کریمین کے فضائل
باب چہارم	خصوصیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل
باب پنجم	خصوصیت سے تینوں خلفائے کرام کے فضائل
باب ششم	خصوصیت سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل
باب ہفتم	خصوصیت سے چاروں خلفائے کرام کے فضائل
باب ہشتم	خلفائے اربعہ اور باقی دوسرے اصحاب کے فضائل

☆ خاتمہ میں دُرود وسلام کے بعد عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام کے فضائل درج ہیں۔

(مُقَدِّمَةٌ)

فِيمَا وَرَدَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ بُغْضِ الْأَصْحَابِ
وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ بِمَا يَشِينُ أُولَئِكَ الْأَحْبَابِ

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ".

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "شَفَاعَتِيْ مُبَاحَةٌ إِلَّا لِمَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ".

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِيْ فَالْعَنُوْهُمْ".

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِيْ فَقُوْلُوْا لَهُمْ: لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ".

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ".

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ أَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ م بَعْدِيْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللّٰهَ وَمَنْ آذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ أَنْ يَّأْخُذَهٗ".

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَأَصْحَابِيْ يَقِلُّوْنَ فَلَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ".

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِيْ أَجْرَؤُهُمْ عَلٰى صَحَابَتِيْ".

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ".

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِيْ أَصْحَابِيْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ".

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِيْ اَصْحَابِيْ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ وَ مَنْ اَسَاءَ الْقَوْلَ فِيْ اَصْحَابِيْ كَانَ مُخَالِفًا لِّسُنَّتِيْ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ".

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلٌ".

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "كُلُّ النَّاسِ يَرْجُو النَّجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَنْ سَبَّ اَصْحَابِيْ فَاِنَّ اَهْلَ الْمَوْقِفِ يَلْعَنُوْهُمْ".

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَنْ سَبَّ الْاَنْبِيَاءَ قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِيْ جُلِدَ".

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَنِيْ وَ اخْتَارَ لِيْ اَصْحَابًا فَجَعَلَ لِيْ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَّ اَصْهَارًا وَّ اَنْصَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا".

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ فَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَلِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَ مَنْ اَحَبَّهُمْ فَلِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ اَللّٰهُمَّ اَحِبَّ مَنْ اَحَبَّهُمْ وَ اَبْغِضْ مَنْ اَبْغَضَهُمْ".

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَا شَأْنُكُمْ وَ شَأْنُ اَصْحَابِيْ ذَرُوْا لِيْ اَصْحَابِيْ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَّا اَدْرَكَ مِثْلَ عَمَلِ اَحَدِهِمْ يَوْمًا وَّاحِدًا".

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَنِيْ وَ اخْتَارَ لِيْ اَصْحَابِيْ وَ اَصْهَارِيْ وَ سَيَاْتِيْ قَوْمٌ يَّسُبُّوْنَهُمْ وَ يَنْتَقِصُوْنَهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُؤَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ".

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَاِنَّهٗ يَجِيْئُ قَوْمٌ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِيْ فَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ وَ اِنْ مَّرَضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ".

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ

فِيمَا جَآءَ فِيْ فَضْلِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ خَاصَّةً

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ نَبِيٌّ".

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ مِّنِّيْ وَ اَنَا مِنْهُ، اَبُوْ بَكْرٍ اَخِيْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ".

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ اَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ نَبِيٌّ".

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ عَتِيْقٌ فِي السَّمَآءِ عَتِيْقٌ فِي الْاَرْضِ".

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ".

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ".

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ صَاحِبِيْ وَ مُؤْنِسِيْ فِي الْغَارِ، سُدُّوْا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ اَبِيْ بَكْرٍ".

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ صَاحِبِيْ وَ مُؤْنِسِيْ فِي الْغَارِ فَاعْرِفُوْا ذٰلِكَ، فَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، سُدُّوْا كُلَّ خَوْخَةٍ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ اَبِيْ بَكْرٍ".

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَنْتَ صَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضِ وَ صَاحِبِيْ فِي الْغَارِ".

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَنَا سَيْفُ الْاِسْلَامِ وَ اَبُوْ بَكْرٍ سَيْفُ الرِّدَّةِ".

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَبَا بَكْرٍ مَّعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ عَائِشَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ اَبُوْهَا".

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ".

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا".

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "يَا اَبَا بَكْرٍ اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ".

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "يَا اَبَا بَكْرٍ اَعْطَاكَ اللّٰهُ الرِّضْوَانَ الْاَكْبَرَ. قَالَ: وَمَا رِضْوَانُهُ الْاَكْبَرُ؟ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ يَتَجَلّٰى لِلْخَلْقِ عَامَّةً، وَّيَتَجَلّٰى لَكَ خَاصَّةً".

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ يَتَجَلّٰى لِلْخَلْقِ عَامَّةً، وَّيَتَجَلّٰى لِاَبِيْ بَكْرٍ خَاصَّةً".

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "اِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يُحَاسَبُوْنَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ".

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "كُلُّ النَّاسِ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ".

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُرْسِلَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رَّاَيْتَهُ فَاَعْهَدَ اَنْ يَّقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ اَوْ يَتَمَنّٰى الْمُتَمَنُّوْنَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَاْبَى اللّٰهُ وَ يَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ".

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "فَاَيْنَ اَبُوْ بَكْرٍ، يَاْبَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِكَ وَ الْمُسْلِمُوْنَ، يَاْبَى اللّٰهُ ذٰلِكَ وَ الْمُسْلِمُوْنَ".

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "اَبَى اللّٰهُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ يُّخْتَلَفَ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ".

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يَّخْتَلِفَ الْمُؤْمِنُوْنَ فِيْ اَبِيْ بَكْرٍ".

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " مَعَاذَ اللهِ اَنْ يَّخْتَلِفَ عَلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَحَدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ "۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " يَا عَلِيُّ سَئَلْتُ اللهَ ثَلَاثًا : اَنْ يُّقَدِّمَكَ فَأَبٰى عَلَيَّ اِلَّا اَنْ يُّقَدِّمَ اَبَا بَكْرٍ "، (وَ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى) " سَئَلْتُ اللهَ اَنْ يُّقَدِّمَكَ ثَلَاثًا فَأَبٰى عَلَيَّ اِلَّا تَقْدِيْمَ اَبِيْ بَكْرٍ "۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ اِنَّ اللهَ جَعَلَ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْفَتِيْ عَلٰى دِيْنِ اللهِ وَ وَحْيِهٖ فَاسْمَعُوْا لَهٗ تُفْلِحُوْا وَ اَطِيْعُوْا تَرْشُدُوْا "۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقُلْتُ : مَنْ يُّهَاجِرُ مَعِيْ قَالَ : اَبُوْ بَكْرٍ وَّ هُوَ يَلِيْ اَمْرَ اُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ هُوَ اَفْضَلُ اُمَّتِكَ "۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " اِنْ لَّمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ اَبَا بَكْرٍ "، " اِنْ جِئْتِ فَلَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّهُ الْخَلِيْفَةُ مِنْ بَعْدِيْ "۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " يَآ اَبَا بَكْرٍ اِنْ اُقِمْتَ فَتَقَدَّمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ "۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " اِئْتِنِيْ بِدَوَاةٍ وَّ كَتِفٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَّا تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اَبَدًا، ثُمَّ قَالَ : يَأْبَى اللهُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ "۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " اُدْعِيْ اِلَيَّ اَبَا بَكْرٍ اَبَاكِ وَ اَخَاكِ حَتّٰى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّتَمَنّٰى مُتَمَنٍّ اَوْ يَقُوْلَ قَآئِلٌ اَنَا اَوْلٰى وَ يَأْبَى اللهُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ "۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ "۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " لَا يَنْبَغِيْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَّؤُمَّهُمْ غَيْرُهٗ "۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " يَكُوْنُ بَعْدِيْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً اَبُوْ بَكْرٍ لَا يَلْبَثُ اِلَّا قَلِيْلًا "۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَآئِلِ : " لَئِنْ صَدَقَتْ

رُؤْيَاكَ لَتَلِيَنَّ اَمْرَ الْعَامَةِ بَعْدِیْ وَلَتَلِیَنَّ سَنَتَيْنِ"۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ حَدَّثَ عَنْهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ: "بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ مَرَّ اَبُوْ بَكْرِ ِالصِّدِّيْقُ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ: اَوَ تَعْرِفُهٗ! قَالَ: اِنَّهٗ فِی السَّمَآءِ لَاَشْهَرُ مِمَّا فِی الْاَرْضِ، وَاِنَّ الْمَلَآئِكَةَ لَتُسَمِّيْهِ حَلِيْمَ قُرَيْشٍ، اِنَّهٗ وَزِيْرُكَ فِیْ حَيَاتِكَ وَخَلِيْفَتُكَ بَعْدَ مَمَاتِكَ"، "سُدُّوْا هٰذِهِ الْاَبْوَابَ الشَّارِعَةَ فِی الْمَسْجِدِ اِلَّا بَابَ اَبِیْ بَكْرٍ فَاِنِّیْ لَآ اَعْلَمُ اَحَدًا اَعْظَمَ عِنْدِیْ فِیْ صُحْبَتِهٖ وَذَاتِ يَدِهٖ مِنْ اَبِیْ بَكْرٍ"۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهٗ، فَاخْتَارَ ذٰلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ، فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ: يَا اَبَا بَكْرٍ لَّا تَبْكِ، اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَیَّ فِیْ صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّیْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، وَّلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهٗ، لَا يَبْقَيَنَّ فِی الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلَّا سُدَّ اِلَّا بَابَ اَبِیْ بَكْرٍ"۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَآئِلِ: "اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَیَّ فِیْ مَالِهٖ وَصُحْبَتِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، وَّلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ، لَا يَبْقَيَنَّ فِی الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلَّا خَوْخَةُ اَبِیْ بَكْرٍ"۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَآئِلِ: "اِنَّهٗ لَيْسَ فِی النَّاسِ اَحَدٌ اَمَنَّ عَلَیَّ فِیْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ مِنْ اَبِیْ بَكْرِ بْنِ اَبِیْ قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَّلٰكِنْ خُلَّةُ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ، وَسُدُّوْا عَنِّیْ كُلَّ خَوْخَةٍ فِیْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ اَبِیْ بَكْرٍ"۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَآئِلِ: "اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ قَدْ كَانَ لِیْ فِيْكُمْ اِخْوَةٌ وَّاَصْدِقَآءُ وَاَنَا اَبْرَاُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ لِیْ فِيْكُمْ خَلِيْلٌ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اُمَّتِیْ خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، وَّاِنَّ رَبِّیْ اِتَّخَذَنِیْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا، اَلَا اَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَآئِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، اِنِّیْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ"۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَآئِلِ: "اِنِّیْ اَبْرَاُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ لِیْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدِ اتَّخَذَنِیْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اُمَّتِیْ خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَآئِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، اِنِّیْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ"۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَلَا اِنِّيْ اَبْرَأُ اِلٰى كُلِّ خِلٍّ مِّنْ خُلَّتِهٖ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا وَّاِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ".

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اِنَّ رَجُلًا خَيَّرَهٗ رَبُّهٗ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَ اَنْ يَّعِيْشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَآءَ اَنْ يَّعِيْشَ فِيْهَا وَيَأْكُلَ مِنَ الدُّنْيَا مَا شَآءَ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا، وَبَيْنَ لِقَآءِ رَبِّهٖ فَاخْتَارَ لِقَآءَ رَبِّهٖ، فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَمَنُّ عَلَيْنَا فِيْ صُحْبَتِهٖ وَذَاتِ يَدِهٖ مِنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اِبْنَ اَبِيْ قُحَافَةَ خَلِيْلًا وَّلٰكِنْ وُدٌّ وَّاِخَآءُ اِيْمَانٍ وَّاِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ".

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اِنِّيْ اَبْرَأُ اِلٰى كُلِّ ذِيْ خُلَّةٍ مِّنْ خُلَّتِهٖ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اَهْلِ الْاَرْضِ خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ، وَّلٰكِنْ اَخِيْ وَصَاحِبِيْ فِي الْغَارِ".

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا وَّلٰكِنْ قُوْلُوْا كَمَا قَالَ اللّٰهُ: صَاحِبِيْ".

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَا مِنْ اَحَدٍ اَمَنَّ عَلَيَّ فِيْ ذَاتِ يَدِهٖ مِنْ اَبِيْ بَكْرٍ، زَوَّجَنِي ابْنَتَهٗ وَاَخْرَجَنِيْ اِلٰى دَارِ الْهِجْرَةِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَّلٰكِنْ اِخَآءٌ وَّمَوَدَّةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَا مِنْ اَحَدٍ اَمَنَّ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهٖ وَذَاتِ يَدٍ مِّنِ ابْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ، فَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اِبْنَ اَبِيْ قُحَافَةَ، وَلٰكِنْ وُدٌّ وَّاِخَاءُ اِيْمَانٍ وَّاِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ".

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَا اَحَدٌ اَعْظَمُ عِنْدِيْ يَدًا مِّنْ اَبِيْ بَكْرٍ، وَّاٰسَانِيْ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَاَنْكَحَنِي ابْنَتَهٗ".

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَا نَفَعَنِيْ مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِيْ مَالُ اَبِيْ بَكْرٍ".

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلَّا وَقَدْ كَافَأْنَاهُ مَا خَلَا اَبَابَكْرٍ، فَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا يَدًا يُّكَافِئُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِيْ مَالُ اَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِيْ مَالُ اَبِيْ بَكْرٍ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلًا اَلَا وَاِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ".

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَا اَحَدٌ مِّنْ

النَّاسِ اَفْضَلُ عَلَيَّ نِعْمَةً مِّنْ اَهْلٍ وَّ مَالٍ مِّنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُهٗ وَ لٰكِنْ اُخُوَّةُ
الْاِسْلَامِ".

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَا نَفَعَنِيْ مَالٌ قَطُّ
اِلَّا مَالَ اَبِيْ بَكْرٍ".

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "سُدُّوْا هٰذِهِ
الْاَبْوَابَ الشَّارِعَةَ فِي الْمَسْجِدِ اِلَّا بَابَ اَبِيْ بَكْرٍ فَاِنِّيْ لَآ اَعْلَمُ اَحَدًا اَعْظَمَ عِنْدِيْ يَدًا فِيْ صُحْبَتِهٖ وَ ذَاتِ يَدِهٖ
مِنْ اَبِيْ بَكْرٍ".

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا
خَلِيْلًا حَتّٰى اَلْقَى اللّٰهَ سِوَى اللّٰهِ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا".

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا
مِّنْ اَهْلِ الْاَرْضِ خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَّ لٰكِنَّهٗ اَخِيْ وَ صَاحِبِيْ وَ قَدِ اتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلًا".

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا
مِّنْ اُمَّتِيْ خَلِيْلًا دُوْنَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَّ لٰكِنْ اَخِيْ فِي الدِّيْنِ وَ صَاحِبِيْ فِي الْغَارِ".

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "قَدْ كَانَ لِيْ مِنْكُمْ
خَلِيْلٌ وَّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا مِّنْ اُمَّتِيْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، وَّ اِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَ جَلَّ قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلًا كَمَا
اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ، اَلَا وَ اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَآئِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا
الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَاِنِّيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ".

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيْلًا
لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، وَّ لٰكِنَّهٗ اَخِيْ وَ صَاحِبِيْ وَ قَدِ اتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلًا".

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَآ اَبَا بَكْرٍ اِنَّ
الدُّنْيَا تَطَاوَلَتْ لِيْ بِعُنُقِهَا وَ رَأْسِهَا فَقُلْتُ اِلَيْكِ عَنِّيْ، فَقَالَتْ: اَمَآ اِنَّكَ اِنِ انْفَلَتَّ مِنِّيْ فَلَنْ يَّنْفَلِتَ مِنِّيْ
مَنْ م بَعْدَكَ".

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَآ اَبَا بَكْرٍ لَّعَانِيْنَ وَ
صِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ".

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ

جِبْرِيْلَ اَخْبَرَنِیْ اَنَّ خَيْرَ اُمَّتِكَ بَعْدَكَ اَبُوْ بَكْرٍ "۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " اِنَّ مِنْ اٰمَنِّ النَّاسِ عَلَیَّ فِیْ صُحْبَتِهٖ وَ ذَاتِ يَدِهٖ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ فَحُبُّهٗ وَ شُكْرُهٗ وَ حِفْظُهٗ وَاجِبٌ عَلٰى اُمَّتِیْ "۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " مَا اَحَدٌ اَمَنَّ عَلَیَّ فِیْ صُحْبَتِهٖ وَ ذَاتِ يَدِهٖ مِنْ اَبِیْ بَكْرٍ، وَّ مَا نَفَعَنِیْ مَالٌ مَّا نَفَعَنِیْ مَالُ اَبِیْ بَكْرٍ، وَّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اَهْلِ الْاَرْضِ خَلِيْلًا لَّاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا "۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَّلَا غَرَبَتْ عَلٰى اَحَدٍ اَفْضَلَ مِنْ اَبِیْ بَكْرٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَبِیٌّ "۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَا اَبَا الدَّرْدَآءِ اَتَمْشِیْ اَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ فِی الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَّلَا غَرَبَتْ عَلٰى اَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ اَفْضَلَ مِنْ اَبِیْ بَكْرٍ "۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " اَتَمْشِیْ اَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ، اِنَّ اَبَا بَكْرٍ خَيْرٌ مَّنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ "۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " اَتَمْشِیْ اَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُشْرِقْ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ تَغِبْ خَيْرٍ مِّنْ اَبِیْ بَكْرٍ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ "۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " اَتَمْشِیْ اِمَامَ اَبِیْ بَكْرٍ، مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى اَفْضَلِ مِنْ اَبِیْ بَكْرٍ "۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " لَا تَمْشِ اَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ، اِنَّ اَبَا بَكْرٍ خَيْرُ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ غَرَبَتْ "۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " اَتَمْشِیْ قُدَّامَ رَجُلٍ مَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْكُمْ اَفْضَلَ مِنْهُ "

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمَّاكَ الصِّدِّيْقَ "۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَا جِبْرِيْلُ اِنَّ قَوْمِیْ

لَا یُصَدِّقُوْنِیْ قَالَ : یُصَدِّقُكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّهُوَ الصِّدِّیْقُ "۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "قُلْتُ لِجِبْرِیْلَ لَیْلَةَ اُسْرِیَ بِیْ : اِنَّ قَوْمِیْ لَا یُصَدِّقُوْنِیْ فَقَالَ : یُصَدِّقُكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّهُوَ الصِّدِّیْقُ "۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "رَأَیْتُ لَیْلَةَ اُسْرِیَ بِیْ حَوْلَ الْعَرْشِ جَرِیْدَةً خَضْرَآءَ مَكْتُوْبًا فِیْهَا بِقَلَمٍ مِّنْ نُوْرٍ اَبْیَضَ : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرِ ںِالصِّدِّیْقُ "۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "عُرِجَ بِیْ اِلَی السَّمَآءِ فَمَا مَرَرْتُ بِسَمَآءٍ اِلَّا وَجَدْتُ فِیْهَا اِسْمِیْ مَكْتُوْبًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَبُوْ بَكْرِ ںِالصِّدِّیْقُ خَلْفِیْ "۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَرْشَ كَتَبَ عَلَیْهِ بِقَلَمٍ مِّنَ النُّوْرِ طُوْلَ الْقَلَمِ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، بِهٖ آخُذُ وَبِهٖ اُعْطِیْ وَاُمَّتُهٗ اَفْضَلُ الْاُمَمِ وَاَفْضَلُهَا اَبُوْ بَكْرِ ںِالصِّدِّیْقُ "۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "لَوْلَا اَبُوْ بَكْرِ ںِالصِّدِّیْقُ لَذَهَبَ الْاِسْلَامُ "۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "مَا صَحِبَ النَّبِیِّیْنَ وَالْمُرْسَلِیْنَ اَجْمَعِیْنَ وَلَا صَاحِبُ یٰسٓ اَفْضَلَ مِنْ اَبِیْ بَكْرٍ "۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "مَآ اُعْطِیْتُ فَضِیْلَةً اِلَّا وَقَدْ اُعْطِیْتُ شَطْرًا مِّنْهَا حَتَّی الشَّهَادَةَ فَاِنِّیْ اُعْطَاهَا بِسَمِّ اُكْلَةِ خَیْبَرَ وَتُوْتَاهَا بِسَمِّ اَفْعٰی لَیْلَةِ الْغَارِ "۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "مَعَ اَحَدِ كُمَا جِبْرِیْلُ وَمَعَ الْاٰخَرِ مِیْكَآئِیْلُ وَاِسْرَافِیْلُ مَلَكٌ عَظِیْمٌ یَّشْهَدُ الْقِتَالَ وَیَكُوْنُ فِی الصَّفِّ "۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "لَا تُؤْذُوْنِیْ فِیْ صَاحِبِیْ، فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِیْ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : صَدَقْتَ، وَلَوْلَآ اَنَّ اللّٰهَ سَمَّاهُ صَاحِبًا لَّا تَّخَذْتُهٗ خَلِیْلًا وَّلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ، اَلَا فَسُدُّوْا كُلَّ خَوْخَةٍ اِلَّا خَوْخَةَ ابْنِ اَبِیْ قُحَافَةَ "۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِالْقَآئِلِ : "خِصَالُ الْخَیْرِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَّضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ : یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِیَّ شَیْءٌ مِّنْهَا ؟ قَالَ : كُلُّهَا فِیْكَ "۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "دَعُوْا لِيْ صُوَيْحِبِيْ فَإِنِّيْ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَآفَّةً فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ إِلَّا قَالَ لِيْ: كَذَبْتَ إِلَّا اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ فَإِنَّهٗ قَالَ لِيْ: صَدَقْتَ"۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "دَعُوْا صُوَيْحِبِيْ هٰذَا"۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: صَدَقْتَ، وَ وَاسَانِيْ بِنَفْسِهٖ وَ مَالِهٖ فَهَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ، فَهَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ"۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَأَرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِيْ يَدْخُلُ مِنْهُ اُمَّتِيْ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: وَدِدْتُّ اَنِّيْ كُنْتُ مَعَكَ حَتّٰى اَنْظُرَ إِلَيْهِ، قَالَ: اَمَّا إِنَّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ"۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ"۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "تَأْتِي الْمَلَآئِكَةُ بِأَبِيْ بَكْرٍ مَّعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ تَزُفُّهٗ إِلَى الْجَنَّةِ زَفًّا"۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادٰى مُنَادٍ: لَا يَرْفَعَنَّ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ كِتَابَهٗ قَبْلَ اَبِيْ بَكْرٍ"۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "إِنَّ اللّٰهَ إِذَا اَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهٗ فَهِيَ لِلَّذِيْ يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهٖ"۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَجَلْ فَلَا تَقُلْ لَهٗ مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ، وَلٰكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ"۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيْلٌ فِيْ اُمَّتِهٖ، وَ إِنَّ خَلِيْلِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ خَلِيْلُ صَاحِبِكُمُ الرَّحْمٰنُ"۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "لَوْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ تِجَارَةٌ لَّاَمَرْتُ بِتِجَارَةِ الْبَزِّ، لِاَنَّ اَبَا بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقَ كَانَ بَزَّازًا"۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَا بَالُ اَقْوَامٍ نَقَضُوْا عَهْدِيْ وَ ضَيَّعُوْا وَصِيَّتِيْ فِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَّزِيْرِيْ وَ اَنِيْسِيْ فِي الْغَارِ، لَا نَالَتْهُمْ شَفَاعَتِيْ".

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ".

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ".

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَّا يَبْقٰى فِي الْجَنَّةِ اَهْلُ دَارٍ وَّلَا غُرْفَةٍ اِلَّا قَالُوْا: مَرْحَبًا مَّرْحَبًا اِلَيْنَا، وَ اَنْتَ هُوَ يَا اَبَا بَكْرٍ".

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمَ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ م بِالنَّاسِ".

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَّاِنَّ خَلِيْلِيْ اَبُوْ بَكْرٍ".

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَكْرَهُ فَوْقَ سَمَآئِهٖ اَنْ يُّخَطَّأَ اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ فِي الْاَرْضِ".

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لِيْ: يَا مُحَمَّدُ، اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَسْتَشِيْرَ اَبَا بَكْرٍ".

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اُمِرْتُ اَنْ اُوَلِّيَ الرُّؤْيَا اَبَا بَكْرٍ".

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ اَبَا بَكْرٍ يُّؤَوِّلُ الرُّؤْيَا وَ اَنَّ رُؤْيَاهُ الصَّالِحَةَ حَظٌّ مِّنَ النُّبُوَّةِ".

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتٰى بِثَلَاثِ كَرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبٍ يَّتَلَأْلَؤُ مِنْهَا الْجَمْعُ فَتُوْضَعُ اَمَامَ الْعَرْشِ فَيَجْلِسُ عَلٰى وَاحِدٍ مِّنْهَا اِبْرَاهِيْمُ، وَ اَجْلِسُ اَنَا عَلَى الْآخَرِ، ثُمَّ يُؤْتٰى بِاَبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ فَيَقْعُدُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ، ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ عَلٰى رَأْسِهٖ: طُوْبٰى لِصِدِّيْقٍ م بَيْنَ حَبِيْبٍ وَّ خَلِيْلٍ".

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَا اَيُّهَا النَّاسُ

إحفظوني في أبي بكر فإنه لم يسؤني منذ صحبني".

106 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "يا أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا ذلك له". (وفي رواية أخرى) يا أيها الناس، إني راض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين فاعرفوا ذلك لهم. يا أيها الناس، إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية. يا أيها الناس، إحفظوني في أختاني وأصهاري وأصحابي لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم فإنها ليست مما يوهب. يا أيها الناس، إرفعوا ألسنتكم عن المسلمين وإذا مات أحد من المسلمين فلا تقولوا فيه إلا خيرا".

107 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "تباشرت الملائكة يوم بدر فقالوا: ما ترون أبا بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش".

108 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "خير عبد من عبيد الله بين الدنيا وملكها ونعيمها وبين الآخرة، فاختار الآخرة. فقال أبو بكر: بل نفديك يا رسول الله بأموالنا وأنفسنا".

109 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي".

110 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت منه عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته وما تردد فيه".

111 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له نظرة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم".

112 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبى علي وراجعني في الكلام إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله وسارع إليه".

113 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد القائل: "ألا تدعون لي صاحبي ما شأنكم وشأنه، فوالله ما منكم رجل إلا على باب بيته ظلمة إلا باب أبي بكر فإنه على بابه النور، ولقد قلتم: كذبت وقال صدقت وأمسكتم الأموال وجادلي بماله، وخذلتموني وواساني واتبعني".

114 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "مَثَلُ اَبِیْ بَکْرٍ مَثَلُ اللَّبَنِ فِی الصَّفَآءِ".

115 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "مَثَلُ اَبِیْ بَکْرٍ کَالْغَیْثِ اَیْنَمَا وَقَعَ نَفَعَ".

116 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "اِنَّ طَیْرَ الْجَنَّةِ کَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَرْعٰی فِیْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، قَالَ اَبُوْ بَکْرٍ: یَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ هٰذِهٖ لَطَیْرٌ نَاعِمَةٌ، فَقَالَ: اٰکِلُهَا اَنْعَمُ مِنْهَا، وَاِنِّیْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَکُوْنَ مِمَّنْ یَّاْکُلُ مِنْهَا".

117 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "اِنَّ فِی الْجَنَّةِ حُوْرًا خَلَقَهُنَّ اللهُ مِنَ الْوَرْدِ یُقَالُ لَهُنَّ: اَلْوَرْدِیَاتُ، لَا یَتَزَوَّجُهُنَّ اِلَّا نَبِیٌّ اَوْ صِدِّیْقٌ اَوْ شَهِیْدٌ، وَ اِنَّ لِاَبِیْ بَکْرِ ںِ الصِّدِّیْقِ مِنْهُنَّ اَرْبَعَمِائَةِ حُوْرَآءَ وَرْدِیَّةٍ".

118 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "غَفَرَ اللهُ لَكَ یَا اَبَا بَکْرٍ، اَلَسْتَ تَمْرَضُ، اَلَسْتَ تَنْصَبُ، اَلَسْتَ تَحْزَنُ، اَلَسْتَ تُصِیْبُكَ اللَّأْوَآءُ، اَلَسْتَ تُنْکَبُ، قَالَ: بَلٰی، قَالَ: فَهِیَ مَا تُجْزَوْنَ بِهٖ فِی الدُّنْیَا".

119 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "لَمَّا تَلَا عَلَیَّ الصِّدِّیْقُ اٰیَةَ {مَنْ یَّعْمَلْ سُوْٓءًا یُّجْزَ بِهٖ} وَ تَمَطّٰی لَهَا لَمَّا وَجَدَ فِیْ ظَهْرِهٖ اِنْقِصَامًا، مَا شَاْنُكَ یَا اَبَا بَکْرٍ، قُلْتُ: یَا رَسُوْلَ اللهِ اَیُّنَا لَمْ یَعْمَلْ سُوْٓءًا وَ اِنَّا لَمَجْزِیُّوْنَ بِمَا عَمِلْنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: اَمَّا اَنْتَ یَا اَبَا بَکْرٍ وَّ الْمُؤْمِنُوْنَ فَتُجْزَوْنَ بِذٰلِكَ فِی الدُّنْیَا حَتّٰی تَلْقَوُا اللهَ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ ذُنُوْبٌ، وَّ اَمَّا الْاٰخَرُوْنَ فَیُجْمَعُ لَهُمْ ذٰلِكَ حَتّٰی یُجْزَوْا بِهٖ یَوْمَ الْقِیَامَةِ".

120 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "اِنَّ اللهَ وَعَدَنِیْ اَنْ یُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِیْ اَرْبَعَمِائَةِ اَلْفٍ، قَالَ اَبُوْ بَکْرٍ: زِدْنَا یَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَ هٰکَذَا، وَ جَمَعَ کَفَّیْهِ، قَالَ: زِدْنَا، قَالَ: وَ هٰکَذَا".

121 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "مَنْ رَّاٰنِیْ فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِیْ، فَاِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ بِیْ، وَ مَنْ رَّاٰی اَبَا بَکْرِ ںِ الصِّدِّیْقَ فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰهُ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ بِهٖ".

122 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الْقَائِلِ: "مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَیْنِ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ نُوْدِیَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ: یَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا خَیْرٌ فَمَنْ کَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِیَ مِنْ م بَابِ

الصَّلَاةِ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِیَ مِنْ ، بَابِ الْجِهَادِ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِیَ مِنْ ، بَابِ الرَّيَّانِ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِیَ مِنْ ، بَابِ الصَّدَقَةِ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ "۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا، قَالَ : فَمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً مِّنْكُمُ الْيَوْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا، قَالَ : فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا، قَالَ : فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَا اجْتَمَعْنَ فِيْ امْرِئٍ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ "۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "يَا اَبَا الْحَسَنِ مَنْزِلَةُ اَبِيْ بَكْرٍ عِنْدِيْ كَمَنْزِلَتِيْ عِنْدَ رَبِّيْ "۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "مَا اُوْحِیَ اِلَیَّ شَیْءٌ اِلَّا صَبَبْتُهٗ فِیْ صَدْرِ اَبِیْ بَكْرٍ "۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "مَا فَضَلَكُمْ اَبُوْ بَكْرٍ ، بِفَضْلِ صَوْمٍ وَّ لَا صَلَاةٍ، وَّ لٰكِنْ ، بِشَیْءٍ وَّقَرَ فِیْ صَدْرِهٖ "۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "لَا تَعْجَلْ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ اَعْلَمُ قُرَيْشٍ ، بِاَنْسَابِهَا وَ اِنَّ لِیْ فِيْهِمْ نَسَبًا حَتّٰى يُخَلِّصَ لَكَ نَسَبِیْ "۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "يَا اَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا "۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اِنَّ اَحَدَ شِقَّیْ ثَوْبِیْ يَسْتَرْخِیْ اِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ "۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "اُوْصِی الْخَلِيْفَةَ مِنْ ، بَعْدِیْ بِتَقْوَى اللهِ، وَ اُوْصِيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يُّعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ وَيَرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ وَيُوَقِّرَ عَالِمَهُمْ، وَ اَنْ لَّا يَضُرَّ بِهِمْ فَيُذِلَّهُمْ، وَلَا يُوْحِشَهُمْ فَيُكْفِرَهُمْ، وَ اَنْ لَّا يُغْلِقَ بَابَهٗ دُوْنَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ "۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : "اِنِّیْ خَرَجْتُ اَنَا وَ

صَاحِبِیْ هٰذَا ۔ یَعْنِیْ اَبَا بَکْرٍ ۔ لَیْسَ لَنَا طَعَامٌ اِلَّا الْبَرِیْرُ ۔ یَعْنِی الْاَرَاکَ ۔ حَتّٰی قَدِمْتُ عَلٰی اِخْوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَوَاسَوْنَا فِیْ طَعَامِهِمْ، وَکَانَ طَعَامُهُمُ التَّمْرَ، وَایْمُ اللّٰهِ لَوْ اَجِدُ لَکُمُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لَاَطْعَمْتُکُمُوْهُ، وَلٰکِنَّکُمْ لَعَلَّکُمْ اَنْ تُدْرِکُوْا زَمَانًا اَوْ مَنْ اَدْرَکَهٗ مِنْکُمْ یُغْدٰی عَلٰی اَحَدِکُمْ بِجَفْنَةٍ وَّیُرَاحُ عَلَیْهِ بِاُخْرٰی وَیَسْتُرُ اَحَدُکُمْ بَیْتَهٗ کَمَا تُسْتَرُ الْکَعْبَةُ "۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ : " اِنَّهٗ کَانَ مَعَکَ مَلَکٌ یَّرُدُّ عَنْکَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَیْهِ بَعْضَ قَوْلِهٖ وَقَعَ الشَّیْطَانُ فَلَمْ اَکُنْ لِاَقْعُدَ مَعَ الشَّیْطَانِ یَا اَبَا بَکْرٍ، ثَلَاثٌ هُنَّ حَقٌّ : مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ مَظْلِمَةً فَیُغْضِیْ عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا اَعَزَّ اللّٰهُ بِهَا نَصْرَهٗ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِیَّةٍ یُّرِیْدُ بِهَا قِلَّةً اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا کَثْرَةً، وَّمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْاَلَةٍ یُّرِیْدُ بِهَا کَثْرَةً اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا قِلَّةً "۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ : " اِنِّیْ رَاَیْتُ فِی الْمَنَامِ غَنَمًا سُوْدًا وَّیَتْبَعُهَا غَنَمٌ عُفْرٌ، یَا اَبَا بَکْرٍ اِعْبُرْهَا، قَالَ : هِیَ الْعَرَبُ تَتْبَعُکَ ثُمَّ یَتْبَعُهَا الْعَجَمُ، قَالَ : هٰکَذَا عَبَرَهَا الْمَلَکُ سَحَرًا "۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ : " اَنْتُمْ اَصْحَابِیْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ، اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَیْقَظَنِیْ فَقَالَ : یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ لَمْ اَبْعَثْ نَبِیًّا وَّلَا رَسُوْلًا اِلَّا وَقَدْ سَاَلَنِیْ مَسْاَلَةً اَعْطَیْتُهَا اِیَّاهُ فَسَلْ یَا مُحَمَّدُ تُعْطَهٗ، فَقُلْتُ : مَسْاَلَتِیْ شَفَاعَةٌ لِّاُمَّتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، قَالَ اَبُوْ بَکْرٍ : یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشَّفَاعَةُ قَالَ : اَقُوْلُ یَا رَبِّ شَفَاعَتِی الَّتِی اخْتَبَاْتُ عِنْدَکَ، فَیَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی : نَعَمْ، فَیُخْرِجُ رَبِّیْ عَزَّ وَجَلَّ بَقِیَّةَ اُمَّتِیْ مِنَ النَّارِ فَیَنْبِذُهُمْ فِی الْجَنَّةِ "۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ : " شِمْ سَیْفَکَ وَلَا تَفْجَعْنَا بِنَفْسِکَ "۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ : " رَاَیْتُ کَاَنِّیْ اُوْتِیْتُ بِکُتْلَةِ تَمْرٍ فَجَعَلْتُهَا فِیْ فَمِیْ فَوَجَدْتُ فِیْهَا نَوَاةً فَلَفَظْتُهَا، فَقَالَ اَبُوْ بَکْرٍ : هُوَ جَیْشُکَ الَّذِیْ بَعَثْتَ یَسْلَمُوْنَ وَیَغْنَمُوْنَ فَیَلْقَوْنَ رَجُلًا فَیَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَکَ فَیَدَعُوْنَهٗ ثُمَّ یَلْقَوْنَ رَجُلًا فَیَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَکَ فَیَدَعُوْنَهٗ، قَالَ : کَذٰلِکَ قَالَ الْمَلَکُ "۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ : " اَلَا احْتَطْتَ یَا اَبَا بَکْرٍ، فَاِنَّ الْبِضْعَ مَا بَیْنَ ثَلَاثٍ اِلٰی تِسْعٍ "۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ : " لَیْتَنِیْ لَقِیْتُ

إِخْوَانِيْ فَإِنِّيْ أُحِبُّهُمْ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَلَسْنَا نَحْنُ إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: لَا أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ، إِخْوَانِي الَّذِيْنَ لَمْ يَرَوْنِيْ وَ آمَنُوْا بِيْ وَ صَدَّقُوْنِيْ وَ أَحَبُّوْنِيْ حَتّٰى إِنِّيْ أَحَبُّ إِلٰى أَحَدِهِمْ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ. أَلَا تُحِبُّ يَا أَبَا بَكْرٍ قَوْمًا أَحَبُّوْكَ بِحُبِّيْ إِيَّاكَ؟ فَقَالَ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: فَإِنَّهُمْ مَا أَحَبُّوْكَ إِلَّا بِحُبِّيْ إِيَّاكَ"۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "لَمَّا عُرِجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ جَنَّةَ عَدْنٍ فَوَقَعَتْ فِيْ يَدِيْ تُفَّاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِيْ يَدِيْ انْفَلَقَتْ عَنْ حُوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَرْضِيَّةٍ أَشْفَارُ عَيْنَيْهَا كَمَقَادِيْمِ أَجْنِحَةِ النُّسُوْرِ، قُلْتُ لَهَا: لِمَنْ أَنْتِ قَالَتْ: لِلْخَلِيْفَةِ بَعْدَكَ"۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدِيْ فِي الصُّحْبَةِ وَ ذَاتِ يَدِهِ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ"۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تُحِبُّ قَوْمًا بَلَغَهُمْ أَنَّكَ تُحِبُّنِيْ فَأَحَبُّوْكَ بِحُبِّكَ إِيَّايَ فَأَحَبَّهُمُ اللهُ"۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "يَا أَبَا بَكْرٍ لَيْتَ أَنِّيْ لَقِيْتُ إِخْوَانِيْ فَإِنِّيْ أُحِبُّهُمُ الَّذِيْنَ لَمْ يَرَوْنِيْ وَ صَدَّقُوْنِيْ وَ أَحَبُّوْنِيْ إِنِّيْ لَأَحَبُّ إِلٰى أَحَدِهِمْ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ"۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّ مَلِيْكَهٗ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شِرْكِهٖ، وَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا أَوْ أَجُرَّهٗ إِلٰى مُسْلِمٍ"۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ"۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "يَا أَبَا بَكْرٍ عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ"۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "يَا أَبَا بَكْرٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكَ مِنَ اللهِ السَّلَامَ"۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ، وَ أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُ كُهُوْلِ الْعَرَبِ، وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ شَبَابِ الْعَرَبِ"۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ، وَ آدَمُ تَحْتَ لِوَائِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا فَخْرَ، وَ أَبُوْكَ سَيِّدُ كُهُوْلِ الْعَرَبِ، وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ شَبَابِ الْعَرَبِ، وَ

الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا ابْنَيِ الْخَالَةِ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى ".

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَآ اَبَا بَكْرٍ اِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسَاجِدَ فَارْتَعُوْا فِيْهَا فَاِنَّ رِيَاضَ الْجَنَّةِ الْمَسَاجِدُ فَاَكْثِرُوْا فِيْهَا الرَّتْعَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ".

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَآ اَبَا بَكْرٍ اَلشِّرْكُ اَخْفٰى فِيْكُمْ مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، اِنَّ مِنَ الشِّرْكِ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ مَا شَآءَ اللّٰهُ وَ شِئْتُ، وَ مِنَ النِّدِّ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ، لَوْلَا فُلَانٌ لَقَتَلَنِيْ فُلَانٌ، اَفَلَآ اَدُلُّكَ عَلٰى مَا يُذْهِبُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْكَ صِغَارَ الشِّرْكِ وَ كِبَارَهٗ تَقُوْلُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَآ اَعْلَمُ ".

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَآ اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَّ هٰذَا عِيْدُنَا ". (وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى) " دَعْهُمَا يَآ اُمَّ سَلَمَةَ فَاِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدِنَا ".

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَآ اَبَا بَكْرٍ اِنَّ الْمُصِيْبَةَ فِي الدُّنْيَا جَزَآءٌ ". (وَ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى) " قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَآ اَشَدَّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : ﴿مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ﴾ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : يَآ اَبَا بَكْرٍ اَلْمَصَآئِبُ وَ الْاَمْرَاضُ وَ الْاَحْزَانُ فِي الدُّنْيَا جَزَآءٌ ".

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " لَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَآ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَقْبَلَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰى جَنَّةِ عَدْنٍ فَقَالَ : وَ عِزَّتِيْ وَ جَلَالِيْ لَآ اُدْخِلُكِ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ هٰذَا الْمَوْلُوْدَ ".

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " لَوْ اَقْرَرْتُ الشَّيْخَ فِيْ بَيْتِهٖ لَاَتَيْنَاهُ تُكْرِمَةً لِّاَبِيْ بَكْرٍ ". يَعْنِيْ عُثْمَانَ بْنَ عَامِرٍ اَبَا قُحَافَةَ.

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِيْ بَيْتِهٖ حَتّٰى اَجِيْئَهٗ ". يَعْنِيْ اَبَا اَبِيْ بَكْرٍ.

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِيْ بَيْتِهٖ حَتّٰى اٰتِيَهٗ، اِنَّا لَنَحْفَظُهٗ لِاَيَادِيْ ابْنِهٖ عَلَيْنَا ".

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَآ اَبَا بَكْرٍ اَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِيْ اَمْشِيْ اِلَيْهِ، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ اَحَقُّ اَنْ يَّمْشِيَ اِلَيْكَ قَبْلَ اَنْ تَمْشِيَ

اِلَيۡهِ"۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "يَآ اَبَا بَكْرٍ اِنِّيْ لَآ اُحِبُّ اَنْ يُّعِيْنَنِيْ عَلٰى طُهُوْرِيْ غَيْرِيْ"۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "اَمَآ اِنَّ الْمَلَكَ سَيَقُوْلُهَا لَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ"۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُّبْعَثُ فَاَخْرُجُ اَنَا وَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى اَهْلِ الْبَقِيْعِ فَيُبْعَثُوْنَ ثُمَّ يُبْعَثُ اَهْلُ مَكَّةَ فَاُحْشَرُ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ"۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: لِلصِّدِّيْقِ وَ قَدْ قَالَ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ: "لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَ سَمِعْتُ فُصَحَآءَهُمْ فَمَا سَمِعْتُ اَفْصَحَ مِنْكَ فَمَنْ اَدَّبَكَ اَدَّبَنِيْ رَبِّيْ وَ نَشَاْتُ فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ"۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "جَزَى اللّٰهُ الْعَنْكَبُوْتَ عَنَّا خَيْرًا فَاِنَّهَا نَسَجَتْ عَلَيَّ وَ عَلَيْكَ يَآ اَبَا بَكْرٍ فِي الْغَارِ حَتّٰى لَمْ يَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ وَ لَمْ يَصِلُوْا اِلَيْنَا"۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "يَآ اَبَا بَكْرٍ سَدِّدْ وَ قَارِبْ تَنْجُ"۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: لِلصِّدِّيْقِ وَ قَدْ سَئَلَهٗ: "مَا الَّذِيْ يُنْجِيْنَا مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الَّذِيْ يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِيْ اَنْفُسِنَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ ذٰلِكَ اَنْ تَقُوْلُوْا مِثْلَ الَّذِيْ اَمَرْتُ بِهٖ عَمِّيْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَفْعَلْ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى) اَلتَّصْرِيْحُ بِاَنَّهَا: اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ"۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَائِلِ: "دَعْهُنَّ يَآ اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّهَآ اَيَّامُ عِيْدٍ لِّتَعْلَمَ يَهُوْدُ اَنَّ دِيْنَنَا فُسْحَةً، اِنِّيْ اُرْسِلْتُ بِحَنِيْفِيَّةٍ سَمْحَةٍ"۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ نَوْمُكَ فِيْ سُجُوْدِكَ صَلَاةٌ".

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ كَفِّيْ وَكَفُّ عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَآءٌ".

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: لِاَبِيْ بَكْرٍ: "اَنَا اَكْبَرُ اَوْ اَنْتَ قَالَ: اَنْتَ اَكْبَرُ وَاَكْرَمُ وَاَنَا اَسَنُّ مِّنْكَ".

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ اِيَّاكَ وَنَارَ الْمُسْلِمِ لَا تُحْرِقُكَ".

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ تَنَقَّ وَتَوَقَّ".

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَآئِكَةً تَنْطِقُ عَلٰى اَلْسِنَةِ بَنِيْ آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ".

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعْطَانِيْ ثَوَابَ مَنْ آمَنَ بِيْ مُنْذُ خَلَقَ آدَمَ اِلٰى اَنْ بَعَثَنِيْ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعْطَاكَ يَا اَبَابَكْرٍ ثَوَابَ مَنْ آمَنَ بِيْ مُنْذُ بَعَثَنِيْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ اَنْتَظِرُ بِهَا الْقَضَآءَ".

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا اَبَابَكْرٍ اِذَا رَاَيْتَ النَّاسَ يُسَارِعُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَعَلَيْكَ بِالْآخِرَةِ، وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَّمَدَرٍ يَّذْكُرُكَ اِذَا ذَكَرْتَهٗ، وَلَا تَحْقِرَنَّ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنَّ صَغِيْرَ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ كَبِيْرٌ".

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "كَانَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرِنِ اللَّيْلَةَ فِي الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ".

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "كَانَ حَلْقَةُ مَجْلِسِهٖ تَشْتَبِكُ حَتّٰى تَصِيْرَ كَالسِّوَارِ، وَاِنَّ مَجْلِسَ اَبِيْ بَكْرٍ مِّنْهَا لَفَارِغٌ لَّا يَطْمَعُ فِيْهِ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، فَاِذَا جَآءَ اَبُوْ بَكْرٍ جَلَسَ ذٰلِكَ الْمَجْلِسَ وَاَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهٖ وَاَلْقٰى اِلَيْهِ حَدِيْثَهٗ وَيَسْمَعُ

النَّاس"۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ دَخَلَ وَ اَصْحَابُهٗ غَدِیْرًا فَقَالَ: "لِیَسْبَحْ کُلُّ رَجُلٍ اِلٰی صَاحِبِهٖ، فَسَبَحَ کُلُّ رَجُلٍ اِلٰی صَاحِبِهٖ حَتّٰی بَقِیَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَبُوْ بَکْرٍ فَسَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰی اَبِیْ بَکْرٍ حَتّٰی اِعْتَنَقَهٗ فَقَالَ: لَوْ کُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِیْلًا حَتّٰی اَلْقَی اللّٰهُ لَا تَّخَذْتُ اَبَابَکْرٍ خَلِیْلًا، وَّلٰکِنَّهٗ صَاحِبِیْ"۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ لِحَسَّانَ: "هَلْ قُلْتَ فِیْ اَبِیْ بَکْرٍ شَیْئًا قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: قُلْ وَ اَنَا اَسْمَعُ، فَقَالَ حَسَّانُ:

اِذَا تَذَکَّرْتَ شَجْوًا مِّنْ اَخِیْ ثِقَةٍ

فَاذْکُرْ اَخَاکَ اَبَابَکْرٍ بِمَا فَعَلَا

خَیْرَ الْبَرِیَّةِ اَتْقَاهَا وَ اَعْدَلَهَا

اِلَّا النَّبِیَّ وَ اَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا

وَ الثَّانِیَ التَّالِیَ الْمَحْمُوْدَ مَشْهَدُهٗ

وَ اَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا

وَ کَانَ حِبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَدْ عَلِمُوْا

مِنَ الْبَرِیَّةِ لَمْ یَعْدِلْ بِهٖ رَجُلَا

فَضَحِکَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ حَتّٰی بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ ثُمَّ قَالَ: "صَدَقْتَ یَا حَسَّانُ هُوَ کَمَا قُلْتَ"

اَلْبَابُ الثَّانِیْ

فِیْمَا جَآءَ فِیْ فَضْلِ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ خَاصَّةً

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ هٰذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ اِلَیْکَ، بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَوْ بِاَبِیْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ"۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَبِیْ جَهْلٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ

الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَعِزَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالْإِسْلَامِ».

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ».

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «اَللّٰهُمَّ اشْدُدِ الدِّيْنَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ».

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ».

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً».

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «اَللّٰهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ».

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهٖ».

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهٖ، وَهُوَ الْفَارُوْقُ فَرَّقَ اللهُ بِهٖ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ».

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهٖ».

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهٖ».

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ».

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ فِيْ قَلْبِ عُمَرَ وَ عَلٰى لِسَانِهٖ».

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهٖ».

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنِّيْ لَاَنْظُرُ اِلٰى شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ"۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِيْهٍ يَآ ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ"۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا لَقِيَ الشَّيْطَانُ عُمَرَ اِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهٖ، وَمَا سَمِعَ حِسَّهٗ اِلَّا فَرَّ"۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا لَقِيَ الشَّيْطَانُ عُمَرَ مُنْذُ اَسْلَمَ اِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهٖ"۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا لَقِيَ الشَّيْطَانُ قَطُّ عُمَرَ فِيْ فَجٍّ فَسَمِعَ صَوْتَهٗ اِلَّا اَخَذَ فِيْ غَيْرِهٖ"۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَهْ عَنْ عُمَرَ، فَوَاللّٰهِ مَا سَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا قَطُّ فَسَلَكَهُ الشَّيْطَانُ"۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ بَاهٰى مَلَآئِكَتَهٗ بِالنَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَامَّةً، وَبَاهٰى بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً، وَمَا فِي السَّمَآءِ مَلَكٌ اِلَّا وَ هُوَ يُوَقِّرُ عُمَرَ، وَمَا فِي الْاَرْضِ شَيْطَانٌ اِلَّا وَ هُوَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرَ"۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ بَاهٰى الْمَلَآئِكَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ تَدْرِيْ مِمَّا تَبَسَّمْتُ اِلَيْكَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَاهٰى مَلَآئِكَتَهٗ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَبَاهٰى بِكَ خَاصَّةً"۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَنْ اَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ اَبْغَضَنِيْ، وَ مَنْ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ، وَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَاهٰى بِالنَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَامَّةً، وَ اِنَّ اللّٰهَ بَاهٰى بِعُمَرَ خَاصَّةً، وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ اِلَّا كَانَ فِيْ اُمَّتِهٖ مَنْ يُحَدِّثُ، وَ اِنْ يَّكُنْ فِيْ اُمَّتِيْ اَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُحَدِّثُ قَالَ: تَتَكَلَّمُ الْمَلَآئِكَةُ عَلٰى لِسَانِهٖ"۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "إِنَّ اللهَ قَدْ تَطَوَّلَ عَلٰى جَمْعِكُمْ هٰذَا فَوَهَبَ مُسِيْئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَاَعْطٰى مُحْسِنَكُمْ مَا سَئَلَ، فَادْفَعُوْا عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ بَاهٰى مَلَآئِكَتَهٗ بِأَهْلِ عَرَفَةَ عَامَّةً، وَبَاهٰى بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً".

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَّكُنْ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ".

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "قَدْ كَانَ فِيْمَا مَضٰى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ اُنَاسٌ مُّحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَّكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ اَحَدٌ فَإِنَّهٗ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ".

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "أَمَا وَاللهِ إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِمَسْئَلَتِهٖ مِنْ عِنْدِيْ يَتَأَبَّطُهَا وَمَا هِيَ إِلَّا نَارٌ، قَالَ عُمَرُ: لِمَ تُعْطِيْهَا إِيَّاهُمْ قَالَ: مَا أَصْنَعُ يَأْبَوْنَ إِلَّا ذٰلِكَ، وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ".

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْ مَا فِيْ صَدْرِ عُمَرَ مِنْ غِلٍّ وَّدَاءٍ وَّابْدِلْهُ إِيْمَانًا ثَلَاثًا".

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "اَوَّلُ مَنْ يُّصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ، وَاَوَّلُ مَنْ يُّسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاَوَّلُ مَنْ يَّأْخُذُ بِيَدِهٖ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ".

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "إِنَّ اللهَ جَعَلَ السَّكِيْنَةَ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ يَقُوْلُ بِهَا".

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: اَقْرِئْ عُمَرَ السَّلَامَ وَاَعْلِمْهُ اَنَّ غَضَبَهٗ عِزٌّ، وَرِضَاهُ عَدْلٌ".

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "قَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ: اَقْرِئْ عُمَرَ السَّلَامَ وَاَعْلِمْهُ اَنَّ رِضَاهُ حُكْمٌ، وَّغَضَبَهٗ عِزٌّ".

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "إِتَّقُوْا غَضَبَ عُمَرَ فَإِنَّ اللهَ يَغْضَبُ إِذَا غَضِبَ".

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "إِنَّ اللهَ تَعَالٰى غَيُوْرٌ يُّحِبُّ الْغَيُوْرَ، وَإِنَّ عُمَرَ غَيُوْرٌ".

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "مَا مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا وَفِيْ

أُمَّتِهٖ مُعَلَّمٌ اَوْ مُعَلَّمَانٌ، فَاِنْ يَّكُ فِيْ اُمَّتِيْ اَحَدٌ فَابْنُ الْخَطَّابِ، اِنَّ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهٖ"۔

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا قَالَ النَّاسُ فِيْ شَيْءٍ وَّ قَالَ فِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلَّا جَآءَ الْقُرْآنُ نَحْوَ مَا يَقُوْلُ"۔

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اَعْطَانِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا مِّنْ اُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالَ عُمَرُ: فَهَلَّا اسْتَزَدْتَّهٗ قَالَ: قَدِ اسْتَزَدْتُّهٗ فَاَعْطَانِيْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ السَّبْعِيْنَ اَلْفًا سَبْعِيْنَ اَلْفًا، قَالَ: فَهَلَّا اسْتَزَدْتَّهٗ؟ قَالَ: قَدِ اسْتَزَدْتُّهٗ فَاَعْطَانِيْ هٰكَذَا، وَ فَتَحَ يَدَيْهِ"۔

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ رَبِّيْ اَعْطَانِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا مِّنْ اُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَّا اسْتَزَدْتَّهٗ قَالَ: اِسْتَزَدْتُّهٗ فَاَعْطَانِيْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِيْنَ اَلْفًا، قَالَ: هَلَّا اسْتَزَدْتَّهٗ؟ قَالَ: قَدِ اسْتَزَدْتُّهٗ فَاَعْطَانِيْ هٰكَذَا، وَ بَسَطَ بَاعَهٗ"۔

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا فِي السَّمَآءِ مَلَكٌ اِلَّا وَ هُوَ يُوَقِّرُ عُمَرَ وَلَا فِي الْاَرْضِ شَيْطَانٌ اِلَّا وَ هُوَ يَفْرَقُ مِنْ عُمَرَ"۔

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى اَحَدٍ اَفْضَلَ مِنْ عُمَرَ"۔

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رَجُلٍ خَيْرٍ مِّنْ عُمَرَ"۔

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَّكَانَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ"۔

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَوْ لَمْ اُبْعَثْ فِيْكُمْ لَبُعِثَ عُمَرُ"۔

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَوْ لَمْ اُبْعَثْ فِيْكُمْ لَبُعِثَ عُمَرُ، اَيَّدَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عُمَرَ بِمَلَكَيْنِ يُوَفِّقَانِهٖ وَ يُسَدِّدَانِهٖ، فَاِذَا اَخْطَاَ صَرَفَاهُ حَتّٰى يَكُوْنَ صَوَابًا"۔

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَوْ لَمْ اُبْعَثْ

فِيْكُمْ لَبُعِثَ عُمَرُ فِيْكُمْ".

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَّكُنْتَهُ". قَالَهُ لِعُمَرَ.

229 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اَلصِّدْقُ وَ الْحَقُّ بَعْدِىْ مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ".

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اَلْحَقُّ بَعْدِىْ مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ".

231 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "يَا عُمَرُ هٰهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ". يَعْنِىْ عِنْدَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ.

232 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "يَا عُمَرُ اَوْتَرْتَ قَوْسَكَ بِغَيْرِ وَتَرٍ، مَّا بَيْنَ صَدَقَتَيْكُمَا كَمَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا".

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : اَقْرِئْ عُمَرَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَّهُ : اِنَّ رِضَاهُ حُكْمٌ، وَّ اِنَّ غَضَبَهُ عِزٌّ".

234 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ".

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اُمِرْتُ اَنْ اُعْرِضَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ".

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اِنِّىْ قَدْ قِيْلَ لِىْ اِقْرَأْ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ".

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اَوَّلُ مَنْ يُّعْطٰى كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ عُمَرُ".

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ : اُوَيْسُ نِ الْقَرَنِىُّ يُصِيْبُهُ بَلَاءٌ فِىْ جَسَدِهٖ فَيَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُذْهِبُ اِلَّا لُمْعَةً فِىْ جَنْبِهٖ اِذَا رَاٰهَا ذَكَرَ اللّٰهَ، فَاِذَا لَقِيْتَهُ فَاَقْرِئْهُ مِنِّى السَّلَامَ وَ اُمُرْهُ اَنْ يَّدْعُوَ لَكَ فَاِنَّهُ كَرِيْمٌ عَلٰى رَبِّهٖ بَارٌّ بِوَالِدَتِهٖ، لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ يَشْفَعُ لِمِثْلِ رَبِيْعَةَ وَ مُضَرَ".

239 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "رِضَا اللّٰهِ رِضَا عُمَرَ، وَرِضَا عُمَرَ رِضَا اللّٰهِ"۔

240 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "رَاَيْتُ شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ"۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "يَا عُمَرُ اِنَّ غَضَبَكَ عِزٌّ، وَّرِضَاكَ حُكْمٌ"۔

242 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ اَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: قَدِ اسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَآءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ"۔

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ"۔

244 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "عُمَرُ مَعِيْ وَاَنَا مَعَ عُمَرَ، وَالْحَقُّ بَعْدِيْ مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ"۔

245 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "قَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ: لَيَبْكِ الْاِسْلَامُ عَلٰى مَوْتِ عُمَرَ"۔

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "كَادَ اَنْ يُّصِيْبَنَا فِيْ خِلَافِكَ شَرٌّ يَّا عُمَرُ"۔

247 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ، اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَاِنَّهٗ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَاِنَّهٗ يَعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ"۔

248 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ اَشْيَآءُ فَاَحَبُّهَا اِلَيَّ اَنْ تَلْزَمَ مَا اَحْدَثَ عُمَرُ"۔

249 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ مَا اُفْلِتَ اِلَّا ابْنُ الْخَطَّابِ"۔

250 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْقَائِلِ: "مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَآءُ وَلَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَآءُ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ خَيْرًا مِّنْكَ يَا عُمَرُ"۔

251 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ، اِنَّ الْعَبَّاسَ اَسْلَفَنَا صَدَقَةَ الْعَامِ عَامَ اَوَّلَ".

252 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ، اِنَّا كُنَّا اِحْتَجْنَا فَاسْتَلَفْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ".

253 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَنْ اَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ اَبْغَضَنِيْ، وَمَنْ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ، عُمَرُ مَعِيْ حَيْثُ حَلَلْتُ وَ اَنَا مَعَ عُمَرَ حَيْثُ حَلَّ، وَ عُمَرُ مَعِيْ حَيْثُ اَحْبَبْتُ، وَ اَنَا مَعَ عُمَرَ حَيْثُ اَحَبَّ".

254 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "نَزَلَ الْحَقُّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهٖ".

255 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "نَادِ يَا عُمَرُ فِي النَّاسِ اَنَّهٗ مَنْ مَّاتَ يَعْبُدُ اللهَ مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِهٖ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ النَّارَ".

256 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "يَا عُمَرُ اِنَّكَ تُحِبُّ الْحَدِيْثَ، وَاِنَّ لِلشُّهَدَآءِ سَادَةً وَّ اَشْرَافًا وَّ مُلُوْكًا، وَاِنَّ هٰذَا يَا عُمَرُ مِنْهُمْ".

257 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "وَيْحَكَ اِذَا مَاتَ عُمَرُ، فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَمُوْتَ فَمُتْ".

258 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "يَا عُمَرُ اِنَّكَ لَا تُسْئَلُ عَنْ اَعْمَالِ النَّاسِ، اِنَّمَا تُسْئَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ".

259 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "يَا عُمَرُ اِنَّكَ لَا تُسْئَلُ عَنْ اَعْمَالِ النَّاسِ، اِنَّمَا تُسْئَلُ عَنِ الْغِيْبَةِ".

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "لَا يَزَالُ بَابُ الْفِتْنَةِ مُغْلَقًا عَنْ اُمَّتِيْ مَا عَاشَ لَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَاِذَا هَلَكَ عُمَرُ تَتَابَعَتْ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ".

261 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "هٰذَا غَلَقُ الْفِتْنَةِ. وَ اَشَارَ بِيَدِهٖ اِلٰى عُمَرَ - لَا يَزَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابٌ شَدِيْدُ الْغَلَقِ، مَا عَاشَ هٰذَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ".

262 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "قُلْنَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ - يَعْنِي الْمُؤَذِّنَ - فَاِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ اَلْفَيْ حَسَنَةٍ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا لِلنِّسَآءِ، فَمَا لِلرِّجَالِ

قَالَ: لَهُمُ الضِّعْفُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ".

263 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "لَا تَنْسَانِي يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ".

264 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِيْ صَالِحِ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا".

265 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ آذَانَ الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتَهُ فَقُلْنَ كَمَا يَقُوْلُ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ، قَالَ عُمَرُ: هٰذَا لِلنِّسَاءِ، فَمَا لِلرِّجَالِ قَالَ: لِلرِّجَالِ ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ".

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "لَا تَبْكِ يَا عُمَرُ، فَلَوْ شِئْتُ يَا عُمَرُ أَنْ تَسِيْرَ الْجِبَالُ ذَهَبًا لَّسَارَتْ وَلَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ ذُبَابٍ مَّا أَعْطٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَيْئًا".

267 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "أُولٰئِكَ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ وَهِيَ وَشِيْكَةُ الْاِنْقِطَاعِ، وَإِنَّا قَوْمٌ أُخِّرَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِيْ آخِرَتِنَا".

268 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ".

269 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَّا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيْفَ إِنْ وَّجَدْتَّ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ".

270 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَّضْحِ النَّبْلِ".

271 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَّقْعِ النَّبْلِ".

272 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِّنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَّجُرُّهٗ، قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلدِّيْنُ".

273 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "بَشَّرَكَ اللهُ بِخَيْرٍ يَا

عُمَرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

274 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "اِقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عُمَرُ، فَإِنْ أَصَبْتَ بَيْنَهُمَا الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَّإِنِ اجْتَهَدْتَّ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ".

275 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "بَطَلٌ مُّؤْمِنٌ سَخِيٌّ تَقِيٌّ حِيَاطَةُ الدِّيْنِ وَمَلَكُ الْإِسْلَامِ وَنُوْرُ الْهُدٰى، وَمَنَارُ التُّقٰى، فَطُوْبٰى لِمَنِ اتَّبَعَكَ وَالْوَيْلُ لِمَنْ خَذَلَكَ".

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "مَهْ يَا عُمَرُ صَاحِبُ الدَّيْنِ لَهٗ مَقَالٌ".

277 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "مَهْلًا يَا عُمَرُ، فَكُلُّ بَاكِيَةٍ مُّكْثِرَةٌ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ مَّا قَالَتْ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ تَكْذِبْ".

278 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "أَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ إِنِّيْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، قَدْ قِيْلَ لِيْ: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ} . لَوْ أَعْلَمُ أَنِّيْ لَوْ زِدْتُّ عَلَى السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَهُمْ لَزِدْتُّ".

279 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "دَعْنَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا".

280 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "يَا عُمَرُ أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلٰى غَيْرِ هٰذَا تَأْمُرُنِيْ بِحُسْنِ الْأَدَاءِ وَتَأْمُرُهٗ بِحُسْنِ اتِّبَاعِهِ، اِذْهَبْ فَأَعْطِهٖ حَقَّهٗ وَزِدْهُ عِشْرِيْنَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ مَّكَانَ مَا رُعْتَهٗ".

281 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "دَعْنَا مِنْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".

282 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَّالْقَلْبُ مُصَابٌ وَّالْعَهْدُ قَرِيْبٌ".

283 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "دَعْهُ فَإِنْ يَّكُنِ الَّذِيْ تَخَافُهٗ فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ قَتْلَهٗ".

284 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْقَائِلِ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّيْ لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِيْ مِنْ أَظْفَارِيْ ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ، قَالُوْا : فَمَآ اَوَّلْتَهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَلْعِلْمُ "۔

285 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " بَيْنَآ اَنَا نَآئِمٌ رَّاَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَاِذَآ اَنَا بِامْرَاَةٍ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ۔ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا "۔

286 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَآ اَنَا بِقَصْرٍ مِّنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا : لِشَابٍّ مِّنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ اَنِّيْ هُوَ، قُلْتُ : وَ مَنْ هُوَ قَالُوْا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ۔ فَلَوْلَا مَا عَلِمْتُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَخَلْتُهٗ "۔

287 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " رَاَيْتُنِيْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَآ اَنَا بِالرُّمَيْصَآءِ امْرَاَةِ اَبِيْ طَلْحَةَ وَ سَمِعْتُ خَشْفًا اَمَامِيْ، فَقُلْتُ : مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ : هٰذَا بِلَالٌ۔ وَرَاَيْتُ قَصْرًا اَبْيَضَ بِفِنَآئِهٖ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوْا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَاَرَدْتُّ اَنْ اَدْخُلَهٗ فَاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ "۔

288 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِيْ اِلَى الْجَنَّةِ ! مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِيْ، اِنِّيْ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِيْ فَاَتَيْتُ عَلٰى قَصْرٍ مُّرَبَّعٍ مُّشَرَّفٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا : لِرَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ : اَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوْا : لِرَجُلٍ مِّنْ قُرَيْشٍ، فَقُلْتُ : اَنَا قُرَشِيٌّ، لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا : لِرَجُلٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ : اَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ بِلَالٌ : مَآ اَذَّنْتُ قَطُّ اِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَآ اَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ اِلَّا تَوَضَّأْتُ وَ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ بِهٰذَا "۔

289 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " بَيْنَآ اَنَا نَآئِمٌ رَّاَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ، فَاِذَآ اَنَا بِامْرَاَةٍ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَبَكٰى وَ قَالَ : عَلَيْكَ اَغَارُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ "۔

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " رَاَيْتُ فِي النَّوْمِ اَنِّيْ اُعْطِيْتُ عُسًّا مَّمْلُوْءًا لَّبَنًا فَشَرِبْتُ فَمُلِئْتُ مِنْهُ حَتّٰى رَاَيْتُهٗ يَجْرِيْ فِيْ عُرُوْقِيْ بَيْنَ اللَّحْمِ وَ الْجِلْدِ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَاَعْطَيْتُهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَاَوَّلُوْهَا قَالُوْا : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰذَا عِلْمٌ اَعْطَاكَهُ اللّٰهُ فَمُلِئْتَ مِنْهُ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَاَعْطَيْتَهَا عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ : اَصَبْتُمْ "۔

291 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : " اُتِيْتُ فِي الْمَنَامِ بِعُسٍّ مَّمْلُوْءٍ لَّبَنًا فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِمْتَلَاْتُ، فَرَاَيْتُهٗ يَجْرِيْ فِيْ عُرُوْقِيْ فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَاَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ فَبَشِّرْ بِهَا، اَوَّلُوا هٰذَا قَالُوْا : هٰذَا الْعِلْمُ، قَالَ : اَصَبْتُمْ"۔

292 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : "اِجْلِسْ حَتّٰى اُخْبِرُكَ بِغِنَى الرَّبِّ عَنْ صَلَاةِ اَبِيْ جَحْشٍ، اِنَّ لِلّٰهِ فِيْ سَمَآءِ الدُّنْيَا مَلَآئِكَةً خُشُوْعًا لَّا يَرْفَعُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، فَاِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ رَفَعُوْا رُؤُوْسَهُمْ ثُمَّ قَالُوْا : رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. وَاِنَّ لِلّٰهِ فِي السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ مَلَآئِكَةً سُجُوْدًا لَّا يَرْفَعُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، فَاِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ رَفَعُوْا رُؤُوْسَهُمْ ثُمَّ قَالُوْا : رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. وَ اِنَّ لِلّٰهِ فِي السَّمَآءِ الثَّالِثَةِ مَلَآئِكَةً رُّكُوْعًا لَّا يَرْفَعُوْنَ رُؤُسَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، فَاِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ وَ قَالُوْا : رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. قَالَ عُمَرُ : وَ مَا يَقُوْلُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : اَمَّا اَهْلُ السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُوْنَ : سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ. وَ اَمَّا اَهْلُ السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ فَيَقُوْلُوْنَ : سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوْتِ. وَ اَمَّا اَهْلُ السَّمَآءِ الثَّالِثَةِ فَيَقُوْلُوْنَ : سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ"۔

293 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : "يَا عُمَرُ اِرْجِعْ فَاِنَّ غَضَبَكَ عِزٌّ وَّ رِضَاكَ حُكْمٌ، اِنَّ لِلّٰهِ مَلَآئِكَةً فِي السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ يُصَلُّوْنَ لَهُ غَنِيٌّ عَنْ صَلَاةِ فُلَانٍ قَالَ عُمَرُ : مَا صَلَاتُهُمْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. فَاَتٰى جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ سَئَلَكَ عُمَرُ عَنْ صَلَاةِ اَهْلِ السَّمَآءِ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : اِقْرَأْ عَلٰى عُمَرَ السَّلَامَ وَ اَخْبِرْهُ اَنَّ اَهْلَ السَّمَآءِ الدُّنْيَا سُجُوْدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُوْنَ : سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ، وَ اَهْلُ السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ رُكُوْعٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُوْنَ : سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوْتِ، وَ اَهْلُ السَّمَآءِ الثَّالِثَةِ قِيَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُوْنَ : سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ"۔

294 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : "اَلَا اُخْبِرُكَ يَا عُمَرُ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ قَرَّ مَارِيَةَ وَ قَرِيْبَهَا مِمَّا وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ وَ بَشَّرَنِيْ اَنَّ فِيْ بَطْنِهَا غُلَامًا مِّنِّيْ وَ اَنَّهُ اَشْبَهُ الْخَلْقِ بِيْ، وَ اَمَرَنِيْ اَنْ اُسَمِّيَهُ اِبْرَاهِيْمَ وَ كَنَّانِيْ بِاَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ، فَلَوْلَا اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُحَوِّلَ كُنْيَتِي الَّتِيْ عُرِفْتُ بِهَا لَتَكَنَّيْتُ بِاَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ كَمَا كَنَّانِيْ جِبْرِيْلُ"۔

295 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : "يَا عُمَرُ اَكْرَهُ اَنْ يُّشَارِكَنِيْ فِيْ طُهُوْرِيْ اَحَدٌ"۔

296 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : "يَا عُمَرُ لَا تَعُدْ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ صَدَقَاتِكَ"۔

297 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : "يَا عُمَرُ اِنَّ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ صَوَابٌ مَّا لَمْ يُجْعَلْ عَذَابٌ مَّغْفِرَةً وَّ مَغْفِرَةٌ عَذَابًا"۔

298 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
اِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ اَنَّهٗ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ"۔

299 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَتَرَانِيْ قَدْ رَضِيْتُ
وَ تَاْبٰی"۔

300 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "يَا اُخَيَّ يَا عُمَرُ لَا
تَنْسَنَا مِنْ دُعَآئِكَ"۔

اَلْبَابُ الثَّالِثُ

فِيْمَا وَرَدَ فِيْ فَضْلِهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا

301 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ خَيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ خَيْرُ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ، وَ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ"۔

302 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ مِنِّيْ
بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ"۔

303 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ مِنْ
هٰذَا الدِّيْنِ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ"۔

304 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ
سَيِّدَا اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ"۔

305 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ مِنِّيْ
بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰی"۔

306 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ خَيْرُ
اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ، وَ خَيْرُ مَنْ بَقِيَ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ"۔

307 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ
سِرَاجَا اَهْلِ الْجَنَّةِ"۔

308 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اُحْشَرُ اَنَا وَ اَبُوْ بَكْرٍ
وَّ عُمَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا وَ نَحْنُ مُشْرِفُوْنَ عَلَی النَّاسِ، وَ اَخْرَجَ السَّبَّابَةَ وَ الْوُسْطٰی وَ الْبِنْصَرَ"۔

309 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَآئِلِ: "اُحْشَرُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بَيْنَ اَبِیْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ حَتّٰی اَقِفَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ فَيَاْتِيْنِیْ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَ اَهْلُ مَكَّةَ "۔

310 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " اِذَا عُدَّ الصَّالِحُوْنَ فَأْتِ بِاَبِیْ بَكْرٍ ، وَّ اِذَا عُدَّ الْمُجَاهِدُوْنَ فَأْتِ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عُمَرُ مَعِیْ حَيْثُ حَلَلْتُ وَ اَنَا مَعَ عُمَرَ حَيْثُ حَلَّ ، وَ مَنْ اَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَ مَنْ اَبْغَضَ عُمَرَ فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ "۔

311 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " اُتِيْتُ بِكِفَّةِ مِيْزَانٍ فَوُضِعْتُ فِيْهَا وَ جِیْءَ بِاُمَّتِیْ فَوُضِعَتْ فِی الْكِفَّةِ الْاُخْرٰی فَرَجَحْتُ بِاُمَّتِیْ ثُمَّ رُفِعْتُ فَجِیْءَ بِاَبِیْ بَكْرٍ فَوُضِعَ فِیْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ فَرَجَحَ بِاُمَّتِیْ ، ثُمَّ رُفِعَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ جِیْءَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوُضِعَ فِیْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ فَرَجَحَ بِاُمَّتِیْ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ اِلَی السَّمَآءِ وَ اَنَا اَنْظُرُ "۔

312 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " وُضِعْتُ فِیْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَ وُضِعَتِ الْاُمَّةُ فِی الْكِفَّةِ الْاُخْرٰی فَرَجَحْتُ بِهِمْ ثُمَّ وُضِعَ اَبُوْ بَكْرٍ مَّكَانِیْ فَرَجَحَ بِهِمْ ثُمَّ وُضِعَ عُمَرُ مَكَانَهٗ فَرَجَحَ بِهِمْ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ "۔

313 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " اَكْرِمُوْا اَبَا بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَهُمَا مِنْ فَاضِلِ تُرْبَتِیْ "۔

314 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " اَمَّا اَنْتَ يَا اَبَا بَكْرٍ فَاَخَذْتَ بِالْوُثْقٰی ، وَ اَمَّا اَنْتَ يَا عُمَرُ فَاَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ "۔ (وَ فِیْ رِوَايَةٍ اُخْرٰی) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِاَبِیْ بَكْرٍ " اَیَّ حِيْنٍ تُوْتِرُ " قَالَ : اَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَالَ : فَاَنْتَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ اٰخِرَ اللَّيْلِ "۔

315 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِیْ اَبِیْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَاِنَّهُمَا حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدُ وَ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی الَّتِیْ لَا انْفِصَامَ لَهَا "۔

316 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " مَرَرْتُ بِكَ يَا اَبَا بَكْرٍ وَّ اَنْتَ تُخَافِتُ بِقِرَآءَتِكَ قَالَ : اَجَلْ بِاَبِیْ اَنْتَ وَ اُمِّیْ ، اِنِّیْ اُسْمِعُ مَنْ اُنَاجِیْ ، قَالَ : اِرْفَعْ شَيْئًا ۔ قَالَ : وَ مَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَ اَنْتَ تَجْهَرُ بِقِرَآءَتِكَ ، قَالَ : اَجَلْ بِاَبِیْ اَنْتَ وَ اُمِّیْ ، اُسْمِعُ الرَّحْمٰنَ وَ اَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، وَ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ ، قَالَ : اِخْفِضْ شَيْئًا ، قَالَ : وَ مَرَرْتُ بِكَ يَا بِلَالُ وَ اَنْتَ تَقْرَاُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ ، قَالَ : بِاَبِیْ اَنْتَ وَ اُمِّیْ ، اَخْلِطُ الطَّيِّبَ بِالطَّيِّبِ ، قَالَ : اِقْرَاْ كُلَّ سُوْرَةٍ عَلٰى نَحْوِهَا "۔

317 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ : " اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِیْ مِنْ اَصْحَابِیْ اَبِیْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ ، وَ اهْتَدُوْا بِهَدْیِ عَمَّارٍ وَ تَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ "۔

318 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ م بَعْدِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ".

319 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "مَا قَدَّمْتُ اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ، وَلٰكِنَّ اللهُ قَدَّمَهُمَا". (وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى) "وَمَنَّ بِهِمَا عَلَيَّ فَاَطِيْعُوْهُمَا وَ اقْتَدُوْا بِهِمَا وَ مَنْ اَرَادَهُمَا بِسُوْءٍ فَاِنَّمَا يُرِيْدُنِيْ وَ الْاِسْلَامَ".

320 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْ مَشُوْرَةٍ مَّا خَالَفْتُكُمَا".

321 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "مَا وُلِدَ فِي الْاِسْلَامِ مَوْلُوْدٌ اَزْكٰى وَلَآ اَطْهَرُ وَلَآ اَفْضَلُ مِنْ اَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ".

322 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "مَنْ رَّاَيْتُمُوْهُ يَذْكُرُ اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ بِسُوْءٍ فَاقْتُلُوْهُ، فَاِنَّمَا يُرِيْدُنِيْ وَ الْاِسْلَامَ".

323 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "مَنْ رَّاَيْتُمُوْهُ يَذْكُرُ اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ بِسُوْءٍ فَاقْتُلُوْهُ".

324 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ".

325 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "لَا تَسُبُّوْا اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَاِنَّهُمَا سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَلَا تَسُبُّوا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَاِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، وَلَا تَسُبُّوْا عَلِيًّا فَاِنَّ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِيْ، وَمَنْ سَبَّنِيْ فَقَدْ سَبَّ اللهَ، وَمَنْ سَبَّ اللهَ عَذَّبَهُ اللهُ".

326 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ اَتُحِبُّ هٰذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ اَحِبَّهُمَا تَدْخُلِ الْجَنَّةَ".

327 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "سَيِّدُ كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ، وَاِنَّ اَبَابَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ مِثْلُ الثُّرَيَّا فِي السَّمَآءِ".

328 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰالْقَآئِلِ: "يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هٰذَا السُّوْرِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ اَبُوْ بَكْرٍ فَهَنَّاْنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هٰذَا السُّوْرِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا فَطَلَعَ عُمَرُ".

329 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُ".

330 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "خَيْرُ اُمَّتِيْ بَعْدِيْ اَبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُ".

331 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُ".

332 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ".

333 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "كَيْفَ بِهٰذَيْنِ وَهُمَا مِنَ الدِّيْنِ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ".

334 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ اِلَى الْآفَاقِ رِجَالًا يُّعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ كَمَا بَعَثَ عِيْسَى الْحَوَارِيِّيْنَ، قِيْلَ لَهُ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ قَالَ: اِنَّهُ لَا غِنٰى لِيْ عَنْهُمَا، اِنَّهُمَا مِنَ الدِّيْنِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ".

335 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ قَوْمًا فِي النَّاسِ مُعَلِّمِيْنَ يُعَلِّمُوْنَهُمُ السُّنَّةَ كَمَا بَعَثَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّيْنَ فِيْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ، قِيْلَ: وَاَيْنَ اَنْتَ مِنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ؟ قَالَ: اِنِّيْ لَا غِنٰى لِيْ عَنْهُمَا، اِنَّهُمَا مِنَ الدِّيْنِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ".

336 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالًا مِّنْ اَصْحَابِيْ اِلٰى مُلُوْكِ الْاَرْضِ يَدْعُوْنَهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ كَمَا بَعَثَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّيْنَ، قَالُوْا: اَلَا تَبْعَثُ اَبَابَكْرٍ وَّعُمَرَ فَهُمَا اَبْلَغُ قَالَ: لَا غِنٰى لِيْ عَنْهُمَا، اِنَّهُمَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنَ الدِّيْنِ كَمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الْجَسَدِ".

337 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَّسَالِمٍ مَّوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ، وَمِنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَّمِنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَهُمْ فِي الْاُمَمِ كَمَا بَعَثَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّيْنَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَفَلَا تَبْعَثُ اَبَا

بَکْرٍ وَّ عُمَرَ فَھُمَآ اَعْلَمُ وَ اَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : اِنِّیْ لَا غِنٰی لِیْ عَنْھُمَا ، اِنَّھُمَا مِنِّیْ بِمَنْزِلَۃِ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ بِمَنْزِلَۃِ الْعَیْنَیْنِ مِنَ الرَّأْسِ ''۔

338 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' ھٰکَذَا نَحْنُ نَحْیَا ، وَ ھٰکَذَا نَمُوْتُ ، وَ ھٰکَذَا نُبْعَثُ ، وَ ھٰکَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّۃَ ''۔

339 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اِنِّیْ لَاَرْجُوْ لِاُمَّتِیْ بِحُبِّ اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ ، کَمَآ اَرْجُوْ لَھُمْ بِقَوْلِ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ''۔

340 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اِنِّیْ لَاَرْجُوْ لِاُمَّتِیْ فِیْ حُبِّھِمْ لِاَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ مَآ اَرْجُوْ لَھُمْ فِیْ قَوْلِ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ''۔

341 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اُرِیْتُ حَمْزَۃَ وَ جَعْفَرًا وَّ کَانَ بَیْنَھُمَا طَبَقٌ فِیْہِ نَبِقٌ کَالزَّبَرْجَدِ ، فَاَکَلَا مِنْہُ نَبِقًا ثُمَّ صَارَ عِنَبًا فَاَکَلَا مِنْہُ نَبِقًا ثُمَّ صَارَ رُطَبًا فَاَکَلَا مِنْہُ ، فَقُلْتُ لَھُمْ : مَا وَجَدْتُّمَآ اَفْضَلَ الْاَعْمَالِ ؟ قَالَ : قَوْلُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا قَالَا : اَلصَّلَاۃُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَا : حُبُّ اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ ''۔

342 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اِنَّ الرَّجُلَ مِنْ اَھْلِ الْجَنَّۃِ لَیُشْرِفُ عَلٰی اَھْلِ الْجَنَّۃِ کَاَنَّہٗ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ ، وَّ اِنَّ اَبَا بَکْرٍ وَّ عُمَرَ مِنْھُمْ وَ اَنْعَمَا ''۔

343 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اِنَّ اَھْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی لَیَنْظُرُ اِلَیْھِمْ مَنْ ھُوَ اَسْفَلُ مِنْھُمْ کَمَا یَنْظُرُ اَحَدُکُمْ اِلَی الْکَوْکَبِ الدُّرِّیِّ الْغَابِرِ فِیْ اُفُقٍ مِّنْ آفَاقِ السَّمَآءِ ، وَ اِنَّ اَبَا بَکْرٍ وَّ عُمَرَ لَمِنْھُمْ وَ اَنْعَمَا ''۔

344 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اَلْغُرْفَۃُ مِنْ یَّاقُوْتَۃٍ حَمْرَآءَ اَوْ زَبَرْجَدَۃٍ خَضْرَآءَ ، اَوْ دُرَّۃٍ بَیْضَآءَ لَیْسَ فِیْھَا فَصْمٌ وَّ لَا وَصْمٌ ، وَّ اِنَّ اَھْلَ الْجَنَّۃِ یَتَرَآءَوْنَ الْغُرْفَۃَ مِنْھَا کَمَا تَتَرَآءَوْنَ الْکَوْکَبَ الدُّرِّیَّ الشَّرْقِیَّ اَوِ الْغَرْبِیَّ فِیْ اُفُقِ السَّمَآءِ ، وَ اِنَّ اَبَا بَکْرٍ وَّ عُمَرَ مِنْھُمْ وَ اَنْعَمَا ''۔

345 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اِنَّ اَھْلَ عِلِّیِّیْنَ لَیُشْرِفُ اَحَدُھُمْ عَلَی الْجَنَّۃِ فَیُضِیْءُ وَجْھُہٗ لِاَھْلِ الْجَنَّۃِ کَمَا یُضِیْءُ الْقَمَرُ لَیْلَۃَ الْبَدْرِ لِاَھْلِ الدُّنْیَا ، وَ اِنَّ اَبَا بَکْرٍ وَّ عُمَرَ مِنْھُمْ وَ اَنْعَمَا ''۔

346 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ : '' اِنَّ اَھْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی لَیَرَاھُمْ مَنْ ھُوَ اَسْفَلُ مِنْھُمْ کَمَا تَرَوْنَ الْکَوْکَبَ الطَّالِعَ فِیْ اُفُقِ السَّمَآءِ ، وَ اِنَّ اَبَا بَکْرٍ وَّ

عُمَرَ مِنْهُمْ وَ اَنْعَمَا".

347 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "اِنَّ اللهَ تَعَالٰى اَيَّدَنِيْ بِاَرْبَعَةِ وُزَرَآءَ اِثْنَيْنِ مِنْ اَهْلِ السَّمَآءِ : جِبْرِيْلَ، وَ مِيْكَآئِيْلَ، وَ اِثْنَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ : اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ".

348 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَّزِيْرَيْنِ، وَ وَزِيْرَايَ وَ صَاحِبَايَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ".

349 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "اِنَّ لِيْ وَزِيْرَيْنِ مِنْ اَهْلِ السَّمَآءِ وَ وَزِيْرَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ، فَوَزِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ السَّمَآءِ جِبْرِيْلُ وَ مِيْكَآئِيْلُ، وَ وَزِيْرَايَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ".

350 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ، ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ اٰتِيْ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِيْ ثُمَّ اَنْتَظِرُ اَهْلَ مَكَّةَ".

351 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ، ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ فَنُحْشَرُ فَنَذْهَبُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِيْ، ثُمَّ اَنْتَظِرُ اَهْلَ مَكَّةَ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِيْ وَ نُبْعَثُ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ".

352 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "حُبُّ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ سُنَّةٌ وَّ بُغْضُهُمَا كُفْرٌ، وَّ حُبُّ الْاَنْصَارِ اِيْمَانٌ، وَّ بُغْضُهُمْ كُفْرٌ".

353 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "حُبُّ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ اِيْمَانٌ وَّ بُغْضُهُمَا نِفَاقٌ".

354 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "سَابِقَانِ سَابِقَانِ، وَ اللهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّهُمَا، فَقَالَ عَلِيٌّ : وَ اللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُّ لَهُمَا حُبًّا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اَجَلْ اَحِبَّهُمَا فَاِنَّ حُبَّهُمَا اِيْمَانٌ وَّ بُغْضُهُمَا نِفَاقٌ".

355 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "حُبُّ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ سُنَّةٌ وَّ بُغْضُهُمَا كُفْرٌ، وَّ حُبُّ الْاَنْصَارِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَ بُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَ حُبُّ الْعَرَبِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَ بُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَّ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ مَنْ حَفِظَنِيْ فِيْهِمْ فَاِنِّيْ اَحْفَظُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

356 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "وَ اللهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكُمَا لِحُبِّ اللهِ اِيَّاكُمَا، اِنَّ الْمَلَآئِكَةَ لَتُحِبُّكُمَا لِحُبِّ اللهِ اِيَّاكُمَا، اَحَبَّ اللهُ مَنْ اَحَبَّكُمَا، وَ صَلَ اللهُ مَنْ وَّصَلَكُمَا،

قطعَ اللهُ مَنْ قطعَکُما، اَبغَضَ اللهُ مَنْ اَبغَضَکُما فِیْ دُنْیَا کُما وَ آخِرَتِکُما "۔

357 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَا مِنْ نَّبِیٍ اِلَّا وَلَہٗ وَزِیْرَانِ مِنْ اَھْلِ السَّمَآءِ وَ وَزِیْرَانِ مِنْ اَھْلِ الْاَرْضِ، فَاَمَّا وَزِیْرَایَ مِنْ اَھْلِ السَّمَآءِ فَجِبْرِیْلُ وَ مِیْکَآئِیْلُ، وَ اَمَّا وَزِیْرَایَ مِنْ اَھْلِ الْاَرْضِ فَاَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ "۔

358 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا یُبْغِضُ اَبَا بَکْرٍ وَّ عُمَرَ مُؤْمِنٌ، وَّلَا یُحِبُّھُمَا مُنَافِقٌ "۔

359 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا یُحِبُّ اَبَا بَکْرٍ وَّ عُمَرَ اِلَّا مُؤْمِنٌ، وَّلَا یُبْغِضُھُمَا اِلَّا مُنَافِقٌ "۔

360 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا یُبْغِضُ الْاَنْصَارَ اِلَّا مُنَافِقٌ، وَّمَنْ اَبْغَضَنَا اَھْلَ الْبَیْتِ فَھُوَ مُنَافِقٌ، وَّمَنْ اَبْغَضَ اَبَا بَکْرٍ وَّ عُمَرَ فَھُوَ مُنَافِقٌ "۔

361 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ لِکُلِّ نَبِیٍّ خَاصَّۃً مِّنْ اَصْحَابِہٖ، وَاِنَّ خَاصَّتِیْ مِنْ اَصْحَابِیْ اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ "۔

362 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "خُلِقْتُ اَنَا وَ اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ مِنْ طِیْنَۃٍ وَّاحِدَۃٍ "۔

363 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلْخَلِیْفَۃُ مِنْ م بَعْدِیْ اَبُوْ بَکْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ یَقَعُ الْاِخْتِلَافُ "۔

364 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَئِمَّۃُ الْخِلَافَۃِ مِنْ م بَعْدِیْ اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ "۔

365 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَیَّدَنِیْ بِکُمَا "۔

366 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلْیَوْمُ الرِّھَانُ، وَ غَدًا نِ السِّبَاقُ، وَ الْغَایَۃُ الْجَنَّۃُ، وَ الْھَالِکُ مَنْ دَخَلَ النَّارَ. اَنَا الْاَوَّلُ وَ اَبُوْ بَکْرٍ نِ الثَّانِیْ، وَ عُمَرُ الثَّالِثُ، وَ النَّاسُ بَعْدُ عَلَی السَّبْقِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ "۔

367 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنْ صَدَقَتْ رُؤْیَاکِ دُفِنَ فِیْ بَیْتِکِ اَفْضَلُ اَھْلِ الْجَنَّۃِ "۔

368 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَمَّا أُسْرِيَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ: تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ، فَوَ اللهِ مَا نَالَ هٰذِهِ الْكَرَامَةَ مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ وَّلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ، فَوَحٰى إِلَيَّ رَبِّيْ شَيْئًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ نَادَانِيْ مُنَادٍ مِّنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ: نِعْمَ الْأَبُ أَبُوْكَ إِبْرَاهِيْمُ، وَ نِعْمَ الْأَخُ أَخُوْكَ عَلِيٌّ فَاسْتَوْصِ بِهٖ خَيْرًا، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ أُخْبِرُ قُرَيْشًا إِنِّيْ زُرْتُ رَبِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: تُكَذِّبُنِيْ قُرَيْشٌ، قَالَ: كَلَّا فِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَّ هُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَ اللهِ الصِّدِّيْقُ وَ هُوَ يُصَدِّقُكَ، يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ عُمَرَ مِنِّي السَّلَامَ".

369 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ رَّاكِبٌ عَلٰى بَقَرَةٍ فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّيْ لَمْ أُخْلَقْ لِهٰذَا، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَأَنَا أُؤْمِنُ بِهٰذَا وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ. وَ بَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِهٖ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ حَتّٰى إِسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هٰذَا إِسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّيْ فَمَنْ لَّهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ، فَإِنِّيْ أُؤْمِنُ بِهٰذَا وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ".

370 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَثَلُ أَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ مَثَلُ نُوْحٍ وَّ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْأَنْبِيَاءِ أَحَدُهُمَا أَشَدُّ فِي اللهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَ هُوَ مُصِيْبٌ وَّ الْآخَرُ أَلْيَنُ فِي اللهِ وَ هُوَ مُصِيْبٌ".

371 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَشُدُّ قُلُوْبَ رِجَالٍ فِيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّيْنِ، وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَشُدُّ قُلُوْبَ رِجَالٍ فِيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَ إِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: {فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهٗ مِنِّيْ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ} وَ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيْسٰى قَالَ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ} وَ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوْحٍ قَالَ: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا} وَ إِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوْسٰى قَالَ: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى أَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ} أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ".

372 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ مَثَلَ هٰؤُلَاءِ كَمَثَلِ إِخْوَةٍ لَّهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ، قَالَ نُوْحٌ: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا} وَ قَالَ مُوْسٰى: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى أَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ} وَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: {فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهٗ مِنِّيْ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ} وَ قَالَ عِيْسٰى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ} وَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ لَّكُمْ عَيْلَةٌ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ بِضَرْبَةِ عُنُقٍ".

373 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "أَلَا أُخْبِرُكُمَا

بِمَثَلِكُمَا فِي الْمَلَائِكَةِ وَ مَثَلِكُمَا فِي الْاَنْبِيَآءِ مَثَلُكَ يَا اَبَا بَكْرٍ فِي الْمَلَائِكَةِ كَمَثَلِ مِيكَائِيلَ يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ، وَ مَثَلُكَ فِي الْاَنْبِيَآءِ كَمَثَلِ اِبْرَاهِيمَ اِذْ كَذَّبَهٗ قَوْمُهٗ وَ صَنَعُوا بِهٖ مَا صَنَعُوا، قَالَ: {فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ} وَ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ فِي الْمَلَائِكَةِ كَمَثَلِ جِبْرِيلَ يَنْزِلُ بِالشِّدَّةِ وَ الْبَأْسِ وَ النِّقْمَةِ عَلٰى اَعْدَآءِ اللهِ، وَ مَثَلُكَ فِي الْاَنْبِيَآءِ كَمَثَلِ نُوْحٍ اِذْ قَالَ: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا}۔

374 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "فِي السَّمَآءِ مَلَكَانِ اَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ وَ الْاٰخَرُ يَأْمُرُ بِاللِّيْنِ، وَ كِلَاهُمَا مُصِيْبٌ، اَحَدُهُمَا جِبْرِيْلُ وَ الْاٰخَرُ مِيْكَائِيْلُ، وَ نَبِيَّانِ اَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللِّيْنِ وَ الْاٰخَرُ يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ وَ كُلٌّ مُّصِيْبٌ اِبْرَاهِيْمُ وَ نُوْحٌ، وَّ لِيْ صَاحِبَانِ اَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللِّيْنِ وَ الْاٰخَرُ يَأْمُرُ بِالشِّدَّةِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ"۔

375 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَنْ تَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا السُّنَّةُ؟ قَالَ: حُبُّ اَبِيْكِ وَ صَاحِبِهٖ"۔

376 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ بَكْرٍ، نِّعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنُ شَمَّاسٍ، نِّعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَآءَ"۔

377 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "نِعْمَ عَبْدُ اللهِ اَبُوْ بَكْرٍ، نِّعْمَ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ، نِعْمَ عَبْدُ اللهِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ، نِعْمَ عَبْدُ اللهِ مُعَاذُ، نِعْمَ عَبْدُ اللهِ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، نِّعْمَ عَبْدُ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ"۔

378 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "لَا يَتَاَمَّرُ عَلَيْكُمَا بَعْدِيْ اَحَدٌ"۔

379 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "بَيْنَآ اَنَا نَائِمٌ رَّاَيْتُنِيْ عَلٰى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَآءَ اللهُ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَ فِيْ نَزْعِهٖ ضَعْفٌ، وَ اللهُ يَغْفِرُ لَهٗ ضَعْفَهٗ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ"۔

380 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "بَيْنَا اَنَا عَلٰى بِئْرٍ اَنْزِعُ مِنْهَآ اِذَا جَآءَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَ فِيْ نَزْعِهٖ ضَعْفٌ يَّغْفِرُ اللهُ لَهٗ، ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ

يَدِ اَبِیْ بَکْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِیْ یَدِہٖ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِیًّا مِّنَ النَّاسِ یَفْرِیْ فَرِیَّہٗ حَتّٰی ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "۔

381 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " بَیْنَا اَنَا نَآئِمٌ رَّاَیْتُ اَنِّیْ اَنْزِعُ عَلٰی حَوْضٍ اَسْقِی النَّاسَ، فَاَتٰی اَبُوْ بَکْرٍ فَاَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ یَّدِیْ لِیُرَوِّحَنِیْ فَنَزَعَ ذَنُوْبَیْنِ وَ فِیْ نَزْعِہٖ ضَعْفٌ وَّ اللّٰہُ یَغْفِرُ لَہٗ، فَاَتَی ابْنُ الْخَطَّابِ فَاَخَذَھَا حَتّٰی تَوَلَّی النَّاسُ وَ الْحَوْضُ یَتَفَجَّرُ "۔

382 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " رَاَیْتُ فِی الْمَنَامِ اَنِّیْ اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَکْرَۃٍ عَلٰی قَلِیْبٍ فَجَآءَ اَبُوْ بَکْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَیْنِ وَ فِیْ بَعْضِ نَزْعِہٖ ضَعْفٌ وَّ اللّٰہُ یَغْفِرُ لَہٗ، ثُمَّ اَخَذَھَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِیَدِہٖ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِیًّا فِی النَّاسِ یَفْرِیْ فَرِیَّہٗ حَتّٰی ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "۔

383 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " رَاَیْتُ فِیْمَا یَرَی النَّآئِمُ کَاَنِّیْ اَنْزِعُ حَوْضًا وَّرَدَتْ عَلَیَّ غَنَمٌ سُوْدٌ وَّ غَنَمٌ عُفْرٌ، فَجَآءَ اَبُوْ بَکْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَیْنِ وَ فِیْھِمَا ضَعْفٌ وَّ اللّٰہُ یَغْفِرُ لَہٗ، ثُمَّ جَآءَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَلَاَ الْحَوْضَ وَ اَرْوَی الْوَارِدَۃَ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِیًّا اَحْسَنَ نَزْعًا مِّنْ عُمَرَ، فَاَوَّلْتُ اَنَّ السُّوْدَ الْعَرَبُ وَ اَنَّ الْعُفْرَ الْعَجَمُ "۔

384 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " یَآ اَبَا بَکْرٍ اِنِّیْ رَاَیْتُنِی الْبَارِحَۃَ عَلٰی قَلِیْبٍ اَنْزِعُ فَجِئْتَ اَنْتَ فَنَزَعْتَ وَ اَنْتَ ضَعِیْفٌ وَّ اللّٰہُ یَغْفِرُ لَکَ، ثُمَّ جَآءَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا وَّ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "۔

385 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " یَا عُمَرُ اَوْتَرْتَ قَوْسَکَ بِغَیْرِ وَتَرٍ مَّا بَیْنَ صَدَقَتَیْکُمَا کَمَا بَیْنَ کَلِمَتَیْکُمَا "۔

386 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " اَتَانِیْ جِبْرِیْلُ اٰنِفًا فَقُلْتُ : حَدِّثْنِیْ بِفَضَآئِلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ : لَوْ حَدَّثْتُکَ بِفَضَآئِلِ عُمَرَ مُنْذُ لَبِثَ نُوْحٌ فِیْ قَوْمِہٖ مَا نَفِدَتْ فَضَآئِلُ عُمَرَ، وَاِنَّ عُمَرَ حَسَنَۃٌ مِّنْ حَسَنَاتِ اَبِیْ بَکْرٍ "۔

387 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " اِنَّکُمَا دَخَلْتُمَا عَلَیَّ فَلَمَّا خَرَجْتُمَا مِنْ عِنْدِیْ نَزَلَ الْمَلَکَانِ، فَجَلَسَ اَحَدُھُمَا عِنْدَ رَاْسِیْ وَ الْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَیَّ، فَقَالَ الَّذِیْ عِنْدَ رِجْلَیَّ : مَا بِہٖ ؟ قَالَ الَّذِیْ عِنْدَ رَاْسِیْ : حُمّٰی شَدِیْدَۃٌ، قَالَ الَّذِیْ عِنْدَ رِجْلَیَّ : عَوِّذْہُ، فَقَالَ : بِسْمِ اللّٰہِ اَرْقِیْکَ وَ اللّٰہُ یَشْفِیْکَ مِنْ کُلِّ دَآءٍ یُّؤْذِیْکَ وَ مِنْ کُلِّ نَفْسٍ حَاسِدَۃٍ وَّ طَرْفَۃِ عَیْنٍ وَّ اللّٰہُ یَشْفِیْکَ خُذْھَا فَلْتَھْنِیْکَ، فَمَا نَفَثَ وَلَا نَفَخَ وَ کُشِفَ مَا بِیْ، فَاَرْسَلْتُ اِلَیْکُمَا لِاُخْبِرَکُمَا "۔

388 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " اَلَّذِیْ کَانَ یَخْرُجُ عَلٰی اَصْحَابِہٖ مِنَ الْمُھَاجِرِیْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ ھُمْ جُلُوْسٌ فِیْھِمْ اَبُوْ بَکْرٍ وَّ عُمَرُ، فَلَا یَرْفَعُ اِلَیْہِ اَحَدٌ مِّنْھُمْ بَصَرَہٗ

إِلَّا أَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا "۔

اَلْبَابُ الرَّابِعُ

فِيمَا وَرَدَ فِي فَضْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَاصَّةً

389 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْ عُثْمَانَ "۔

390 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ قَدْ رَضِيتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ، ثَلَاثًا "۔

391 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ يَتَرَضَّاكَ فَارْضَ عَنْهُ "۔

392 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ يُرِيدُ رِضَايَ فَارْضَ عَنْهُ "۔

393 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ جَوِّزْهُ عَلَى الصِّرَاطِ "۔

394 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُثْمَانَ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَمَا أَخْفٰى وَمَا أَعْلَنَ وَمَا أَسَرَّ وَمَا أَجْهَرَ "۔

395 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ لَا تَنْسَ لِعُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا "۔

396 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ "۔

397 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "إِنَّ عُثْمَانَ لَيَتَحَوَّلُ مِنْ مَّنْزِلٍ إِلٰى مَنْزِلٍ فَتَبْرُقُ لَهُ الْجَنَّةُ "۔

398 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "إِنَّ عُثْمَانَ شَبِيهُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْهُ "۔

399 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "إِنَّا نُشَبِّهُ عُثْمَانَ

بِأَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ".

400 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَّفِيْقًا فِي الْجَنَّةِ، وَ رَفِيْقِيْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ".

401 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَّفِيْقًا، وَّإِنَّ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ".

402 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ رَّفِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ، وَ رَفِيْقِيْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ".

403 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيْلٌ فِيْ أُمَّتِهِ وَإِنَّ خَلِيْلِيْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ".

404 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "عُثْمَانُ رَفِيْقِيْ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ".

405 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "قَدْ عَانَقْتُ أَخِيْ عُثْمَانَ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَخٌ فَلْيُعَانِقْهُ".

406 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا قَدَّمْتَ وَمَا أَخَّرْتَ، وَمَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ، وَمَا أَخْفَيْتَ وَمَا أَبْدَيْتَ، وَمَا كَانَ مِنْكَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

407 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَوَلِيِّيْ فِي الْآخِرَةِ".

408 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ أَشَدَّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا حَيَاءً عُثْمَانُ".

409 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "عُثْمَانُ أَحْيَا أُمَّتِيْ وَ أَكْرَمُهَا".

410 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ عُثْمَانَ حَيِيٌّ سَتِّيْرٌ تَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ".

411 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَرَّ بِيْ عُثْمَانُ وَ

عِنْدِیْ جِیْلٌ مِّنَ الْمَلَائِکَۃِ، فَقَالُوْا : شَہِیْدٌ مِّنَ الْاُمِّیِّیْنَ یَقْتُلُہٗ قَوْمُہٗ، اِنَّا نَسْتَحْیِیْ مِنْہُ"۔

412 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَیِیٌّ"۔

413 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اَشَدُّ اُمَّتِیْ حَیَآءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ"۔

414 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اَلْحَیَآءُ مِنَ الْاِیْمَانِ، وَ اَحْیَا اُمَّتِیْ عُثْمَانُ"۔

415 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اِنِّیْ لَاَسْتَحْیِیْ مِمَّنِ اسْتَحْیَتْ مِنْہُ الْمَلَآئِکَۃُ"۔

416 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اَلَا اَسْتَحْیِیْ مِنْ رَّجُلٍ تَسْتَحْیِیْ مِنَ الْمَلَآئِکَۃِ"۔

417 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "یَا عَآئِشَۃُ اَلَا اَسْتَحْیِیْ مِمَّنْ تَسْتَحْیِیْ مِنْہُ الْمَلَآئِکَۃُ، اِنَّ الْمَلَآئِکَۃَ تَسْتَحْیِیْ مِنْ عُثْمَانَ"۔

418 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "یَا عَآئِشَۃُ اَلَا اَسْتَحْیِیْ مِمَّنْ تَسْتَحْیِیْ مِنْہُ الْمَلَآئِکَۃُ، وَ الَّذِیْ نَفْسُ رَسُوْلِ اللّٰہِ بِیَدِہٖ اِنَّ الْمَلَآئِکَۃَ لَتَسْتَحْیِیْ مِنْ عُثْمَانَ کَمَا تَسْتَحْیِیْ مِنَ اللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ، وَلَوْ دَخَلَ وَ اَنْتِ قَرِیْبٌ مِّنِّیْ لَمْ یَتَحَدَّثْ وَلَمْ یَرْفَعْ رَاْسَہٗ حَتّٰی یَخْرُجَ"۔

419 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "عُثْمَانُ حَیِیٌّ تَسْتَحْیِیْ مِنْہُ الْمَلَآئِکَۃُ"۔

420 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "لَقَدْ جَاوَرَنِیْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِیْ طَبَقٍ اَرْبَعِیْنَ صَبَاحًا وَّ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَۃً فَمَا سَمِعْتُ لَہٗ خَضْخَضَۃَ مَآءٍ، فَنِعْمَ الْجَارُ عُثْمَانُ"۔

421 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اَلَا اَسْتَحْیِیْ مِنْ رَّجُلٍ تَسْتَحْیِیْ مِنَ الْمَلَآئِکَۃِ، وَ الَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِہٖ اِنَّ الْمَلَآئِکَۃَ لَتَسْتَحْیِیْ مِنْ عُثْمَانَ کَمَا تَسْتَحْیِیْ مِنَ اللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ"۔

422 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اَتَانِیْ جِبْرِیْلُ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰہَ یَأْمُرُکَ اَنْ تُزَوِّجَ عُثْمَانَ اُمَّ کُلْثُوْمٍ عَلٰی مِثْلِ صَدَاقِ رُقَیَّۃَ وَ عَلٰی مِثْلِ صُحْبَتِہَا"۔

423 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "اَكْرِمِيْهِ فَاِنَّهُ اَشْبَهُ اَصْحَابِيْ بِيْ خُلُقًا"۔

424 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "اِنَّ اللهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ اُزَوِّجَ كَرِيْمَتِيْ مِنْ عُثْمَانَ"۔

425 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "اَوْحَى اللهُ اِلَيَّ اَنْ زَوِّجِ ابْنَتَكَ مِنْ عُثْمَانَ"۔

426 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "يَا بُنَيَّةُ كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ، اَمَّا اِنَّهُ اَشْبَهُ النَّاسِ بِجَدِّكِ اِبْرَاهِيْمَ وَ اَبِيْكِ مُحَمَّدٍ"۔

427 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "يَا بُنَيَّةُ اَحْسِنِيْ اِلٰى اَبِيْ عَبْدِ اللهِ، فَاِنَّهُ اَشْبَهُ اَصْحَابِيْ بِيْ خُلُقًا"۔

428 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "يَا عُثْمَانُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُخْبِرُنِيْ اَنَّ اللهَ قَدْ زَوَّجَكَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ وَ عَلٰى مِثْلِ صُحْبَتِهَا"۔

429 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "يَا عُثْمَانُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَأْمُرُنِيْ عَنِ اللهِ اَنْ اُزَوِّجَكَ اُخْتَهَا اُمَّ كُلْثُوْمٍ عَلٰى مِثْلِ صَدَاقِهَا وَ عَلٰى مِثْلِ عِشْرَتِهَا"۔

430 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "كَيْفَ تَجِدِيْنَ اَبَا عَبْدِ اللهِ، اَكْرِمِيْهِ فَاِنَّهُ مِنْ اَشْبَهِ اَصْحَابِيْ بِيْ خُلُقًا"۔

431 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "مَا زَوَّجْتُ عُثْمَانَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ اِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَآءِ"۔

432 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "صَحِبَهُمَا اللهُ اِنَّ عُثْمَانَ لَاَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ اِلَى اللهِ تَعَالٰى بَعْدَ لُوْطٍ"۔

433 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "زَعَمَتْ اَسْمَآءُ اَنَّ عُثْمَانَ وَ رُقَيَّةَ قَدْ سَارَا وَ ذَهَبَا، وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اَنَّهُ لَاَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ اِبْرَاهِيْمَ وَ لُوْطٍ"۔

434 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "مَا كَانَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَ رُقَيَّةَ وَ بَيْنَ لُوْطٍ مِّنْ مُهَاجِرٍ"۔

435 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَائِلِ : "اِنَّ عُثْمَانَ لَاَوَّلُ مَنْ

هَاجَرَ إِلَى اللهِ بِأَهْلِهٖ بَعْدَ لُوْطٍ"۔

436 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "أَزَمَعْتَ بِذَاكَ يَا عُثْمَانُ فَلْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ بِالْحَبَشَةِ - يَعْنِي النَّجَاشِيَّ - فَإِنَّهٗ ذُوْ وَفَاءٍ وَّاحْمِلْ مَعَكَ رُقَيَّةَ لَا تُخَلِّفْهَا وَمَنْ رَأٰى مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلَ رَأْيِكَ فَلْيَتَوَجَّهُوْا هُنَاكَ وَلْيَحْمِلُوْا مَعَهُمْ نِسَآءَهُمْ وَلَا يُخَلِّفُوْهُمْ"۔

437 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "أُزَوِّجُكَ خَيْرًا مِّنْ بِنْتِ عُمَرَ وَتَتَزَوَّجُ ابْنَةُ عُمَرَ خَيْرًا مِّنْكَ"۔

438 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "قَدْ زَوَّجَ اللهُ عُثْمَانَ خَيْرًا مِّنِ ابْنَتِكَ، وَزَوَّجَ ابْنَتَكَ خَيْرًا مِّنْ عُثْمَانَ"۔

439 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "لَا تَبْكِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ أَنَّ عِنْدِيْ مِائَةً تَمُوْتُ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ زَوَّجْتُكَ أُخْرٰى حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الْمِائَةِ شَيْءٌ، هٰذَا جِبْرِيْلُ أَخْبَرَنِيْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتَهَا وَأَجْعَلَ صَدَاقَهَا مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا"۔

440 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللهَ لَعَلَّهٗ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَإِنْ أَرَادُوْكَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ، ثَلَاثًا"۔

441 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتّٰى تَلْقَانِيْ"۔

442 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: إِنَّ اللهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا يُّرِيْدُكَ النَّاسُ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ، فَإِنْ أَنْتَ خَلَعْتَهٗ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"۔

443 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللهَ كَسَاكَ قَمِيْصًا يُّرِيْدُكَ النَّاسُ عَلٰى خَلْعِهٖ، فَلَا تَخْلَعْهُ، فَوَاللهِ إِنْ خَلَعْتَهٗ فَلَا تَرَى الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ"۔

444 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّ اللهَ مُلْبِسُكَ قَمِيْصًا تُرِيْدُكَ أُمَّتِيْ عَلٰى خَلْعِهٖ، فَلَا تَخْلَعْهُ"۔

445 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ سَتُوَلَّى الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِيْ وَسَيُرِيْدُكَ الْمُنَافِقُوْنَ عَلٰى خَلْعِهَا فَلَا تَخْلَعْهَا وَصُمْ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَأَفْطِرْ عِنْدِيْ"۔

446 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَّ اِخْتِلَافٌ، قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَمِيْرِ وَ اَصْحَابِهٖ".

447 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ فِتْنَةٌ وَّ اِخْتِلَافٌ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْاَمِيْرِ وَ اَصْحَابِهٖ".

448 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "سَيُقْتَلُ اَمِيْرِيْ وَ يُنْزٰى عَلٰى مِنْبَرِيْ".

449 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ لِلّٰهِ سَيْفًا مَغْمُوْدًا فِيْ غِمْدِهٖ مَا دَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَيًّا، فَاِذَا قُتِلَ جُرِّدَ ذٰلِكَ السَّيْفُ فَلَمْ يُغْمَدْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

450 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَنَا خَصِيْمُ عُثْمَانَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ".

451 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى خَتَنٍ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ عُثْمَانَ، وَ اَدُلُّ عُثْمَانَ عَلٰى خَتَنٍ هُوَ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْكَ".

452 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلَا اَبُوْ اَيِّمٍ، اَلَا اَخُوْ اَيِّمٍ، اَلَا وَلِيُّ اَيِّمٍ، يُزَوِّجُ عُثْمَانَ، فَاِنِّيْ قَدْ زَوَّجْتُهٗ اِبْنَتَيَّ فَمَاتَتَا، لَوْ كَانَ عِنْدِيْ ثَالِثَةٌ لَّزَوَّجْتُهٗ وَ مَا زَوَّجْتُهٗ اِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ".

453 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلَا اَبُوْ اَيِّمٍ صَالِحٍ، اَوْ اَخُوْهَا، يُزَوِّجُهَا مِنْ عُثْمَانَ فَلَوْ كَانَ عِنْدِيْ ثَالِثَةٌ زَوَّجْتُهٗ اِيَّاهَا".

454 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلَا اَبُوْ اَيِّمٍ، اَلَا اَخُوْ اَيِّمٍ يُزَوِّجُهَا عُثْمَانَ، وَلَوْ كُنَّ عَشْرًا لَّزَوَّجْتُهُنَّ عُثْمَانَ وَ مَا زَوَّجْتُهٗ اِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ".

455 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "زَوِّجُوْا عُثْمَانَ، لَوْ كَانَ لِيْ ثَالِثَةٌ لَّزَوَّجْتُهٗ اِيَّاهَا، وَ مَا زَوَّجْتُهٗ اِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ اللهِ".

456 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلسَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ غُصْنٌ مِّنْ اَغْصَانِهَا، وَ اللُّؤْمُ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ وَ اَبُوْ جَهْلٍ غُصْنٌ مِّنْ اَغْصَانِهَا".

457 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا اَبَدًا".

458 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "مَا عَلٰى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ"۔

459 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "وَ اللّٰهِ لَيُشَفَّعَنَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا مِّنْ اُمَّتِيْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ حَتّٰى يُدْخِلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ"۔

460 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اَنَا بِقَصْرٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ دُرٍّ وَّ يَاقُوْتٍ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا قَالُوْا : لِلْخَلِيْفَةِ مِنْ بَعْدِكَ الْمَقْتُوْلِ ظُلْمًا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ"۔

461 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "بَيْنَآ اَنَا جَالِسٌ اِذْ جَآءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَحَمَلَنِيْ فَاَدْخَلَنِيْ جَنَّةَ رَبِّيْ، وَ بَيْنَآ اَنَا جَالِسٌ اِذْ جُعِلَتْ فِيْ يَدِيْ تُفَّاحَةٌ فَانْفَلَقَتِ التُّفَّاحَةُ نِصْفَيْنِ فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِيَةٌ لَّمْ اَرَ جَارِيَةً اَحْسَنَ مِنْهَا حُسْنًا وَّلَآ اَجْمَلَ مِنْهَا جَمَالاً، تُسَبِّحُ تَسْبِيْحًا لَّمْ يَسْمَعِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ بِمِثْلِهٖ، فَقُلْتُ : مَنْ اَنْتِ يَا جَارِيَةُ ؟ فَقَالَتْ : اَنَا مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، خَلَقَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ نُّوْرِ عَرْشِهٖ، فَقُلْتُ : لِمَنْ اَنْتِ ؟ فَقَالَتْ اَنَا لِلْخَلِيْفَةِ الْمَظْلُوْمِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ"۔

462 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "اِلَى الْاَمِيْنِ وَ حِزْبِهٖ وَ اَشَارَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ"۔

463 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "تُفْتَحُ عَلَى الْاَرْضِ فِتَنٌ كَصَيَاصِي الْبَقَرِ هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ"۔ يَعْنِيْ عُثْمَانَ۔

464 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "ذٰلِكَ امْرُؤٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ"۔

465 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "اِجْمَعْ عِطْفَيْ رِدَآئِكَ يَا عُثْمَانُ"۔

466 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "يَا عُثْمَانُ اِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا"۔

467 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "يَا عُثْمَانُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيْفِيَّةَ السَّمْحَةَ وَ التَّكْبِيْرَ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ، فَاِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ"۔

468 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ‎ِ الْقَآئِلِ : "يَا عُثْمَانُ اِنَّ

الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، اَمَا لَكَ فِيَّ اُسْوَةٌ، فَوَ اللهِ اِنَّ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَ اَحْفَظَكُمْ لِحُدُوْدِهٖ لَاَنَا".

469 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عُثْمَانُ اَمَا لَكَ فِيَّ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَ تَصُوْمُ النَّهَارَ، اِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا".

470 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عُثْمَانُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِيْ، فَاِنِّيْ اَنَامُ وَ اُصَلِّيْ وَ اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اَنْكِحُ النِّسَآءَ، فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ، فَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَّ اِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَّ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَ اَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ نَمْ".

471 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "هَبَطَ مَلَكَانِ لَمْ يَهْبِطَا مُنْذُ كَانَتِ الْاَرْضُ عَلَيَّ فَبَشَّرَانِيْ اَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُلْتُ: اَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا وَ عُثْمَانُ شَبِيْهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ".

472 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِيْ عَدَدَ رَبِيْعَةَ وَ مُضَرَ، قِيْلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ".

473 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

474 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ".

475 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَوْ مَكَثَ عُثْمَانُ كَذَا وَ كَذَا مَا طَافَ حَتّٰى اَطُوْفَ".

476 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عُثْمَانُ اِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِيْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ، وَ اِنَّ خَيْرَ الدِّيْنِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ".

477 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَوْمَ يَمُوْتُ عُثْمَانُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَلَآئِكَةُ السَّمَآءِ".

478 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّهٗ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ فَاَبْغَضَهُ اللهُ".

479 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَّ سَهْمَهٗ".

480 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " كَيْفَ اَنْتَ يَا عُثْمَانُ اِذَا لَقِيْتَنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اَوْدَاجُكَ تَشْخُبُ دَمًا فَاَقُوْلُ : مَنْ فَعَلَ بِكَ هٰذَا فَتَقُوْلُ : بَيْنَ خَاذِلٍ وَّ قَاتِلٍ وَّ اٰمِرٍ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ يُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ : اِنَّ عُثْمَانَ قَدْ حُكِّمَ فِيْ اَصْحَابِهٖ ".

481 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " يَا عُثْمَانُ اُوْمِنْ بِمَا نُؤْمِنُ بِهٖ فَاُسْوَةٌ مَّا لَكَ بِنَا ".

482 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ يَا عُمَرُ وَ فِيْ مَالِكَ وَّ غَفَرَ لَكَ وَ رَحِمَكَ وَ جَعَلَ ثَوَابَكَ الْجَنَّةَ ".

483 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " يَا عُثْمَانُ مَا سَئَلَنِيْ عَنْهَا اَحَدٌ قَبْلَكَ تَفْسِيْرُهَا : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ وَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ وَ الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، يَا عُثْمَانُ مَنْ قَالَهَا اِذَا اَصْبَحَ وَ اِذَا اَمْسٰى عَشَرَ مَرَّاتٍ اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى سِتَّ خِصَالٍ : اَمَّا اَوَّلُهُنَّ فَيُحْرَسُ مِنْ اِبْلِيْسَ وَ جُنُوْدِهٖ ، وَ اَمَّا الثَّانِيَةُ : فَيُعْطٰى قِنْطَارًا مِّنَ الْاَجْرِ ، وَ اَمَّا الثَّالِثَةُ : فَتُرْفَعُ لَهٗ دَرَجَةٌ مَلَكٍ ، وَّ اَمَّا الرَّابِعَةُ : فَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ، وَ اَمَّا الْخَامِسَةُ : فَيَحْضُرُهَا اِثْنَا عَشَرَ اَلْفَ مَلَكٍ ، وَّ اَمَّا السَّادِسَةُ : فَلَهٗ مِنَ الْاَجْرِ كَمَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَ التَّوْرَاةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ الزَّبُوْرَ وَ لَهٗ مَعَ هٰذَا يَا عُثْمَانُ مِنَ الْاَجْرِ كَمَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ قُبِلَتْ حَجَّتُهٗ وَ عُمْرَتُهٗ ، فَاِنْ مَّاتَ فِيْ يَوْمِهٖ طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَآءِ ".

484 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ وَّ اِنِّيْ خَشِيْتُ اِنْ اَذِنْتُ لَهٗ وَ اَنَا عَلٰى تِلْكَ الْحَالَةِ اَنْ لَّا يُبْلِغَ اِلَيَّ حَاجَتَهٗ ".

اَلْبَابُ الْخَامِسُ

فِيْمَا جَآءَ فِيْ فَضَآئِلِ الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

485 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " هٰؤُلَآءِ الْاُمَرَآءُ بَعْدِيْ ".

486 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " اِذَا اَنَا مُتُّ وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَمُوْتَ فَمُتْ ".

487 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : " اِنَّ هٰؤُلَآءِ اَوْلِيَآءُ الْخِلَافَةِ بَعْدِيْ ".

488 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَكُوْنُ بَعْدِیْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِیْفَةً: اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّیْقُ لَا یَلْبَثُ اِلَّا قَلِیْلًا، وَّ صَاحِبُ رَحَا دَارَةِ الْعَرَبِ یَعِیْشُ حَمِیْدًا وَّ یُقْتَلُ شَھِیْدًا عُمَرُ، وَ اَنْتَ یَا عُثْمَانُ سَیَسْئَلُكَ النَّاسُ اَنْ تَخْلَعَ قَمِیْصًا كَسَاكَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِیَّاهُ، وَ الَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَئِنْ خَلَعْتَهٗ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتّٰی یَلِجَ الْجَمَلُ فِیْ سَمِّ الْخِیَاطِ".

489 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ وَّزِیْرِیْ یَقُوْمُ مَقَامِیْ، وَ عُمَرُ یَنْطِقُ بِلِسَانِیْ، وَ اَنَا مِنْ عُثْمَانَ وَ عُثْمَانُ مِنِّیْ كَاَنِّیْ بِكَ یَا اَبَا بَكْرٍ تَشْفَعُ لِاُمَّتِیْ".

490 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اُثْبُتْ اُحُدًا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ نَبِیٌّ وَّ صِدِّیْقٌ وَّ شَھِیْدَانِ".

491 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا عَآئِشَةُ ھٰٓؤُلَآءِ الْخُلَفَآءُ بَعْدِیْ".

492 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا بِلَالُ نَادِ فِی النَّاسِ: اَنَّ الْخَلِیْفَةَ بَعْدَ اَبِیْ بَكْرٍ عُمَرُ، یَا بِلَالُ نَادِ فِی النَّاسِ اِنَّ الْخَلِیْفَةَ مِنْ م بَعْدِ عُمَرَ، عُثْمَانُ یَا بِلَالُ اَمْضِ اَبَی اللهُ اِلَّا ذٰلِكَ".

493 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "وُزِنَ اَصْحَابِی اللَّیْلَةَ فَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ ثُمَّ وُزِنَ عُثْمَانُ".

494 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "وُزِنَ اَصْحَابِی اللَّیْلَةَ فَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَزَنَ ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ ثُمَّ وُزِنَ عُثْمَانُ فَخَفَّ وَ ھُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ".

495 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اُرِیَ اللَّیْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ نِیْطَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ نِیْطَ عُمَرُ بِاَبِیْ بَكْرٍ وَّ نِیْطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ".

496 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِیْ وُزِنُوا اللَّیْلَةَ، فَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَزَنَ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ، ثُمَّ وُزِنَ عُثْمَانُ فَوَزَنَ".

497 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اُرِیْتُ اَنِّیْ وُضِعْتُ فِیْ كِفَّةٍ وَّ اُمَّتِیْ فِیْ كِفَّةٍ فَعَدَلْتُھَا، ثُمَّ وُضِعَ اَبُوْ بَكْرٍ فِیْ كِفَّةٍ وَّ اُمَّتِیْ فِیْ كِفَّةٍ فَعَدَلَھَا، ثُمَّ وُضِعَ عُمَرُ فِیْ كِفَّةٍ وَّ اُمَّتِیْ فِیْ كِفَّةٍ فَعَدَلَھَا، ثُمَّ وُضِعَ عُثْمَانُ فِیْ كِفَّةٍ وَّ اُمَّتِیْ فِیْ كِفَّةٍ فَعَدَلَھَا، ثُمَّ رُفِعَ الْمِیْزَانُ".

498 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "رَاَیْتُ اللَّیْلَةَ فِیْ

الْمَنَامِ كَانَ ثَلَاثَةٌ مِّنْ اَصْحَابِيْ وُزِنُوْا فَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَزَنَ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ، ثُمَّ وُزِنَ عُثْمَانُ فَنَقَصَ صَاحِبُنَا وَهُوَ صَالِحٌ"۔

499 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَقَدْ رَاَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَاَنِّيْ اُعْطِيْتُ الْمَقَالِيْدَ وَالْمَوَازِيْنَ، فَاَمَّا الْمَقَالِيْدُ فَهٰذِهِ الْمَفَاتِيْحُ، وَاَمَّا الْمَوَازِيْنُ فَهٰذِهِ الَّتِيْ يُوْزَنُ بِهَا، فَوُضِعْتُ فِيْ كِفَّةٍ وَّوُضِعَتْ اُمَّتِيْ فِيْ كِفَّةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُ، ثُمَّ جِيْءَ بِاَبِيْ بَكْرٍ فَوُزِنَ فَوَزَنَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيْءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ فَوَزَنَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيْءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ فَوَزَنَ بِهِمْ ثُمَّ رُفِعَتْ"۔

500 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَقَدْ رَاَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَاَنِّيْ اُعْطِيْتُ الْمَقَالِيْدَ وَالْمَوَازِيْنَ، فَاَمَّا الْمَقَالِيْدُ فَهٰذِهِ الْمَفَاتِيْحُ، وَاَمَّا الْمَوَازِيْنُ فَهٰذِهِ الَّتِيْ يُوْزَنُ بِهَا، فَوُضِعْتُ فِيْ كِفَّةٍ وَّوُضِعَتْ اُمَّتِيْ فِيْ كِفَّةٍ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، ثُمَّ جِيْءَ بِاَبِيْ بَكْرٍ فَوُضِعَ فِيْ كِفَّةٍ وَّوُضِعَتْ اُمَّتِيْ فِيْ كِفَّةٍ فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيْءَ بِعُمَرَ فَوُضِعَ فِيْ كِفَّةٍ وَّوُضِعَتْ اُمَّتِيْ فِيْ كِفَّةٍ فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيْءَ بِعُثْمَانَ فَوُضِعَ فِيْ كِفَّةٍ وَّوُضِعَتْ اُمَّتِيْ فِيْ كِفَّةٍ فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتِ الْمَوَازِيْنُ"۔

501 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَنَا اَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَآءَ اللّٰهُ، ثُمَّ اَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ لِيْ، ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ يَقِفُ كَمَا وَقَفْتُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ، ثُمَّ عُمَرُ يَقِفُ كَمَا وَقَفَ اَبُوْ بَكْرٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ، قِيْلَ: وَعُثْمَانُ! قَالَ: وَعُثْمَانُ رَجُلٌ ذُوْ حَيَآءٍ سَاَلْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لَّا يُوْقِفَهٗ لِلْحِسَابِ، فَشَفَّعَنِيْ فِيْهِ"۔

اَلْبَابُ السَّادِسُ

فِيْمَا وَرَدَ فِيْ فَضَآئِلِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ خَآصَّةً

502 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ"۔

503 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ مِّنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ"۔

504 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى"۔

505 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ اَخِيْ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ".

506 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اِنَّهُ لَا يُحِبُّكَ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُكَ اِلَّا مُنَافِقٌ".

507 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَاللهُ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ".

508 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ النَّاسُ مِنْ شَجَرَتَيْنِ وَاَنَا وَاَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَّاحِدَةٍ".

509 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَنَا وَعَلِيٌّ مِّنْ شَجَرَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّالنَّاسُ مِنْ اَشْجَارٍ شَتّٰى".

510 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ اَصْلِيْ وَجَعْفَرٌ فَرْعِيْ".

511 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اُمِرْتُ بِسَدِّ هٰذِهِ الْاَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيْهِ قَائِلُكُمْ، وَاِنِّيْ وَاللهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَّلَا فَتَحْتُهُ وَلٰكِنِّيْ اُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ".

512 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ شَكَّ فِيْهِ كَفَرَ".

513 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ فَمَنْ اَبٰى فَقَدْ كَفَرَ".

514 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ اِمَامُ الْبَرَرَةِ، وَقَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُوْرٌ مَّنْ نَصَرَهُ، مَخْذُوْلٌ مَّنْ خَذَلَهُ".

515 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ".

516 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَنَا وَعَلِيٌّ حُجَّةُ اللهِ عَلٰى عِبَادِهِ".

517 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَنَا وَهٰذَا حُجَّةٌ عَلٰى

اُمَّتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ"۔

518 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "خَیْرُ اِخْوَتِیْ عَلِیٌّ، وَّ خَیْرُ اَعْمَامِیْ حَمْزَۃُ"۔

519 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَا تُرِیْدُوْنَ مِنْ عَلِیٍّ، مَّا تُرِیْدُوْنَ مِنْ عَلِیٍّ اِنَّ عَلِیًّا مِّنِّیْ وَ اَنَا مِنْہُ وَھُوَ وَلِیُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ م بَعْدِیْ"۔

520 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَنَا وَ ھٰذَا حُجَّۃُ اللّٰہِ عَلٰی خَلْقِہٖ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ"۔

521 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَیُّھَا النَّاسُ لَا تَشْکُوْا عَلِیًّا فَوَ اللّٰہِ اِنَّہٗ لَاُخَیْشِنُ فِیْ ذَاتِ اللّٰہِ اَوْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ"۔

522 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَبْشِرْ یَا عَلِیُّ حَیَاتُکَ وَ مَمَاتُکَ مَعِیْ"۔

523 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا یُبْغِضُکَ مُؤْمِنٌ وَّلَا یُحِبُّکَ مُنَافِقٌ"۔

524 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلَا اُحَدِّثُکُمْ بِاَشْقَی النَّاسِ: رَجُلَیْنِ اُحَیْمِرُ ثَمُوْدَ الَّذِیْ عَقَرَ النَّاقَۃَ، وَ الَّذِیْ یَضْرِبُکَ یَا عَلِیُّ عَلٰی ھٰذِہٖ حَتّٰی تَبْتَلَّ مِنْھَا ھٰذَا"۔

525 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِجْلِسْ یَا اَبَا تُرَابٍ"۔

526 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "یَا عَلِیُّ اِنَّ اللّٰہَ غَفَرَ لَکَ وَلِذُرِّیَّتِکَ"۔

527 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "یَا عَلِیُّ اِنَّ جِبْرِیْلَ زَعَمَ اَنَّہٗ یُحِبُّکَ قَالَ: وَ قَدْ بَلَغْتُ اَنْ یُّحِبَّنِیْ جِبْرِیْلُ! قَالَ: نَعَمْ، وَ مَنْ ھُوَ خَیْرٌ مِّنْ جِبْرِیْلَ، اَللّٰہُ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّکَ"۔

528 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "ذِکْرُ عَلِیٍّ عِبَادَۃٌ"۔

529 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا یُحِبُّ عَلِیًّا

مُّنَافِقٌ وَّلَا يُبْغِضُهٗ مُؤْمِنٌ".

530 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ اَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا، سَيِّدٌ فِي الْاٰخِرَةِ".

531 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ طُوْبٰى لِمَنْ اَحَبَّكَ وَصَدَّقَ فِيْكَ، وَوَيْلٌ لِّمَنْ اَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيْكَ".

532 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ بَابُ حِطَّةٍ مَّنْ دَخَلَ مِنْهُ كَانَ مُؤْمِنًا، وَّمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرًا".

533 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ".

534 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ اَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ".

535 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ فِي الْعَرْشِ مَكْتُوْبٌ: اَنَا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلِيْ".

536 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ مَّعَ الْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ مَعَ عَلِيٍّ، لَنْ يَّفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ".

537 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَا اَنَا انْتَجَيْتُهٗ وَلٰكِنَّ اللهَ انْتَجَاهُ".

538 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ مِّنِّيْ وَاَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَّلَا يُؤَدِّيْ عَنِّيْ اِلَّا اَنَا اَوْ عَلِيٌّ".

539 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّجْنُبَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِيْ وَغَيْرُكَ".

540 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّجْنُبَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنَا وَعَلِيٌّ".

541 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ كُلُّ هَمٍّ مُّنْقَطِعٌ اِلَّا هَمَّ النَّارِ".

542 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "یَا عَلِیُّ اِنَّ فِیْكَ مِنْ عِیْسٰی مَثَلًا اَبْغَضَتْهُ الْیَهُوْدُ حَتّٰی اِتَّهَمُوْا اُمَّهٗ وَ اَحَبَّتْهُ النَّصَارٰی حَتّٰی اَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِیْ لَیْسَ بِهَا".

543 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "عَلِیٌّ مِّنِّیْ بِمَنْزِلَةِ رَأْسِیْ مِنْ م بَدَنِیْ".

544 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلسُّبَّقُ ثَلَاثَةٌ: فَالسَّابِقُ اِلٰی مُوْسٰی یُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ، وَّ السَّابِقُ اِلٰی عِیْسٰی صَاحِبُ یٰسٓ، وَ السَّابِقُ اِلٰی مُحَمَّدٍ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ".

545 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلصِّدِّیْقُوْنَ ثَلَاثَةٌ: حِزْقِیْلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ وَ حَبِیْبُ النَّجَّارِ صَاحِبُ آلِ یٰسٓ، وَ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ".

546 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلصِّدِّیْقُوْنَ ثَلَاثَةٌ: حَبِیْبُ النَّجَّارِ مُؤْمِنُ آلِ یٰسٓ اَلَّذِیْ قَالَ {یٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِیْنَ} وَ حِزْقِیْلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ الَّذِیْ قَالَ: {اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَّقُوْلَ رَبِّیَ اللّٰهُ} وَ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ وَّ هُوَ اَفْضَلُهُمْ".

547 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَمَا اِنَّكَ سَتَلْقٰی بَعْدِیْ جَهْدًا، قَالَ: فِیْ سَلَامَةٍ مِّنْ دِیْنِیْ قَالَ: نَعَمْ".

548 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اِتَّخَذَنِیْ خَلِیْلًا كَمَا اِتَّخَذَ اِبْرَاهِیْمَ خَلِیْلًا، فَقَصْرِیْ فِی الْجَنَّةِ وَ قَصْرُ اِبْرَاهِیْمَ فِی الْجَنَّةِ مُتَقَابِلَیْنِ، وَ قَصْرُ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ بَیْنَ قَصْرِیْ وَ قَصْرِ اِبْرَاهِیْمَ، فَیَا لَهٗ مِنْ حَبِیْبٍ م بَیْنَ خَلِیْلَیْنِ".

549 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ ضُرِبَتْ لِیْ قُبَّةٌ مِّنْ یَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ عَلٰی یَمِیْنِ الْعَرْشِ وَ ضُرِبَتْ لِاِبْرَاهِیْمَ قُبَّةٌ مِّنْ یَاقُوْتَةٍ خَضْرَاءَ عَلٰی یَسَارِ الْعَرْشِ، وَ ضُرِبَتْ فِیْمَا بَیْنَنَا لِعَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ قُبَّةٌ مِّنْ لُّؤْلُؤَةٍ م بَیْضَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِحَبِیْبٍ م بَیْنَ خَلِیْلَیْنِ".

550 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نُوْدِیْتُ مِنْ م بُطْنَانِ الْعَرْشِ: یَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْاَبُ اَبُوْكَ اِبْرَاهِیْمُ وَ نِعْمَ الْاَخُ اَخُوْكَ عَلِیٌّ".

551 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "یَا عَمْرُو هَلْ اُرِیْكَ دَآبَّةَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ تَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ تَمْشِیْ فِی الْاَسْوَاقِ؟ هٰذَا دَآبَّةُ الْجَنَّةِ، وَ اَشَارَ اِلٰی عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ

طَالِبٍ"۔

552 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَلنَّظَرُ اِلٰی وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ"۔

553 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "اَلنَّظَرُ اِلٰی عَلِيٍّ عِبَادَةٌ"۔

554 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰی آدَمَ فِيْ عِلْمِهٖ، وَاِلٰی نُوْحٍ فِيْ فَهْمِهٖ، وَاِلٰی اِبْرَاهِيْمَ فِيْ خُلُقِهٖ، فَلْيَنْظُرْ اِلٰی عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ"۔

555 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَبَّنِيْ، وَمَنْ اَحَبَّنِيْ فَقَدْ اَحَبَّ اللهَ، وَمَنْ اَبْغَضَهٗ فَقَدْ اَبْغَضَنِيْ، وَمَنْ اَبْغَضَنِيْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللهَ"۔

556 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مُحِبُّكَ مُحِبِّيْ، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِيْ"۔

557 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَبَّنِيْ، وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ اَبْغَضَنِيْ"۔

558 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَنْ اَحَبَّكَ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّكَ، فَاِنَّ الْعَبْدَ لَا يَنَالُ وَلَايَتِيْ اِلَّا بِحُبِّكَ"۔

559 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "حُبُّ عَلِيٍّ يَاْكُلُ الذُّنُوْبَ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ"۔

560 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّحْيَا حَيَاتِيْ وَيَمُوْتَ مَوْتِيْ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِيْ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ، فَاِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ غَرَسَ قُضْبَانَهَا بِيَدِهٖ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَاِنَّهٗ لَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ هُدًی وَّلَنْ يُّدْخِلَكُمْ فِيْ ضَلَالَةٍ"۔

561 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "حُبُّ عَلِيٍّ بَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ"۔

562 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "حُبُّ عَلِيٍّ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ"۔

563 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِلِ: "حُبُّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لَّا

تضرُّ معَها سَيِّئَةٌ"۔

564 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "عَلِيٌّ بَابُ عِلْمِيْ وَ مُبَيِّنٌ لِّاُمَّتِيْ مَآ اُرْسِلْتُ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِيْ، حُبُّهٗ اِيْمَانٌ، وَّ بُغْضُهٗ نِفَاقٌ، وَّ النَّظْرُ اِلَيْهِ رَأْفَةٌ"۔

565 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "عُنْوَانُ صَحِيْفَةِ الْمُؤْمِنِ حُبُّ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ"۔

566 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّحْيَا حَيَاتِيْ وَ يَمُوْتَ مَيْتَتِيْ وَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الَّتِيْ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ قُضْبَانًا مِّنْ قُضْبَانِهَا غَرَسَهٗ بِيَدِهٖ فَهِيَ جَنَّةُ الْخُلْدِ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا وَّ ذُرِّيَّتَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ فَاِنَّهُمْ لَنْ يُّخْرِجُوْكُمْ مِنْۢ بَابِ هُدًى وَّلَنْ يُّدْخِلُوْكُمْ فِيْ بَابِ ضَلَالَةٍ"۔

567 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "عَادَى اللّٰهُ مَنْ عَادٰى عَلِيًّا"۔

568 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "مَنْ آذٰى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِيْ"۔

569 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِيْ، وَمَنْ سَبَّنِيْ فَقَدْ سَبَّ اللّٰهَ"۔

570 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "مَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِيْ، وَمَنْ فَارَقَنِيْ فَقَدْ فَارَقَ اللّٰهَ"۔

571 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "مَنْ فَارَقَكَ يَا عَلِيُّ فَقَدْ فَارَقَنِيْ، وَمَنْ فَارَقَنِيْ فَقَدْ فَارَقَ اللّٰهَ"۔

572 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ مَنْ فَارَقَنِيْ فَقَدْ فَارَقَ اللّٰهَ، وَمَنْ فَارَقَكَ فَقَدْ فَارَقَنِيْ"۔

573 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "اِنَّ الْاُمَّةَ سَتَغْدِرُ بِكَ مِنْۢ بَعْدِيْ وَ اَنْتَ تَعِيْشُ عَلٰى مِلَّتِيْ وَ تُقْتَلُ عَلٰى سُنَّتِيْ، مَنْ اَحَبَّكَ اَحَبَّنِيْ، وَمَنْ اَبْغَضَكَ اَبْغَضَنِيْ، وَاِنَّ هٰذِهٖ سَتُخْضَبُ مِنْ هٰذَا"۔

574 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَآئِلِ: "مَا ثَبَّتَ اللّٰهُ حُبَّ عَلِيٍّ فِيْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ فَزَلَّتْ بِهٖ قَدَمٌ اِلَّا ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ"۔

575 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "عَلِيٌّ يَّزْهِرُ فِي الْجَنَّةِ كَكَوْكَبِ الصُّبْحِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا".

576 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "عَلِيٌّ يَّعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَ الْمَالُ يَعْسُوْبُ الْمُنَافِقِيْنَ".

577 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "عَلِيٌّ يَّقْضِيْ دَيْنِيْ".

578 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ أَنْتَ تَغْسِلُ جُثَّتِيْ، وَ تُؤَدِّيْ دَيْنِيْ، وَ تُوَارِيْنِيْ فِيْ حُفْرَتِيْ، وَ تَفِيْ بِذِمَّتِيْ، وَ أَنْتَ صَاحِبُ لِوَآئِيْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ".

579 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ سَتُقَاتِلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَ أَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، فَمَنْ لَّمْ يَنْصُرْكَ يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ مِنِّيْ".

580 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ أَنْتَ عَبْقَرِيُّهُمْ".

581 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ يَدُكَ فِيْ يَدِيْ حَتّٰى تَدْخُلَ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْثُ أَدْخُلُ".

582 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "عَلِيُّ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللّٰهِ وَ النَّاسِ حُبًّا وَّ تَعْظِيْمًا لِّأَهْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ".

583 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "أَعْلَمُ أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ عَلِيُّ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ".

584 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ أَنْتَ تُبَيِّنُ لِأُمَّتِيْ مَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ بَعْدِيْ".

585 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَمَّا أُسْرِيَ بِيْ إِلَى السَّمَآءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيْ سَاقِ الْعَرْشِ الْأَيْمَنِ مَكْتُوْبًا: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ أَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ وَّ نَصَرْتُهُ بِعَلِيٍّ".

586 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "لَوْ أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ مَوْضُوْعَتَانِ فِيْ كِفَّةٍ وَّ إِيْمَانُ عَلِيٍّ فِيْ كِفَّةٍ لَّرَجَحَ إِيْمَانُ عَلِيٍّ".

587 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "مَكْتُوْبٌ عَلٰى بَابِ

الْجَنَّةِ قَبْلَ اَنْ يُّخْلَقَ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ بِاَلْفَیْ سَنَةٍ: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ اَیَّدْتُّهٗ بِعَلِیٍّ".

588 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "رَاَیْتُ لَیْلَةَ اُسْرِیَ بِیْ مُثْبَتًا عَلٰی سَاقِ الْعَرْشِ: اِنِّیْ اَنَا اللهُ لَآ اِلٰهَ غَیْرِیْ، خَلَقْتُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِیَدِیْ، مُحَمَّدٌ صَفْوَتِیْ مِنْ خَلْقِیْ اَیَّدْتُّهٗ بِعَلِیٍّ، نَصَرْتُهٗ بِعَلِیٍّ".

589 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَكْتُوْبٌ عَلٰی بَابِ الْجَنَّةِ: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ عَلِیٌّ اَخُوْ رَسُوْلِ اللهِ، قَبْلَ اَنْ يُّخْلَقَ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ بِاَلْفَیْ عَامٍ".

590 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ هٰذَا اَوَّلُ مَنْ اٰمَنَ بِیْ وَ هُوَ اَوَّلُ مَنْ يُّصَافِحُنِیْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هٰذَا الصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ، وَ هٰذَا فَارُوْقُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ، وَ هٰذَا يَعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَالُ يَعْسُوْبُ الظَّالِمِيْنَ".

591 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ هٰذَا سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ".

592 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "بَخٍ لَّكُمَا، اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَ اَنْتُمَا سَيِّدَا الْعَرَبِ".

593 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اُوْصِيْكُمْ بِهٰذَيْنِ خَيْرًا اَلَّا يَكُفَّ عَنْهُمَا اَحَدٌ وَّلَا يَحْفَظُهُمَا لِیْ اِلَّآ اَعْطَاهُ اللهُ تَعَالٰی نُوْرًا يَّرِدُ بِهٖ عَلَیَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

594 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَ عَلِیٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ".

595 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "يَآ اَنَسُ انْطَلِقْ فَادْعُ لِیْ سَيِّدَ الْعَرَبِ، قَالَتْ عَآئِشَةُ: اَلَسْتَ سَيِّدَ الْعَرَبِ قَالَ: اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَ عَلِیٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ. فَلَمَّا جَآءَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَلَآ اَدُلُّكُمْ عَلٰی مَآ اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اَبَدًا هٰذَا عَلِیٌّ فَاَحِبُّوْهُ بِحُبِّیْ، وَ اَكْرِمُوْهُ بِكَرَامَتِیْ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ اَمَرَنِیْ بِالَّذِیْ قُلْتُ لَكُمْ عَنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ".

596 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "يَا عَآئِشَةُ اِذَا سَرَّكِ اَنْ تَنْظُرِیْ اِلٰی سَيِّدِ الْعَرَبِ فَانْظُرِیْ اِلٰی عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِیَّ اللهِ اَلَسْتَ سَيِّدَ الْعَرَبِ قَالَ: اَنَا اِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ سَيِّدُ الْمُتَّقِيْنَ، اِذَا سَرَّكِ اَنْ تَنْظُرِیْ اِلٰی سَيِّدِ الْعَرَبِ فَانْظُرِیْ اِلٰی سَيِّدِ الْعَرَبِ".

597 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "سَئَلْتُ اللهَ يَا عَلِیُّ

فِيكَ خَمْسًا فَمَنَعَنِي وَاحِدَةً وَّ اَعْطَانِي اَرْبَعًا : سَئَلْتُ اللهَ اَنْ يَّجْمَعَ عَلَيْكَ اُمَّتِي فَاَبٰى عَلَيَّ، وَ اَعْطَانِي فِيكَ اَنَّ
اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَ اَنْتَ مَعِيْ، مَعَكَ لِوَآءُ الْحَمْدِ وَ اَنْتَ تَحْمِلُهُ بَيْنَ يَدَيَّ تَسْبِقُ بِهِ
الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، وَ اَعْطَانِي اَنَّكَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْدِيْ".

598 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "يَا عَلِيُّ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى
قَدْ زَيَّنَكَ بِزِيْنَةٍ لَّمْ يُزَيِّنِ الْعِبَادُ بِزِيْنَةٍ اَحَبَّ اِلَى اللهِ تَعَالٰى مِنْهَا، هِيَ زِيْنَةُ الْاَبْرَارِ عِنْدَ اللهِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا،
فَجَعَلَكَ لَا تَرْزَأُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا وَّلَا تَرْزَأُ الدُّنْيَا مِنْكَ شَيْئًا وَ وَهَبَ لَكَ حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ فَجَعَلْتَ تَرْضٰى
بِهِمْ اَتْبَاعًا وَّيَرْضَوْنَ بِكَ اِمَامًا".

599 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اِنَّ مِنْكُمْ مَنْ
يُّقَاتِلُ عَلٰى تَأْوِيْلِ الْقُرْاٰنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلٰى تَنْزِيْلِهٖ، قِيْلَ : اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ قَالَ : لَا، وَلٰكِنَّهٗ خَاصِفُ النَّعْلِ".
يَعْنِيْ عَلِيًّا.

600 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ
بِيَدِهٖ اِنَّ فِيْكُمْ لَرَجُلًا يُّقَاتِلُ النَّاسَ مِنْ ، بَعْدِيْ عَلٰى تَأْوِيْلِ الْقُرْاٰنِ كَمَا قَاتَلْتُ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى تَنْزِيْلِهٖ وَ
هُمْ يَشْهَدُوْنَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، فَيَكْبُرُ قَتْلُهُمْ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى يَطْعَنُوْا عَلٰى وَلِيِّ اللهِ تَعَالٰى وَ يَسْخَطُوْا عَمَلَهٗ
كَمَا سَخِطَ مُوْسٰى اَمْرَ السَّفِيْنَةِ وَ الْغُلَامِ وَ الْجِدَارِ وَ كَانَ ذٰلِكَ كُلُّهٗ رِضًا لِّلّٰهِ تَعَالٰى".

601 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ
فَعَلِيٌّ مَّوْلَاهُ، اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ".

602 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ
فَعَلِيٌّ مَّوْلَاهُ، اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَهٗ وَ اَعِنْ مَنْ اَعَانَهٗ".

603 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "دَعُوْا عَلِيًّا ثَلَاثًا،
اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّيْ وَ اَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ، بَعْدِيْ".

604 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّيْ وَ اَنَا
مِنْهُ وَ هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ".

605 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : "مَنْ يَّكُنِ اللهُ وَ
رَسُوْلُهٗ مَوْلَاهُ فَاِنَّ هٰذَا مَوْلَاهُ. يَعْنِيْ عَلِيًّا. اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحَبَّهٗ مِنَ
النَّاسِ فَكُنْ لَّهٗ حَبِيْبًا، وَّ مَنْ اَبْغَضَهٗ مِنَ النَّاسِ فَكُنْ لَّهٗ بَغِيْضًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَآ اَجِدُ اَحَدًا اَسْتَوْدِعُهٗ مِنَ
الْاَرْضِ بَعْدَ الرَّجُلَيْنِ الصَّالِحَيْنِ غَيْرَهٗ فَاقْضِ لَهٗ بِالْحُسْنٰى".

606 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا عَلِیُّ اَخْصُمُكَ بِالنُّبُوَّةِ وَلَا نُبُوَّةَ بَعْدِیْ، وَ تَخْصُمُ النَّاسَ بِسَبْعٍ لَّا یُحَاجُّكَ فِیْهَا اَحَدٌ مِّنْ قُرَیْشٍ: اَنْتَ اَوَّلُهُمْ اِیْمَانًا بِاللّٰهِ، وَ اَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللّٰهِ، وَ اَقْوَمُهُمْ بِاَمْرِ اللّٰهِ، وَ اَقْسَمُهُمْ بِالسَّوِیَّةِ، وَ اَعْدَلُهُمْ فِی الرَّعِیَّةِ، وَ اَبْصَرُهُمْ بِالْقَضِیَّةِ، وَ اَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَزِیَّةً".

607 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا بُرَیْدَةُ اِنَّ عَلِیًّا وَّلِیُّكُمْ بَعْدِیْ، فَاَحِبَّ عَلِیًّا فَاِنَّهٗ یَفْعَلُ مَا یُؤْمَرُ".

608 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا بُرَیْدَةُ اَلَسْتُ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَّوْلَاهُ".

609 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَّوْلَاهُ، اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَهٗ، وَ اَعِنْ مَنْ اَعَانَهٗ".

610 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَنْ اٰمَنَ بِیْ وَ صَدَّقَنِیْ فَلْیَتَوَلَّ عَلِیَّ بْنَ اَبِیْ طَالِبٍ فَاِنَّ وِلَایَتَهٗ وِلَایَتِیْ وَ وِلَایَتِیْ وِلَایَةُ اللّٰهِ".

611 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ اَعِنْهُ وَ اَعِنْ بِهٖ، وَ ارْحَمْهُ وَ ارْحَمْ بِهٖ، وَ انْصُرْهُ وَ انْصُرْ بِهٖ، اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ".

612 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَلَا اِنَّ اللّٰهَ وَلِیِّیْ وَ اَنَا وَلِیُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَّوْلَاهُ".

613 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اُوْصِیْ مَنْ آمَنَ بِیْ وَ صَدَّقَنِیْ بِوِلَایَةِ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ، فَمَنْ تَوَلَّاهُ فَقَدْ تَوَلَّانِیْ، وَ مَنْ تَوَلَّانِیْ فَقَدْ تَوَلَّی اللّٰهَ، وَ مَنْ اَحَبَّهٗ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَ مَنْ اَحَبَّنِیْ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ، وَ مَنْ اَبْغَضَهٗ فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ، وَ مَنْ اَبْغَضَنِیْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ".

614 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ وَصِیِّیْ وَ مَوْضِعَ سِرِّیْ وَ خَیْرَ مَنْ اَتْرُكُ بَعْدِیْ وَ یُنْجِزُ عِدَّتِیْ وَ یَقْضِیْ دَیْنِیْ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ".

615 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَخَذْتَ مِنِّیْ عُبَیْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ یَوْمَ بَدْرٍ وَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ یَوْمَ اُحُدٍ وَّ هٰذَا عَلِیٌّ فَلَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ".

616 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ

نَصَرَ عَلِيًّا، اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْ مَنْ اَكْرَمَ عَلِيًّا اَللّٰهُمَّ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَ عَلِيًّا".

617 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اُتِيتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ عَلٰى رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَاَوْحٰى اِلَيَّ فِيْ عَلِيٍّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ: اَنَّهٗ سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَوَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ".

618 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَمَّا عُرِجَ بِيْ اِلَى السَّمَآءِ اُنْتُهِيَ بِيْ اِلٰى قَصْرٍ مِّنْ لُّؤْلُؤٍ فِرَاشُهٗ ذَهَبٌ يَّتَلَأْلَأُ فَاَوْحٰى اِلَيَّ رَبِّيْ فِيْ عَلِيٍّ ثَلَاثَ خِصَالٍ: اَنَّهٗ سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ".

619 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "مَرْحَبًا بِسَيِّدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ".

620 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "اَلَا اُرْضِيكَ يَا عَلِيُّ اَنْتَ اَخِيْ، وَوَزِيْرِيْ، تَقْضِيْ دَيْنِيْ، وَتُنْجِزُ مَوْعِدِيْ، وَتُبْرِئُ ذِمَّتِيْ، فَمَنْ اَحَبَّكَ فِيْ حَيَاةٍ مِّنِّيْ فَقَدْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمَنْ اَحَبَّكَ فِيْ حَيَاةٍ مِّنْكَ بَعْدِيْ خَتَمَ اللّٰهُ لَهٗ بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ، وَمَنْ اَحَبَّكَ بَعْدِيْ وَلَمْ يَرَكَ خَتَمَ اللّٰهُ لَهٗ بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَآمَنَهٗ يَوْمَ الْفَزَعِ، وَمَنْ مَّاتَ وَهُوَ يُبْغِضُكَ يَا عَلِيُّ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَّيُحَاسِبُهُ اللّٰهُ بِمَا عَمِلَ فِي الْاِسْلَامِ".

621 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا تَقَعْ فِيْ عَلِيٍّ، فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِيْ".

622 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا يَقْضِيْ دَيْنِيْ غَيْرِيْ اَوْ عَلِيٌّ".

623 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "لَا تَقُلْ هٰذَا فَهُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِكُمْ بَعْدِيْ".

624 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "فَاطِمَةُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْكَ وَاَنْتَ اَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا".

625 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَا بُنَيَّةُ لَكِ رِقَّةُ الْوَلَدِ، وَعَلِيٌّ اَعَزُّ عَلَيَّ مِنْكِ".

626 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ مُرْ نِسَآءَكَ

لَا يُصَلِّيْنَ عَطَلًا وَّ لَوْ اَنْ يَّتَقَلَّدْنَ سَيْرًا"۔

627 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مُرْ نِسَآءَكَ اَنْ لَّا يُصَلِّيْنَ عَطَلًا وَّ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ اَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّآءِ لَا يَتَشَبَّهْنَ بِأَكُفِّ الرِّجَالِ"۔

628 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اُسْكُتِيْ فَقَدْ اَنْكَحْتُكِ اَحَبَّ اَهْلِ بَيْتِيْ اِلَيَّ"۔ قَالَهٗ لِفَاطِمَةَ۔

629 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهِمَا وَ بَارَكَ عَلَيْهِمَا وَ بَارَكَ لَهُمَا فِيْ نَسْلِهِمَا"۔ قَالَهٗ لِعَلِيٍّ وَّ فَاطِمَةَ لَيْلَةَ الْبِنَآءِ۔

630 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِطَّلَعَ عَلٰی اَهْلِ الْاَرْضِ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ اَبَاكِ فَبَعَثَهٗ نَبِيًّا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلٰی اَهْلِ الْاَرْضِ الثَّانِيَةِ فَاخْتَارَ بَعْلَكِ فَاَوْحٰی اِلَيَّ فَاَنْكَحْتُكِ لَهٗ وَ اتَّخَذْتُهٗ وَصِيًّا"۔ قَالَهٗ لِفَاطِمَةَ۔

631 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَمَا تَرْضَيْنَ اَنِّيْ زَوَّجْتُكِ اَقْدَمَ اُمَّتِيْ سِلْمًا وَّ اَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، وَ اَعْظَمَهُمْ حِلْمًا"۔

632 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَمَا تَرْضَيْنَ اَنِّيْ زَوَّجْتُكِ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ اِسْلَامًا، وَّ اَعْلَمَهُمْ عِلْمًا فَاِنَّكِ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اُمَّتِيْ كَمَا سَادَتْ مَرْيَمُ نِسَآءَ قَوْمِهَا"۔

633 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَمَا تَرْضَيْنَ يَا فَاطِمَةُ اَنَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰی اَهْلِ الْاَرْضِ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا اَبَاكِ وَ الْاٰخَرَ بَعْلَكِ"۔

634 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَمَرَنِيْ اَنْ اُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ"۔

635 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "زَوَّجْتُكِ خَيْرَ اَهْلِيْ، اَعْلَمَهُمْ عِلْمًا، وَّ اَفْضَلَهُمْ حِلْمًا، وَّ اَوَّلَهُمْ سِلْمًا"۔

636 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَا يُبْكِيْكِ، فَمَا اَلَوْتُكِ فِيْ نَفْسِيْ وَ قَدْ اَصَبْتُ لَكِ خَيْرَ اَهْلِيْ، وَ اَيْمُ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ زَوَّجْتُكِ سَعِيْدًا فِي الدُّنْيَا، وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ"۔

637 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "لَقَدْ زَوَّجْتُكِهٖ وَ

إِنَّهٗ لَأَوَّلُ أَصْحَابِيْ سِلْمًا وَّ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَّ أَعْظَمُهُمْ حِلْمًا "۔

638 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "يَا أَنَسُ أَتَدْرِيْ مَا جَاءَنِيْ بِهٖ جِبْرِيْلُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الْعَرْشِ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ "۔

639 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "يَا فَاطِمَةُ أَمَا إِنِّيْ مَا آلَيْتُ أَنْ أَنْكَحْتُكِ خَيْرَ أَهْلِيْ "۔

640 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "إِنَّ اللهَ تَعَالٰى جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِيْ صُلْبِهٖ، وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِيْ فِيْ صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ "۔

641 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "يَا عَمِّ وَاللهِ لَلّٰهُ أَشَدُّ حُبًّا لَّهٗ مِنِّيْ، إِنَّ اللهَ جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِيْ صُلْبِهٖ، وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِيْ فِيْ صُلْبِ هٰذَا "۔

642 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ، هٰذَا أَخِيْ وَابْنُ عَمِّيْ وَصِهْرِيْ وَأَبُوْ وَلَدِيْ، اَللّٰهُمَّ كُبَّ مَنْ عَادَاهُ فِي النَّارِ "۔

643 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، إِنَّهٗ لَا يَنْبَغِيْ لِيْ أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيْفَتِيْ "۔

644 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ صَلَّتْ عَلَيَّ وَعَلٰى عَلِيٍّ سَبْعَ سِنِيْنَ قَبْلَ أَنْ يُّسْلِمَ بَشَرٌ "۔

645 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "إِنَّ هٰذَا لَنْ يَّمُوْتَ حَتّٰى يُمْلَأَ غَيْظًا، وَّلَنْ يَّمُوْتَ إِلَّا مَقْتُوْلًا "۔

646 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "أَنَا وَعَلِيٌّ وَّفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ قُبَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ "۔

647 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا "۔

648 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ "۔

649 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "عَلِيٌّ عَيْبَةُ عِلْمِيْ "۔

650 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْقَائِلِ: "أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ

عَلِیٌّ بَابُهَا، فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْیَاتِهٖ مِنْ بَابِهٖ"۔

651 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَنَا الْمُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ نِ الْهَادِیْ، وَبِكَ یَا عَلِیُّ یَهْتَدِی الْمُهْتَدُوْنَ مِنْ بَعْدِیْ"۔

652 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَنَا اُقَاتِلُ عَلٰی تَنْزِیْلِ الْقُرْاٰنِ وَ عَلِیٌّ یُّقَاتِلُ عَلٰی تَاْوِیْلِهٖ"۔

653 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَنَا خَاتَمُ الْاَنْبِیَاۤءِ، وَ اَنْتَ یَا عَلِیُّ خَاتَمُ الْاَوْصِیَاۤءِ"۔

654 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَمَّا قَوْلُكَ تَقُوْلُ قُرَیْشٌ مَّآ اَسْرَعَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ ابْنِ عَمِّهٖ وَ خَذَلَهٗ فَاِنَّ لَكَ بِیْ اُسْوَةٌ قَالُوْا: سَاحِرٌ وَّ كَاهِنٌ وَّ كَذَّابٌ، اَمَا تَرْضٰی اَنْ تَكُوْنَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰی اِلَّآ اَنَّهٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ، وَ اَمَّا قَوْلُكَ: اَتَعَرَّضُ لِفَضْلِ اللّٰهِ هٰذِهٖ اَبْهَارٌ مِّنْ فُلْفُلٍ جَآءَ نَا مِنَ الْیَمَنِ فَبِعْهُ وَ اسْتَمْتِعْ بِهٖ اَنْتَ وَ فَاطِمَةُ حَتّٰی یُؤْتِیَكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ الْمَدِیْنَةَ لَا تَصْلُحُ اِلَّا بِیْ وَبِكَ"۔

655 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "وَ مَا لِیْ لَآ اَضْحَكُ وَ هٰذَا جِبْرِیْلُ یُخْبِرُنِیْ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَّ اللّٰهَ بَاهٰی بِیْ وَ بِعَمِّی الْعَبَّاسِ وَ بِاَخِیْ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ سُكَّانَ الْهَوَآءِ وَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ اَرْوَاحَ النَّبِیِّیْنَ وَ مَلَآئِكَةَ سِتِّ سَمٰوَاتٍ، وَّ بَاهٰی بِاُمَّتِیْ اَهْلَ سَمَآءِ الدُّنْیَا"۔

656 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِیْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَّ اَخْبَرَنِیْ اَنَّهٗ یُحِبُّهُمْ، قِیْلَ: یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِّهِمْ لَنَا، قَالَ عَلِیٌّ مِّنْهُمْ، یَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا۔ وَّ اَبُوْ ذَرٍّ وَّ الْمِقْدَادُ وَ سَلْمَانُ"۔

657 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا عَقِیْلُ وَ اللّٰهِ اِنِّیْ اُحِبُّكَ لِخَصْلَتَیْنِ: لِقَرَابَتِكَ وَ لِحُبِّ اَبِیْ طَالِبٍ اِیَّاكَ، وَ اَمَّآ اَنْتَ یَا جَعْفَرُ فَاِنَّ خُلُقَكَ شَبِیْهُ خُلُقِیْ، وَ اَمَّآ اَنْتَ یَا عَلِیُّ فَاَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰی غَیْرَ اَنَّهٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ"۔

658 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا عَمَّارُ اِذَا رَاَیْتَ عَلِیًّا قَدْ سَلَكَ وَادِیًا وَّ سَلَكَ النَّاسُ وَادِیًا غَیْرَهٗ فَاسْلُكْ مَعَ عَلِیٍّ وَ دَعِ النَّاسَ، اِنَّهٗ لَنْ یَّدُلَّكَ عَلٰی رَدًی وَّ لَنْ یُّخْرِجَكَ مِنْ هُدًی"۔

659 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَآ اَبَا رَافِعٍ سَیَكُوْنُ

بَعْدِیْ قَوْمٌ یُّقَاتِلُوْنَ عَلِیًّا حَقٌّ عَلَی اللهِ جِهَادُهُمْ فَمَنْ لَّمْ یَسْتَطِعْ جِهَادَهُمْ بِیَدِهٖ فَبِلِسَانِهٖ، فَمَنْ لَّمْ یَسْتَطِعْ بِلِسَانِهٖ فَبِقَلْبِهٖ لَیْسَ وَرَآءَ ذٰلِكَ شَیْءٌ"۔

660 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَثَلُ عَلِیٍّ فِی النَّاسِ مَثَلُ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ فِی الْقُرْآنِ"۔

661 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "سَلَامٌ عَلَیْكَ اَبَا الرَّیْحَانَتَیْنِ اُوْصِیْكَ بِرَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا فَعَنْ قَلِیْلٍ یَّنْهَدُّ رُكْنَاكَ وَ اللهُ خَلِیْفَتِیْ عَلَیْكَ"۔ قَالَهٗ لِعَلِیٍّ۔

662 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ لِسَانَهٗ وَ اهْدِ قَلْبَهٗ"۔

663 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "عَلِّمْهُمُ الشَّرَآئِعَ وَ اقْضِ بَیْنَهُمْ، اَللّٰهُمَّ اهْدِهٖ لِلْقَضَآءِ"۔

664 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنْطَلِقْ فَاقْرَأْهَا عَلَی النَّاسِ فَاِنَّ اللهَ یُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَ یَهْدِیْ قَلْبَكَ اِنَّ النَّاسَ سَیَتَقَاضَوْنَ اِلَیْكَ، فَاِذَا اَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِاَحَدٍ حَتّٰی تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخَرِ، فَاِنَّهٗ اَجْدَرُ اَنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُّ"۔

665 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "قُمْ فَمَا صَلَحْتَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ اَبَا تُرَابٍ اَغَضِبْتَ عَلَیَّ حِیْنَ وَ اٰخَیْتُ بَیْنَ الْمُهَاجِرِیْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ لَمْ اُوَاخِ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ، اَمَا تَرْضٰی اَنْ تَكُوْنَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰی اِلَّا اَنَّهٗ لَیْسَ بَعْدِیْ نَبِیٌّ، اَلَا مَنْ اَحَبَّكَ حُفَّ بِالْاَمْنِ وَ الْاِیْمَانِ، وَ مَنْ اَبْغَضَكَ اَمَاتَهُ اللهُ مِیْتَةً جَاهِلِیَّةً، وَّ حُوْسِبَ بِعَمَلِهٖ فِی الْاِسْلَامِ"۔

666 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اَحَقَّ اَسْمَآئِكَ اَبُوْ تُرَابٍ"۔

667 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّمَا تَرَكْتُكَ لِنَفْسِیْ اَنْتَ اَخِیْ وَ اَنَا اَخُوْكَ، فَاِنْ حَاجَّكَ اَحَدٌ فَقُلْ اَنَا عَبْدُ اللهِ وَ اَخُوْ رَسُوْلِهٖ لَا یَدَّعِیْهَآ اَحَدٌ م بَعْدَكَ اِلَّا كَذَّابٌ"۔

668 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا عَلِیُّ لَكَ سَبْعُ خِصَالٍ لَّا یُحَاجُّكَ فِیْهِنَّ اَحَدٌ یَّوْمَ الْقِیَامَةِ، اَنْتَ اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ بِاللهِ اِیْمَانًا، وَّ اَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللهِ، وَ

اَقْوَامُهُمْ بِاَمْرِ اللهِ، وَ اَرَافُهُمْ بِالرَّعِيَّةِ، وَ اَقْسَمُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَ اَعْلَمُهُمْ بِالْقَضِيَّةِ، وَ اَعْظَمُهُمْ مَزِيَّةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ"۔

669 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "اِنَّمَا عَلِيٌّ مِّنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ"۔

670 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَا اَنَا مِنْهُ: بُغْضُ عَلِيٍّ، وَ نَصْبُ اَهْلِ بَيْتِيْ، وَ مَنْ قَالَ الْاِيْمَانُ كَلَامٌ"۔

671 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "اَوَّلُ مَنْ صَلّٰى مَعِيَ عَلِيٌّ"۔

672 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "اَوَّلُكُمْ وَارِدًا عَلَى الْحَوْضِ، وَ اَوَّلُكُمْ اِسْلَامًا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ"۔

673 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "اَللهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ جِبْرِيْلُ عَنْكَ رَاضُوْنَ"۔

674 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "اِنْ تُوَلُّوْا عَلِيًّا تَجِدُوْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا"۔

675 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "عَلِيُّ ابْنُ اَبِيْ طَالِبٍ يُّنْجِزُ عِدَاتِيْ وَ يَقْضِيْ دِيْنِيْ"۔

676 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ يَّقْضِيْ دِيْنِيْ"۔

677 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "عَلِيٌّ اَقْضَانَا وَ اُبَيٌّ اَقْرَؤُنَا"۔

678 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "قُسِمَتِ الْحِكْمَةُ عَشَرَةَ اَجْزَاءٍ فَاُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ اَجْزَاءٍ، وَّ اُعْطِيَ النَّاسُ جُزْءًا وَّاحِدًا وَّ عَلِيٌّ اَعْلَمُ بِالْوَاحِدِ مِنْهُمْ"۔

679 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "قُمْ يَا عَلِيُّ فَقَدْ بَرِئْتَ مَا سَئَلْتُ اللهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَانِيْ، وَ مَا سَئَلْتُ اللهَ شَيْئًا اِلَّا سَئَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ اِلَّا اَنَّهُ قِيْلَ لِيْ: لَا نُبُوَّةَ بَعْدَكَ"۔

680 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْقَائِلِ: "مَنْ حَسَدَ عَلِيًّا

فَقَدْ حَسَدَنِيْ، وَمَنْ حَسَدَنِيْ فَقَدْ كَفَرَ".

681 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ اِنَّ لَكَ كَنْزًا
فِي الْجَنَّةِ، وَاِنَّكَ ذُوْ قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعَنَّ النَّظْرَةَ نَظْرَةً فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ".

682 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ مَا مِنْ اَهْلِ
بَيْتٍ كَانُوْا فِيْ حَبْرَةٍ اِلَّا اسْتَتْبَعَتْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ عِبْرَةٌ، يَا عَلِيُّ كُلُّ نَعِيْمٍ يَزُوْلُ اِلَّا نَعِيْمَ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَكُلُّ هَمٍّ
مُنْقَطِعٌ اِلَّا هَمَّ اَهْلِ النَّارِ، يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَاِنْ ضَرَّكَ فِي الْعَاجِلِ كَانَ فَرَجًا لَّكَ فِي الْاٰجِلِ".

683 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "عَلِيٌّ مِّنِّيْ وَاَنَا مِنْ
عَلِيٍّ وَّلَا يُؤَدِّيْ عَنِّيْ اِلَّا اَنَا اَوْ عَلِيٌّ".

684 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا اُمَّ سُلَيْمٍ اِنَّ
عَلِيًّا لَحْمُهُ مِنْ لَّحْمِيْ، وَدَمُهُ مِنْ دَمِيْ، وَهُوَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى".

685 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ اُوْصِيْكَ
بِالْعَرَبِ خَيْرًا، اُوْصِيْكَ بِالْعَرَبِ خَيْرًا".

686 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ اِنْ وَّلِيْتَ
الْاَمْرَ بَعْدِيْ فَاَخْرِجْ اَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ".

687 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ مِنْ هٰذَا
فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَوْفَقُ لَكَ".

688 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "عَلِيٌّ صَاحِبُ
حَوْضِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

689 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ مَعَكَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَصًا مِّنْ عِصِيِّ الْجَنَّةِ تَذُوْدُ بِهَا الْمُنَافِقِيْنَ عَنِ الْحَوْضِ".

690 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "عَلِيٌّ مُّلِيْءَ اِيْمَانًا اِلٰى
مُشَاشِهٖ".

691 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا اَبَا حَسَنٍ اَيُّمَا
اَحَبُّ اِلَيْكَ: خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ وَّرِعَاؤُهَا، اَوْ خَمْسُ كَلِمَاتٍ اُعَلِّمُكَهُنَّ تَدْعُوْ بِهِنَّ، تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ،
وَطَيِّبْ لِيْ كَسْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ خُلُقِيْ، وَقَنِّعْنِيْ بِمَا قَضَيْتَ لِيْ، وَلَا تُذْهِبْ نَفْسِيْ اِلٰى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّيْ".

692 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ لَا تَرْجُ إِلَّا رَبَّكَ وَلَا تَخْشَ إِلَّا ذَنْبَكَ".

693 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ مُّسْتَخْلَفٌ وَّ إِنَّكَ مَقْتُوْلٌ".

694 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ سَلِ اللهَ الْهُدٰى وَ السَّدَادَ وَ اذْكُرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ، وَ بِالسَّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهْمَ".

695 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ إِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ ۢ بَعْدِيْ".

696 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ ائْتِنِيْ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِيَ هٰذَا الطَّيْرَ، فَجَآءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَكَلَ مَعَهٗ".

697 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَّا تُؤَخِّرْهَا: اَلصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَ الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَ الْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا".

698 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "يَكُوْنُ بَيْنَ النَّاسِ فُرْقَةٌ وَّ اخْتِلَافٌ فَيَكُوْنُ هٰذَا وَ أَصْحَابُهٗ عَلَى الْحَقِّ".

699 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ مَثَلُ الَّذِيْ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهٗ كَمَثَلِ حُبْلٰى حَمَلَتْ فَلَمَّا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ، وَّلَا هِيَ ذَاتُ أَوْلَادٍ، يَا عَلِيُّ مَثَلُ الْمُصَلِّيْ كَالتَّاجِرِ لَا يَخْلُصُ لَهٗ رِبْحُهٗ حَتّٰى يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِهٖ، كَذٰلِكَ الْمُصَلِّيْ لَا تُقْبَلُ لَهٗ نَافِلَةٌ حَتّٰى يُؤَدِّيَ الْفَرِيْضَةَ".

700 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "أَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا، سَيِّدٌ فِي الْآخِرَةِ، مَنْ أَحَبَّكَ أَحَبَّنِيْ وَ حَبِيْبُكَ حَبِيْبُ اللهِ، وَ عَدُوُّكَ عَدُوِّيْ، وَ عَدُوِّيْ عَدُوُّ اللهِ، اَلْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ".

701 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ: "لَمَّا أُسْرِيَ بِيْ مَرَرْتُ بِمَلَكٍ جَالِسٍ عَلٰى سَرِيْرٍ مِّنْ نُّوْرٍ وَّ إِحْدٰى رِجْلَيْهِ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْأُخْرٰى فِي الْمَغْرِبِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ لَوْحٌ يَّنْظُرُ فِيْهِ وَ الدُّنْيَا كُلُّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَ الْخَلْقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَ يَدُهٗ تَبْلُغُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰذَا قَالَ: هٰذَا عِزْرَآئِيْلُ تَقَدَّمْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَتَقَدَّمْتُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَ عَلَيْكَ

السَّلَامُ يَا أَحْمَدُ مَا فَعَلَ ابْنُ عَمِّكَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ: وَهَلْ تَعْرِفُ ابْنَ عَمِّيْ عَلِيًّا فَقَالَ: وَ كَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ وَقَدْ وَكَّلَنِيَ اللهُ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْخَلَائِقِ مَا خَلَا رُوْحَكَ وَ رُوْحَ ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، فَإِنَّ اللهَ يَتَوَفَّاكُمَا بِمَشِيْئَتِهِ"۔

702 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ جَزَاكَ اللهُ وَالْإِسْلَامُ خَيْرًا، فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيْكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَّقْضِيْ عَنْ أَخِيْهِ دَيْنًا إِلَّا فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِعَلِيٍّ خَاصَّةً قَالَ: بَلْ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ"۔

703 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيْكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَّيِّتٍ يَّمُوْتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ، فَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيْلَ: هٰذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً قَالَ: لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً"۔

704 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "ثَلَاثَةٌ تَشْتَاقُ إِلَيْهِمُ الْحُوْرُ: عَلِيٌّ وَّ عَمَّارٌ وَّ سَلْمَانُ"۔

705 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلٰى أَرْبَعَةٍ: عَلِيٍّ وَّ عَمَّارٍ وَّ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ"۔

706 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ اِشْتَاقَتْ إِلٰى أَرْبَعَةٍ مِّنْ أَصْحَابِيْ: عَلِيٍّ وَّ الْمِقْدَادِ وَ سَلْمَانَ وَ أَبِيْ ذَرٍّ"۔

707 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "نَزَلَ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ فَحَدَّثَنِيْ أَنَّ اللهَ يُحِبُّ أَرْبَعَةً مِّنْ أَصْحَابِيْ: عَلِيًّا وَّ سَلْمَانَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَّ الْمِقْدَادَ"۔

708 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهَ خَلْقُكَ خَلْقِيْ، وَ أَشْبَهَ خُلُقُكَ خُلُقِيْ، وَ أَنْتَ مِنِّيْ وَ شَجَرَتِيْ، وَ أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَخَتَنِيْ وَ أَبُوْ وَلَدِيْ وَ أَنَا مِنْكَ وَ أَنْتَ مِنِّيْ، وَ أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَمَوْلَايَ وَ مِنِّيْ وَ إِلَيَّ وَ أَحَبُّ الْقَوْمِ إِلَيَّ"۔

709 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ: "أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِكَ ثَلَاثَةً: عَلِيٌّ وَّ أَبُوْ ذَرٍّ وَّ الْمِقْدَادُ ابْنُ الْأَسْوَدِ، يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلٰى ثَلَاثَةٍ مِّنْ أَصْحَابِكَ: عَلِيٍّ وَّ عَمَّارٍ وَّ سَلْمَانَ"۔

710 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ اِنَّ الْاِسْلَامَ عُرْيَانٌ وَّ لِبَاسُهُ التَّقْوٰى، وَ رِيَاشُهُ الْهُدٰى، وَ زِيْنَتُهُ الْحَيَآءُ، وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ، وَ مِلَاكُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَ اَسَاسُ الْاِسْلَامِ حُبِّيْ وَحُبُّ اَهْلِ بَيْتِيْ"۔

711 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ اِنَّ اَوَّلَ اَرْبَعَةٍ يَّدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: اَنَا وَ اَنْتَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ ذَرَارِيُّنَا خَلْفَ ظُهُوْرِنَا وَ اَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِيْنَا، وَ شِيْعَتُنَا عَنْ اَيْمَانِنَا وَ عَنْ شَمَآئِلِنَا"۔

712 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ كُنْ سَخِيًّا فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ السَّخِيَّ، وَ كُنْ شُجَاعًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الشُّجَاعَ، وَ كُنْ غَيُوْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْغَيُوْرَ، وَاِنِ امْرُؤٌ سَئَلَكَ حَاجَةً فَاقْضِهَا فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا اَهْلًا كُنْتَ اَنْتَ لَهَا اَهْلًا"۔

713 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّمَا يَسْئَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَقَّهٗ، وَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يُّضَيِّعَ ذَا حَقٍّ حَقَّهٗ"۔

714 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "اُدْعُهُ وَلَا تُرِعْهُ مِنْ وَّرَآئِهٖ"۔

715 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اَبَا حَسَنٍ وَّجَدَ مَغَصًا فِيْ بَطْنِهٖ فَتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِ"۔

716 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّحْيَا حَيَاتِيْ وَ يَمُوْتَ مَمَاتِيْ وَ يَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ ِۨ الَّتِيْ غَرَسَهَا رَبِّيْ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا مِّنْ م بَعْدِيْ وَ الْيُوَالِ وَلِيَّهٗ، وَ الْيَعْتَقِدْ بِاَهْلِ بَيْتِيْ مِنْ م بَعْدِيْ، فَاِنَّهُمْ عِتْرَتِيْ خُلِقُوْا مِنْ طِيْنَتِيْ وَ رُزِقُوْا فَهْمِيْ وَ عِلْمِيْ، فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ اُمَّتِي الْقَاطِعِيْنَ فِيْهِمْ صِلَتِيْ، لَآ اَنَالَهُمُ اللّٰهُ شَفَاعَتِيْ"۔

717 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "يَا عَلِيُّ سَيُوْلَدُ لَكَ وَلَدٌ م بَعْدِيْ قَدْ نَحَلْتُهٗ اِسْمِيْ وَ كُنْيَتِيْ"۔

718 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "اِنَّهٗ سَيُوْلَدُ لَكَ بَعْدِيْ غُلَامٌ فَقَدْ نَحَلْتُهٗ اِسْمِيْ وَ كُنْيَتِيْ وَلَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ مِّنْ اُمَّتِيْ بَعْدَهٗ"۔

719 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِۨ الْقَآئِلِ: "اَنَا حَرْبٌ لِّمَنْ حَارَبَكُمْ، سِلْمٌ لِّمَنْ سَالَمَكُمْ"۔

720 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "اِنَّ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فِيْ حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ فِيْ قُبَّةٍ بَيْضَآءَ سَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ".

721 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "اَنَا وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ قُبَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ".

722 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "بِاَبِي الْوَحِيْدُ الشَّهِيْدُ، بِاَبِي الْوَحِيْدُ الشَّهِيْدُ".

723 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "اَخُوْكَ اِسْتَسْقٰى قَبْلَكَ يَشْرَبُ ثُمَّ تُشْرَبُ مَا هُوَ بِاَحَبِّهِمَآ اِلَيَّ وَاِنَّهُمَا عِنْدِيْ لَبِمَكَانٍ وَّاحِدٍ، وَّاِنِّيْ وَاِيَّاكَ وَهُمَا وَهٰذَا الرَّاقِدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَفِيْ مَكَانٍ وَّاحِدٍ".

724 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "اِنَّ اَخَاكَ اِسْتَسْقٰى قَبْلَكَ مَا هُوَ بِآثَرَ مِنْهُ عِنْدِيْ، وَاِنَّهُمَا عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَّاِنِّيْ وَاِيَّاكِ وَهُمَا وَهٰذَا النَّآئِمُ لَفِيْ مَكَانٍ وَّاحِدٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ".

725 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "سُدُّوْا هٰذِهِ الْاَبْوَابَ كُلَّهَآ اِلَّا بَابَ عَلِيٍّ".

726 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "عَلِيٌّ قَسِيْمُ النَّارِ".

727 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "عَلِيٌّ وَّشِيْعَتُهُ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

728 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْاِمَامِ فِي الصَّلَاةِ".

729 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "اُخْرُجْ يَا عَلِيُّ فَقُلْ عَنِ اللهِ لَا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ: لَعَنَ اللهُ مَنْ يَّقْطَعُ السِّدْرَ".

730 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ٍالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ اَلَآ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِذَا وَقَعْتَ فِيْ وَرْطَةٍ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّ اللهَ يَصْرِفُ بِهَا مَا يَشَآءُ مِنْ اَنْوَاعِ الْعَذَابِ".

731 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ أُحِبُّ لَكَ مَآ أُحِبُّ لِنَفْسِيْ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَآ أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ".

732 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "إِذَا حَزَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ احْرُسْنِيْ بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِيْ بِكَنَفِكَ الَّذِيْ لَا يُرَامُ، وَاغْفِرْ لِيْ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ فَلَآ أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِيْ، كَمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِيْ، وَكَمْ مِّنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِيْ بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِيْ، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهٖ شُكْرِيْ فَلَمْ يَحْرِمْنِيْ، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهٖ صَبْرِيْ فَلَمْ يَخْذُلْنِيْ، وَيَا مَنْ رَّآنِيْ عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِيْ، يَا ذَا الْمَعْرُوْفِ الَّذِيْ لَا يَنْقَضِيْ أَبَدًا، وَيَا ذَا النَّعْمَآءِ الَّتِيْ لَا تُحْصٰى عَدَدًا، أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَّبِكَ أَدْرَأُ فِيْ نُحُوْرِ الْأَعْدَآءِ وَالْجَبَّارِيْنَ".

733 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَآ أُحِبُّ لِنَفْسِيْ وَأَكْرَهُ لَكَ مَآ أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ وَلَا تَلْبَسِ الْمُعَصْفَرَ وَلَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ وَلَا تَلْبَسِ الْقَسِّيَّ وَلَا تَرْكَبَنَّ عَلٰى مِيْثَرَةٍ حَمْرَآءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَّيَاثِرِ إِبْلِيْسَ".

734 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَآ أُحِبُّ لِنَفْسِيْ وَأَكْرَهُ لَكَ مَآ أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ، لَا تَقْرَأْ وَأَنْتَ رَاكِعٌ وَّلَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ فَإِنَّهٗ كِفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصْبَآءِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ، وَلَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَلْبَسِ الْقَسِّيَّ وَلَا الْمُعَصْفَرَ، وَلَا تَرْكَبْ عَلَى الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ فَإِنَّهَا مَرَاكِبُ الشَّيْطَانِ".

735 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ عَلٰى أَنَّهٗ مَغْفُوْرٌ لَّكَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ".

736 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ قَصُّ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَالطِّيْبُ وَاللِّبَاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ".

737 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ أَرَاكَ حَزِيْنًا فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنُ فِيْ أُذُنِكَ فَإِنَّهٗ دَوَآءٌ لِّلْهَمِّ".

738 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْقَائِلِ: "يَا عَلِيُّ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوٰى بِالنَّهَارِ، يَا عَلِيُّ اُغْدُ بِاسْمِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ بَارَكَ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا".

739 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "يَا عَلِيُّ تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَ عَلِّمْهُ النَّاسَ، فَلَكَ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، فَاِنْ مُّتَّ مُتَّ شَهِيْدًا، يَا عَلِيُّ تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَ عَلِّمْهُ النَّاسَ فَاِنْ مُتَّ حَجَّتِ الْمَلَآئِكَةُ اِلٰى قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ النَّاسُ اِلٰى بَيْتِ اللهِ الْعَتِيْقِ".

740 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "يَا عَلِيُّ كَبِّرْ دُبُرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَّوْمِ عَرَفَةَ اِلٰى آخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ صَلَاةِ الْعَصْرِ".

741 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "يَا عَلِيُّ اِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ اِلَى اللهِ فِيْ اَبْوَابِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبْ اِلَيْهِ بِاَنْوَاعِ الْعَقْلِ تَسْبِقُهُمْ بِالدَّرَجَاتِ وَ الزُّلْفٰى عِنْدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَ عِنْدَ اللهِ فِي الْآخِرَةِ".

742 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "يَا عَلِيُّ اَلنَّاسُ رَجُلَانِ، فَعَاقِلٌ يَّصْلُحُ لِلْعَفْوِ، وَ جَاهِلٌ يَّصْلُحُ لِلْعُقُوْبَةِ".

743 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اِنَّهٗ يَكُوْنُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عَآئِشَةَ اَمْرٌ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَارْدُدْهَا اِلٰى مَأْمَنِهَا".

744 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَاهٰى بِكُمْ وَ غَفَرَ لَكُمْ عَآمَّةً، وَ غَفَرَ لِعَلِيٍّ خَاصَّةً، فَاِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ اَبْغَضَ عَلِيًّا فِيْ حَيَاتِهٖ وَ بَعْدَ مَوْتِهٖ".

745 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اِنَّ اَوَّلَ خَلْقِ اللهِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ، فَيُكْسٰى ثَوْبَيْنِ اَبْيَضَيْنِ ثُمَّ يُقَامُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ ثُمَّ اُدْعٰى فَاُكْسٰى ثَوْبَيْنِ اَخْضَرَيْنِ، ثُمَّ اُقَامُ عَنْ يَّسَارِ الْعَرْشِ، ثُمَّ تُدْعٰى اَنْتَ يَا عَلِيُّ فَتُكْسٰى ثَوْبَيْنِ اَخْضَرَيْنِ، ثُمَّ تُقَامُ عَنْ يَّمِيْنِيْ، اَفَمَا تَرْضٰى اَنْ تُدْعٰى اِذَا دُعِيْتُ وَ تُكْسٰى اِذَا كُسِيْتُ، وَ اَنْ تَشْفَعَ اِذَا شُفِّعْتُ".

746 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "اَلَا اِنَّ هٰذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَّلَا لِحَآئِضٍ اِلَّا لِلنَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلِيٍّ، اَلَا بَيَّنْتُ لَكُمْ اَنْ تُضِلُّوْا".

747 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "لِمُبَارَزَةُ عَلِيٍّ لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ اَفْضَلُ مِنْ اَعْمَالِ اُمَّتِيْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

748 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ : "وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ

رَحْمَةُ اللهِ عِشْرُوْنَ لِيْ وَ عِشْرُ لَّكَ، فَدَخَلْتُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ، فَقَالَ : وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ ثَلَاثُوْنَ لِيْ وَ عِشْرُوْنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، فَقَالَ : وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ ثَلَاثُوْنَ لِيْ وَ ثَلَاثُوْنَ لَكَ، وَ اَنَا وَ اَنْتَ يَا عَلِيُّ فِي السَّلَامِ سَوَآءٌ، اِنَّهٗ مَنْ مَّرَّ عَلٰى مَجْلِسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كَتَبَ اللهُ لَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَّ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَّ رَفَعَ لَهٗ عَشْرَ دَرَجَاتٍ"۔

749 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : " اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ جَعَلْتَ صَلَاتَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ مَغْفِرَتَكَ وَ رِضْوَانَكَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ مِنِّيْ وَ اَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ مَغْفِرَتَكَ وَ رِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهِمْ"۔

750 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : " لَا تَسُبُّوْا عَلِيًّا فَاِنَّهٗ كَانَ مَمْسُوْسًا فِيْ ذَاتِ اللهِ"۔

751 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : " هٰذَا مِنِّيْ - يَعْنِي الْحَسَنَ - وَ الْحُسَيْنُ مِنْ عَلِيٍّ"۔

752 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ كَانَ اِذَا غَضِبَ لَمْ يَجْتَرِئْ عَلَيْهِ اَحَدٌ اِلَّا عَلِيٌّ"۔

اَلْبَابُ السَّابِعُ
فِيْمَا جَآءَ فِيْ فَضَآئِلِ الْاَرْبَعَةِ عَلَى التَّعْيِيْنِ
نَفَعَنَا اللهُ بِهِمْ اَجْمَعِيْنَ آمِيْن

753 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : " اَرْبَعَةٌ لَّا يَجْتَمِعُ حُبُّهُمْ فِيْ قَلْبِ مُنَافِقٍ وَّلَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ : اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِيٌّ"۔

754 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : " اَبُوْ بَكْرِ ۨ الصِّدِّيْقُ وَزِيْرِيْ وَ خَلِيْفَتِيْ مِنْ ۢ بَعْدِيْ، وَ عُمَرُ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِيْ، وَ عَلِيٌّ ابْنُ عَمِّيْ وَ اَخِيْ وَ حَامِلُ رَايَتِيْ، وَ عُثْمَانُ مِنِّيْ وَ اَنَا مِنْ عُثْمَانَ"۔

755 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : " اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرُ مِنِّيْ كَعَيْنَيَّ فِيْ رَأْسِيْ، وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنِّيْ كَلِسَانِيْ فِيْ فَمِيْ، وَ عَلِيُّ ابْنُ اَبِيْ طَالِبٍ كَرُوْحِيْ فِيْ جَسَدِيْ"۔

756 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِلِ : " لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ

هٰؤُلَآءِ الْاَرْبَعَةِ فِیْ قَلْبِ مُنَافِقٍ: اَبِیْ بَکْرٍ، وَّ عُمَرَ، وَ عُثْمَانَ، وَ عَلِیٍّ"۔

757 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "لَا یَجْتَمِعُ حُبُّ هٰؤُلَآءِ الْاَرْبَعَةِ اِلَّا فِیْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ: اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِیٍّ"۔

758 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَنْ فَضَّلَ عَلٰی اَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِیٍّ فَقَدْ رَدَّ مَا قُلْتُهٗ وَ کَذَّبَ مَا هُمْ اَهْلُهٗ"۔

759 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِیْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ مِّنْ اَصْحَابِیْ وَ قَالَ اُحِبُّهُمْ: اَبُوْ بَکْرٍ، وَّ عُمَرُ، وَ عُثْمَانُ، وَ عَلِیٌّ"۔

760 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَرْحَمُ اُمَّتِیْ اَبُوْ بَکْرٍ، وَّ اَشَدُّهُمْ فِی اللّٰهِ عُمَرُ، وَ اَکْثَرُهُمْ حَیَآءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَ اَقْضَاهُمْ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ"۔

761 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَلْقَآئِمُ بَعْدِیْ فِی الْجَنَّةِ وَ الَّذِیْ یَقُوْمُ بَعْدِهٖ فِی الْجَنَّةِ، وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ فِی الْجَنَّةِ"۔

762 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا بَکْرٍ زَوَّجَنِی ابْنَتَهٗ، وَ حَمَلَنِیْ اِلٰی دَارِ الْهِجْرَةِ، وَ اَعْتَقَ بِلَالًا مِّنْ مَّالِهٖ، وَ مَا نَفَعَنِیْ مَالٌ فِی الْاِسْلَامِ مَا نَفَعَنِیْ مَالُ اَبِیْ بَکْرٍ، رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ یَقُوْلُ الْحَقَّ وَ اِنْ کَانَ مُرًّا،

لَقَدْ تَرَکَهُ الْحَقُّ وَ مَا لَهٗ مِنْ صَدِیْقٍ، رَحِمَ اللّٰهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْیِیْهِ الْمَلَآئِکَةُ، وَ جَهَّزَ جَیْشَ الْعُسْرَةِ، وَ زَادَ فِیْ مَسْجِدِنَا حَتّٰی وَسِعَنَا، رَحِمَ اللّٰهُ عَلِیًّا، اَللّٰهُمَّ اَدِرِ الْحَقَّ مَعَهٗ حَیْثُ دَارَ"۔

763 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "یَا عَلِیُّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِیْ اَنْ اَتَّخِذَ اَبَا بَکْرٍ وَالِدًا، وَّ عُمَرَ مُشِیْرًا، وَّ عُثْمَانَ سَنَدًا، وَّ اَنْتَ یَا عَلِیُّ ظَهْرًا، فَاَنْتُمْ اَرْبَعَةٌ قَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَکُمْ فِیْ اُمِّ الْکِتَابِ، لَا یُحِبُّکُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا یُبْغِضُکُمْ اِلَّا فَاجِرٌ، اَنْتُمْ خَلَآئِفُ نُبُوَّتِیْ وَ عَقْدُ ذِمَّتِیْ وَ حُجَّتِیْ عَلٰی اُمَّتِیْ، لَا تَقَاطَعُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَعَاقُّوْا"۔

764 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ اَصْحَابِیْ عَلٰی جَمِیْعِ الْعَالَمِیْنَ سِوَی النَّبِیِّیْنَ وَ الْمُرْسَلِیْنَ وَ اخْتَارَ لِیْ مِنْ اَصْحَابِیْ اَرْبَعَةً فَجَعَلَهُمْ خَیْرَ اَصْحَابِیْ وَ فِیْ کُلِّ اَصْحَابِیْ خَیْرٌ: اَبُوْ بَکْرٍ، وَّ عُمَرُ، وَ عُثْمَانُ، وَ عَلِیٌّ، وَ اخْتَارَ اُمَّتِیْ عَلٰی سَآئِرِ الْاُمَمِ فَبَعَثَنِیْ فِیْ خَیْرِ قَرْنٍ ثُمَّ الثَّانِیْ ثُمَّ الثَّالِثُ تَتْرٰی ثُمَّ الرَّابِعُ فُرَادٰی"۔

765 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَنْ اَحَبَّ اَنْ یَّنْظُرَ

اِلٰی اِبْرَاهِیْمَ فِیْ خُلَّتِهٖ فَلْیَنْظُرْ اِلٰی اَبِیْ بَکْرٍ فِیْ سَمَاحَتِهٖ، وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ یَّنْظُرَ اِلٰی نُوْحٍ فِیْ شِدَّتِهٖ فَلْیَنْظُرْ اِلٰی عُمَرَ فِیْ شُجَاعَتِهٖ، وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ یَّنْظُرَ اِلٰی اِدْرِیْسَ فِیْ رِفْعَتِهٖ فَلْیَنْظُرْ اِلٰی عُثْمَانَ فِیْ رَحْمَتِهٖ، وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ یَّنْظُرَ اِلٰی یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا فِیْ جِهَادَتِهٖ فَلْیَنْظُرْ اِلٰی عَلِیٍّ فِیْ طَهَارَتِهٖ"۔

766 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ حُبَّ اَبِیْ بَکْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِیٍّ، کَمَا افْتَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَاةَ وَالزَّکَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ، فَمَنْ اَنْکَرَ فَضْلَهُمْ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا الزَّکَاةُ وَلَا الصَّوْمُ وَلَا الْحَجُّ"۔

اَلْبَابُ الثَّامِنُ

فِیْمَا جَآءَ فِیْ فَضْلِهِمْ اَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ ضَمِّ غَیْرِهِمْ لَهُمْ

رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ وَحَشَرَنَا مَعَهُمْ

767 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَکْرٍ اَرْاَفُ اُمَّتِیْ وَاَرْحَمُهَا، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَیْرُ اُمَّتِیْ وَاَعْدَلُهَا، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَحْیَا اُمَّتِیْ وَاَکْرَمُهَا، وَعَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ اَبَرُّ اُمَّتِیْ وَاَشْجَعُهَا، وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَبَرُّ اُمَّتِیْ وَاٰمَنُهَا، وَاَبُوْ ذَرٍّ اَزْهَدُ اُمَّتِیْ وَاَصْدَقُهَا، وَاَبُو الدَّرْدَاءِ اَعْبَدُ اُمَّتِیْ وَاَتْقَاهَا، وَمُعَاوِیَةُ بْنُ اَبِیْ سُفْیَانَ اَحْلَمُ اُمَّتِیْ وَاَجْوَدُهَا"۔

768 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اَرْحَمُ اُمَّتِیْ اَبُوْ بَکْرِنِ الصِّدِّیْقِ، وَاَحْسَنُهُمْ خُلُقًا اَبُوْ عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَاَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً اَبُوْ ذَرٍّ، وَّاَشَدُّهُمْ فِی الْحَقِّ عُمَرُ، وَاَقْضَاهُمْ عَلِیٌّ"۔

769 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اَرْحَمُ اُمَّتِیْ بِاُمَّتِیْ اَبُوْ بَکْرٍ، وَّاَرْفَقُ اُمَّتِیْ لِاُمَّتِیْ عُمَرُ، وَاَصْدَقُ اُمَّتِیْ حَیَآءً عُثْمَانُ، وَاَقْضٰی اُمَّتِیْ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ، وَّاَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ یَّجِیْءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَمَامَ الْعُلَمَآءِ بِرَبْوَةٍ، وَّاَقْرَأُ اُمَّتِیْ اُبَیُّ بْنُ کَعْبٍ، وَّاَفْرَضُهَا زَیْدُ ابْنُ ثَابِتٍ، وَّقَدْ اُوْتِیَ عُوَیْمِرٌ عِبَادَةً یَّعْنِیْ اَبَا الدَّرْدَآءِ"۔

770 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ: "اَرْحَمُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ بَکْرٍ، وَّاَقْوَاهُمْ فِیْ دِیْنِ اللهِ عُمَرُ، وَاَفْرَضُهُمْ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَّاَقْضَاهُمْ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ، وَّاَصْدَقُهُمْ حَیَآءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَاَمِیْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَاَقْرَؤُهُمْ لِکِتَابِ اللهِ اُبَیُّ بْنُ کَعْبٍ، وَّاَبُوْ هُرَیْرَةَ وِعَآءٌ مِّنَ الْعِلْمِ، وَسَلْمَانُ عَالِمٌ لَّا یُدْرَکُ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اَعْلَمُ النَّاسِ بِحَلَالِ اللهِ وَحَرَامِهٖ وَمَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَآءُ وَلَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَآءُ مِنْ ذِیْ لَهْجَةٍ اَصْدَقَ مِنْ اَبِیْ ذَرٍّ"۔

771 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَاِنَّهٗ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُوْلَكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عُمَرَ فَاِنَّهٗ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُوْلَكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عُثْمَانَ فَاِنَّهٗ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُوْلَكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَاِنَّهٗ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُوْلَكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ فَاِنَّهٗ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُوْلَكَ".

772 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اَرْاَفُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ، وَّ اَشَدُّهُمْ فِى الدِّيْنِ عُمَرُ، وَ اَصْدَقُهُمْ حَيَآءً عُثْمَانُ، وَ اَقْضَاهُمْ عَلِىٌّ، وَّ اَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَّ اَقْرَؤُهُمْ اُبَىٌّ، وَّ اَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، اَلَا وَ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنًا، وَّ اَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ".

773 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اَرْاَفَ النَّاسِ بِهٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ بَكْرٍ، وَّاِنَّ اَقْوَاهَا فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ، وَاِنَّ اَصْدَقَهَا حَيَآءً عُثْمَانُ، وَاِنَّ اَعْلَمَهَا بِفَصْلِ الْقَضَآءِ عَلِىٌّ، وَّاِنَّ اَقْرَاَهَا اُبَىٌّ، وَّاِنَّ اَفْرَضَهَا زَيْدٌ، وَّاِنَّ اَعْلَمَهَا بِالنَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوْخِ مُعَاذٌ، وَّاِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنًا وَّاِنَّ اَمِيْنَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ".

774 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "مَا مِنْ نَّبِىٍّ اِلَّا لَهٗ نَظِيْرٌ فِىْ اُمَّتِىْ، فَاَبُوْ بَكْرٍ نَظِيْرُ اِبْرَاهِيْمَ، وَ عُمَرُ نَظِيْرُ مُوْسٰى، وَ عُثْمَانُ نَظِيْرُ هَارُوْنَ، وَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ نَّظِيْرِىْ، وَمَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى اَبِىْ ذَرِّ نِ الْغِفَارِىِّ".

775 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ اَصْحَابِىْ عَلٰى جَمِيْعِ الْعَالَمِيْنَ سِوَى النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اخْتَارَ لِىْ مِنْ اَصْحَابِىْ اَرْبَعَةً: اَبَا بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيًّا، فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ اَصْحَابِىْ، وَ فِىْ اَصْحَابِىْ كُلِّهِمْ خَيْرٌ وَّ اخْتَارَ اُمَّتِىْ عَلٰى سَآئِرِ الْاُمَمِ، وَ اخْتَارَ مِنْ اُمَّتِىْ اَرْبَعَةَ قُرُوْنٍ م بَعْدَ اَصْحَابِىْ، اَلْقَرْنُ الْاَوَّلُ وَ الثَّانِىْ وَ الثَّالِثُ تَتْرٰى وَ الْقَرْنُ الرَّابِعُ فُرَادٰى".

776 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِلِ: "لِاَبِىْ ذَرٍّ وَّ هُوَ جَالِسٌ تَحْتَ نُخَيْلَاتٍ: مَا جَآءَ بِكَ قُلْتُ: اَللّٰهُ جَآءَ بِىْ وَ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَهٗ، فَقَالَ: اِجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْتَ اَتَانَا رَجُلٌ صَالِحٌ، فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: مَا جَآءَ بِكَ قَالَ اللّٰهُ جَآءَ بِىْ وَ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَهٗ، فَاَمَرَهٗ فَجَلَسَ فَقَالَ: لِيَرْبَعْنَا رَجُلٌ صَالِحٌ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَا جَآءَ بِكَ فَقَالَ: اَللّٰهُ جَآءَ بِىْ وَ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَهٗ فَاَمَرَهٗ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لِيَخْمِسْنَا رَجُلٌ صَالِحٌ، فَاَقْبَلَ عُثْمَانُ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَا جَآءَ بِكَ قَالَ : اَللهُ جَآءَ بِيْ وَ اَبْتَغِيْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔
فَاَمَرَهٗ فَجَلَسَ ثُمَّ جَآءَ عَلِيٌّ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ : مَا جَآءَ بِكَ ؟ قَالَ : اَللهُ جَآءَ بِيْ وَ اَبْتَغِيْ رَسُوْلَهٗ، ثُمَّ اَمَرَهٗ فَجَلَسَ وَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَصَيَاتٌ فَسَبَّحْنَ فِيْ يَدِهٖ فَنَاوَلَهُنَّ اَبَا بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ فِيْ يَدِهٖ ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ فَنَاوَلَهُنَّ عُمَرَ
فَسَبَّحْنَ فِيْ يَدِهٖ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ فَنَاوَلَهُنَّ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ فِيْ يَدِهٖ، ثُمَّ انْتَزَعَهُنَّ مِنْهُ فَنَاوَلَهُنَّ عَلِيًّا فَلَمْ
يُسَبِّحْنَ وَ خَرِسْنَ"۔

777 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : " اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ
بَارَكْتَ لِاُمَّتِيْ فِيْ اَصْحَابِيْ فَلَا تَسْلُبْهُمُ الْبَرَكَةَ، وَ بَارَكْتَ لِاَصْحَابِيْ فِيْ اَبِيْ بَكْرٍ فَلَا تَسْلُبْهُمُ الْبَرَكَةَ وَ اجْمَعْهُمْ
عَلَيْهِ وَلَا تَنْثُرْ اَمْرَهٗ فَاِنَّهٗ لَمْ يَزَلْ يُؤْثِرُ اَمْرَكَ عَلٰى اَمْرِهٖ۔ اَللّٰهُمَّ وَ اَعِزَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ صَبِّرْ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ وَ وَفِّقْ عَلِيًّا، وَّ اغْفِرْ لِطَلْحَةَ وَ ثَبِّتِ الزُّبَيْرَ، وَ سَلِّمْ سَعْدًا، وَّ وَقِّرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، وَّ اَلْحِقْ بِيَ
السَّابِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ التَّابِعِيْنَ بِاِحْسَانٍ الَّذِيْنَ لَا يَتَكَلَّفُوْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ وَ
صَالِحِيْ اُمَّتِيْ بُرَآءُ مِّنَ التَّكَلُّفِ"۔

778 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : " يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ
اَبَا بَكْرٍ لَّمْ يَسُؤْنِيْ قَطُّ فَاعْرِفُوْا ذٰلِكَ لَهٗ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَاضٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَّ طَلْحَةَ وَ
الزُّبَيْرِ وَ سَعْدٍ وَّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ فَاعْرِفُوْا ذٰلِكَ لَهُمْ، يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ قَدْ
غَفَرَ لِاَهْلِ بَدْرٍ وَّ الْحُدَيْبِيَةِ۔ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ احْفَظُوْنِيْ فِيْ اَخْتَانِيْ وَ اَصْهَارِيْ وَ اَصْحَابِيْ لَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ
بِمَظْلِمَةِ اَحَدٍ مِّنْهُمْ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُوْهَبُ۔ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوْا اَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اِذَا مَاتَ
اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا تَقُوْلُوْا فِيْهِ اِلَّا خَيْرًا"۔

779 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : " اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ
اَبُوْ بَكْرٍ ، وَّ اَشَدُّهُمْ فِيْ دِيْنِ اللهِ عُمَرُ، وَ اَصْدَقُهُمْ حَيَآءً عُثْمَانُ، وَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَ
اَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَ اَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ، وَّ اَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ
اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ"۔

780 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَائِلِ : " يَآ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ
لَقَدْ اَرَانِيَ اللهُ اللَّيْلَةَ مَنَازِلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَ قُدْرَ مَنَازِلِكُمْ مِّنْ مَّنْزِلِيْ، يَا عَلِيُّ اَلَا تَرْضٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَنْزِلُكَ
مُقَابِلَ مَنْزِلِيْ فِي الْجَنَّةِ، يَا اَبَا بَكْرٍ اِنِّيْ لَاَعْرِفُ رَجُلًا ، بِاِسْمِهٖ وَ اِسْمِ اَبِيْهِ وَ اُمِّهٖ اِذَا اَتٰى بَابَ الْجَنَّةِ لَمْ يَبْقَ بَابٌ
مِّنْ اَبْوَابِهَا وَلَا غُرْفَةٌ مِّنْ غُرَفِهَا اِلَّا قَالَ لَهٗ : مَرْحَبًا مَّرْحَبًا، هُوَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ، يَا عُمَرُ لَقَدْ اُرِيْتُ فِيْ

الْجَنَّةِ قَصْرًا مِّنْ دُرَّةٍ بَيْضَآءَ شُرَفُهٗ مِنْ لُّؤْلُؤٍ اَبْيَضَ مُشَيَّدًا ، بِالْيَاقُوْتِ فَاَعْجَبَنِيْ حُسْنُهٗ فَقُلْتُ : يَا رِضْوَانُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالَ : لِفَتًى مِّنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُهٗ لِيْ، فَذَهَبْتُ لِاَدْخُلَهٗ فَقَالَ لِيْ رِضْوَانُ : هٰذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَوْلَا غَيْرَتُكَ يَآ اَبَا حَفْصٍ لَّدَخَلْتُهٗ، يَا عُثْمَانُ، اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَّفِيْقًا فِي الْجَنَّةِ وَ اَنْتَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ. يَا طَلْحَةُ وَ زُبَيْرُ، اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَّ اَنْتُمَا حَوَارِيَّايَ. يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ بَطُوْءَ بِكَ عَنِّيْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ تَكُوْنَ قَدْ هَلَكْتَ ثُمَّ جِئْتَ وَ قَدْ عَرِقْتَ عَرَقًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ لَكَ : مَآ اَبْطَاَ بِكَ عَنِّيْ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ تَكُوْنَ قَدْ هَلَكْتَ، فَقُلْتَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَثْرَةُ مَالِيْ مَا زِلْتُ مَوْقُوْفًا مُّحْتَسِبًا اُسْئَلُ عَنْ مَّالِيْ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبْتَهٗ وَفِيْمَ اَنْفَقْتَهٗ".

781 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "اِنَّهٗ لَمْ يَكُنْ نَّبِيٌّ قَبْلِيْ اِلَّا وَ قَدْ اُعْطِيَ سَبْعَةَ رُفَقَآءَ وَ نُجَبَآءَ وَ وُزَرَآءَ، وَ اِنِّيْ قَدْ اُعْطِيْتُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ : حَمْزَةُ، وَ جَعْفَرُ، وَ عَلِيٌّ، وَّ حَسَنٌ، وَّ حُسَيْنٌ، وَّ اَبُوْ بَكْرٍ، وَّ عُمَرُ، وَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَ اَبُوْ ذَرٍّ، وَ الْمِقْدَادُ، وَ حُذَيْفَةُ، وَ عَمَّارٌ، وَ بِلَالٌ، وَّ صُهَيْبٌ".

782 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "مَا مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا قَدْ اُعْطِيَ سَبْعَةَ نُقَبَآءَ وُزَرَآءَ نُجَبَآءَ رُفَقَآءَ، وَ اُعْطِيْتُ اَنَا اَرْبَعَةَ عَشَرَ وَزِيْرًا نَّقِيْبًا نَجِيْبًا، سَبْعَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ : عَلِيٌّ، وَّ الْحَسَنُ، وَ الْحُسَيْنُ، وَ حَمْزَةُ، وَ جَعْفَرُ، وَ اَبُوْ بَكْرٍ، وَّ عُمَرُ، وَ سَبْعَةٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ : عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَّ سَلْمَانُ، وَ اَبُوْ ذَرٍّ، وَّ حُذَيْفَةُ، وَ عَمَّارٌ، وَ الْمِقْدَادُ، وَ بِلَالٌ".

(خَاتِمَةٌ)

فِيْ اَحَادِيْثِ تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ الْمُبَشِّرِيْنَ بِالْجَنَّةِ
اَدْخَلَنَا اللّٰهُ فِيْ شَفَاعَتِهِمْ فَضْلًا مِّنْهُ وَ مِنَّةً

783 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "اَنَا فِي الْجَنَّةِ، وَ اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَ الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ".


784 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اَلنَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَ اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَ طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعْدُ ابْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ".

785 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِلِ : "عَشَرَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فِي الْجَنَّةِ، اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَ طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَ الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَ سَعِيْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ".

786 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقَآئِلِ: "اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ، وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ".

بسم الله الرحمن الرحيم

الله نور السمٰوٰت والارض مثل نوره كمشكوٰة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مبٰركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَلصَّلَوَاتُ الْاَلْفِيَةُ

فِي الْكَمَالَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ﷺ

القاضی الشیخ
یوسف بن اسماعیل النبهانی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری


ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

المکتبة القادریة 24 الباکستان
0092-3335187573

الصلوات الالفية

کتاب مذکورہ بالا حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل النبھانی کی تصنیف مبارکہ ہے جو دُرود وسلام کے رنگا رنگ ایک ہزار صیغوں (حروفِ تہجی کی ترتیب سے) پر مشتمل ہے۔ آپ کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے دُرود وسلام پر اپنی کتاب "**صلوات الثناء علیٰ سید الانبیاء** ﷺ" میں سرکارِ دوعالم ﷺ کے فضائل وشمائل اور معجزاتِ مبارکہ کثرت سے جمع کر دیئے۔ جس سے وہ ایک ضخیم کتاب بن گئی جس کا کسی ایک مجلس میں پڑھنا مشکل ہے، تو پھر میں نے اُس کتاب کے انوار اخذ کئے اور اُن کو انتہائی مختصر دُرودوں میں پَرو کر ایک ہزار دُرود وسلام کا گلدستہ تیار کیا کیونکہ ایک حدیثِ نبوی ﷺ ہے کہ "**من صلی علی الفاً زاحمت کتفه کتف علی باب الجنة**" جس نے مجھ پر ایک ہزار مرتبہ دُرود پڑھا تو جنت کے دروازے پر اُس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ جُڑا ہوگا۔

کتاب مذکورہ کا جو نسخہ ہمارے زیرِ نظر رہا اُس کے سرورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔



اَلصَّلَوَاتُ الْأَلْفِيَّةُ

فِي الْكَمَالَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

{إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
- إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ
- عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ

عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
- کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ۔
- اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، وَ بَارِکْ

عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ آلَ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
- مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، صَلَاةُ اللّٰهِ وَ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
- اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

3 حَرْفِ "همزه"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْبَدْءِ الْبَهَآءِ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَلِيْءِ الْمُضِيْءِ الضِّيَآءِ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَعِيْمِ الْاَنْبِيَآءِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَطِيْبِ الْاَنْبِيَآءِ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْاَنْبِيَآءِ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْاَنْبِيَآءِ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرِّدَآءِ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللِّوَآءِ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَارِئِ الْمُقْرِئِ الْمُبَرَّأِ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يُطْفَأُ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ اَنْبِيَآئِكَ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ اَصْفِيَآئِكَ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَوْلِيَآئِكَ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السُّعَدَآءِ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّفَعَآءِ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّهَدَآءِ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَصْفِيَآءِ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوْفِيَآءِ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَتْقِيَآءِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَسْخِيَآءِ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُرَمَآءِ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصُّلَحَآءِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعُلَمَآءِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقُرَّآءِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّآءِ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ اَهْلِ الْاِصْطِفَآءِ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْبَهَآءِ وَالسَّنَآءِ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَامِلِ لِوَآءِ الْحَمْدِ وَالثَّنَآءِ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّبِيِّيْنَ اَزْرَاءً۔
صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "الف مقصوره"

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ الْمُجْتَبٰى۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُرْتَضٰى۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُعَلَّى الْاَعْلٰى۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْهُدٰى الْمَوْلٰى۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُزَكَّى الْاَزْكٰى۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْاَتْقَى الْاَنْقٰى۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَسْنٰى۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْاَحْمٰى۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَلِيْلِكَ الْاَقْوٰى۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَلِمَتِكَ الْعُلْيَا۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْاَوْفٰى۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفِيِّكَ الْاَصْفٰى۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْهُدٰى۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ الْاَجْلٰى۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْجِنْسِ الْاَعْلٰى۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ الْاَوْلٰى۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْاَغَرِّ الْاَبْهٰى۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الذَّاتِ الْعُظْمٰى۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِالْخِلَافَةِ الْكُبْرٰى۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُخْتَصِّ بِالسِّرِّ الْاَخْفٰى۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُنْفَرِدِ بِالْمَقَامِ الْاَسْمٰى۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الطَّرِيْقَةِ الْمُثْلٰى۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّفَاتِ الْحُسْنٰى۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنْزِلَةِ الزُّلْفٰى۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْاَسْمٰى۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَلْبِ الْاَرْضٰى۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامِ الْاَعْلٰى۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الشَّرَفِ الْاَغْلٰى۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَوْرِدِ الْاَحْلٰى۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْاٰخِرَةِ وَالدُّنْيَا۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ الْكَامِلِيْنَ دُنْيَا وَاُخْرٰى۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ب"

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَسِيْبِ النَّسِيْبِ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ اللَّبِيْبِ الْمُنِيْبِ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَرِيْبِ الرَّقِيْبِ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الطَّيِّبِ الْحَبِيْبِ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّدْبِ النَّقِيْبِ۔

79 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُجَابِ الْمُجِيْبِ۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّاحِبِ الْمُسْتَجِيْبِ۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّاكِبِ النَّجِيْبِ۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَضِيْبِ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الطَّيِّبِ الطَّبِيْبِ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّجِيْبِ الْمُنْتَجَبِ۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُهَذَّبِ الْمُنْتَخَبِ۔
86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْاَطْيَبِ الْاَشْنَبِ۔
87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَاشِفِ الْكُرَبِ۔
88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّافِعِ الرُّتَبِ۔
89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عِزِّ الْعَرَبِ۔
90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَابِقِ الْعَرَبِ۔
91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْصَحِ الْعَرَبِ۔
92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَنْفَسِ الْعَرَبِ۔
93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّجْمِ الثَّاقِبِ۔
94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْكَوْكَبِ الْغَالِبِ۔
95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُرَغِّبِ الرَّاغِبِ۔
96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُعَقِّبِ الْعَاقِبِ۔
97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْقُطْبِ الْمُهَابِ۔
98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالشِّهَابِ الرَّهَّابِ۔
99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُثِيْبِ الْوَهَّابِ۔
100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ التَّوْبَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ۔
101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاَوَّابِ۔
102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّاطِقِ بِالصَّوَابِ۔
103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَنْعُوْتِ فِي الْكِتَابِ۔
104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْاَقْطَابِ۔
105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالرَّسُوْلِ الْمُقَرَّبِ۔
106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْمُطَيَّبِ۔
107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَحْبُوْبِ الْمُحَبَّبِ۔
108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُظَلَّلِ بِالسُّحُبِ۔
109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَنْصُوْرِ بِالرُّعْبِ۔
110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ اَهْلِ الْحُبِّ۔
111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قِبْلَةِ اَهْلِ الْقُرْبِ۔
112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ النَّبِيِّيْنَ ثَوَابًا۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ الْمُرْسَلِيْنَ خِطَابًا۔
صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ت"

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَانِتِ الْمُخْبِتِ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَثِيْرِ الصَّمْتِ۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَلِيْلِ الْخَيْرَاتِ۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّفِيْعِ الدَّرَجَاتِ۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّقِيْلِ الْعَثَرَاتِ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاٰخِذِ بِالْحُجُزَاتِ۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَيْرَاتِ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّفُوْحِ عَنِ الزَّلَّاتِ۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاٰيَاتِ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاِشَارَاتِ۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَنْ مَّضٰى وَمَنْ هُوَ آتٍ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّحْدَانِيِّ الذَّاتِ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْلَى التَّجَلِّيَاتِ۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّرَادِ الْاِرَادَاتِ۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الصِّفَاتِ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةِ السُّبُحَاتِ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَدْءِ الْبِدَايَاتِ۔

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَايَةِ الْغَايَاتِ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْلِ الْبَرِيَّاتِ۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُكَرَّمِ بِالْكَرَامَاتِ۔

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَابِ الْخَيْرَاتِ۔

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِلْمُقَفَّلَاتِ۔

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِاَعْلَى الْمَقَامَاتِ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيَّدِ بِاَوْضَحِ الدَّلَالَاتِ۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَنْصُوْرِ بِالرُّعْبِ وَالْمُعْجِزَاتِ۔

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلِكِ الْكَمَالَاتِ۔

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ الْبِدَايَاتِ وَالنِّهَايَاتِ۔

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِمِ بِحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ۔

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَاتِحَةِ الْمَوْجُوْدَاتِ۔

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّغْنَاطِيْسِ الْكَمَالَاتِ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَامِلِ الذَّاتِ۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمِيْلِ الصِّفَاتِ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّغْرِبِ اَسْرَارِ الذَّاتِ۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّشْرِقِ اَنْوَارِ الصِّفَاتِ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ اَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّخْبَةِ جَمِيْعِ الْكَائِنَاتِ۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ دَوَائِرِ السَّعَادَاتِ۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّاحِي الشِّرْكِ وَالضَّلَالَاتِ۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ الْوَاضِحَاتُ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَعْجَزُ عَنْ كُنْهِهِ الْعِبَارَاتُ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِرَازِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّسْتَوْدَعِ خَزَآئِنِ الرَّحَمُوْتِ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ عِنَايَتِكَ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ هِدَايَتِكَ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ حَضْرَتِكَ۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِسَانِ حُجَّتِكَ۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خِزَانَةِ رَحْمَتِكَ۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَاسِمِ نِعْمَتِكَ۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِمِ بِاَعْبَآءِ دَعْوَتِكَ۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلِيْكِ صُنْعِ قُدْرَتِكَ۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ اَهْلِ صَفْوَتِكَ۔

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خُلَاصَةِ اَهْلِ مَحَبَّتِكَ۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَالِ جَمَالِ مَمْلَكَتِكَ۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ جَلَالِ سَلْطَنَتِكَ۔

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ۔

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلِيْقَتِكَ۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّرْاٰةِ ذَاتِكَ۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْلٰى صِفَاتِكَ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قِبْلَةِ تَجَلِّيَاتِكَ۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ حَضَرَاتِكَ۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَجْمَلِ مَصْنُوْعَاتِكَ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ مُبْدَعَاتِكَ۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُفَسِّرِ لِاٰيَاتِكَ۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ اَسْمَآئِكَ وَصِفَاتِكَ۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَلَقْتَهٗ مِنْ نُّوْرِكَ وَ خَلَقْتَ مِنْهُ جَمِيْعَ

مَخْلُوْقَاتِكَ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِيَّاتِكَ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ عَيْنِ مُكَوَّنَاتِكَ۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَحَقِّقِ بِمُشَاهَدَةِ ذَاتِكَ۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمٰوَاتِكَ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ث"

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ اللَّيْثِ۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْغَوْثِ الْغِيَاثِ الْغَيْثِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ج"

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَبْلَجِ الْاَدْعَجِ۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَزَجِّ الْمُفَلَّجِ۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّفِيْعِ الدَّرَجِ۔

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَرَجِ۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحُجَّةِ الْمَحَجَّةِ۔

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُجَّةِ۔

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْدَقِ النَّاسِ لَهْجَةً۔

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَبْلَجِ۔

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَهَاءِ الْاَبْهَجِ۔

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّسَانِ الْحُجَّةِ۔

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْضَحِ النَّبِيِّيْنَ مَحَجَّةً۔

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةً۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ح"

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الرَّاحَةِ۔

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّاحَةِ۔

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الصَّالِحِ۔

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَمْنُوْحِ الْمَانِحِ۔

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبِيْحِ النَّاصِحِ۔

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّفُوْحِ الْمُصَافِحِ۔

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرُّوْحِ الصَّبِيْحِ۔

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْلِحِ النَّصِيْحِ۔

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَرْجَحِ الرَّجِيْحِ۔

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُسَبِّحِ الْفَصِيْحِ۔

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُفْلِحِ الْفَلَاحِ۔

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ الْمِصْبَاحِ۔

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْفُتُوْحِ الْفَتَّاحِ۔

229 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ الْاَرْوَاحِ۔

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الْاَرْوَاحِ۔

231 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَشْبَاحِ۔

232 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْوَاضِحِ۔

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَقِّ الرَّاجِحِ۔

234 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْمَلِيْحِ۔

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْصَحِ كُلِّ فَصِيْحِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "خ"

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ النَّاسِخِ۔

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ۔

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَجْدِ الْبَاذِخِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

239

حَرْفِ "د"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ اَحْمَدَ۔

240 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّيِّدِ الْاَمْجَدِ۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْجَوَادِ الْاَجْوَدِ۔

242 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُرْشِدِ الْمُسَدَّدِ۔

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُؤَيِّدِ الْمُؤَيَّدِ۔

244 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْوَاحِدِ الْفَرْدِ۔

245 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمَجْدِ۔

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ۔

247 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْوَاجِدِ الْمَاجِدِ۔

248 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَشْهُوْدِ الشَّاهِدِ۔

249 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الزَّاهِدِ السَّاجِدِ۔

250 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْاَسَدِ الْقَائِدِ۔

251 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُنْجِدِ الْعَاضِدِ۔

252 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْحَمِيْدِ الْحَامِدِ۔

253 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْحَمِدِ الْحَمَّادِ الْعَابِدِ۔

254 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجِهَادِ۔

255 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحِيْدَ وَاُحَادَ۔

256 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْعُدَّةِ الْعُمْدَةِ الْعِمَادِ۔

257 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَجِيْدِ الرَّشِيْدِ۔

258 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَسْعُوْدِ السَّعِيْدِ۔

259 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُقْتَصِدِ السَّدِيْدِ۔

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْوَحِيْدِ الشَّهِيْدِ۔

261 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الصِّنْدِيْدِ الشَّدِيْدِ۔

262 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُتَهَجِّدِ الْهُجُوْدِ۔

263 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ۔

264 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ۔

265 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَظْهَرِ الْمَشْهُوْدِ۔

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السُّجُوْدِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ۔

267 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ۔

268 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ السِّرِّ الْمُمْتَدِّ.

269 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرَفِ وَالْمَجْدِ.

270 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّالِكِ اَزِمَّةِ الْحَمْدِ.

271 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ السَّيِّدِ السَّنَدِ.

272 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمُمِدِّ الْمَدَدِ.

273 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمُحَمَّدِ الْمُمَجَّدِ.

274 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وِّتْرِ الْعَدَدِ.

275 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّسَانِ الْاَبَدِ.

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الزَّاهِدِ.

277 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الْمَلِكِ الْوَاحِدِ.

278 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَسْيَادِ.

279 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعُبَّادِ.

280 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزُّهَّادِ.

281 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَرْدِ الْاَفْرَادِ.

282 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّدَدِ الْاَمْدَادِ.

283 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاحِدِ الْاٰحَادِ.

284 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ.

285 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَالْعَبِيْدِ.

286 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْوُجُوْدِ.

287 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْوُجُوْدِ.

288 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ.

289 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّدَدِ الْوَدُوْدِ.

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَخْرِ الْجُدُوْدِ.

291 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ مَسُوْدٍ.

292 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَسْعَدِ كُلِّ مَسْعُوْدٍ.

293 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ كُلِّ مَوْلُوْدٍ.

294 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ.

295 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَيَاةِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ.

296 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ مَمْدُوْحٍ وَّمَحْمُوْدٍ۔

297 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْبَعِ الْفَضَآئِلِ وَالْجُوْدِ۔

298 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذَخِيْرَةِ الْمَلِكِ الْوَدُوْدِ۔

299 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دُرَّةِ صَدَفَةِ الْوُجُوْدِ۔

300 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ وُجُوْدِ الْوُجُوْدِ۔

301 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ۔

302 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِزِّ الْمَمْدُوْدِ۔

303 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ۔

304 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَكَارِمِ وَالْجُوْدِ۔

305 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْفَى النَّاسِ عَهْدًا۔

306 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَمْكَنِ النَّاسِ مَجْدًا۔

307 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْدَقِ النَّاسِ وَعْدًا۔

308 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ حَمْدًا۔

309 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْفَرِ النَّاسِ رِفْدًا۔

310 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ النَّاسِ جَدًّا۔

311 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ النَّاسِ سَعْدًا۔

312 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ النَّبِيِّيْنَ جُنْدًا۔

313 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ الْمُرْسَلِيْنَ رُشْدًا۔

314 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِهِمْ ذَاتًا وَّصِفَاتًا وَّاَتْبَاعًا وَّاَزْوَاجًا وَّوُلْدًا۔

صَلَّى اللهُ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ذ"

315 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْقِذِ الْمَلَاذِ۔

316 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجِهْبِذِ الْمَعَاذِ۔

صَلَّى اللهُ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ر"

317 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ۔

318 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ۔

319 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَصِيْرِ الْخَبِيْرِ۔

320 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَبَّارِ الْمُجِيْرِ۔

321 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُشَاوِرِ الْمُشِيْرِ۔

322 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَيِّرِ الشَّهِيْرِ۔

323 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّاكِبِ الْبَعِيْرِ۔

324 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَغَرِّ الْاَزْهَرِ۔

325 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاضِرِ الْاَنْوَرِ۔

326 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُيَسِّرِ الْمُوَقَّرِ۔

327 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُطَهِّرِ الْمُطَهَّرِ۔

328 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَحْرِ الْبَرِّ۔

329 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الذُّخْرِ الْفَخْرِ۔

330 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّفِيْعِ الذِّكْرِ۔

331 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَمَرِ الْبَاهِرِ۔

332 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الطَّهُوْرِ الطَّاهِرِ۔

333 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّبُوْرِ الصَّابِرِ۔

334 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُدَّثِّرِ الْمُهَاجِرِ۔

335 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْذِرِ الظَّاهِرِ۔

336 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاٰمِرِ الزَّاجِرِ۔

337 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُظَفَّرِ الظَّافِرِ۔

338 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَاشِرِ النَّاشِرِ۔

339 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَنْصُوْرِ النَّاصِرِ۔

340 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْتَصِرِ الْاٰخِرِ۔

341 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ التَّذْكِيْرِ الذَّاكِرِ۔

342 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الذِّكْرِ الْمَذْكُوْرِ۔

343 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّكُوْرِ الْمَشْكُوْرِ۔

344 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَجْرِ النُّوْرِ۔

345 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُسْتَغْفِرِ الْغَفُوْرِ۔

346 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اُذُنِ الْخَيْرِ۔

347 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْخَيْرِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ الْخَيْرِ۔

348 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَالْمَيْرِ۔

349 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَشْعَرِ۔

350 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمِنْبَرِ۔

351 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمِغْفَرِ۔

352 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَحْشَرِ۔

353 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكَوْثَرِ۔

354 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَضِيْبِ الْاَصْفَرِ۔

355 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاِزْرَارِ۔

356 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّاكِرِ الشَّكَّارِ۔

357 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُذَكِّرِ الذَّكَّارِ۔

358 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الطَّاهِرِ الْمُخْتَارِ۔

359 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ عَبْدِ الْغَفَّارِ۔

360 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَبْدِ الْقَهَّارِ۔

361 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَائِلِ لِاُمَّتِهٖ عَنِ النَّارِ۔

362 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّقِيْمِ السُّنَّةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ۔

363 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبَشِّرِ الْبُشْرٰى۔

364 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى۔

365 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعَالَمِيْنَ طُرًّا۔

366 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ۔

367 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْاَسْرَارِ۔

368 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْبَعِ الْاَنْوَارِ۔

369 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْاَسْرَارِ۔

370 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّيِّرِ فَلَكِ الْاَنْوَارِ۔

371 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ سَمَآءِ الْاَسْرَارِ۔

372 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ انْشَقَّتْ مِنْهُ الْاَسْرَارُ۔

373 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ انْفَلَقَتْ مِنْهُ الْاَنْوَارُ۔

374 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تِرْيَاقِ الْاَغْيَارِ۔

376 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ۔

377 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَخْيَارِ۔

378 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ وَخِيَارِ الْخِيَارِ۔

379 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِرَازِ حُلَّةِ الْفَخَّارِ۔

380 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ۔

381 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلَاذِ اَهْلِ الْاِعْصَارِ۔

382 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ طَابَ مِنْهُ النُّجَارُ۔

383 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔

384 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَزْهَرِ۔

385 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السِّرِّ الْاَبْهَرِ۔

386 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَمَالِ الْاَنْوَرِ۔

387 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَمَالِ الزَّاهِرِ۔

388 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَلَالِ الظَّاهِرِ۔

389 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَمَالِ الْفَاخِرِ۔

390 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْبَاهِرِ۔

391 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْعُنْصُرِ الطَّاهِرِ۔

392 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَذْلَكَةِ دَفْتَرِ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ۔

393 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْاَمَاثِلِ وَالْاَفَاخِرِ۔

394 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَائِلِ وَالْاَوَاخِرِ۔

395 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ۔

396 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ۔

397 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اَسْرَارِكَ الظَّاهِرَةِ۔

398 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ اَنْوَارِكَ الْبَاهِرَةِ۔

399 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ شُمُوْسِكَ الزَّاهِرَةِ۔

400 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

401 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللِّسَانِ الشَّكُوْرِ۔

402 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَلْبِ وَالْمَشْكُوْرِ۔

403 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَيْشِ الْمَنْصُوْرِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْغُرَفِ وَالْقُصُوْرِ۔

404 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوِلْدَانِ وَالْحُوْرِ۔

405 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَمِ الْفَضْلِ الْمَشْهُوْرِ۔

406 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ النَّبِيِّيْنَ نُوْرًا۔

407 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ الْمُرْسَلِيْنَ ظُهُوْرًا۔

408 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا۔

409 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ النَّاسِ فَخْرًا۔

410 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ شُكْرًا۔

411 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَرْفَعِ النَّاسِ ذِكْرًا۔

412 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَجْمَلِ النَّاسِ صَبْرًا۔

413 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ النَّاسِ خَيْرًا۔

414 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَقْرَبِ النَّاسِ يُسْرًا۔

415 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَنْفَذِ النَّاسِ اَمْرًا۔

416 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ بِرًّا۔

417 صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ز"

418 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَزِيْزِ الْاَعَزِّ۔

419 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَنْزِ الْمُعَزَّزِ۔

420 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْعِزِّ۔

421 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْعِزَّةِ۔

422 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعِزَّةِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "س"

423 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ الْمُقَدَّسِ۔

424 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ يٰسٓ الشَّمْسِ۔

425 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاسِ۔

426 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ النَّاسِ۔

427 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّاسِ۔

428 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَتْقَى النَّاسِ۔

429 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَجْوَدِ النَّاسِ۔

430 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ النَّاسِ۔

431 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ النَّاسِ۔

432 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْجَعِ النَّاسِ۔

433 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبَرَّأِ مِنَ الْاَدْنَاسِ۔

434 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيَّدِ بِرُوْحِ قُدُسِكَ۔

435 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُحَقَّقِ بِحَقَائِقِ اُنْسِكَ۔

436 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ اِلٰى جِنِّكَ وَاِنْسِكَ۔

437 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هَادِي النُّفُوْسِ۔

438 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَاجِ الرُّؤُوْسِ۔

439 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَهْجَةِ الطُّرُوْسِ۔

440 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَاعِي الْاَرْوَاحِ اِلٰى حَضْرَةِ الْقُدُّوْسِ۔

441 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَقْدَسِ۔

442 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَمَالِ الْاَنْفَسِ۔

443 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْاِنْسِ۔

444 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَطِيْبِ حَضْرَةِ الْقُدُسِ۔

صَلَّى اللهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ش"

445 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ اَنْوَارِ الْعُرُوْشِ۔

446 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَوْحِ اَسْرَارِ النُّقُوْشِ۔

صَلَّى اللهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ص"

447 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَالِصِ الْمُخْلِصِ۔

448 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَصِّ الْمُتَرَبِّصِ۔

449 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْاَخَصِّ۔

450 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّلِيْلِ الْاَنَصِّ۔

صَلَّى اللهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ض"

451 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَافِضِ الْمُحَرِّضِ الْاَبْيَضِ۔

452 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ط"

453 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَرَطِ الْمُقْسِطِ۔

454 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ الْقِسْطِ۔

455 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَوَسِّطِ الْوَاسِطِ۔

456 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَوْسَطِ الضَّابِطِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ظ"

457 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَفِيْظِ الْحَافِظِ۔

458 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْفُوْظِ الْوَاعِظِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ع"

459 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّمِيْعِ السَّرِيْعِ۔

460 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّفِيْعِ الْبَدِيْعِ۔

461 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُشَفَّعِ الشَّفِيْعِ۔

462 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُطَاعِ الْمُطِيْعِ۔

463 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّارِعِ الْجَامِعِ۔

464 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَضَرِّعِ الضَّارِعِ۔

465 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَرِعِ الْخَاشِعِ۔

466 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُضْطَلِعِ الْبَارِعِ۔

467 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مُشَفَّعٍ وَّاَوَّلِ شَافِعٍ۔

468 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمِدْرَعَةِ۔

469 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ۔

470 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ۔

471 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْبَدِيْعِ۔

472 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الرَّفِيْعِ.

473 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْمُطِيْعِ.

474 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَمِيْعِ.

475 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الشَّارِعِ.

476 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّسُوْلِ الصَّادِعِ.

477 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ اللَّامِعِ.

478 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَدْرِ الطَّالِعِ.

479 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَمَرِ السَّاطِعِ.

480 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَحْرِ الْوَاسِعِ.

481 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْغَيْثِ النَّافِعِ.

482 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَيْضِ الْهَامِعِ.

483 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيْفِ الْقَاطِعِ.

484 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَأْمُوْرِ الطَّائِعِ.

485 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَرْدِ الْجَامِعِ.

486 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعِزِّ الشَّاسِعِ.

487 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ.

488 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَلْبِ الضَّارِعِ.

489 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّدْرِ الْجَامِعِ.

490 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ.

491 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَضْرَةِ الْجَامِعَةِ.

492 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ.

493 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْبَرَاهِيْنِ السَّاطِعَةِ.

494 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ النَّاسِ طَبْعًا.

495 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ النَّاسِ صُنْعًا.

496 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَطْيَبِ النَّاسِ اَصْلًا وَّفَرْعًا.

497 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ الْعَالَمِيْنَ نَفْعًا.

498 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْدَلِ الْمُرْسَلِيْنَ شَرْعًا.

499 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّبِيِّيْنَ طَاعَةً وَّسَمْعًا۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "غ"

500 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبَلِّغِ الْبَلِيْغِ الْبَالِغِ۔

501 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ الدَّامِغِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ف"

502 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَلِيْفَةِ الشَّرِيْفِ۔

503 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَفِيْفِ الْحَنِيْفِ۔

504 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَارِفِ الْمَعْرُوْفِ۔

505 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْصِفِ الرَّؤُوْفِ۔

506 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَافِ الْعَطُوْفِ۔

507 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْبِ الْكَفِّ۔

508 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاظِرِ مِنْ خَلْفٍ۔

509 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالشَّرَفِ۔

510 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّيْفِ۔

511 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّقْرِئِ الضَّيْفِ۔

512 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ لُطْفِكَ۔

513 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَنَانِ عَطْفِكَ۔

514 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ظِلِّكَ الْوَارِفِ۔

515 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْعَوَارِفِ۔

516 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَدْرِ الْمَعَارِفِ۔

517 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الْاَسْرَارِ وَاللَّطَائِفِ۔

518 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَشْرَافِ۔

519 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْاَسْلَافِ۔

520 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِمِ بِالْعَدْلِ وَالْاِنْصَافِ۔

521 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ مَحَاسِنِ الْاَوْصَافِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ق"

522 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَقِّ الرَّفِيْقِ۔
523 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصِّدْقِ الشَّفِيْقِ۔
524 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصَدَّقِ الصِّدِّيْقِ۔
525 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلْقِ۔
526 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَعْدِ الْخَلْقِ۔
527 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَدَمِ الصِّدْقِ۔
528 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ الْحَقِّ۔
529 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ بِالْحَقِّ۔
530 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَالِمِ بِالْحَقِّ۔
531 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاطِقِ بِالْحَقِّ۔
532 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ الْفَآئِقِ۔
533 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حُجَّةِ اللهِ عَلَى الْخَلَآئِقِ۔
534 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ۔
535 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّاكِبِ النَّاقَةِ رَاكِبِ الْبُرَاقِ۔
536 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَمِّمِ لِمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ۔
537 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَسْبَقِ۔
538 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِكَ الْمُحَقَّقِ۔
539 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِكَ الْمُطْلَقِ۔
540 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ اُفُقِكَ۔
541 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ خَلْقِكَ۔
542 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ قَآئِمٍ بِحَقِّكَ۔
543 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ بِتَيْسِيْرِكَ وَرِفْقِكَ۔
544 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّوَآءِ عِزَّتِكَ الْخَافِقِ۔
545 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّسَانِ حِكْمَتِكَ النَّاطِقِ۔
546 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَلْقِ۔
547 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عُمْدَةِ الْخَلْقِ۔
548 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّةِ اللهِ عَلَى الْخَلْقِ۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِعِ بِالْحَقِّ۔
549 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ۔
550 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ۔
551 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ۔
552 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ۔
553 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِی الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ۔
554 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِی الْعِزِّ الْمُحَقَّقِ۔
555 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَائِزِ قَصَبِ السَّبَقِ۔
556 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَلِيْقَةِ۔
557 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ الشَّرِيْعَةِ وَشَمْسِ الْحَقِيْقَةِ۔
558 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْخَارِقِ۔
559 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعِلْمِ الْفَارِقِ۔
560 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَقِّ الْحَقِيْقِ۔
561 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّرْكَزِ مَدَارِ التَّوْفِيْقِ۔
562 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَقِيْقَةِ الْحَقَائِقِ۔
563 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ۔
564 صَلَّى اللهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ك"

565 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَلِكِ الْمَلِيْكِ۔
566 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاسِكِ الْمُبَارَكِ الضَّحُوْكِ۔
567 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِیْ بِكَ اِلَيْكَ۔
568 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّآلِّ بِكَ عَلَيْكَ۔
569 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحَبِّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ۔
570 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوْصِلِيْنَ اِلَيْكَ۔
571 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّآلِّيْنَ عَلَيْكَ۔
572 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ۔
573 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَنْقَذَنَا بِهٖ مِنَ الْهَلَكَةِ۔
574 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ عِقْدِ السُّلُوْكِ۔

575 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَرَفِ الْاَمْلَاكِ وَالْمُلُوْكِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ل"

576 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّسُوْلِ الدَّلِيْلِ۔

577 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُرْسِلِ الْاِكْلِيْلِ۔

578 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَلِيْلِ الْكَفِيْلِ۔

579 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَجَلِّ الْجَلِيْلِ۔

580 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُرَتِّلِ التَّنْزِيْلِ۔

581 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاضِلِ الْمِفْضَالِ۔

582 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِى الْاَرَامِلِ الثِّمَالِ۔

583 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَرْحَمِ النَّاسِ بِالْعِيَالِ۔

584 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَضْلِ الْمُفَضَّلِ۔

585 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَسِيْلَةِ الْمُؤَمَّلِ۔

586 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّاكِبِ الْجَمَلِ۔

587 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الرُّسُلِ الْاَوَّلِ۔

588 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبْتَهِلِ الْمُتَبَتِّلِ۔

589 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحُلَاحِلِ الْمُحَلَّلِ۔

590 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ الرُّسُلِ الْمُزَّمِّلِ۔

591 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَامِلِ الْعَادِلِ۔

592 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَدْلِ الْكَامِلِ۔

593 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَاصِلِ الْوُصُوْلِ۔

594 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُوَصِّلِ الْمَوْصُوْلِ۔

595 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَتَّالِ الْقَتُوْلِ۔

596 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ الْمَسْلُوْلِ۔

597 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الرُّسُلِ۔

598 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَوَّلِ۔

599 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُفَضَّلِ الْاَفْضَلِ۔

600 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُكَمَّلِ الْاَكْمَلِ۔

601 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ النَّبِيْلِ۔

602 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّسُوْلِ الْاَصِيْلِ۔

603 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِيْ اِلٰى اَشْرَفِ سَبِيْلٍ۔

604 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيَّدِ بِجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ۔

605 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبَشَّرِ بِهٖ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ۔

606 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاِنْسَانِ الْكَامِلِ۔

607 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَلِيْفَةِ الْعَادِلِ۔

608 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الشَّامِلِ۔

609 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ۔

610 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ۔

611 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ۔

612 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْكَمَالِ۔

613 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ كُلِّ مِفْضَالٍ۔

614 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْدَقِ الصَّادِقِيْنَ فِيْ كُلِّ حَالٍ۔

615 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ۔

616 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الْمُنَزَّلَةِ۔

617 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النِّعْمَةِ الشَّامِلَةِ۔

618 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمِنَّةِ الْكَامِلَةِ۔

619 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ۔

620 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ۔

621 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَدْرِ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالَةِ۔

622 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْفُتُوَّةِ وَالْبَسَالَةِ۔

623 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ۔

624 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْقِذِ مِنَ الْجَهَالَةِ۔

625 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِرَازِ الْحُلَّةِ۔

626 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّاصِرِ الْمِلَّةِ۔

627 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَى النَّبِيِّيْنَ مَنْزِلَةً۔

628 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَنْجَحِ الْمُرْسَلِيْنَ مَسْأَلَةً۔

صَلَّى اللهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَأَزْوَاجِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ.

629 حَرْفِ "م"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَظِيْمِ الْأَعْظَمِ.

630 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَرِيْمِ الْأَكْرَمِ.

631 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحِيْمِ الْأَرْحَمِ.

632 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الطِّرَازِ الْمُعْلَمِ.

633 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَكِيْمِ الْمُحْكَمِ.

634 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْيَتِيْمِ الْمُكَرَّمِ.

635 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُسْتَقِيْمِ الْمُقَوَّمِ.

636 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُقَدِّمِ الْمُقَدَّمِ.

637 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلَّمِ.

638 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَيِّمِ الْمُفَخَّمِ.

639 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَهِمِ الْمُكَلَّمِ.

640 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيْفِ الْمُخَذَّمِ.

641 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْأُمَّةِ الْمُيَمَّمِ.

642 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُعَمَّمِ الْمُتَمَّمِ.

643 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَغْنَمِ الْمَغْرَمِ.

644 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النِّعْمَةِ الْأَدْوَمِ.

645 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْمُزَمْزَمِ.

646 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَطِيْبِ الْأُمَمِ.

647 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُوْرِ الْأُمَمِ.

648 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَدَمِ.

649 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَغْنَمِ.

650 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ زَمْزَمِ.

651 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَطِيْمِ.

652 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ.

653 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ.

654 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُقْسِمِ الزَّعِيْمِ.

655 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُحَرِّمِ الْحَلِيْمِ۔
656 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَبَسِّمِ الْوَسِيْمِ۔
657 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ النَّعِيْمِ۔
658 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ۔
659 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ۔
660 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْكَرِيْمِ۔
661 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ۔
662 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ السَّلَامِ۔
663 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الضَّيْغَمِ الْهُمَامِ۔
664 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَحِيْحِ الْاِسْلَامِ۔
665 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ الْاِسْلَامِ۔
666 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاِمَامِ الْمَعْصُوْمِ۔
667 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَرَحِّمِ الْمَرْحُوْمِ۔
668 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَالِمِ الْمَعْلُوْمِ۔
669 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّجْمِ الشَّهْمِ۔
670 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ۔
671 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤْتٰى جَوَامِعَ الْكَلِمِ۔
672 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ النِّعْمَةِ۔
673 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَارِ الْحِكْمَةِ۔
674 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّزِيْلِ الْغُمَّةِ۔
675 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّفْتَاحِ الرَّحْمَةِ۔
676 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔
677 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ۔
678 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّحْمَةِ الْاُمَّةِ۔
679 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ۔
680 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَرْحَمَةِ الْمَرْغَمَةِ۔
681 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْمَرْحَمَةِ۔
682 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَائِمِ الْقَاسِمِ۔

683 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الْقَاسِمِ الْخَاتِمِ۔

684 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْمَلَاحِمِ۔

685 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الْمَلَاحِمِ۔

686 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَلَدِ اٰدَمَ۔

687 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ وَلَدِ اٰدَمَ۔

688 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَاتَمِ۔

689 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ۔

690 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ مَنْ وَّافَى الْقِيَامَةِ۔

691 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَتَمِّ۔

692 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَضْلِكَ الْاَعَمِّ۔

693 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِكَ التَّامِّ۔

694 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ جُوْدِكَ الْعَامِّ۔

695 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ قَهْرِكَ الصَّارِمِ۔

696 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ فَيْضِكَ الْمُتَلَاطِمِ۔

697 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الْاَكْرَمِ۔

698 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ الْاَفْخَمِ۔

699 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْفَتِكَ الْاَرْحَمِ

700 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِ الْاَقْوَمِ۔

701 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّيِّرِ هِدَايَتِكَ الْاَعْظَمِ۔

702 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَدْرِ الْاَتَمِّ۔

703 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَحْرِ الْخِضَمِّ۔

704 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الطَّوْدِ الْاَشَمِّ۔

705 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي النَّفْعِ الْاَعَمِّ۔

706 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ۔

707 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ۔

708 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ۔

709 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ الْمَسِيْحُ وَالْكَلِيْمُ۔

710 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الْعَالَمِ۔

711 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَةِ اٰدَمَ ۔

712 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عِلَّةِ السُّجُوْدِ لِاٰدَمَ ۔

713 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّفِيْعِ مَقَامُهٗ ۔

714 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَاجِبِ تَعْظِيْمُهٗ وَاِحْتِرَامُهٗ ۔

715 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّامَةِ ۔

716 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ ۔

717 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالزَّعَامَةِ ۔

718 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُظَلَّلِ بِالْغَمَامَةِ ۔

719 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْقِيَامَةِ ۔

720 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ ۔

721 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّعَلِّمِ الْحِكْمَةِ ۔

722 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُوْلِي النِّعْمَةِ ۔

723 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَاشِفِ الْغُمَّةِ ۔

724 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ ۔

725 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الْهُدٰى وَالرَّحْمَةِ ۔

726 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ النَّاسِ اَرُوْمَةً ۔

727 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ النَّاسِ جُرْثُوْمَةً ۔

728 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَمَرِ التَّمَامِ ۔

729 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّصْبَاحِ الظَّلَامِ ۔

730 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَايَةِ الْغَمَامِ ۔

731 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُوْصِلِ لِدَارِ السَّلَامِ ۔

732 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى عَلٰى كُلِّ الْاَنَامِ ۔

733 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ عِقْدِ النِّظَامِ ۔

734 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّبْدَاِ الْاَمْرِ وَالْخِتَامِ ۔

735 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ ۔

736 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَلِيْلِ الْاَفْخَمِ ۔

737 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْلَى الْكَمَالَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ الْاَعْظَمِ ۔

738 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْفَى النَّاسِ ذِمَامًا ۔

739 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَى النَّاسِ مَقَامًا۔

740 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْلَى النَّاسِ كَلَامًا۔

741 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْسَعِ النَّاسِ عِلْمًا۔

742 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ حِلْمًا۔

743 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ النَّاسِ فَهْمًا۔

744 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ النَّاسِ رُحْمًا۔

745 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْوَبِ النَّاسِ حُكْمًا۔

746 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ فَضْلًا وَّ اَوْفَرِهِمْ فِيْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ سَهْمًا۔

صَلَّى اللهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ن"

747 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

748 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

749 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ۔

750 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَعْوَةِ النَّبِيِّيْنَ۔

751 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّحْمَةِ الْعَالَمِيْنَ۔

752 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعَالَمِيْنَ۔

753 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ۔

754 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْعَالَمِيْنَ۔

755 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

756 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الْمُؤْمِنِيْنَ۔

757 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِئَةِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

758 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حِرْزِ الْاُمِّيِّيْنَ۔

759 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّبَشِّرِ الْيَآئِسِيْنَ۔

760 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّكْنِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ۔

761 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّاصِرِ الدِّيْنِ۔

762 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ اللِّسَانِ الْمُبِيْنِ۔

763 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ اللَّسِنِ الْفَطِيْنِ۔

764 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَمِيْنِ الضَّمِيْنِ-

765 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُعِيْنِ الْمَتِيْنِ-

766 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَمَكِّنِ الْمَكِيْنِ-

767 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عِلْمِ الْيَقِيْنِ-

768 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ-

769 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ-

770 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ-

771 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْحَرَمَيْنِ-

772 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ثَانِيْ اثْنَيْنِ-

773 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ-

774 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَدِيْنَةِ-

775 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي السَّكِيْنَةِ-

776 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّفْتَاحِ الْجَنَّةِ-

777 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَكَانَةِ الْاَمْنَةِ-

778 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَاطِنِ الْمُعْلِنِ-

779 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبُرْهَانِ الْمُوْقِنِ-

780 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُهَيْمِنِ الْمُؤْمِنِ-

781 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ-

782 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤْتَمَنِ الْمَاْمُوْنِ-

783 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّيِّنِ الْمَصُوْنِ-

784 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ الرَّحْمٰنِ-

785 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ-

786 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّلَقَّى الْقُرْاٰنِ-

787 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْقُرْاٰنِ-

788 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَكْوَانِ-

789 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّئِيْسِ الْجِنَانِ-

790 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عِلْمِ الْاِيْمَانِ-

791 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَصِيْحِ اللِّسَانِ-

792 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الزَّيْنِ الْحَنَانِ۔

793 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْهَيِّنِ الْبَيَانِ۔

794 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّطَهِّرِ الْجَنَانِ۔

795 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاٰمِنِ الْاَمَانِ۔

796 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السُّلْطَانِ۔

797 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُرْهَانِ۔

798 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَيَانِ۔

799 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَرِيْصِ عَلٰى اَهْلِ الْاِيْمَانِ۔

800 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ نَوْعِ الْاِنْسَانِ۔

801 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِرَازِ حُلَّةِ الْاِيْمَانِ۔

802 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ عُيُوْنِ الْاَعْيَانِ۔

803 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ۔

804 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ وُجُوْدِ الْاَكْوَانِ۔

805 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ۔

806 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَازِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ۔

807 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّوْرِدِ كَرَمِكَ وَاِحْسَانِكَ۔

808 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ عِزِّكَ وَسُلْطَانِكَ۔

809 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْفَتِكَ عَلَى الْبَرِيَّةِ وَاَمِيْنِكَ۔

810 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ دِيْنِكَ وَشَمْسِ يَقِيْنِكَ۔

811 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حِصْنِكَ الْحَصِيْنِ۔

812 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَهِيْدِكَ يَوْمَ الدِّيْنِ۔

813 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الثَّقَلَيْنِ۔

814 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَرِيْقَيْنِ۔

815 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَرَفِ الدَّارَيْنِ۔

816 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ الْكَوْنَيْنِ۔

817 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ۔

818 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ۔

819 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابِ قَوْسَيْنِ۔

820 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السِّرِّ الْمَصُوْنِ -

821 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَوْهَرِ الْمَكْنُوْنِ -

822 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ اللهِ الْمُبِيْنِ -

823 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ -

824 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حِرْزِ اللهِ الْاَمِيْنِ -

825 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَلِيْلِ الْحَائِرِيْنَ -

826 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ -

827 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّبِيْدِ الْكَافِرِيْنَ -

828 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَاتِلِ الْمُشْرِكِيْنَ -

829 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَاهِرِ الْمُنَافِقِيْنَ -

830 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّؤُوْفِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ -

831 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ -

832 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِيْنَ -

833 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعُبَّادِ وَالزَّاهِدِيْنَ -

834 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ وَالسَّاجِدِيْنَ -

835 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّائِفِيْنَ -

836 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِيْنَ وَالصَّائِمِيْنَ -

837 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّالِبِيْنَ وَالْوَاصِلِيْنَ -

838 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ -

839 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ -

840 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَاشِفِ كُرَبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ -

841 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْمَدِ الْحَامِدِيْنَ وَالْمَحْمُوْدِيْنَ -

842 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُرَّةِ عَيْنِ الْمُتَّقِيْنَ -

843 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ -

844 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ -

845 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

846 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيَّدِ بِالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ -

847 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيَّدِ بِالرُّوْحِ الْاَمِيْنِ -

848 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكْرَمِيْنَ۔

849 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔

850 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَبْعُوْثِ اِلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ۔

851 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ النَّاسِ شَاْنًا۔

852 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَى النَّاسِ مَكَانًا۔

853 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَسْمَى النَّاسِ زَمَانًا۔

854 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْضَحِ النَّاسِ بَيَانًا۔

855 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْصَحِ النَّاسِ لِسَانًا۔

856 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْلَحِ النَّاسِ جَنَانًا۔

857 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ النَّاسِ رَاْفَةً وَّحَنَانًا۔

858 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَرْجَحِ النَّاسِ مِيْزَانًا۔

859 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْضَحِ النَّاسِ بُرْهَانًا۔

860 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَظْهَرِ النَّاسِ سُلْطَانًا۔

861 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ اِحْسَانًا۔

862 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْفَرِ النَّاسِ عِرْفَانًا۔

863 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ النَّاسِ اِيْمَانًا۔

864 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ النَّاسِ اٰلًا وَّاَصْحَابًا وَّاَعْوَانًا۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "و"

865 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْهِرَاوَةِ ذِي الْقُوَّةِ۔

866 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَنْ اُوْتِيَ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ۔

867 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ عِقْدِ النُّبُوَّةِ۔

868 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَخَّارِ الْكَرَمِ وَالْفُتُوَّةِ۔

صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حَرْفِ "ہ"

869 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ۔

870 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ اللّٰهِ۔

871 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ۔

872 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ اللّٰهِ۔

873 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْلِ اللّٰهِ۔

874 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَلِيْمِ اللّٰهِ۔

875 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّجِيِّ اللّٰهِ۔

876 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْفَةِ اللّٰهِ۔

877 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِ اللّٰهِ۔

878 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

879 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِّضْوَانِ اللّٰهِ۔

880 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

881 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حِزْبِ اللّٰهِ۔

882 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَعْدِ اللّٰهِ۔

883 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَضْلِ اللّٰهِ۔

884 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيْفِ اللّٰهِ۔

885 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خِيَرَةِ اللّٰهِ۔

886 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عِصْمَةِ اللّٰهِ۔

887 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّةِ اللّٰهِ۔

888 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِعْمَةِ اللّٰهِ۔

889 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هَدِيَّةِ اللّٰهِ۔

890 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ۔

891 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قَوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

892 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَبَرِّ بِاللّٰهِ۔

893 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَتْقٰى لِلّٰهِ۔

894 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَخْشٰى لِلّٰهِ۔

895 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَعْلَمِ بِاللّٰهِ۔

896 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْغَنِيِّ بِاللّٰهِ۔

897 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّاعِیْ اِلَى اللّٰهِ۔

898 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِعِ بِاَمْرِ اللّٰهِ۔

899 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَاكِمِ بِمَآ اَرَادَ اللّٰهُ۔

900 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَطِيْبِ الْوَافِدِيْنَ عَلَى اللهِ.

901 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طٰهٰ الْوَجِيْهِ الْاَوَّاهِ.

902 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ.

903 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفِيِّ اللهِ.

904 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّلِيِّ اللهِ.

905 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَمِيْنِ اللهِ.

906 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عُرْوَةِ اللهِ.

907 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّحْمَةِ اللهِ.

908 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ اللهِ.

909 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّخْبَةِ بَرِيَّةِ اللهِ.

910 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ.

911 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَمِ خَلْقِ اللهِ.

912 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ خَلْقِ اللهِ.

913 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ خَلْقِ اللهِ.

914 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَجْمَلِ خَلْقِ اللهِ.

915 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ خَلْقِ اللهِ.

916 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَجَلِّ خَلْقِ اللهِ.

917 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحَبِّ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ.

918 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ.

919 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّسَنَاهُ.

920 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ كُلِّ نَبِيٍّ وَّهُدَاهُ.

921 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرِ كُلِّ وَلِيٍّ وَّضِيَاهُ.

922 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ.

923 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّبْتَدَاِ الْفَضْلِ وَمُنْتَهَاهُ.

صَلَّى اللهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ.

حَرْفِ "لام الف"

924 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَرْجَحِ النَّاسِ عَقْلًا.

925 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْظَمِ النَّاسِ فَضْلًا.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ النَّاسِ فِعْلًا۔

926 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْدَقِ النَّاسِ قَوْلًا۔

927 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ طَوْلًا۔

928 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ النَّاسِ اَصْلًا۔

929 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ النَّاسِ اَهْلًا۔

930 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَجْمَلِ النَّاسِ شَكْلًا۔

931 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوْضَحِ النَّاسِ سُبُلًا۔

932 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَتَمِّ النَّاسِ نُبُلًا۔

933 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعَمِّ النَّاسِ عَدْلًا۔

934 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَمِ الْعَالَمِيْنَ عَقْلًا وَّنَقْلًا۔

935 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْدَقِ الصَّادِقِيْنَ قَوْلًا وَّفِعْلًا۔

936 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْفَاضِلِيْنَ بَعْضًا وَّكُلًّا۔

937 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ الْكَامِلِيْنَ بَعْدًا وَّقَبْلًا۔

938 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ العالمين عُلُوًّا وَّسُفْلًا۔

939 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبْهَرِ النَّاسِ جَمَالًا۔

940 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّاسِ فَعَالًا۔

941 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ النَّاسِ فَضْلًا وَّاِفْضَالًا۔

942 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ النَّاسِ تَكْمِيْلًا وَّكَمَالًا۔

943 صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

حرفِ "ی"

944 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ۔

945 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَرَبِيِّ الْمُضَرِيِّ۔

946 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ۔

947 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ التِّهَامِيِّ الْحِجَازِيِّ۔

948 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَرَمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ۔

949 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَكِّيِّ الزَّمْزَمِيِّ۔

950 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَدَنِيِّ الْيَثْرَابِيِّ۔

951 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ اللَّوْذَعِيِّ الْاَلْمَعِيِّ۔

952 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَالِى الْوَلِيِّ.

953 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ التَّالِى الزَّكِيِّ.

954 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّاجِى السَّمِيِّ.

955 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّانِى الْقَوِيِّ.

956 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّاضِى الرَّضِيِّ.

957 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُعْطِى السَّخِيِّ.

958 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْجِى الْحَفِيِّ.

959 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَّقِى التَّقِيِّ.

960 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَهْدِى الصَّفِيِّ.

961 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُهْدِى الْوَفِيِّ.

962 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُحْيِى الْحَيِّ الْحَيِيِّ.

963 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُغْنِى الْمُسْتَغْنِى الْغَنِيِّ.

964 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُقَفِّى الْمُقْتَفِى الْوَصِيِّ.

965 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَاحِى الْحَامِى الْعَلِيِّ.

966 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّاعِى الْهَادِى.

967 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُلَبِّى الْمُنَادِى.

968 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّاهِى الزَّاهِى.

969 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَهِيِّ الْبَاهِى.

970 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّافِى الْعَافِى.

971 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُكْتَفِى الْوَافِى.

972 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُكَفِّى الْكَافِى.

973 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ.

974 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَيْضِ الصِّفَاتِيِّ.

975 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ الْهِدَايَةِ.

976 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعِنَايَةِ.

977 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ.

978 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَزِيْزِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ.

979 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ الْمَظَاهِرِ الْكَمَالِيَّةِ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّسَانِ الْحَضْرَةِ الْاَقْدَسِيَّةِ۔
980 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَمِيْنِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ۔
981 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خِزَانَةِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ۔
982 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ۔
983 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَّمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ۔
984 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ۔
985 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ۔
986 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ۔
987 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْمَعِ الْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ۔
988 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ۔
989 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ۔
990 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ۔
991 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَخَلِّقِ بِاَعْلَى الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ۔
992 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْاَصْلِيَّةِ۔
993 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ۔
994 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ۔
995 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّةِ۔
996 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرُّوْحِ الْكُلِّيَّةِ۔
997 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ۔
998 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ فِي النَّشْأَتَيْنِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَ
999 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ فِي النَّشْأَتَيْنِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَ
الْاُخْرَوِيَّةِ۔
1000 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ اَوَّلِهِمْ بِالْخَلْقِ وَ السَّبَقِ وَ
الْاَفْضَلِيَّةِ۔


صَلَّى اللهُ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

دُعَاءُ الْخِتَامِ


اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ بَلَغَنِيْ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قَالَ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ وَ اِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قَالَ الثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ وَ اِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَاَجْعَلُ

صَلَاتِیْ کُلَّهَا لَكَ قَالَ اِذَنْ تُکْفٰی هَمَّكَ وَ یُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ وَ اِنِّیْ اُشْهِدُكَ یَا رَبِّ وَ اَنْتَ خَیْرُ الشَّاهِدِیْنَ اِنِّیْ قَدْ جَعَلْتُ لَهٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ جَمِیْعَ مَا صَلَّیْتُ بِهٖ عَلَیْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَ مَا عَبَدْتُكَ بِهٖ مِنْ جَمِیْعِ اَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ

مِنَ الْاَقْوَالِ وَ الْاَفْعَالِ وَ النِّیَّاتِ وَ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِجَاهِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ تَغْفِرَ لِیْ جَمِیْعَ سَیِّئَاتِیْ وَ تَتَقَبَّلَ مِنِّیْ جَمِیْعَ حَسَنَاتِیْ وَ تَجْعَلَ ثَوَابَهَا فِیْ صَحِیْفَتِهٖ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ اَنْ تَجْمَعَنِیْ بِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَقْظَةً وَّ مَنَامًا وَّ تَرْزُقَنِیْ فِیْ جَوَارِهٖ حُسْنَ الْخِتَامِ وَ اَنْ تَحْشُرَنِیْ وَ الْمُسْلِمِیْنَ فِیْ زُمْرَتِهِ النَّاجِیَةِ وَ حِزْبِهِ الْمُفْلِحِیْنَ حَتّٰی تُدْخِلَنَا مَعَهُ الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ بِسَلَامٍ ثُمَّ یَدْعُو الْقَارِئُ لِمُؤَلِّفِ هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ یَقْرَأُ لَهُ الْفَاتِحَةَ وَ یَقُوْلُ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَ تُبْ عَلَیْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ} {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ}۔



هذا من فضل ربي



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ
عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ ﷺ

القاضی الشیخ
یوسف بن اسماعیل النبهانی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

المکتبة القادریة 25 الباکستان
0092-3335187573

افضل الصلوات علی سید السادات

عظیم عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ قاضی یوسف اسماعیل النبہانی رضی اللہ عنہ نے دُرود وسلام کے موضوع پر کئی کتب تحریر فرمائیں جن میں کتاب "**افضل الصلوات علی سید السادات**" آپ کی اولین تصنیف ہے جو آپ کی حیاتِ مبارکہ میں 1309ھ بیروت پریس "لبنان" سے شائع ہوئی۔ یہ بابرکت کتاب جب بلادِ اسلامیہ میں پھیل گئی تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوضات وبرکات سے اِس کتاب کوشرفِ قبولیت حاصل ہوا۔


بحمد اللہ! یہ مقبول وبابرکت کتاب پاکستان میں بھی کئی بار شائع ہوئی۔ پھر جناب محمد ذیشان انجم قادری صاحب نے اس کتاب مبارکہ اور حضرت علامہ یوسف اسماعیل النبہانی کی ایک اور مشہورِ زمانہ کتاب "**سعادۃ الدارین**" کو یکجا کر کے اعلیٰ قسم کے آرٹ پیپر پر چہار رنگوں میں بنام "**گلدستۂ دُرود و سلام**" شائع کرنے کی عظیم سعادت حاصل کی اور جامع مسجد آرام باغ، کراچی میں مجلسِ دلائل الخیرات شریف کے زیرِ انتظام حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ کے سالانہ عظیم الشان عرسِ مبارک کے موقع پر مؤرخہ 20 فروری 2010ء کو اِس عظیم وبابرکت کتاب کی رونمائی ہوئی۔


یہ بابرکت کتاب اندرون وبیرون ملک (بالخصوص حجازِ مقدس، ترکی، شام، مصر، ایران، الجزائر، مراکش، فن لینڈ، اسپین، برطانیہ، تیونس، ازبکستان، لیبیا......) تقسیم ہو کر عشاقانِ دُرود وسلام کے ہاتھوں میں پہنچی جس پر بے شمار تہنیتی ودُعاؤں بھرے خطوط وپیغامات موصول ہوئے، جن میں مراکش کے بادشاہ، ایران کی اہم ومقتدر شخصیات، الجزائر کے وزیر اوقاف ومذہبی امور، پاکستان کی عظیم شخصیات اور سرکاری وغیر سرکاری لائبریریوں کے سربراہان کے پیغامات سرِ فہرست ہیں، جن میں سے چند ایک آئندہ صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔

مارچ 2010ء میں "**افضل الصلوات**" ایک نئے انداز میں 3000 کی تعداد میں بنام "**تکمیل الحسنات تلخیص افضل الصلوات علی سید السادات**" اعلیٰ قسم کے آرٹ پیپر پر چہار رنگہ طباعت اور رنگین تصاویر کے ہمراہ شائع کروانے کی سعادت حیدر آباد کے ہمارے ایک محبّ کو حاصل ہوئی۔

1309ھ بیروت پریس (لبنان) سے شائع ہونے والی کتاب، پاکستان سے شائع ہونے والی کتاب **گلدستۂ دُرود وسلام** اور **تکمیل الحسنات** کے سرورق کے عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔







الحمد لله وحده

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

صاحب الجلالة الملك محمد السادس

إلى

السيد افتخار أحمد حافظ قادري
- باكستان -

لقد تلقيت باعتزاز كبير هديتكم الكريمة المتمثلة في نسختين من كتاب "أفضل الصلوات على سيد السادات وسعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين" وكتيب "دلائل الخيرات".

وإنني إذ أعرب لكم عن تشكراتي الحارة وامتناني العميق على هذه الالتفاتة الطيبة، لأرجو الله سبحانه وتعالى أن يشملكم بحفظه ورعايته، ويمن عليكم بنعمة الصحة والعافية والهناء، وأن يكلل أعمالكم بالتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

2010 مارس 25

محمد السادس
ملك المغرب

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
ISLAMABAD

سفارة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اسلام آباد

March 9, 2010.

Dear Mr. Qadri,

*I hereby acknowledge with thanks receipt of two books **"Guldasta-e-Durood-o-Salam"**, which you have so kindly sent for H.E. Mr. Abdelaziz Bouteflika, President of Algeria, and the same copy has also addressed to me. No doubt, this publication is a great source of knowledge about Islam and I will read it thoroughly with pleasure.*

Also, I would like to extend on behalf of the President of Algeria and on my own behalf the best wishes for your good health, happiness and everlasting success in your future.

Please accept, Mr. Qadri, the assurances of my highest consideration.

Dr. Ahmed BENFLIS
Ambassador of Algeria

Mr. Iftikhar Ahmad Hafiz Qadri
Author
999/A-6, Street No. 9
Afshan Colony, Rawalpindi.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الـــوزيـــر

السيد الأستاذ افتخار أحمد حافظ قادري

تحية مباركة طيبة ، و بعد :

لقد تلقيت ، بكل ابتهاج و تقدير ، هديتكم الثمينة التي تفضلتم بإرسالها إلي ، مشكورين و مأجورين إن شاء الله ، المتمثلة في نسخة من كتاب "أفضل الصلاة على سيد السادات، و سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين".

و إني إذ أعرب لكم عن ثنائي الجميل و شكري الجزيل على حسن صنيعكم و كريم التفاتكم ، أسأل المولى عز وجل أن يجزيكم بأحسن ما يجازي عباده الصالحين و علماءه العاملين.

مع فائق الشكر و التقدير

وزير الشؤون الدينية و الأوقاف

[illegible]

باسمه تعالی

THE
CULTURAL CONSULATE
Embassy of the Islamic Republic of Iran
Islamabad

No. [illegible] شماره
Date [illegible] تاریخ
Encl: [illegible] پیوست

رایزنی فرهنگی
سفارت جمہوری اسلامی ایران
اسلام آباد

محترم جناب حافظ افتخار احمد قادری صاحب

السلام علیکم

کتاب شریف ''افضل الصلوٰت'' کے تین نسخے بے حد و حساب شکریہ کے ساتھ موصول ہوئے۔ اسی طرح اس کتاب کے چند نسخے آستان قدس رضوی، صدر مملکت جناب احمدی نژاد، حافظیہ، قومی کتب خانہ، آرام گاہ حضرت خرقانی کے ٹرسٹ، جناب ڈاکٹر مصطفوی اور جناب ڈاکٹر تسبیحی کو ارسال کرنے کے لیے بھی ہمیں موصول ہوئے جو ان شاء اللہ مذکورہ شخصیات کے لیے ارسال کر دیے جائیں گے۔

سفیر محترم اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی کتاب کے ایک نسخے کی وصولیابی کی اطلاع دی ہے۔

امید ہے کہ آپ اور ہم سب سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر صلوٰۃ کے ثواب میں مشمول ہوں۔

صاحب فصول
ثقافتی قونصلر

House No-25, St. No. 27, F-6/2, Islamabad Ph : 2827937-9, Fax : 2821771
مکان نمبر ۲۵، گلی نمبر ۲۷، ایف-۶/۲، اسلام آباد فون ۹-۲۸۲۷۹۳۷، فیکس: ۲۸۲۱۷۷۱

GOVERNMENT OF PAKISTAN
NATIONAL LIBRARY OF PAKISTAN
DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS BRANCH.
CONSTITUTION AVENUE ISLAMABAD

No. F-1-5/09-DBNB Dated the 06-03-2010

RECEIPT

Dear Sir,

I acknowledge with thanks the receipt of one copy of each of the following book/books delivered under Section 47 of the Copyright Law, 1962 (XXXIV of 1962) as amended in 1992.

Title of book(s) received

(1) "گلدستہ درود وسلام": افضل الصّلوٰت علیٰ سیّد السادات (ﷺ)

Yours faithfully,

MUHAMMAD WARIS BHATTI
Assistant Director
Department of Libraries
Government of Pakistan
Islamabad

PCPPI—3791(99)Dept of Lib.—

Mohammad Ali Jinnah University

MAJU(K)/Reg/10/07 April 7, 2010

Mr.Iftikhar Ahmad Hafiz Qadri,
House No.999/A-6, Street No.9,
Afshan Colony,
Rawalpindi cantt.

Subject: Book 'GULDASTA-E-DUROODOSALAM' for Library

Dear Sir,

Thank you for sending us book as complimentary copy. We have placed it in our library for the benefit of our faculty and students.

Kindly keep us on your mailing list and please forward us your latest publications from time to time to develop readership.

With regards,

Abdul Wahab
Professor Dr.Abdul Wahab
President

22-E, Block 6, PECHS, Karachi-75400, Pakistan. Phone : 111-87-87-87, & 3431-1325-26 Fax : 92-21-3431 1327
URL : www.jinnah.edu E mail : info@jinnah.edu

بسمہ تعالیٰ

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

شماره ________
تاریخ ________
پیوست ________

برادر گرامی جناب آقای افتخار احمد حافظ قادری

سلام علیکم

احتراماً ضمن عرض تشکر وتقدیر از جناب عالی به جهت تألیف کتاب ارزشمند ((افضل الصوات علی سید السادات وسعادة الدارین علی سید الکونین صلی الله علیه وآله وسلم))، وصول کتاب فوق اعلام می گردد.

رجا واثق دارد تحت توجهات وعنایات حضرت باریتعالی ورسول گرامی اسلام صل الله علیه وآله وسلم در راه نشر معارف عالیه اسلام عزیز واهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام موید به تاییدات الهی خواهید بود.

مهدی مصطفوی
مشاوررئیس جمهور و
رییس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

باسمہ تعالیٰ

THE
CULTURAL CONSULATE
Embassy of the Islamic Republic of Iran
Islamabad

رایزنی فرهنگی
سفارت جمہوری اسلامی ایران
اسلام آباد

No. ۵۱/۱۸/۳۱۱۰ شمارہ
Date : ۸۹/۳/۲۸ تاریخ
Encl : ندارد پیوست

محترم جناب افتخار احمد حافظ قادری

السلام علیکم

احترام کے ساتھ اطلاعاً عرض ہے کہ ۲۰۱۰/۳/۱۹ کو لکھے گئے جناب عالی کے خط کے جواب میں کہ جس کے ساتھ آپ نے کتاب "افضل الصلوات علی سید السادات و سعادة الدارین فی الصلوة علی سید الکونین (ص) " کے نسخہ جات جو ایران کے مراکز اور شخصیات کے لیے رایزنی فرہنگی جمہوری اسلامی ایران اسلام آباد ارسال کئے تھے انہیں ایران بھجوا دیا گیا۔

اس خط کے ہمراہ جناب ڈاکٹر مہدی مصطفوی مشیر صدر مملکت و سربراہ سازمان فرہنگ و ارتباطات اسلامی، ایران کا ارسال شدہ خط بھی ملاحظہ فرمائیں۔

آپ کی کامیابی کی امید کے ساتھ۔

صاحب قصول
ثقافتی قونصلر

House No-25, St. No. 27, F-6/2, Islamabad Ph : 2827937-9, Fax : 2821771
مکان نمبر ۲۵، گلی نمبر ۲۷، ایف-۶/۲، اسلام آباد فون: ۹-۲۸۲۷۹۳۷، فیکس: ۲۸۲۱۷۷۱

افضل الصلوات علی سید السادات

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ
اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى
آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (درود ابراھیمی)

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي
الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي
الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى
آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، كَمَا يَلِيْقُ بِعَظِيْمِ شَرَفِهٖ وَ كَمَالِهٖ وَ رِضَاكَ عَنْهُ وَ مَا تُحِبُّ وَ
تَرْضٰى لَهٗ دَائِمًا اَبَدًا ، بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةِ عَرْشِكَ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ
اَكْمَلَهَا وَ اَتَمَّهَا كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا
كَذٰلِكَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ وَ
تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا
سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (درود شہادت)

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ۔

7 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِیْنَ وَ الْاٰخِرِیْنَ وَ فِی الْمَلَاِ الْاَعْلٰی اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ (درود نایاب)

8 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تَکُوْنُ لَکَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّہٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِہِ الْوَسِیْلَۃَ وَ الْمَقَامَ الَّذِیْ وَعَدْتَّہٗ۔ (درود شفاعت)

9 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُوْلِکَ وَ صَلِّ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ۔

10 صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔ (درود محبت)

11 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِہٖ وَ سَلِّمْ۔ (درود بخشش)

12 اَللّٰھُمَّ یَا رَبَّ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا نِ الدَّرَجَۃَ وَ الْوَسِیْلَۃَ فِی الْجَنَّۃِ. اَللّٰھُمَّ یَا رَبَّ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِجْزِ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ مَا ھُوَ اَھْلُہٗ۔ (درود افضل)

13 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ، (درود زیارتِ حبیب صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ۔

14 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَھْلِ بَیْتِہٖ۔

15 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِیْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی النَّبِیِّیْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِیْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَاِ الْاَعْلٰی اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ (درود رفع الذنوب والخطایا)

16 {اِنَّ اللّٰہَ وَ مَلٰٓئِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا} لَبَّیْکَ اللّٰھُمَّ رَبِّیْ وَ سَعْدَیْکَ صَلَوَاتُ اللّٰہِ الْبَرِّ الرَّحِیْمِ وَ الْمَلٰٓئِکَۃِ الْمُقَرَّبِیْنَ وَ النَّبِیِّیْنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشُّھَدَآءِ وَ الصّٰلِحِیْنَ وَ مَا سَبَّحَ لَکَ مِنْ شَیْءٍ یَّا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰہِ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الشَّاھِدِ الْبَشِیْرِ الدَّاعِیْ اِلَیْکَ بِاِذْنِکَ السِّرَاجِ الْمُنِیْرِ وَ عَلَیْہِ السَّلَامُ۔ (درود اہل بیت رسول صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ)

17 اَللّٰھُمَّ دَاحِیَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ بَارِئَ الْمَسْمُوْکَاتِ اِجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِکَ وَ نَوَامِیَ بَرَکَاتِکَ وَ رَاْفَۃَ تَحَنُّنِکَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُوْلِکَ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ

الدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِيْ مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِّوَحْيِكَ حَافِظًا لِّعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلٰى نَفَاذِ اَمْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبَسًا لِّقَابِسٍ اٰلَاءُ اللّٰهِ تَصِلُ بِاَهْلِهٖ اَسْبَابُهٗ بِهٖ هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْاِثْمِ وَ اَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ وَ نَآئِرَاتِ الْاَحْكَامِ وَ مُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَاْمُوْنُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ وَ شَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَ بَعِيْثُكَ نِعْمَةً وَّ رَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ فِيْ عَدْنِكَ وَ اجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّئَاتٍ لَّهٗ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمَحْلُوْلِ وَ جَزِيْلِ عَطَآئِكَ الْمَعْلُوْلِ، اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلٰى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَآءَهٗ وَ اَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَ نُزُلَهٗ وَ اَتْمِمْ لَهٗ نُوْرَهٗ وَ اجْزِهٖ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهٗ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ وَ مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَّ خُطَّةٍ فَصْلٍ وَّ بُرْهَانٍ عَظِيْمٍ۔ (درود سیدنا علی رضی اللہ عنہ)

18 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ يَغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ۔ (درود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ)

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٌ وَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ۔ (درود فضیلت)

20 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَآئِلَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ شَرَآئِفَ زَكَوَاتِكَ وَ رَاْفَتَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ تَحِيَّتَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ فَاتِحِ الْبِرِّ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ، اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا تُزْلِفُ بِهٖ قُرْبَهٗ وَ تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ يَغْبِطُهُ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْوَسِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ الْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْمُنِيْفَةَ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا سُؤْلَهٗ وَ بَلِّغْهُ مَاْمُوْلَهٗ وَ اجْعَلْهُ اَوَّلَ شَافِعٍ وَّ اَوَّلَ مُشَفَّعٍ، اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَ ثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ ارْفَعْ فِيْ اَعْلَى الْمُقَرَّبِيْنَ دَرَجَتَهٗ، اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهٖ وَ اَحْيِنَا عَلٰى سُنَّتِهٖ وَ تَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ اَوْرِدْنَا حَوْضَهٗ وَ اسْقِنَا بِكَاْسِهٖ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِيْنَ وَلَا شَاكِّيْنَ وَلَا مُبَدِّلِيْنَ وَلَا فَاتِنِيْنَ وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ، اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود امام غزالی رحمۃ اللہ)

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ

نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ (درود جمعۃ المبارک)

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ (درودِ حوضِ کوثر)

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔ (درود اُم المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا)

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَائِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً دَائِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (درود ہزارہ)

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَلَأْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مَّسْرُوْرًا مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ۔ (درود زیارتِ رسول صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ)

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ۔ (درودِ تُنجینا)

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ وَ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَائِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود نُور القیامۃ)

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ (درود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ)

29 صَلَّى اللهُ عَلٰى نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔ (درود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ)

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ وَ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ۔ (درود ابی الحسن الکرخی رضی اللہ عنہ)

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهٰى وَلَا انْقِضَاءَ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ۔ (درود سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

32 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا عَلٰى اَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ مَجْمَعِ الْحَقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَ مَهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ قَائِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَاءِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ حَامِلِ لِوَاءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، الْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ، الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔ (درود الشّمس الکنز الاعظم للامام الغزالی وقیل لسیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نُوْرِكَ الْاَسْبَقِ، وَ صِرَاطِكَ الْمُحَقَّقِ، الَّذِيْ اَبْرَزْتَهٗ رَحْمَةً شَامِلَةً لِّوُجُوْدِكَ، وَ اَكْرَمْتَهٗ بِشُهُوْدِكَ، وَ اصْطَفَيْتَهٗ لِنُبُوَّتِكَ وَ رِسَالَتِكَ، وَ اَرْسَلْتَهٗ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا، وَّ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا، نُقْطَةِ مَرْكَزِ الْبَاءِ الدَّائِرَةِ الْاَوَّلِيَّةِ، وَ سِرِّ اَسْرَارِ الْاَلِفِ الْقُطْبَانِيَّةِ، الَّذِيْ فَتَقْتَ بِهٖ رَتْقَ الْوُجُوْدِ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِاَشْرَافِ الْمَقَامَاتِ بِمَوَاهِبِ الْاِمْتِنَانِ وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ اَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهٖ فِيْ كِتَابِكَ الْمَشْهُوْدِ، لِاَهْلِ الْكَشْفِ وَ الشُّهُوْدِ، فَهُوَ سِرُّكَ الْقَدِيْمُ السَّارِيْ، وَ مَاءُ جَوْهَرِ الْجَوْهَرِيَّةِ الْجَارِيْ، الَّذِيْ اَحْيَيْتَ بِهِ الْمَوْجُوْدَاتِ، مِنْ مَّعْدَنٍ وَّ حَيَوَانٍ وَّ نَبَاتٍ، قَلْبِ الْقُلُوْبِ وَ رُوْحِ الْاَرْوَاحِ وَ اَعْلَامِ

الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ، الْقَلَمِ الْأَعْلٰى وَ الْعَرْشِ الْمُحِيْطِ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، وَ بَرْزَخِ الْبَحْرَيْنِ، وَ ثَانِي اثْنَيْنِ، وَفَخْرِ الْكَوْنَيْنِ، اَبِي الْقَاسِمِ اَبِي الطَّيِّبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ۢ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔ (درود سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ)

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ وَ لَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ اَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ خَزَائِنِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ فَهُمْ مِّنْهُ وَ اِلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ اِلٰى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ اَفْنَيْتَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود سیدنا احمد البدوی رضی اللہ عنہ)

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ، وَ تِرْيَاقِ الْاَغْيَارِ، وَ مِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُخْتَارِ، وَ آلِهِ الْاَطْهَارِ، وَ اَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ، عَدَدَ نِعَمِ اللّٰهِ وَ اَفْضَالِهٖ۔ (درود سیدنا احمد البدوی رضی اللہ عنہ)

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، اللَّطِيْفَةِ الْاَحَدِيَّةِ، شَمْسِ سَمَآءِ الْاَسْرَارِ، وَ مَظْهَرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ، وَ قُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ، اَللّٰهُمَّ بِسِرِّهٖ لَدَيْكَ، وَ بِسَيْرِهٖ اِلَيْكَ، آمِنْ خَوْفِيْ وَ اَقِلْ عَثْرَتِيْ وَ اَذْهِبْ حُزْنِيْ وَ حِرْصِيْ وَ كُنْ لِّيْ وَ خُذْنِيْ اِلَيْكَ مِنِّيْ، وَ ارْزُقْنِي الْفَنَآءَ عَنِّيْ، وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَفْتُوْنًا ۢ بِنَفْسِيْ، مَحْجُوْبًا ۢ بِحِسِّيْ، وَ اكْشِفْ لِيْ عَنْ كُلِّ سِرٍّ مَّكْتُوْمٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ۔ (درود سیدنا ابراہیم الدسوقی رضی اللہ عنہ)

37 اَللّٰهُمَّ افِضْ صِلَةَ صَلَوَاتِكَ، وَ سَلَامَةَ تَسْلِيْمَاتِكَ، عَلٰى اَوَّلِ التَّعَيُّنَاتِ الْمُفَاضَةِ مِنَ الْعَمَآءِ الرَّبَّانِيِّ، وَ آخِرِ التَّنَزُّلَاتِ الْمُضَافَةِ اِلَى النَّوْعِ الْاِنْسَانِيِّ، الْمُهَاجِرِ مِنْ مَّكَّةَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهٗ شَيْءٌ ثَانٍ، اِلٰى مَدِيْنَةِ وَ هُوَ الْاٰنَ عَلٰى مَا عَلَيْهِ كَانَ، مُحْصِيْ عَوَالِمِ الْحَضَرَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ الْخَمْسِ فِيْ وُجُوْدِهٖ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ، وَ رَاحِمِ سَآئِلِيْ اِسْتِعْدَادَاتِهَا بِنَدَاهُ وَ جُوْدِهٖ وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، نُقْطَةِ الْبَسْمَلَةِ الْجَامِعَةِ لِمَا يَكُوْنُ وَلِمَا كَانَ، وَ نُقْطَةِ الْاَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَآئِرِ الْاَكْوَانِ، سِرِّ الْهُوِيَّةِ الَّتِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ سَارِيَةٌ، وَّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّجَرَّدَةٌ وَّ عَارِيَةٌ، اَمِيْنِ اللّٰهِ عَلٰى خَزَآئِنِ الْفَوَاضِلِ وَ مُسْتَوْدَعِهَا، وَ مُقَسِّمِهَا عَلٰى حَسْبِ الْقَوَابِلِ وَ مُوَزِّعِهَا، كَلِمَةِ الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ، وَ فَاتِحَةِ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، الْمَظْهَرِ الْاَتَمِّ الْجَامِعِ بَيْنَ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الرُّبُوْبِيَّةِ، وَ النَّشْئِ الْاَعَمِّ الشَّامِلِ لِلْاِمْكَانِيَّةِ وَ الْوُجُوْبِيَّةِ، الطَّوْدِ الْاَشَمِّ الَّذِيْ لَمْ يُزَحْزِحْهُ تَجَلِّي التَّعَيُّنَاتِ عَنْ مَّقَامِ التَّمْكِيْنِ، وَ الْبَحْرِ الْخِضَمِّ الَّذِيْ لَمْ تُعَكِّرْهُ جِيَفُ الْغَفَلَاتِ عَنْ

صَفَآءِ الْيَقِيْنِ، الْقَلَمِ النُّوْرَانِيِّ الْجَارِيْ بِمِدَادِ الْحُرُوْفِ الْعَالِيَاتِ، وَ النَّفْسِ الرَّحْمَانِيِّ السَّارِيْ بِمَوَادِ الْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ، الْفَيْضِ الْاَقْدَسِ الذَّاتِيِّ الَّذِيْ تَعَيَّنَتْ بِهِ الْاَعْيَانُ وَ اِسْتِعْدَادُهَا، وَ الْفَيْضِ الْمُقَدَّسِ الصِّفَاتِيِّ الَّذِيْ تَكَوَّنَتْ بِهِ الْاَكْوَانُ وَ اِسْتِمْدَادُهَا، مَطْلَعِ شَمْسِ الذَّاتِ فِيْ سَمَآءِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، وَ مَنْبَعِ نُوْرِ الْاِفَاضَاتِ فِيْ رِيَاضِ النِّسَبِ وَ الْاِضَافَاتِ، خَطِّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَيِ الْاَحَدِيَّةِ وَ الْوَاحِدِيَّةِ وَ وَاسِطَةِ التَّنَزُّلِ مِنْ سَمَآءِ الْاَزَلِيَّةِ اِلٰى اَرْضِ الْاَبَدِيَّةِ، النُّسْخَةِ الصُّغْرٰى الَّتِيْ تَفَرَّعَتْ عَنْهَا الْكُبْرٰى، وَ الدُّرَّةِ الْبَيْضَا الَّتِيْ تَنَزَّلَتْ اِلَى الْيَاقُوْتَةِ الْحَمْرَا، جَوْهَرَةِ الْحَوَادِثِ الْاِمْكَانِيَّةِ الَّتِيْ لَا تَخْلُوْ عَنِ الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنِ، وَ مَادَّةِ الْكَلِمَةِ الْفَهْوَانِيَّةِ الطَّالِعَةِ مِنْ كِنِّ كُنْ اِلٰى شَهَادَةِ فَيَكُوْنُ، هُيُوْلَى الصُّوَرِ الَّتِيْ لَا تَتَجَلّٰى بِاِحْدَاهَا مَرَّةً لِّاِثْنَيْنِ، وَلَا بِصُوْرَةٍ مِّنْهَا لِاَحَدٍ مَّرَّتَيْنِ، قُرْاٰنِ الْجَمْعِ الشَّامِلِ لِلْمُمْتَنِعِ وَ الْعَدِيْمِ، وَ فُرْقَانِ الْفَرْقِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَادِثِ وَ الْقَدِيْمِ، صَآئِمِ نَهَارِ اِنِّيْ اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيْ، وَ قَآئِمِ لَيْلِ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ، وَاسِطَةِ مَا بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، وَ رَابِطَةِ تَعَلُّقِ الْحُدُوْثِ بِالْقِدَمِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ، فَذٰلِكَةِ دَفْتَرِ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ، وَ مَرْكَزِ اِحَاطَةِ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ، حَبِيْبِكَ الَّذِيْ اِسْتَجْلَيْتَ بِهٖ جَمَالَ ذَاتِكَ عَلٰى مِنَصَّةِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ نَصَبْتَهٗ قِبْلَةً لِّتَوَجُّهَاتِكَ فِيْ جَامِعِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ خَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعَةَ الصِّفَاتِ وَ الْاَسْمَآءِ وَ تَوَّجْتَهٗ بِتَاجِ الْخِلَافَةِ الْعُظْمٰى، وَ اَسْرَيْتَ بِجَسَدِهٖ يَقْظَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، وَ تَرَقّٰى اِلٰى قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، فَانْسَرَّ فُؤَادُهٗ بِشُهُوْدِكَ حَيْثُ لَا صَبَاحَ وَلَا مَسَا، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى، وَ قَرَّ بَصَرُهٗ بِوُجُوْدِكَ حَيْثُ لَا خَلَآءَ وَلَا مَلَآءَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى، صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً يَّصِلُ بِهَا فَرْعِيْ اِلٰى اَصْلِيْ، وَ بَعْضِيْ اِلٰى كُلِّيْ، لِتَتَّحِدَ ذَاتِيْ بِذَاتِهٖ، وَ صِفَاتِيْ بِصِفَاتِهٖ، وَ تَقَرَّ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، وَ يَفِرَّ الْبَيْنُ مِنَ الْبَيْنِ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامًا، اَسْلَمُ بِهٖ فِيْ مُتَابَعَتِهٖ مِنَ التَّخَلُّفِ، وَ اَسْلَمُ فِيْ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِهٖ مِنَ التَّعَسُّفِ، لِاَفْتَحَ بَابَ مَحَبَّتِكَ اِيَّايَ بِمِفْتَاحِ مُتَابَعَتِهٖ، وَ اَشْهَدَكَ فِيْ حَوَاسِّيْ، وَ اَعْضَايَ مِنْ مِّشْكَاةِ شَرْعِهٖ وَ طَاعَتِهٖ، وَ اَدْخُلَ وَرَآئَهٗ اِلٰى حِصْنِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَ فِيْ اٰثَرِهٖ اِلٰى خَلْوَةِ لِيْ وَقْتٌ مَّعَ اللهِ، اِذْ هُوَ بَابُكَ الَّذِيْ مَنْ لَّمْ يَقْصِدْكَ مِنْهُ سُدَّتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ وَ الْاَبْوَابُ، وَ رُدَّ بِعَصَا الْاَدَبِ اِلٰى اِصْطَبْلِ الدَّوَآبِّ، اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ يَا مَنْ لَّيْسَ حِجَابُهٗ اِلَّا النُّوْرَ، وَلَا خِفَآؤُهٗ اِلَّا شِدَّةَ الظُّهُوْرِ، اَسْأَلُكَ بِكَ فِيْ مَرْتَبَةِ اِطْلَاقِكَ عَنْ كُلِّ تَقْيِيْدٍ، الَّتِيْ تَفْعَلُ فِيْهَا مَا تَشَآءُ وَ تُرِيْدُ، وَ بِكَشْفِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النُّوْرِيِّ، وَ تَحَوُّلِكَ فِيْ صُوَرِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ بِالْوُجُوْدِ الصُّوْرِيِّ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْحَلُ بِهَا بَصِيْرَتِيْ بِالنُّوْرِ الْمَرْشُوْشِ فِي الْاَزَلِ، لِاَشْهَدَ فَنَآءَ مَا لَمْ يَكُنْ وَ بَقَآءَ مَا لَمْ يَزَلْ، وَ اَرَى الْاَشْيَآءَ كَمَا هِيَ فِيْ اَصْلِهَا مَعْدُوْمَةً مَّفْقُوْدَةً وَّ كَوْنَهَا لَمْ تَشَمَّ رَآئِحَةَ الْوُجُوْدِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا مَوْجُوْدَةً وَّ اَخْرِجْنِيْ، اَللّٰهُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمَةِ اَنَانِيَّتِيْ اِلٰى

النُّوْرِ، وَ مِنْ قَبْرِ جُثْمَانِيَّتِيْ اِلٰى جَمْعِ الْحَشْرِ وَ فَرْقِ النُّشُوْرِ، وَ اَفِضْ عَلَيَّ مِنْ سَمَآءِ تَوْحِيْدِكَ اِيَّاكَ مَا تُطَهِّ
بِهٖ مِنْ رِجْسِ الشِّرْكِ وَ الْاِشْرَاكِ، وَ انْعِشْنِيْ بِالْمَوْتَةِ الْاُوْلٰى وَ الْوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ، وَ اَحْيِنِيْ بِالْحَيَاةِ الْبَاقِ
فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، وَ اجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا اَمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ، وَ اَرٰى بِهٖ وَجْهَكَ اَيْنَمَا تَوَلَّيْتُ بِدُوْنِ اِشْتِبَ
وَّلَا اِلْتِبَاسٍ نَّاظِرًا م بِعَيْنَيِ الْجَمْعِ وَ الْفَرْقِ، فَاصِلًا م بِحُكْمِ الْقَطْعِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَ الْحَقِّ، دَالًّا م بِكَ عَلَيْكَ
هَادِيًا م بِاِذْنِكَ اِلَيْكَ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَقَبَّلُ بِهَا دُعَائِيْ
تُحَقِّقُ بِهَا رَجَآئِيْ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ اٰلِ الشُّهُوْدِ وَ الْعِرْفَانِ، وَ اَصْحَابِهٖ اَصْحَابِ الذَّوْقِ وَ الْوِجْدَانِ، مَا اِنْتَشَرَتْ طُرَّ
لَيْلِ الْكِيَانِ، وَ اَسْفَرَتْ غُرَّةُ جَبِيْنِ الْعِيَانِ اٰمِيْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

(درود شیخ اکبر سیدنا محی الدین بن العربی رضی اللہ عنہ)

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ اَهْلِ سَمٰوَاتِكَ
النُّوْرِ الْاَعْظَمِ، وَ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ، وَ السِّرِّ الْمُمْتَدِّ، الَّذِيْ لَيْسَ لَهٗ مِثْلٌ مَّنْطُوْقٌ وَّلَا
شِبْهٌ مَّخْلُوْقٌ وَّ ارْضَ عَنْ خَلِيْفَتِهٖ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ، مِنْ جِنْسِ عَالَمِ الْاِنْسَانِ، الرُّوْحِ الْمُتَجَسِّدِ، وَ الْفَرْدِ
الْمُتَعَدِّدِ حُجَّةِ اللّٰهِ فِي الْاَقْضِيَةِ، وَ عُمْدَةِ اللّٰهِ فِي الْاَمْضِيَةِ مَحَلِّ نَظَرِ اللّٰهِ مِنْ خَلْقِهٖ، مُنَفِّذِ اَحْكَامِهٖ بَيْنَهُمْ
بِصِدْقِهٖ، الْمُمِدِّ لِلْعَوَالِمِ بِرُوْحَانِيَّتِهِ الْمُفِيْضِ عَلَيْهِمْ مِنْ نُّوْرِ نُوْرَانِيَّتِهٖ، مَنْ خَلَقَهُ اللّٰهُ عَلٰى صُوْرَتِهٖ، وَ
اَشْهَدَهٗ اَرْوَاحَ مَلَآئِكَتِهٖ، وَ خَصَّصَهٗ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ، لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ اَمَانٌ، فَهُوَ قُطْبُ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ، وَ
مَحَلُّ السَّمْعِ وَ الشُّهُوْدِ، فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي الْكَوْنِ اِلَّا بِعِلْمِهٖ، وَلَا تَسْكُنُ اِلَّا بِحُكْمِهٖ، لِاَنَّهٗ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَ
مَعْدِنُ الصِّدْقِ، اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ سَلَامِيْ اِلَيْهِ، وَ اَوْقِفْنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ اَفِضْ عَلَيَّ مِنْ مَّدَدِهٖ، وَ احْرُسْنِيْ بِعُدَدِهٖ، وَ
انْفُخْ فِيَّ مِنْ رُوْحِهٖ، كَيْ اَحْيٰى بِرُوْحِهٖ، وَلِاَشْهَدَ حَقِيْقَتِيْ عَلَى التَّفْصِيْلِ، فَاَعْرِفَ بِذٰلِكَ الْكَثِيْرَ وَ الْقَلِيْلَ،
وَ اَرٰى عَوَالِمِي الْغَيْبِيَّةَ، تَتَجَلّٰى بِصُوَرِي الرُّوْحَانِيَّةِ، عَلٰى اِخْتِلَافِ الْمَظَاهِرِ، لِاَجْمَعَ بَيْنَ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ، وَ
الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ، فَاَكُوْنُ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهًا بَيْنَ صِفَاتِهٖ وَ اَفْعَالِهٖ لَيْسَ لِيْ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّعْلُوْمٌ وَلَا جُزْءٌ
مَّقْسُوْمٌ، فَاَعْبُدُهٗ بِهٖ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ، بَلْ بِحَوْلٍ وَ قُوَّةِ ذِي الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ
لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اجْمَعْنِيْ بِهٖ وَ عَلَيْهِ وَ فِيْهِ، حَتّٰى لَا اُفَارِقَهٗ فِي الدَّارَيْنِ، وَلَا اَنْفَصِلَ عَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ، بَلْ
اَكُوْنَ كَاَنِّيْ اِيَّاهُ، فِيْ كُلِّ اَمْرٍ تَوَلَّاهُ، مِنْ طَرِيْقِ الْاِتِّبَاعِ وَ الْاِنْتِفَاعِ، لَا مِنْ طَرِيْقِ الْمُمَاثَلَةِ وَ الْاِرْتِفَاعِ، وَ
اَسْاَلُكَ بِاَسْمَآئِكَ الْحُسْنَى الْمُسْتَجَابَةِ اَنْ تُبَلِّغَنِيْ ذٰلِكَ مِنَّةً مُّسْتَطَابَةً وَّلَا تَرُدَّنِيْ مِنْكَ خَآئِبًا وَّلَا مِمَّنْ لَّكَ
نَآئِبًا، فَاِنَّكَ الْوَاجِدُ الْكَرِيْمُ، وَّ اَنَا الْعَبْدُ الْعَدِيْمُ، وَ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ
وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود شیخ اکبر سیدی محی الدین بن العربی رضی اللہ عنہ)

39 اَللّٰهُمَّ جَدِّدْ وَ جَرِّدْ فِيْ هٰذَا الْوَقْتِ وَ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ مِنْ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّاتِ، وَ تَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيَاتِ، وَ

رِضْوَانِكَ الْاَكْبَرِ الْاَتَمِّ الْاَدْوَمِ اِلٰى اَكْمَلِ عَبْدٍ لَّكَ فِيْ هٰذَا الْعَالَمِ، مِنْ بَنِيْ آدَمَ. الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ لَكَ ظِلاًّ وَّ لِحَوَآئِجِ خَلْقِكَ قِبْلَةً وَّ مَحَلاًّ وَّ اصْطَفَيْتَهٗ لِنَفْسِكَ وَ اَقَمْتَهٗ بِحُجَّتِكَ، وَ اَظْهَرْتَهٗ بِصُوْرَتِكَ، وَ اِخْتَرْتَهٗ مُسْتَوٰى لِّتَجَلِّيْكَ، وَ مَنْزِلًا لِّتَنْفِيْذِ اَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِيْكَ، فِيْ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، وَ وَاسِطَةً بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَكُوَّنَاتِكَ، وَ بَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِكَ هٰذَا اِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الْاٰنَ عَنْ عَبْدِكَ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ اَشْرَفُ التَّسْلِيْمِ وَ اَزْكَى التَّحِيَّاتِ، اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْهُ بِيْ لِيَذْكُرَنِيْ عِنْدَكَ بِمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ اَنَّهٗ نَافِعٌ لِّيْ عَاجِلًا وَّ آجِلًا عَلٰى قَدْرِ مَعْرِفَتِهٖ بِكَ وَ مَكَانَتِهٖ لَدَيْكَ لَا عَلٰى مِقْدَارِ عِلْمِيْ وَ مُنْتَهٰى فَهْمِيْ اِنَّكَ بِكُلِّ فَضْلٍ جَدِيْرٌ وَّ عَلٰى مَا تَشَآءُ قَدِيْرٌ وَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

(درود شیخ فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ)

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ. (درود سیدی شمس الدین محمد الحنفی رضی اللہ عنہ)

41 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ مَا مَضٰى وَ تَحْفَظَنِيْ فِيْمَا بَقِيَ. (درود سیدی ابراهیم المتبولی رضی اللہ عنہ)

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَاةٍ عَلٰى اَفْضَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اَجْرِ لُطْفَكَ فِيْ اُمُوْرِنَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَ عَدَدَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَسَدِهٖ فِيْ

الْاَجْسَادِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ وَ الْغَمَامَةِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ اَبْهٰى مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حَسَنَاتِ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَبَاتِ الْاَرْضِ وَ اَوْرَاقِ الشَّجَرِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الَّذِيْ جَمَعْتَ بِهٖ شَتَاتَ النُّفُوْسِ وَ نَبِيِّكَ الَّذِيْ جَلَيْتَ بِهٖ ظَلَامَ الْقُلُوْبِ وَ حَبِيْبِكَ الَّذِي اخْتَرْتَهٗ عَلٰى كُلِّ حَبِيْبٍ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَآءَ بِالْحَقِّ الْمُبِيْنِ وَ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْمَلِيْحِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْاَعْلٰى وَ اللِّسَانِ الْفَصِيْحِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِيْ لِشَرَفِ نُبُوَّتِهٖ وَ لِعَظِيْمِ قَدْرِهِ الْعَظِيْمِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ الْمُطَاعِ الْاَمِيْنِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ وَ عَلٰى اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ وَ عَلٰى اَخِيْهِ مُوْسَى الْكَلِيْمِ وَ عَلٰى رُوْحِ اللّٰهِ عِيْسَى الْاَمِيْنِ وَ عَلٰى دَاوٗدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عَلٰى اٰلِهِمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى عَيْنِ الْعِنَايَةِ وَ زَيْنِ الْقِيَامَةِ وَ كَنْزِ الْهِدَايَةِ وَ طِرَازِ الْحُلَّةِ وَ عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ وَ لِسَانِ الْحُجَّةِ وَ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ وَ اِمَامِ الْحَضْرَةِ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰدَمَ وَ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ وَ عَلٰى اَخِيْهِ مُوْسَى الْكَلِيْمِ وَ عَلٰى رُوْحِ اللّٰهِ عِيْسَى الْاَمِيْنِ وَ عَلٰى دَاوٗدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عَلٰى اٰلِهِمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔ (درود مصباح الظلام لسیدی نور الدین الشونی رضی اللہ عنہ)

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ مِّنْهُ انْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ، وَ انْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ، وَ فِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَآئِقُ، وَ تَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ اٰدَمَ فَاَعْجَزَ الْخَلَآئِقَ وَ لَهٗ تَضَآءَلَتِ الْفُهُوْمُ فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ وَّ لَا لَاحِقٌ، فَرِيَاضُ الْمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهٖ مُوْنِقَةٌ وَّ حِيَاضُ الْجَبَرُوْتِ بِفَيْضِ اَنْوَارِهٖ مُتَدَفِّقَةٌ وَّ لَا شَيْءَ اِلَّا وَ هُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ. اِذْ لَوْلَا

الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوطُ، صَلَاةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ سِرُّكَ الْجَامِعُ
الدَّالُّ عَلَيْكَ، وَ حِجَابُكَ الْاَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ. اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنِي بِنَسَبِهٖ، وَ حَقِّقْنِي بِحَسَبِهٖ، وَ
عَرِّفْنِي اِيَّاهُ مَعْرِفَةً اَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ، وَ اَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ، وَ احْمِلْنِي عَلٰى سَبِيْلِهٖ اِلٰى
حَضْرَتِكَ، حَمْلًا مَحْفُوْفًا بِنُصْرَتِكَ، وَ اقْذِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَاَدْمَغَهُ، وَ زُجَّ بِي فِي بِحَارِ الْاَحَدِيَّةِ، وَ انْشُلْنِي
مِنْ اَوْحَالِ التَّوْحِيْدِ، وَ اَغْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتّٰى لَا اَرٰى وَلَا اَسْمَعَ وَلَا اَجِدَ وَلَا اُحِسَّ اِلَّا بِهَا، وَ
اجْعَلِ الْحِجَابَ الْاَعْظَمَ حَيَاةَ رُوْحِي وَ رُوْحَهُ سِرَّ حَقِيْقَتِي وَ حَقِيْقَتَهُ جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَحْقِيْقِ الْحَقِّ الْاَوَّلِ
يَا اَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ، اِسْمَعْ نِدَائِي بِمَا سَمِعْتَ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا، وَ انْصُرْنِي بِكَ لَكَ، وَ اَيِّدْنِي بِكَ لَكَ.
وَ اجْمَعْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ حُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ غَيْرِكَ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ {اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى
مَعَادٍ} {رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا} {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَ
يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} - (درود سیدی عبد السلام بن مشیش رضی اللہ عنہ)

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ وَ السِّرِّ السَّارِيْ فِي سَائِرِ الْاَسْمَاءِ وَ
الصِّفَاتِ۔ (درود النور الذاتی لسیدی ابوالحسن الشاذلی رضی اللہ عنہ)

45 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ، اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا طُهْرُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى آلِكَ وَ اَهْلِ
بَيْتِكَ وَ اَزْوَاجِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ اَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَ جَمِيْعِ عِبَادِ اللّٰهِ
الصَّالِحِيْنَ، جَزَاكَ اللّٰهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا وَّ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا
ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ اَفْضَلَ وَ اَكْمَلَ وَ اَطْيَبَ مَا صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ،
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَ خِيَرَتُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ
قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَ جَاهَدْتَّ فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ، اَللّٰهُمَّ وَ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ
وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِي وَعَدْتَّهٗ وَ اٰتِهٖ نِهَايَةَ مَا يَنْبَغِي اَنْ يَّسْاَلَهُ السَّائِلُوْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (درود امام النووی رضی اللہ عنہ)

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هٰذِهِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْهَادِيَةِ الْمَهْدِيَّةِ الرُّسُلِيَّةِ، بِجَمِيْعِ صَلَوَاتِكَ التَّامَّاتِ، صَلَاةً
تَسْتَغْرِقُ جَمِيْعَ الْعُلُوْمِ بِالْمَعْلُوْمَاتِ، بَلْ صَلَاةً لَّا نِهَايَةَ لَهَا فِيْ آمَادِهَا، وَلَا انْقِطَاعَ لِإِمْدَادِهَا، وَسَلِّمْ
كَذٰلِكَ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ يَا سَيِّدَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْتَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْوُجُوْدِ، وَ اَنْتَ سَيِّدُ كُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ وَّ
اَنْتَ جَوْهَرَةُ الْيَتِيْمَةُ الَّتِيْ دَارَتْ عَلَيْهَا اَصْنَافُ الْمُكَوَّنَاتِ، وَ اَنْتَ النُّوْرُ الَّذِيْ مَلَأَ اِشْرَاقُهُ الْاَرْضِيْنَ وَ
السَّمٰوَاتِ، بَرَكَاتُكَ لَا تُحْصٰى، وَ مُعْجِزَاتُكَ لَا يَحُدُّهَا الْعَدَدُ فَتُسْتَقْصَى الْاَحْجَارُ وَ الْاَشْجَارُ سَلَّمَتْ عَلَيْكَ،
وَ الْحَيَوَانَاتُ الصَّامِتَةُ نَطَقَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ الْمَآءُ تَفَجَّرَ وَ جَرٰى مِنْ بَيْنِ اُصْبُعَيْكَ، وَ الْجِذْعُ عِنْدَ فِرَاقِكَ
حَنَّ اِلَيْكَ، وَ الْبِئْرُ الْمَالِحَةُ حَلَتْ بِتَفْلَةٍ مِّنْ بَيْنِ شَفَتَيْكَ، بِبِعْثَتِكَ الْمُبَارَكَةِ اَمِنَّا الْمَسْخَ وَ الْخَسْفَ وَ
الْعَذَابَ، وَ بِرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ شَمِلَتْنَا الْاَلْطَافُ وَ نَرْجُو رَفْعَ الْحِجَابِ، يَا طَهُوْرُ يَا مُطَهَّرُ يَا طَاهِرُ يَا اَوَّلُ يَا
آخِرُ يَا بَاطِنُ يَا ظَاهِرُ، شَرِيْعَتُكَ مُقَدَّسَةٌ طَاهِرَةٌ وَّ مُعْجِزَاتُكَ بَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ، اَنْتَ الْاَوَّلُ فِي النِّظَامِ، وَ
الْآخِرُ فِي الْخِتَامِ، وَ الْبَاطِنُ بِالْاَسْرَارِ، وَ الظَّاهِرُ بِالْاَنْوَارِ، اَنْتَ جَامِعُ الْفَضْلِ، وَ خَطِيْبُ الْوَصْلِ، وَ اِمَامُ
اَهْلِ الْكَمَالِ، وَ صَاحِبُ الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ، وَ الْمَخْصُوْصُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى، وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ الْعَلِيِّ
الْاَسْمٰى، وَ بِلِوَآءِ الْحَمْدِ الْمَعْقُوْدِ، وَ الْكَرَمِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ الْجُوْدِ، فَيَا سَيِّدًا سَادَ الْاَسْيَادَ، وَ يَا سَنَدًا اِسْتَنَدَ
اِلَيْهِ الْعِبَادُ عَبِيْدُ مَوْلَوِيَّتِكَ الْعُصَاةُ، يَتَوَسَّلُوْنَ بِكَ فِيْ غُفْرَانِ السَّيِّئَاتِ، وَ سَتْرِ الْعَوْرَاتِ، وَ قَضَآءِ
الْحَاجَاتِ، فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا وَ عِنْدَ انْقِضَآءِ الْاَجَلِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ، يَا رَبَّنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ تَقَبَّلْ مِنَّا
الدَّعَوَاتِ، وَ ارْفَعْ لَنَا الدَّرَجَاتِ، وَ اقْضِ عَنَّا التَّبِعَاتِ، وَ اسْكِنَّا اَعْلَى الْجَنَّاتِ، وَ اَبِحْنَا النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِكَ
الْكَرِيْمِ فِيْ حَضَرَاتِ الْمُشَاهَدَاتِ، وَ اجْعَلْنَا مَعَهٗ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ
اَهْلِ الْمُعْجِزَاتِ وَ اَرْبَابِ الْكَرَامَاتِ، وَ هَبْ لَنَا الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ مَعَ اللُّطْفِ فِي الْقَضَآءِ آمِيْنَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِيْنَ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا اَكْرَمَكَ عَلَى اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ
اللهِ، مَا خَابَ مَنْ تَوَسَّلَ بِكَ اِلَى اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْاَمْلَاكُ تَشَفَّعَتْ بِكَ عِنْدَ
اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْاَنْبِيَآءُ وَ الرُّسُلُ مَمْدُوْدُوْنَ مِنْ مَّدَدِكَ الَّذِيْ خُصِّصْتَ بِهٖ
مِنَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْاَوْلِيَآءُ اَنْتَ الَّذِيْ وَ الَيْتَهُمْ فِيْ عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
حَتّٰى تَوَلَّاهُمُ اللهُ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ سَلَكَ فِيْ مَحَجَّتِكَ وَ قَامَ بِحُجَّتِكَ اَيَّدَهُ اللهُ،
اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْمَخْذُوْلُ مَنْ اَعْرَضَ عَنِ الْاِقْتِدَآءِ بِكَ اِيْ وَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ اَطَاعَكَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ
عَصَاكَ فَقَدْ عَصَى اللهَ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ اَتٰى لِبَابِكَ مُتَوَسِّلًا قَبِلَهُ اللهُ، اَلصَّلَاةُ

وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ حَطَّ رَحْلَ ذُنُوْبِهٖ فِيْ عَتَبَاتِكَ غَفَرَلَهُ اللهُ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ دَخَلَ حَرَمَكَ خَآئِفًا اٰمَنَهُ اللهُ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ لَّاذَ بِجَنَابِكَ وَ عَلِقَ بِاَذْيَالِ جَاهِكَ اَعَزَّهُ اللهُ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ اَمَّ لَكَ وَ اَمَّلَكَ لَمْ يَخِبْ مِنْ فَضْلِكَ لَا وَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَمَّلْنَا لِشَفَاعَتِكَ وَ جَوَارِكَ عِنْدَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، تَوَسَّلْنَا بِكَ فِي الْقُبُوْلِ عَسٰى وَلَعَلَّ نَكُوْنُ مِمَّنْ تَوَلَّاهُ اللهُ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِكَ نَرْجُوْ بُلُوْغَ الْاٰمَلِ وَلَا نَخَافُ الْعَطَشَ حَاشَا وَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُحِبُّوْكَ مِنْ اُمَّتِكَ وَاقِفُوْنَ بِبَابِكَ يَآ اَكْرَمَ خَلْقِ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَسِيْلَتَنَآ اِلَى اللهِ، قَصَدْنَاكَ وَ قَدْ فَارَقْنَا سِوَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْعَرَبُ يَحْمُوْنَ النَّزِيْلَ وَ يُجِيْرُوْنَ الدَّخِيْلَ، وَ اَنْتَ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ نَزَلْنَا بِحَيِّكَ وَ اسْتَجَرْنَا بِجَنَابِكَ وَ اَقْسَمْنَا بِحَيَاتِكَ عَلَى اللهِ، اَنْتَ الْغِيَاثُ وَ اَنْتَ الْمَلَاذُ فَاَغِثْنَا بِجَاهِكَ الْوَجِيْهِ الَّذِىْ لَا يَرُدُّهُ اللهُ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا دَامَتْ دَيْمُوْمِيَّةُ اللهِ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا تَرْضَاهُمَا وَ تَرْضٰى بِهِمَا عَنَّا يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلَانَا يَآ اللهُ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى سَآئِرِ الْمَلَآئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ، اَللّٰهُمَّ وَ ارْضَ عَنْ ضَجِيْعَىْ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عَنْ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَّ عَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ، وَ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اٰمِيْنَ۔ (درود الشیخ محمد ابی المواهب الشاذلی رضی اللہ عنہ)

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نُوْرِكَ الْاَسْنٰى، وَ سِرِّكَ الْاَبْهٰى، وَ حَبِيْبِكَ الْاَعْلٰى، وَ صَفِيِّكَ الْاَزْكٰى، وَاسِطَةِ اَهْلِ الْحُبِّ، وَ قِبْلَةِ اَهْلِ الْقُرْبِ، رُوْحِ الْمَشَاهِدِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، وَ لَوْحِ الْاَسْرَارِ الْقَيُّوْمِيَّةِ، تَرْجُمَانِ الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ، لِسَانِ الْغَيْبِ الَّذِىْ لَا يُحِيْطُ بِهٖ اَحَدٌ، صُوْرَةِ الْحَقِيْقَةِ الْفَرْدَانِيَّةِ، وَ حَقِيْقَةِ الصُّوْرَةِ الْمُزَيَّنَةِ بِالْاَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، اِنْسَانِ اللهِ الْمُخْتَصِّ بِالْعِبَارَةِ عَنْهُ، سِرِّ قَابِلِيَّةِ التَّهَيُّئِ الْاِمْكَانِيِّ الْمُتَلَقِّيَةِ مِنْهُ، اَحْمَدَ مَنْ حَمِدَ وَ حُمِدَ عِنْدَ رَبِّهٖ، مُحَمَّدِنِ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ بِتَفْعِيْلِ التَّكْمِيْلِ الذَّاتِيِّ فِىْ مَرَاتِبِ قُرْبِهٖ، غَايَةِ طَرَفَىِ الدَّوْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْاَوَّلِ نَظَرًا وَّ اِمْدَادًا ۥ بِدَايَةِ نُقْطَةِ الْاِنْفِعَالِ الْوُجُوْدِيِّ اِرْشَادًا وَّ اِسْعَادًا، اَمِيْنِ اللهِ عَلٰى سِرِّ الْاُلُوْهِيَّةِ الْمُطَلْسَمِ، وَ حَفِيْظِهٖ عَلٰى غَيْبِ اللَّاهُوْتِيَّةِ الْمُكَتَّمِ، مَنْ لَّا تُدْرِكُ الْعُقُوْلُ الْكَامِلَةُ مِنْهُ اِلَّا مِقْدَارَ مَا تَقُوْمُ عَلَيْهَا بِهٖ حُجَّتُهُ الْبَاهِرَةُ، وَلَا تَعْرِفُ النُّفُوْسُ الْعَرْشِيَّةُ مِنْ حَقِيْقَتِهٖ اِلَّا مَا يَتَعَرَّفُ لَهَا بِهٖ مِنْ لَّوَامِعِ اَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ، مُنْتَهٰى هِمَمِ الْقُدْسِيِّيْنَ وَ قَدْ بَدَوْا مِمَّا فَوْقَ عَالَمِ الطَّبَآئِعِ،

مَرْمَى اَبْصَارِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَ قَدْ طَمَحَتْ لِمُشَاهَدَةِ السِّرِّ الْجَامِعِ، مَنْ لَا تُجْلَى اَشِعَّةُ اللّٰهِ لِقَلْبٍ اِلَّا مِنْ مِرْآةِ سِرِّهٖ، وَ هِيَ النُّوْرُ الْمُطْلَقُ، وَلَا تُتْلٰى مَزَامِيْرُهٗ عَلٰى لِسَانٍ اِلَّا بِرَنَّاتِ ذِكْرِهٖ، وَ هُوَ الْوِتْرُ الشَّفْعِيُّ الْمُحَقَّقُ، الْمَحْكُوْمُ بِالْجَهْلِ عَلٰى كُلِّ مَنِ ادَّعٰى مَعْرِفَةَ اللّٰهِ مُجَرَّدَةً فِيْ نَفْسِ الْاَمْرِ عَنْ نَفْسِهِ الْمُحَمَّدِيِّ، الْفَرْعِ الْحَدَثَانِيِّ الْمُتَرَعْرِعِ فِيْ نَمَآئِهٖ بِمَا يُمِدُّ بِهٖ كُلَّ اَصْلٍ اَبَدِيٍّ، جَنِيِّ شَجَرَةِ الْقِدَمِ، خُلَاصِ نُسْخَتَيِ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ، عَبْدِ اللّٰهِ وَ نِعْمَ الْعَبْدُ الَّذِيْ بِهٖ كَمَالُ الْكَمَالِ، وَ عَابِدِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلَا حُلُوْلٍ وَّلَا اِتِّحَادٍ وَّلَا اِتِّصَالٍ وَّلَا انْفِصَالٍ، اَلدَّاعِيْ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، نَبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَ مُمِدِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِ بِالذَّاتِ وَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ اَشْرَفُ التَّسْلِيْمِ، يَآ اَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَمَالِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِخْتِصَاصِيَّةِ، وَ جَلَالِ التَّدَلِّيَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْبَاطِنِ بِكَ فِيْ غَيَابَاتِ الْعِزِّ الْاَكْبَرِ، الظَّاهِرِ بِنُوْرِكَ فِيْ مَشَارِقِ الْمَجْدِ الْاَفْخَرِ، عَزِيْزِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ، وَ سُلْطَانِ الْمَمْلَكَةِ الْاَحَدِيَّةِ، عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ كَمَا هُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ كَافَّةُ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، مُسْتَوٰى تَجَلِّيْ عَظَمَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ حُكْمِكَ فِيْ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ، مَنْ كَحَلْتَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ مُقْلَتَهٗ فَرَاٰى ذَاتَكَ الْعَلِيَّةَ جِهَارًا، وَّ سَتَرْتَ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فِيْ بَاطِنِهٖ لَكَ اِسْرَارًا، وَّ فَلَقْتَ بِكَلِمَةِ خُصُوْصِيَّتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِحَارَ الْجَمْعِ، وَ مَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَ جَمَالِكَ وَ خِطَابِكَ الْقَلْبَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ وَ اَخَّرْتَ عَنْ مَقَامِهٖ تَاْخِيْرًا ذَاتِيًّا كُلَّ اَحَدٍ، وَّ جَعَلْتَهٗ بِحُكْمِ اَحَدِيَّتِكَ وِتْرَ الْعَدَدِ، لِوَآءِ عِزَّتِكَ الْخَافِقِ، لِسَانِ حِكْمَتِكَ النَّاطِقِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ شِيْعَتِهٖ وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ، يَآ اَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى دَآئِرَةِ الْاِحَاطَةِ الْعُظْمٰى، وَ مَرْكَزِ مُحِيْطِ الْفَلَكِ الْاَسْمٰى، عَبْدِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عُلُوْمِكَ بِمَا لَمْ تُهَيِّئْ لَهٗ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ، سُلْطَانِ مَمَالِكِ الْعِزَّةِ بِكَ فِيْ كَافَّةِ بِلَادِكَ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ الَّذِيْ تَلَاطَمَتْ بِرِيَاحِ التَّعَيُّنِ الصَّمَدَانِيِّ اَمْوَاجُهٗ، قَآئِدِ جَيْشِ النُّبُوَّةِ الَّذِيْ تَسَارَعَتْ بِكَ اِلَيْكَ اَفْوَاجُهٗ، خَلِيْفَتِكَ عَلٰى كَافَّةِ خَلِيْقَتِكَ، اَمِيْنِكَ عَلٰى جَمِيْعِ بَرِيَّتِكَ، مَنْ غَايَةُ الْمُجِدِّ الْمَجِيْدِ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الْاِعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ عَنِ اكْتِنَاهِ صِفَاتِهٖ، وَ نِهَايَةُ الْبَلِيْغِ الْمُبَالِغِ اَنْ لَّا يَصِلَ اِلٰى مَبَالِغِ الْحَمْدِ عَلٰى مَكَارِمِهٖ وَ هِبَاتِهٖ، سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَّكَ عَلَيْهِ سِيَادَةٌ مُّحَمَّدِكَ الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنَ الْحَمْدِ بِكَ لَكَ اِصْدَارَهٗ وَ اِيْرَادَهٗ، وَ عَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ، وَ اَصْحَابِهِ الْعِظَامِ، وَ وُرَّاثِهِ الْفِخَامِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ } وَ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود سیدی محمد بن ابی الحسن البکری رضی اللہ عنہما)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِنَيِّرِ هِدَايَتِكَ الْاَعْظَمِ، وَ سِرِّ اِرَادَتِكَ الْمَكْنُوْنِ مِنْ نُّوْرِكَ الْمُطَلْسَمِ، مُخْتَارِكَ مِنْكَ 48
لَكَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَّ نُوْرِكَ الْمُجَرَّدِ بَيْنَ مَسَالِكِ اللُّقٰى، كَنْزِكَ الَّذِیْ لَمْ يُحِطْ بِهٖ سِوَاكَ، وَ اَشْرَفِ خَلْقِكَ
الَّذِیْ بِحُكْمِ اِرَادَتِكَ كَوَّنْتَ مِنْ نُّوْرِهٖ اَجْرَامَ الْاَفْلَاكِ وَ هَيَاكِلَ الْاَمْلَاكِ، فَطَافَتْ بِهِ الصَّآفُّوْنَ حَوْلَ
عَرْشِكَ تَعْظِيْمًا وَّ تَكْرِيْمًا، وَّ اَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ { اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى
النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا } وَ نَشَرْتَ فَوْقَ هَامَتِهٖ فِیْ تَحْتِ مُلْكِكَ لِوَآءَ حَمْدِكَ وَ
قَدَّمْتَهٗ عَلٰى صَنَادِيْدِ جُيُوْشِ سُلْطَانِكَ بِقُوَّةِ عَزْمِكَ، وَ اَخَذْتَ لَهٗ عَلٰى اَصْفِيَآئِكَ بِالْحَقِّ مِيْثَاقَكَ الْاَوَّلَ، وَ
قَرَّبْتَهٗ بِكَ وَ مِنْكَ وَ لَكَ وَ جَعَلْتَ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلَ، وَ مَتَّعْتَهٗ بِجَمَالِكَ فِیْ مَظْهَرِ التَّجَلِّیْ، وَ خَصَصْتَهٗ بِقَابِ
قَوْسَيْنِ قُرْبِ الدُّنُوِّ وَ التَّدَلِّیْ، وَ زَجَّيْتَ بِهٖ فِیْ نُوْرِ اُلُوْهِيَّتِكَ الْعُظْمٰى، وَ عَرَّفْتَ بِهٖ اٰدَمَ حَقَآئِقَ الْحُرُوْفِ وَ
الْاَسْمَا، فَمَا عَرَفَكَ مَنْ عَرَفَكَ اِلَّا بِهٖ، وَ مَا وَصَلَ مَنْ وَّصَلَ اِلَيْكَ اِلَّا مَنِ اتَّصَلَ بِسَبَبِهٖ، خَلِيْفَتِكَ بِمَحْضِ
الْكَرَمِ عَلٰى سَآئِرِ مَخْلُوْقَاتِكَ، سَيِّدِ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، خَصِيْصِ حَضْرَتِكَ بِخَصَآئِصِ نَعْمَآئِكَ، وَ
فُيُوْضَاتِ اٰلَآئِكَ، اَعْظَمِ مَنْعُوْتٍ اَقْسَمْتَ بِعُمُرِهٖ فِیْ كِتَابِكَ، وَ فَضَّلْتَهٗ بِمَا فَصَّلْتَ بِهٖ مِنْ اَسْرَارِ خِطَابِكَ
وَ فَتَحْتَ بِهٖ اَقْفَالَ اَبْوَابِ سَابِقِ النُّبُوَّةِ وَ الْجَلَالَةِ، وَ خَتَمْتَ بِهٖ دَوْرَ دَوَآئِرِ مَظَاهِرِ الرِّسَالَةِ، وَ رَفَعْتَ
ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ، وَ سَيَّدْتَّهٗ بِنِسْبَةِ الْعُبُوْدِيَّةِ اِلَيْكَ فَخَضَعَ لِاَمْرِكَ، وَ شَيَّدْتَّ بِهٖ قَوَآئِمَ عَرْشِكَ الْمَحُوْطِ
بِحِيْطَتِكَ الْكُبْرٰى، وَ مَنْطَقْتَهٗ بِمَنْطِقَةِ الْعِزِّ فَمَنْطِقُ بِعِزِّهٖ اَهْلَ الدُّنْيَا وَ الْاُخْرٰى، وَ اَلْبَسْتَهٗ مِنْ سُرَادِقَاتِ
جَلَالِكَ اَشْرَفَ حُلَّةٍ، وَّ تَوَّجْتَهٗ بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ الْخُلَّةِ، نَبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْمَبْعُوْثِ
بِاَمْرِكَ اِلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، بَحْرِ فَيْضِكَ الْمُتَلَاطِمِ بِاَمْوَاجِ الْاَسْرَارِ، وَ سَيْفِ عَزْمِكَ الْقَاهِرِ الْحَاسِمِ لِحِزْبِ
الْكُفْرِ وَ الْبَغْيِ وَ الْاِنْكَارِ، اَحْمَدِكَ الْمَحْمُوْدِ بِلِسَانِ التَّكْرِيْمِ، مُحَمَّدِكَ الْحَاشِرِ الْعَاقِبِ الْمُسَمّٰى بِالرَّؤُوْفِ
الرَّحِيْمِ، اَسْاَلُكَ بِهٖ وَ بِالْاَقْسَامِ الْاُوَلِ، وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِكَ وَ اَنْتَ الْمُجِيْبُ لِمَنْ سَاَلَ، اَنْ تُصَلِّیَ وَ
تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً تَلِيْقُ بِذَاتِكَ وَ ذَاتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِاَنَّكَ اَدْرٰى بِمَنْزِلَتِهٖ وَ اَعْلَمُ بِصِفَاتِهٖ عَدَدًا لَّا تُدْرِكُهُ
الظُّنُوْنُ، زِيَادَةً عَلٰى مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ، يَا مَنْ اَمْرُهٗ بَيْنَ الْكَافِ وَ النُّوْنِ، وَ يَقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ، وَ اَنْ
تُمِدَّنِیْ بِمَدَدِهِ الْمُحَمَّدِيِّ مَدَدًا اُدْرِكُ بِهٖ قَبُوْلَ تَوَجُّهَاتِیْ، وَ اَسْتَأْنِسُ بِهٖ فِیْ جَمِيْعِ جِهَاتِیْ، فَاَكُوْنَ مَحْفُوْظًا بِهٖ
مِنْ شَرِّ الْاَعْدَآءِ، وَ يَعْمُرَ بِسَوَابِغِ نِعَمِهِ الْاُوْلٰى وَ الْاُخْرٰى، وَ يَنْطَلِقَ لِسَانِیْ مُتَرْجِمًا عَنْ اَسْرَارِ كَلِمَةِ
التَّوْحِيْدِ، وَ اَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِكَ الْاَقْدَسِ الْوَهْبِيِّ مَآ اَسْتَغْنِیْ بِهٖ عَنِ الْمُعَلِّمِ وَ اَنْتَ الْحَمِيْدُ الْمَجِيْدُ، وَ
تَصْفُوَ مِرْاٰةُ سَرِيْرَتِیْ بِنَظْرَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَ اُبْصِرَ بِبَصَرِ بَصِيْرَتِیْ حَقَآئِقَ الْاَشْيَآءِ الثَّابِتَةِ الْعِلْيَةِ، لِاَرْقٰى
بِهِمَّتِهٖ عَلٰى مَعَارِجِ مَدَارِجِ رُتَبِ الْكِرَامِ، وَ اَظْفَرَ بِسِرِّهِ الْمَخْصُوْصِ بِبُلُوْغِ الْمَرَامِ، فِی الْمَبْدَاِ وَ الْخِتَامِ،
فَاِنَّكَ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ، { رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ } وَ اجْعَلْنَا اَللّٰهُمَّ { مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا } يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَ انْصُرْنَا بِنَصْرِكَ فِي الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِكَ الَّذِيْنَ وَفَّقْتَهُمْ لِفَهْمِ كِتَابِكَ الْمَكْنُوْنِ، لِنَدْخُلَ فِيْ حِرْزِ قَوْلِكَ { اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ } { اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ } { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ } وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود الكبريت)

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَمَالِ الْاَنْفَسِ، وَ النُّوْرِ الْاَقْدَسِ، وَ الْحَبِيْبِ مِنْ حَيْثُ الْهُوِيَّةُ، وَ الْمُرَادِ فِي اللَّاهُوْتِيَّةِ، مُتَرْجِمِ كِتَابِ الْاَزَلِ، وَ الْمُتَعَالِيْ بِالْحَقِيْقَةِ عَنْ حَقِيْقَةِ الْاَثَرِ حَتّٰى كَاَنَّهُ الْمَثَلُ، الْجِنْسِ الْاَعْلٰى، وَ الْمَخْصُوْصِ الْاُوْلٰى، وَ الْحِكْمَةِ السَّارِعَةِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَّ الْحِكْمَةِ الْكَابِحَةِ لِكُلِّ كَوُّوْدٍ، رَّوْحِ صُوَرِ الْاَسْرَارِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، وَ لَوْحِ نُقُوْشِ الْعُلُوْمِ الْاَحَدِيَّةِ، مُحَمَّدِكَ وَ اَحْمَدِكَ وِتْرِ الْعَدَدِ، وَ لِسَانِ الْاَبَدِ، اَلْعَرْشِ الْقَآئِمِ بِتَحَمُّلِ كَلِمَةِ الْاِسْتِوَآءِ الذَّاتِيِّ فَلَا عَارِضَ، اَلْمُتَجَلِّيْ بِسُلْطَانِ قَهْرِكَ عَلٰى ظُلَلِ ظُلَمِ الْاَغْيَارِ لِمَحْقِ كُلِّ مُعَارِضٍ، اَلنُّقْطَةِ الَّتِيْ عَلَيْهَا مَدَارُ حُرُوْفِ الْمَوْجُوْدَاتِ بِجَمِيْعِ الْاِعْتِبَارَاتِ، اَلصَّاعِدِ فِيْ مَعَارِجِ الْقُدُسِ حَتّٰى لَا يُدْرِكَ كُنْهَهُ وَلَا الْاِشَارَاتُ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ، وَ شِيْعَتِهٖ وَ حِزْبِهٖ، آمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ بِاَفْضَلِ مَا تُحِبُّ وَ اَكْمَلِ مَا تُرِيْدُ، عَلٰى سَيِّدِ الْعَبِيْدِ، وَ اِمَامِ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ، وَ نُقْطَةِ دَوَآئِرِ الْمَزِيْدِ، لَوْحِ الْاَسْرَارِ، وَ نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَلَاذِ اَهْلِ الْاَعْصَارِ، وَ خَطِيْبِ مَنَابِرِ الْاَبَدِ بِلِسَانِ الْاَزَلِ، وَ مَظْهَرِ اَنْوَارِ اللَّاهُوْتِ فِيْ نَاسُوْتِ الْمَثَلِ، اَلْقَآئِمِ بِكُلِّ حَقِيْقَةٍ سَرَيَانًا وَّ تَحْكِيْمًا، اَلْوَاسِعِ لِتَنَزُّلَاتِ الرِّضٰى تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا، مَالِكِ اَزِمَّةِ الْاَمْرِ الْاِلٰهِيِّ تَهَيُّئًا وَّ اِسْتِعْدَادًا، سَالِكِ مَسَالِكِ الْعُبُوْدِيَّةِ اِمْدَادًا وَّ اِسْتِمْدَادًا، سُلْطَانِ جُنُوْدِ الْمَظَاهِرِ الْكَمَالِيَّةِ، شَمْسِ آفَاقِ الْمَشَاهِدِ الْجَمَالِيَّةِ، اَلْمُصَلِّيْ لَكَ بِكَ عِنْدَكَ فِيْ جَوَامِعِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، اَلْمُحَلّٰى بِزَوَاهِرِ جَوَاهِرِ اِخْتِصَاصَاتِ اَوْلِيَآءِ حَضَرَاتِكَ، اَلْوِتْرِ الْمُطْلَقِ فِيْ حَقِّ نُبُوَّتِهٖ عَنِ الْاَشْبَاهِ وَ النَّظَآئِرِ، اَلْفَرْدِ الْمُقَدَّسِ سِرُّ مُحَمَّدِيَّتِهٖ عَنْ مُّدَانَاةِ مَقَامِهٖ فِي الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ، اَلْاَبِ الرَّحِيْمِ، وَ السَّيِّدِ الْعَلِيْمِ مَاحِيْ ظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ بِشُعَاعِ الْحَقِّ وَ الْيَقِيْنِ، قَاطِعِ شُبُهَاتِ التَّمْوِيْهِ الشَّيْطَانِيِّ بِقَاهِرِ بَاهِرِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ، اَلشَّافِعِ الْاَعْظَمِ، وَ الْمُشَفَّعِ الْاَكْرَمِ، وَ الصِّرَاطِ الْاَقْوَمِ، وَ الذِّكْرِ الْمُحْكَمِ، وَ الْحَبِيْبِ الْاَخَصِّ، وَ الدَّلِيْلِ الْاَنَصِّ، اَلْمُتَجَلِّيْ بِمَلَابِسِ الْحَقَآئِقِ الْفَرْدَانِيَّةِ، اَلْمُتَمَيِّزِ بِصَفْوَةِ الشُّؤُوْنِ الرَّبَّانِيَّةِ، اَلْحَافِظِ عَلَى الْاَشْيَآءِ قُوَاهَا بِقُوَّتِكَ، اَلْمُمِدِّ لِذَرَّاتِ الْكَآئِنَاتِ بِمَا بِهٖ بَرَزَتْ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ بِقُدْرَتِكَ، كَعْبَةِ الْاِخْتِصَاصِ الرَّحْمَانِيِّ، مَحَجِّ

التَّعَيُّنِ الصَّمَدَانِيِّ، قَيُّوْمِ الْمَعَاهِدِ الَّتِيْ سَجَدَتْ لَهَا جِبَاهُ الْعُقُوْلِ، اُقْنُوْمِ الْوَحْدَةِ وَلَا اُقْنُوْمَ وَ اِنَّمَا نُوْرُكَ بِنُوْرِكَ مَوْصُوْلٌ، اَفْضَلِ مَنْ اَظْهَرْتَ وَ سَتَرْتَ مِنْ خَلْقِكَ الْكِرَامِ، وَ اَكْمَلَ مَا اَبْدَيْتَ وَ اَخْفَيْتَ مِنْ مَّخْلُوْقَاتِكَ الْعِظَامِ، مُنْتَهٰى كَمَالِ النُّقْطَةِ الْمَفْرُوْضَةِ فِيْ دَوَآئِرِ الْاِنْفِعَالِ، وَ مَبْدَأِ مَا يَصِحُّ اَنْ يَّشْمَلَهُ اِسْمُ الْوُجُوْدِ الْقَابِلِ لِتَنَوُّعَاتِ الْقَضَآءِ وَ الْقَدَرِ فِي الْاَقْوَالِ وَ الْاَفْعَالِ ظِلِّكَ الْوَارِفِ عَلٰى مَمَالِكِ حِيْطَتِكَ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ فَضْلِكَ الذَّارِفِ عَلٰى مَا سِوَاكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ، اَنْتَ بِمَا شِئْتَ مِنْ فُيُوْضَاتِكَ الْعَلِيَّةِ، سَرِيْرِ الْاِسْتِوَآءِ الْمَعْنَوِيِّ، وَ سِرِّ سَرَآئِرِ الْكَنْزِ الْاَحَدِيِّ الصَّمَدِيِّ، شَامِلِ الدَّعْوَةِ لِلْعَالَمِ تَفْصِيْلًا وَّ اِجْمَالًا، اَكْمَلِ خَلْقِكَ تَفْصِيْلًا وَّ جَمَالًا، مَّنْ بِهٖ اَقَلْتَ الْعَثَرَاتِ، وَ لِاَجْلِهٖ غَفَرْتَ الزَّلَّاتِ، وَبِفَضْلِهٖ عَمَّرْتَ الْاَرْضِيْنَ وَ السَّمٰوٰتِ، وَ بِذِكْرِهٖ عَمَّرْتَ شَرَآئِفَ الْمَقَامَاتِ، وَلَهٗ اَخْدَمْتَ الْمَلَاَ الْاَعْلٰى، وَ عَلَيْهِ اَثْنَيْتَ فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى، وَ مِمَّآ اَوْدَعْتَ فِيْ كَنْزِهٖ اَنْفَقْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ وَّ هُوَ مَمْلُوْءٌ عَلٰى حَالِهٖ، وَ بِمَا اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ وَ حَقَّقْتَهٗ فِيْهِ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى جَمِيْعِ خَوَآصِّ مَقَامِكَ الْاَقْدَسِ وَ مُلُوْكِ كَمَالِهٖ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ نَجِيِّكَ وَ مُجْتَبَاكَ وَ مُرْتَضَاكَ وَ الْقَآئِمِ بِاَعْبَآءِ دَعْوَتِكَ، وَ النَّاطِقِ بِلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ الْهَادِيْ بِكَ اِلَيْكَ، وَ الدَّاعِيْ بِاِذْنِكَ لِمَا لَدَيْكَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ وُرَّاثِهٖ كَوَاكِبِ اٰفَاقِ نُوْرِكَ، وَ نُجُوْمِ اَفْلَاكِ بُطُوْنِكَ وَ ظُهُوْرِكَ، خُدَّامِ بَابِهٖ، وَ فُقَرَآءِ جَنَابِهٖ، وَ الْمُتَرَاسِلِيْنَ عَلٰى حُبِّهٖ، وَ الْمُتَلَازِمِيْنَ فِيْ قُرْبِهٖ، وَ الْبَاذِلِيْنَ اَنْفُسَهُمْ فِيْ سَبِيْلِهٖ، وَ التَّابِعِيْنَ لِاَحْكَامِ تَنْزِيْلِهٖ، وَ الْمَحْفُوْظَةِ سَرَآئِرُهُمْ عَلَى الْعَقَآئِدِ الْحَقَّةِ فِيْ مِلَّتِهٖ، وَ الْمُنَزَّهَةِ ضَمَآئِرُهُمْ عَنْ اَنْ يَّحِلَّ بِهَا مَا لَا يُرْضِيْهِ فِيْ شَرِيْعَتِهٖ، وَ اَتْبَاعِهِمْ بِحَقٍّ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ} ۔ (درود الزاهرة)

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ ۔
(درود الفاتح)

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰدَمَ وَ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ (درود اُولی العزم)

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ ۔ (درود سعادت)

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ عَدَدَ كُلِّ حَادِثٍ وَّ قَدِيْمٍ ۔ (درود الرؤف الرحيم)

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كَمَالِ اللّٰهِ وَ كَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ ۔

(درود الکمالیہ)

55 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللّٰهِ وَاِفْضَالِهٖ۔ (درود الانعام)

56 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔ (درود العالی القدر)

57 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّهُوَ لَهَا اَهْلٌ۔ (درود سیدی احمد الجندی رحمۃ اللہ علیہ)

58 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ اَدْرِكْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ۔ (درود دفع المصائب)

59 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سُلَّمِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ الْمُنْطَوِيَّةِ فِى الْحُرُوْفِ الْقُرْاٰنِيَّةِ مَهْبِطِ الرَّقَائِقِ الرَّبَّانِيَّةِ النَّازِلَةِ فِى الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ الْمُفَصَّلَةِ فِى الْاَنْوَارِ بِالنُّوْرِ الْمُتَجَلِّيَةِ فِىْ لُبَابِ بَوَاطِنِ الْحُرُوْفِ الْقُرْاٰنِيَّةِ الصِّفَاتِيَّةِ فَهُوَ النَّبِيُّ الْعَظِيْمُ، مَرْكَزُ حَقَائِقِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، مُفِيْضُ الْاَنْوَارِ اِلٰى حَضَرَاتِهِمْ مِنْ حَضْرَتِهِ الْمَخْصُوْصَةِ الْخَتْمِيَّةِ، شَارِبُ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ مِنْ بَاطِنِ، بَاطِنِ الْكِبْرِيَاءِ، مُوْصِلُ الْخُصُوْصِيَّاتِ الْاِلٰهِيَّاتِ اِلٰى اَهْلِ الْاِصْطِفَاءِ، مَرْكَزُ دَائِرَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ، مُنَزِّلُ النُّوْرِ بِالنُّوْرِ، الْمُشَاهِدُ بِالذَّاتِ، الْمُكَاشِفُ بِالصِّفَاتِ، الْعَارِفُ بِظُهُوْرِ تَجَلِّى الذَّاتِ فِى الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، الْعَارِفُ بِظُهُوْرِ الْقُرْاٰنِ الذَّاتِيِّ فِى الْفُرْقَانِ الصِّفَاتِيِّ فَمِنْ هٰهُنَا ظَهَرَتِ الْوَحْدَتَانِ الْمُتَعَاكِسَتَانِ الْحَاوِيَتَانِ عَلَى الطَّرَفَيْنِ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللَّطِيْفَةِ الْقُدْسِيَّةِ الْمَكْسُوَّةِ بِالْاَكْسِيَةِ النُّوْرَانِيَّةِ السَّارِيَةِ فِى الْمَرَاتِبِ الْاِلٰهِيَّةِ الْمُتَكَمِّلَةِ بِالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْاَزَلِيَّةِ وَالْمُفِيْضَةِ اَنْوَارَهَا عَلَى الْاَرْوَاحِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ الْمُتَوَجِّهَةِ فِى الْحَقَائِقِ الْحَقِّيَّةِ النَّافِيَةِ لِظُلُمَاتِ الْاَكْوَانِ الْعَدَمِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْكَاشِفِ عَنِ الْمُسَمّٰى بِالْوَحْدَةِ الذَّاتِيَّةِ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْاِجْمَالِ الذَّاتِيِّ الْقُرْاٰنِيِّ حَاوِى التَّفْصِيْلِ الصِّفَاتِيِّ الْفُرْقَانِيِّ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصُّوْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَاءِ قُدُسِ غَيْبِ الْهُوِيَّةِ الْبَاطِنَةِ الْفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا الْاِلٰهِيِّ لِاَبْوَابِ الْوُجُوْدِ الْقَائِمِ بِهَا مِنْ مَّطْلَعِ ظُهُوْرِهَا الْقَدِيْمِ اِلَى اسْتِوَاءِ اِظْهَارِهَا لِلْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى حَقِيْقَةِ الصَّلَوَاتِ وَرُوْحِ الْكَلِمَاتِ قِوَامِ الْمَعَانِي الذَّاتِيَّاتِ وَحَقِيْقَةِ

الْحُرُوْفِ الْقُدْسِيَّاتِ وَ صُوَرِ الْحَقَائِقِ الْفُرْقَانِيَّةِ التَّفْصِيْلِيَّاتِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجُمْعِيَّةِ الْبَرْزَخِيَّةِ الْكَاشِفَةِ عَنِ الْعَالَمِيْنِ الْهَادِيَةِ بِهَآ اِلَيْهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً لِّكُلِّ قَلْبٍ مُّنِيْبٍ اِلٰى صِرَاطِهَا الرَّبَّانِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ فِي الْحَضْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّوْصِلِ الْاَرْوَاحِ بَعْدَ عَدَمِهَآ اِلٰى نِهَايَاتِ غَايَاتِ الْوُجُوْدِ وَ النُّوْرِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ الْاَرْوَاحِ الْاَزَلِيَّةِ فِي الْمَدَارِجِ الظُّهُوْرِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْقُدْسِيَّةِ الْجَاذِبَةِ لِلْاَرْوَاحِ الْمَعْنَوِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْوُجُوْدِيَّةِ الذَّاهِبَةِ بِظُلُمَاتِ الطَّبَآئِعِ الْحِسِّيَّةِ وَ الْمَعْنَوِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّسْتَقَرِّ بُرُوْزِ الْمَعَانِي الرَّحْمَانِيَّةِ مِنْهَا خَرَجَتِ الْخُلَّةُ الْاِبْرَاهِيْمِيَّةُ وَ مِنْهَا حَصَلَ النِّدَآءُ بِالْمَعَانِي الْقُدْسِيَّةِ لِلْحَقِيْقَةِ الْمُوْسَوِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَعَلْتَ وُجُوْدَكَ الْبَاقِيَ عِوَضًا عَنْ وُّجُوْدِهِ الْفَانِيْ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اَصْحَابِهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ۔ (درود سیدی عبد اللہ السقاف رحمۃ اللہ علیہ)

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاتَكَ الْقَدِيْمَةَ الْاَزَلِيَّةَ. الدَّآئِمَةَ الْبَاقِيَةَ الْاَبَدِيَّةَ الَّتِيْ صَلَّيْتَهَا فِيْ حَضْرَةِ عِلْمِكَ الْقَدِيْمِ الَّذِيْ اَنْزَلْتَهُ بِمَلَآئِكَتِكَ فِيْ حَضْرَةِ كَلَامِكَ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ فَقُلْتَ بِاللِّسَانِ الْمُحَمَّدِيِّ الرَّحِيْمِ اِنَّ اللهَ وَ مَلَآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ وَ خَاطَبْتَنَا بِهَا مَعَ السَّلَامِ تَتْمِيْمًا لِّلْاِكْرَامِ مِنْكَ لَنَا وَ الْاِنْعَامِ فَقُلْتَ { يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا } فَقُلْتُ اِمْتِثَالًا لِّاَمْرِكَ وَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدَكَ مِنْ اَجْرِكَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ صَلَاةً دَآئِمَةً بَاقِيَةً اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى نَجِدَهَا وِقَايَةً لَّنَا مِنْ نَّارِ الْجَحِيْمِ وَ مُوَصِّلَةً لِّاَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى دَارِ النَّعِيْمِ وَ رُؤْيَةِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ يَا عَظِيْمُ۔ (درود سیدی عبد الغنی النابلسی رضی اللہ عنہ)

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الرَّسُوْلِ الْكَامِلِ الرَّحْمَةِ الشَّامِلِ وَ عَلٰى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَحْبَابِهِ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللهِ بِدَوَامِ اللهِ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ يَا رَبَّنَا رِضَآءً وَّ لِحَقِّهِ اَدَآءً وَّ اَسْاَلُكَ بِهِ مِنَ الرَّفِيْقِ اَحْسَنَهُ وَ مِنَ الطَّرِيْقِ اَسْهَلَهُ وَ مِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهُ وَ مِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهُ وَ مِنَ الْمَكَانِ اَفْسَحَهُ وَ

مِنَ الْعَيْشِ اَرْغَدَهٗ وَمِنَ الرِّزْقِ اَطْيَبَهٗ وَاَوْسَعَهٗ۔ (درود الشیخ محمد البدیری رحمۃ اللہ علیہ)

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ۔ (درود اسرار)

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّسَلِّمْ سَلَامًا تَآمًّا عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ۔ (درود التفریجیة)

64 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِ اللهِ الْعَظِيْمِ وَقَامَتْ بِهٖ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيْمِ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ وَعَلٰى اٰلِ نَبِيِّ اللهِ الْعَظِيْمِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيْمِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيْمِ تَعْظِيْمًا لِّحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالنَّفْسِ ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا يَقْظَةً وَّمَنَامًا وَّاجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوْحًا لِّذَاتِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْاٰخِرَةِ يَا عَظِيْمُ ٥ (درود احمد بن ادریس قدس اللہ سرہ)

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى طَآمَّةِ الْحَقَآئِقِ الْكُبْرٰى سِرِّ الْخَلْوَةِ الْاِلٰهِيَّةِ لَيْلَةَ الْاِسْرَآءِ، تَاجِ الْمَمْلَكَةِ الْاِلٰهِيَّةِ، يَنْبُوْعِ الْحَقَآئِقِ الْوُجُوْدِيَّةِ، بَصَرِ الْوُجُوْدِ، وَسِرِّ بَصِيْرَةِ الشُّهُوْدِ، حَقِّ الْحَقِيْقَةِ الْعَيْنِيَّةِ وَهُوِيَّةِ الْمَشَاهِدِ الْغَيْبِيَّةِ، تَفْصِيْلِ الْاِجْمَالِ الْكُلِّيِّ، اَلْاٰيَةِ الْكُبْرٰى فِي التَّجَلِّيْ وَالتَّدَلِّيْ، نَفْسِ الْاَنْفَاسِ الرُّوْحِيَّةِ، كُلِّيَّةِ الْاَجْسَامِ الصُّوْرِيَّةِ، عَرْشِ الْعُرُوْشِ الذَّاتِيَّةِ، صُوْرَةِ الْكَمَالَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ، لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، وَسِرِّ كِتَابِكَ الْمَكْنُوْنِ، اَلَّذِيْ { لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ } يَا فَاتِحَةَ الْمَوْجُوْدَاتِ، يَا جَامِعَ بَحْرَيِ الْحَقَآئِقِ الْاَزَلِيَّاتِ وَالْاَبَدِيَّاتِ، يَا عَيْنَ جَمَالِ الْاِخْتِرَاعَاتِ وَالْاِنْفِعَالَاتِ، يَا نُقْطَةَ مَرْكَزِ جَمِيْعِ التَّجَلِّيَاتِ، يَا عَيْنَ حَيَاةِ الْحُسْنِ الَّذِيْ طَارَتْ مِنْهُ رَشَاشَاتٌ، فَاقْتَسَمَتْهَا بِحُكْمِ الْمَشِيْئَةِ الْاِلٰهِيَّةِ جَمِيْعُ الْمُبْدَعَاتِ يَا مَعْنٰى كِتَابِ الْحُسْنِ الْمُطْلَقِ الَّذِيْ اِعْتَكَفَتْ فِيْ حَضْرَتِهٖ جَمِيْعُ الْمَحَاسِنِ لِتَقْرَأَ حُرُوْفَ حُسْنِهٖ الْمُقَيَّدَاتِ، يَا مَنْ اَرْخَتْ حَقَآئِقُ الْكَمَالِ كُلُّهَا بُرْقُعَ الْحِجَابِ دُوْنَ الْخَلْقِ وَاَجْمَعَتْ اَنْ لَّا تَنْظُرَ لِغَيْرِهٖ اِلَّا بِهٖ مِنْ جَمِيْعِ الْمُكَوَّنَاتِ يَا مَصَبَّ يَنَابِيْعِ ثَجَّاجِ الْاَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّاتِ الشَّعْشَعَانِيَّاتِ، يَا مَنْ تَعَشَّقَتْ بِكَمَالِهٖ جَمِيْعُ الْمَحَاسِنِ الْاِلٰهِيَّاتِ، يَا يَاقُوْتَةَ الْاَزَلِ يَا مَغْنَاطِيْسَ الْكَمَالَاتِ، قَدْ اَيِسَتِ الْعُقُوْلُ وَالْفُهُوْمُ وَالْاَلْسُنُ وَجَمِيْعُ الْاِدْرَاكَاتِ، اَنْ تَقْرَأَ رُقُوْمَ مَسْطُوْرِ كُنْهِيَاتِكَ الْمُحَمَّدِيَّةِ اَوْ تَصِلَ اِلٰى حَقِيْقَةِ مَكْنُوْنَاتِ عُلُوْمِكَ اللَّدُنِّيَّاتِ، وَكَيْفَ لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنْ لَّوْحٍ مَّحْفُوْظٍ كُنْهِكَ قَرَأَ الْمُقَرَّبُوْنَ كُلُّهُمْ حَقِيْقَةَ التَّجَلِّيَاتِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ الْبَرَايَا يَا مَنْ لَّوْلَا هُوَ لَمْ تَظْهَرْ لِلْعَالَمِ عَيْنٌ مِّنْ

الْخَفِيَّاتِ۔ (درود احمد بن ادریس قدس اللہ سرہ)

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ اللَّامِعِ، وَ مَظْهَرِ سِرِّكَ الْهَامِعِ، الَّذِيْ طَرَّزْتَ بِجَمَالِهِ الْاَكْوَانَ، وَ زَيَّنْتَ بِبَهْجَةِ جَلَالِهِ الْاَوَانَ، الَّذِيْ فَتَحْتَ ظُهُوْرَ الْعَالَمِ مِنْ نُّوْرِ حَقِيْقَتِهِ، وَ خَتَمْتَ كَمَالَهُ بِاَسْرَارِ نُبُوَّتِهِ، فَظَهَرَتْ صُوَرُ الْحُسْنِ مِنْ فَيْضِهِ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ، وَّ لَوْلَا هُوَ مَا ظَهَرَتْ لِصُوْرَةٍ عَيْنٌ مِّنَ الْعَدَمِ الرَّمِيْمِ، الَّذِيْ مَا اِسْتَغَاثَكَ بِهٖ جَائِعٌ اِلَّا شَبِعَ، وَلَا ظَمْاٰنٌ اِلَّا رَوِيَ، وَلَا خَائِفٌ اِلَّا اٰمِنَ وَلَا لَهْفَانٌ اِلَّا اُغِيْثَ، وَاِنِّيْ لَهْفَانٌ مُّسْتَغِيْثُكَ اَسْتَمْطِرُ رَحْمَتَكَ الْوَاسِعَةَ مِنْ خَزَائِنِ جُوْدِكَ، فَاَغِثْنِيْ يَا رَحْمٰنُ يَا مَنْ اِذَا نَظَرَ بِعَيْنِ حِلْمِهٖ وَ عَفْوِهٖ لَمْ يَظْهَرْ فِيْ جَنْبِ كِبْرِيَاۗءِ حِلْمِهٖ وَ عَظَمَةِ عَفْوِهٖ ذَنْبٌ، اِغْفِرْ لِيْ وَ تُبْ عَلَيَّ وَ تَجَاوَزْ عَنِّيْ يَا كَرِيْمُ۔ (درود سیدی احمد بن ادریس قدس اللہ سرہ)

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَيْنِ بَحْرِ الْحَقَائِقِ الْوُجُوْدِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ اللَّاهُوْتِيَّةِ، وَ مَنْبَعِ الرَّقَائِقِ اللَّطِيْفَةِ الْمُقَيَّدَةِ النَّاسُوْتِيَّةِ، صُوْرَةِ الْجَمَالِ، وَ مَطْلَعِ الْجَلَالِ، مَجْلَى الْاُلُوْهِيَّةِ، وَ سِرِّ اِطْلَاقِ الْاَحَدِيَّةِ عَرْشِ اسْتِوَاءِ الذَّاتِ، وَجْهِ مَحَاسِنِ الصِّفَاتِ، مُزِيْلِ بُرْقُعِ حِجَابِ ظُلُمَاتِ اللَّبْسِ بِطَلْعَةِ شَمْسِ حَقَائِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ الْاَنْفَسِ، عَنْ وَجْهِ تَجَلِّيَاتِ الْكَمَالِ الْاِلٰهِيِّ الْاَقْدَسِ، كِتَابِ مَسْطُوْرِ جَمْعِ اَحَدِيَّةِ الذَّاتِ الْحَقِّ، فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرِ تَجَلِّيَاتِ الشُّؤُوْنِ الْاِلٰهِيَّةِ الْمُسَمّٰى كَثْرَةُ صُوَرِهَا بِالْخَلْقِ، جَانِبِ طُوْرِ الْحَقَائِقِ الرُّوْحِيَّةِ الْاَيْمَنِ الْمُكَلِّمِ مِنْهُ مُوْسَى النَّفْسِ بِاَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فِيْ حَضْرَةِ الْقُدْسِ، يَا كَامِلَ الذَّاتِ يَا جَمِيْلَ الصِّفَاتِ يَا مُنْتَهَى الْغَايَاتِ يَا نُوْرَ الْحَقِّ يَا سِرَاجَ الْعَوَالِمِ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ يَا اَحْمَدُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ جَلَّ كَمَالُكَ اَنْ يُّعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانٌ، وَ عَزَّ جَمَالُكَ اَنْ يَّكُوْنَ مُدْرَكًا لِّاِنْسَانٍ وَّ تَعَاظَمَ جَلَالُكَ اَنْ يَّخْطُرَ فِيْ جَنَانٍ، صَلَّى اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا مَجْلَى الْكَمَالَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ الْاَعْظَمِ۔ (درود سیدی احمد بن ادریس قدس اللہ سرہ)

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سُلْطَانِ حَضَرَاتِ الذَّاتِ، مَالِكِ اَزِمَّةِ تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ، قُطْبِ رَحٰى عَوَالِمِ الْاُلُوْهِيَّةِ، كَثِيْبِ الرُّؤْيَةِ يَوْمَ الزَّوْرِ الْاَعْظَمِ فِيْ مَشَاهِدِكَ الْجِنَانِيَّةِ، جِبَالِ مَوْجِ بِحَارِ اَحَدِيَّةِ الذَّاتِ، طِلَسْمِ كُنُوْزِ مَعَارِفِ الْاِلٰهِيَّاتِ، سِدْرَةِ مُنْتَهَى الْاِحَاطِيَّاتِ الْخُلُقِيَّاتِ الصِّفَاتِيَّاتِ، بَيْتِ مَعْمُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْكُنْهِيَّاتِ الذَّاتِيَّاتِ سَقْفِ مَرْفُوْعِ الْكَمَالَاتِ الْاَسْمَائِيَّةِ بَحْرِ مَسْجُوْرِ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّاتِ، حَوْضِ الْاُلُوْهِيَّةِ الْاَعْظَمِ الْمُمِدِّ لِبِحَارِ اَمْوَاجِ صُوَرِ الْكَوْنِ الظَّاهِرَةِ مِنْ فُيُوْضِ حَقَائِقِ اَنْفَاسِهٖ قَلَمِ الْقُدْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ الْعُظْمَوِيَّةِ الْكَاتِبِ فِيْ لَوْحِ نَفْسِهٖ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ مِنْ مَحَاسِنِ مُبْدَاعَاتِ الْعَالَمِ وَ تَقَلُّبَاتِهٖ وَ جَمَالِ كُلِّ صُوْرَةٍ اِلٰهِيَّةٍ وَّ سِرِّ حَقِيْقَتِهَا غَيْبًا وَّ شَهَادَةً وَّ جَلَالِ كُلِّ مَعْنًى كَمَالِيٍّ بَدْاً وَّ اِعَادَةً لِّسَانِ الْعِلْمِ الْاِلٰهِيِّ الْمُطْلَقِ التَّالِيْ لِقُرْاٰنِ حَقَائِقِ حُسْنِ ذَاتِهٖ، مِنْ كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ غَيْبِ كُنْهِ صِفَاتِهٖ، جَمْعِ الْجَمْعِ وَ فَرْقِ الْفَرْقِ مِنْ حَيْثُ لَا جَمْعَ وَلَا فَرْقَ لَا لِسَانَ لِمَخْلُوْقٍ يَّبْلُغُ الثَّنَاۗءَ عَلَيْكَ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ يَا سَيِّدَنَا يَا

مَوْلَانَا یَا مُحَمَّدُ عَلَیْكَ۔ (درود سیدی احمد بن ادریس قدس اللہ سرہ)

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِهٖ عَدَدَ الْاَعْدَادِ كُلِّهَا مِنْ حَیْثُ اِنْتِهَاؤُهَا فِیْ عِلْمِكَ وَ مِنْ حَیْثُ لَآ اَعْدَادَ مِنْ حَیْثُ اِحَاطَتُكَ بِمَا تَعْلَمُ لِنَفْسِكَ مِنْ غَیْرِ اِنْتِهَآءٍ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ (درود سیدی احمد بن ادریس قدس اللہ سرہ)

70 {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِیْمٌ} اَعْبُدُ اللهَ رَبِّیْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَیْئًا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُوْكَ بِاَسْمَآئِكَ الْحُسْنٰی كُلِّهَا لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا وَّ صَلَّی اللهُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً هُوَ اَهْلُهَا۔

- اَللّٰهُمَّ یَا رَبَّ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْزِ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ۔

- اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَیْءٍ وَّ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِیْلِ وَ الزَّبُوْرِ وَ الْفُرْقَانِ الْعَظِیْمِ۔

- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ شَیْءٌ وَّ اَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَیْءٌ وَّ اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ شَیْءٌ وَّ اَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُوْنَكَ شَیْءٌ فَلَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ لَّا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ رَسُوْلِكَ صَلَاةً مُّبَارَكَةً طَیِّبَةً كَمَآ اَمَرْتَ اَنْ نُّصَلِّیَ عَلَیْهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنْ صَلَاتِكَ شَیْءٌ وَّ ارْحَمْ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنْ رَّحْمَتِكَ شَیْءٌ وَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنْ بَرَكَاتِكَ شَیْءٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ اَفْلِحْ وَ اَنْجِحْ وَ اَتِمْ وَ اَصْلِحْ وَ زَكِّ وَ اَرْبِحْ وَ اَوْفِ وَ اَرْجِحْ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَ اَجْزَلَ الْمِنَنِ وَ التَّحِیَّاتِ عَلٰی عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ الَّذِیْ هُوَ فَلَقُ صُبْحِ اَنْوَارِ الْوَحْدَانِیَّةِ وَ طَلْعَةُ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِیَّةِ وَ بَهْجَةُ قَمَرِ الْحَقَآئِقِ الصَّمَدَانِیَّةِ وَ حَضْرَةُ عَرْشِ الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِیَّةِ نُوْرُ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّ سَنَاهُ {یٰسٓ ۞ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِیْمِ ۞ اِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ } سِرُّ كُلِّ نَبِيٍّ وَّ هُدَاهُ { ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ } وَ جَوْهَرُ كُلِّ وَّلِيٍّ وَّ ضِيَاهُ { سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ }.

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْكَرَامَةِ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَ الْمَيْرِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَ الْعَطَايَا وَ الْغَزْوِ وَ الْجِهَادِ وَ الْمَغْنَمِ وَ الْمَقْسَمِ صَاحِبِ الْاٰيَاتِ وَ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ صَاحِبِ الْحَجِّ وَ الْحَلْقِ وَ التَّلْبِيَةِ صَاحِبِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ الْمَقَامِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الْمِحْرَابِ وَ الْمِنْبَرِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ وَ الشَّفَاعَةِ وَ السُّجُوْدِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ صَاحِبِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ وَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَاتٍ صَاحِبِ الْعَلَمِ الطَّوِيْلِ وَ الْكَلَامِ الْجَلِيْلِ صَاحِبِ كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَ الصِّدْقِ وَ التَّصْدِيْقِ.

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْمِحَنِ وَ الْاِحَنِ وَ الْاَهْوَالِ وَ الْبَلِيَّاتِ وَ تُسَلِّمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ وَ الْاَسْقَامِ وَ الْاٰفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْعُيُوْبِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ تَغْفِرُ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الذُّنُوْبَاتِ وَ تَمْحُوْ بِهَا عَنَّا جَمِيْعَ الْخَطِيْئَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ مَا نَطْلُبُهٗ مِنَ الْحَاجَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ يَا رَبِّ يَا اَللهُ يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ فِيْ مُدَّةِ حَيَاتِيْ وَ بَعْدَ مَمَاتِيْ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ اَلْفَ اَلْفِ صَلَاةٍ وَّ سَلَامٍ مُّضْرُوْبَيْنِ فِيْ مِثْلِ ذَالِكَ وَ اَمْثَالَ اَمْثَالِ ذٰلِكَ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهِ وَ خُدَّامِهٖ وَ حُجَّابِهٖ اِلٰهِيْ اِجْعَلْ كُلَّ صَلَاةٍ مِّنْ ذٰلِكَ تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ اَجْمَعِيْنَ كَفَضْلِهِ الَّذِيْ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى كَافَّةِ خَلْقِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ }.

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ وَ صَفِيِّكَ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ. الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبٰى الْمُنْتَقَى الْمُرْتَضٰى عَيْنِ الْعِنَايَةِ وَ زَيْنِ الْقِيَامَةِ وَ كَنْزِ الْهِدَايَةِ وَ اِمَامِ الْحَضْرَةِ وَ اَمِيْنِ الْمَمْلَكَةِ وَ طِرَازِ الْحُلَّةِ وَ كَنْزِ الْحَقِيْقَةِ وَ شَمْسِ الشَّرِيْعَةِ كَاشِفِ دِيَاجِي الظُّلْمَةِ وَ نَاصِرِ

الْمِلَّةِ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ شَفِيعِ الْاُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَخْشَعُ الْاَصْوَاتُ وَ تَشْخَصُ الْاَبْصَارُ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَبْلَجِ وَ الْبَهَآءِ الْاَبْهَجِ نَامُوْسِ تَوْرَاةِ مُوْسٰى وَ قَامُوْسِ اِنْجِيْلِ عِيْسٰى صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ طِلَسْمِ الْفَلَكِ الْاَطْلَسِ فِيْ بُطُوْنِ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ طَاوُوْسِ الْمَلَكِ الْمُقَدَّسِ فِيْ ظُهُوْرِ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَتَعَرَّفْتُ اِلَيْهِمْ فَبِيْ عَرَفُوْنِيْ قُرَّةِ عَيْنِ الْيَقِيْنِ مِرْاٰةِ اُولِى الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلٰى شُهُوْدِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ نُوْرِ اَنْوَارِ اَبْصَارِ بَصَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَ مَحَلِّ نَظَرِكَ وَ سَعَةِ رَحْمَتِكَ مِنَ الْعَوَالِمِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ اَتْحِفْ وَ اَنْعِمْ وَ اَمْنَحْ وَ اَكْرِمْ وَ اَجْزِلْ وَ اَعْظِمْ اَفْضَلَ صَلَاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّتَنَزَّلَانِ مِنْ اُفُقِ كُنْهِ بَاطِنِ الذَّاتِ اِلٰى فَلَكِ سَمَآءِ مَظَاهِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ وَ يَرْتَقِيَانِ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، اَلْعَارِفَيْنِ اِلٰى مَرْكَزِ جَلَالِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ عِلْمِ يَقِيْنِ الْعُلَمَآءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ وَ عَيْنِ يَقِيْنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ وَ حَقِّ يَقِيْنِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، اَلَّذِيْ تَاهَتْ فِيْ اَنْوَارِ جَلَالِهٖ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ تَحَيَّرَتْ فِيْ دَرْكِ حَقَآئِقِهٖ عُظَمَآءُ الْمَلَائِكَةِ الْمُهَيَّمِيْنَ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ {لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ}۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ صَلَاةَ ذَاتِكَ عَلٰى حَضْرَةِ صِفَاتِكَ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْكَمَالِ الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْمَخْلُوْقِيْنَ فِي الْمِثَالِ يَنْبُوْعِ الْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ حِيْطَةِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ غَايَةِ مُنْتَهَى السَّآئِلِيْنَ وَ دَلِيْلِ كُلِّ حَائِرٍ مِّنَ السَّالِكِيْنَ مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ بِالْاَوْصَافِ وَ الذَّاتِ وَ اَحْمَدَ مَنْ مَّضٰى وَ مَنْ هُوَ اٰتٍ وَّ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا بِدَايَةَ الْاَزَلِ وَ غَايَةَ الْاَبَدِ حَتّٰى لَا يَحْصُرَهٗ عَدَدٌ وَّ لَا يُنْهِيَهٗ اَمَدٌ وَّ ارْضَ عَنْ تَوَابِعِهٖ فِي الشَّرِيْعَةِ وَ الطَّرِيْقَةِ وَ الْحَقِيْقَةِ مِنَ الْاَصْحَابِ وَ الْعُلَمَآءِ وَ اَهْلِ الطَّرِيْقَةِ وَ اجْعَلْنَا يَا مَوْلَانَا مِنْهُمْ حَقِيْقَةً اٰمِيْنَ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَتْحِ اَبْوَابِ حَضْرَتِكَ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ بِخَلْقِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِلٰى جِنِّكَ وَ اِنْسِكَ وَحْدَانِيِّ الذَّاتِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ الْوَاضِحَاتُ مُقِيْلِ الْعَثَرَاتِ وَ سَيِّدِ السَّادَاتِ مَاحِي الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَاتِ بِالسُّيُوْفِ الصَّارِمَاتِ، اَلْاٰمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهِيْ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ الثَّمِلِ مِنْ شَرَابِ الْمُشَاهَدَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّاتِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ لَّهُ الْاَخْلَاقُ الرَّضِيَّةُ وَ الْاَوْصَافُ الْمَرْضِيَّةُ وَ الْاَقْوَالُ الشَّرْعِيَّةُ وَ الْاَحْوَالُ الْحَقِيْقِيَّةُ وَ الْعِنَايَاتُ الْاَزَلِيَّةُ وَ السَّعَادَاتُ الْاَبَدِيَّةُ وَ الْفُتُوْحَاتُ الْمَكِّيَّةُ وَ الظُّهُوْرَاتُ الْمَدَنِيَّةُ وَ الْكَمَالَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ وَ الْمَعَالِمُ الرَّبَّانِيَّةُ وَ سِرُّ الْبَرِيَّةِ وَ شَفِيْعُنَا يَوْمَ بَعْثِنَا الْمُسْتَغْفِرُ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا الدَّاعِيْ اِلَيْكَ وَ الْمُقْتَدٰى بِهٖ لِمَنْ اَرَادَ الْوُصُوْلَ اِلَيْكَ الْاَنِيْسُ بِكَ وَ الْمُسْتَوْحِشُ مِنْ غَيْرِكَ حَتّٰى تَمَتَّعَ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ وَ رَجَعَ بِكَ لَا بِغَيْرِكَ وَ شَهِدَ وَحْدَتَكَ فِيْ كَثْرَتِكَ وَ قُلْتَ لَهٗ بِلِسَانِ حَالِكَ وَ قَوَّيْتَهٗ بِكَمَالِكَ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ اَلذَّاكِرُ لَكَ فِيْ لَيْلِكَ وَ الصَّآئِمُ لَكَ فِيْ نَهَارِكَ الْمَعْرُوْفُ عِنْدَ مَلَآئِكَتِكَ اَنَّهٗ خَيْرُ خَلْقِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِالْحَرْفِ الْجَامِعِ لِمَعَانِيْ كَمَالِكَ نَسْاَلُكَ اِيَّاكَ بِكَ اَنْ تُرِيَنَا وَجْهَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْ تَمْحُوَ عَنَّا وُجُوْدَ ذُنُوْبِنَا بِمُشَاهَدَةِ جَمَالِكَ وَ تُغَيِّبَنَا عَنَّا فِيْ بِحَارِ اَنْوَارِكَ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الشَّوَاغِلِ الدُّنْيَوِيَّةِ رَاغِبِيْنَ اِلَيْكَ غَآئِبِيْنَ بِكَ يَا هُوَ يَآ اَللهُ يَا هُوَ يَآ اَللهُ يَا هُوَ يَآ اَللهُ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ اَسْقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَ اَغْمِسْنَا فِيْ بِحَارِ اَحَدِيَّتِكَ حَتّٰى نَرْتَعَ فِيْ بُحْبُوْحَةِ حَضْرَتِكَ وَ تَقْطَعَ عَنَّا اَوْهَامَ خَلِيْقَتِكَ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ نَوِّرْنَا بِنُوْرِ طَاعَتِكَ وَ اهْدِنَا وَلَا تُضِلَّنَا وَ بَصِّرْنَا بِعُيُوْبِنَا عَنْ عُيُوْبِ غَيْرِنَا بِحُرْمَةِ نَبِيِّنَا وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ مَصَابِيْحِ الْوُجُوْدِ وَ اَهْلِ الشُّهُوْدِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ نَسْاَلُكَ اَنْ تُلْحِقَنَا بِهِمْ وَ تَمْنَحَنَا حُبَّهُمْ يَآ اَللهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ وَ هَبْ لَنَا مَعْرِفَةً نَّافِعَةً اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ نَسْاَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنَا رُؤْيَةَ وَجْهِ نَبِيِّنَا فِيْ مَنَامِنَا وَ يَقْظَتِنَا وَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَآئِمَةً اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى خَيْرِنَا وَ كُنْ لَّنَا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا عَلٰى اَشْرَفِ الْحَقَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ الْجَانِيَّةِ وَ مَجْمَعِ الرَّقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَ مَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ وَ مُقَدِّمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ قَآئِدِ رَكْبِ الْاَوْلِيَآءِ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى شَاهِدِ الْاَسْرَارِ الْاَزَلِ وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ وَ الْحَبِيْبِ

الْاَكْرَمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَائِمًا۔

• اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنُوْرِهِ السَّارِيْ فِي الْوُجُوْدِ اَنْ تُحْيِيَ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ حَيَاةِ قَلْبِهِ الْوَاسِعِ لِكُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا وَّ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ اَنْ تَشْرَحَ صُدُوْرَنَا بِنُوْرِ صَدْرِهِ الْجَامِعِ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَّ ضِيَآءً وَّ ذِكْرٰى لِلْمُتَّقِيْنَ وَ تُطَهِّرُ نُفُوْسَنَا لِطَهَارَةِ نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ وَ تُعَلِّمُنَا بِاَنْوَارِ عُلُوْمِهِ {وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ} وَ تُسْرِيْ سَرَآئِرَهُ فِيْنَا بِلَوَامِعِ اَنْوَارِكَ حَتّٰى تُغَيِّبَنَا عَنَّا فِيْ حَقِّ حَقِيْقَتِهِ فَيَكُوْنَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ فِيْنَا بِقَيُّوْمِيَّتِكَ السِّرِّ مَدِيَّةِ فَنَعِيْشَ بِرُوْحِهٖ عَيْشَ الْحَيَاةِ الْاَبَدِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اٰمِيْنَ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ عَلَيْنَا يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحْمٰنُ وَ بِتَجَلِّيَاتِ مُنَازَلَاتِكَ فِيْ مِرْاٰةِ شُهُوْدِهٖ لِمُنَازَلَاتِ تَجَلِّيَاتِكَ فَنَكُوْنَ فِي الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ فِيْ وَلَايَةِ الْاَقْرَبِيْنَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ لُطْفِكَ وَ حَنَانِ عَطْفِكَ وَ جَلَالِ مُلْكِكَ وَ كَمَالِ قُدْسِكَ النُّوْرِ الْمُطْلَقِ بِسِرِّ الْمَعِيَّةِ الَّتِيْ لَا تَتَقَيَّدُ الْبَاطِنِ مَعْنًى فِيْ غَيْبِكَ الظَّاهِرِ حَقًّا فِيْ شَهَادَتِكَ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ مَجْلٰى حَضْرَةِ الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ مَنَازِلِ الْكُتُبِ الْقَيِّمَةِ وَ نُوْرِ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ الَّذِيْ خَلَقْتَهُ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ وَ حَقَّقْتَهُ بِاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ وَ خَلَقْتَ مِنْ نُّوْرِهِ الْاَنْبِيَآءَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ تَعَرَّفْتَ اِلَيْهِمْ بِاَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِكَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ {وَ اِذْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ}۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى بَهْجَةِ الْكَمَالِ وَ تَاجِ الْجَلَالِ وَ بَهَآءِ الْجَمَالِ وَ شَمْسِ الْوِصَالِ وَ عَبَقِ الْوُجُوْدِ وَ حَيَاةِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عِزِّ جَلَالِ سَلْطَنَتِكَ وَ جَلَالِ عِزِّ مَمْلَكَتِكَ وَ مَلِيْكِ صُنْعِ قُدْرَتِكَ وَ طِرَازِ صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنْ اَهْلِ صَفْوَاتِكَ وَ خُلَاصَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ اَهْلِ قُرْبِكَ سِرِّ اللهِ الْاَعْظَمِ وَ حَبِيْبِ اللهِ الْاَكْرَمِ وَ خَلِيْلِ اللهِ الْمُكَرَّمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

• اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَيْكَ وَ نَتَشَفَّعُ بِهٖ لَدَيْكَ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى وَ الْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى وَ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّا وَ الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا وَ الْمَنْزِلَةِ الزُّلْفٰى وَ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى اَنْ تُحَقِّقَنَا بِهٖ ذَاتًا وَّ صِفَاتًا وَّ اَسْمَآءً وَّ اَفْعَالًا وَّ اٰثَارًا حَتّٰى لَا نَرٰى وَلَا نَسْمَعَ وَلَا نُحِسَّ وَلَا نَجِدَ اِلَّآ اِيَّاكَ اِلٰهِيْ وَ سَيِّدِيْ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ اَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ هُوِيَّتَنَا عَيْنَ هُوِيَّتِهٖ فِيْ اَوَآئِلِهٖ وَ نِهَايَتِهٖ وَ بِوُدِّ خُلَّتِهٖ وَ صَفَآءِ مَحَبَّتِهٖ وَ فَوَاتِحِ اَنْوَارِ بَصِيْرَتِهٖ

وَجَوَامِعِ أَسْرَارِ سَرِيرَتِهٖ وَرَحِيمِ رَحْمَائِهٖ وَنَعِيمِ نَعْمَائِهٖ۔

• اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَغْفِرَةَ وَ الرِّضٰى وَ الْقَبُولَ قَبُولًا تَامًّا لَا تَكِلْنَا فِيهِ إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ يَا نِعْمَ الْمُجِيبُ فَقَدْ دَخَلَ الدَّخِيلُ يَا مَوْلَاىَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِنَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِ الْخَلْقِ بِأَجْمَعِهِمْ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ بِرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرِ جُودِكَ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهٗ فَقَدْ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ الْمُبِينُ { وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ أَجْمَعِينَ { رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا } { رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ } { رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } يَا عَوْنَ الضُّعَفَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا مُوقِظَ الْغَرْقٰى يَا مُنْجِيَ الْهَلْكٰى يَا نِعْمَ الْمَوْلٰى يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَامِعِ الْأَكْمَلِ وَ الْقُطْبِ الرَّبَّانِيِّ الْأَفْضَلِ طِرَازِ حُلَّةِ الْإِيمَانِ وَ مَعْدِنِ الْجُودِ وَ الْإِحْسَانِ صَاحِبِ الْهِمَمِ السَّمَاوِيَّةِ وَ الْعُلُومِ اللَّدُنِّيَّةِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُودَ لِأَجْلِهٖ وَ رَخَّصْتَ الْأَشْيَاءَ بِسَبَبِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُودِ صَاحِبِ الْمَكَارِمِ وَ الْجُودِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهِ الْأَقْطَابِ السَّابِقِينَ إِلٰى جَنَابِ ذٰلِكَ الْجَنَابِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّورِ الْبَهِيِّ وَ الْبَيَانِ الْجَلِيِّ وَ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَ الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ الْمُؤَيَّدِ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ وَ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ رَحْمَةِ اللهِ لِلْعَالَمِينَ وَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ خَلَقْتَهٗ مِنْ نُّورِكَ وَ جَعَلْتَ كَلَامَهٗ مِنْ كَلَامِكَ وَ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى أَنْبِيَائِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ وَ جَعَلْتَ السِّعَايَةَ مِنْكَ إِلَيْهِ وَ مِنْهُ إِلَيْهِمْ كَمَالِ كُلِّ وَلِيٍّ لَّكَ وَ هَادِي كُلِّ مُضِلٍّ عَنْكَ هَادِي الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ تَارِكِ الْأَشْيَاءِ لِأَجْلِكَ وَ مَعْدِنِ الْخَيْرَاتِ بِفَضْلِكَ وَ خَاطَبْتَهٗ عَلٰى بِسَاطِ قُرْبِكَ { وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا } اَلْقَائِمِ لَكَ فِي لَيْلِكَ وَ الصَّائِمِ لَكَ فِي نَهَارِكَ وَ الْهَائِمِ بِكَ فِي جَلَالِكَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ الْخَلِيفَةِ فِي خَلْقِكَ الْمُشْتَغِلِ بِذِكْرِكَ الْمُتَفَكِّرِ فِي خَلْقِكَ وَ الْأَمِينِ لِسِرِّكَ وَ الْبُرْهَانِ لِرُسُلِكَ الْحَاضِرِ فِي سَرَائِرِ قُدْسِكَ وَ الْمُشَاهِدِ لِجَمَالِ جَلَالِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُفَسِّرِ لِآيَاتِكَ وَ الظَّاهِرِ فِي مُلْكِكَ وَ الْغَائِبِ فِي مَلَكُوتِكَ وَ الْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ وَ الدَّاعِي إِلٰى

جَبَرُوْتِكَ الْحَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ الْبُرْدَةِ الْجَلَالِيَّةِ وَ السَّرَابِيْلِ الْجَمَالِيَّةِ الْعَرِيْشِ السَّقِيِّ وَ الْحَبِيْبِ النَّبَوِيِّ وَ النُّوْرِ الْبَهِيِّ وَ الدُّرِّ النَّقِيِّ وَ الْمِصْبَاحِ الْقَوِيِّ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ۣ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ رُوْحِ اَرْوَاحِ عِبَادِكَ الدُّرَّةِ الْفَاخِرَةِ وَ الْعَبِقَةِ النَّافِحَةِ بُؤْبُؤِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ حَاءِ الرَّحْمَاتِ وَ جِيْمِ الدَّرَجَاتِ وَ سِيْنِ السَّعَادَاتِ وَ نُوْنِ الْعِنَايَاتِ وَ كَمَالِ الْكُلِّيَّاتِ وَ مَنْشَأِ الْاَزَلِيَّاتِ وَ خَتْمِ الْاَبَدِيَّاتِ الْمَشْغُوْلِ بِكَ عَنِ الْاَشْيَآءِ الدُّنْيَوِيَّاتِ الطَّاعِمِ مِنْ ثَمَرَاتِ الْمُشَاهَدَاتِ الْمَسْقِيِّ مِنْ اَسْرَارِ الْقُدْسِيَّاتِ الْعَالِمِ بِالْمَاضِيْ وَ الْمُسْتَقْبَلَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهِ الْاَخْيَارِ وَ اَصْحَابِهِ الْاَبْرَارِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ وَ عَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ وَ عَلٰى مَنْظَرِهٖ فِي الْمَنَاظِرِ وَ عَلٰى سَمْعِهٖ فِي الْمَسَامِعِ وَ عَلٰى حَرَكَتِهٖ فِي الْحَرَكَاتِ وَ عَلٰى سُكُوْنِهٖ فِي السَّكَنَاتِ وَ عَلٰى قُعُوْدِهٖ فِي الْقُعُوْدَاتِ وَ عَلٰى قِيَامِهٖ فِي الْقِيَامَاتِ وَ عَلٰى لِسَانِهِ الْبَشَّاشِ الْاَزَلِيِّ وَ الْخَتْمِ الْاَبَدِيِّ صَلِّ اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ اَعْطَيْتَهٗ وَ كَرَّمْتَهٗ وَ فَضَّلْتَهٗ وَ نَصَرْتَهٗ وَ اَعَنْتَهٗ وَ قَرَّبْتَهٗ وَ اَدْنَيْتَهٗ وَ سَقَيْتَهٗ وَ مَكَّنْتَهٗ وَ مَلَأْتَهٗ بِعِلْمِكَ الْاَنْفَسِ وَ بَسَطْتَهٗ بِحُبِّكَ الْاَطْوَسِ وَ زَيَّنْتَهٗ بِقَوْلِكَ الْاَقْبَسِ فَخْرِ الْاَفْلَاكِ وَ عَذْبِ الْاَخْلَاقِ وَ نُوْرِكَ الْمُبِيْنِ وَ عَبْدِكَ الْقَدِيْمِ وَ حَبْلِكَ الْمَتِيْنِ وَ حِصْنِكَ الْحَصِيْنِ وَ جَلَالِكَ الْحَكِيْمِ وَ جَمَالِكَ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ مَصَابِيْحِ الْهُدٰى وَ قَنَادِيْلِ الْوُجُوْدِ وَ كَمَالِ السُّعُوْدِ الْمُطَهَّرِيْنَ مِنَ الْعُيُوْبِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ رِيْحًا تَفُكُّ بِهَا الْكُرَبَ وَ تَرَحُّمًا تُزِيْلُ بِهِ الْعَطَبَ وَ تَكْرِيْمًا تَقْضِيْ بِهِ الْاَرَبَ يَا رَبِّ يَآ اللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ نَسْاَلُكَ ذٰلِكَ مِنْ فَضَائِلِ لُطْفِكَ وَ غَرَآئِبِ فَضْلِكَ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ ۣ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

• اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ وَ نَسْاَلُكَ وَ نَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِكِتَابِكَ الْعَزِيْزِ وَ نَبِيِّكَ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا وَ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِشَرَفِهِ الْمَجِيْدِ وَ بِأَبَوَيْهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْمَاعِيْلَ وَ بِصَاحِبَيْهِ أَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ ذِي النُّوْرَيْنِ عُثْمَانَ وَ آلِهٖ فَاطِمَةَ وَ عَلِيٍّ وَّ وَلَدَيْهِمَا الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَمَّيْهِ حَمْزَةَ وَ الْعَبَّاسِ وَ زَوْجَتَيْهِ خَدِيْجَةَ وَ عَائِشَةَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى أَبَوَيْهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْمَاعِيْلَ وَ عَلٰى آلِ كُلٍّ وَّ صَحْبِ كُلٍّ صَلَاةً يُّتَرْجِمُهَا لِسَانُ الْأَزَلِ فِيْ رِيَاضِ الْمَلَكُوْتِ وَ عَلَى الْمَقَامَاتِ وَ نَيْلِ الْكَرَامَاتِ وَ رَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَ يَنْعِقُ بِهَا لِسَانُ الْأَبَدِ فِيْ حَضِيْضِ النَّاسُوْتِ بِغُفْرَانِ الذُّنُوْبِ وَ كَشْفِ الْكُرُوْبِ وَ دَفْعِ الْمُهِمَّاتِ كَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِالْهِيَّتِكَ وَ شَانِكَ الْعَظِيْمِ وَ كَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِأَهْلِيَّتِهِمْ وَ مَنْصَبِهِمُ الْكَرِيْمِ بِخُصُوْصِ خَصَائِصِ {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ}۔

اَللّٰهُمَّ حَقِّقْنَا بِسَرَائِرِهِمْ فِيْ مَدَارِجِ مَعَارِفِهِمْ بِمَثُوْبَةِ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنْكَ الْحُسْنٰى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْفَوْزِ بِالسَّعَادَةِ الْكُبْرٰى بِمَوَدَّتِهِ الْقُرْبٰى وَ غُمَّنَا فِيْ عِزِّهِ الْمَصْمُوْدِ فِيْ مَقَامِهِ الْمَحْمُوْدِ وَ تَحْتَ لِوَآئِهِ الْمَعْقُوْدِ وَ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِ عِرْفَانِ مَعْرُوْفِهِ الْمَوْرُوْدِ {يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ} صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِبُرُوْزِ بِشَارَةِ قُلْ يُسْمَعْ وَ سَلْ تُعْطَ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ بِظُهُوْرِ بِشَارَةِ {وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى} تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ۔

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِعِزِّ جَلَالِكَ وَ بِجَلَالِ عِزَّتِكَ وَ بِقُدْرَةِ سُلْطَانِكَ وَ بِسُلْطَانِ قُدْرَتِكَ وَ بِحُبِّ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ وَ الْأَهْوَآءِ الرَّدِيْئَةِ يَا ظَهِيْرَ اللَّاجِيْنَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ أَجِرْنَا مِنَ الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ وَ احْفَظْنَا مِنَ الشَّهَوَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ وَ طَهِّرْنَا مِنْ قَاذُوْرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَ صَفِّنَا بِصَفَآءِ الْمَحَبَّةِ الصِّدِّيْقِيَّةِ مِنْ صَدَآءِ الْغَفْلَةِ وَ وَهْمِ الْجَهْلِ حَتّٰى تَضْمَحِلَّ رُسُوْمُنَا بِفَنَآءِ الْأَنَانِيَّةِ وَ مُبَايَنَةِ الطَّبِيْعَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الْجَمْعِ وَ التَّخْلِيَةِ وَ التَّحَلِّيْ بِالْأُلُوْهِيَّةِ الْأَحَدِيَّةِ وَ التَّجَلِّيْ بِالْحَقَائِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ فِيْ شُهُوْدِ الْوَحْدَانِيَّةِ حَيْثُ لَا حَيْثُ وَ لَا أَيْنَ وَ لَا كَيْفَ وَ يَبْقَى الْكُلُّ لِلّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ مِنَ اللّٰهِ وَ إِلَى اللّٰهِ وَ مَعَ اللّٰهِ غَرِقًا ۔ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ فِيْ بَحْرِ مِنَّةِ اللّٰهِ مَنْصُوْرِيْنَ بِسَيْفِ اللّٰهِ مَخْصُوْصِيْنَ بِمَكَارِمِ اللّٰهِ مَلْحُوْظِيْنَ بِعَيْنِ اللّٰهِ مَحْفُوْظِيْنَ بِعِنَايَةِ اللّٰهِ مَحْفُوْظِيْنَ بِعِصْمَةِ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ يَّشْغَلُ عَنِ اللّٰهِ وَ خَاطِرٍ يَّخْطُرُ فِيْ غَيْرِ اللّٰهِ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ {وَ مَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ}۔

اَللّٰهُمَّ اشْغَلْنَا بِكَ وَ هَبْ لَنَا هِبَةً لَّا سَعَةَ فِيْهَا لِغَيْرِكَ وَ لَا مَدْخَلَ فِيْهَا لِسِوَاكَ وَاسِعَةً ۔ بِالْعُلُوْمِ الْإِلٰهِيَّةِ وَ الصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ الْأَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ قَوِّ عَقَائِدَنَا بِحُسْنِ الظَّنِّ الْجَمِيْلِ وَ حَقِّ الْيَقِيْنِ وَ حَقِيْقَةِ التَّمْكِيْنِ وَ سَدِّدْ أَحْوَالَنَا بِالتَّوْفِيْقِ وَ السَّعَادَةِ وَ حُسْنِ الْيَقِيْنِ وَ شُدَّ قَوَاعِدَنَا عَلٰى صِرَاطِ الْإِسْتِقَامَةِ وَ قَوَاعِدِ الْعِزِّ الرَّصِيْنِ {صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا

الضَّآلِّيْنَ } صِرَاطَ الَّذِيْنَ { أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ } وَ شَيِّدْ مَقَاصِدَنَا فِي الْمَجْدِ الْأَثِيْلِ عَلٰى أَعْلٰى ذِرْوَةِ الْكَرَامَةِ وَ عَزَآئِمِ أُوْلِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ أَغِثْنَا بِأَلْطَافِ رَحْمَتِكَ مِنْ ضَلَالِ الْبُعْدِ وَ اشْمَلْنَا بِنَفَحَاتِ عِنَايَتِكَ فِي مَصَارِعِ الْحُبِّ وَ أَسْعِفْنَا بِأَنْوَارِ هِدَايَتِكَ فِي حَضَآئِرِ الْقُرْبٰى وَ أَيِّدْنَا بِنَصْرِكَ الْعَزِيْزِ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ۔ بِالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ } ۔


اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَّ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، يَا عِمَادَ مَنْ لَّا عِمَادَ لَهٗ، يَا سَنَدَ مَنْ لَّا سَنَدَ لَهٗ، يَا ذُخْرَ مَنْ لَّا ذُخْرَ لَهٗ، يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيْرٍ، يَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيْبٍ، يَا مُوْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ {لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ} { أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ أَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ } { وَ أَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ } صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ أَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ۔

اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْنَا مَعَهٗ بِشَفَاعَتِهٖ وَ ضَمَانِهٖ وَ رِعَايَتِهٖ مَعَ اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ بِدَارِكَ دَارِ السَّلَامِ { فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ } يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ أَتْحِفْنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ بِلَطِيْفِ مُنَازَلَتِهٖ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ أَكْرِمْنَا بِالنَّظَرِ إِلٰى جَمَالِ سُبُحَاتِ وَجْهِكَ الْعَظِيْمِ وَ احْفَظْنَا بِكَرَامَتِهٖ بِالتَّكْرِيْمِ وَ التَّبْجِيْلِ وَ التَّعْظِيْمِ وَ أَكْرِمْنَا بِنُزُلِهٖ { نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ } فِيْ رُوْضِ رِضْوَانِ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَآ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا وَّ أُعْطِيْكُمْ مَفَاتِيْحَ الْغَيْبِ لِخَزَآئِنِ السِّرِّ الْمَكْنُوْنِ فِيْ مَكْنُوْنِ جَنَّاتِ مَعَارِفِ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ بِأَنْوَارِ ذَاتٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ وَ لَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ { سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ } بِانْعِطَافِ رَأْفَةِ الرَّأْفَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنْ عَيْنِ عِنَايَتِهٖ { فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ } فِيْ مَحَاسِنِ قُصُوْرِ ذَخَآئِرِ سَرَآئِرِ { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ } فِيْ مِنَصَّةِ مَحَاسِنِ خَوَاتِمِ { دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } ٥ (درود کبریٰ لسیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

سُورَةُ النَّاسِ



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلٰى سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ صلى الله عليه وسلم

القاضی الشیخ
یوسف بن اسماعیل النبهانی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری


تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادریة 26
الباکستان
0092-3335187573

سعادة الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم

کتاب ''**سعادة الدارين**'' دُرود وسلام کے موضوع پر حضرت علامہ قاضی یوسف اسماعیل النبھانی رضی اللہ عنہ کی دوسری تصنیفِ لطیف ہے۔ اِن بابرکت کتابوں کی نشرواشاعت کے بعد آپ کو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتِ مبارکہ کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اِن دونوں کتابوں کو ایک عجب قبولیت، پذیرائی اور شہرتِ دوام حاصل ہوئی۔ دورانِ تحقیق وترتیب کتاب ''**سعادة الدارين**'' کے دوعربی نسخے ہمارے زیرِ نظر رہے۔ اُن میں ایک نسخہ **مطبعة بيروت، لبنان** سے سال 1316ھ حضرت علامہ قاضی یوسف اسماعیل النبھانی کی حیاتِ مبارکہ میں شائع ہوا۔ دوسرا نسخہ **دار الكتب العلميه بيروت** سے سال 2008ء کا شائع شدہ نسخہ ہے۔ (1316ھ میں شائع ہونے والی کتاب کے سرورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں)۔

دُرود وسلام کی یہ بابرکت ومقبول کتاب اور حضرت علامہ یوسف اسماعیل النبھانی کی اِس موضوع پر اوّلین کتاب ''**افضل الصلوات على سيد السادات**'' کو یکجا کر کے اعلیٰ قسم کے آرٹ پیپر پر چار رنگوں میں بنام ''گلدستہ دُرود وسلام'' ڈاکٹر محمد ذیشان انجم قادری کے حصہ میں آئی۔ پھر یہ بابرکت کتاب اندرون و بیرون ملک بلا ہدیہ تقسیم ہو کر عشاقانِ دُرود وسلام کے ہاتھوں میں پہنچی جس پر بے شمار تہنیتی اور دُعاؤں بھرے خطوط اور پیغامات موصول ہوئے۔



سعادة الدارين

فى

الصلاة على سيد الكونين

تاليف مصححه يوسف بن اسماعيل النبهاني رئيس محكمة حقوق بيروت القائل

كتاب سعادة الدارين سفر — بديع عز بين الكتب مثلا

وجدناه كتابا مستطابا — اتى لرشادنا اهلا وسهلا

احاديث عن المختار تُروى — وآيات عن الرحمن تُتلى

واقوال الى العلماء تُعزى — بدت كعرائس بالحسن تُجلى

حوى فضل الصلاة على نبيّ — عليه الله فى القرآن صلّى

فبيّن حكمها فرضا ونفلا — وفصّل نفعها نقلا وعقلا

به خير الأمانى والأمالى — فرائد لن تُمن ولن تُملّا

ارانا المصطفى منا قريبا — وسهل للوصول اليه سبلا

هو الكنز المباح لمن اتاه — عليه لم نضع رَصدا و قُفلا

فمن شاء الغنى دنيا واخرى — بلا تعب فقد وافاه سهلا

طبع فى مطبعة بيروت فى مدينة بيروت سنة ١٣١٦ هجرية

سعادۃ الدارین فی الصلاۃ علے سید الکونین

(احادیث مبارکہ میں وارد درود پاک کے چند صیغے)

1 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

• اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

• اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

• اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ۔

• اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

• اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

• اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

• اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا جَعَلْتَھَا عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

• اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا جَعَلْتَھَا عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ اَهْلِ بَیْتِهٖ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْحَمْ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ بَیْتِهٖ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْنَا مَعَهُمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَهْلِ بَیْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَیْنَا مَعَهُمْ صَلَاةُ اللّٰهِ وَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَیْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا یَّغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْآخِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَبْلِغْهُ الْوَسِیْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِیْعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِی الْمُصْطَفِیْنَ مَحَبَّتَهٗ وَ فِی الْمُقَرَّبِیْنَ مَوَدَّتَهٗ وَ فِی الْاَعْلَیْنَ ذِكْرَهٗ وَ دَارَهٗ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ

عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ آلَ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ تَرَحَّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَ ارْحَمْ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا رَحِمْتَ اِبْرَاهِیْمَ وَ آلَ اِبْرَاهِیْمَ۔

* اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَکَاتِكَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

* اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَکَاتِك وَ رَحْمَتَكَ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَیْرِ وَ قَآئِدِ الْخَیْرِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا یَّغْبِطُهُ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَهْلِ بَیْتِهٖ وَ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ وَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَهْلِ بَیْتِهٖ وَ عَلٰی اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

* اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ النَّبِیِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ ذُرِّیَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَیْتِهٖ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالنَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَ
اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّلِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ
اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مِنْ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ
اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ۔

جَزَى اللهُ عَنَّا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ 2
اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (سیدی الحافظ العراقی کے جمع کردہ صیغے)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَبَارِكْ وَتَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سَيِّدِ 3
الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ
اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ
وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّصَلِّ وَبَارِكْ وَتَرَحَّمْ
عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَاَزْكٰى بَرَكَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ عَدَدَ
الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِكَ التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ
كَلِمَاتِكَ صَلَاةً دَآئِمَةً ۣبِدَوَامِكَ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ
وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرٰى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَاَعْطِهٖ
سُؤْلَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى كَمَآ اٰتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنِ مَحَبَّتَهٗ وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ
مَوَدَّتَهٗ وَفِي الْاَعْلَيْنَ ذِكْرَهٗ وَاجْزِ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَاجْزِ الْاَنْبِيَآءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا
صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ وَمَغْفِرَتُهٗ وَرِضْوَانُهٗ اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ وَارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ وَاَتْبِعْهُ مِنْ

اُمَّتِہٖ وَ ذُرِّیَّتِہٖ مَا تُقِرُّبِہٖ عَیْنَہٗ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔ (سیدی الحافظ السخاوی کے جمع کردہ صیغے)

4 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْاَنْبِیَآءِ وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ وَ مَنْبَعِ الْاَنْوَارِ وَ جَمَالِ الْکَوْنَیْنِ وَ شَرَفِ الدَّارَیْنِ وَ سَیِّدِ الثَّقَلَیْنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابَ قَوْسَیْنِ۔ (درود سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام)

5 (درود وسلام کے 13 بابرکت صیغے)

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ وَ اَزْوَاجِہٖ اُمَّھَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ ذُرِّیَّتِہٖ وَ اَھْلِ بَیْتِہٖ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کُلَّمَا ذَکَرَہُ الذَّاکِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِکْرِہِ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ اَبَدًا اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلٰی عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِہٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا وَّ زِدْہُ شَرَفًا وَّ تَکْرِیْمًا وَّ اَنْزِلْہُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ۔
- اَللّٰھُمَّ لَكَ الْحَمْدُ کَمَا اَنْتَ اَھْلُہٗ فَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا اَنْتَ اَھْلُہٗ وَ افْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَھْلُہٗ فَاِنَّكَ اَھْلُ التَّقْوٰی وَ اَھْلُ الْمَغْفِرَۃِ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا ھُوَ اَھْلُہٗ وَ مُسْتَحِقُّہٗ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی کُلِّ نَبِیٍّ وَّ مَلَكٍ وَّ وَلِیٍّ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوِتْرِ وَ عَدَدَ کَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَکَاتِ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّتِہٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَۃَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِكَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَۃَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِكَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً دَآئِمَۃً م بِدَوَامِكَ۔
- اَللّٰھُمَّ یَا رَبَّ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَیِّدِنَا وَ

7

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

(سیدی الشہاب احمد الملوی کے جمع کردہ صیغے) 6

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةَ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ عَلَيْهِ وَ اَجْرِ يَا رَبِّ لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِيْ اَمْرِيْ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ الْاَمِيْنِ وَ عَلٰى آلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَدَ كَمَالِهٖ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ وَ مُشَاهَدَتِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَائِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهٗ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ الْوَسِيْلَةَ فِي الْجَنَّةِ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّ سَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى نَبِيٍّ تُحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَدَ كَمَالِهٖ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ

الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ مَعَ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ وَ عَلٰى اَبِيْنَآ اٰدَمَ وَ اُمِّنَا حَوَّآءَ وَ مَنْ وَّلَدَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَآئِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقُطْبِ الْكَامِلِ وَ عَلٰى اَخِيْهِ جِبْرِيْلَ الْمُطَوَّقِ بِالنُّوْرِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَزِنُ السَّمٰوٰاتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا فِيْ عِلْمِكَ عَدَدَ اَفْرَادِ جَوَاهِرِ كُرَةِ الْعَالَمِ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ وَ السِّرِّ السَّارِيْ فِيْ جَمِيْعِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٌ وَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ

الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لَهٗ جَزَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنِّيْ تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ الرَّحْمَةُ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ م بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا اِنْتِهَآءَ وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُحِلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ وَ تُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ وَ تُنْقِذُنِيْ بِهَا مِنْ وَّحْلَتِيْ وَ تُقِيْلُ بِهَا عَثْرَتِيْ وَ تَقْضِيْ بِهَا حَاجَتِيْ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُ اللّٰهِ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُ اللّٰهِ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُ اللّٰهِ وَ وَسِعَهٗ عِلْمُ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اَضْعَافَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدَ خَلْقِ اللّٰهِ وَ زِنَةَ عَرْشِ اللّٰهِ وَ رِضَا نَفْسِ اللّٰهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ وَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ بَاقِيَةً م بِبَقَآءِ اللّٰهِ۔ (الشیخ الدیربی کا ذکر کردہ صیغہ)

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ۔

(سیدی عبد الرحمن محمد باعلوی کا ذکر کردہ صیغہ)

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ صَلِّ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ وَ اجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ وَ رِضْوَانَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔ (شیخ شہاب الدین سہروردی کے ذکر کردہ صیغے)

10 صَلَوَاتُ اللهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔ (درود سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ)

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ رُوْحُهٗ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ وَ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْكَوْنِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (درود السیدۃ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا)

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَابًّا فَتِيًّا وَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا وَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا نَّبِيًّا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَرْضٰى وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ الرِّضَا وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدًا اَبَدًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَرَدْتَّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِّضٰى نَفْسِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِيْ لَا تَنْفَدُ. اَللّٰهُمَّ وَ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ. اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَ اَفْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ اَبْلِغْهُ مَاْمُوْلَهٗ فِيْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اُمَّتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَتَكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ بِاَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّثْلَ ذٰلِكَ وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا مِّثْلَ ذٰلِكَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الصَّلَاةَ التَّامَّةَ
وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْبَرَكَةَ التَّامَّةَ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ السَّلَامَ التَّامَّ۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ
الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْهِرَاوَةِ وَالْجِهَادِ وَالْمَغْنَمِ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَ
الْمِيْرِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالْعَطَايَا وَالْاٰيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ وَالْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ
الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ وَالشَّفَاعَةِ وَالسُّجُوْدِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ
صَلّٰى عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔ (دُرودِ سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ)

13 اَللّٰهُمَّ يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ يَا صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرٰى سَجِيَّةً وَّاغْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْعُلٰى فِيْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ۔ (دُرودِ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما)

14 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاَفْضَلِ مَسْاَلَتِكَ وَبِاَحَبِّ اَسْمَآئِكَ اِلَيْكَ وَاَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلَيْنَا
بِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْقَذْتَنَا بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَّكَفَّارَةً وَّلُطْفًا وَّمَنًّا مِّنْ اِعْطَآئِكَ فَاَدْعُوْكَ تَعْظِيْمًا لِّاَمْرِكَ وَاتِّبَاعًا
لِّوَصِيَّتِكَ وَتَنْجِيْزًا لِّوَعْدِكَ بِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فِيْ اَدَاءِ حَقِّهٖ قِبَلَنَا وَاَمَرْتَ
الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَرِيْضَةً اِفْتَرَضْتَهَا فَنَسْاَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَنُوْرِ عَظَمَتِكَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ وَ
مَلَآئِكَتُكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ
خَلْقِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهٗ وَاَكْرِمْ مَقَامَهٗ وَثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَاَجْزِلْ ثَوَابَهٗ وَاَفْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ
اَظْهِرْ مِلَّتَهٗ وَاَضِئْ نُوْرَهٗ وَاَدِمْ كَرَامَتَهٗ وَاَلْحِقْ بِهٖ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ مَا تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ وَعَظِّمْهُ فِي
النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا قَبْلَهٗ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا اَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ تَبَعًا وَّاَكْثَرَهُمْ اُزْرَآءً وَ
اَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَّنُوْرًا وَّاَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَّاَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا وَّاَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَّاَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا وَّ
اَثْبَتَهُمْ مَقَامًا وَّاَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَّاَنْجَحَهُمْ مَسْاَلَةً وَّاَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيْبًا وَّاَعْظَمَهُمْ فِيْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً
وَّاَنْزِلْهُ فِيْ غُرَفِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى الَّتِيْ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدً
اَصْدَقَ قَائِلٍ وَّاَنْجَحَ سَائِلٍ وَّاَوَّلَ شَافِعٍ وَّاَفْضَلَ مُشَفَّعٍ وَّشَفِّعْهُ فِيْ اُمَّتِهٖ شَفَاعَةً يَّغْبِطُهٗ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَ
الْاٰخِرُوْنَ وَاِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ بِفَصْلِ الْقَضَآءِ فَاجْعَلْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا فِي الْاَصْدَقِيْنَ قِيْلًا وَّ
الْاَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَّفِي الْمَهْدِيِّيْنَ سَبِيْلًا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطًا وَّحَوْضَهٗ لَنَا مَوْرِدًا۔ اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا
فِيْ زُمْرَتِهٖ وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهٖ وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاجْعَلْنَا فِيْ حِزْبِهٖ وَزُمْرَتِهٖ۔ اَللّٰهُمَّ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ
كَمَآ اٰمَنَّا بِهٖ وَلَمْ نَرَهٗ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ حَتّٰى تُدْخِلَنَا مُدْخَلَهٗ وَتَجْعَلَنَا مِنْ رُّفَقَآئِهٖ مَعَ الْمُنْعَمِ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْهُدٰى وَ الْقَآئِدِ اِلَى الْخَيْرِ وَ الدَّاعِیْ اِلَى الرُّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ تَلَا آيَاتِكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ وَ اَقَامَ حُدُوْدَكَ وَ وَفّٰى بِعَهْدِكَ وَ اَنْفَذَ حُكْمَكَ وَ
اَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَ نَهٰى عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَ وَالٰى وَلِيَّكَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ تُوَالِيَهٗ وَ عَادٰى عَدُوَّكَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ
تُعَادِيَهٗ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِهٖ فِی الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى رُوْحِهٖ فِی الْاَرْوَاحِ وَ
عَلٰى مَوْقِفِهٖ فِی الْمَوَاقِفِ وَ عَلٰى مَشْهَدِهٖ فِی الْمَشَاهِدِ وَ عَلٰى ذِكْرِهٖ اِذَا ذُكِرَ صَلَاةً مِّنَّا عَلٰى نَبِيِّنَا. اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ
عَنَّا السَّلَامَ كُلَّمَا ذُكِرَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ
الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى اَنْبِيَآئِكَ الْمُطَهَّرِيْنَ وَ عَلٰى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى حَمَلَةِ عَرْشِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ
مِيْكَآئِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ رِضْوَانَ وَ مَالِكٍ وَّ صَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَ عَلٰى اَهْلِ طَاعَتِكَ
اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِيْنَ. اَللّٰهُمَّ آتِ اَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَفْضَلَ
مَا آتَيْتَ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ بُيُوْتَاتِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اجْزِ اَصْحَابَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ
اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ الْمُرْسَلِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَآءِ
مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ وَ { اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا
رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ } ۔ (درود سیدنا علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم)

15 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ صَلّٰى عَلَيْهِ فِی
الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اَفْضَلَ وَ اَكْثَرَ وَ اَزْكٰى مَا صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ وَ زَكَّانَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ اَفْضَلَ مَا زَكّٰى
اَحَدًا مِّنْ اُمَّتِهٖ بِصَلَاتِهٖ عَلَيْهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ وَ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى مُرْسَلًا
عَمَّنْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ فَاِنَّهٗ اَنْقَذَنَا بِهٖ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ جَعَلَنَا فِیْ خَيْرِ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ دَآئِنِيْنَ بِدِيْنِهِ الَّذِیْ
ارْتَضٰى وَ اصْطَفٰى بِهٖ مَلَآئِكَتَهٗ وَ مَنْ اَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهٖ فَلَمْ تُمْسِ بِنَا نِعْمَةٌ ظَهَرَتْ وَلَا بَطَنَتْ نِلْنَا بِهَا
حَظًّا فِیْ دِيْنٍ وَّ دُنْيَا وَ رُفِعَ عَنَّا بِهَا مَكْرُوْهٌ فِيْهِمَآ وَ فِیْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَآ اِلَّا وَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ سَبَبُهَا الْقَآئِدُ اِلٰى خَيْرِهَا الْهَادِیْ اِلَى الرُّشْدِهَا الزَّآئِدُ عَنِ الْهَلَكَةِ وَ مَوَارِدِ السُّوْءِ فِیْ خِلَافِ الرُّشْدِ
الْمُنَبِّهُ لِلْاَسْبَابِ الَّتِیْ تُوْرِدُ الْهَلَكَةَ الْقَآئِمُ بِالنَّصِيْحَةِ فِی الْاِرْشَادِ وَ الْاِنْذَارِ مِنْهَا وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَ سَلَّمَ كَمَا صَلّٰى عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (درود امام شافعی رضی اللہ
عنہ)

16 اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ حَمِدَكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يَحْمَدْكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ اَنْ تُحْمَدَ. اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ
عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔ (درود الطبرانی)

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ

وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَ خَيْرِ خَلْقِكَ وَ اَحَبِّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ الَّذِىْ خَتَمْتَ بِهِ الْاَنْبِيَآءَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (دُرودِ سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ)

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّوْرِ اللَّامِعِ وَ الْقَمَرِ السَّاطِعِ وَ الْبَدْرِ الطَّالِعِ وَ الْفَيْضِ الْهَامِعِ وَ الْمَدَدِ الْوَاسِعِ وَ الْحَبِيْبِ الشَّافِعِ وَ النَّبِيِّ الشَّارِعِ وَ الرَّسُوْلِ الصَّادِعِ وَ الْمَأْمُوْرِ الطَّائِعِ وَ الْمُخَاطِبِ السَّامِعِ وَ السَّيْفِ الْقَاطِعِ وَ الْقَلْبِ الْجَامِعِ وَ الطَّرْفِ الدَّامِعِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَوْلَادِهِ الْكِرَامِ وَ اَصْحَابِهِ الْعِظَامِ وَ اَتْبَاعِهِمْ مِّنْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْاِسْلَامِ۔ (دُرودِ سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ)

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْتُبُ بِهَا السُّطُوْرُ وَ تَشْرَحُ بِهَا الصُّدُوْرُ وَ تَهُوْنُ بِهَا جَمِيْعُ الْاُمُوْرِ بِرَحْمَةٍ مِّنْكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (دُرودِ سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ)

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ وَ الرَّحْمَةِ الْمُنَزَّلَةِ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ صَفِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ جِيْرَانِهٖ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔ (دُرودِ سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ)

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ مَنْ وَّالَاهُ عَدَدَ مَا تَعْلَمُهٗ مِنْ مَّبْدَءِ الْاَمْرِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (دُرودِ سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ)

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ حَبِيْبِكَ صَلَاةً اَرْقٰى بِهَا مَرَاقِيَ الْاِخْلَاصِ وَ اَنَالُ بِهَا غَايَةَ الْاِخْتِصَاصِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔ (دُرودِ سیدنا احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ)

23 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا، وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا، عَلٰى اَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ، وَ مَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ، وَ مَهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَ عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ، وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى، وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الشَّرَفِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ، وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ، وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ، وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ، رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، اَلْمُتَخَلِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، اَلْمُتَحَقِّقِ بِاَسْرَارِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ، سَيِّدِ الْاَشْرَافِ، وَ جَامِعِ الْاَوْصَافِ، اَلْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ، وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، اَلْمَخْصُوْصِ بِاَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَ الْمَقَامَاتِ، اَلْمُؤَيَّدِ بِاَوْضَحِ الْبَرَاهِيْنِ وَ الدَّلَالَاتِ، اَلْمَنْصُوْرِ بِالرُّعْبِ وَ الْمُعْجِزَاتِ، اَلْجَوْهَرِ الشَّرِيْفِ الْاَبَدِيِّ، وَ النُّوْرِ الْقَدِيْمِ

السَّرْمَدِيِّ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ نِ الْمَحْمُوْدِ، فِي الْإِيْجَادِ وَ الْوُجُوْدِ، اَلْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ،
حَضْرَةِ الْمُشَاهَدَةِ وَ الشُّهُوْدِ، نُوْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدَاهُ، سِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَّ سَنَاهُ، اَلَّذِيْ انْشَقَّتْ مِنْهُ الْاَسْرَارُ، وَ
انْفَلَقَتْ مِنْهُ الْاَنْوَارُ، اَلسِّرِّ الْبَاطِنِ وَ النُّوْرِ الظَّاهِرِ، اَلسَّيِّدِ الْكَامِلِ، اَلْفَاتِحِ الْخَاتِمِ، اَلْاَوَّلِ الْاٰخِرِ،
اَلْبَاطِنِ الظَّاهِرِ، اَلْعَاقِبِ الْحَاشِرِ، اَلنَّاهِي الْاٰمِرِ، اَلنَّاصِحِ النَّاصِرِ، الصَّابِرِ الشَّاكِرِ، اَلْقَانِتِ الذَّاكِرِ،
اَلْمَاحِي الْمَاجِدِ، اَلْعَزِيْزِ الْحَامِدِ، اَلْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ، اَلْمُتَوَكِّلِ الزَّاهِدِ، اَلْقَائِمِ الطَّائِعِ الشَّهِيْدِ، اَلْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ،
اَلْبُرْهَانِ الْحُجَّةِ الْمُطَاعِ الْمُخْتَارِ الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبَرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ طٰهٰ وَ يٰسٓ، اَلْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ
سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلنَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى وَ الرَّسُوْلِ
الْمُجْتَبٰى، اَلْحَكَمِ الْعَدْلِ الْحَكِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَزِيْزِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، نُوْرِكَ الْقَدِيْمِ، وَ صِرَاطِكَ
الْمُسْتَقِيْمِ، عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ دَلِيْلِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ نُخْبَتِكَ وَ ذَخِيْرَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ اِمَامِ
الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ التِّهَامِيِّ
الشَّاهِدِ الْمَشْهُوْدِ، اَلْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ السَّعِيْدِ الْمَسْعُوْدِ، اَلْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ، اَلْحَسِيْبِ الرَّفِيْعِ، اَلْمَلِيْحِ الْبَدِيْعِ،
اَلْوَاعِظِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ الْعَطُوْفِ الْحَلِيْمِ، اَلْجَوَادِ الْكَرِيْمِ، اَلطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ، الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ
الْاَمِيْنِ، اَلدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الَّذِيْ اَدْرَكَ الْحَقَائِقَ بِحُجَّتِهَا، وَ فَاقَ الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِهَا وَ
جَعَلْتَهُ حَبِيْبًا وَّ نَاجَيْتَهُ قَرِيْبًا وَّ اَدْنَيْتَهُ رَقِيًّا، وَّ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَ الدَّلَالَةَ وَ الْبِشَارَةَ وَ النِّذَارَةَ وَ
النُّبُوَّةَ وَ نَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ، وَ ظَلَّلْتَهُ بِالسُّحُبِ وَ رَدَدْتَ لَهُ الشَّمْسَ وَ شَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ، وَ اَنْطَقْتَ لَهُ الضَّبَّ وَ
الذِّئْبَ وَ الظَّبْيَ وَ الْجِذْعَ وَ الذِّرَاعَ وَ الْجَمَلَ وَ الْجَبَلَ وَ الْمَدَرَ وَ الشَّجَرَ، وَ اَنْبَعْتَ مِنْ اَصَابِعِهِ الْمَآءَ الزُّلَالَ وَ
اَنْزَلْتَ مِنَ الْمُزْنِ بِدَعْوَتِهِ فِيْ عَامِ الْجَدْبِ وَ الْمَحْلِ وَابِلَ الْغَيْثِ وَ الْمَطَرِ، فَاعْشَوْشَبَ مِنْهُ الْقَفْرُ وَ
الصَّخْرُ وَ الْوَعْرُ وَ السَّهْلُ وَ الرَّمْلُ وَ الْحَجَرُ، وَ اَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، اِلَى
السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى، اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، اِلٰى قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَ اَرَيْتَهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى، وَ اَنَلْتَهُ الْغَايَةَ
الْقُصْوٰى، وَ اَكْرَمْتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ وَ الْمُرَاقَبَةِ وَ الْمُشَافَهَةِ وَ الْمُشَاهَدَةِ وَ الْمُعَايَنَةِ بِالْبَصَرِ، وَ خَصَصْتَهُ
بِالْوَسِيْلَةِ الْعُذْرٰى وَ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَ جَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ جَوَاهِرَ
الْحِكَمِ وَ جَعَلْتَ اُمَّتَهُ خَيْرَ الْاُمَمِ، وَ غَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاَخَّرَ، الَّذِيْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَ اَدَّى
الْاَمَانَةَ، وَ نَصَحَ الْاُمَّةَ، وَ كَشَفَ الْغُمَّةَ، وَ جَلَا الظُّلْمَةَ وَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ عَبَدَ رَبَّهُ حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ،
اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِاِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَ
اِظْهَارِ دِيْنِهِ وَ اِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهِ، وَ فِي الْاٰخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِيْ اُمَّتِهِ، وَ اَجْزِلْ اَجْرَهُ وَ مَثُوْبَتَهُ وَ اَبِدْ فَضْلَهُ عَلَى
الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ تَقْدِيْمَهُ عَلٰى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرٰى وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

الْعُلْيَا، وَ اَعْطِهٖ سُؤْلَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى، كَمَآ اَعْطَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ اَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَّ مِنْ اَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَّ اَعْظَمِهِمْ خَطَرًا وَّ اَمْكَنِهِمْ شَفَاعَةً، اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ اَبْلِغْهُ مَاْمُوْلَهٗ فِيْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَتْبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اُمَّتِهٖ مَا تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ اجْزِ الْاَنْبِيَآءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْاَبْصَارُ وَ سَمِعَتْهُ الْاٰذَانُ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ نَعْمَآءِ اللّٰهِ وَ اَفْضَالِهٖ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عِتْرَتِهٖ وَ عَشِيْرَتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ خَزَنَةِ اَسْرَارِهٖ وَ مَعَادِنِ اَنْوَارِهٖ وَ كُنُوْزِ الْحَقَآئِقِ وَ هُدَاةِ الْخَلَآئِقِ، نُجُوْمِ الْهُدٰى لِمَنِ اقْتَدٰى وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَآئِمًا اَبَدًا وَّ ارْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ رِضَآءً سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَّ سَهَا عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ لَنَا صَلَاحًا وَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَ اَعْطِهِ اللِّوَآءَ الْمَعْقُوْدَ وَ الْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَ صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَوْلِيَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ، وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَآءَ، وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ، صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، صَلَاةً مَّعْرُوْضَةً عَلَيْهِ، وَ مَقْبُوْلَةً لَّدَيْهِ، صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا صَلَاةً تَمْلَاُ الْاَرْضَ وَ السَّمَآءَ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ تُفَرِّجُ بِهَا الْكُرَبَ وَ تُجْرِيْ بِهَا لُطْفَكَ فِيْ اَمْرِيْ وَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ بَارِكْ عَلَى الدَّوَامِ وَ عَافِنَا وَ اهْدِنَا وَ اجْعَلْنَا اٰمِنِيْنَ وَ يَسِّرْ اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَ اَبْدَانِنَا وَ السَّلَامَةِ وَ الْعَافِيَةِ فِيْ دِيْنِنَا وَ دُنْيَانَا وَ اٰخِرَتِنَا وَ تَوَفَّنَا عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ اجْمَعْنَا مَعَهٗ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ يَّسْبِقُ وَ اَنْتَ رَاضٍ عَنَّا وَلَا تَمْكُرْ بِنَا وَ اخْتِمْ لَنَا بِخَيْرٍ مِّنْكَ وَ عَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ اَجْمَعِيْنَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (درود سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ، وَ شَرِّفْ وَ عَظِّمْ، وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ، وَ زِدْ وَ تَمِّمْ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي افْتَتَحْتَ بِهٖ اَغْلَاقَ كَنْزِ الْوُجُوْدِ، وَ نَصَبْتَهٗ وَاسِطَةً لِّاِيْصَالِ الْفَيْضِ وَ الْجُوْدِ، وَ رَفَعْتَهٗ اِلٰى اَعْلٰى غُرَفِ الْمُعَايَنَةِ وَ الشُّهُوْدِ، وَ بَوَّاْتَهٗ مِنْ حَضَرَاتِ قُدْسِكَ حَيْثُ شَآءَ بِلَا حُدُوْدٍ، اَلَّذِيْ اَقَمْتَ بِخِدْمَتِهٖ مُقَرَّبَ الْاَمْلَاكِ، وَ جَعَلْتَهٗ قُطْبًا تَدُوْرُ عَلَيْهِ الْاَفْلَاكُ، وَ اَجْلَسْتَهٗ عَلٰى كُرْسِيِّ الْمَكَانَةِ وَ سَرِيْرِ التَّمْكِيْنِ، وَ خَاطَبْتَهٗ لِلْاِرْشَادِ وَ

التَّعْلِيْمِ وَ التَّبْيِيْنِ، فَقُلْتَ بِطَرِيْقِ التَّبْجِيْلِ وَ التَّعْظِيْمِ، { وَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ } بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ { نٓ ۚ وَ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ وَّ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ } سَيِّدِ الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، وَ صَفْوَةِ الْاَمَاثِلِ وَ الْاَفَاخِرِ، وَ لِسَانِ الْحَضْرَةِ الْاَقْدَسِيَّةِ، اَمِيْنِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، مَجْلَى الذَّاتِ، وَ مَظْهَرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ دَالِ الدَّوَامِ سِرِّ حَيَاةِ الْعَالَمِ، عِلَّةِ السُّجُوْدِ لِاٰدَمَ رُوْحِ الْاَرْوَاحِ اُسَارِيْ فِيْ جَمِيْعِ الْاَشْبَاحِ، لَا يُشَاكُ اَحَدُكُمْ بِشَوْكَةٍ اِلَّا وَاجِدٌ اَلَمَهَا مَجْمَعِ حَقَآئِقِ اللَّاهُوْتِ، مَنْبَعِ دَقَآئِقِ النَّاسُوْتِ، رَأْيَةِ اِمَامَتِهٖ، { قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ } خِلْعَةِ خِلَافَتِهٖ { اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ } تَاجِ مَحْبُوْبِيَّتِهٖ، { وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى } لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ، بِسَاطِ خُلَّتِهٖ لَعَمْرُكَ عَفَا اللهُ عَنْكَ { مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى }، صَاحِبِ الشَّرَفِ وَ الْمَجْدِ، حَامِلِ لِوَآءِ الْحَمْدِ، صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَ الْفَضِيْلَةِ، اٰدَمَ وَ مَنْ دُوْنَهٗ تَحْتَ لِوَآئِهٖ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الْكَوْثَرِ، سُلَّمِ الرِّضَا، رَفْرَفِ الْاِصْطِفَآءِ، سِدْرَةِ الْاِنْتِهَآءِ، شَمْسِ الْعَالَمِ بَدْرِ الْكَمَالِ نَجْمِ الْهِدَايَةِ جَوْهَرَةِ الْوُجُوْدِ خَلِيْلِكَ الْاَقْدَمِ، وَ حَبِيْبِكَ الْاَكْرَمِ، وَ صِرَاطِكَ الْاَقْوَمِ، عَبْدِكَ الْقَآئِمِ بِاَمْرِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ ذَوِى الشِّيَمِ، وَ اَصْحَابِهٖ ذَوِى الْهِمَمِ، مَا تَعَاقَبَ النَّهَارُ الْاَبْيَضُ وَ اللَّيْلُ الْاَبْهَمُ، عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔ (درود سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ وَ تُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ عَدَدَ الْاَمْطَارِ وَ الْاَحْجَارِ وَ الْاَشْجَارِ وَ مَلَآئِكَةِ الْبِحَارِ وَ جَمِيْعِ مَا خَلَقَ مَوْلَانَا مِنْ اَوَّلِ الزَّمَانِ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ۔ (درود سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِاَفْضَلِ مَا تُحِبُّ وَ اَكْمَلِ مَا تُرِيْدُ، عَلٰى اِمَامِ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ، وَ لِسَانِ اَهْلِ التَّفْرِيْدِ وَ التَّمْجِيْدِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا، وَ سَنَدِنَا وَ اَوْلَانَا، مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَ الْعَبِيْدِ، وَ عَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ صَحْبِهٖ، وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ، وَ كُلِّ مَنْسُوْبٍ اِلٰى جَنَابِهِ الْمَجِيْدِ، مِنْ غَيْرِ نِهَايَةٍ وَّلَا تَحْدِيْدٍ، وَّ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔ (درود سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَفْضَلِ عِبَادِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَفْوَتِكَ مِنْ اَنْبِيَآئِكَ الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ وَ الرَّحْمَةِ الْمُرْسَلَةِ الْمُفَضَّلَةِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَ مِلْءَ الْاَرَضِيْنَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔ (درود سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ)

28 اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِىْ خَلَقْتَهٗ مِنْ جَلَالِكَ، وَ
زَيَّنْتَهٗ بِجَمَالِكَ وَ تَوَّجْتَهٗ بِكَمَالِكَ، وَ اَهَّلْتَهٗ لِرُؤْيَةِ ذَاتِكَ، وَ جَعَلْتَهٗ مَحَلًّا لِّاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ قَرَنْتَ اِسْمَهٗ
بِاِسْمِكَ، وَ طَاعَتَهٗ بِطَاعَتِكَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهِ الدَّاعِيْنَ اِلَى اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى سَيِّدِنَا نَآئِبِ حَضْرَةِ ذَاتِكَ، اَلْمُتَحَقِّقِ بِاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، اَلْجَامِعِ بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ، وَ الْبَرْزَخِ
الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحُدُوْثِ وَ الْقِدَمِ، عَيْنِ الْاَحَدِيَّةِ الَّذِىْ اِنْفَتَحَ بِهٖ كُلُّ مَقْفُوْلٍ، وَّ انْجَبَرَ بِهٖ كُلُّ مَكْسُوْرٍ، وَّ
انْعَتَقَ بِهٖ كُلُّ مَقْهُوْرٍ۔ (از سیدی محی الدین ابن العربی)

29 اَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَحْسَنُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَجَلُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَجْمَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَكْمَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ
اَسْبَغُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَتَمُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَظْهَرُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَزْكٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ
اَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَبْرَكُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَوْفٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَسْنٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَعْلٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَكْثَرُ
صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَعَمُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَبْقٰى صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَعَزُّ صَلَوَاتِ
اللّٰهِ وَ اَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ اَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلٰى اَفْضَلِ خَلْقِ اللّٰهِ وَ اَحْسَنِ خَلْقِ اللّٰهِ وَ اَجَلِّ خَلْقِ اللّٰهِ وَ
اَكْرَمِ خَلْقِ اللّٰهِ وَ اَجْمَلِ خَلْقِ اللّٰهِ وَ اَكْمَلِ خَلْقِ اللّٰهِ وَ اَتَمِّ خَلْقِ اللّٰهِ وَ اَعْظَمِ خَلْقِ اللّٰهِ عِنْدَ اللّٰهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَ
نَبِيِّ اللّٰهِ وَ حَبِيْبِ اللّٰهِ وَ صَفِيِّ اللّٰهِ وَ نَجِيِّ اللّٰهِ وَ خَلِيْلِ اللّٰهِ وَ وَلِيِّ اللّٰهِ وَ اَمِيْنِ اللّٰهِ وَ خِيَرَةِ اللّٰهِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَ نُخْبَةِ
اللّٰهِ مِنْ بَرِيَّةِ اللّٰهِ وَ صَفْوَةِ اللّٰهِ مِنْ اَنْبِيَآءِ اللّٰهِ وَ عُرْوَةِ اللّٰهِ وَ عِصْمَةِ اللّٰهِ وَ نِعْمَةِ اللّٰهِ وَ مِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللّٰهِ
الْمُخْتَارِ مِنْ رُّسُلِ اللّٰهِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ الْفَآئِزِ بِالْمَطْلَبِ فِى الْمَرْهَبِ وَ الْمَرْغَبِ الْمُخْلَصِ فِيْمَا
وُهِبَ، اَكْرَمِ مَبْعُوْثٍ اَصْدَقِ قَآئِلٍ اَنْجَحِ شَافِعٍ اَفْضَلِ مُشَفَّعٍ الْاَمِيْنِ فِيْمَآ اُسْتُوْدِعَ الصَّادِقِ فِيْمَا بَلَّغَ
الصَّادِعِ بِاَمْرِ رَبِّهٖ الْمُضْطَلِعِ بِمَا حُمِّلَ اَقْرَبِ رُسُلِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَسِيْلَةً وَّ اَعْظَمِهِمْ غَدًا عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً وَّ
فَضِيْلَةً وَّ اَكْرَمِ اَنْبِيَآءِ اللّٰهِ الْكِرَامِ الصَّفْوَةِ عَلَى اللّٰهِ وَ اَحَبِّهِمْ اِلَى اللّٰهِ وَ اَقْرَبِهِمْ زُلْفٰى لَدَى اللّٰهِ وَ اَكْرَمِ
الْخَلْقِ عَلَى اللّٰهِ وَ اَحْظَاهُمْ وَ اَرْضَاهُمْ لَدَى اللّٰهِ وَ اَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا وَّ اَعْظَمِهِمْ مَحَلًّا وَّ اَكْمَلِهِمْ مَحَاسِنًا وَّ
فَضْلًا وَّ اَفْضَلِ الْاَنْبِيَآءِ دَرَجَةً وَّ اَكْمَلِهِمْ شَرِيْعَةً وَّ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَآءِ نِصَابًا وَّ اَبْيَنِهِمْ بَيَانًا وَّ خِطَابًا وَّ
اَفْضَلِهِمْ مَوْلِدًا وَّ مُهَاجَرًا وَّ عِتْرَةً وَّ اَصْحَابًا وَّ اَكْرَمِ النَّاسِ اَرُوْمَةً وَّ اَشْرَفِهِمْ جُرْثُوْمَةً وَّ خَيْرِهِمْ نَفْسًا وَّ
اَطْهَرِهِمْ قَلْبًا وَّ اَصْدَقِهِمْ قَوْلًا وَّ اَزْكَاهُمْ فِعْلًا وَّ اَثْبَتِهِمْ اَصْلًا وَّ اَوْفَقِهِمْ عَهْدًا وَّ اَمْكَنِهِمْ مَجْدًا وَّ
اَكْرَمِهِمْ طَبْعًا وَّ اَحْسَنِهِمْ صُنْعًا وَّ اَطْيَبِهِمْ فَرْعًا وَّ اَكْثَرِهِمْ طَاعَةً وَّ سَمْعًا وَّ اَعْلَاهُمْ مَقَامًا وَّ اَحْلَاهُمْ
كَلَامًا وَّ اَزْكٰهُمْ سَلَامًا وَّ اَجَلِّهِمْ قَدْرًا وَّ اَعْظَمِهِمْ فَخْرًا وَّ اَسْنَاهُمْ نُوْرًا وَّ اَرْفَعِهِمْ فِى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى ذِكْرًا وَّ
اَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَّ اَصْدَقِهِمْ وَعْدًا وَّ اَكْثَرِهِمْ شُكْرًا وَّ اَعْلَاهُمْ اَمْرًا وَّ اَجْمَلِهِمْ صَبْرًا وَّ اَحْسَنِهِمْ خَيْرًا وَّ
اَقْرَبِهِمْ يُسْرًا وَّ اَبْعَدِهِمْ مَكَانًا وَّ اَعْظَمِهِمْ شَانًا وَّ اَثْبَتِهِمْ بُرْهَانًا وَّ اَرْجَحِهِمْ مِيْزَانًا وَّ اَوَّلِهِمْ اِيْمَانًا وَّ اَوْ
ضَحِهِمْ بَيَانًا وَّ اَفْصَحِهِمْ لِسَانًا وَّ اَظْهَرِهِمْ سُلْطَانًا۔ (از سیدی محمد سلیمان الجزولی رضی اللہ عنہ)

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرِّكَ الْجَامِعِ الدَّآلِّ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفٰى كَمَا هُوَ لَآئِقٌ بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ

وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ خَصِيْصٌ بِهٖ مِنَ السَّلَامِ لَدَيْكَ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ صَلَاتِهٖ صِلَةً وَّ عَآئِدًا تُتَمِّمُ بِهِمَا وُجُوْدَنَا وَ تُعَمِّمُ بِهِمَا شُهُوْدَنَا وَ تُخَصِّصُ بِهِمَا مَزِيْدَنَا وَ مِنْ سَلَامِهٖ اِسْلَامًا وَّ سَلَامَةً لِّبُرْهَانِ مَا ظَهَرَ مِنَّا وَ مَا بَطَنَ مِنْ شَوَآئِبِ الْاِرَادَاتِ، وَ الْاِخْتِيَارَاتِ وَ التَّدْبِيْرَاتِ وَ الْاِضْطِرَارَاتِ لِنَأْتِيَكَ بِالْقَوَالِبِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْقُلُوْبِ السَّلِيْمَةِ حَسْبَمَا هُوَ لَدَيْكَ مِنَ الْكَمَالِ الْاَقْدَسِ، وَ الْجَمَالِ الْاَنْفَسِ۔ (از سیدی ابی الحسن الشاذلی)

31 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ، وَ اَسْمَى الْبَرَكَاتِ، وَ اَزْكَى التَّحِيَّاتِ، فِيْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ، عَلٰى اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوَاتِ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا اَزْكَى التَّحِيَّاتِ فِيْ جَمِيْعِ الْحَضَرَاتِ وَ اللَّحَظَاتِ۔ (از سیدی ابی الحسن الشاذلی)

32 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْضَلَ وَ اَزْكٰى وَ اَنْمٰى وَ اَعْلٰى صَلَاةٍ صَلَّاهَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَنْبِيَآئِهٖ وَ اَصْفِيَآئِهٖ اَشْهَدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ بَلَّغْتَ مَا اُرْسِلْتَ بِهٖ وَ نَصَحْتَ اُمَّتَكَ وَ عَبَدْتَّ رَبَّكَ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ وَ كُنْتَ كَمَا نَعَتَكَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ { لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ } فَصَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ وَ سَمٰوَاتِهٖ وَ اَرْضِهٖ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا صَاحِبَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَا اَبَا بَكْرٍ وَّ يَا عُمَرُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ فَجَزَا كُمَا اللّٰهُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَ اَهْلِهٖ اَفْضَلَ مَا جَزٰى بِهٖ وَزِيْرَيْ نَبِيٍّ فِيْ حَيَاتِهٖ، وَ عَلٰى حُسْنِ خِلَافَتِهٖ فِيْ اُمَّتِهٖ بَعْدَ وَفَاتِهٖ، فَجَزَا كُمَا اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ مُرَافَقَتَهٗ فِيْ جَنَّتِهٖ، وَ اِيَّانَا مَعَكُمَا بِرَحْمَتِهٖ، اِنَّهٗ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُشْهِدُكَ وَ اُشْهِدُ رَسُوْلَكَ وَ اَبَا بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ اُشْهِدُ الْمَلَآئِكَةَ النَّازِلِيْنَ عَلٰى هٰذِهِ الرَّوْضَةِ الْكَرِيْمَةِ وَ الْعَاكِفِيْنَ اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ كُلَّ مَا جَآءَ بِهٖ مِنْ اَمْرٍ وَّ نَهْيٍ وَّ خَبَرٍ عَمَّا كَانَ وَ يَكُوْنُ فَهُوَ حَقٌّ لَا كَذِبَ فِيْهِ وَلَآ افْتِرَآءَ وَ اِنِّيْ مُقِرٌّ لَّكَ يَآ اِلٰهِيْ بِجِنَايَتِيْ وَ مَعْصِيَتِيْ فِي الْخَطْرَةِ وَ الْفِكْرَةِ وَ الْاِرَادَةِ وَ الْغَفْلَةِ وَ مَا اسْتَأْثَرْتَ عَنِّيْ مِمَّآ اِذَا شِئْتَ اَخَذْتَ بِهٖ وَ اِذَا شِئْتَ عَفَوْتَ عَنْهُ مِمَّا هُوَ مُتَضَمِّنٌ لِّلْكُفْرِ وَ النِّفَاقِ وَ الْبِدْعَةِ اَوِ الضَّلَالِ اَوِ الْمَعْصِيَةِ اَوْ سُوْءِ الْاَدَبِ مَعَكَ وَ مَعَ رَسُوْلِكَ وَ مَعَ اَنْبِيَآئِكَ وَ اَوْلِيَآئِكَ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ مَا خَلَقْتَ مِنْ شَيْءٍ فِيْ مُلْكِكَ فَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ بِجَمِيْعِ ذٰلِكَ فَاغْفِرْلِيْ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالَّذِيْ مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَآئِكَ فَاِنَّكَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ۔ (از سیدی ابی الحسن الشاذلی)

33 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَآئِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِنَّةَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيًا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ وَّصَفَهُ اللّٰهُ

بِقَوْلِهٖ { وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ } وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ
الْمُرْسَلِيْنَ وَ اٰلِكَ وَ اَهْلِ بَيْتِكَ وَ اَزْوَاجِكَ وَ اَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ
جَزَى اللهُ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ
رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ اَفْضَلَ وَ اَكْمَلَ مَا
صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَ
خِيَرَتُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ جَاهَدْتَّ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ وَ
كُنْتَ كَمَا نَصَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهٖ. اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا ۨ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ { رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ } اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَقَرَّ
عَيْنِيْ بِرُؤْيَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَوْضَتِكَ وَ حَضْرَتِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ. (از سیدی ابی الحسن البکری)

34 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
حَبِيْبَ الْاِلٰهِ الْمَعْبُوْدِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَآءَ بِالْاَحْكَامِ وَ الْحُدُوْدِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
دَآلًّا عَلَى الْحَقِّ الْمَشْهُوْدِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُفِيْضَ الشُّهُوْدِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ
الْوُجُوْدِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِرَّ كُلِّ مَوْجُوْدٍ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى ضَجِيْعَيْكَ وَ اٰلِكَ وَ
جَمِيْعِ صَحْبِكَ مَا دَامَ التَّعَرُّفُ. وَ اسْتَحَالَ التَّعْطِيْلُ وَ التَّوَقُّفُ. بِسْمِ اللهِ الْبَاعِثِ لَكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ
بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَ مُغِيْثًا لِّلْمُسْتَغِيْثِيْنَ. وَ رَأْفَةً لِّلْمُسْتَرْئِفِيْنَ. وَ جَامِعًا لِّشَمْلِ الْمُتَفَرِّقِيْنَ. وَ وُصْلَةً
لِّلْمُنْقَطِعِيْنَ. وَ اَمَانًا لِّلْخَآئِفِيْنَ. وَ دَلِيْلًا لِّلْحَآئِرِيْنَ. وَ عِصْمَةً لِّلْمُسْتَعْصِمِيْنَ. اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِكَ وَ اَسْئَلُكَ يَا
حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ بِوُجْهَتِكَ وَ مُوَاجَهَتِكَ وَ تَوْجِيْهِكَ وَ وَجَاهَتِكَ وَ جَاهِكَ وَ كَرَامَتِكَ وَ تَخْصِيْصِكَ وَ
خُصُوْصِيَّتِكَ وَ بِمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ رَبِّكَ وَ بِمَا لَا يَعْلَمُهٗ اِلَّا هُوَ وَ بِمَآ اَعْطَاكَ مِنْ عِلْمٍ وَّ شُهُوْدٍ. وَّ مَقَامٍ وَّ عُهُوْدٍ.
وَّ كَمَالٍ وَّ عُقُوْدٍ. وَّ وُصْلَةٍ وَّ حَقٍّ وَّ حَقِيْقَةٍ وَّ رَأْفَةٍ وَّ رَحْمَةٍ وَّ عِنَايَةٍ وَّ شَفَقَةٍ عَلٰى عُبَيْدِهٖ اُمَّتِكَ اللَّآئِذِيْنَ
بِجَنَابِكَ. اَلْوَاقِفِيْنَ بِاَرْوَاحِهِمْ وَ اَشْبَاحِهِمْ عَلٰى بَابِكَ. اَلْمُتَوَسِّلِيْنَ بِتُرَابِ اَعْتَابِكَ. اَلْمُتَوَسِّمِيْنَ بِكَ مِنْ
مَّوْلَاكَ فَوْقَ مَا فِيْ اٰمَالِهِمْ. فِيْ دُنْيَاهُمْ وَ مَاٰلِهِمْ. فَبَالِغِيْنَ بِكَ ذٰلِكَ فَهَا عَبْدُكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اَقَلُّهُمْ وَ
اَذَلُّهُمْ اِلَى اللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يَدَيْكَ يَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَ الرَّحْمَةَ الشَّامِلَةَ. وَ الْعَفْوَ وَ الرَّأْفَةَ الْعَآمَّةَ الْكَامِلَةَ. وَ
التَّوْفِيْقَ اِلٰى طَاعَتِهٖ وَ اِتِّبَاعَ سَبِيْلِهٖ بِكَ مُعَافًى مِّنْ جَمِيْعِ مَا لَا يُرْضِيْهِ. مُسْتَهْلِكًا جَمِيْعَ حَرَكَاتِهٖ وَ سَكَنَاتِهِ
الْبَاطِنَةِ وَ الظَّاهِرَةِ مِنْ مَّدَارِكِهٖ اَبَدًا فِيْ مَرَاضِيْهِ. مُشَاهِدًا لَّهٗ بِهٖ مَا دَامَ دَوَامُهٗ لِيَبْلُغَ الْعَبْدُ بِذٰلِكَ رِضَاهُ
وَ رِضَاكَ اِتِّسَامًا ۢ بِعُبُوْدِيَّتِهٖ. وَ قِيَامًا ۢ بِبَعْضِ وَفَآءِ حُقُوْقِ رُبُوْبِيَّتِهٖ. حَسْبَمَا يُمْكِنُهٗ مِنْ طَاقَتِهٖ مَعَ

تَرۡجِیۡح ذٰلِكَ بِنَوۡعِ قَابِلِیَّتِهٖ، بِوُفُوۡدِ نَصِیۡبِهٖ مِنَ الۡحُبِّ الۡعَامِ وَ لَوَازِمِهٖ، وَ الۡخَاصِ وَ مَعَالِیۡهِ، لَكَ وَلِرَبِّكَ بَالِغًا ءبِذٰلِكَ رُتۡبَةَ الۡفَنَآءِ فِیۡهِ وَ الۡفَنَآءَ عَنِ الۡفَنَآءِ بِشُهُوۡدِهٖ اِیَّاهُ بِهٖ فِیۡ حَضۡرَةِ وَحۡدَتِهٖ بِالۡبَقَآءِ مَعَهٗ فِیۡ جَمِیۡعِ مَعَالِیۡهٖ وَ مَشَاهِدِهٖ شَیۡئٌ لِلّٰهِ یَا سَیِّدَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ، شَیۡئٌ لِلّٰهِ یَا حَبِیۡبَ رَبِّ الۡعَالَمِیۡنَ، وَ یَا خِیَرَتَهٗ مِنۡ خَلۡقِهٖ، وَ یَا مَعۡدِنَ ظُهُوۡرِ سِرِّ حَقِّهٖ، عَلَیۡكَ اُصَلِّیۡ وَ اُسَلِّمُ وَ عَلٰی ضَجِیۡعَیۡكَ وَ عَلٰی جَمِیۡعِ آلِكَ وَ صَحۡبِكَ وَ اَتۡبَاعِكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَیۡنِ بِدَوَامِ قُرۡبِكَ مِنۡ رَّبِّكَ وَ قُرۡبِ رَبِّكَ مِنۡكَ وَ بِدَوَامِ ظُهُوۡرِ مَا ظَهَرَ وَ یَظۡهَرُ مِنۡ تَعَرُّفِ اَسۡمَآئِهٖ وَ شُمُوۡسِ اَفۡلَاكِ صِفَاتِهٖ وَ جَوَامِعِ كَمَالِهٖ، بِجَلَالِهٖ وَ جَمَالِهٖ، فِیۡ غَیۡبِ حَضۡرَةِ ذَاتِهٖ۔ (از سیدی الشیخ برہان الدین ابراہیم المواہبی الشاذلی)

35 سَلَامُ اللهِ تَعَالٰی وَ رَحۡمَتُهٗ وَ بَرَكَاتُهٗ عَلٰی جَمِیۡعِ عَوَالِمِكَ الۡمُمۡتَدَّةِ كُلِّهَا ثُمَّ السَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا خَلِیۡلَهٗ ثُمَّ السَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا حَبِیۡبَهٗ ثُمَّ السَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَهٗ ثُمَّ صَلَّی اللهُ عَلَیۡكَ كَصَلَاةِ اِبۡرَاهِیۡمَ مِنۡ حَیۡثُ شَرِیۡعَتُكَ وَ كَصَلَاةِ مَلَآئِكَتِهٖ مِنۡ حَیۡثُ حَقِیۡقَتُكَ وَ كَصَلَاةِ سُبۡحَانَهٗ وَ تَعَالٰی مِنۡ حَیۡثُ حَقِّهٖ وَ رَحۡمَانِیَّتِهٖ ثُمَّ السَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا مَنۡ جَاوَزَ فِی السَّمٰوٰتِ مَقَامَاتِ الرُّسُلِ وَ الۡاَنۡبِیَآءِ، وَ زَادَ رِفۡعَةً وَّ اسۡتِعۡلَآءً عَلٰی ذَوَاتِ الۡمَلَأِ الۡاَعۡلٰی، وَ بَلَغَ الۡغَایَةَ الۡقُصۡوٰی، وَ الۡمَقۡصُوۡدَ الَّذِیۡ عَجَزَتۡ عَنۡهُ قُوَّةُ اُولِی النُّهٰی، وَ نَبَّهَهٗ لِسَانُ مَفۡهُوۡمِ قَوۡلِهٖ وَ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الۡمُنۡتَهٰی، وَ كَانَ بِالۡقُرۡبِ مِنَ الۡمَعۡنٰی الۡوُجُوۡدِیِّ اَقۡرَبَ اِلَیۡهِ مِنَ الۡمَلَكِ، وَ اسۡتَوٰلٰی بِذَاتِ كَمَالِهٖ عَلٰی مَوۡضُوۡعِ جُمۡلَةِ الۡفُلۡكِ، ثُمَّ السَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا مَنۡ ظَهَرَ بِالۡكَمَالَاتِ وَ بُشِّرَ بِهٖ فِیۡ عَالَمِ الۡاَرۡضِ وَ السَّمٰوٰتِ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء)

36 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسۡاَلُكَ اَنۡ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ نِّبۡرَاسِ الۡاَنۡبِیَآءِ وَ نَیِّرِ الۡاَوۡلِیَآءِ وَ زِبۡرِقَانِ الۡاَصۡفِیَآءِ وَ یُوۡحِ الثَّقَلَیۡنِ وَ ضِیَآءِ الۡخَافِقَیۡنِ۔ (از سیدی محمد بہاء الدین النقشبندی)

37 اَللّٰهُمَّ بِمَآ اَخۡفَیۡتَهٗ مِنۡ سِرِّ ذَاتِكَ، وَ اَظۡهَرۡتَهٗ مِنۡ اَسۡمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ جَعَلۡتَهٗ طُرُقَاتِ تَنَزُّلَاتِكَ، وَ مَظَاهِرِ تَجَلِّیَاتِكَ، اِهۡدِنِیۡ بِكَ اِلَیۡكَ وَ اجۡمَعۡنِیۡ بِكَ عَلَیۡكَ، وَ هَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ عِلۡمًا لَّدُنِّیًا، وَّ اجۡعَلۡنِیۡ بِكَ هَادِیًا مَّهۡدِیًّا، مُّصۡطَفًی وَّ وَلِیًّا ءبِالذَّاتِ الۡمُكَمَّلَةِ، وَ الرَّحۡمَةِ الۡوَاسِعَةِ الۡمُرۡسَلَةِ، الۡجَامِعِ لِجَمِیۡعِ اَسۡرَارِ تَوۡحِیۡدِ الۡاَحَدِیَّةِ، الۡقَآئِمِ بِاَوۡصَافِ الۡعُبُوۡدِیَّةِ الۡمَخۡصُوۡصِ بِالۡوَحۡدَانِیَّةِ الۡمُطۡلَقَةِ، الۡمُخۡبِرِ عَنِ الۡغُیُوۡبِ الۡیَقِیۡنِیَّةِ الۡمُحَقَّقَةِ، خُلَاصَةِ عِبَادِكَ، وَ مَظۡهَرِ مُرَادِكَ، سَیِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ نِ التَّوۡحِیۡدِ، الۡحَامِدِ بِجَمِیۡعِ الۡمَحَامِدِ، دَاعِی الۡجَمِیۡعِ بِكَلِمَةِ التَّوۡحِیۡدِ، مِنَ الۡكَثۡرَةِ اِلَی الۡوَاحِدِ، صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحۡبِهٖ وَ اَزۡوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ وَ اَهۡلِ بَیۡتِهٖ وَ تَابِعِیۡهِ مَعَالِمِ مُنَازَلَاتِهٖ، وَ عَوَالِمِ تَنَزُّلَاتِهٖ، وَ سَلِّمۡ تَسۡلِیۡمًا كَثِیۡرًا وَّ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِیۡنَ۔

(درود ابن سبعین رحمۃ اللہ تعالٰی)

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصۡحَابِهٖ وَ اَزۡوَاجِهٖ وَ ذُرِّیَّتِهٖ وَ اَنۡصَارِهٖ وَ اَشۡیَاعِهٖ وَ اَتۡبَاعِهٖ وَ اَهۡلِیۡهِ صَلَاةً تُحَقِّقُ بِهَا یَقِیۡنِیۡ فِیۡهِ، وَ تُوَصِّلُهَا الۡمَلَآئِكَةُ مِنِّیۡ اِلَیۡهِ وَ اَعۡطِهٖ، اَللّٰهُمَّ الۡوَسِیۡلَةَ وَ الۡفَضِیۡلَةَ وَ

الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ، وَ الْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ، وَ اللِّوَآءَ الْمَعْقُوْدَ، وَ الْمَكَانَ الْمَشْهُوْدَ، الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَزِدْهُ شَرَفًا وَّ كَرَمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَآئِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ بِدَوَامِ مُلْكِكَ النَّزِيْهِ عَدَدَ مَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ عَدَدَ مَا لَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ وَ عَدَدَ مَا تَغْرُبُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ عَدَدَ مَا لَا تَغْرُبُ عَلَيْهِ يَآ اَللّٰهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود سیدی الشیخ البونی رحمۃ اللہ علیہ)

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَ مَعْدِنِ السَّعَادَاتِ، وَ مُرَادِ الْاِرَادَاتِ، حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْعَزِيْزِ الْمُخْتَارِ النَّبِيِّ السُّلْطَانِ النُّوْرِ الْاَمِيْنِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (از سیدی ابی السعود الجارحی رحمۃ اللہ علیہ)

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ صَلَاةً تُدْخِلُ بِهَا رِيَاضَ الْمَطَالِبِ وَ اَجْنِیْ ثَمَرَ الْمَوَاهِبِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ اٰفَاقِ اَهْلِ مَوَدَّتِكَ وَ مَجْلٰى عَرَآئِسِ مَشَاهِدِ اَحَدِيَّتِكَ وَ مَشْهَدِ اَنْوَارِ اَسْرَارِ تَجَلِّيَاتِكَ وَ مَظْهَرِ اِعْتِزَازِ عِزِّ عِزَّتِكَ۔ (از سیدی محمد الشناوی رحمۃ اللہ علیہ)

41 اَللّٰهُمَّ بِكَ تَوَسَّلْتُ وَ مِنْكَ سَاَلْتُ وَ فِيْكَ لَا فِیْ شَیْءٍ سِوَاكَ رَغِبْتُ لَآ اَسْاَلُ مِنْكَ سِوَاكَ وَلَآ اَطْلُبُ مِنْكَ اِلَّآ اِيَّاكَ اَللّٰهُمَّ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِیْ قُبُوْلِ ذٰلِكَ بِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى وَ الْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفٰى وَ الصَّفِيِّ الْمُرْتَضٰى وَ النَّبِيِّ الْمُجْتَبٰى وَ بِهٖ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ صَلَاةً اَبَدِيَّةً دَيْمُوْمِيَّةً قَيُّوْمِيَّةً اِلٰهِيَّةً رَبَّانِيَّةً ، بِحَيْثُ يَشْهَدُ لِیْ ذٰلِكَ فِیْ عَيْنِ كَمَالِهٖ بِشَهَادَةِ مَعَارِفِ ذَاتِهٖ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ فَاِنَّكَ وَلِیُّ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ۔ (از سیدی محمد وفا الشاذلی رضی اللہ عنہ)

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَحْمَدِ اَمْرِكَ وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلْقِكَ وَ اَسْعَدِ كَوْنِكَ اَسْاَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِهٖ وَ بِهٖ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ صَلَاةً ذَاتِيَّةً خَاصَّةً ، بِهٖ عَامَّةً فِیْ جَمِيْعِ الْوَاحِهِ الْحَرْفِيَّةِ وَ الْاِسْمِيَّةِ وَ جَمِيْعِ مَرَاتِبِهِ الْعَقْلِيَّةِ وَ الْعِلْمِيَّةِ، صَلَاةً مُّتَّصِلَةً لَّا يُمْكِنُ اِنْفِصَالُهَا بِسَلْبٍ وَّلَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ بَلْ يَسْتَحِيْلُ عَقْلًا وَّ نَقْلًا وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْاُمَّهَاتِ الْجَوَامِعِ، وَ الْخَزَآئِنِ الْمَوَانِعِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

(از سیدی محمد وفا الشاذلی رضی اللہ عنہ)

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّوْرِ الْاَوَّلِ، وَ السِّرِّ الْاَنْوَهِ الْاَكْمَلِ، عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ بَهْجَةِ الْاِخْتِرَاعَاتِ الْاَكْوَانِيَّةِ، صَاحِبِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ، وَ الْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ، نُوْرِ كُلِّ شَیْءٍ وَّ هُدَاهُ، وَ سِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَّ سَنَاهُ، مَنْ فَتَحْتَ بِهٖ خَزَآئِنَ الْحِكْمَةِ وَ الرَّحَمُوْتِ، وَ مَنَحْتَ بِظُهُوْرِهٖ اَنْوَارَ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ، قُطْبِ دَآئِرَةِ الْكَمَالِ، وَ يَاقُوْتَةِ تَاجِ مَحَاسِنِ الْجَلَالِ، اِنْسَانِ عَيْنِ الْمَظَاهِرِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ لَطِيْفَةِ تَرَوْحُنَاتِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ، مَدَدِ الْاِمْدَادِ، وُجُوْدِ الْجُوْدِ، وَاحِدِ الْاٰحَادِ، وَ سِرِّ الْوُجُوْدِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ السُّلُوْكِ، وَ شَرَفِ الْاَمْلَاكِ وَ الْمُلُوْكِ، بَدْرِ الْمَعَارِفِ فِیْ سَمَآءِ الدَّقَآئِقِ، وَ شَمْسِ الْعَوَارِفِ فِیْ عُرُوْسِ الْحَقَآئِقِ، بَابِكَ

الْاَعْظَمِ وَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ الْاَقْوَمِ، بَرْقِكَ اللَّامِعِ، وَ نُوْرِكَ السَّاطِعِ، وَ ضِيَآئِكَ الَّذِيْ هُوَ بِاُفُقِ كُلِّ قَلْبٍ سَلِيْمٍ طَالِعٌ، وَّ سِرِّكَ الْمُنَزَّهِ السَّارِيْ فِيْ جُزْئِيَّاتِ الْعَالَمِ وَ كُلِّيَاتِهٖ، عُلْوِيَّاتِهٖ وَ سُفْلِيَّاتِهٖ، مِنْ جَوْهَرٍ وَّ عَرَضٍ وَّ وَسَآئِطٍ وَّ مُرَكَّبَاتٍ وَّ بَسَآئِطٍ، مَغْرِبِ اَسْرَارِ الذَّاتِ، وَ مَشْرِقِ اَنْوَارِ الصِّفَاتِ، وَ مَظْهَرِ اَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ بِاَنْوَارِ السُّبُحَاتِ مِنْ سَنَا السُّرَادِقَاتِ بِاَرْوَاحِ التَّرَوْحُنَاتِ، اَلْمُصَلِّيْ فِيْ مِحْرَابِ جَامِعِ الْجَمْعِ بِاَحْمَدَ، وَ الْقَارِئِ بِقُرْاٰنِ، اَلْفَرْقِ بِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، اَلْقَآئِمِ فِي الْمُلْكِ بِشَرْعِهٖ وَ جَلَالِهٖ، وَ الرَّاحِمِ فِي الْمَلَكُوْتِ بِرَحْمَتِهٖ وَ جَمَالِهٖ، عَيْنِ غَيْبِكَ الْكَامِلَةِ، وَ خَلِيْفَتِكَ عَلَى الْاِطْلَاقِ فِيْ مَمْلَكَتِكَ الشَّامِلَةِ، صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُعَرِّفُنِيْ بِهَآ اِيَّاهُ فِيْ مَرَاتِبِهٖ وَ عَوَالِمِهٖ، وَ مَوَاطِنِهٖ وَ مَعَالِمِهٖ، حَتّٰى اَشْهَدَهُ بِعَيْنِ الْعِيَانِ، لَا بِالدَّلِيْلِ وَ الْبُرْهَانِ، وَ اَعْرِفَهُ بِالتَّحْقِيْقِ، فِيْ كُلِّ مَوْطِنٍ وَّ طَرِيْقٍ، وَّ اَرٰى سَرَيَانَ سِرِّهٖ فِي الْاَكْوَانِ، وَ مَعْنَاهُ الْمُشْرِقَ فِيْ مَجَالِيْهِ الْحِسَانِ، وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ مَدَدِيْ مِنْ شَمْسِ حَقِيْقَتِهٖ، وَ مِنْ نُوْرِ شَرِيْعَتِهٖ، حَتّٰى اَسْتَضِيْءَ فِيْ لَيْلِ جَهْلِيْ بِاَنْوَارِ حَقَآئِقِ مَعَارِفِهٖ، وَ آنَسَ فِيْ غُرْبَةِ مَسْرَايَ بِاِيْنَاسِ لَطَآئِفِهٖ، وَ احْمِلْنِيْ اِلٰى حَضْرَتِهِ الْقُدْسِيَّةِ الْاَحْمَدِيَّةِ، عَلٰى كَاهِلِ شَرِيْعَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَ عَمِّرْ اَوْطَانَ نَقْصِيْ بِاَوْطَارِ كَمَالِهٖ، وَ اَلْبِسْنِيْ مِنْ خِلَعِ جَلَالِهٖ وَ جَمَالِهٖ، وَ اَفْرِدْنِيْ فِيْ حُبِّهٖ كَمَآ اَفْرَدْتَهٗ فِيْ حُسْنِهٖ وَ اِحْسَانِهٖ، وَ خَصِّصْنِيْ بِخَصَآئِصِ قُرْبِهٖ وَ امْتِنَانِهٖ، حَتّٰى اَكُوْنَ وَارِثًا لَّدَيْهِ، وَ نَاظِرًا مِّنْهُ اِلَيْهِ، وَ جَامِعًا لَّهٗ بِهٖ عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاتَكَ الْاَزَلِيَّةَ الْاَحَدِيَّةَ، فِيْ مَظَاهِرِكَ الْاَبَدِيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ، مَا تَوَحَّدَ تَجَلِّيْكَ وَ تَكَثَّرَ الْفَرْدُ فِي الْعَدَدِ، وَ اَشْرَقَتْ اَنْوَارُ الصِّفَاتِ بِتَوَالِي الْمَدَدِ، وَ اتَّسَعَتْ رُبُوْبِيَّةُ الْحَكِيْمِ، وَ تَقَدَّسَتْ سُبُحَاتُ الْعَلِيْمِ، بِتَسْبِيْحِ التَّمْجِيْدِ وَ التَّكْرِيْمِ، بِلِسَانِ الْقِدَمِ فِيْ اَزَلِ الْاٰزَالِ، وَ تَقْدِيْسِهٖ فِيْ صِفَتَيِ الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ الْفَرْدَانِيَّةِ مَا تَعَدَّدَتْ مَرَاتِبُ الْعَدَدِيَّةِ، فِيْ وَحْدَةِ مَرَاقِيْ دَرَجَاتِهِ الْعُلْوِيَّةِ فِيْ مَقَامَاتِ الْعُبُوْدِيَّةِ، بِتَوَالِيْ شُهُوْدِ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ، وَ اِنْدِرَاجِ الْاَنْوَارِ الصِّفَاتِيَّةِ، فِي الْمَجَالَاتِ الْاَطْوَارِيَّةِ، وَ الْمَطَارَاتِ الْمَلَكِيَّةِ، وَ سَجَدَتْ لَهُ الْاَرْوَاحُ الرُّوْحَانِيَّةُ، فِيْ مِحْرَابِ الْاٰدَمِيَّةِ، فِيْ جَامِعِ حِيْطَتِهِ الْاَحْمَدِيَّةِ، وَ الْمُحِيْطَةِ بِالْاَنْوَارِ السُّبُّوْحِيَّةِ، الْكَاتِبَةِ بِالْاَقْلَامِ الْمَعْنَوِيَّةِ، فِي الْاَلْوَاحِ الشُّهُوْدِيَّةِ، بِالْاَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ، عَنِ الْاِدْرَاكَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّتَقَدَّسُ بِهِمَا عَنْ عَوَارِضِ الْاِمْكَانِ، اَلْوُجُوْبِ اتِّصَافِهٖ بِالْكَمَالَاتِ، وَ عُمُوْمِ عِصْمَتِهٖ فِيْ جَمِيْعِ الْخَطَرَاتِ، مَا تَنَزَّهَ شَامِخُ عِزِّهٖ عَنِ النَّقْصِ وَ السُّلُوْبِ، وَ ثَبَتَ رَاسِخُ مَجْدِهٖ بِالذَّاتِ وَ الْوُجُوْبِ، وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ اَئِمَّةِ الْهُدٰى، وَ نُجُوْمِ الْاِقْتِدَا، مَا تَعَاقَبَتْ اَدْوَارُ الْاَنْوَارِ، وَ اَشْرَقَتِ الْاَسْرَارُ بِالْاَسْرَارِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ (از سیدی علی وفا)

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ وَ مُرَادِ الْاِرَادَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (از سیدی ابی طاہر بن سیدی علی وفا)

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ صَلَاةً تَشْرَحُ بِهَا

صَدْرِیْ، وَ تُیَسِّرُ بِهَآ اَمْرِی، وَ تَجْبُرُ بِهَا كَسْرِیْ، وَ تَحُلُّ بِهَا عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ بِمَا لَا يُحْصٰى وَلَا تُحِيْطُ بِهٖ دَآئِرَةٌ وَّ رَضِیَ اللهُ عَنْ اَصْحَابِهٖ اَهْلِ الْكَمَالِ وَ التَّكْمِيْلِ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ بِهِمْ كُلَّ حَآئِرٍ وَّ حَآئِرَةٍ۔ (از سیدی ابی المواہب الشاذلی رضی اللہ عنہ)

صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ الْمُتَوَّجِ بِمَقَامِ الْاَكْمَلِيَّةِ، عَلٰى سَآئِرِ الْبَرِيَّةِ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ الْخُصُوْصِيَّةِ، فِیْ حَضْرَةِ الرُّبُوْبِيَّةِ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّتِمُّ نُوْرُهُمَا وَ يَدُوْمُ لَنَآ اَبَدًا، وَّ يَتَجَدَّدُ ثَوَابُهُمَا وَلَا يَنْقَطِعُ سَرْ مَدًا،

اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ الرَّسُوْلِ مِرْآةِ الذَّاتِ، وَ مَظْهَرِ الصِّفَاتِ، وَ حَضْرَةِ السُّبُحَاتِ، ذِی الْحَنَانِ الْاَعْظَمِ، وَ الْعَطَآءِ الْاَكْرَمِ، وَ النُّوْرِ الْخَارِقِ، وَ الْعِلْمِ الْفَارِقِ، وَ الْجَمَالِ الْيَتِيْمِ، وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، وَ الْهُدَى الْقَوِيْمِ، وَ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ، وَ الْعِزِّ الْمُحَقَّقِ، وَ الْمَقَامِ الْاَعْلٰى، وَ الشَّرَفِ الْاَعْلٰى، وَ السِّرِّ الْاَجْلٰى، وَ الْمَوْرِدِ الْاَحْلٰى، وَ الْبَاطِنِ الْاَنْقٰى، وَ الْقَلْبِ الْاَتْقٰى، وَ اللِّسَانِ الْمُعَرَّبِ، وَ الْحَنَانِ الْمُقَرَّبِ، وَ الْحَلَالِ الظَّاهِرِ، وَ الْعُنْصُرِ الطَّاهِرِ، وَ الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ، وَ النِّعْمَةِ الْكَامِلَةِ، مُبْتَدَاِ الْاَمْرِ وَ الْخِتَامِ، وَ وَاسِطَةِ عِقْدِ النِّظَامِ، طِرَزِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ، وَ مُسْتَوْدَعِ خَزَآئِنِ الرَّحَمُوْتِ، قُطْبِ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ، وَ مَعْدِنِ فَيْضَانِ الْجُوْدِ، اِنْسَانِ عَيْنِ الْكَمَالِ، وَ فَخْرِ الْمَزَايَا وَ الْخِصَالِ، مُتَفَجِّرِ يَنَابِيْعِ الْحِكَمِ، وَ مُؤَيِّدِ اَخْلَاقِ الْهِمَمِ، لَطِيْفَةِ سِرِّ الْخِلَافَةِ الْاٰدَمِيَّةِ، الْمُشْتَمِلَةِ الْمُشْتَهِرَةِ بِالْاَنْوَارِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، خَصَّهَا اللهُ تَعَالٰى بِصَلَاةٍ يَّرْضَاهَا لِتِلْكَ اللَّطِيْفَةِ الْاَحْمَدِيَّةِ، وَ سَلَامٍ عَاطِرٍ عَلَيْهَا مِنْ مَّرْتَبَةٍ مَّوْلَوِيَّةٍ، اَبَدًا مِّنْ رَّبِّ الْبَرِيَّةِ، ثُمَّ مِنْ عَبْدٍ حَقِيْرٍ مُّعْتَرِفٍ ۔ بِالتَّقْصِيْرِ، يَرْجُو الصِّلَاتِ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ،

اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى هٰذَا الْحَبِيْبِ الْمَظْهَرِ التَّآمِّ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النِّظَامِ، فَاتِحِ خَزَآئِنِ الْمَعَارِفِ، وَ مُفِيْضِ الْاَسْرَارِ، وَ اللَّطَآئِفِ، نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ، مَعْدِنِ الْجُوْدِ، وَ مَدَدِ الْوُجُوْدِ، وَ سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ، مَّقَرِّ التَّنَزُّلَاتِ، وَ مَجْلَى التَّجَلِّيَاتِ، بِالْمَعْنَى الرُّوْحِیْ، وَ السِّرِّ السُّبُّوْحِیْ، سِرَاجِ الْعَالَمِ، وَ مَقْصُوْدِ الْعِلْمِ مِنَ الْعُلُوْمِ لِلْعَالِمِ، رُوْحِ الْاَرْوَاحِ، وَلَطِيْفَةِ الْاِرْتِيَاحِ، اِنْسَانِ عَيْنِ الْاَعْيَانِ، فِیْ جَمِيْعِ دَوْرَاتِ الزَّمَانِ، مُبَلِّغِ الْمَقَاصِدِ السَّنِيَّةِ، لِاَرْبَابِ الْهِمَمِ الْعَلِيَّةِ، فِی الْحَضَرَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، بَهْجَةِ الْاَنْوَارِ الْمُتَاَلِّقَةِ، فِی الْمَظَاهِرِ الصِّبَاحِ، وَ اُنْسِ خَفَرِ الْوُجُوْهِ الْمَقْبُوْلَةِ الْمِلَاحِ، مُرْشِدِ الْعُقُوْلِ وَ مُطَمْئِنِ الْقُلُوْبِ وَ هَادِی النُّفُوْسِ، وَ مُنَوِّرِ الْاَرْوَاحِ وَ دَاعِيْهَآ اِلَى الْحُضُوْرِ فِیْ حَضْرَةِ الْقُدُّوْسِ، خَطِيْبِ خُطْبَةِ الْوِصَالِ، لِخِطَابِ الْاِتِّصَالِ، بِذِی الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ، مِنْ اَهْلِ الْكَمَالِ، اِمَامِ اَهْلِ الْعِرْفَانِ، فِیْ حَضْرَةِ الْاِحْسَانِ، اَللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامًا تُعَرِّفُنَا بِهٖ اَسْرَارَ مَعَارِفِ دَآئِرَتِهِ الْكُلِّيَّةِ، كَمَا تُعَرِّفُنَا فِیْ دَآئِرَتِنَا الْجُزْئِيَّةِ، اَللّٰهُمَّ حَقِّقْنَا بِحَقَآئِقِ عُلُوْمِهٖ وَ بَيَانِهٖ، فِیْ حَضَرَاتِ عِيَانِهٖ، وَ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ ۔ بَرَكَاتِ تَنَزُّلَاتِهٖ، مَا نَفُوْزُ بِهٖ مِنْ لَّحَظَاتِهٖ، فِیْ جَمِيْعِ حَضَرَاتِهٖ، اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ خُصُوْصِيَّتِهٖ خُصَّنَا بِخَوَاصِّ مَعَارِفِهِ الَّتِیْ وَرِثَهَا عَنْهُ اَهْلُ الْخُصُوْصِيَّةِ، حَتّٰى صَارُوْا بِهَا فِیْٓ اَكْمَلِ

خِلْعَةٍ بَيْنَ الْبَرِيَّةِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُلُوْبَنَا مَعْمُوْرَةً بِمَعَارِفِهِ الْعِلْمِيَّةِ، وَ اَرْوَاحَنَا مُنَوَّرَةً بِاَنْوَارِ السَّنِيَّةِ، وَ عُقُوْلَنَا تَابِعَةً لِمَاۤ اُمُوْرَاتِهٖ، وَ نُفُوْسَنَا مَحْجُوْرَةً بِمَنْهِيَّاتِهٖ، وَ اَبْدَانَنَا مُنْقَادَةً لِتَعْظِيْمِ ذٰلِكَ الْهُدٰى، مَا اَحْيَيْتَنَا اَبَدًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَيَاتَنَا عَلٰى سُنَّتِهٖ، وَ مَوْتَنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ، وَ اجْعَلْهُ الْمُجِيْبَ عَنَّا فِي الْبَرْزَخِ عِنْدَ السُّؤَالِ، اَلشَّفِيْعَ لَنَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّكَالِ وَ عَظِيْمِ الْاَهْوَالِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا مُجِيْرًا مِّنْ عَذَابِكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا جَارًا فِيْ دَارِ ثَوَابِكَ، مِنْ غَيْرِ سَابِقِ عَذَابٍ وَّ امْتِحَانٍ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِشُهُوْدِ طَلْعَتِهٖ فِي الدَّارَيْنِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَنِيْسًا فِي الْكَوْنَيْنِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا عِنْدَهٗ مِنْ اَهْلِ الْعِنَايَةِ، فِي الْبِدَايَةِ وَ النِّهَايَةِ، اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ وَ اٰلِهٖ وَ مَنْ وَّالَاهُ وَ اَحَبَّهٗ مِمَّنْ سَلَفَ مِنَ الْاُمَمِ، وَ خَلَفَهُمْ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مِنْ هٰذَا الطَّرِيْقِ الْاَمَمِ، وَ السَّلَامُ مِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ مُعَادًا وَّ الرَّحْمَةُ وَ الْبَرَكَةُ فِيْ كُلِّ سُكُوْنٍ وَّ حَرَكَةٍ، اٰمِيْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰدَمَ وَّ حَوَّآءَ وَ عَلٰى شِيْثٍ وَّ نُوْحٍ وَّ عَلٰى دَاوٗدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ عَلٰى يَعْقُوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ عَلَى الْخِضْرِ وَ اِلْيَاسَ وَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ سِرَاجِ الْعَالَمِيْنَ، وَ عَلَمِ الْمُهْتَدِيْنَ، وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، سِرِّكَ الْمَكْنُوْنِ، وَ غَيْبِكَ الْمَخْزُوْنِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ، وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عِزْرَآئِيْلَ وَ عَلٰى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ الْكَرُوْبِيِّيْنَ، وَ عَلٰى زُوَّارِ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ عَلٰى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ اَجْمَعِيْنَ، وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

سُبْحَانَكَ اَنْتَ الَّذِيْ خَصَّصْتَ اَهْلَ الْعِنَايَةِ، وَ مَنَحْتَهُمْ خِلَعَ الْهِدَايَةِ، فَمَا نَالُوْا فَضْلَكَ اِلَّا بِفَضْلِكَ وَلَا وَلَجُوْا حَضْرَتَكَ اِلَّا بِنَظْرَتِكَ وَ مَا اَحَبُّوْكَ حَتّٰى اَحْبَبْتَهُمْ، وَلَا اَقْبَلُوْا عَلَيْكَ حَتّٰى نَادَيْتَهُمْ، فَنَسْئَلُكَ بِهٰذَا الْوِدَادِ السَّابِقِ، اَنْ تَقْسِمَ لَنَا مِنْهُ قِسْمَةً بَيْنَ هٰذِهِ الْخَلَائِقِ، بِسِرِّ الْاَسْمَآءِ الْحُسْنٰى، بِالْعَظِيْمِ مِنْهَا، بِسِرِّ الْمَحَامِدِ، مِنْ عَبْدِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْمَحْمُوْدِ الْحَامِدِ بِلِوَآءِ الْحَمْدِ، بِالْكِبْرِيَآءِ بِالْمَجْدِ، بِسُجُوْدِ حَبِيْبِكَ تَحْتَ سَاقِ الْعَرْشِ بِاِكْرَامِ قَوْلِكَ لَهٗ اِرْفَعْ رَأْسَكَ بِعِنَايَةِ قَوْلِكَ سَلْ تُعْطَ نَسْاَلُكَ الْاِجَابَةَ وَ الْفَوْزَ بِالنَّصْرِ وَ الْعَوْنَ وَ الْعَطَآءَ اللَّائِقَ بِكَ لَا بِنَا مِنْ حَيْثُ كُنْهُ سِعَةِ جُوْدِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مُلْكِكَ مِمَّا لَا يَحْصُلُ بِسُؤَالٍ، وَّلَا يَخْطُرُ عَلٰى بَالٍ، فِي الْحَالِ وَ الْمَآلِ، عَطَآءً مُّتَّصِلًا بِالْمَدَدِ، مَا دَامَ الْاَبَدُ، وَ نَسْئَلُكَ سُبْحَانَكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى عَيْنِ الْوُجُوْدِ، اَلنُّوْرِ الْمَشْهُوْدِ، صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ، وَسِيْلَةِ اٰدَمَ اَبِي الْبَشَرِ، وَ الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ، مُمِدِّ الْاَرْوَاحِ، وَ مُنْعِشِ الْاَشْبَاحِ، دَالِّ الْخَلْقِ عَلَيْكَ، وَ مُوَجِّهِهِمْ اِلَيْكَ، بَهْجَةِ الطُّرُوْسِ، وَ مُهَذِّبِ النُّفُوْسِ، مُفِيْضِ الْمَعَارِفِ عَلَى الْقُلُوْبِ، مِنْ حَظَرَاتِ

الْمَلَكُوْتِ وَ الْغُيُوْبِ، قَلَمِ التَّجَلِّي الْاَوَّلِ لَوْحِ التَّجَلِّي الثَّانِي سِرِّ الْاَحَدِيَّةِ، نُوْرِ الْوَاحِدِيَّةِ، حَضْرَةِ الذَّاتِ، مُشْرِقِ الصِّفَاتِ، فَاتِحِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ نِظَامِ الْاَبَدِ صَلَاةً مُّقَدَّسَةً مُّطَهَّرَةً، كَامِلَةً مُّنَوَّرَةً، تَخُصُّهٗ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِمَا هُوَ فِيْ عِزَّةٍ وَصْفِهِ الْفَرِيْدِ، الَّذِيْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيْهِ اَحَدٌ مِّنَ الْعَبِيْدِ، مَا دَامَ شَرَفُهُ السَّامِيْ يَعْلُوْ عَلَى الرُّسُلِ وَ الْاَنْبِيَاءِ، وَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَ عَلٰى كُلِّ الْاَوْلِيَآءِ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ، سَلَامًا يَّبْلُغُهٗ هُنَالِكَ، وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ لَّآلِئِ بَحْرِهِ الْعَشَرَةِ الْكِرَامِ، وَ عَنْ بَقِيَّةِ اَصْحَابِهِ الْعِظَامِ، نَسْئَلُكَ سُبْحَانَكَ الْمَزِيْدَ مِنْ فَضْلِكَ اٰمِيْنَ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَامِعِ الْعُلُوْمِ وَ مُفِيْدِهَا وَ اِمَامِ الرُّسُلِ وَ خَطِيْبِهَا رُوْحِ اُنْسِ كُلِّ حَضْرَةٍ، وَّ ارْتِيَاحِ كُلِّ بَهْجَةٍ وَّ نَظْرَةٍ، مِّفْتَاحِ الْغَيْبِ الْاَزَلِيِّ، وَ خِتَامِ السِّرِّ الْكُلِّيِّ، حَائِزِ الصِّفَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، وَ جَلِيْسِ الْحَضْرَةِ الْعِنْدِيَّةِ، نِهَايَةِ الْحَقِيْقَةِ، وَ دَلَالَةِ الطَّرِيْقَةِ، سَيِّدِ التَّكْوِيْنِ، فِيْ سَابِقِ التَّعْيِيْنِ، تَاجِ مَفْرِقِ الْوُجُوْدِ، وَ وَاسِطَةِ دُرِّ الْعُقُوْدِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْجَلَالِ، وَ اَحْمَدِ الْخِلَالِ، رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، وَ وَلِيِّ النِّعْمَةِ، صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا صَلَاةً اِتِّصَالِكَ بِمَرَاتِبِ كَمَالِكَ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ عِنَايَتِكَ بِمَدَدِ كَرَامَتِكَ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

صَلِّ اللّٰهُمَّ فِي الْاَدْوَارِ، بِكَمَالِ الْاَنْوَارِ، عَلٰى خَيْرِ الْاَبْرَارِ، وَ اَبَرِّ الْاَخْيَارِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمِعْرَاجِ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ وَ التَّاجِ، يَا رَبِّ بَلِّغْ اِلَيْهِ، دَآئِمًا سَلَامِيْ عَلَيْهِ، اَلْمُصْطَفَى الْمُصَفّٰى، اَلتَّقِيِّ النَّقِيِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، اَلسَّيِّدِ السَّنَدِ، الْمُمِدِّ الْمَدَدِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، صَلَّى اللهُ بِالْمَلَاِ، فِي الْاَرْضِ وَ فِي الْعُلَا، عَلٰى رُوْحِ ذِي الْوُجُوْدِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْمَحْمُوْدِ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ فِي الْمَسَآءِ وَ فِي الصَّبَاحِ، عَلٰى ذَاكَ الرُّوْحِ، بِالْاَفْرَاحِ فِي الْاَرْوَاحِ صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ بِالْاٰبَادِ، عَلٰى سَيِّدِ الْاَسْيَادِ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ بِالْاِكْمَالِ، عَلَى الْمُفْرَدِ فِي الْكَمَالِ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ، عَلٰى غَايَةِ النِّعْمَةِ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ بِالْمَزِيْدِ، عَلَى الْفَرْدِ الْفَرِيْدِ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ بِالْاِكْرَامِ، عَلٰى فَخْرِ الْكِرَامِ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ بِالتَّعْظِيْمِ عَلَى الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا اِلٰهِيْ يَا بَدِيْعُ، عَلٰى حَبِيْبِكَ الْجَلِيْلِ الرَّفِيْعِ، صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا اِلٰهِيْ يَا صَبُوْرُ، عَلٰى نَبِيِّكَ الْحَامِدِ الشَّكُوْرِ، صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا اِلٰهِيْ عَلَى الْمُعَظَّمِ الْبَاهِيْ، صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا حَمِيْدُ، عَلٰى سَيِّدِ الْعَبِيْدِ، صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا سَلَامُ، عَلَى الْمُعَلِّمِ لِلْاِسْلَامِ، صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا رَبِّيْ، عَلَى الْمُشَفَّعِ فِيْ ذَنْبِيْ، صَلِّ وَ سَلِّمْ فِي الْعُلَا بِالرَّحَمُوْتِ عَلَى الْوَجِيْهِ فِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ، صَلَّى اللهُ بِالتَّعْظِيْمِ فِي الْاَطْرَاسِ، عَلٰى مُعَطِّرِ الْوُجُوْدِ بِالْاَنْفَاسِ، صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، فِي الْحَضَرَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، وَ بَلِّغْ اِلَيْهِ، سَلَامَنَا عَلَيْهِ، عَلَى الدَّوَامِ بِالْاِكْرَامِ، صَلِّ عَلَيْهِ مَعَ السَّلَامِ، بِالشَّفِيْعِ فِي الْبَرَايَا لَا تُؤَاخِذْنَا بِالْخَطَايَا.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَقْبُوْلِ الشَّفَاعَةِ، مَنْ جَعَلْتَ طَاعَتَهٗ لَكَ طَاعَةً، وَّ قَدَّمْتَهٗ فِي الْقِدَمِ، فَكَانَ لَهُ الْقَدَمُ عَلٰى كُلِّ ذِيْ قَدَمٍ، مَنْ عَيَّنْتَهٗ فِي التَّعَيُّنِ الْاَوَّلِ، بِالْمَقَامِ الْاَكْمَلِ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِكَمَالِ النِّظَامِ، وَ جَعَلْتَهٗ لَبِنَةَ التَّمَامِ، اِمَامِ جَامِعِ الْاُنْسِ، وَ خَطِيْبِ حَضْرَةِ الْقُدْسِ، مَظْهَرِ حَقِيْقَةِ الْوُجُوْبِ الْمُنَزَّهِ، وَ مَظْهَرِ اِمْكَانِ

الْجَمَالِ الْاَنْزَهِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْجَلَالِ، وَ اَحْمَدِ الْجَلَالِ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ الْخُصُوصِيَّةِ فِيْ حَضْرَ
الدَّيْمُوْمِيَّةِ، وَاَتَوَسَّلُ بِهٖۤ اِلَيْكَ اِلٰهِيْ، فِي الْبُعْدِ عَنْ كُلِّ لَاهِيْ، وَ اَسْئَلُكَ الْقُرْبَ اِلَيْكَ، وَ الْاِعْتِمَادَ عَلَيْكَ
اِلٰهِيْ بَسَطْتُ يَدَ الْفَاقَةِ وَ الْاِفْتِقَارِ، وَ جِئْتُ بِحَالَةِ الذِّلَّةِ وَ الْاِنْكِسَارِ، وَ قَدْ وَقَفْتُ بِالْبَابِ، وَ تَوَسَّلْتُ
بِالْاَحْبَابِ فَاَجِبْ سُؤَالِيْ وَلَا تُخَيِّبْ آمَالِيْ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ الْوُجُوْدِ، عَلٰى سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ، اَفْضَلَ مَنْ صَلّٰى وَ تَلَا، وَ عَبَدَ رَبَّهٗ فِي الْخَلْوَةِ وَ
الْمَلَا، صَفْوَةِ اَهْلِ الْاِصْطِفَا، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُصْطَفٰى، وَ سَلِّمْ اَبَدًا كَذٰلِكَ، مِنْ كُلِّ وَارِثٍ وَّ
مَوْرُوْثٍ وَّ سَالِكٍ، وَّ مِنْ جَمِيْعِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ، آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ فِي الْاَزَالِ، بِمَرَاتِبِ التَّكْمِيْلِ بَعْدَ الْكَمَالِ، حَائِزِ الْفَضِيْلَةِ، وَ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ،
فَاتِحِ خَزَآئِنِ الْاَسْرَارِ، وَ خَاتِمِ دَوْرَاتِ الْاَنْوَارِ، رَوْنَقِ كُلِّ اِشَارَةٍ لَّطِيْفَةٍ، تُشِيْرُ اِلٰى كَمَالِ الْمَعَالِي الْمُنِيْفَةِ،
بِالْاِشَارَاتِ الْعِرْفَانِيَّةِ، فِي الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ، ذِي الْجَنَابِ الرَّفِيْعِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالشَّفِيْعِ، صَلِّ
اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً اُنْسِ جَمَالِهٖ، فِيْ مَقَامَاتِ كَمَالِهٖ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْآلِ وَ الْاَصْحَابِ، سَلَامَ الْمُحِبِّ
عَلَى الْاَحْبَابِ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَضْرَةِ ۨالْاَسْرَارِ، وَ مَنْبَعِ الْاَنْوَارِ، مُطَهِّرِ النُّفُوْسِ مِنَ الرَّذَآئِلِ، وَ اَجْمَلِ مَوْلُوْدٍ فِيْ سَائِرِ
الْقَبَآئِلِ، عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ اِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدُسِيَّةِ، مُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَ اَعْلَمِ الْخَلْقِ، وَ نَاصِحِ الْاُمَّةِ وَ
مُرْشِدِهَآ اِلَى الْحَقِّ، اَكْرَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
السَّادَاتِ، وَ قُطْبِ دَوَآئِرِ السَّعَادَاتِ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَلٰى قَدْرِ مَقَامِهٖ، وَ اِجْلَالِهٖ وَ اِعْظَامِهٖ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى
وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ بِجَمِيْعِ الشُّؤُوْنِ، فِي الظُّهُوْرِ وَ الْبُطُوْنِ، عَلٰى مَنْ مِّنْهُ اِنْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ الْكَامِنَةُ فِيْ ذَاتِهِ
الْعَلِيَّةِ ظُهُوْرًا، وَّ اِنْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ الْمُنْطَوِيَّةُ فِيْ سَمَآءِ صِفَاتِهِ السَّنِيَّةِ بُدُوْرًا، وَّ فِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَآئِقُ مِنْهُ
اِلَيْهِ، وَ تَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ آدَمَ بِهٖ فِيْهِ عَلَيْهِ، فَاَعْجَزَ كُلًّا مِّنَ الْخَلَآئِقِ فَهْمُ مَآ اُوْدِعَ مِنَ السِّرِّ فِيْهِ، وَ لَهٗ تَضَآءَلَتِ
الْفُهُوْمُ وَ كُلٌّ عَجْزُهٗ يَكْفِيْهِ، فَذٰلِكَ السِّرُّ الْمَصُوْنُ لَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ فِيْ وُجُوْدِهٖ، وَلَا يَبْلُغُهٗ لَاحِقٌ عَلٰى
سَوَابِقِ شُهُوْدِهٖ، فَاَعْظِمْ بِهٖ مِنْ نَّبِيٍّ رِّيَاضُ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ الزَّاهِرِ مُوْنِقَةٌ، وَّ حِيَاضُ
مَعَالِمِ الْجَبَرُوْتِ بِفَيْضِ اَنْوَارِ سِرِّهِ الْبَاهِرِ مُتَدَفِّقَةٌ، وَّلَا شَيْءَ اِلَّا وَ هُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ، وَّ بِسِرِّهِ السَّارِيْ مَحُوْطٌ، اِذْ
لَوْلَا الْوَاسِطَةُ فِيْ كُلِّ صَعُوْدٍ وَّ هُبُوْطٍ، لَذَهَبَ كَمَا قِيْلَ الْمَوْسُوْطُ، صَلَاةً تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ، وَ تَتَوَارَ
دُ بِتَوَارُدِ الْخَلْقِ الْجَدِيْدِ وَ الْفَيْضِ الْمَدِيْدِ عَلَيْهِ، وَ سَلَامًا يُّجَارِيْ هٰذِهِ الصَّلَاةَ فَيْضُهٗ وَ فَضْلُهٗ، كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ،
وَ عَلٰى آلِهٖ شُمُوْسِ سَمَآءِ الْعُلَا، وَ اَصْحَابِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ وَ مَنْ تَلَا. اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ سِرُّكَ الْجَامِعُ لِكُلِّ الْاَسْرَارِ، وَ
نُوْرُكَ الْوَاسِعُ لِجَمِيْعِ الْاَنْوَارِ، وَ دَلِيْلُكَ الدَّآلُّ بِكَ مِنْكَ عَلَيْكَ، وَ قَآئِدُ رَكْبِ عَوَالِمِكَ اِلَيْكَ، وَ حِجَابُكَ
الْاَعْظَمُ الْقَآئِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا يَصِلُ وَاصِلٌ اِلَّآ اِلٰى حَضْرَتِهِ الْمَانِعَةِ، وَلَا يَهْتَدِيْ حَآئِرٌ اِلَّا بِاَنْوَارِهٖ

الَّامِعَةِ. اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنِیْ بِنَسَبِهِ الرُّوْحِیِّ ، وَ حَقِّقْنِیْ بِحَسَبِهِ السُّبُوْحِیِّ، وَ عَرِّفْنِیْ اِيَّاهُ مَعْرِفَةً اَشْهَدُ بِهَا مُحَيَّاهُ، وَ اَصِيْرُ بِهَا مَجْلَاهُ، كَمَا يُحِبُّهُ وَ يَرْضَاهُ، وَ اَسْلَمُ بِهَا مِنْ وُّرُوْدِ مَوَارِدِ الْجَهْلِ بِعَوَارِفِهِ، وَ اَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ بِمَعَارِفِهِ، وَ احْمِلْنِیْ عَلٰی نَجَائِبِ لُطْفِكَ، وَ رَكَائِبِ حَنَانِكَ وَ عَطْفِكَ، وَ سِرْ بِیْ فِیْ سَبِيْلِهِ الْقَوِيْمِ، وَ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيْمِ، اِلٰی حَضْرَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَضْرَتِكَ الْقُدْسِيَّةِ، الْمُتَجَلِّيَةِ بِتَجَلِّيَاتِ مَحَاسِنِهِ الْاُنْسِيَّةِ، حَمْلًا مَّحْفُوْفًا بِجُنُوْدِ نُصْرَتِكَ، مَصْحُوْبًا بِعَوَالِمِ اُسْرَتِكَ، وَ اقْذِفْ بِیْ عَلَی الْبَاطِلِ بِاَنْوَاعِهِ، فِیْ جَمِيْعِ بِقَاعِهِ فَاَدْمَغَهُ بِالْحَقِّ، عَلَی الْوَجْهِ الْاَحَقِّ، وَ زُجَّ بِیْ فِیْ بِحَارِ الْاَحَدِيَّةِ الْمُحِيْطَةِ، بِكُلِّ مُرَكَّبَةٍ وَّ بَسِيْطَةٍ، وَّ انْشُلْنِیْ مِنْ اَوْحَالِ التَّوْحِيْدِ، اِلٰی فَضَاءِ التَّفْرِيْدِ، الْمُنَزَّهِ عَنِ الْاِطْلَاقِ وَ التَّقْيِيْدِ، وَ اَغْرِقْنِیْ فِیْ عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ شُهُوْدًا، حَتّٰی لَآ اَرٰی وَلَآ اَسْمَعَ وَلَآ اَجِدَ وَلَآ اُحِسَّ اِلَّا بِهَا نُزُوْلًا وَّ صُعُوْدًا، كَمَا هُوَ كَذٰلِكَ لَنْ يَّزَالَ وُجُوْدًا، وَّ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ الْحِجَابَ الْاَعْظَمَ حَيَاةَ رُوْحِیْ كَشْفًا وَّ عِيَانًا، اِذِ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ رَحْمَةً مِّنْكَ وَ حَنَانًا، وَّ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ رُوْحَهُ سِرَّ حَقِيْقَتِیْ ذَوْقًا وَّ حَالًا، وَ حَقِيْقَتَهُ جَامِعَ عَوَالِمِیْ فِیْ مَجَامِعِ مَعَالِيْمِیْ حَالًا وَّ مَالًا، وَّ حَقِّقْنِیْ بِذٰلِكَ، عَلٰی مَا هُنَالِكَ، بِتَحْقِيْقِ الْحَقِّ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ وَ الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ، يَآ اَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، يَآ اٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، يَاظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، يَابَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِسْمَعْ نِدَآئِیْ فِیْ بَقَآئِیْ وَ فَنَآئِیْ، بِمَا سَمِعْتَ بِهٖ نِدَآءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا، وَ اجْعَلْنِیْ عَنْكَ رَاضِيًا وَّ عِنْدَكَ مَرْضِيًّا وَّ انْصُرْنِیْ بِكَ لَكَ، عَلٰی عَوَالِمِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الْمَلَكِ، وَ اَيِّدْنِیْ بِكَ لَكَ، بِتَأْيِيْدِ مَنْ سَلَكَ وَمَلَكَ، وَ مَنْ مَّلَكَ فَسَلَكَ، وَ اجْمَعْ بَيْنِیْ وَ بَيْنَكَ، وَ اَزِلْ عَنِ الْعَيْنِ غَيْنَكَ، وَ حُلْ بَيْنِیْ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ، وَ اجْعَلْنِیْ مِنْ اَئِمَّةِ خَيْرِكَ وَ مَيْرِكَ، (اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ) اَللّٰهُ مِنْهُ بُدِئَ الْاَمْرُ، اَللّٰهُ الْاَمْرُ اِلَيْهِ يَعُوْدُ، اَللّٰهُ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ وَ مَا سِوَاهُ مَفْقُوْدٌ، {اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ} فِیْ كُلِّ اِقْتِرَابٍ وَّ اِبْتِعَادٍ، وَّ اِنْتِهَاضٍ وَّ اِقْتِعَادٍ {رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا} وَ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اهْتَدٰی بِكَ فَهُدٰی، حَتّٰی لَا يَقَعَ مِنَّا نَظَرٌ اِلَّا عَلَيْكَ وَلَا يَسِيْرَ بِنَا وَطَرٌ اِلَّآ اِلَيْكَ، وَ سِرْ بِنَا فِیْ مَعَارِجِ مَدَارِجِ {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَ سَلِّمْ مِنَّا عَلَيْهِ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَ اَكْمَلَ التَّسْلِيْمِ، فَاِنَّا لَا نَقْدِرُ قَدْرَهُ الْعَظِيْمَ، وَلَا نُدْرِكُ مَا يَلِيْقُ بِهٖ مِنَ الْاِحْتِرَامِ وَ التَّعْظِيْمِ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ سَلَامُهٗ وَ تَحِيَّاتُهٗ وَ رَحْمَتُهٗ وَ بَرَكَاتُهٗ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ. (از سيدی العربی الدرقاوی رضی الله عنه)

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ، وَ الْبَرَكَةِ الْكَامِلَةِ، جَامِعِ الْحَقَآئِقِ وَ اَفْضَلِ الْخَلَآئِقِ، حَضْرَةِ حَظِيْرَةِ حَظَاهِرِ قُدْسِكَ الْجَامِعِ، وَ نُوْرِ اَنْوَارِكَ اللَّامِعِ، وَ عَبْدِ عُبُوْدِيَّةِ مَوْضُوْعِكَ الْمُتَوَاضِعِ، الَّذِیْ اِخْتَرْتَهُ قَبْلَ سَوَابِقِ السَّوَابِقِ، وَ اَلْحَقْتَهُ بَعْدَ لَوَاحِقِ اللَّوَاحِقِ، وَ اَبْقَيْتَهُ بِكَ وَ مَحَقْتَ عَنْهُ اٰثَارَ الْبَقِيَّةِ، وَ نَزَعْتَ مِنْ صَدْرِهٖ غِلَّ الْغُلُوْلِ النَّفْسِيَّةِ، وَ بَشَرْتَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ رُوْحِ الْجَبَرُوْتِ رُعُوْنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَ رَفَعْتَهُ اِذْ رَفَعْتَ عَنْهُ بِتَخْلِيْقِ اَخْلَاقِهٖ حِجَابَ الْاَخْلَاقِ الْخَلْقِيَّةِ، وَ جَعَلْتَهُ مَوْضُوْعًا لِّمَحْمُوْلِكَ، وَ لَوْحًا حَافِظًا

لِّكَلِمَاتِ مَقُوْلِكَ، وَ كُرْسِيًّا وَّاسِعًا لِّمُتَفَرِّقَاتِ مَجْمُوْعِكَ، وَصَرَّفْتَ قُوَّةَ قُدْرَتِهٖ فِيْ اَمْلَاكِ اَفْلَاكِ الدَّائِرَةِ، وَ اَطْلَعْتَ فِيْ مَطَالِعِ آفَاقِهٖ مَصَابِيْحَ كَوَاكِبِ اَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ، وَ بَسَطْتَ بِسَاطَ بَسْطَتِهٖ قَرَارًا لِقُرَّةِ الْاَعْيُنِ النَّاظِرَةِ، فَفِيْ جِلَآءِ مِرْآةِ رَأْيِهِ الْجَلِيْلِ انْجَلٰى تَجَلِّيْ جَمَالِهٖ وَ جَلَالِهٖ، وَ عَلٰى اَعْلٰى تَعَالٰى هِمَمِ اهْتِمَامِهٖ مَا طَارَ تَصَوُّرُ صُوْرَةِ كَمَالِهٖ، الَّذِيْ جَاوَزَتْ بِهٖ حُزُوْنَ الْحُزْنِ فَبَاشَرَ الْبُشْرٰى لِاِصَابَةِ الصَّوَابِ، وَ اَمِنَتْ اِيْمَانَ تَمَنِّيْهِ مِنَ النَّكْصِ عَلَى الْاَعْقَابِ فِيْ عِقَابِ الْعِقَابِ، وَ خَلَّصَتْ اِخْلَاصَهٗ مِنْ آثَارِ التَّلَفُّتِ لِمَثُوْبَاتِ الثَّوَابِ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ رَيْبٍ، وَلَا عُرْوَةُ عَيْبٍ لَّا يَأْنَسُ بِالْخَلْقِ، وَلَا يَسْتَوْحِشُ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا تَلْحَظُ لِوَاحِظُ مُلَاحَظَتِهٖ عَيْنَ جَمْعِ الْجَمْعِ فِيْ عَيْنِ الْفَرْقِ، اَلْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، وَ الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ، وَ الرُّوْحِ الْمُنْعَمِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ وَ اَخَوَيْهِ مُوْسَى الْكَلِيْمِ وَ عِيْسَى الْاَمِيْنِ، وَ عَلٰى دَاوٗدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْاَوْلِيَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ، وَ الْاَئِمَّةِ وَ الْمُقْتَدِيْنَ، وَ الْاُمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ وَ تَاهَتِ الْعُقُوْلُ فِيْ حَضْرَةِ الذَّاتِ، وَ تَرَوَّحَتِ النُّفُوْسُ النَّفْسِيَّةُ بِالْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، وَ ظَهَرَ شَاهِدُ الْحَقِّ لِلْاَرْوَاحِ، وَ تَبَدَّلَتِ الذَّاكِرِيَّةُ بِالْذَّكُوْرَةِ وَقْتَ حُصُوْلِ الْفَلَاحِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔ (از سیدی البرہان النعمانی)

48 اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهٗ وَ تَحِيَّاتُهٗ وَ بَرَكَاتُهٗ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوِتْرِ وَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ وَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ وَ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللهُ وَ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ زِنَةَ مَا خَلَقَ وَ زِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ مَا خَلَقَ وَ مِلْءَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ سَمٰوَاتِهٖ وَ مِلْءَ اَرْضِهٖ وَ اَمْثَالَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ وَ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَ مُنْتَهٰى رَحْمَتِهٖ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ وَ مَبْلَغَ رِضَاهُ حَتّٰى يَرْضٰى وَ اِذَا رَضِيَ وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ فِيْمَا مَضٰى وَ عَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْهُ فِيْمَا بَقِيَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ وَّ شَهْرٍ وَّ جُمُعَةٍ وَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ وَّ سَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَ شَمٍّ وَّ نَفْسٍ وَّ لَمْحَةٍ وَّ طَرْفَةٍ مِّنَ الْاَبَدِ اِلَى الْاَبَدِ اَبَدِ الدُّنْيَا وَ اَبَدِ الْآخِرَةِ وَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَا يَنْقَطِعُ اَوَّلُهٗ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهٗ۔ (از سیدی عبداللہ بن اسعد الیافعی)

49 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَحْيِ قَلْبِيْ وَ اَمِتْ نَفْسِيْ حَتّٰى اَحْيَا بِكَ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (از سیدی عبداللہ بن اسعد الیافعی)

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ بِنُوْرِهِ الظُّلَمُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّكُلِّ الْاُمَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَارِ لِلسِّيَادَةِ وَ الرِّسَالَةِ قَبْلَ

خَلْقِ اللَّوحِ وَ الْقَلَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَوْصُوْفِ بِاَفْضَلِ الْاَخْلَاقِ وَ الشِّيَمِ،
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَ خَوَاصِ الْحِكَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ لَا تُنْتَهَكُ فِىْ مَجَالِسِهِ الْحُرَمُ، وَلَا يُغْضِىْ عَمَّنْ ظَلَمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ اِذَا مَشٰى تُظَلِّلُهُ الْغَمَامَةُ حَيْثُمَا يَمَّمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ
الَّذِىْ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَ اَقَرَّ بِرِسَالَتِهٖ وَ صَمَّمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ
اَثْنٰى عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ فِىْ سَالِفِ الْقِدَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ رَبُّنَا فِىْ
مُحْكَمِ كِتَابِهٖ وَ اَمَرَ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَ يُسَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ مَا انْهَلَّتِ الدِّيَمُ، وَ
مَا جُرَّتْ عَلَى الْمُذْنِبِيْنَ اَذْيَالُ الْكَرَمِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ شَرِّفْ وَ كَرِّمْ۔ (از سیدی الفاکہانی)

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ وَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَآئِكَ وَ اَصْفِيَآئِكَ مِنْ
اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمَآئِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ مُنْتَهٰى عِلْمِكَ وَ زِنَةَ
جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ صَلَاةً مُّكَرَّرَةً اَبَدًا عَدَدَ مَآ اَحْصٰى عِلْمُكَ وَ مِلْءَ مَآ اَحْصٰى عِلْمُكَ وَ اَضْعَافَ مَآ اَحْصٰى
عِلْمُكَ صَلَاةً تَزِيْدُ وَ تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ كَفَضْلِكَ عَلٰى جَمِيْعِ
خَلْقِكَ۔ (از کتاب دلائل الخیرات)

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ السَّيِّدِ
الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ، وَ رَحْمَةٌ
لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ م بَقِىَ، وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِىَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ
وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهٰى وَلَا انْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ وَ اَجْرِ يَا مَوْلَانَا خَفِىَّ لُطْفِكَ فِىْ اُمُوْرِنَا
كُلِّهَا وَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ۔ (از الشیخ محمد السنوسی)

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا عُقْدَتِىْ وَ تُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِىْ وَ تُنْقِذُنِىْ بِهَا مِنْ
وَّحْلَتِىْ وَ تُقْبِلُ بِهَا عَثْرَتِىْ وَ تَقْضِىْ بِهَا حَاجَتِىْ۔ (از الشیخ محمد السنوسی رضی اللہ عنہ)

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ اَمْوَاجِ الْبَحْرِ الدَّفِيْقِ، وَ
صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الرَّمْلِ الدَّقِيْقِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَيِّدِ اَهْلِ التَّوْفِيْقِ، وَ
صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَيِّدِ
اَهْلِ التَّحْقِيْقِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عَلِىِّ

بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ سَیِّدِ اَھْلِ التَّدْقِیْقِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ
حَسَنَاتِ اٰلِ الْبَیْتِ وَ عَدَدَ حَسَنَاتِ بَقِیَّةِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِیْنَ وَ تَابِعِیْهِمْ وَ تَابِعِیْ تَابِعِیْهِمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی
اَقْوَمِ طَرِیْقٍ، وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ
الْاَرَضِیْنَ السَّبْعِ وَ مَا بَیْنَهُمَا حَتّٰی تَضِیْقَ۔ (از الشیخ احمد الدیربی کے ذکر کردہ صیغے)

55 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ حَمْدًا یُّوَافِیْ نِعَمَهٗ وَ یُكَافِیْ مَزِیْدَهٗ سُبْحَانَكَ لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً
عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَیْتَ عَلٰی نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتّٰی تَرْضٰی {وَ مَنْ یُّطِعِ اللهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ
اَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیّٖنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِیْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا ذٰلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللهِ وَ كَفٰی بِاللهِ عَلِیْمًا} اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ اَفْضَلَ وَ اَجَلَّ وَ اَكْمَلَ وَ اَنْبَلَ وَ اَطْهَرَ وَ اَزْهَرَ صَلَوَاتِكَ وَ اَوْفٰی
سَلَامِكَ صَلَاةً تَمْتَدُّ وَ تَزِیْدُ بِوَابِلِ سَحَآئِبِ مَوَاهِبِ جُوْدِ كَرَمِكَ، وَ تَنْمُوْ وَ تَزْكُوْ بِنَفَآئِسِ شَرَآئِفِ لَطَآئِفِ
جُوْدِ مِنَنِكَ، دَآئِمَةً ۔ بِدَوَامِكَ بَاقِیَةً ۔ بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰی لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَلَا مُنْتَهٰی لِعِلْمِكَ اَزَلِیَّةً ۔
بِاَزَلِیَّتِكَ لَا تَزُوْلُ، اَبَدِیَّةً ۔ بِاَبَدِیَّتِكَ لَا تَحُوْلُ، عَلٰی عَبْدِكَ وَ نَبِیِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ
حَضْرَتِكَ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، اَلْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ النُّوْرِ السَّاطِعِ، وَ الْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ، وَ الرَّحْمَةِ
الْوَاسِعَةِ، وَ الْحَضْرَةِ الْجَامِعَةِ نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ، وَ طِرَازِ حُلَّةِ الْفَخَارِ، دُرَّةِ صَدَفَةِ الْوُجُوْدِ، وَ
ذَخِیْرَةِ الْمَلِكِ الْوَدُوْدِ، وَ مَنْبَعِ الْفَضَآئِلِ وَ الْجُوْدِ، تَاجِ مَمْلَكَةِ التَّمْكِیْنِ، الرَّؤُوْفِ بِالْمُؤْمِنِیْنَ، وَ نِعْمَةِ اللهِ
عَلَی الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِیْنَ، صَلَاتَكَ الَّتِیْ عَلَیْهِ بِهَآ اَنْعَمْتَ وَ بِفَضَآئِلِهَا لَهٗ اَكْرَمْتَ، وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خَزَآئِنِ
عِلْمِهٖ وَ نُجُوْمِ هِدَایَتِهٖ صَلَاةً تُرْضِیْكَ وَ تُرْضِیْهِ وَ تَرْضٰی بِهَا عَنَّا یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ صَلَاةً تُحَسِّنُ بِهَا اَخْلَاقَنَا،
وَ تُوَسِّعُ بِهَآ اَرْزَاقَنَا، وَ تُزَكِّیْ بِهَآ اَعْمَالَنَا، وَ تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوْبَنَا، وَ تَشْرَحُ بِهَا صُدُوْرَنَا وَ تُطَهِّرُ بِهَا قُلُوْبَنَا، وَ
تُرَوِّحُ بِهَآ اَرْوَاحَنَا وَ تُقَدِّسُ بِهَآ اَسْرَارَنَا، وَ تُنَزِّهُ بِهَآ اَفْكَارَنَا، وَ تُصَفِّیْ بِهَا سَرَآئِرَنَا، وَ تُنَوِّرُ بِهَا بَصَآئِرَنَا، بِنُوْرِ
الْفَتْحِ الْمُبِیْنِ، یَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِیْنَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ صَلَاةً تُنْجِیْنَا بِهَا مِنْ هَوْلِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ نَصَبِهٖ، وَ
زَلَازِلِهٖ وَ تَعَبِهٖ، یَا جَوَّادُ یَا كَرِیْمُ، وَ تَهْدِیْنَا بِهَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ، وَ تُجِیْرُنَا بِهَا مِنْ عَذَابِ الْجَحِیْمِ، وَ
تُنَعِّمُنَا بِهَا بِالنَّعِیْمِ الْمُقِیْمِ ۔ یَا رَبِّ یَآ اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ، نَسْئَلُكَ حَقِیْقَةَ الْاِسْتِقَامَةِ فِیْ حَظَآئِرِ
قُدْسِكَ، وَ مَقَاصِیْرِ اُنْسِكَ، عَلٰی اَرَآئِكِ مُشَاهَدَتِكَ، وَ تَجَلِّیَاتِ مُنَازَلَتِكَ، وَالِهِیْنَ بِسَطَعَاتِ سُبُحَاتِ اَنْوَارِ
ذَاتِكَ، مُتَخَلِّقِیْنَ بِاَخْلَاقِ حَقَآئِقِ رَقَآئِقِ صِفَاتِكَ، فِیْ مَقْعَدِ حَبِیْبِكَ وَ خَلِیْلِكَ وَ صَفِیِّكَ الْجَمَالِ الزَّاهِرِ، وَ
الْجَلَالِ الْقَاهِرِ، وَ الْكَمَالِ الْفَاخِرِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النُّبُوَّةِ، وَ لُجَّةِ زَخَّارِ الْكَرَمِ وَ الْفُتُوَّةِ، سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ
نَبِیِّنَا وَ حَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ، اَلْمُنَزَّلِ عَلَیْهِ فِی الذِّكْرِ الْمُبِیْنِ {وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعٰلَمِیْنَ} {سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَ سَلٰمٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ}۔
(از سیدی ابی العباس احمد موسیٰ المسرعی القادری رحمۃ اللہ علیہ)

56 {لَقَدْ رَضِیَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَ

اٰتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا وَّ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَ كَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَ لِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ وَ شَرِّفْ وَ عَظِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، الرَّسُوْلِ الْعَظِيْمِ، الْعَلِيْمِ الْحَلِيْمِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى، وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، الْعَفُوِّ الْغَفُوْرِ، الشَّكُوْرِ الصَّبُوْرِ، الْوَدُوْدِ الْمَجِيْدِ، الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ، النُّوْرِ الْمُبِيْنِ، حَبْلِ اللّٰهِ الْمَتِيْنِ، وَ حِرْزِهِ الْاَمِيْنِ، الْمُنَبَّاِ وَ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَ الطِّيْنِ، صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ وَ فَضَآئِلَ اٰلَآئِكَ وَ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ حَسْبَ قَدْرِكَ وَ سُرَادِقِ هَيْبَتِكَ وَ عَظِيْمِ شَأْنِكَ كَمَا يَحْسُنُ وَ يَلِيْقُ بِذِرْوَةِ شَرَفِهٖ وَ عُلُوِّ مَنْصَبِهٖ حَسْبَ قَدْرِهٖ وَ جَاهِهٖ وَ عَظِيْمِ شَانِهٖ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْاَقْطَابِ، الْاَفْرَادِ الْاَنْجَابِ، السَّابِقِيْنَ اِلٰى بُحْبُوْحَةِ ذٰلِكَ الْجَنَابِ، وَ اَصْحَابِهٖ هُدَاةِ التَّحْقِيْقِ، اَئِمَّةِ الصِّدْقِ وَ التَّصْدِيْقِ، الرَّاشِدِيْنَ اِلٰى مَدْرَجَةِ سَبِيْلِ التَّوْفِيْقِ، صَلَاتَكَ الْمَرْبُوْبَةَ بِعِنَايَتِكَ فِيْ ضِمْنِ مَحَبَّتِكَ قَبْلَ الْقَبْلِ حِيْنَ لَا قَبْلَ الْمَحْفُوْفَةَ بِكَرَامَتِكَ فِيْ سِتْرِ سَعَادَتِكَ بَعْدَ الْبَعْدِ حِيْنَ لَا بَعْدَ كَمَا لَهَا اَحْبَبْتَ وَ اَفْضَلْتَ، وَ اِلَيْهَا هَدَيْتَ وَ اَرْشَدْتَ، وَ بِهَآ اَعْطَيْتَ وَ اَجْزَلْتَ، وَ عَلَيْهَآ اَوْجَبْتَ وَ عَوَّلْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ بِمَآ اَنْعَمْتَ، لَا نُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ تُفَرِّجُ بِهَا الْكُرَبَ، وَ تُزِيْلُ بِهَا الْهُمُوْمَ وَ تُبَلِّغُ بِهَا الْعَبْدَ مَا طَلَبَ، صَلَاةً تُطْفِئُ عَنَّا بِهَا وَهَجَ حَرِّ الْقَطِيْعَةِ بِبَرْدِ يَقِيْنِ وِصَالِكَ، وَ تُلْبِسُنَا بِهَآ اَنْوَارَ غُرَرِ تَبَلُّجِ رَوْنَقِ مَجْدِ جَمَالِ كَمَالِكَ، فِي الْحَضَرَاتِ الْعِنْدِيَّةِ، وَ الْمَشَاهِدِ الْقُدْسِيَّةِ، مُنْخَلِعِيْنَ عَنْ ذَوَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، بِلَطَآئِفِ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّةِ، وَ سَرَآئِرِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ جَوَاهِرِ الْحِكَمِ الْفَرْدَانِيَّةِ، وَ حَقَآئِقِ الصِّفَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، يَآ اَللّٰهُ يَا سَمِيْعُ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ، يَا فَتَّاحُ يَا وَهَّابُ يَا كَرِيْمُ، يَا رَحِيْمُ وَ اَنْ تُلْحِقَنَا بِالسَّابِقِيْنَ فِيْ حَلْبَةِ التَّوْفِيْقِ، الْفَآئِزِيْنَ بِالْاَكْمَلِيَّةِ فِيْ كُلِّ خُلُقٍ اَنِيْقٍ، الْمُنَعَّمِيْنَ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى، مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِمَوَاهِبِ اَنْوَارِ بَهَآئِكَ الْاَجْلٰى، عَلٰى بِسَاطِ صِدْقِ الْمَحَبَّةِ مَعَ الْاَحِبَّةِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ سَلَّمَ وَ حِزْبِهٖ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ نَبِيِّ رَحْمَتِكَ وَ بُؤْبُوْ عَيْنِ مَمْلَكَتِكَ، اَلسَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ، وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، رُوْحِ الْحَقِّ، وَ مِنَّةِ اللّٰهِ عَلَى الْخَلْقِ، تَاجِ الْعِزِّ وَ الْكَرَامَةِ، شَفِيْعِ الْاُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَلْبِ الْقُرْاٰنِ وَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ، وَ حَبِيْبِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، اَلْمَبْعُوْثِ بِالدَّلِيْلِ وَ الْبُرْهَانِ، وَ الْمَنْعُوْتِ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الزَّبُوْرِ وَ الْفُرْقَانِ، بِسِمَتِهٖ وَ صِفَتِهٖ تَعْزِيْرًا وَّ تَوْقِيْرًا ﴿ يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴾ اَلْمَنُوْهِ بِذِكْرِهٖ فِي السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ اِجْلَالًا لِّحَقِّهٖ وَ تَعْظِيْمًا وَّ تَشْرِيْفًا لَّهٗ وَ تَكْرِيْمًا ﴿ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴾ ۔ (از سیدی ابی العباس احمد موسیٰ المسرعی القادری رحمۃ اللہ علیہ)

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ الَّذِىْ كَتَبْتَ فِيْهِ بِقَلَمِ رَحِيْمِيَّتِكَ وَ مِدَادِ مَدَدِ رَحْمُوْنِيَّتِكَ ﴿ وَمَا كَانَ
اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَرْشِ اسْتِوَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ اَحَدِيَّةِ اُلُوْ
هِيَّتِكَ، رَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ، وَ بَرَكَتِكَ الْكَامِلَةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ ﴿ وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ﴾
بَلْ صَلِّ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، عَلٰى رَحْمَةِ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اِنْسَانِ عَيْنِ الْكُلِّ فِىْ حَضْرَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ،
وَ جَمْعِ جَمْعِ اَحَدِيَّتِكَ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ ﴿ يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ
دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴾ فَكَانَ الْمُبَشِّرُ عَيْنَ
الْمُبَشَّرِ بِهٖ فَاَنِلْنَا مِنْ بَرَكَاتِهٖ، وَ افْتَحِ اللّٰهُمَّ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِمَفَاتِحِ حُبِّهٖ، وَ كَحِّلْ اَبْصَارَ بَصَآئِرِنَا بِاِثْمِدِ
نُوْرِهٖ، وَ طَهِّرْ اَسْرَارَ سَرَآئِرِنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ وَ قُرْبِهٖ، حَتّٰى لَا نَرٰى فِى الْوُجُوْدِ اِلَّا اَنْتَ بِهٖ، وَ مِنْ نَّوْمِ غَفْلَتِنَا نَنْتَبِهُ،
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَافِ كِفَايَتِكَ وَ هَاءِ هِدَايَتِكَ وَ يَاءِ يُمْنِكَ وَ عَيْنِ عِصْمَتِكَ وَ صَادِ صِرَاطِكَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴾ ﴿ صِرَاطِ اللهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى
الْاَرْضِ اَلَآ اِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِكَ الْاَسْنٰى، الْمُتَشَفِّعِ بِالْاَسْمَا، فِىْ حَضْرَةِ الْاَسْمَا،
فَكَانَ عَيْنَ مَظَاهِرِهَا الْوُجُوْدِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ عِلْمِكَ وَ عَيْنَ اَسْرَارِهَا الْجُوْدِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ
كَرَمِكَ، وَ عَيْنَ اِخْتِرَاعَاتِهَا الْكُلِّيَّةِ الْكَوْنِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ اِرَادَتِكَ وَ عَيْنَ مَقْدُوْرَاتِهَا الْجَبْرُوْتِيَّةِ، مِنْ
حَيْثُ اِحَاطَةُ قُدْرَتِكَ وَ قَهْرِكَ، وَ عَيْنَ اِنْشَآئِهَا الْاِحْسَانِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ سِعَةِ رَحْمَتِكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مِيْمِ مُلْكِكَ وَ حَاءِ حِكْمَتِكَ وَ مِيْمِ مَلَكُوْتِكَ وَ دَالِ دَيْمُوْمِيَّتِكَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ، وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ،
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَاحِدِ الثَّانِىْ، الْمَخْصُوْصِ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِىْ، السِّرِّ السَّارِىْ فِىْ مَنَازِلِ الْاُفُقِ الرَّحْمَانِىْ،
الْقَلَمِ الْجَارِىْ بِمِدَادِ الْمَدَدِ الرَّبَّانِىْ، عَلٰى مَسْطُوْرِ الْعَقْلِ الْاِنْسَانِىْ، صَلَاةً تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ رَحْمَتِكَ عَلَيْهِ، وَ
اِنْتِهَآءِ نُوْرِكَ وَ سِرِّكَ اِلَيْهِ، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَلِفِ اَحَدِيَّتِكَ وَ حَاءِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَ مِيْمِ
مُلْكِكَ وَ دَالِ دِيْنِكَ ﴿ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ﴾ فَقَدْ اَخْلَصْتَ الْخَالِصَ الْقَآئِمَ بِالدِّيْنِ الْخَالِصِ فَاَضَفْتَهٗ
اِلَيْكَ، فَصَلِّ رَبِّ عَلٰى مَنْ قَامَ اِلَيْكَ بِمَآ اَضَفْتَ عَلَى التَّحْقِيْقِ، اَقَامَ دِيْنَكَ وَ بَلَّغَ رِسَالَتَكَ، وَ اَوْضَحَ
سَبِيْلَكَ وَ اَدّٰى اَمَانَتَكَ، وَ اَقَامَ الْبُرْهَانَ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِكَ وَ اَثْبَتَ فِى الْقُلُوْبِ اَحَدِيَّتَكَ فَهُوَ سِرُّكَ
الْمَصُوْنُ بِهَيْبَتِكَ وَ جَلَالِكَ، الْمُتَوَّجُ بِنُوْرِ اَسْرَارِكَ وَ جَمَالِكَ، بَلْ صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ عَلٰى قَدْرِ مَقَامِهِ
الْعَظِيْمِ لَدَيْكَ، وَ عَلٰى قَدْرِ عِزَّتِهٖ عَلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَوْضِعِ نَظَرِكَ وَ مَظْهَرِ خَزَآئِنِ كَرَمِكَ وَ مَجْلٰى
عِزَّتِكَ وَ مِفْتَاحِ قُدْرَتِكَ وَ مَحَلِّ رَحْمَتِكَ وَ مَجْدِ عَظَمَتِكَ خُلَاصَتِكَ مِنْ كُنْهِ كَوْنِكَ وَ صَفْوَتِكَ مِمَّنْ
خَصَصْتَهٗ بِاِصْطِفَآئِكَ، النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِىِّ، الْاَبْطَحِىِّ الْقُرَشِىِّ، اَحْمَدِ الْحَامِدِيْنَ فِىْ سُرَادِقَاتِ
جَلَالِكَ، وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمَحْمُوْدِيْنَ فِىْ بِسَاطِ جَمَالِكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَلِفِ اِبْدَاعِكَ، وَ بَآءِ بِدَايَةِ
اِخْتِرَاعِكَ، وَ وَاوِ وُدِّكَ فِىْ اِنْشَآئِكَ، وَ اَلِفِ اِبْرَازِكَ لِمَخْلُوْقَاتِكَ، وَ لَامِ لُطْفِكَ فِىْ تَدْبِيْرَاتِكَ، وَ قَافِ
اِحَاطَةِ قُدْرَتِكَ عَلٰى خَلْقِ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، وَ سِيْنِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيْعِ اَفْرَادِ مُبْدَعَاتِكَ، وَ مِيْمِ مَمْلَكَتِكَ

الْمُحِيْطَةِ بِمَعْلُوْمَاتِكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرِّ وُجُوْدِكَ، وَ مَظْهَرِ جُوْدِكَ، وَ خَزَانَةِ مَوْجُوْدِكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى إِمَامِ حَضْرَة جَبَرُوْتِكَ، الْمُصَلِّيْ فِيْ مِحْرَابِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى لِاَحَدِيَّةِ جَمْعِهٖ فَانْجَمَعَ بِكَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَجَمَعْتَهٗ عَلَيْكَ وَ خَصَّصْتَهٗ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ وَ اَخْلَصْتَهٗ بِالسُّجُوْدِ بَيْنَ يَدَيْكَ، وجَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِهٖ فِى الصَّلَاةِ الْخَالِصَةِ لَدَيْكَ، فَهُوَ الْمُخْتَصُّ بِاَبْكَارِ مَشَاهِدِكَ، اَلْمُقْتَنِصُ لِلَّامِعَاتِ لَمَحَاتِ نَفَحَاتِ مُشَاهَدَاتِكَ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَلِمَتِكَ الْعُلْيَا، مِنْ حَيْثُ الْاِخْتِرَاعُ وَ الْاِبْتِدَاعُ، وَ عُرْوَتِكَ الْوُثْقٰى، مِنْ حَيْثُ تَتَابُعِ الْاِتِّبَاعِ، وَ حَبْلِكَ الْمُعْتَصَمِ عِنْدَ الضَّيْقِ وَ الْاِتِّسَاعِ، وَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ لِلْهِدَايَةِ وَ الْاِتِّبَاعِ، الٓمٓ حٰمٓ اٰدَمُ حٓ قٓ طٰسٓمٓ {مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا} اَحُوْنٌ وَّدُوْدٌ طٰهٰ يٰسٓ قٓ {نٓ ۚ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ} اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ، الْمُسْتَغْرِقِ فِيْ مُشَاهَدَةِ ذَاتِكَ، الْحَقِّ الْمُتَحَلِّقِ بِالْحَقِّ حَقِيْقَةَ الْحَقِّ {اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِىْ وَ رَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ} {اِنَّ اللهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ عَجَزْنَا مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ عُقُوْلِنَا وَ غَايَةُ اَفْهَامِنَا وَ مُنْتَهٰى اِرَادَتِنَا وَ سَوَابِقُ هِمَمِنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَ كَيْفَ نَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ وَ قَدْ جَعَلْتَ كَلَامَكَ خُلُقَهٗ وَ اَسْمَآئَكَ مَظْهَرَهٗ، وَ مَنْشَأَ كَوْنِكَ مِنْهُ اَنْتَ مَلْجُوْهٗ وَ رُكْنُهٗ وَ مَلَؤُكَ الْاَعْلٰى عِصَابَتُهٗ وَ نُصْرَتُهٗ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ قُدْرَتِكَ بِمَصْنُوْعَاتِكَ وَ تَحَقُّقِ اَسْمَآئِكَ بِاِرَادَتِكَ مِنْهُ اِبْتَدَأْتَ الْمَعْلُوْمَاتِ، وَ اِلَيْهِ جَعَلْتَ غَايَةَ الْغَايَاتِ، وَ بِهٖ اَقَمْتَ الْحُجَجَ عَلَى الْمَخْلُوْقَاتِ، فَهُوَ اَمِيْنُكَ خَازِنُ عِلْمِكَ، حَامِلُ لِوَآءِ حَمْدِكَ، مَعْدِنُ سِرِّكَ، مَظْهَرُ عِزِّكَ، نُقْطَةُ دَآئِرَةِ مُلْكِكَ، وَ مُحِيْطُهٗ وَ مُرَكَّبُهٗ وَ بَسِيْطُهٗ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ بِالْمَشْهَدِ الْاَعْلٰى وَ الْمَوْرِدِ الْاَحْلٰى وَ الطُّوْرِ الْاَجْلٰى وَ النُّوْرِ الْاَسْنٰى، اَلْمُخْتَصِّ فِيْ حَضْرَةِ الْاَسْمَا، بِالْمَقَامِ الْاَسْمٰى، وَ النُّوْرِ الْاَبْهٰى، وَ السِّرِّ الْاَحْمٰى، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّشْأَةِ الْحَبِيْبِيَّةِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّجَرَةِ الْعُلْوِيَّةِ الثَّابِتِ اَصْلُهَا فِيْ مَعَادِنِ هَيْبَتِكَ، اَلسَّامِيْ فَرْعُهَا فِيْ سُرَادِقَاتِ عَظَمَتِكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ، الْمُنْذِرِ الْمُبَشِّرِ، الْمُكَبِّرِ الْمُطَّهِّرِ، الْعَطُوْفِ الْحَلِيْمِ {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ} {اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ} اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِشْكَاةِ جِسْمِهٖ وَ مِصْبَاحِ قَلْبِهٖ وَ زُجَاجَةِ عَقْلِهٖ وَ كَوْكَبِ سِرِّهِ الْمُوْقَدِ مِنْ شَجَرَةِ ، اَصْلِهِ الْمُفَاضِ عَلَيْهِ مِنْ نُّوْرِ رَبِّهٖ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ بَلْ صَلِّ عَلَى الضَّمِيْرِ الْبَارِزِ الْمَسْتُوْرِ فِى النُّوْرِ الثَّانِى الْاٰخِرِ الْمَضْرُوْبِ بِهِ الْاَمْثَالُ، فِيْ عَالَمِ الْمِثَالِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ نَّوَّرْتَ بِنُوْرِهٖ مَلَكُوْتَ سَمٰوَاتِكَ وَ اَرْضِكَ

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ كَوْنِكَ فِيْهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ نُوْرِهٖ. اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةِ اَجْسَامِ اَنْبِيَآئِكَ وَ مَلَآئِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ. اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةِ اَصْلِهِ النُّوْرِ الَّذِيْ هُوَ الْمُفَاضُ عَلَيْهِ مِنْ فَيْضِ اَسْمَآئِكَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ خَلْقِهٖ {وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ} اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَلِيْمٌ بِهٰذَا النُّوْرِ. اَلْبَارِزِ الْمَسْتُوْرِ. اَلْبَاهِرِ الْمَشْهُوْرِ. اَلَّذِيْ بَهَرْتَ بِهٖ كُلِّيَّةَ الْكَوْنَيْنِ. وَ طَرَّزْتَ بِهِ الثَّقَلَيْنِ. وَ زَيَّنْتَ بِهٖ اَرْكَانَ عَرْشِكَ وَ مَلَآئِكَةَ قُدْسِكَ وَ اَدْنَيْتَهٗ مِنْ حَضْرَةِ جَبَرُوْتِكَ وَ جَعَلْتَهُ الْمُتَشَفِّعَ اِلَيْكَ فِيْ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ فَهُوَ بَابُ الرِّضَا. وَ الرَّسُوْلُ الْمُرْتَضٰى. حَقِيْقَةُ حَقِّكَ. وَ صَفْوَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ. بِنُوْرِهٖ حَمَلَتْ حَمَلَةُ عَرْشِكَ. وَ بِسِرِّهٖ رَفَعْتَ سَمٰوَاتِكَ وَ بَسَطْتَّ اَرْضَكَ فَهُوَ سَمَآءُ سَمَآئِكَ وَ غِيَابَةُ غُيُوْبِ اِحْسَانِكَ. وَ مَظْهَرُ عِزِّكَ وَ سُلْطَانِكَ. فَاَنْتَ الْعَلِيْمُ بِهٖ مِنْ حَيْثُ الْحَقُّ وَ الْحَقِيْقَةُ. فَصَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَةُ عِلْمِكَ بِذٰلِكَ. وَ تَحَقُّقُهٗ بِمَا هُنَالِكَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرَاجِ دِيْنِكَ. وَ كَوْكَبِ يَقِيْنِكَ. وَ قَمَرِ تَوْحِيْدِكَ. وَ شَمْسِ مُشَاهَدَةِ اِحْسَانِكَ. فِيْ اِيْجَادِ اِنْسَانِكَ. صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَصْعَدُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ. وَ تُعْرَفُ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اَنَّهَا خَالِصَةٌ لَّدَيْكَ. صَلَاةً مَّبْلَغُهَا الْعِلْمُ الْمُحِيْطُ بِالْكُلِّ حَقِيْقَةُ الْكُلِّ تَتَجَدَّدُ بِكُلِّيَّةِ ذٰلِكَ الْكُلِّ. وَ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَقَامِ الْمُخْتَصِّ بِهٖ تَسْلِيْمًا مَّبْلَغُهٗ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ. ثُمَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا مَنَحَ مِنَ الْفَتْحِ الَّذِيْ بِهٖ اَبْصَارُ بَصَآئِرِنَا قَدْ فُتِحَتْ بِالصَّلَاةِ عَلٰى اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ وَّ سَيِّدِ كُلِّ مَسُوْدٍ. اَلَّذِيْ كَمُلَ بِهِ الْوُجُوْدُ. وَ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيْقُ. وَ بِهٖ يُطْلَبُ كَمَالُ اِكْمَالِنَا عَلَى التَّحْقِيْقِ. اَللّٰهُمَّ بِجَاهِ صَاحِبِهِ الصِّدِّيْقِ. وَ بِالْفَارُوْقِ الْمُوَفِّيْ لِلتَّصْدِيْقِ. وَ بِذِي النُّوْرَيْنِ وَ بِخَاتِمِ الْخِلَافَةِ اِبْنِ عَمِّهٖ عَلِيٍّ عَلَى التَّحْقِيْقِ. اَللّٰهُمَّ اجْمَعْنَا بِكَ عَلَيْكَ اِلَيْكَ. وَ اَرْشِدْنَا اِلَيْهِ فِيْ حَضْرَةِ جَمْعِ الْجَمْعِ. حَيْثُ لَا فُرْقَةَ وَلَا مَنْعَ. اِنَّكَ اَنْتَ الْمَانِحُ الْفَاتِحُ. تَمْنَحُ مَا شِئْتَ مِنْ مَّوَاهِبِ رَبَّانِيَّتِكَ لِمَنْ شِئْتَ مِمَّنْ خَصَّصْتَهٗ بِرَهْبَانِيَّتِكَ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَحْشُرَنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِ سُنَّتِهٖ. وَلَا تُخَالِفْ بِنَا يَا مَوْلَانَا عَنْ مِّلَّتِهٖ. وَلَا عَنْ طَرِيْقَتِهٖ. اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَا. مُجِيْبٌ لِّمَنْ دَعَا. اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ كَمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ. فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِفَهْمِ الْكِتَابِ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْهِ. لِاَنَّهٗ شِفَآءٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ. وَ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (از سیدی محمد بن عراق رضی اللہ عنہ)

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُكَ فِيْ خَلْقِكَ وَ اَجْرِ لُطْفَكَ فِيْ اُمُوْرِنَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ. (از کتاب مسالک الحنفاء)

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ صَلَاةً تَتَفَاضَلُ عَلٰى كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا الْمُصَلُّوْنَ مِنْ اَوَّلِ الدَّهْرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ وَ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ. (از کتاب مسالک الحنفاء)

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ. وَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ. وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ. صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ الَّذِيْ تَمَيَّزَ بِهٖ عَنْ جَمِيْعِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ.

صَاحِبِ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ الَّذِيْ يَرْوِيْ مِنْهُ الْوَارِدِيْنَ، اَحْمَدَ اَبِي الْقَاسِمِ الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ طٰهٰ يٰسٓ، اِنْسَانِ
عَيْنِ الْعَالَمِ، صَائِغِ خَاتَمِ الْوُجُوْدِ، رَضِيْعِ ثَدْيِ الْوَحْيِ، حَافِظِ سِرِّ الْاَزَلِ، كَاشِفِ كُرَبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ،
تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ، مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ، اَلرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ، وَاسِطَةِ عِقْدِ
النُّبُوَّةِ، دُرَّةِ تَاجِ الرِّسَالَةِ، قَائِدِ رَكْبِ الْوَلَايَةِ، اِمَامِ اَهْلِ الْحَضْرَةِ، مُقَدَّمِ عَسْكَرِ السَّادَةِ الْمُرْسَلِيْنَ، مَنْ
اَتَاهُ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ، مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَاَرْكَبَهُ الْبُرَاقَ، وَ خَرَقَ بِهِ السَّبْعَ الطِّبَاقَ، لِمُبَاشَرَةِ جَمَالِ
الْجَلَالِ الْاَزَلِيِّ، وَ مُحَاضَرَةِ كَمَالِ الْعِزِّ الْاَبَدِيِّ، وَ زُفَّتْ عَلَيْهِ مُخَدَّرَاتُ اَنْبَآءِ الْكَوْنَيْنِ، وَ اَسْرَارُ الْمُلْكَيْنِ، وَ
اُمُوْرُ الدَّارَيْنِ، وَ عُلُوْمُ الثَّقَلَيْنِ، فِيْ مَجْلِسِ {لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى} وَ اٰتَتْهُ رُؤُوْسَآءُ الرُّسُلِ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُسَلِّمَةً عَلَيْهِ {وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى} وَ اَقْبَلَتْ مُلُوْكُ الْاَمْلَاكِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَسْعٰى بَيْنَ
يَدَيْهِ، وَ دُهِشَتْ لِجَمَالِهِ اَنْصَارُ سُكَّانِ الصَّفِيْحِ الْاَسْمٰى، وَ خَشَعَتْ لِهَيْبَتِهِ اَعْنَاقُ اَهْلِ السُّرَادِقِ الْاَسْنٰى،
وَ خَضَعَتْ لِعِزَّتِهِ رُؤُوْسُ اَصْحَابِ صَوَامِعِ النُّوْرِ وَ شَخَصَتْ لِكَمَالِ مَجْدِهِ اَعْيُنُ الْكَرُوْبِيِّيْنَ وَ الرُّوْحَانِيِّيْنَ،
وَ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ صُفُوْفًا مِّنَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ ابْتَهَجَتْ حَضَائِرُ الْقُدُسِ بِزَجَلِ الْمُسَبِّحِيْنَ، وَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ
وَ الْكُرْسِيُّ طَرَبًا بِرُؤْيَتِهِ وَ زُيِّنَتِ الْجِنَانُ وَ الْحُوْرُ الْحِسَانُ فَرَحًا بِمَقْدَمِهِ وَ افْتَخَرَ الْعُلٰى، عَلَى الثَّرٰى بِمَا
رَاٰى وَ انْكَشَفَتْ لِعَيْنِ الْمُخْتَارِ الْاَسْرَارُ، وَ رُفِعَتْ لِصَاحِبِ الْاَنْوَارِ الْاَسْتَارُ، تَقَدَّمَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ اِلٰى
دَائِرَةِ {وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ} وَ قَالَ لَهٗ اَيُّهَا الْحَبِيْبُ الْمُقَرَّبُ تَهَيَّأْ لِتَلَقِّي اللّٰهِ تَعَالٰى وَحْدَكَ خَالِيًا
وَّ زَجَّهٗ فِي النُّوْرِ وَ عِنْدَ التَّنَاهِيْ يَقْصُرُ الْمُتَطَاوِلُ فَانْتَهٰى مَسْرَاهُ اِلٰى مُسْتَوًى يُّسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفُ الْاَقْلَامِ
بِمَا يُوْحٰى عَلٰى صَفَا اللَّوْحِ الْاَعْظَمِ وَ سَمَا رَ عَلٰى رَفْرَفِ النُّوْرِ اِلَى الْاُفُقِ الْاَعْلٰى وَ طَارَ بِجَنَاحِ الْاَشْوَاقِ اِلٰى
مَقَامِ دَنَا فَتَدَلّٰى، وَ اَنْزَلَهٗ فِيْ مَضِيْفِ الْكَرَمِ فِيْ رَوْضَةِ قَابَ قَوْسَيْنِ، وَ بَسَطَ لَهٗ فِرَاشَ الدُّنُوِّ فِرَاشَ اَوْ اَدْنٰى،
سَمِعَ مِنْ جَنَابِ الرَّفِيْعِ الْاَعْلٰى، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ، تَلَقَّاهُ الْحَبِيْبُ بِالْاِكْرَامِ، وَ نَادَاهُ
الْجَلِيْلُ بِالسَّلَامِ، وَ بَسَطَ مُنْقَبِضَ رَوْعَتِهٖ وَ اٰنَسَ مُنْزَعِجَ وَحْشَتِهٖ، نُوْغِيَ بِمُخَاطَبَاتِ {فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ
مَا اَوْحٰى} كُوْشِفَ بِعِيَانِ {وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى} هَمَّ اَنْ يُّجِيْبَ فَسَبَقَهُ الْقَدَرُ فَفَتَحَ فَمَهٗ فَقَطَرَتْ فِيْهِ
قَطْرَةٌ مِّنْ بَحْرِ الْعِلْمِ الْاَزَلِيِّ، فَعَلِمَ بِهَا عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ثُمَّ عَادَ اِلٰى مَعَالِمِهٖ، وَ اَهْلِ عَوَالِمِهٖ، وَ بَيْنَ
يَدَيْهِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ، شَاوِيْشُ هٰذَا عَطَآؤُنَا يَتَرَنَّمُ بِاَنَاشِيْدِ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ تَاجُ شَرَفِهٖ
سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، طِرَازُ حُلَّتِهٖ {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى} نَادٰى مُنَادِيْ سُلْطَانِ عِزِّهٖ فِيْ
طَبَقَاتِ الْاَكْوَانِ وَ صَفَحَاتِ الْوُجُوْدِ بِلِسَانِ الْاَمْرِ بِالتَّشْرِيْفِ تَعْظِيْمًا لَّهٗ وَ تَكْرِيْمًا {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ
يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ رُوْحَهُ الطَّاهِرَةَ مِنَّا اَفْضَلَ
الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ وَ اجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ وَ اَكْمَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ، اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْحَبِيْبِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْحَبِيْبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ الْحَبِيْبَ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا،
اَللّٰهُمَّ اَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ فَائِضِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ احْشُرْنَا يَا رَبَّنَا فِيْ زُمْرَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَجِرْنَا
يَا رَبَّنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِبَرَكَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَدْخِلْنَا وَ وَالِدِيْنَا الْجَنَّةَ

بِشَفَاعَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْزُقْنَا النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔ (از الشیخ خیر الدین ابن ابی السعود ظہیرۃ المکی رحمتہ اللہ علیہ)

61 اَسْاَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مَلِكِ الْكَمَالَاتِ، وَ قُطْبِ الْبِدَايَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوَاتِ، اَلِفِ الْاِمَامَةِ وَ بَآءِ الْبَرَكَةِ، وَ تَآءِ التَّمَامِ، وَ ثَآءِ ثَمَرَةِ الْعِزِّ وَ جِيْمِ الْجَمَالِ وَ حَآءِ الْحَقِّ الْكَامِلِ وَ خَآءِ الْخُلُوْدِ الدَّآئِمِ وَ دَالِ الدَّيْمُوْمَةِ الْاَبَدِيَّةِ وَ ذَالِ ذَمِّ الْاَغْيَارِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَ رَآءِ الرِّفْعَةِ الْقُطْبِيَّةِ، وَ زَايِ الزِّيْنَةِ الْجَمَالِيَّةِ، وَ سِيْنِ السُّمُوِّ اِلَى الْمَعَارِفِ الْعَلِيَّةِ، وَ شِيْنِ الشَّرَفِ الْاَكْبَرِ، وَ صَادِ الصِّدْقِ الْاَنْوَارِ، وَ ضَادِ الضَّوْءِ اللَّامِعِ الْاَزْهَرِ، وَ طَآءِ طُلُوْعِ شَمْسِ الْعِزِّ وَ الْمَعْرِفَةِ، وَ ظَآءِ الظُّهُوْرِ فِيْ مَرَاتِبِ الْعِزِّ الْمُشَرَّفَةِ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ الْاَزَلِيَّةِ الْاَبَدِيَّةِ، وَ غَيْنِ الْغُفْرَانِ الْوَارِدِ مِنْ فَضْلِكَ وَ رُتَبِ كَمَالِكَ وَ فَآءِ وَ قَافِ قَهْرِ الْمُخَالِفِ بِالْخَطِيْئَةِ الْقَوِيَّةِ، وَ كَافِ كَمَالِكَ الْعَالِيْ، وَلَامِ لِقَآئِكَ الْعَالِيْ، وَ مِيْمِ مَبْدَأِ الْاَشْيَآءِ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا وَّ نُوْنِ نِهَايَاتِهَا سِرًّا وَّ عَلَنًا وَ هَآءِ الْهُوِيَّةِ الْعُظْمٰى، وَ وَاوِ وُرُوْدِ الْمَشْرَبِ الْاَسْنٰى، مَنْ لَّا نَظِيْرَ لَهٗ فِيْ خَلْقِكَ وَلَا مُسَاوِيَ لَهٗ فِيْ حَضْرَةِ عِزِّكَ وَ يَآءِ يُسْرِ الذِّكْرِ بِبَرَكَتِكَ ثُمَّ بِبَرَكَةِ عَيْنِ اَفْلَاكِ الْعِزِّ وَ سُلْطَانِ سُرَادِقَاتِ الْحِفْظِ وَ رَئِيْسِ الْجِنَانِ، وَ الشَّافِعِ مِنَ النِّيْرَانِ، اَلْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْجَبَّارِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الْمُهَيْمِنِ سَيِّدِ اَوْلِيَآئِكَ الْعَارِفِيْنَ، وَ مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، مَنْ لَّاحَ جَمَالُهٗ فِي الْقِدَمِ، وَ اَشْرَقَ نُوْرُهٗ اِلَى الْوُجُوْدِ بِلَا عَدَمٍ، سَيِّدِ الْاَسْرَارِ الْمَلَكُوْتِ، وَ الْعَالِمِ بِنِهَايَةِ الرَّغَبُوْتِ وَ الْجَبَرُوْتِ، مَنْ اَقَامَ الْحَقَّ وَ اَذَلَّ الطَّاغُوْتَ، نُوْرِكَ الْاَتَمِّ، وَ فَضْلِكَ الْاَعَمِّ، قُطْبِ الْاَقْطَابِ، وَ مَلَاذِ الْاَحْبَابِ الدَّاخِلِ اِلَيْكَ مِنَ الْبَابِ، بَابِ الْخَيْرَاتِ، وَ مِفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ، شَمْسِ الْمَعَانِي الزَّاهِرَةِ، وَ سَيِّدِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ، مَنْ لَّمْ يَغِبْ عَنْ حَضْرَتِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَّ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَكَ مِنَ الزَّمَانِ وَ الْاَيْنِ، سَيِّدِ الدَّالِّيْنَ عَلَيْكَ، اَلْمُوْصِلِيْنَ اِلَيْكَ، نُوْرِ بَهْجَةِ الْاَسْرَارِ، اَلْعَالِمِ بِكَشْفِ الْاَسْتَارِ، اَلسَّاتِرِ مِنْ وَّصْفِكَ الْغَفُوْرِ السَّتَّارِ، مَظْهَرِكَ التَّآمِّ، وَ عَيْنِ جُوْدِكَ الْعَامِّ، سَيِّدِنَا الْاَكْمَلِ، وَ نُوْرِنَا الْاَفْضَلِ، خَيْرِ مَنْ سَبَقَ وَ لَحِقَ دَآئِمِ النُّوْرِ، وَاضِحِ الظُّهُوْرِ، اَلْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ، ذِي الْبَرَاهِيْنِ السَّاطِعَةِ، شَمْسِ الْعُلُوْمِ، وَ قَمَرِ جِلَآءِ الْغُمُوْمِ، سَيِّدِ الْاَطْفَالِ وَ الْكُهُوْلِ، وَ قُطْبِ دَوَآئِرِ الْعِزِّ الْمَقْبُوْلِ، مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ، وَ ذَلَّتْ لَهُ الْاَقْطَابُ، وَ دَرَجَ الرُّسُلُ تَحْتَ لِوَآئِهٖ، وَ نَالُوْا شَرَفَ كَمَالِهٖ وَ اِيْوَآئِهٖ، فَرْدِ الْاَفْرَادِ، وَ قُطْبِ الْاَقْطَابِ وَ وَتَدِ الْاَوْتَادِ، اَلْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى، خَيْرِ مَنِ اتَّقٰى، مَنْ قُرِّبَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَ لَاحَ مِنْ مَّظْهَرِ النُّوْرِ الْاَسْنٰى، اِمَامِ حَضَرَاتِ الْكَامِلَةِ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ الرُّتَبِ الْفَاضِلَةِ، سِرَاجِ الْمِلَّةِ، وَ كَنْزِ الذُّخْرِ الْكَاشِفِ لِكُلِّ عِلَّةٍ، نِهَايَةِ اَعْمَالِ الْوَاصِلِيْنَ، وَ غَايَةِ رَغْبَةِ الرَّاغِبِيْنَ، مَنْ سَاَلَكَ بِهٖ اٰدَمُ فَنَجَا، وَ كُلُّ رُسُلِكَ اِلَيْهِ قَدِ الْتَجَا، اَلْحَبْلِ الْمُمْتَدِّ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ، سَعِيْدِ السُّعَدَآءِ سَيِّدِ السَّادَاتِ، فَرْدِ الْاِحَاطَاتِ وَ الْكَمَالَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، رَوْضِ الْعِلْمِ الْخَصِيْبِ، وَ مَظْهَرِ سِرِّ الْقَوْلِ الْمُصِيْبِ، مَنْ لَّاحَ فِيْهِ وَ

عَلَيْهِ كَلَامُكَ الْقَدِيْمُ، وَ ظَهَرَ فِيْهِ نُوْرُ سِرِّكَ الْعَظِيْمِ، مَنْ فَضَّلْتَ تُرْبَتَهٗ عَلَى الْعَرْشِ، وَ قَرَّبْتَهٗ مِنْ عِزِّكَ وَ قُدْسِكَ وَ هُوَ نُوْرُكَ الْاَعْظَمُ، وَ جَمَالُكَ الْاَكْرَمُ، وَ كَمَالُكَ الْاَقْدَمُ، وَ صِرَاطُكَ الْاَقْوَمُ مَنْ اَقْسَمْتَ بِهٖ لِعَظَمَتِهٖ، وَ شَرَّفْتَهٗ فِيْ ذٰلِكَ بِوَصْفِ ذٰلِكَ لِسِيَادَتِهٖ، مَنْ اَفْرَدْتَّهٗ لَكَ فَانْفَرَدَ، وَ وَحَّدْتَّهٗ بِكَ فَتَوَحَّدَ، خَيْرِ الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، مُشْرِقِ الْبَوَاطِنِ وَ الظَّوَاهِرِ، الْمُفِيْضِ عَلَى الْوَارِدِيْنَ اِلَيْكَ، الْمُمِدِّ لِلْوَاصِلِيْنَ اِلٰى حَضْرَتِكَ، مَنْ مَّلَأَ نُوْرُهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اَحَاطَ بِعِلْمِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، وَ تَحَقَّقَ بِحَقَآئِقِ الْعِرْفَانِ وَ الْيَقِيْنِ، وَ تَمَّ قَبْلَ مَظَاهِرِ التَّكْوِيْنِ، وَ كَتَبْتَ اِسْمَهٗ عَلٰى عَرْشِكَ قَبْلَ ظُهُوْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ نِهَايَةِ الْاَمْدَادِ وَ الْاِمْدَادِ، وَ كِفَايَةِ الْاِسْعَادِ، مَنِ اهْتَدَتْ بِهِ السَّآئِرُوْنَ، وَ اسْتَرْشَدَتْ بِهِ الْمُسْتَرْشِدُوْنَ، مَنْ رَّحِمْتَ الْعَالَمَ بِسَبَبِهٖ، وَ اَعْلَيْتَ الصِّدِّيْقِيْنَ بِهٖ، لِشُهُوْدِ شَرِيْفِ رُتَبِهٖ، مَنْ حَقَّ الْحَقَّ وَ اَبْطَلَ الْبَاطِلَ، وَ شَقَقْتَ لَهٗ مِنْ اِسْمِكَ لِيَنْفَرِدَ عَنِ الْاَوَاخِرِ وَ الْاَوَآئِلِ، اَحْمَدِ هٰذَا الْعَالَمِ الْكَبِيْرِ وَ الصَّغِيْرِ، وَ اَشْرَفِهٖ وَ اَجَلِّهٖ فِيْ سَآئِرِ التَّقَادِيْرِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ مَحْمُوْدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَ حَامِدٍ، اَجَلِّ مَنْ حَمِدَ وَ حُمِدَ وَ جَمَعَ الْمَحَامِدَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ مَّا دَامَ ذِكْرُكَ وَ مَآ اَشْرَقَ عِزُّكَ وَ مَا عَرَفَكَ عَارِفٌ، وَّ مَا وَقَفَ بِبَابِكَ وَاقِفٌ، مَّا نَطَقَ فَمٌ، وَ خَطَّ قَلَمٌ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ اعْفُ عَنَّا، وَ اسْتَجِبْ لَنَا، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لِوَالِدَيْنَا وَ لِمَنْ اَحَبَّنَا فِيْكَ، وَ لِمَنْ اَحْبَبْنَاهُ مِنْ اَجْلِكَ وَ لِاُمَّةِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَ ارْحَمْهُمْ وَ كُنْ لَّهُمْ وَ لَنَا وَ لِسَآئِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } { فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ } { دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } ۔ (از سیدی ابی الحسن البکری الصدیقی المصری رضی اللہ عنہ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْعُظْمٰى، مُكَمِّلَةِ اَهْلِ النُّوْرِ الْاَسْنٰى، قُطْبِ دَآئِرَةِ الْعَالَمِيْنَ، وَاسِطَةِ عِقْدِ الْاَنْبِيَآءِ 62
وَ الْمُرْسَلِيْنَ، صَفْوَةِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ الدِّيْنِ، بُرْهَانِكَ الْقَاطِعِ وَ نُوْرٍ كَالسَّاطِعِ، وَارِثِ الْخِلَافَةِ الْكُبْرٰى، وَ اِمَامِ الدُّنْيَا وَ الْاُخْرٰى، ذِي اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ وَ السِّرِّ الْمَشْهُوْدِ، وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ الْمَمْدُوْدِ، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الْكَوْثَرِ الْجَارِيْ، وَ النُّوْرِ السَّارِيْ، مَلِكِ الْكَمَالَاتِ، وَ سُلْطَانِ الْبِدَايَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، اَحْمَدِ كُلِّ عَالِمٍ، وَّ مُحَمَّدِ كُلِّ مَقَامٍ مِّنْ خَلْقِ اٰدَمَ، جَامِعِ الْقُرْاٰنِ، الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ فِيْ كُلِّ اٰنٍ وَّ اَوَانٍ، اَلْبَرِّ الرَّحِيْمِ الْمُهَيْمِنِ، الْجَبَّارِ الْعَزِيْزِ الرَّؤُوْفِ السَّيِّدِ الْبَدْرِ مَنْ اَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ الدَّآئِمَةِ، وَ عِزَّتِهِ الْقَآئِمَةِ، الْفَاتِحِ، الْخَاتِمِ الشَّافِعِ، الْاَمِيْنِ عَلٰى اَسْرَارِكَ الْجَوَامِعِ، الْحَاشِرِ لِاَهْلِ الْخَيْرِ لِلْجِنَانِ، وَ لِاَهْلِ الشَّرِّ لِلنِّيْرَانِ، الَّذِيْ تَمَّ فِيْهِ مَظْهَرُكَ بِكُلِّ زَمَانٍ، وَّ الْقَآئِمِ بِكُلِّ مَقَامٍ لِّكَمَالِ الْاِمْتِنَانِ، الْخَاتِمِ لِرُسُلِكَ الْكِرَامِ، الْمُحِيْطِ بِمَوَآدِّ الْاِنْعَامِ، الرَّسُوْلِ لِلظَّوَاهِرِ بِالْجَمَالِ الْبَشَرِيِّ، وَ الْاِشْرَاقِ الظُّهُوْرِيِّ وَ لِلْبَوَاطِنِ بِالنُّوْرِ السَّنِيِّ، وَ الْعَيْشِ الْهَنِيِّ، الشَّاهِدِ عَلٰى كُلِّ رَسُوْلٍ، وَّ الْمُبَلِّغِ لِنِهَايَةِ السُّؤَالِ، الَّذِيْ شَهِدَكَ

بِعَيْنِ رَأْسِهٖ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِذٰلِكَ تَمْيِيْزًا لَّهٗ فِيْ حَضْرَةِ قُدْسِهٖ، اَلضَّحُوْكِ لِلُطْفِهٖ وَ مُظْهِرِ اِمْتِنَانِهٖ، اَلْعَالِيْ بِاِشْرَاقِ نُوْرِكَ عَلٰى صَفَحَاتِ وَجْهِهٖ وَ ثَنَايَاهُ وَ لِسَانِهٖ، اَلْعَاقِبِ لِلرُّسُلِ الْكِرَامِ فِي الصُّوَرِ، اَلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِمْ بِالْمَكَانَةِ وَ الْمَكَانِ وَ الْمُفَصَّلِ وَ فَوَاتِحِ وَ خَوَاتِمِ السُّوَرِ، اَلْفَاتِحِ لِلْمُقْفَلَاتِ، اَلْقَائِمِ بِحَلِّ الْمُعْضَلَاتِ، اَلْقَتَّالِ لِكُلِّ غَوِيٍّ وَّ الْمُزِيْلِ لِكُلِّ دَنِيٍّ، اَلْقِسْمِ الَّذِيْ تَمَّ بِهٖ كُلُّ ظُهُوْرٍ وَّ جَمَعَ كُلَّ نُوْرٍ، اَلْمَاحِيْ لِظَلَامِ الشِّرْكِ وَ الشُّكُوْكِ وَ الْاَوْهَامِ، اَلْمُوَصِّلِ لِدَارِ السَّلَامِ، اَلْمُصْطَفٰى عَلٰى كُلِّ الْاَنَامِ، اَلْمُبَشِّرِ بِلِقَآءِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، وَ فَوَاتِحِ الْاِنْعَامِ، وَ خَوَاتِمِ الْاِسْلَامِ، مِنَ السَّلَامِ بِدَارِ السَّلَامِ، اَلْمُتَوَكِّلِ بِحَالِهٖ، اَلْمُظْهِرِ لِذٰلِكَ فِيْ مَقَالِهٖ، لِئَلَّا يَأْلَفَ الْخَلْقُ سِوَاكَ، فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلَّا اِلَيْكَ، وَلَا يَعْتَمِدُوْنَ اِلَّا عَلَيْكَ، وَلَا يُؤَمِّلُوْنَ اِلَّا اِيَّاكَ، اَلْمُقَنَّعِ بِقِنَاعِ بَهَآءِ نُوْرِكَ، فِيْ مَعَالِيْ مَعَالِمِ ظُهُوْرِكَ، اَلنَّبِيِّ الَّذِيْ اَنْبَأْتَهٗ بِكَ فَاَنْبَأَ عَنْكَ، اَلنَّذِيْرِ لِمَنْ عَصَاكَ بِتَخْوِيْفِهٖ بِكَ مِنْكَ، نَبِيِّ التَّوْبَةِ الَّتِيْ قَبِلْتَهَا مِنْ اُمَّتِهٖ بِلَا قَتْلٍ ظَاهِرٍ لِّلنُّفُوْسِ، مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَّلَا بُؤْسٍ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ اِنْقَاذِ الْهَالِكِيْنَ نَبِيِّ الْمَلَاحِمِ الْعُظْمٰى، وَ مَوَاقِعِ الْخَيْرِ الْاَهْمٰى، اَلَّذِيْ هَدَيْتَ بِهٖ مَنْ كَانَ عَنْهُ اَعْمٰى وَ فَتَحْتَ بِهٖ اٰذَانًا صُمًّا وَّ اَعْيُنًا عُمْيًا وَّ قُلُوْبًا غُلْفًا، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ {دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔ (از سیدی ابی الحسن البکری الصدیقی المصری رضی اللہ عنہ)

63 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ، سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنُ {رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ} اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ اَبْرِ وَ اَكْرِمْ وَ اَنْعِمْ، عَلَى الْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ الْمَجْدِ الْبَاذِخِ، وَ النُّوْرِ الطَّامِحِ، وَ الْحَقِّ الْوَاضِحِ، مِيْمِ الْمَمْلَكَةِ وَ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْعِلْمِ وَ دَالِ الدَّلَالَةِ وَ اَلِفِ الذَّاتِ وَ حَآءِ الرَّحَمُوْتِ، وَ مِيْمِ الْمَلَكُوْتِ، وَ دَالِ الْهِدَايَةِ وَ جِيْمِ الْجَبَرُوْتِ، وَ لَامِ الْاَلْطَافِ الْخَفِيَّةِ، وَ رَآءِ الرَّأْفَةِ الْحَقِيَّةِ، وَ نُوْنِ الْمِنَنِ وَ عَيْنِ الْعِنَايَةِ، وَ كَافِ الْكِفَايَةِ، وَ يَآءِ السِّيَادَةِ، وَ سِيْنِ السَّعَادَةِ، وَ قَافِ الْقُرْبَةِ، وَ طَآءِ السَّلْطَنَةِ، وَ هَآءِ الْعُرْوَةِ، وَ وَاوِ الْوُثْقٰى وَ صَادِ الْعِصْمَةِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ جَوَاهِرِ عِلْمِهِ الْعَزِيْزِ، وَ اَصْحَابِهٖ مَنْ اَصْبَحَ بِهِمُ الدِّيْنُ فِيْ حِرْزٍ حَرِيْزٍ، صَلَاتَكَ الْمُهَيْمِنَةَ بِعَظَمَةِ جَلَالِكَ، الْمُشَرَّفَةَ بِجَلَالِ جَمَالِكَ، الْمُكَرَّمَةَ بِعَظِيْمِ نَوَالِكَ دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ لَا اِنْتِهَآءَ لَهَا، سَامِيَةً بِسُمُوِّ رِفْعَتِكَ لَا اِنْتِهَآءَ لَهَا صَلَاةً تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ وَ تَلِيْقُ بِمَجْدِ كَرَمِكَ وَ عَظِيْمِ فَضْلِكَ اَنْتَ لَهَآ اَهْلٌ لَّا يُبْلَغُ كُنْهُهَا وَلَا يُقْدَرُ قَدْرُهَا كَمَا يَنْبَغِيْ لِشَرَفِ نُبُوَّتِهٖ وَ عَظِيْمِ قَدْرِهٖ وَ كَمَا هُوَ لَهَآ اَهْلٌ صَلَاةً تُفَرِّجُ عَنَّا بِهَا هُمُوْمَ حَوَادِثِ الْاِخْتِيَارِ، وَ تَمْحُوْ بِهَا عَنَّا

ذُنُوْبِ وَ جُوْدِنَا بِمَآءِ سَمَآءِ الْقُرْبَةِ حَيْثُ لَا حَيْثُ وَلَا بَيْنَ وَلَآ اَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا جِهَةَ وَلَا قَرَارَ، وَتُغَيِّبُنَا بِهَا فِيْ غَيَاهِبِ غُيُوْبِ اَنْوَارِ اَحَدِيَّتِكَ فَلَا نَشْعُرُ بِتَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ تُخَوِّلُنَا بِهَا سَمَاحَ رِيَاحِ فُتُوْحِ حَقَآئِقِ بَدِيْعِ جَمَالِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُخْتَارِ وَ تُتْحِفُنَا بِهَا بِاَسْرَارِ اَنْوَارِ زَيْتُوْنِيَّتِكَ فِيْ مِشْكَاةِ نِ الزُّجَاجَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَتَضَاعَفُ اَنْوَارُنَا بِلَا اِمْتِرَآءٍ وَّلَا حَدٍّ وَّلَا اِنْحِصَارٍ يَّا رَبِّ يَآ اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ نَسْئَلُكَ بِدَقَآئِقِ مَعَانِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الْمُتَلَاطِمَةِ اَمْوَاجُهَا فِيْ بَحْرِ بَاطِنِ خَزَآئِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ بِاٰيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ الزَّاهِرَاتِ الْبَاهِرَاتِ عَلٰى مَظْهَرِ اِنْسَانِ عَيْنِ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ، اَنْ تُذْهِبَ عَنَّا ظَلَامَ الْفَقْدِ بِنُوْرِ اُنْسِ الْمَجْدِ، وَ اَنْ تَكْسُوَنَا مِنْ حُلَلِ صِفَاتِ كَمَالِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نُوْرَ الْجَلَالَةِ، وَ اَنْ تَسْقِيَنَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهٖ رَحِيْقَ تَسْلِيْمِ تَسْنِيْمِ شَرَابِ الرِّسَالَةِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْجُوْدِ الْاَكْرَمِ، وَ النُّوْرِ الْاَفْخَمِ، وَ الْعِزِّ الْاَعْظَمِ، الْمَبْعُوْثِ بِالْقِيْلِ الْاَقْوَمِ، وَمِنَّةِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ فَصِيْحٍ وَّ اَعْجَمَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا وَ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قُطْبِ رَحَى النَّبِيِّيْنَ وَ نُقْطَةِ دَآئِرَةِ الْمُرْسَلِيْنَ، الْمُخَاطَبِ فِي الْكِتَابِ الْمَكْنُوْنِ، بِقَوْلِكَ { مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ وَّ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ } الْمَوْصُوْفِ بِقَوْلِكَ الْكَرِيْمِ { وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ } وَ اَرْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ اَئِمَّةِ الْهُدٰى، لِمَنِ اهْتَدٰى، وَ نُجُوْمِ الْاِقْتِدَا لِمَنِ اقْتَدٰى، مَا تَعَاقَبَتْ اَدْوَارُ الْاَنْوَارِ، وَ اَشْرَقَتْ اَنْوَارُ الْاَسْرَارِ، بِالْاَسْرَارِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (درود وسطی از شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ)

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الطَّلْعَةِ الذَّاتِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الْغَيْثِ الْمُطَمْطَمِ، وَ الْكَمَالِ الْمُكَتَّمِ، لَاهُوْتِ الْجَمَالِ، وَ نَاسُوْتِ الْوِصَالِ، وَ طَلْعَةِ الْحَقِّ هُوِيَّةِ اِنْسَانِ الْاَزَلِ، فِيْ نَشْرِ مَنْ لَّمْ يَزَلْ، مَنْ اَقَمْتَ بِهٖ نَوَاسِيْتَ الْفَرْقِ، اِلٰى طُرُقِ الْحَقِّ، فَصَلِّ اللّٰهُمَّ بِهٖ مِنْهُ فِيْهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (درود ذاتیہ از سیدی محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ)

65 صَلَّى اللّٰهُ عَلَى الْاَوَّلِ فِي الْاِيْجَادِ وَ الْجُوْدِ وَ الْوُجُوْدِ، اَلْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَتَيِ الشَّاهِدِ وَ الْمَشْهُوْدِ، اَلسِّرِّ الْبَاطِنِ وَ النُّوْرِ الظَّاهِرِ الَّذِيْ هُوَ عَيْنُ الْمَقْصُوْدِ، حَآئِزِ قَصَبِ السَّبْقِ، فِيْ عَالَمِ الْخَلْقِ، اَلْمَخْصُوْصِ بِالْاَوَّلِيَّةِ، الرُّوْحِ الْاَقْدَسِ الْعَلِيِّ، وَ النُّوْرِ الْاَكْمَلِ الْبَهِيِّ، اَلْقَآئِمِ بِكَمَالِ الْعُبُوْدِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ، الَّذِيْ اُفِيْضَ عَلٰى رُوْحِيْ مِنْ حَضْرَةِ رُوْحَانِيَّتِهٖ، وَ اتَّصَلَتْ بِمِشْكَاةِ قَلْبِيْ اَشِعَّةُ نُوْرَانِيَّتِهٖ، فَهُوَ الرَّسُوْلُ الْاَعْظَمُ، وَ النَّبِيُّ الْاَكْرَمُ، وَ الْوَلِيُّ الْمُقَرَّبُ الْمَسْعُوْدُ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ خَزَآئِنِ اَسْرَارِهٖ وَ مَعَادِنِ اَنْوَارِهٖ، وَ مَطَالِعِ اَقْمَارِهٖ، كُنُوْزِ الْحَقَآئِقِ وَ هُدَاةِ الْخَلَآئِقِ، نُجُوْمِ الْهُدٰى لِمَنِ اهْتَدٰى وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا { وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ } { وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ } وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }. (درود سر از سیدی محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ)

66 اَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ فِيمَا سَئَلْتُكَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِيْ قَبُوْلِهٖ بِمُقَدَّمَةِ الْوُجُوْدِ الْاَوَّلِ، وَرُوْحِ الْحَيَاةِ الْاَفْضَلِ، وَنُوْرِ الْعِلْمِ الْاَكْمَلِ وَ بِسَاطِ الرَّحْمَةِ فِي الْاَزَلِ وَ سَمَآءِ الْخُلُقِ الْاَجَلِّ، السَّابِقِ بِالرُّوْحِ وَ الْفَضْلِ، وَ الْخَاتِمِ بِالصُّوْرَةِ وَ الْبَعْثِ وَ النُّوْرِ بِالْهِدَايَةِ وَ الْبَيَانِ مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى وَ الرَّسُوْلِ الْمُجْتَبٰى، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (درود از سیدی محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ)

67 اَللّٰهُمَّ بِكَ تَوَسَّلْتُ، وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَ مِنْكَ سَئَلْتُ، وَ فِيْكَ لَا فِيْ اَحَدٍ سِوَاكَ رَغِبْتُ، لَا اَسْئَلُ سِوَاكَ، وَلَا اَطْلُبُ مِنْكَ اِلَّا اِيَّاكَ. اَللّٰهُمَّ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِيْ قُبُوْلِ ذٰلِكَ بِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَ الْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْاَدْنٰى، وَ الْوَلِيِّ الْمَوْلٰى، وَ الصَّفِيِّ الْمُصْطَفٰى، وَ النَّبِيِّ الْمُجْتَبٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِهٖ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةً اَبَدِيَّةً سَرْمَدِيَّةً اَزَلِيَّةً، لَاهِيَّةً قَيُّوْمِيَّةً، دَائِمَةً دَيْمُوْمِيَّةً، رَبَّانِيَّةً بِحَيْثُ اَشْهَدُنِيْ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ عَيْنَ الْاَغْيَارِ كَمَا تَسْتَهْلِكُنِيْ فِيْ مَعَارِفِ ذَاتِهٖ فَاَنْتَ وَلِيُّ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ (درودِ وصل از سیدی محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ)

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ اسْتِوَآءِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ كُنْهِ هُوِيَّةِ تَنَزُّلَاتِكَ، النُّوْرِ الْاَزْهَرِ، وَ السِّرِّ الْاَبْهَرِ، وَ الْفَرْدِ الْجَامِعِ، وَ الْوِتْرِ الْوَاسِعِ، صَلَاةً اُشَاهِدُ بِهَا عَجَآئِبَ الْمَلَكُوْتِ وَ اَسْتَجْلِيْ بِهَا عَرَآئِسَ الْجَبَرُوْتِ، وَ اَسْتَمْطِرُ بِهَا غُيُوْثَ الرَّحَمُوْتِ، وَ اَرْتَاضُ بِهَا عَنْ عَلَاقَةِ نَاسُوْتِ الْبَهَمُوْتِ، يَا لَاهُوْتَ كُلِّ نَاسُوْتٍ، يَا اَللّٰهُ. (درودِ فتح از سیدی محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ)

69 اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوْحِيْدًا ذَاتِيًّا صَمَدَانِيًّا مُّهَيْمِنًا عَلَى الْبَوَاطِنِ وَ الظَّوَاهِرِ، اَزَلِيًّا اَبَدِيًّا مُّسْتَوْلِيًا عَلَى الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوْحِيْدًا وَّصْفِيًا كَشْفِيًا سَارِيًا بِمَشَارِقِ الْكَمَالِ الْبَاهِرِ، غَيْبِيًّا عَيْنِيًّا جَارِيًا بِمَنَافِذِ النُّوْرِ السَّافِرِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوْحِيْدًا اِسْمِيًّا حَالِيًا اَدْوَارَ الْاَوْتَارِ وَ الْمَآثِرِ، جَالِيًا طَوَالِعَ الْاَسْرَارِ فِي الدَّوَآئِرِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَوْحِيْدًا ذَاتِيًّا تَنَزَّلَ بِالْاَوْتَارِ فِي الْاَشْفَاعِ، وَ تَنَقَّلَ فِيْ اَفْرَادِ الْاَعْدَادِ فِي الْفُرْقَانِ وَ الْاِجْتِمَاعِ، سُلْطَانُ لَاهُوْتِيَّتِهٖ قَهَّارٌ نَّامُوْسَ نَاسُوْتِيَّتِهٖ يَسْلُبُ الْعُقُوْلَ وَ الْاَبْصَارَ، تَنْطَوِيْ تَحْتَ بَرَازِخِ اَحَدِيَّتِهٖ اَسْرَارُ التَّفْصِيْلِ وَ الْاِجْمَالِ، وَ تَنْزَوِيْ فِيْ ظِلِّ وَاحِدِيَّتِهٖ اَدْوَارُ الْاِنْفِصَالِ وَ الْاِتِّصَالِ، اِسْتَوَتْ بِهٖ عُرُوْشُ الصِّفَاتِ عَلٰى قَوَآئِمِ الْاَسْمَا، وَ حِيْطَ فَرْشُ الْقَوَابِلِ بِسُوْرِ الظُّهُوْرِ الْاَحْمٰى، وَ اسْتَدَارَ عَلٰى حَقَآئِقِ الْمَلَكُوْتِ، وَ اسْتَنَارَ بِبَوَاهِرِ اَضْوَآءِ الْجَبَرُوْتِ، مِنْ نُّقْطَتِهٖ اِسْتَمَدَّ كُلُّ عَالَمٍ، وَ مِنْ طَلْعَتِهٖ اَزْهَرَتْ كَوَاكِبُ اٰدَمَ، اَمَدَّ بِلَطَآئِفِ الْجَمْعِيَّاتِ طَوَآئِفَ الْاَكْوَانِ، وَ اسْتَضَآءَ فِيْ اَصْدَافِ الْاَوْصَافِ بِلَوَامِعِ الرَّحْمٰنِ، رَجَعَتْ اِلَيْهِ اَوَامِرُ الرَّغَبُوْتِ، غَيْسًا وَّ طُهُوْرًا، وَّ هَمَعَتْ مِنْهُ مَوَاطِرُ الرَّحَمُوْتِ، مَطْوِيًّا وَّ مَنْشُوْرًا، اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سُوْرِهِ الْمَتْلُوَّةِ بِلِسَانِ الْبَيَانِ عَنْ حَضْرَةِ الْقِدَمِ، وَ

سِتْرِهِ الْمَجْلُوَّةِ فِيهَا عَرَائِسُ الْحَقَائِقِ وَالْحِكَمِ، نَزِّلْ صَلَاةً وَصِلَتَكَ السُّبُّوحِيَّةَ مِنْ عَرْشِ اِسْمِكَ الْأَعْظَمِ، عَلَى وَاحِدِ عَوَالِمِ تَجَلِّيَاتِكَ الْقُدُّوسِيَّةِ الْأَكْرَمِ، نُورَانِيِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، صَمَدَانِيِّ الْوِجْهَةِ بِكَ إِلَيْكَ فِي الْمَآرِبِ وَالْمَطَالِبِ، لَوْحِ نُقُوشِ سِرِّكَ الْمُحِيطِ الْجَامِعِ، رُوحِ هَيَاكِلِ أَمْرِكَ اللَّدُنِّيِّ الْوَاسِعِ، لِسَانِ إِحْسَانِكَ فِي الْأَزَلِ الْمُفِيضِ لِكُلِّ مَا شِئْتَ، خَزَانَةِ رُتْبَةِ الْأَبَدِ الْمُمِدَّةِ لِكُلِّ مَا أَرَدْتَ، الْأَوَّلِ الْقَابِلِ لِأَنْوَاعِ تَعَيُّنَاتِكَ الْعَلِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ شُؤُونِهَا، الْآخِرِ الْخَاتِمِ عَلَى كُنُوزِ إِمْدَادَاتِكَ الزَّكِيَّةِ فِي ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، الْعَبْدِ الْقَائِمِ بِسِرِّ الْغَيْبِ وَالْإِحَاطَةِ لِغَايَاتِ الْوَصْلِ، النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ إِلَى عَيْنِ الذَّاتِ وَلَا كَيْفَ وَلَا مِثْلَ، فَاتِحَةِ كُتُبِ الْهِبَاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، سِرِّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّائِمَاتِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى هٰذَا الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَطْلُوبُ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بِاسْمِكَ الْمُمِدِّ الْقَيُّومِيِّ عَلَيْهِ مِنْكَ مَعَكَ، وَاجْعَلْنَا بِهٖ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ الرَّبَّانِيِّ مِمَّنْ تَبِعَهُ فَاتَّبَعَكَ، اَللّٰهُمَّ كَذٰلِكَ فِي كُلِّ ذٰلِكَ، مَا دَامَ لَكَ كُلُّ مَا كَانَ وَكُلُّ مَا يَكُونُ وَبَقِيَ تَعْيِينُ أَحَدِيَّتِكَ فِي الظُّهُورِ وَالْبُطُونِ، وَأَشْرَقَ جَمَالُ شُهُودِكَ عَلَى عَوَالِمِ أَمْرِكَ فِي الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَأَنْفَقْتَ مِنْ خَزَائِنِ مَوَاهِبِكَ مَا شِئْتَ مِنْ سِرِّكَ الْمَصُونِ، وَبَطَنَ عَنْ إِدْرَاكِ كُلِّ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ مَا كَتَمْتَ مِنْ أَمْرِكَ الْمَكْنُونِ، آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَّآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}۔ (از سیدی محمد بن ابی الحسن البکری رحمۃ اللہ علیہ)

70 يَا أَللّٰهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مُدَّنَا بِمَدَدِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ أَنْبِيَائِكَ، وَتَاجِ أَوْلِيَائِكَ، وَسِرِّ أَهْلِ وَفَائِكَ، الْبَشِيرِ النَّذِيرِ، السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، الرَّسُولِ الْكَرِيمِ، الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، دَعْوَةِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرٰى أَخِيهِ عِيسٰى، وَالْمُنَوَّهِ بِاسْمِهٖ فِي تَوْرَاةِ مُوسٰى، الصَّادِقِ الْأَمِينِ، الْحَقِّ الْمُبِينِ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، ذِي الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَالْعِصْمَةِ، إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ، نُورِكَ السَّاطِعِ، سَيْفِ حُجَّتِكَ اللَّامِعِ الْقَاطِعِ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى، وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ، وَالْوَسِيلَةِ فِي الْمَحَلِّ الْأَسْمٰى، وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، الشَّاهِدِ الشَّهِيدِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْأُمَمِ خَيْرِ دَلِيلٍ، الْهَادِي بِنُورِكَ الْمَجِيدِ، إِلَى أَشْرَفِ سَبِيلٍ مَّنِ اسْتُسْقِيَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ فَهَمَعَ، وَانْشَقَّ لِهَيْبَتِهٖ قَمَرُ السَّمَاءِ ثُمَّ اجْتَمَعَ، وَعَادَ لَهٗ نُورُ الشَّمْسِ الْمُشْرِقَةِ بَعْدَ الْأُفُولِ وَرَجَعَ، وَانْفَجَرَ الْمَاءُ الْمُنْهَمِرُ مِنْ أَصَابِعِهٖ وَهَمَعَ وَسَجَدَ الْبَعِيرُ لِهَيْبَتِهٖ وَسَكَنَ ثَبِيرٌ لِّرَكْضَتِهٖ، وَحَنَّ الْجِذْعُ حَنِينَ الْعِشَارِ لِفُرْقَتِهٖ، وَأَيَّدْتَهٗ بِرُوحِ قُدْسِكَ، وَحَقَّقْتَهٗ بِحَقَائِقِ مَعْرِفَتِكَ وَأُنْسِكَ، الصَّادِعِ بِالْحَقِّ، النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ، الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ، الْمَمْلُوءِ قَلْبُهٗ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْإِيمَانِ وَالْعِرْفَانِ وَالْحُبِّ، مَنْ رَّفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ، وَأَقَمْتَهٗ فِي مِحْرَابِ الْعُبُودِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ مُطِيعًا لِّأَمْرِكَ، مُعْتَرِفًا لَّكَ بِعَظِيمِ قَدْرِكَ، وَأَقْسَمْتَ بِهٖ فِي كِتَابِكَ وَفَضَّلْتَهٗ بِمَا فَضَّلْتَهٗ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ خِطَابِكَ، وَخَلَقْتَ نُورَ ذَاتِهٖ مِنْ نُّورِ ذَاتِكَ

الْعُظْمٰى، وَ زَجَجْتَ بِهٖ فِيْ غَيْهَبِ لَاهُوْتِ سِرِّكَ الْاَسْمٰى، وَ ثَبَّتَ لَهٗ فِي الْخِلَافَةِ عَنْكَ حَيْثُ اَنْتَ قَدَمًا وَّ
نَشَرْتَ لَهٗ بِوِرَاثَةِ اِسْمِكَ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ فِي الْكَوْنَيْنِ عَلَمًا، وَّ حَقَّقْتَهٗ بِكَ فِيْ مَظَاهِرِ {وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى} وَ جَعَلْتَ بَيْعَتَهٗ عَيْنَ بَيْعَتِكَ، وَ اَنْطَقْتَ لِسَانَهٗ بِحُجَّتِكَ، اُفُقِ اَنْوَارِكَ، وَ بَحْرِ اَسْرَارِكَ، قَائِدِ
جُيُوْشِ الْهِدَايَةِ اِلَيْكَ، سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ اَرْشَدَ بِكَ عَلَيْكَ، حَبِيْبِكَ الْاَكْرَمِ وَ رَسُوْلِكَ الْاَعْظَمِ،
مُحَمَّدِكَ الْمَحْمُوْدِ فِيْ ذَاتِهٖ وَ صِفَاتِهٖ مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُوْدَ لِاَجْلِ ذَاتِهٖ وَ عَمَّرْتَ الْاَكْوَانَ بِبَرَكَاتِهٖ صَلِّ وَ سَلِّمْ
عَلَيْهِ كَمَا يَلِيْقُ بِجَلَالِ اُلُوْهِيَّتِكَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يُنَاسِبُ عَظَمَةَ سُلْطَانِكَ وَ رُبُوْبِيَّتِكَ، وَ صَلِّ وَ
سَلِّمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُكَ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اَسْمَآؤُكَ وَ صِفَاتُكَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ
مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ حُكْمُكَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَّ
ظَاهِرًا، وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ اَوَّلًا وَّ آخِرًا، وَّ عَلٰى اِخْوَانِهٖ مِنْ سَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ الْمَلَآئِكَةِ
الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَ كُلِّ الصَّحَابَةِ وَ الْقَرَابَةِ اَجْمَعِيْنَ، وَ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ، اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ
عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلَى التَّابِعِيْنَ، وَ تَابِعِيْهِمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَ
عَلٰى وَالِدِيْنَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ، وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اِنَّكَ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، آمِيْنَ.
(از سیدی محمد بن ابی الحسن البکری رحمۃ اللہ علیہ)

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً زَاكِيَةً تُبَلِّغُهُ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيْلَةَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا
ذَكَرَهٗ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَ حَيْثُمَا ذَكَرَ اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَلَامَكَ الَّذِيْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى اَنْبِيَآئِكَ الْمُطَهَّرِيْنَ وَ عَلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ اَهْلِ
السَّمٰوَاتِ وَ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ وَ خُصَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِاَفْضَلِ الصَّلَاةِ وَ اَشْرَفِ
التَّسْلِيْمِ۔ (از سیدی الشیخ احمد الصباغ الاسکندری)

72 يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى
نَبِيِّكَ الْاَكْرَمِ، وَ رَسُوْلِكَ الْاَعْظَمِ، نُوْرِكَ الْبَدِيْعِ، وَ سِرِّكَ الرَّفِيْعِ، وَ حَبِيْبِكَ الشَّفِيْعِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ
النَّبِيِّيْنَ، وَ قِبْلَةِ اَوْلِيَآئِكَ وَ اَصْفِيَآئِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ، رُوْحِ اَرْوَاحِ الْمَوْجُوْدَاتِ، وَ لَوْحِ الْاَسْرَارِ الْمَنْقُوْشِ
بِاَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ، النَّاطِقِ بِكَ عَنْكَ اَزَلًا وَّ اَبَدًا لِّسَانِ حُجَّتِكَ الَّذِيْ اَبْدٰى مِنَ الْحَقِّ طَرَآئِقَ قِدَادًا مَّظْهَرِ
جَمَالِكَ الْمُطْلَقِ، وَ بَرْقِ اُفُقِ اَسْرَارِكَ الَّذِيْ لَاحَ وَ اَشْرَقَ، وقف اَحْمَدِ مَنْ حَمِدَكَ وَ حَمِدْتَهٗ، مُحَمَّدِكَ الَّذِيْ لِحَمْدِهٖ
لَكَ وَ حَمْدِكَ لَهٗ اِصْطَفَيْتَهٗ وَ اخْتَرْتَهٗ، مَنْ م بِدَايَتُهٗ مَرْمٰى اَبْصَارِ السُّبَّاقِ، وَ غَايَتُهٗ لَا يُدْرِكُ لَهَا حَدٌّ وَّلَا
يُرَامُ لَهَا لَحَاقٌ خَلِيْفَتِكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ عَلٰى كَافَّةِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَ مُخْتَارِكَ اَنْتَ لِحِفْظِ اَمَانَتِكَ عَلٰى جُمْلَةِ
بَرِيَّاتِكَ، الْهَادِيْ بِكَ اِلَيْكَ، وَ الْمُرْشِدِ بِفَضْلِكَ عَلَيْكَ، بَدْرِ هَالَةِ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ، وَ شَمْسِ بُرُوْجِ الْعِزَّةِ

بِكَ وَ الْجَلَالَةِ، مَنْ اَخَذْتَ الْمِيثَاقَ مِنْ اَنْبِيَآئِكَ عَلٰى تَصْدِيقِهٖ وَ نُصْرَتِهٖ، وَ اَقَرَّ كُلٌّ مِّنْهُمْ بِذٰلِكَ وَ قَرَّرَهٗ وَ
بَيَّنَهٗ لِاُمَّتِهٖ مَنْ شَرَحْتَ صَدْرَهٗ، وَ مَلَأْتَهٗ حِكْمَةً وَّ اِيْمَانًا، وَّ وَ ضَعْتَ وِزْرَهُ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَهٗ، وَ اَبْدَلْتَهٗ
رَحْمَةً وَّ غُفْرَانًا وَّ رَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ، وَ اَقَمْتَهٗ فِىْ مِحْرَابِ الْعُبُوْدِيَّةِ لَكَ مُطِيْعًا لِّاَمْرِكَ، نَاطِقًا بِحَمْدِكَ وَ
مَدْحِكَ وَ شُكْرِكَ، حَبِيْبِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عَطَآئِكَ وَ نَعْمَآئِكَ بِمَا لَا عَيْنٌ رَّاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ
عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ مَّنْ مَّتَّعْتَ بِمَعْرِفَتِكَ وَ خِطَابِكَ وَ جَمَالِكَ مِنْهُ الْقَلْبَ وَ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ
الْعَالَمِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْاَكْرَمِيْنَ، وَ صَحْبِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } ۔ (از سیدی محمد زین العابدین بن محمد البکری)

73 اُشْهِدُكَ وَ كَفٰى بِكَ شَهِيْدًا، يَآ اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ، وَ اُشْهِدُ مَلَآئِكَتَكَ وَ رُسُلَكَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ سُكَّانَ سَمٰوَاتِكَ
وَ الْاَرْضِيْنَ، مِنْ كُلِّ مَا ذَرَأْتَ مِنَ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ تَجْبُرُ
الْكَسِيْرَ، وَ تُغْنِى الْفَقِيْرَ، وَ تَرْحَمُ الضَّعِيْفَ، وَ تُغِيْثُ اللَّهِيْفَ، وَ تَضَعُ وَ تَرْفَعُ، وَ تَصِلُ وَ تَقْطَعُ، وَ تُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْكَ، وَ تُعِزُّ مَنْ تَذَلَّلَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ وَ حَبِيْبُكَ وَ خَلِيْلُكَ،
عَرْشُ اَحَدِيَّتِكَ الْاَوْسَعُ، الْقَآئِمُ بِسِرِّ الْخِلَافَةِ عَنْكَ فِى الْمَقَامِ الْاَبْدَعِ الْاَرْفَعِ، مَنِ اسْتَنَارَ بِاَنْوَارِ
التَّجَلِّيَاتِ الصَّمَدَانِيَّةِ وُجُوْدُهٗ، وَ اسْتَدَارَ عَلٰى دَوَآئِرِ التَّعَيُّنَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ عُهُوْدُهٗ، اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَ سَلِّمْ
عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ وَ مِنْ حَيْثُ اَسْمَآؤُكَ وَ صِفَاتُكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا تَوَاخِيْهِمَا هِبَاتُكَ وَ بَرَكَاتُكَ، وَ عَلٰى
اٰلِهِ الْكِرَامِ، وَ صَحْبِهِ الْعِظَامِ، وَ وُرَّاثِهِ الْفِخَامِ ۔ (از سیدی محمد زین العابدین بن محمد البکری)

74 يَا مَوْلَاىَ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُرْسِلَ بُعُوْثَ غُيُوْثِ سَلَامِكَ وَ صَلَاتِكَ وَ نُعُوْتَ هُبُوْبِ نَسَمَاتِ
نَفَخَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ، وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ زِنَةَ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَ مِلْئَ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، عَلٰى اَفْضَلِ
مَصْنُوْعَاتِكَ وَ اَجَلِّ مَظَاهِرِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ اَكْمَلِ مُتَخَلِّقٍ بِحَقَآئِقِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ اَعْظَمِ مُتَحَقِّقٍ
بِدَقَآئِقِ مُشَاهَدَاتِ ذَاتِكَ، اَشْرَفِ نَوْعِ الْاِنْسَانِ، وَ اِنْسَانِ عُيُوْنِ الْاَعْيَانِ، وَ الْمُسْتَخْلَصِ مِنْ خَالِصَةِ
خُلَاصَةِ وَلَدِ عَدْنَانَ، الْمَمْنُوْحِ بِبَدِيْعِ الْاٰيَاتِ، وَ الْمَخْصُوْصِ بِعُمُوْمِ الرِّسَالَةِ وَ غَرَآئِبِ الْمُعْجِزَاتِ، السِّرِّ
الْجَامِعِ الْفُرْقَانِيِّ، وَ الْمَخْصُوْصِ بِمَوَاهِبِ الْقُرْبِ مِنَ النَّوْعِ الْاِنْسَانِيِّ مَوْرِدِ الْحَقَآئِقِ الْاَزَلِيَّةِ وَ مَصْدَرِهَا وَ
جَامِعِ جَوَامِعِ مُفْرَدَاتِهَا وَ مِنْبَرِهَا، وَ خَطِيْبِهَا وَ مُرْشِدِهَا، اِذَا حَضَرَ فِىْ حَظَآئِرِهَا بَيْتِ اللّٰهِ الْمَعْمُوْرِ الَّذِىْ
اتَّخَذَهُ اللّٰهُ لِنَفْسِهٖ وَ جَعَلَهٗ نَاظِمًا لِّحَقَآئِقِ قُدْسِهٖ مَدَّةَ مِدَادِ نُقْطَةِ الْاَكْوَانِ، وَ مَنْبَعِ يَنَابِيْعِ الْحِكَمِ وَ
الْعِرْفَانِ، مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الْاَنْبِيَآءَ، وَ وَرَّثْتَ عُلُوْمَهٗ لِلْاَصْفِيَآءِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ جَاهَدَ فِيْكَ حَقَّ
الْجِهَادِ، حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ، صَلَوَاتٍ وَّ تَسْلِيْمَاتٍ تَتَجَدَّدُ مَعَ التَّضْعِيْفِ اَبَدًا فِىْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ مَّعَ ذِكْرِ
الذَّاكِرِيْنَ وَ سَهْوِ الْغَافِلِيْنَ وَ لَمْحِ النَّاظِرِيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ، وَ الْعُلَمَآءِ الْعَامِلِيْنَ وَ الْاَوْلِيَآءِ
الصَّالِحِيْنَ وَ الْاَئِمَّةِ الْمُرْشِدِيْنَ، وَ مَنْ قَامَ بِصِفَةِ الْاِسْلَامِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ (از سیدی علی بن احمد الانصاری)

75 نَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى نُوْرِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا، وَ سِرِّ اَسْرَارِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَ مَا حَوَاهُمَا، الْمَنْعُوْتِ بِالْحَقِّ، وَ الْمُصْطَفٰى مِنَ الْخَلْقِ، مَظْهَرِ جُمْلَةِ الْاَسْمَا، وَ مِرْآةِ وَجْهِ الْمُسَمّٰى، حَامِلِ لِوَآءِ الْاَمَانَةِ، الْمَوْصُوْفِ بِالصِّدْقِ وَ الصِّيَانَةِ، حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى، وَ رَسُوْلِكَ الْمُنَبَّا، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْقَآئِمِ بِحَمْدِكَ اَبَدًا، وَّ الْمَحْمُوْدِ بِمَدْحِكَ سَرْمَدًا وَّ اَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ م بَابِهٖ يَا وَاحِدُ يَا آحَدُ اِلٰى حَضْرَةِ الْهِدَايَةِ وَ الْاِهْتِدَا، وَ نَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى اُنْمُوْذَجِ الْحَقَآئِقِ الْعَلِيَّةِ، وَ مَجْلَى التَّعَيُّنَاتِ الثُّبُوْتِيَّةِ، وَ مُحْتَدِ الْهُيُوْلَاتِ الْاِمْكَانِيَّةِ، وَ رُوْحِ الْاَرْوَاحِ الْاَكْوَانِيَّةِ، وَ جَوْهَرِ الطَّبِيْعَةِ الْكُلِّيَّةِ الْعُنْصُرِيَّةِ، مَظْهَرِ اللَّاهُوْتِ الْغَيْبِيِّ، وَ سِرِّ النَّاسُوْتِ الْعَيْنِيِّ، حَامِلِ اللِّوَآءِ، وَ الْقَآئِمِ بِجَمِيْعِ الْآلَآءِ، صَلَاةً يَّسْتَحِقُّهَا عَظِيْمُ شَأْنِهٖ وَ مَا حَوٰى، وَ اَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ م بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ يَا سَامِعَ السِّرِّ وَ النَّجْوٰى، وَ نَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى نُقْطَةِ بِيْكَارِ دَآئِرَةِ الْاَكْوَانِ، وَ مَجْلٰى حَقَآئِقِ وَ رَقَآئِقِ الْاَزْمَانِ، الْمُتَحَلِّقِ وَ الْمُتَحَقِّقِ بِجَمِيْعِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ، وَ الْمُخَاطَبِ بِجَمِيْعِ مَعَانِي الْعِرْفَانِ، الْعَلِيْمِ بِحَقِيْقَةِ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْاَكْوَانِ، عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ وَ الْاَزْمَانِ، حَامِلِ لِوَآءِ رَحْمَةِ الرَّحْمٰنِ، وَ الْمَخْصُوْصِ بِشَفَاعَةِ فَصْلِ الْقَضَآءِ لِلْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، مَنْ يَّقُوْلُ اَنَا لَهَا فَيُكْرَمُ مِنَ اللهِ بِالْمَطْلُوْبِ وَلَا يُهَانُ، وَ اَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ م بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ، وَ اَسْئَالُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى مُمِدِّ الْاَرْوَاحِ، وَ مُفِيْضِ النُّوْرِ عَلَى الْاَشْبَاحِ، وَ هَادِي الْمُضِلِّيْنَ اِلٰى طُرُقِ الْفَلَاحِ حَاوِي حَضْرَةِ اَبِي الْاَرْوَاحِ، وَ حَامِيْ حَوْمَةِ اُمِّ الْاَشْبَاحِ، فَمَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ حَامِلِ لِوَآءِ الْفَتْحِ مِنَ الْفَتَّاحِ، اَلْمَخْصُوْصِ بِالْكَوْثَرِ وَ النَّحْرِ وَ الْفَلَاحِ، وَ اَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ م بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَةِ الْعِيَانِ وَ الْكِفَاحِ، وَ نَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى مَنْ تَشَرَّفَ بِهِ الْمَكَانُ وَ الْاِمْكَانُ، وَ قُمِعَ بِهٖ اَهْلُ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ وَ الطُّغْيَانِ، اَلْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ فِي السِّرِّ وَ الْاِعْلَانِ، وَ الْمَوْعُوْدِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ دُوْنَ الْاَنَامِ مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، حَامِلِ لِوَآءِ الْاُنْسِ، الْمَحْمُوْلِ لِحَضْرَةِ الْقُدْسِ، مِنَ الدَّيَّانِ، اَللّٰهُمَّ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اَوْرِدْنَا حَوْضَهٗ وَ اسْقِنَا مِنْ يَّدِهٖ شُرْبَةً هَنِيْئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهَآ اَبَدًا وَّ اَدْخِلْنَا مِنْ م بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ بِمَنِّكَ وَ كَرَمِكَ يَا مَنَّانُ۔ (از سیدی ابی سلعۃ الخلوتی)

76 اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مَنْ خَصَّصَ وَ عَمَّمَ، وَ اَوْضَحَ وَ اَبْهَمَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ الرُّوْحُ وَ النُّوْرُ وَ السِّرَاجُ مِنْ حَيْثُ الْاِبْدَاعُ وَ الْاِخْتِرَاعُ وَ الْكَشْفُ وَ الْاِنْتِقَالُ اَحْمَدُ اَمْرِكَ وَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ خَلْقِكَ وَ اَسْعَدُ كَوْنِكَ وَ الْمَجْمُوْعُ مِنْ ذٰلِكَ صَلَاةً ذَاتِيَّةً خَاصَّةً م بِهٖ عَآمَّةً فِيْ جَمِيْعِ اَلْوَاحِهِ الْحَرْفِيَّةِ وَ الْاِسْمِيَّةِ، وَ جَمِيْعِ مَرَاتِبِهِ الْعَقْلِيَّةِ وَ الْعِلْمِيَّةِ، صَلَاةً مُّتَّصِلَةً لَّا يُمْكِنُ اِنْفِصَالُهَا بِسَبَبٍ وَّلَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ بَلْ يَسْتَحِيْلُ عَقْلًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْاُمَّهَاتِ الْجَوَامِعِ وَ الْخَزَآئِنِ الْمَوَانِعِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ الدَّآئِمَانِ فِي الْوُجُوْدِ عَلٰى فَاتِحِ حَضْرَةِ الشُّهُوْدِ وَ مَانِحِ مَدَدِ الْوَدُوْدِ نُوْرِكَ الْمَسْعُوْدِ وَ ضِيَآءِ اُفُقِكَ فِي الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ سَيِّدِ

الْجُنُوْدِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَهْلِ الْمَوَاجِيْدِ وَ الْجُوْدِ قف اِلٰهَ الْحَقِّ وَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ { وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } ۔ (از سیدی محمد المدعو غوث اللہ)

77 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ
{ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ } اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ اَبْرِزْ وَ اَكْرِمْ، وَ اَعِزَّ
وَ اَعْظِمْ، عَلَى الْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ الْمَجْدِ الْبَاذِخِ، وَ النُّوْرِ الطَّامِحِ، وَ الْحَقِّ الْوَاضِحِ، مِيْمِ الْمَمْلَكَةِ، وَ حَآءِ الرَّحْمَةِ،
وَ مِيْمِ الْعِلْمِ وَ دَالِ الدَّلَالَةِ اَلِفِ الْجَبَرُوْتِ، وَ حَآءِ الرَّحَمُوْتِ، وَ مِيْمِ الْمَلَكُوْتِ، وَ دَالِ الْهِدَايَةِ وَ لَامِ
الْاَلْطَافِ الْخَفِيَّةِ، وَ نُوْنِ الْمِنَنِ الْوَفِيَّةِ وَ عَيْنِ الْعِنَايَةِ، وَ كَافِ الْكِفَايَةِ، وَ يَآءِ السِّيَادَةِ، وَ سِيْنِ السَّعَادَةِ وَ
قَافِ الْقُرْبَةِ، وَ طَآءِ السَّلْطَنَةِ، وَ هَآءِ الْعُرْوَةِ، وَ صَادِ الْعِصْمَةِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ جَوَاهِرِ عِلْمِهِ الْعَزِيْزِ، وَ اَصْحَابِهٖ مَنْ
اَصْبَحَ الدِّيْنُ بِهِمْ فِيْ حِرْزٍ حَرِيْزٍ، صَلَاتَكَ الْمُهَيْمِنَةَ بِعَظَمَةِ جَلَالِكَ، الْمُشَرَّفَةَ بِجَلَالِ جَمَالِكَ، الْمُكَرَّمَةَ
بِعَظِيْمِ نَوَالِكَ، دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ لَا اِنْتِهَآءَ لَهَا سَامِيَةً بِسُمُوِّ رِفْعَتِكَ لَا اِنْقِضَآءَ لَهَا صَلَاةً تَفُوْقُ وَ
تَفْضُلُ وَ تَلِيْقُ بِمَجْدِ كَرَمِكَ وَ عَظِيْمِ فَضْلِكَ اَنْتَ لَهَآ اَهْلٌ لَّا يَبْلُغُ كُنْهَهَا وَلَا يُقْدَرُ قَدْرُهَا كَمَا يَنْبَغِيْ
لِشَرَفِ نُبُوَّتِهٖ وَ عَظِيْمِ قَدْرِهٖ هُوَ لَهَآ اَهْلٌ صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا هُمُوْمَ حَوَادِثِ عَوَارِضِ الْاِخْتِيَارِ وَ تَمْحُوْ
بِهَا ذُنُوْبَ وُجُوْدِنَا بِمَآءِ سَمَآءِ الْقُرْبَةِ حَيْثُ لَا بَيْنَ وَلَآ اَيْنَ وَلَا جِهَةَ وَلَا قَرَارَ، وَ تُغَيِّبُنَا بِهَا عَنَّا فِيْ غَيَاهِبِ
غُيُوْبِ اَنْوَارِ اَحَدِيَّتِكَ فَلَا نَشْعُرُ بِتَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ تُخَوِّلُنَا بِهَا سَمَاحَ رَبَاحِ فُتُوْحِ وُضُوْحِ حَقَآئِقِ
بَدَآئِعِ جَمَالِ نَبِيِّكَ الْمُخْتَارِ، وَ تَمْنَحُنَا بِهَآ اَسْرَارَ اَنْوَارِ رُبُوْبِيَّتِكَ فِيْ مِشْكَاةِ الزُّجَاجَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
فَتَتَضَاعَفُ اَنْوَارُنَا بِلَا اَمَدٍ وَّلَا حَدٍّ وَّلَا انْحِصَارٍ، يَارَبِّ يَآ اَللّٰهُ يَارَبِّ يَآ اَللّٰهُ يَارَبِّ يَآ اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَا
قَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ نَسْئَلُكَ
بِدَقَآئِقِ مَعَانِيْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الْمُتَلَاطِمِ اَمْوَاجُهَا فِيْ بَحْرِ خَزَآئِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، وَ بِاٰيَاتِهِ
الْبَيِّنَاتِ الزَّهِرَاتِ الْبَاهِرَاتِ عَلٰى مَظْهَرِ الشَّانِ عَيْنِ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ، اَنْ تُذْهِبَ عَنَّا ظَلَامَ وَ طَيْسَ
الْفَقْدِ، بِنُوْرِ اُنْسِ الْوَجْدِ، وَ اَنْ تَكْسُوَنَا مِنْ حُلَلِ صِفَاتِ كَمَالِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ بِنُوْرِ الْجَلَالَةِ، وَ اَنْ تَسْقِيَنَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهِ الْمُتْرَعِ بِرَحِيْقِ التَّسْنِيْمِ وَ شَرَابِ الرِّسَالَةِ، اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ حَبِيْبِنَا وَ شَفِيْعِنَا الْمَبْعُوْثِ بِالْقِيْلِ الْاَقْوَامِ، وَ مِنَّةِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ
فَصِيْحٍ وَّ اَعْجَمَ قُطْبِ رَحَى النَّبِيِّيْنَ وَ نُقْطَةِ دَآئِرَةِ الْمُرْسَلِيْنَ، الْمُخَاطَبِ فِي الْكِتَابِ الْمَكْنُوْنِ { مَآ اَنْتَ
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ وَّ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ } اَلْمَوْصُوْفِ بِقَوْلِكَ الْكَرِيْمِ { وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ } ۔
(از سیدی ابی العباس احمد بن موسیٰ المسرعی)

78 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ اَفْلِحْ وَ اَنْجِحْ، وَ اَتِمَّ وَ اَصْلِحْ، وَ زَكِّ وَ اَرْبِحْ، وَ اَوْفِ وَ اَرْجِحْ،
اَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ، وَ اَجْزَلَ الْمِنَنِ وَ التَّحِيَّاتِ، عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَلَقِ
صُبْحِ الْوَحْدَانِيَّةِ، وَ طَلْعَةِ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ بَهْجَةِ قَمَرِ الْحَقَآئِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ، وَ عَرُوْسِ حَضْرَةِ

الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ، نُوْرِ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّ سَنَاهُ { يٰسٓ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ } سِرِّ كُلِّ نَبِيٍّ وَّ هُدَاهُ { ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ
الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ } جَوْهَرِ عَقْلِ كُلِّ وَلِيٍّ وَّ ضِيَاهُ { سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ } اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا
وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَنْبِيَآءِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَاتِكَ عَلٰى ذَاتِهٖ فِي الذَّوَاتِ
مُقَدَّسَةً م بِسَرَآئِرِ قُدْسِكَ، رَآئِقَةً م بِرَقَآئِقِ اُنْسِكَ وَ عَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ مَوْسُوْمَةً م بِصِفَاتِكَ وَ اَسْمَآئِكَ، وَ
عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ مَنُوْطَةً م بِنَعْمَآئِكَ وَ آلَآئِكَ، وَ عَلٰى قَلْبِهٖ فِي الْقُلُوْبِ مُرَوَّقَةً م بِالْعِلْمِ وَ الْيَقِيْنِ وَ
الْعِرْفَانِ، وَ عَلٰى رُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ مُحَبَّرَةً م بِالتَّوْفِيْقِ وَ الرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ، وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ مُنَمَّقَةً م
بِالْفَوْزِ وَ الْقَبُوْلِ وَ الرِّضْوَانِ، صَلَاةً تَتَضَاعَفُ اَعْدَادُهَا، بِالْفَضْلِ وَ الْمِنَنِ وَ الْاِحْسَانِ، وَ تَتَرَادَفُ
اَمْدَادُهَا، بِالْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الْاِمْتِنَانِ، لَا غَايَةَ لَهَا وَلَآ اَمَدَ لَهَا شَرِيْفَةً عَنِ الْمَكَانِ وَ الزَّمَانِ، صَلَاتَكَ
الْمَنَزَّهَةَ عَنِ الْحُدُوْثِ وَ الْفُتُوْرِ وَ النُّقْصَانِ، وَ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا حَنَّانُ يَا
مَنَّانُ يَا رَحْمٰنُ، وَ عَلٰى آلِهٖ مَصَابِيْحِ طُرُقِ الْهِدَايَةِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ، وَ مَفَاتِيْحِ كُنُوْزِ الْحَقَآئِقِ لِذَخَائِرِ
الْكَوْنَيْنِ، وَ اَصْحَابِهٖ نُجُوْمِ ظُلَمِ لَيْلِ الْجَهَالَةِ، اَمَنَةِ الْاُمَّةِ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَةِ، صَلَاةً تُصَفِّيْنَا
بِهَا مِنْ كَدَرِ شَوْبِ الطَّبِيْعَةِ الْاٰدَمِيَّةِ بِالسَّحْقِ وَ الْمَحْقِ، وَ تَطْمِسُ بِهَآ آثَارَ وُجُوْدِ الْغَيْرِيَّةِ مِنَّا فِي غَيْبِ
غَيْبِ الْهُوِيَّةِ فَيَبْقَى الْكُلُّ لِلْحَقِّ فِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَ تُرَقِّيْنَا بِهَا فِيْ مَعَارِجِ شُهُوْدِ وُجُوْدِ سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي
الْاٰفَاقِ { وَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ } يَا رَبِّ يَا اللهُ يَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ، يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ { لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ } نَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ
اَنْ تَمْنَحَنَا بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ اَنْوَارَ عُلُوْمِ الرَّقَآئِقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِدَقِيْقِ اِشَارَاتِ { وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا } وَ تُخَصِّصَنَا بِكَرَمِكَ مِنْ حَضْرَةِ الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ وَ النِّعْمَةِ، الْكَامِلَةِ
النَّبَوِيَّةِ بِاِنَابَةِ الْفَتْحِ الْقَرِيْبِ وَ الْفَتْحِ الْمُبِيْنِ وَ الْفَتْحِ الْمُطْلَقِ فُتُوْحَ الْمَوَاهِبِ الْاَحْمَدِيَّةِ، بِلَمَحَاتِ
لَحَظَاتِ خِطَابِ { اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا } وَ
تُبِيْحَنَا مِنْ اَرْفَعِ الْمَخَادِعِ اَعْلٰى شَرَفِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، وَ اَجَلَّ مَرَاتِبِ الْقُطْبِيَّةِ الْكُبْرٰى، وَ اَكْمَلَ
الْاَخْلَاقِ الْعَلِيَّةِ الْعُظْمٰى، فِيْ مَقَامِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، بِوَاسِطَةِ اَحْمَدِكَ الْمَخْصُوْصِ بِثُبَاتِ مَا زَاغَ
الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى يَا ذَا الْكَرَمِ الْعَظِيْمِ، وَ الْعَطَآءِ الْجَسِيْمِ، وَ الْفَضْلِ الْعَمِيْمِ، بِحُرْمَةِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ،
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ صَلَاتَكَ وَ سَلَامَكَ فِيْ طَيِّ عِلْمِكَ الْاَزَلِيِّ، وَ سَابِقِ حُكْمِكَ
الْاَبَدِيِّ صَلَاةً لَّا يَضْبِطُهَا الْعَدُّ، وَلَا يَحْصُرُهَا الْحَدُّ، وَلَا تَكْتَنِفُهَا الْعِبَارَةُ، وَلَا تَحْوِيْهَا الْاِشَارَةُ، سَطَعَ فَجْرُهَا
بِحَظِّهٖ، الْاَنْفَسِ عَلٰى اَفْرَادِ الْفُحُوْلِ، فَاَبْهَتَ وَ اَبْهَرَ، وَ لَمَعَ نُوْرُهَا بِفَيْضِهِ الْاَقْدَسِ، عَلٰى ذَوِي الْعُقُوْلِ،
فَاَدْهَشَ وَ حَيَّرَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا وَ حَبِيْبِنَا وَ شَفِيْعِنَا مُحَمَّدٍ نِ النُّوْرِ الْاَزْهَرِ، مُجْلٰى تَجَلِّي الذَّاتِ
الْاَحَدِيَّةِ، فِيْ حَقَآئِقِ الصِّفَاتِ الْوَاحِدِيَّةِ، سِرِّ سَرَآئِرِ اللَّاهُوْتِ، فِيْ مَشَارِقِ اَنْوَارِ الْجَبَرُوْتِ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي
الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، تَبْيِيْنًا لَّهٗ وَ تَمْكِيْنًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ تَثْبِيْتًا { بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اِنَّا
فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا

مُّسْتَقِيمًا وَّ يَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا } - (از سیدی ابی العباس احمد بن موسٰی المسرعی)
79 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ { اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ
كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا
يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَ اعْفُ عَنَّا
وقفه وَ اغْفِرْ لَنَا وقفه وَ ارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ } اٰمِيْنَ { يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ
اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَآ اِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ } { هُوَ
الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ كَفٰى بِاللهِ شَهِيْدًا } اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ، وَ
اَتْحِفْ وَ اَنْعِمْ، وَ امْنَحْ وَ اَكْرِمْ، وَ اَجْزِلْ وَ اَعْظِمْ، اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّتَنَزَّلَانِ
مِنْ اُفُقِ كُنْهِ بَاطِنِ الذَّاتِ اِلٰى فَلَكِ سَمَآءِ مَظَاهِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، وَ يَرْتَقِيَانِ مِنْ سِدْرَةِ مُنْتَهَى
الْعَارِفِيْنَ، اِلٰى مَرْكَزِ جَلَالِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ عِلْمِ يَقِيْنِ
الْعُلَمَآءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وَ عَيْنِ يَقِيْنِ الْخُلَفَآءِ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَ حَقِّ يَقِيْنِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، الَّذِيْ تَاهَتْ فِيْ
اَنْوَارِ جَلَالِهٖ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ تَحَيَّرَتْ فِيْ دَرْكِ حَقَآئِقِهٖ عُظَمَآءُ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُهَيَّمِيْنَ، الْمُنَزَّلِ
عَلَيْهِ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ { لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ }
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ وَ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ، وَ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ، وَ رَأْفَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ عَلَى
النُّوْرِ الْاَكْمَلِ الْاَعْلٰى، وَ الْكَمَالِ الْاَنْوَارِ الْاَبْهٰى، مَهْبَطِ تَجَلِّيَاتِ الْكَمَالَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ مَوَاقِعِ نُجُوْمِ
الْاَسْرَارِ الْجَمَالِيَّةِ، وَ الْجَلَالِيَّةِ، اَللَّطِيْفِ بِلَطَآئِفِ شَمَآئِلِ فَضَآئِلِ مَكَارِمِ الْبَرِّ الْكَرِيْمِ الرَّؤُوْفِ بِرَأْفَةِ {
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ }
صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهٗ وَ رَحْمَتُهٗ وَ بَرَكَاتُهٗ وَ رَأْفَتُهٗ وَ تَحِيَّتُهٗ وَ مَغْفِرَتُهٗ وَ رِضْوَانُهٗ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ
الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْعَزِيْزِ بِعِزِّ عَظَمَةِ اللهِ الْعَظِيْمِ بِعَظَمَةِ عِزَّةِ اللهِ الْقُدُّوْسِ بِسُبْحَاتِ سُبْحَانَ
اللهِ الْمَحْمُوْدِ، بِمَحَامِدِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَحْدَانِيِّ بِتَوْحِيْدِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْفَرْدَانِيِّ، بِمَنَارِ اللهُ اَكْبَرُ الرَّبَّانِيِّ، بِتَدْبِيْرِ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ صَلَاةً عَبِيْرَةَ النَّدِّ سَاطِعَةَ الْاَنْوَارِ مُعَطَّرَةَ الْوُجُوْدِ بِرَوَآئِحِ الْجُوْدِ الْاِلٰهِيِّ الْاَحْمَدِيِّ،
وَ السِّرِّ الْقُدْسِيِّ الْمُحَمَّدِيِّ، فِيْ عَوَالِمِ شُهُوْدِ { اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ } لَا غَايَةَ لَهَا
وَلَا اِنْتِهَآءَ وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِدَوَامِكَ وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ
نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْاَمِيْنِ الْمُطَاعِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ رَحْمَةِ الْعٰلَمِيْنَ وَ
قَدَمِ صِدْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ غِبْطَةِ الْحَقِّ، وَ عُمْدَةِ الْخَلْقِ، الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ، وَ الْبَرِّ الْاَرْحَمِ،
صَلَاةً جَلَّتْ عَنِ الْحَصْرِ وَ الْعَدِّ، وَ تَعَالَتْ عَنِ الدَّرْكِ وَ الْحَدِّ، صَلَاتَكَ التَّآمَّةَ الَّتِيْ لَا تَتَنَاهٰى تَدُوْمُ بِدَوَامِ

مُلْكِكَ الَّذِىْ لَا يُضَاهٰى، كَمَا يَلِيْقُ بِجُوْدِ كَرَمِكَ وَ كَرَمِ جُوْدِكَ يَا جَوَّادُ يَا كَرِيْمُ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا تُسَلِّمُنَا بِهٖ مِنْ خُرُوْجِ وَسَاوِسِ الصُّدُوْرِ، بِنَفَحَاتِ بَرَكَاتِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ {اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} وَ تُخَلِّصُنَا بِهٖ مِنْ ثِقْلِ اَوْزَارِنَا بِجُوْدِ غُفْرَانَ {وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ} وَ تَرْفَعُنَا بِهٖ عِنْدَكَ يَا رَفِيْعَ الدَّرَجَاتِ دَرَجَاتِ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَ تَمْنَحُنَا بَرْدَ الرِّضَا وَ التَّسْلِيْمِ، بِسَكِيْنَةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، مُبَارَكًا بِبَرَكَاتِ {تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ} كَثِيْرًا تَكَاثَرَ خَيْرُهٗ، بِتَكْثِيْرٍ لَّهُمْ مَا يَشَآؤُوْنَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ وَ تَرَادَفَ بِرُّهٗ بِمَزِيْدٍ لَهُمْ مَا يَشَآؤُوْنَ فِيْهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ وَّ عَلٰى آلِهٖ ثَمَرَةِ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنِ سِرِّ الْوِلَايَةِ وَ مَنْبَعِ عَيْنِ الْفُتُوَّةِ، سُحُبِ سَمَآءِ مَكَارِمِهِ الْعَمِيْمَةِ، الْمُتَحَقِّقِيْنَ بِحَقَآئِقِ اَخْلَاقِهِ الْعَظِيْمَةِ، وَ اَصْحَابِهٖ ضُوْءِ شَمْسِ صَبَاحِ الْاِهْتِدَآءِ، الْاَئِمَّةِ الْمُهْتَدِيْنَ بِنُوْرِ قَمَرِ الْهُدٰى، صَلَاةً وَّ سَلَامًا يُّبَلِّغَانِ قَآئِلَهُمَآ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ بِخُلَاصَةِ خَاصَّةِ اَهْلِ اللّٰهِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ يُنْسِيْلَانِهٖ زُلْفٰى اَجَلِّ مَرَاتِبِ اَوْلِيَآءِ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ بِمَنِّ {وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ} فِى الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا وَ الْغَايَةِ الْقُصْوٰى، فَوْقَ عَرْشِ الْاِسْتِوَا بِتَرَاكُمِ اَنْوَارِ تَمْكِيْنِ {اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ} يَا رَبِّ يَآ اللّٰهُ يَا بَاسِطُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ، اَسْئَلُكَ عَوَاطِفَ الْكَرَمِ وَ فَوَاتِحَ الْجُوْدِ، اَقِلْ عَثَرَاتِنَا مِنْ كَثَآئِفِ ذُنُوْبِ وُجُوْدِنَا الْمُظْلِمَةِ بِالْبُعْدِ مِنْكَ وَ اغْفِرْ لَنَا بِنُوْرِ قُرْبِكَ وَ نَعِّمْنَا بِصَفَآءِ وُدِّكَ وَ طَهِّرْنَا مِنْ حَدَثِ الْجَهْلِ بِالْعِلْمِ الْاِلٰهِيِّ، وَ اَتْحِفْنَا بِالْقُرْبِ الرَّبَّانِيِّ، وَ الْوَصْلِ الْمَعْنَوِيِّ، كَمَنِ اصْطَفَيْتَهٗ حَتّٰى اَحْبَبْتَهٗ فَكُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَ بَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَ لِسَانَهُ الَّذِىْ يَنْطِقُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَ اَعْطِنَا مَا لَا عَيْنٌ رَّاَتْ وَلَآ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ مِّمَّآ اَعْدَدْتَّ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، الْاَئِمَّةِ الْمَرْضِيِّيْنَ، اُولِى الْاِسْتِقَامَةِ فِى الْمُسْتَوَى الْاَزْهٰى وَ الْاُفُقِ الْمُبِيْنِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ} اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ وَ نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِحُبِّكَ لِحَبِيْبِكَ وَ حُبِّ حَبِيْبِكَ لَكَ وَ بِدُنُوِّهٖ مِنْكَ وَ بِتَدَلِّيْكَ لَهٗ وَ بِالسَّبَبِ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ صَلَاةً وَّ سَلَامًا خَصَّصْتَهٗ بِهِمَا لِخُصُوْصِيَّتِهٖ بِمَآ اِسْتَاْثَرْتَ لَهٗ عِنْدَكَ فِىْ عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ لِمُخَاطَبَتِكَ اِيَّاهُ بِقَوْلِكَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَحَبَّ وَلَآ اَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ وَ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ الْاَعْلٰى وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، يَآ اللّٰهُ يَا بَرُّ يَا لَطِيْفُ يَا كَافِىُ يَا حَفِيْظُ يَا وَاسِعَ الْعَطَآءِ وَ مُسْبِغَ النِّعَمِ نَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْعَظِيْمِ الْمَبَرَّةَ الْجَامِعَةَ مِنْ نُّوْرِ كَمَالِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُصْطَفٰى عِنَايَتِكَ، اَنْ تَتَّحِدَ ذَاتُنَا بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ بِجَلَالَتِكَ، وَ تَتَحَقَّقَ صِفَاتُنَا بِصِفَاتِهِ الْمُشْرِقَةِ بِمَحَبَّتِكَ، وَ تَتَبَدَّلَ اَخْلَاقُنَا بِاَخْلَاقِهِ الْمُعَظَّمَةِ بِكَرَامَتِكَ، فَيَكُوْنَ عِوَضًا لَّنَا عَنَّا فَنَحْيَا حَيَاتَهُ الطَّيِّبَةَ النَّقِيَّةَ، وَ نَمُوْتَ مَيْتَتَهُ السَّوِيَّةَ الْمَرْضِيَّةَ، وَ اَنْ تَجْعَلَهٗ فِى الْقَبْرِ لَنَا سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّ بَهْجَةً وَّ عِنْدَ اللِّقَآءِ عُدَّةً وَّ بُرْهَانًا وَّ حُجَّةً وَّ اَنْ تَحْشُرَنَا مَعَهٗ فِىْ زُمْرَتِهٖ، مَعَ آلِهٖ وَ خَاصَّتِهٖ، مُزَيَّنِيْنَ بِزِيْنَةِ اِيْمَانِ {وَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَآ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ} فِىْ

مَوْكِبِ الْعِزِّ لِعَرَآئِسِ السُّعَدَا، اَهْلِ السَّعَادَةِ غَدًا ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾۔ (از سیدی ابی العباس احمد بن موسیٰ المسرعی)

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَ مُرَادِ الْاِرَادَاتِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ بِالْكَرَامَاتِ، وَ الْمُؤَيَّدِ بِالنَّصْرِ وَ السَّعَادَاتِ، السِّرِّ الظَّاهِرِ وَ النُّوْرِ الْبَاطِنِ الْجَامِعِ لِجَمِيْعِ الْحَضَرَاتِ، صَاحِبِ الْحَمْدِ الَّذِيْ هُوَ مِفْتَاحُ اَقْفَالِ الْاَغْطِيَةِ الْاِلٰهِيَّاتِ، اَلْاَوَّلِ فِي الْاِيْجَادِ وَ الْوُجُوْدِ وَ مَنْ بِهٖ خَتَمَ اللّٰهُ النُّبُوَّةَ وَ الرِّسَالَةَ، نُوْرِ عَيْنِ الْعِنَايَاتِ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتِ، اَلْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَةَ الْمَشَاهِدِ وَ الْكَمَالَاتِ، الَّذِيْ اُسْرِيَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ وَ رُوْحِهِ الْاَقْدَسِ الْعَالِيْ اِلٰى اَعْلَى الْمَقَامَاتِ، وَ خَاطَبَهٗ رَبُّهٗ وَ اَكْرَمَهٗ بِالتَّحِيَّاتِ، النُّوْرِ الْاَكْمَلِ وَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الْاَزْهَرِ الْقَائِمِ بِكَمَالِ الْعُبُوْدِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ مَعَ الْعِبَادَاتِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ مَنِ اقْتَدٰى بِهِمُ اهْتَدٰى اِلَى اللّٰهِ وَ صَارَ مِنْ اَهْلِ الْهِدَايَاتِ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا لَّا يَبْلُغُ حَصْرَ عَدَدِهِمَا اَهْلُ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى السَّيِّدِ الْاَعْظَمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الْبَرِّ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ السَّابِقِ اِلَى الْخَلْقِ نُوْرُهٗ، وَ الرَّحْمَةِ اِلَى الْعَالَمِ ظُهُوْرُهٗ، عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ، وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ، وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَ لَا انْتِهَاءَ، وَلَا اَمَدَ لَهَا وَ لَا انْقِضَاءَ، صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَ اَجِرْ يَا رَبِّ خَفِيَّ لُطْفِكَ الْجَمِيْلِ فِيْ اَمْرِيْ وَ الْمُسْلِمِيْنَ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء)

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ خَلْقِ اللّٰهِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَ عَدَدَ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ حَمَلَةِ عَرْشِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ سَلِّمْ وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَجْمَعِيْنَ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ وَ ضِعْفَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اَضْعَافِهِمْ وَ اَضْعَافِ اَضْعَافِهِمْ صَلَاةً تَزِيْدُ وَ تَدُوْمُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔ (از کتاب مسالك الحنفاء)

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ سَيِّدِ الْاٰخِرِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْعُبَّادِ وَ سَيِّدِ الزَّاهِدِيْنَ، وَ
سَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ وَ السَّاجِدِيْنَ وَ سَيِّدِ الطَّآئِفِيْنَ وَ الْعَاكِفِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْقَآئِمِيْنَ وَ الصَّآئِمِيْنَ، وَ سَيِّدِ
الطَّالِبِيْنَ وَ الْوَاصِلِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَ الْمُتَّقِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ
الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ سَيِّدِ خَلْقِ اللّٰهِ اَجْمَعِيْنَ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ
اَنْصَارِهٖ وَ اٰلِ بَيْتِهٖ مَا اتَّصَلَتْ عَيْنٌۢ بِيَقِيْنٍ، وَّ اُذُنٌۢ بِحَنِيْنٍ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء امام القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ)

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضَا
وَ عَدَدَ النِّعَمِ وَ زِنَةَ الْعَرْشِ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء)

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً طَيِّبَةً مُّبَارَكَةً تُسَكِّنُ بِهَا قَلْبِيْ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ، وَ خَوْفِ
الْخَلْقِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رُوْحَ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ حَيَاةِ
الدَّارَيْنِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء)

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ اَلْفٍ ضِعْفًا ضِعْفًا۔ (از
کتاب مسالک الحنفاء)

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، اَللّٰهُمَّ
صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَآ اَحْصٰى كِتَابُكَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ
الْغَافِلُوْنَ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَآ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء)

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الثَّرٰى وَ الْبَرٰى وَ الْوَرٰى وَ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا
يَكُوْنُ وَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ عَدَدَ الرِّمَالِ ذَرَّةً ذَرَّةً، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ
اَلْفَ مَرَّةٍ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء)

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ الْكَامِلِ وَ عَلٰى سَيِّدِنَا جِبْرِيْلَ الْمُطَوَّقِ بِالنُّوْرِ رَسُوْلِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَآءِ يَا لَطِيْفًا بِمَا يَشَآءُ نَوِّرِ اللّٰهُمَّ عَلَيْنَا قُلُوْبَنَا وَ قُبُوْرَنَا وَ
اَبْصَارَنَا وَ بَصَآئِرَنَا بِرَحْمَةٍ مِّنْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ (از کتاب مسالک الحنفاء)

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَّاحِقَةً بِنُوْرِهٖ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

مَّقْرُوْنَةً بِذِكْرِهٖ وَ مَذْكُوْرِهٖ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُّنَوِّرَةً لِّقَبْرِهٖ بِاَكْمَلِ تَنْوِيْرِهٖ.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً شَارِحَةً لِّصَدْرِهٖ مُوْجِبَةً لِّسُرُوْرِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ
الْاَنْبِيَآءِ وَ الْاَوْلِيَآءِ صَلَاةً بِعَدَدِ النُّوْرِ وَ ظُهُوْرِهٖ. (از کتاب مسالک الحنفاء)

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعْصِمُنَا بِهَا مِنَ الْاَهْوَالِ وَ
الْاٰفَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ. (از ابن ابی حجلہ) ''برائے طاعون''

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَآءٍ وَّ دَوَآءٍ وَّ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ كَثِيْرًا. (از الشیخ خالد النقشبندی رضی اللہ عنہ)

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ
تَسْلِيْمًا بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ. (از کتاب کنوز الاسرار فی الصلوۃ علی النبی المختار)

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً تَزِنُ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ عَدَدَ
جَوَاهِرِ اَفْرَادِ كُرَّةِ الْعَالَمِ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (از کتاب کنوز الاسرار فی الصلوۃ علی النبی المختار)

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ وَّ اَفْضَلِ مَوْلُوْدٍ وَّ اَكْرَمِ مَخْصُوْصٍ وَّ مَحْمُوْدٍ سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِيَّاتِكَ وَ مَنْ لَّهُ
التَّفْضِيْلُ عَلٰى جُمْلَةِ مَخْلُوْقَاتِكَ صَلَاةً تُنَاسِبُ مَقَامَهُ الْعَالِيَ وَ مِقْدَارَهٗ وَ تَعُمُّ اَهْلَهٗ وَ اَزْوَاجَهٗ وَ اَوْلِيَآئَهٗ
وَ اَنْصَارَهٗ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى جُمْلَةِ رُسُلِكَ وَ اَنْبِيَآئِكَ وَ زُمَرِ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَصْفِيَآئِكَ صَلَاةً تَعُمُّ
بَرَكَاتُهَا الْمُطِيْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمَآئِكَ. (از کتاب کنوز الاسرار فی الصلوۃ علی النبی المختار)

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَدَ كَمَالِهٖ. (درود
کمالیہ از کتاب کنوز الاسرار)

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ
وَ سَائِرِ عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَ اَتْبَاعِهِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ تَحَنَّنْ وَ تَرَحَّمْ وَ تَعَطَّفْ وَ تَلَطَّفْ وَ تَكَرَّمْ دَآئِمًا بِدَوَامِكَ كَمَا
صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَعَطَّفْتَ وَ تَلَطَّفْتَ وَ تَكَرَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَّ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَائِنٌ
اَوْ قَدْ كَانَ صَلَاةً مَّيْمُوْنَةً زَكِيَّةً هَنِيَّةً رَّضِيَّةً مَّبْسُوْطَةً مُّبَارَكَةً مَّرْفُوْعَةً مَّرْضِيَّةً هَنِيَّةً جَلِيْلَةً عَظِيْمَةً
عَالِيَةً تَامِيَةً طَيِّبَةً طَاهِرَةً مَّقْبُوْلَةً كَرِيْمَةً صَافِيَةً صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَ لَا اِنْتِهَآءَ وَ لَا اَمَدَ لَهَا وَ لَا انْقِضَآءَ
عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ صَحَابَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ.
اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ النَّبِيِّيْنَ اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَوَّلِيْنَ وَ

الْاٰخِرِيْنَ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَصَّهُ اللهُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى يَوْمَ الدِّيْنِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَآ اَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَآ اَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِكَ وَ اَصْحَابِكَ وَ اَزْوَاجِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ اَتْبَاعِكَ اَجْمَعِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السُّلْطَانِ الْكَامِلِ الْمُخْتَارِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ، وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ، الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ، الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ، خُلَاصَةِ خَاصَّةِ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ، الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ مِيْمِ الْمَعْرِفَةِ وَ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ. اَلسَّيِّدِ الْكَامِلِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ، نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ، وَ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ ،وَ صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْوَقَارِ ، شَفِيْعِ اُمَّتِهٖ مِنَ النَّارِ، وَ سَآئِقِهِمْ لِدَارِ الْقَرَارِ، صَلَاةً دَآئِمَةً ، بِدَوَامِكَ، بَاقِيَةً ، بِبَقَآئِكَ، دَآئِمًا اَبَدًا بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا، صَلَاةً تُسْعِدُنَا بِهَا سَعَادَةً لَّا شَقَاوَةَ بَعْدَهَا وَ تُغْنِيْنَا بِهَا غِنًى لَّا فَاقَةَ بَعْدَهُ، صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ تُفَرِّجُ بِهَا الْكُرَبَ وَ تُذْهِبُ بِهَا عَنَّا كُلَّ هَمٍّ وَ غَمٍّ وَّ سُوْءٍ وَّ حُزْنٍ، صَلَاةً تَرْفَعُ لَنَا بِهَا الدَّرَجَاتِ، وَ تَمْحُو السَّيِّئَاتِ، تُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ، وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَعْلَى الْمَقَامَاتِ، بِجِوَارِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،لِنَفُوْزَ بِبَرَكَتِهٖ بِلَذِيْذِ الْمُشَاهَدَةِ وَ الْمُنَاجَاةِ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، صَلَاةً تَزِيْدُ وَ تَنْمُوْ وَ تَفُوْقُ وَ تَعْلُوْ وَ تَسْمُوْ، صَلَاةً كُلِّ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَآ اِنْتِهَآءَ وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَآ اِنْقِضَآءَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ. اَللّٰهُمَّ بَلِّغْهُ فِيْ نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الطَّاهِرَةِ وَ فِيْ اُمَّتِهٖ وَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ فِيْ صَحَابَتِهٖ فَوْقَ مَا يُؤَمِّلُهُ مِنْكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ بِزِيَادَاتٍ كَلِمَاتٍ لَّا يُدْرِكُهَآ اَحَدٌ اِلَّآ اَنْتَ وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَآ اَحَدٌ سِوَاكَ وَلَا يَعْلَمُهَآ اَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَآ اَحَدٌ اِلَّآ اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّى الْاَمَانَةَ وَ كَشَفَ الْغُمَّةَ وَ نَصَحَ الْاُمَّةَ وَ دَرَّ الْبَرَكَةَ وَ اَقَامَ الْحُجَّةَ وَ اَظْهَرَ اللهُ بِبَرَكَتِهِ النِّعْمَةَ وَ جَعَلَهٗ عَيْنَ الرَّحْمَةِ جَاهَدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ سَبِيْلِكَ لَآ اَعْرَضَ وَلَآ اَدْبَرَ وَ عَبَدَكَ حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ، اَللّٰهُمَّ اٰتِهٖ نِهَايَةَ مَا يَسْاَلُهُ السَّآئِلُوْنَ وَ مَا يَرْغَبُ بِهِ الرَّاغِبُوْنَ اَفْضَلَ وَ اَطْيَبَ وَ اَزْكٰى وَ اَنْمٰى وَ اَعْلٰى وَ اَقْرَبَ وَ اَكْمَلَ مَآ اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ ارْضَ عَنْ صَحَابَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (از سیدی زین الدین عمر بن بیبرس الخالدی الشاذلی)

97 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّتِہٖ صَلَاۃً تَشْرَحُ بِھَا صَدْرِیْ وَ تَیَسَّرُ بِھَا اَمْرِیْ وَ تَجْبُرُ بِھَا کَسْرِیْ وَ تُغْنِیْ بِھَا فَقْرِیْ وَ تُنَوِّرُ بِھَا قَبْرِیْ وَ تَحُلُّ بِھَا عُقْدَۃً مِّنْ لِّسَانِیْ۔

(از سیدی محمد صفی الدین ابی المواہب الشاذلی التونسی)

98 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مَلَآئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِیْنَ وَ حَمَلَۃِ عَرْشِکَ الطَّاھِرِیْنَ وَ اَنْبِیَآئِکَ الْمُرْسَلِیْنَ وَ اَھْلِ طَاعَتِکَ اَجْمَعِیْنَ مِنْ اَھْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَھْلِ الْاَرَضِیْنَ، وَ اخْصُصِ اللّٰھُمَّ مِنْ بَیْنِھِمْ نَبِیَّکَ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَلَیْہِ السَّلَامُ وَ اَصْفِیَآئَکَ اٰدَمَ شِیْثَ وَ اِدْرِیْسَ وَ نُوْحًا وَّ اِبْرَاھِیْمَ وَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی وَ الْخِضْرَ وَ اِلْیَاسَ وَ اٰلَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خُصُوْصًا اِبْنَتَہٗ فَاطِمَۃَ وَ عَلِیًّا وَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ الْاِمَامَ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَانِ الْمَھْدِیَّ وَ خَاتِمَ اَمْرِنَا وَ کَامِلَ عَصْرِنَا وَ صَحْبَہٗ وَ الصَّفْوَۃَ مِنْ اُمَّتِہٖ وَ الْکَامِلِیْنَ وَ الْمُکَمِّلِیْنَ مِنْ ذُرِّیَّتِہٖ بِاَفْضَلِ الصَّلَوٰتِ وَ اَطْیَبِ التَّحِیَّاتِ وَ اَزْکَی التَّسْلِیْمِ. اَللّٰھُمَّ وَ بَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِکَ الْمِسْکِیْنِ اِلٰی نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَ اِلٰی سَآئِرِ مَنْ ذَکَرْتُ مِنْ عِبَادِکَ الْمُخْلَصِیْنَ مُجْمَلًا وَّ مُفَصَّلًا فَعَلَیْہِ وَ عَلَیْھِمْ اَجْمَعِیْنَ مِنْکَ فِیْ ھٰذِہِ اللَّحْظَۃِ مِنْ ھٰذَا الْمِسْکِیْنِ اَفْضَلُ الصَّلَوٰتِ وَ اَطْیَبُ التَّحِیَّاتِ وَ اَزْکَی التَّسْلِیْمِ۔ (از الشیخ صدر الدین القونوی)

99 (الشیخ احمد الدردیر الخلوتی المصری کے جمع کردہ صیغے)

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃَ الرِّضَا وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِہٖ رِضَآءَ الرِّضَا۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَرِیْمِ الْاٰبَآءِ وَ الْاُمَّھَاتِ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ صَلَاۃً تَلِیْقُ بِجَمَالِہٖ وَ جَلَالِہٖ وَ کَمَالِہٖ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَذِقْنَا بِالصَّلَاۃِ عَلَیْہِ لَذَّۃَ وِصَالِہٖ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَ دَوَآئِھَا وَ عَافِیَۃِ الْاَبْدَانِ وَ شِفَآئِھَا وَ نُوْرِ الْاَبْصَارِ وَ ضِیَآئِھَا وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَھُمَا وَ اَجْرِ یَارَبِّ لُطْفَکَ الْخَفِیَّ فِیْ اُمُوْرِنَا وَ الْمُسْلِمِیْنَ اَجْمَعِیْنَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃَ اَھْلِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرَضِیْنَ عَلَیْہِ وَ اَجْرِ یَارَبِّ لُطْفَکَ الْخَفِیَّ فِیْ اَمْرِیْ وَ الْمُسْلِمِیْنَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمَنَاقِبِ الْفَاخِرَةِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ خَلِّقْنَا بِاَخْلَاقِهِ الطَّاهِرَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمَقَامَاتِ الْجَلِيْلَةِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ خَلِّقْنَا بِاَخْلَاقِهِ الْجَمِيْلَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ هَبْ لَنَا قَلْبًا شَكُوْرًا وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْعَلْ سَعْيَنَا مَشْكُوْرًا وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ لَقِّنَا نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَلْقِ عَلَيْنَا مِنْكَ مَحَبَّةً وَّ نُوْرًا وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ هَبْ لَنَا سِرًّا مِّنَ الْاَسْرَارِ مَسْرُوْرًا۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَ بِالْحَقِّ الْمُبِيْنِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى سَآئِرِ اَنْبِيَآئِكَ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ وَ اَوْلِيَآئِكَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمَآئِكَ عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَ عَدَدَ مَا هُوَ كَائِنٌ فِىْ عِلْمِ اللهِ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَ دَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ وَ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ الْاٰمِنِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

100 صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

(از سیدی یوسف بن اسماعیل النبہانی)

101 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَ آيَاتِهٖ وَ كَلِمَاتِهٖ وَ حُرُوْفِهٖ وَ نُقَطِهٖ وَ تَفْصِيْلِهٖ وَ جُمَلِهٖ

وَ جُزْئِيَّاتِهٖ وَ كُلِّيَّاتِهٖ وَ شَكْلِهٖ وَ هَمْزِهٖ وَ حَرَكَاتِهٖ وَ سَكَنَاتِهٖ وَ مُعْجَمِهٖ وَ مُهْمَلِهٖ وَ مُفَصَّلِهٖ وَ مُجْمَلِهٖ وَ مَنْطُوْقِهٖ وَ
مَفْهُوْمِهٖ وَ مُحْكَمِهٖ وَ مُتَشَابِهِهٖ وَ خَاصِّهٖ وَ عَامِّهٖ وَ نَاسِخِهٖ وَ مَنْسُوْخِهٖ وَ اِشَارَاتِهٖ وَ اَمْرِهٖ وَ نَهْيِهٖ وَ عِبَرِهٖ وَ وَعْدِهٖ
وَ وَعِيْدِهٖ وَ قِصَصِهٖ وَ اَمْثَالِهٖ وَ عَدَدَ مَآ اَحْصٰی وَ مِلْءَ مَآ اَحْصٰی وَ عَدَدَ الْاَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ وَ مَنْ رَّوَاهَا وَ
الْاٰثَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَكَاتٍ عَدَدَ الدَّقَآئِقِ وَ الدَّرَجِ وَ
السَّاعَاتِ وَ اللَّيَالِیْ وَ الْاَيَّامِ وَ الْجُمَعِ وَ الشُّهُوْرِ وَ السِّنِيْنَ وَ الْاَزْمَانِ وَ الدُّهُوْرِ وَ الْاَعْصَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ
وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْحَرَكَاتِ وَ السَّكَنَاتِ وَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ
تَخَلُّلِ الْمَنْسُوْجَاتِ وَ مَضْغِ الْاَفْوَاهِ وَ رَمْشِ الْاَبْصَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا وَ حَبِيْبِنَا وَ قُرَّةِ اَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ
اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَيْمَنَ بَرَكَةٍ عَدَدَ الْاَنْفَاسِ وَ الْخَوَاطِرِ وَ الْحُرُوْفِ
وَ النُّقَطِ وَ الْكَلِمَاتِ وَ حَرَكَاتِهَا وَ عَدَدَ الْهَوَاجِسِ وَ السَّيِّاٰتِ وَ تَعَاقُبِ الْوَسَاوِسِ وَ الْاَوْهَامِ وَ الشُّكُوْكِ
وَ الظُّنُوْنِ وَ تَرَادُفِ الْاَفْكَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِيْبِنَا وَ قُرَّةِ
اَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ وَ اَهْلِ
بَيْتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَكَةٍ عَدَدَ الْاَشْبَاحِ وَ الْاَرْوَاحِ وَ الْاَجْسَامِ وَ الْجَوَاهِرِ وَ الْعُقُوْلِ وَ
الْعُلُوْمِ وَ عَدَدَ مَا يَقَعُ فِیْ رُؤْيَا الْمَنَامَاتِ وَ الْخَيَالِ مِنْ اَوَّلِ الْخَلْقِ اِلٰی اٰخِرِهِمْ وَ تَعَاقُبِ الدَّلَآئِلِ وَ
الْاَخْبَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْمَلَآئِكَةِ وَ
الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَ الْوِلْدَانِ وَ الْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ وَ خَلْقِ الْبَحْرِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْوُحُوْشِ وَ الْاَطْيَارِ، اَللّٰهُمَّ
صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ
اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَكَاتٍ عَدَدَ الرُّؤُوْسِ وَ الْوُجُوْهِ وَ الْاٰذَانِ وَ
الْعُيُوْنِ وَ الْاُنُوْفِ وَ الشِّفَاهِ وَ الْاَفْوَاهِ وَ الصُّدُوْرِ وَ الْاَيْدِیْ وَ الْاَرْجُلِ وَ الْاَصَابِعِ وَ الْاَظْفَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ
اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْقُلُوْبِ وَ الْاَضْلَاعِ وَ الْعِظَامِ وَ
الْاَظْلَافِ وَ الْاَصْوَافِ وَ الْاَرْيَاشِ، وَ الشُّعُوْرِ وَ الْاَوْبَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ
اَزْكٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْجُسُوْمِ وَ الْاَعْضَآءِ وَ الْبُطُوْنِ وَ مَا حَوَتْ وَ عَدَدَ الْعُرُوْقِ وَ الْمَسَامِ وَ
الْاَلْسُنِ وَ الْاَسْنَانِ وَ الْاَسْمَاعِ وَ الْاَبْصَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الزُّرُوْعِ وَ النَّبَاتِ وَ الْاَوْرَاقِ وَ الْاَغْصَانِ وَ الْاَشْجَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْحَبِّ وَ النَّوٰى وَ الْبُزُوْرِ وَ الزُّهُوْرِ وَ الْفَوَاكِهِ وَ الثِّمَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصٰى وَ التُّرَابِ وَ الزَّلَفِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْاَحْجَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ السَّمَآءِ وَ دَوَرَانِ الْفَلَكِ وَ مَمَرِّ السَّحَابِ وَ هُبُوْبِ الرِّيَاحِ وَ لَمْعِ الْبَرْقِ وَ اَصْوَاتِ الرَّعْدِ وَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَكَايِيْلِ الْمِيَاهِ وَ مَثَاقِيْلِ الْجِبَالِ وَ الْاَجْسَادِ وَ عَدَدَ اَمْوَاجِ الْبِحَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ مَا خَلَقْتَ وَ مَآ اَنْتَ خَالِقٌ وَّ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَآئِنٌ وَّ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُكَ وَ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ مَا لَا تُدْرِكُهُ الْاَفْهَامُ وَ الْاَفْكَارُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا صَلّٰى عَلَيْهِ الْمُصَلُّوْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ مِنْ اَوَّلِ الدَّهْرِ اِلٰى آخِرِهٖ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَّ اَوَانٍ وَّ وَقْتٍ وَّ شَهْرٍ وَّ جُمُعَةٍ وَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ وَّ سَاعَةٍ وَّ لَحْظَةٍ وَّ نَفْسٍ وَّ طَرْفَةٍ وَّ سَاعَةٍ وَّ نَسْمَةٍ وَّ عَدَدَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ فِي الْمَسَآءِ وَ الصَّبَاحِ وَ الْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ زِنَةَ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ زِنَةَ الْجِبَالِ وَ التِّلَالِ وَ الرِّمَالِ وَ الْقِلَالِ وَ الْاَجْسَادِ وَ الْبِحَارِ وَ الْاَنْهَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ مِلْءَ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مِلْءَ الْخَلَا وَ الْمَلَا وَ الْعَوَالِمِ وَ مِلْءَ الْاٰفَاقِ وَ الْاَقْطَارِ،

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ مِلْءَ مَا فِيْ

عِلْمِكَ وَزِنَةَ مَا فِي عِلْمِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهٰى رَحْمَتِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ حَتّٰى تَرْضٰى وَإِذَا رَضِيْتَ وَعَدَدَ مَا ذَكَرَكَ خَلْقُكَ وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْكَ وَعَدَدَ مَا سَبَّحُوْكَ وَحَمِّدُوْكَ وَكَبَّرُوْكَ وَوَحَّدُوْكَ وَهَلَّلُوْكَ وَاسْتَغْفَرُوْكَ وَعَدَدَ مَا هُمْ مُسَبِّحُوْكَ وَحَامِدُوْكَ وَمُكَبِّرُوْكَ وَمُوَحِّدُوْكَ وَمُهَلِّلُوْكَ وَمُسْتَغْفِرُوْكَ عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ وَالْاَعْصَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّاَزْكٰى سَلَامٍ وَّاَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الطُّيُوْرِ وَالْبَهَآئِمِ وَالْوُحُوْشِ وَالْاَنْعَامِ وَالْاَبْقَارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتَمِ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَعَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ وَصَفِيِّكَ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ، اَلرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، اَلْمُصْطَفَى الْمُجْتَبٰى الْمُنْتَقَى الْمُرْتَضَى الْمُخْتَارِ، عَيْنِ الْعِنَايَةِ وَزَيْنِ الْقِيَامَةِ وَإِمَامِ الْحَضْرَةِ اَمِيْنِ الْمَمْلَكَةِ وَكَنْزِ الْحَقِيْقَةِ وَشَمْسِ الشَّرِيْعَةِ وَكَاشِفِ الْغُمَّةِ وَجَالِي الظُّلْمَةِ وَنَاصِرِ الْمِلَّةِ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيْعِ الْاُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّاَزْكٰى سَلَامٍ وَّاَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهٖ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً مَّضْرُوْبًا فِيْ اَمْثَالِهٖ وَاَمْثَالِ اَمْثَالِهٖ لَا يَنْقُصُ عَدَدُهَا وَلَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا حَتّٰى تَسْتَغْرِقَ الْعَدَّ وَتُحِيْطَ بِالْحَدِّ اَبَدَ الْآبِدِيْنَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرَضُوْنَ وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَمَا دَامَ مُلْكُ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّاَزْكٰى سَلَامٍ وَّاَنْمٰى بَرَكَاتٍ وَّاجْزِهٖ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَآتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَاَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ كَذٰلِكَ كُلِّهٖ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهِ الْاَكْرَمِيْنَ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَّعَلٰى آلِ كُلٍّ وَّصَحْبِ كُلٍّ وَعَلَى الْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ الْبَرَرَةِ الْاَخْيَارِ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ تَسْبِيْحًا يَّلِيْقُ بِمَجْدِهٖ وَجَلَالِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا كَافِيًا عَلٰى جَمِيْعِ نِعَمِهٖ وَاِفْضَالِهٖ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُنْفَرِدُ فِيْ عُلُوِّهٖ وَكَمَالِهٖ وَاللهُ اَكْبَرُ الْمُتَعَاظِمُ فِيْ كِبْرِيَآئِهٖ وَجَلَالِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ عِنْدَ كُلِّ هَمٍّ وَّغَمٍّ وَّكَرْبٍ وَّضِيْقٍ وَّعِنْدَ كُلِّ حَادِثٍ يَّحْدُثُ لِلْعَبْدِ فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ وَضِيَآءِ النَّهَارِ وَفِيْ اِقْبَالِ كُلٍّ مِّنْهُمَا وَاِدْبَارِهٖ عَدَدَ ذٰلِكَ وَمِثْلَ ذٰلِكَ وَاَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ اَوْ بَزَغَ بَدْرٌ اَوْ هَبَّ رِيْحٌ اَوْ سَحَّ غَمَامٌ اَوْ سَجَعَ طَيْرٌ اَوْ اَقْبَلَ لَيْلٌ اَوْ اَشْرَقَ نَهَارٌ وَّصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَبْرَارِ، وَزَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَخْيَارِ وَاَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَآلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔ (از سیدی الشیخ یحیٰی بن عبدالرحمن الرملی الشافعی القادری)

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةَ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ عَلَيْهِ وَ اَجْرِ يَا مَوْلَا
لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِيْ اَمْرِيْ وَ اَرِنِيْ سِرَّ جَمِيْلِ صُنْعِكَ فِيْمَا آمُلُهٗ مِنْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔ (از کتاب کنوز الاسرار)

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اتَّصَلَتِ الْعُيُوْنُ بِالنَّظَرِ وَ
تَزَخْرَفَتِ الْاَرَضُوْنَ بِالْمَطَرِ وَ حَجَّ حَاجٌّ وَّ اعْتَمَرَ، وَ لَبّٰى وَ حَلَقَ وَ نَحَرَ، وَ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَ قَبَّلَ الْحَجَرَ۔
(از کتاب کنوز الاسرار)

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ لِلْعَالَمِيْنَ وَ عَلٰى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ
الطَّاهِرِيْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔ (از کتاب کنوز الاسرار)

105 اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِجَاهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ صَلَاةَ الرِّضَا فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ عَدَدَ
مَعْلُوْمَاتِكَ تَعْظِيْمًا لِّحَقِّهٖ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى سِوَاكَ وَ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ وَ فِيْ آخِرِ عَدَدٍ بِقَوْلِ الْمُصَلِّيْ يَخْتِمُ
بِقَوْلِهٖ هٰذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيْمًا لِّحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ۔ (درود الشیخ محمد الرافعی)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، اَللّٰهُمَّ
صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَحْصٰى كِتَابُكَ، اَللّٰهُمَّ
صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كُلَّمَا
ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔ (از کتاب مسالک الحنفا)

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تَشَرَّفَتْ بِهٖ جَمِيْعُ الْاَكْوَانِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ
بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ اَظْهَرْتَ بِهٖ مَعَالِمَ الْعِرْفَانِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ اَوْضَحَ دَقَآئِقَ الْقُرْآنِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْاَعْيَانِ وَ
سَبَبِ فِيْ وُجُوْدِ كُلِّ اِنْسَانٍ وَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ شَيَّدَ اَرْكَانَ الشَّرِيْعَةِ
لِلْعَالَمِيْنَ وَ اَوْضَحَ اَفْعَالَ الطَّرِيْقَةِ لِلسَّآئِلِيْنَ وَ رَمَزَ فِيْ عُلُوْمِ الْحَقِيْقَةِ لِلْعَارِفِيْنَ فَصَلِّ وَ سَلِّمْ اَللّٰهُمَّ
عَلَيْهِ صَلَاةً تَلِيْقُ بِجَنَابِهِ الشَّرِيْفِ وَ مَقَامِهِ الْمُنِيْفِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا دَآئِمًا يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ
صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ زَيَّنَ مَقَاصِيْرَ الْقُلُوْبِ، وَ اَظْهَرَ سَرَآئِرَ الْغُيُوْبِ بَابِ
كُلِّ طَالِبٍ وَّ دَلِيْلِ كُلِّ مَحْجُوْبٍ فَصَلِّ وَ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ الْاَكْوَانِ عَلَى الْوُجُوْدِ، وَ صَلِّ وَ
سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ اَفَاضَ عَلَيْنَا بِاِمْدَادِهٖ سَحَآئِبَ الْجُوْدِ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدْنِيْ بَعِيْدَنَآ اِلَى الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ تُذْهِبُ بِقَرِيْبِنَآ اِلٰى مَا لَا نِهَايَةَ لَهٗ مِنَ
الْمَقَامَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ، وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَنْشَرِحُ بِهَا الصُّدُوْرُ، وَ تَهُوْنُ بِهَا الْاُمُوْرُ، وَ تَنْكَشِفُ
بِهَا السُّتُوْرُ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ آمِيْنَ۔ (از سیدی مصطفی البکری رضی اللہ عنہ)

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنِ افْتَتَحْتَ بِهٖ وُجُوْدَ الْخَلَائِقِ طُرًّا وَ خَتَمْتَ بِهٖ عِقْدَ
النُّبُوَّةِ الْغَرَّا وَ جَعَلْتَهٗ اَعْلَى النَّبِيِّيْنَ فَضْلًا وَّ اَعْظَمَهُمْ اَجْرًا وَّ خَلَقْتَ جَمِيْعَ الْاَنْوَارِ مِنْ نُّوْرِهٖ فَزَادَتْ
رُتْبَتُهٗ بِذٰلِكَ قَدْرًا صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ لَائِقَيْنِ بِتِلْكَ الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ عَدَدَ اَفْرَادِ اَنْوَاعِ الْبَرِيَّةِ مَا ظَهَرَ
فِي الْوُجُوْدِ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ مَا تَحَرَّكَ وَ مَا سَكَنَ وَ عَدَدَ مَا لَكَ فِيْ خَلْقِكَ مِنْ اِفْضَالٍ وَّ مِنَنٍ وَّ عَدَدَ كُلِّ عَدَدٍ
وَّقَعَ وَ سَيَقَعُ فِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ اِنْ اُرِيْدَتْ اِحَاطَتُهٗ لَا يُحْصٰى اَوْجَمْعُ اَنْوَاعِ جُمَلِهٖ وَ اَفْرَادِهٖ بِعَدٍّ لَا
يُسْتَقْصٰى، اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ بِهَا صُدُوْرَنَا وَ يَسِّرْ بِهَآ اُمُوْرَنَا وَ اَخْرِجْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ وَّ عُسْرٍ اِلٰى كُلِّ فَرَجٍ وَّ
يُسْرٍ وَّ قَرِّبْنَا بِهَا قُرْبَةً تَصِيْرُ بِهَا لَدَيْكَ مِنْ اَعْلَى الْمُقَرَّبِيْنَ وَ اكْتُبْنَا عِنْدَكَ مِنَ الْمَحْبُوْبِيْنَ وَ اَبْعِدْنَا مِنْ
دِيْوَانِ السُّعَدَآءِ وَ الْمَطْرُوْدِيْنَ، وَبَارِكْ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔
(از سیدی مصطفی البکری رضی اللہ عنہ)

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ وَ حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اِخْوَانِهٖ وَ اٰلِهٖ صَلَاةً وَّ سَلَامًا نَّقْرَعُ
بِهِمَآ اَبْوَابَ جِنَانِكَ وَ نَسْتَجْلِبُ بِهِمَآ اَسْبَابَ رِضْوَانِكَ وَ نُؤَدِّيْ بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهٖ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَ
اِحْسَانِكَ اٰمِيْنَ۔ (از سیدی شہاب احمد بن مصطفی الاسکندری)

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِكُلِّ صَلَاةٍ تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى بِهَا عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ يُّحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى بِهٖ
عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بِكُلِّ سَلَامٍ تُحِبُّ اَنْ يُّسَلَّمَ بِهٖ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ يُّحِبُّ اَنْ
يُّسَلَّمَ بِهٖ عَلَيْهِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ بِدَوَامِكَ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ وَ مِدَادَ
كَلِمَاتِكَ وَ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ كَذٰلِكَ عَلٰى ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ ذٰلِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ وَ اِخْوَانِهٖ۔ (از سیدی مرتضی الزبیدی)

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا عَلَى اللّٰهِ بَابًا مَّشْهُوْدًا وَّ عَنْ اَعْدَآئِهٖ حِجَابًا مَّسْدُوْدًا وَّ
عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (از سیدی محمد تقی الدین حنبلی)

111 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ الْمَكْتُوْبِ مِنْ نُّوْرٍ وَجْهِكَ الْاَعْلَى الْمُؤَبَّدِ الدَّآئِمِ الْبَاقِي الْمُخَلَّدِ فِيْ
قَلْبِ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، وَّ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ الْوَاحِدِ بِوَحْدَةِ الْاَحَدِ، الْمُتَعَالِيْ
عَنْ وَّحْدَةِ الْكَمِّ وَ الْعَدَدِ، الْمُقَدَّسِ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ، وَّ بِحَقِّ {بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۰ اَللّٰهُ
الصَّمَدُ ۰ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۰ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ} اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ حَيَاةِ الْوُجُوْدِ،
وَ السَّبَبِ الْاَعْظَمِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، صَلَاةً تُثَبِّتُ فِيْ قَلْبِيَ الْاِيْمَانَ وَ تُحَفِّظُنِي الْقُرْاٰنَ، وَ تُفَهِّمُنِيْ مِنْهُ الْاٰيَاتِ وَ
تَفْتَحُ لِيْ بِهَا نُوْرَ الْجَنَّاتِ، وَ نُوْرَ النَّعِيْمِ، وَ نُوْرَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (از سیدی
محمد تقی الدین حنبلی)

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ الْيَاقُوْتَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ الْحَائِطَةِ بِمَرْكَزِ الْفُهُوْمِ وَ الْمَعَانِيْ، وَ

نُوْرِ الْاَكْوَانِ الْمُتَكَوِّنَةِ الْآدَمِيِّ صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِيِّ، الْبَرْقِ الْاَسْطَعِ بِمُزْنِ الْاَرْيَاحِ الْمَالِئَةِ لِكُلِّ مُتَعَرِّضٍ مِّنَ الْبُحُوْرِ وَ الْاَوَانِيْ وَنُوْرِكَ اللَّامِعِ الَّذِيْ مَلَأْتَ بِهٖ كَوْنَكَ الْحَائِطِ بِاَمْكِنَةِ الْمَكَانِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَيْنِ الْحَقِّ الَّتِيْ تَتَجَلّٰى مِنْهَا عُرُوْشُ الْحَقَآئِقِ عَيْنِ الْمَعَارِفِ الْاَقْدَمِ صِرَاطِكَ التَّآمِّ الْاَقْوَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى طَلْعَةِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ الْكَنْزِ الْاَعْظَمِ اِفَاضَتِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ اِحَاطَةِ النُّوْرِ الْمُطَلْسَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً تُعَرِّفُنَا بِهَآ اِيَّاهُ۔ (درود جوہرۃ الکمال از سیدی ابی العباس التجانی)

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ۔
(از سیدی ابی العباس التجانی)

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً تَعْدِلُ جَمِيْعَ صَلَوَاتِ اَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ سَلَامًا يَّعْدِلُ سَلَامَهُمْ۔ (از سیدی ابی العباس التجانی)

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّقْطَةِ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ، وَ حِيْطَةِ اَفْلَاكِ مَرَاقِي الشُّهُوْدِ، اَلِفِ الذَّاتِ السَّارِيْ سِرُّهَا فِيْ كُلِّ ذَرَّةٍ حَآءِ حَيَاةِنِ الْعَالَمِ الَّذِيْ جَعَلَ مِنْهُ مَبْدَأَهٗ وَ اِلَيْهِ مُقَرَّهٗ، مِيْمِ مُلْكِكَ الَّذِيْ لَا يُضَاهٰى وَ دَالِ دَيْمُوْمِيَّتِكَ الَّتِيْ لَا تَتَنَاهٰى، مَنْ اَظْهَرْتَهٗ مِنْ حَضْرَةِ الْحُبِّ فَكَانَ مِنَصَّةً لِّتَجَلِّيَاتِ ذَاتِكَ، وَ اَبْرَزْتَهٗ بِكَ مِنْ نُّوْرِكَ فَكَانَ مِرْآةً لِّجَمَالِكَ الْبَاهِرِ فِيْ حَضْرَةِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، شَمْسِ الْكَمَالِ الْمُشْرِقِ نُوْرُهَا عَلٰى جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ الَّذِيْ كَوَّنْتَ مِنْهُ جَمِيْعَ الْمُكَوَّنَاتِ فَكُلٌّ مِّنْهَا بِهٖ قَآئِمٌ مَّنْ اَجْلَسْتَهٗ عَلٰى بِسَاطِ قُرْبِكَ وَ خَصَّصْتَهٗ بِاَنْ كَانَ مِفْتَاحَ خِزَانَةِ حُبِّكَ الْمَحْبُوْبِ الْاَعْظَمِ، السِّرِّ الظَّاهِرِ الْمُكَتَّمِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عِبَادِكَ وَ السُّلَّمِ الَّذِيْ لَا يُرْقٰى اِلَّا بِهٖ فِيْ مَشَاهِدِ كَمَالَاتِكَ، وَ عَلٰى آلِهٖ يَنَابِيْعِ الْحَقَآئِقِ، وَ اَصْحَابِهٖ مَصَابِيْحِ الْهُدٰى لِكُلِّ الْخَلَآئِقِ، صَلَاةً مِّنْكَ عَلَيْهِ مَقْبُوْلَةَنِ بِكَ مِنَّا لَدَيْهِ، تَلِيْقُ بِذَاتِهٖ تَغْمِسُنَا بِهَا فِيْ اَنْوَارِ تَجَلِّيَاتِهٖ تُطَهِّرُ بِهَا قُلُوْبَنَا وَ تُقَدِّسُ بِهَآ اَسْرَارَنَا وَ تُرَقِّيْ بِهَآ اَرْوَاحَنَا وَ تُعَمِّمُ بَرَكَاتِهَا عَلَيْنَا وَ مَشَايِخِنَا وَ وَالِدِيْنَا وَ اِخْوَانِنَا وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، مَقْرُوْنَةَنِ بِسَلَامٍ مِّنْكَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ مَضْرُوْبَةَنِ بِاَلْفَيْ اَلْفِ صَلَاةٍ وَّ تَسْلِيْمٍ عَلَى السَّيِّدِ الْاَمِيْنِ، وَ آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ مِنْكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ، وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (از سیدی محمد بن عبد الکریم السمان)

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَنَالُ بِبَرَكَتِهَا التَّسْلِيْمَ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُدْرِكُ بِبَرَكَتِهَا الْاِخْلَاصَ فِيْ سَآئِرِ الْاَعْمَالِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُصْلِحُ لِيْ بِبَرَكَتِهَا الْاَقْوَالَ وَ الْاَفْعَالَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُحْفَظُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُعْصَمُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الشَّهَوَاتِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُعَاذُ بِهَا مِنْ كُلِّ الْغَفَلَاتِ. اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا حَبِيْبَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفِيَّ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفْوَةَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
سَيِّدِيْ يَا عَبْدَ اللهِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَحْبُوْبَ الْحَضَرَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا يَعْسُوْبَ الْحَظَآئِرِ الرَّبَّانِيَّةِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَطْلُوْبَ النَّظَرَاتِ
الْخَفِيَّةِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَئِيْسَ دِيْوَانِ الْكِبْرِيَآءِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ
يَا فَرِيْدَ الْاَصْفِيَآءِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَآ اِمَامَ اَهْلِ بِسَاطِ الْقُرْبِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا ذَا الْجَمَالِ الْمَحْبُوْبِ لِاَهْلِ الْحُبِّ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا جَبَلَ قَافِ
عَظَمَةِ التَّجَلِّيَاتِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا بَحْرَ مُحِيْطِ اَسْرَارِ الصِّفَاتِ، اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّكُوْنَانِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ الذَّاتِ وَ آلِكَ وَ
صَحْبِكَ وَ الزَّوْجَاتِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى جَمَالِ حَضَرَاتِكَ وَ جَمِيْلِ مَصْنُوْعَاتِكَ وَ مِرْآةِ ذَاتِكَ وَ
مَجْلٰى صِفَاتِكَ قِبْلَةِ تَجَلِّيَاتِكَ وَ وِجْهَةِ عَظَمَاتِكَ، وَ مِنْحَةِ هِبَاتِكَ وَ عَظِيْمِ مَمْلَكَتِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ
مُكَوَّنَاتِكَ، وَ فَرِيْدِ جَلِيْلِ مَخْلُوْقَاتِكَ الْمُصَفَّى الْمُصْطَفٰى، اَلْمُوَفّٰى ذِی الْوَفَا وَ الْمُنَقّٰى وَ الْمُنْتَقٰى، وَ الْمُرْتَقِى
الْمُرَقّٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْمُجْتَبٰى وَسِيْلَةِ آدَمَ وَ الْخَلِيْلِ، وَاسِطَةِ مُوْسٰى وَ نُوْحٍ نِ الْجَلِيْلِ وَ مُمِدِّ عِيْسٰى وَ دَاوٗدَ
خَلِيْفَتِكَ الْجَمِيْلِ الْفَيَّاضِ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّ رَسُوْلٍ، اَلْوَاهِبِ لِكُلِّ وَلِيٍّ فَاضِلٍ وَّ مَفْضُوْلٍ خِزَانَةِ عَطَآءِ
مَلَآئِكَتِكَ الْكِرَامِ وَ وَلِيِّ خِزَانَتِكَ لِكُلِّ الْكَآئِنَاتِ بِلَا كَلَامٍ، اَللّٰهُمَّ امْلَأْ سُوَيْدَآئَنَا مِنْ سَنَاهُ وَ قُلُوْبَنَا
مِنْ نُّعْمَاهُ وَ اَهِّلْنَا لِمُجَالَسَتِهٖ فِيْ كُلِّ دِيْوَانٍ وَّ اَلْحِقْنَا بِجَلَالَتِهٖ فِيْ كُلِّ مَشْهَدٍ يَّنَالُهٗ اِنْسَانٌ اِنَّكَ وَلِيُّ الْعَطَآءِ وَ
الْاِمْتِنَانِ، آمِيْنَ، يَا مُعْطِيْ يَا وَهَّابُ يَا حَنَّانُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِنَا الصَّافِيْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى طَبِيْبِنَا الشَّافِيْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَوْعِدِنَا الْمُوَافِيْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ
بَارِكْ عَلٰى خِلِّنَا الْوَافِيْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى غِيَاثِنَا الْكَافِيْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى بَحْرِ
الْعَظَمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ بَرِّ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ بَاطِنِ الْعُلُوْمِ الْقُرْآنِيَّةِ وَ ظَاهِرِ الْاَنْوَارِ الْوُجُوْدِيَّةِ قُطْبِ كَثِيْبِ
الزِّيَارَاتِ فِي الْجِنَانِ وَ غَوْثِ حَضْرَةِ الْوَسِيْلَةِ وَ الْاِحْسَانِ، السَّارِيْ سِرُّهٗ فِيْ جَمِيْعِ الْاَعْيَانِ وَ الْفَآئِضِ نُوْرُهٗ
عَلٰى سَآئِرِ الْخُلَّانِ مُحَمَّدِكَ الْمَحْمُوْدِ وَ صَفِيِّكَ يَا رَحْمٰنُ، اَللّٰهُمَّ صَفِّنَا بِصَفَآئِهٖ وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَخِلَّائِهٖ، وَ
صَدِّرْنَا فِيْ حِمَآئِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مِنْ م بَعْدِهٖ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّدُوْمَانِ بِدَوَامِ عَطَآئِهٖ، اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ
كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَآ اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ
تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَآ اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ
رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَآ اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ

فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ تُقَرِّبْنِیْ مِنَ الشَّرِّ وَ تُبَاعِدْنِیْ مِنَ الْخَیْرِ وَاِنِّیْ لَآ اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِیْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّیْنِیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَ الْعِفَّةَ وَ الْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِیْ لِمَحْمُوْدِكَ الْمُنْتَقٰی، وَ سَلِّمْ عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ اَهْلِ الْاِرْتِقَا. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَیْكَ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ۔ (از سیدی محمد عثمان المیر غنی الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ)

117 {اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا} اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَنْ جَعَلْتَهٗ سَبَبًا لِّاِنْشِقَاقِ اَسْرَارِكَ الْجَبَرُوْتِیَّةِ، وَ انْفِلَاقِ اَنْوَارِكَ الرَّحْمَانِیَّةِ، فَصَارَ نَآئِبًا عَنِ الْحَضْرَةِ الرَّبَّانِیَّةِ، وَ خَلِیْفَةَ اَسْرَارِكَ الذَّاتِیَّةِ، فَهُوَ یَاقُوْتَةُ اَحَدِیَّةِ ذَاتِكَ الصَّمَدِیَّةِ، وَ عَیْنُ مَظْهَرِ صِفَاتِكَ الْاَزَلِیَّةِ فَبِكَ مِنْكَ صَارَ حِجَابًا عَنْكَ وَ سِرًّا مِّنْ اَسْرَارِ غَیْبِكَ حُجِبْتَ بِهٖ عَنْ كَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَهُوَ الْكَنْزُ الْمُطَلْسَمُ، وَ الْبَحْرُ الزَّاخِرُ الْمُطَمْطَمُ. فَنَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِجَاهِهٖ لَدَیْكَ وَ بِكَرَامَتِهٖ عَلَیْكَ اَنْ تُعَمِّرَ قَوَّالَنَا بِاَفْعَالِهٖ وَ اَسْمَاعَنَا بِاَقْوَالِهٖ وَ قُلُوْبَنَا بِاَنْوَارِهٖ وَ اَرْوَاحَنَا بِاَسْرَارِهٖ وَ اَشْبَاحَنَا بِاَحْوَالِهٖ، وَ سَرَآئِرَنَا بِمُعَامَلَتِهٖ وَ بَوَاطِنَنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ وَ اَبْصَارَنَا بِاَنْوَارِ مُحَیَّا جَمَالِهٖ، وَ خَوَاتِمَ اَعْمَالِنَا فِیْ مَرْضَاتِهٖ، حَتّٰی نَشْهَدَكَ بِهٖ وَ هُوَ بِكَ فَاَكُوْنَ نَآئِبًا عَنِ الْحَضْرَتَیْنِ بِالْحَضْرَتَیْنِ وَ اَدُلَّ بِهِمَا عَلَیْهِمَا وَ نَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّیَ وَ تُسَلِّمَ عَلَیْهِ صَلَاةً وَّ تَسْلِیْمًا یَّلِیْقَانِ بِجَنَابِهٖ وَ عَظِیْمِ قَدْرِهٖ وَ تَجْمَعَنِیْ بِهِمَا عَلَیْهِ وَ تُقَرِّبَنِیْ بِخَالِصِ وُدِّهِمَا لَدَیْهِ وَ تَنْفَحَنِیْ بِسَبَبِهِمَا نَفْحَةَ الْاَتْقِیَآءِ وَ تَمْنَحَنِیْ مِنْهُمَا مِنْحَةَ الْاَصْفِیَآءِ لِاَنَّهُ السِّرُّ الْمَصُوْنُ، وَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ الْمَكْنُوْنُ، فَهُوَ الْیَاقُوْتَةُ الْمُنْطَوِیَةُ عَلَیْهَآ اَصْدَافُ مَكْنُوْنَاتِكَ وَ الْغَیْهُوْبَةُ الْمُنْتَخَبُ مِنْهَآ اَصْنَافُ مَعْلُوْمَاتِكَ، فَكَانَ غَیْبًا مِّنْ غَیْبِكَ وَ بَدَلًا مِّنْ سِرِّ رُبُوْبِیَّتِكَ حَتّٰی صَارَ بِذٰلِكَ مَظْهَرًا نَّسْتَدِلُّ بِهٖ عَلَیْكَ وَ كَیْفَ لَا یَكُوْنُ كَذٰلِكَ وَ قَدْ اَخْبَرْتَنَا بِذٰلِكَ فِیْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ بِقَوْلِكَ {اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰهَ} فَقَدْ زَالَ عَنَّا بِذٰلِكَ الرَّیْبُ وَ حَصَلَ الْاِنْتِبَاهُ، وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ دَلَالَتَنَا عَلَیْكَ بِهٖ وَ مُعَامَلَتَنَا مَعَكَ مِنْ اَنْوَارِ مُتَابَعَتِهٖ، وَ ارْضَ اللّٰهُمَّ عَلٰی مَنْ جَعَلْتَهُمْ مَحَلًّا لِّلْاِقْتِدَآءِ وَ صَیَّرْتَ قُلُوْبَهُمْ مَصَابِیْحَ الْهُدٰی، اَلْمُطَهَّرِیْنَ مِنْ رِّقِّ الْاَغْیَارِ وَ شَوَآئِبِ الْاَكْدَارِ مَنْ ۔ بَدَتْ مِنْ قُلُوْبِهِمْ دُرَرُ الْمَعَانِیْ، فَجُمِلَتْ قَلَآئِدَ التَّحْقِیْقِ لِاَهْلِ الْمَبَانِیْ، وَ اَخْتَرْتَهُمْ فِیْ سَابِقِ الْاِقْتِدَارِ، اَنَّهُمْ مِنْ اَصْحَابِ نَبِیِّكَ الْمُخْتَارِ، وَ رَضِیْتَهُمْ لِاِنْتِصَارِ دِیْنِكَ فَهُمُ السَّادَةُ الْاَخْیَارُ، وَ ضَاعِفِ اللّٰهُمَّ مَزِیْدَ رِضْوَانِكَ عَلَیْهِمْ مَعَ الْاٰلِ وَ الْعَشِیْرَةِ وَ الْمُقْتَفِیْنَ لِلْاٰثَارِ، وَ اغْفِرِ اللّٰهُمَّ ذُنُوْبَنَا وَ وَالِدِیْنَا وَ مَشَایِخِنَا وَ اِخْوَانِنَا فِی اللّٰهِ وَ جَمِیْعِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْمُطِیْعِیْنَ مِنْهُمْ وَاَهْلِ الْاَوْزَارِ۔ (درودِ یاقوتیہ از سیدی محمد الفاسی الشاذلی رضی اللہ عنہ)

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَهَبُ لَنَا بِهَآ اَكْمَلَ الْمُرَادِ وَفَوْقَ الْمُرَادِ فِیْ دَارِ الدُّنْیَا وَ دَارِ

الْمَعَادِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ۔ (از سیدی عبد اللہ بن عمر باعلوی رحمۃ اللہ علیہ)

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ شَافِي الْعِلَلِ وَ مُفَرِّجِ الْكُرُوْبِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (از سیدی حسن ابی حلاوہ الغزی رحمۃ اللہ علیہ)

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَ تُفَكُّ بِهَا الْكُرَبُ۔ (از کتاب الصلات والعوائد)

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ قَدْرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَغْنِنَا وَ احْفَظْنَا وَ وَفِّقْنَا لِمَا تَرْضَاهُ وَ اصْرِفْ عَنَّا السُّوْءَ وَ ارْضَ عَنِ الْحَسَنَيْنِ رَيْحَانَتَيْ خَيْرِ الْاَنَامِ، وَ عَنْ سَائِرِ آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَللّٰهُ۔ (از کتاب مفتاح الفلاح ومصباح الارواح)

122 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِحَبِيْبِكَ الْمُصْطَفٰى عِنْدَكَ يَا حَبِيْبَنَا يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيْمِ يَا نِعْمَ الرَّسُوْلُ الطَّاهِرُ، اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيْنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ، اَللّٰهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّيْنَ وَ الْمُسَلِّمِيْنَ عَلَيْهِ وَ مِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْهُ وَ الْوَارِدِيْنَ عَلَيْهِ وَ مِنْ اَخْيَارِ الْمُحِبِّيْنَ فِيْهِ وَ الْمَحْبُوْبِيْنَ لَدَيْهِ وَ فَرِّحْنَا بِهٖ فِيْ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَ اجْعَلْهُ لَنَا دَلِيْلًا اِلٰى جَنَّةِ النَّعِيْمِ بِلَا مَؤُوْنَةٍ وَّلَا مَشَقَّةٍ وَّلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَ اجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْمَيِّتِيْنَ وَ آخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ (از کتاب دلائل الخیرات شریف)

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ صَلَاةً دَائِمَةً، بِدَوَامِ مُلْكِكَ۔ (از فتاوی الشیخ محمد صالح الرئیس الزمزی المکی الشافعی)

124 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ وَ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ وَّ وَقْتٍ وَّ نَفَسٍ وَّ لَمْحَةٍ وَّ لَحْظَةٍ وَّ خَطْوَةٍ وَّ طَرْفَةٍ يَّطْرِفُ بِهَا اَهْلُ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلُ الْاَرْضِ وَ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ عِلْمِكَ كَائِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ، اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ فِيْ مُدَّةِ حَيَاتِيْ وَ بَعْدَ مَمَاتِيْ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ اَلْفَ اَلْفِ صَلَاةٍ وَّ سَلَامٍ مُّضْرُوْبَيْنِ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ وَ اَمْثَالِ ذٰلِكَ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهِ وَ خُدَّامِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ، اِلٰهِيْ اِجْعَلْ كُلَّ صَلَاةٍ مِّنْ ذٰلِكَ تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِيْنَ اَجْمَعِيْنَ كَفَضْلِهِ الَّذِيْ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى كَافَّةِ

خَلْقِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ } اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَصْهَارِهٖ وَ أَنْصَارِهٖ وَ أَشْيَاعِهٖ وَ أَتْبَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهٖ وَ خُدَّامِهٖ وَ مُحِبِّيْهٖ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ وَ عَدَدَ الْمَعْلُوْمَاتِ وَ عَدَدَ الْحُرُوْفِ وَ الْكَلِمَاتِ وَ عَدَدَ السُّكُوْنِ وَ الْحَرَكَاتِ صَلَاةً تَمْلَأُ الْأَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوٰتِ وَ مِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضَا وَ زِنَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْعَرْشِ وَ عَدَدَ الْحُجُبِ وَ السُّرَادِقَاتِ، وَ عَدَدَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنٰى وَ الصِّفَاتِ الْعُلْيَا، رَبِّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ، يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ يَا رَفِيْعَ الدَّرَجَاتِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ وَ سَهَا عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ الْمُحْصُوْنَ وَ عَدَدَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُوْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً هُوَ لَهَا أَهْلٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا تُحِبُّ أَنْتَ وَ تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا يَنْبَغِيْ لِشَرَفِ نُبُوَّتِهٖ وَ عَظِيْمِ قَدْرِهٖ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَّ لِحَقِّهٖ أَدَاءً، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ وَ بِعَدَدِ مَا عَلِمَ وَ مَا يَعْلَمُ وَ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ } اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أَزْوَاجِهٖ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ
وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلٰى
اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ {اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ
الْمُقَرَّبِيْنَ وَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ مَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالٰى وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ فَاتِحِ الْبِرِّ وَ
مُعَلِّمِ الْحِكْمَةِ وَ رَسُوْلِ الْهُدٰى وَ الرَّحْمَةِ، اللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ بَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ وَ خَالِقَ
الْمَخْلُوْقَاتِ اِجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ وَ فَضَآئِلَ اٰلَآئِكَ وَ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ وَ
اَوْفٰى سَلَامِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ السَّيِّدِ الْكَامِلِ وَ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ وَ الْاَوَّلِ
الْاٰخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ وَ الْمَاحِي الْجَامِعِ الدَّافِعِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ وَ النُّوْرِ الْهَادِيْ مِنَ الْاَضَالِيْلِ،
اَمِيْنِكَ الْمَأْمُوْنِ وَ خَازِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي
الْاَنْبِيَآءِ وَ عَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى رُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ
صَلَاةً تَتَضَاعَفُ اَعْدَادُهَا وَ يَتَرَادَفُ اِمْدَادُهَا صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِدَوَامِكَ، وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ
عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَذٰلِكَ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ
اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ}
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى وَ الرَّسُوْلِ

الْمُجْتَبٰى وَ الْحَبِيْبِ الْمُعْتَبَرِ الْمُقَدَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْمُشَفَّعِ فِي الْمَحْشَرِ صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، الْمُسَمّٰى بِالْكَوْثَرِ الَّذِيْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَ الدَّلَالَةَ وَ الْبِشَارَةَ وَ النِّذَارَةَ وَ النُّبُوَّةَ وَ الْفُتُوَّةَ وَ اَسْرَيْتَ بِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى اِلَى السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى اِلٰى قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَ اَرَيْتَهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى وَ اَنَلْتَهُ الْغَايَةَ الْقُصْوٰى وَ اَكْرَمْتَهٗ بِالْمُكَالَمَةِ وَ الْمُشَاهَدَةِ وَ الْمُعَايَنَةِ بِالنَّظَرِ وَ خَصَّصْتَهٗ بِالْحُبِّ وَ الْقُرْبِ وَ التَّمْكِيْنِ، وَ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَ خَاطَبْتَهٗ وَ وَصَفْتَهٗ بِقَوْلِكَ الْكَرِيْمِ ﴿وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهِ وَ خُدَّامِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَتَمَّ سَلَامِكَ وَ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْاِمْدَادَ وَ تُحِيْطُ بِالْاٰحَادِ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا اِنْقِضَآءَ لَهَا صَلَاةً مُّتَّصِلَةً اَبَدِيَّةً سَرْمَدِيَّةً تَدُوْمُ بِدَوَامِ مُلْكِكَ يَا دَائِمُ يَا كَرِيْمُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ، وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَ عَلٰى اَبَوَيْهِ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اٰلِ كُلٍّ مِّنْهُمْ وَ اَوْلَادِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ، وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ عَلٰى اُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَ صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ عَلٰى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَ مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عِزْرَائِيْلَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ مَلَآئِكَةِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَضِيْنَ، وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ عَلَى الصَّالِحِيْنَ مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ، الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ وَ كَاشِفِ الْغُمَّةِ، وَ جِلَآءِ الظُّلْمَةِ، عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ السَّحَابِ وَ الْقَطْرِ وَ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ عَدَدَ الثِّمَارِ وَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ، وَ عَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ اَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَ عَدَدَ نَعْمَآئِكَ وَ اِفْضَالِكَ وَ اٰلَآئِكَ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ الْمُبَارَكَاتِ الطَّيِّبَاتِ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاِحَنِ وَ الْمِحَنِ وَ الْاَهْوَالِ وَ الْبَلِيَّاتِ، وَ تُسَلِّمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ وَ الْاَسْقَامِ وَ الْاَمْرَاضِ وَ الْاٰفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْعُيُوْبِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ تَغْفِرُ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الذُّنُوْبِ وَ تَمْحُوْ بِهَا عَنَّا الْخَطِيَّاتِ، وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ مَا نَطْلُبُ مِنَ الْحَاجَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ، مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ، يَا رَبِّ يَآ اَللّٰهُ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } اَللّٰهُمَّ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْكُبْرٰى وَ بَلِّغْهُ بِنَظَرِكَ اِلَيْهِ نِهَايَةَ الْبُشْرٰى وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَ آتِهِ سُؤْلَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى كَمَآ آتَيْتَ اِبْرَاهِيمَ وَ مُوْسٰى، وَ اَعْطِهِ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لِنَفْسِهِ وَ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لَهُ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَ اَفْضَلَ مَآ اَنْتَ مَسْؤُوْلٌ لَّهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اَللّٰهُمَّ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ وَ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ الْاَعْلٰى وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ الْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْعَالِيَةَ الْمُنِيْفَةَ وَ اجْزِهِ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ اَهْلُهُ وَ اجْزِهِ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهِ وَ زِدْ فِيْ دَرَجَتِهِ وَ شَرَفِهِ وَ رِفْعَتِهِ. اَللّٰهُمَّ وَ اَحْيِنَا مُسْتَمْسِكِيْنَ بِسُنَّتِهِ وَ مَحَبَّتِهِ وَ اجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اُمَّتِهِ، وَ اسْتُرْنَا بِذَيْلِ حُرْمَتِهِ وَ اَمِتْنَا عَلٰى دِيْنِهِ وَ مِلَّتِهِ وَ احْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَتِهِ وَ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مَعَ اَهْلِهِ وَ خَاصَّتِهِ وَ اجْمَعْنَا بِهِ وَ بِهِمْ فِيْ مَقْعَدِ الصِّدْقِ عِنْدَكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحْمٰنُ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ } بِحُرْمَةِ هٰذَا النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ، صَلِّ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَوْلَادِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِيْ لَا تَنْفَدُ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا عَلِمَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ يَا غَفُوْرُ يَا تَوَّابُ وَ اَعُوْذُ بِعِلْمِكَ مِنْ جَهْلِيْ وَ بِغِنَاكَ مِنْ فَقْرِيْ وَ بِعِزِّكَ مِنْ ذُلِّيْ وَ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ مِنْ عَجْزِيْ وَ ضَعْفِيْ وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَ الْاَعْمَالِ وَ الْاَهْوَآءِ وَ الْاَدْوَآءِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الدُّوْنِ وَ شَمَاتَةِ الْعِبَادِ وَ الْحُسَّادِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَ خَوَاتِمَهُ وَ جَوَامِعَهُ وَ اَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ وَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ رَسُوْلُكَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ رَسُوْلُكَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. { اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ } { رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ } { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ }. (از سیدی عبد الطیف بن موسیٰ بن عجیل یمنی رحمۃ اللہ علیہ)

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِمَظَاهِرِ ذَاتِكَ وَ صِفَاتِكَ عَلٰى مَجْمَعِ الْحَقَائِقِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ عَرْشِ الْاَسْمَاءِ الْحَقِّيَّةِ وَ الْخَلْقِيَّةِ وَ عَلٰى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ الْاِمَامِ الْمُبِيْنِ الْمُحْصٰى فِيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَّ عَلٰى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ

سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ نُقْطَةِ تَرْكِيْبِ حُرُوْفِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَسُوْلِكَ مَظْهَرِ التَّعَيُّنَاتِ وَ مَبْدَآءِ الْمُبْدَعَاتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَفِيِّكَ مَنْشَآءِ التَّصْوِيْرِ وَ التَّكْوِيْنِ وَ التَّدْوِيْرِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَبِيْبِكَ الْقَلَمِ الْاَعْلٰى وَ الطَّرِيْقِ الْاَجْلٰى وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى خَلِيْلِكَ الرَّتْقِ الْمَفْتُوْقِ مِنْهُ جَمِيْعُ الْعَوَالِمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّم، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْلِ الْحُرُوْفِ الْعَالِيَةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَوَّلِ تَعَيُّنٍ لَكَ فِي الْمُبْدَعَاتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّم، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرُّوْحِ اَبِي الْاَرْوَاحِ وَ سَيِّدِ الْاَشْبَاحِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَبْدَآءِ الْمَحَبَّةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ مَنْشَآءِ الْمَعْرِفَةِ الذَّاتِيَّةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْعَقْلِ الْاَوَّلِ النُّوْرِ الْاَكْمَلِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْاِنْسَانِ الْكَامِلِ وَ الْخَلِيْفَةِ الْعَادِلِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَاسِطَةِ الْاَعْظَمِ وَ الرَّسُوْلِ الْاَفْخَمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَيْضِ الْاِلٰهِيِّ وَ الْمُمِدِّ الرَّبَّانِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرُّوْحِ الْقُدْسِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَوَى الرَّحْمَانِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَجْمَعِ الْقَبْضَاتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَئِيْسِ اَهْلِ الْيَمِيْنِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَبْدَآءِ الْفَيَّاضِ مِنْ حَضْرَتِهٖ اِلٰى اَهْلِ عِنَايَتِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى وَاهِبِ الْخُصُوْصِيَّاتِ لِاَهْلِ وِلَايَتِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْكَثِيْبِ الَّذِيْ مِنْهُ وُجُوْدُ كُلِّ مَوْجُوْدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَابِ قَوْسَيِ الْاَسْمَآءِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِكَمَالِكَ وَ جَمَالِكَ عَلٰى اَشْرَفِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْمَعِ مَظَاهِرِ الذَّاتِ وَ الْاَسْمَآءِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّم، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ مَظْهَرِ الْعَمَآءِ وَ الْكِبْرِيَآءِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْكَنْزِيَّةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْاُلُوْهِيَّةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ اللَّاهُوْتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّم، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُمْنٰى فِي الْاٰخِرَةِ وَ الدُّنْيَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّم، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُسْرٰى فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْاَفْعَالِ الْحَقِّيَّةِ وَ الْخَلْقِيَّةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قُوَى الْاَسْمَآءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَظْهَرْ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّم، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْاٰنِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ
الْهُوِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْاَحَدِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْوَاحِدِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اِتِّصَالِ كُلِّ اِسْمٍ اِلٰى مَوْجُوْدٍ وَّمَعْدُوْمٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَ
سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ اَنْفَاسِ اَهْلِ النَّعِيْمِ اَوْ مَا يَكُوْنُ مِنْ
مَّطَالِبِهِمْ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى وَالْوَاسِطَةِ
الْعُظْمٰى فِي الدُّنْيَا وَالْاُخْرٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ
بِالْمِعْرَاجِ الذَّاتِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمُشَافَهَةِ
وَالْمُكَالَمَةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالنِّيَابَةِ الْعُظْمٰى
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْخِلَافَةِ الْكُبْرٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ السَّارِيْ سِرُّهٗ فِيْ جَمِيْعِ الْاَسْمَآءِ وَ
الصِّفَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَوْهَرِ السَّامِيْ اِلٰى كُلِّ حَضْرَةٍ وَّ
عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَآئِرَةِ الرَّحْمَةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَالْهِدَايَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَ
عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ السُّبُلِ الْجَمَالِيَّةِ وَالْجَلَالِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَابِقِ الْخَلْقِ فِيْ مِضْمَارِ الْقُرْبَةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَ
سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ مِحْرَابِ حَضْرَةِ الْحَقِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِمَامِ طَاعَةِ الرَّبِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَدَمِ الْعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيْقِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ يَمِيْنِ
التَّشْرِيْعِ وَالتَّعْلِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّجْهِ الْوِلَايَةِ وَ
التَّعْرِيْفِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ التَّوْحِيْدِ وَالتَّفْرِيْدِ وَعَلٰى
اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْمُشَاهَدَةِ وَالتَّفْهِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَ
سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَالَبِ الْمَعَانِيْ وَالْمَعْنَوِيَّاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعِنَايَةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَكْلِ التَّحْمِيْدِ وَالتَّمْجِيْدِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
صُوْرَةِ التَّكْبِيْرِ وَالتَّنْزِيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هُيُوْلٰى التَّخْلِيْقِ وَ
الْقَطِيْرِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّادَّةِ الْاِبْدَاعِ وَالتَّكْوِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَعَزِّ الْاَبْهٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَبْلَجِ الَّذِيْ يُسْتَقٰى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

الْأَلِفِ الْجَامِعِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى آلَمّ طَاهِرِ الْخَلْقِ وَ بَاطِنِ الْحَقِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقَافِ الْمُحِيطِ بِكُلِّ مَوْجُوْدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَقْلِ الْأَكْمَلِ وَ الْعِلْمِ الْأَفْضَلِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوِلَايَةِ وَ الْعِنَايَةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَهَآءِ وَ السَّنَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّفَاتِ الْحُسْنٰى وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمْدِ وَ الثَّنَا وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَسِيلَةِ وَ الْفَضِيلَةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الْعَالِيَةِ وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَاتَمِ وَ الْعَلَامَةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُقَلَّدِ بِأَنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُمَنْطَقِ بِمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُدَّثِّرِ بِمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُزَّمِّلِ بِقُلْ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَرَدِّيْ بِوَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَطَيْلِسِ بِلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى أَوَّلِ خَلِيْفَةٍ لَّهٗ فِيْ عَالَمِ الْعَنَاصِرِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْوُرَثَآءِ وَ التَّابِعِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْأَوْلِيَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الشُّهَدَآءِ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْمَحْبُوْبِيْنَ وَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ الْعَالِيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ اللَّاهُوْتِيِّيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ النَّاسُوْتِيِّيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ الرَّحْمَانِيِّيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ الْجَبَرُوْتِيِّيْنَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الثَّقَلَيْنِ وَ سَيِّدِ الْفَرِيْقَيْنِ وَ رُوْحِ الطَّرِيْقَيْنِ حَقِيْقَةِ الْحَقَائِقِ وَ إِنْسَانِ عَيْنِ الْخَلَائِقِ. اَللّٰهُمَّ وَ اجْعَلْنَا بِفَضْلِكَ لَهٗ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَ إِلٰى سُنَّتِهٖ وَ طَرِيْقَتِهٖ

مِنَ الْمُقْتَفِيْنَ وَ عَلٰى حَوْضِهٖ مِنَ الْوَارِدِيْنَ وَ اِلٰى قَدَمِهٖ مِنَ الْوَاصِلِيْنَ وَ بِحُبِّكَ وَ حُبِّهٖ مِنَ الْمَشْغُوْلِيْنَ وَ اِلٰى طَلَبِكَ قَاصِدِيْنَ وَ فِيْمَا عِنْدَكَ رَاغِبِيْنَ وَ اِلَيْكَ مُتَوَجِّهِيْنَ وَ عَلٰى مَا يُرْضِيْكَ مُقِيْمِيْنَ وَ عَمَّنْ سِوَاكَ مُنْقَطِعِيْنَ وَ بِكَ مُتَوَلِّعِيْنَ وَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ قَبْلَهٗ لَكَ شَاهِدِيْنَ وَ بِمَا اَعْطَيْتَنَا رَاضِيْنَ وَ فِيْ جَمَالِكَ مُسْتَغْرِقِيْنَ وَ فِيْ كَمَالِكَ مُسْتَهْلِكِيْنَ وَ بِجَمَالِكَ عَارِفِيْنَ وَ بِكُلِّ نَاطِقٍ لَّكَ سَامِعِيْنَ وَ بِكُلِّ مُبْصِرٍ لَّكَ مُبْصِرِيْنَ اِجْعَلْنَا اَللّٰهُمَّ مِمَّنْ وَّسِعَكَ فِيْ كُلِّ مَظْهَرٍ لَّكَ فَلَمْ يُنْكِرْكَ فِيْ شَيْءٍ صَدَرَ عَنْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ صَلِّ عَلٰى قُرَّةِ عَيْنِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَ تَقَبَّلْنَا بِجَاهِهٖ اٰمِيْن { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }۔ (از شیخ محمد عقیلہ رحمۃ اللہ علیہ)

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ سَلَامٍ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اٰلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَ سَائِرِ الصَّالِحِيْنَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَائِمَيْنِ بِدَوَامِكَ بَاقِيَيْنِ بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهُمَا دُوْنَ عِلْمِكَ { اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ }۔ (درود محمد بن علی الحلی رحمۃ اللہ علیہ)

127 سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ زِنَةَ مَا خَلَقَ وَ زِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ سَمٰوَاتِهٖ وَ مِلْءَ اَرْضِهٖ وَ مِثْلَ ذٰلِكَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ وَ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَ رِضَا نَفْسِهٖ وَ مُنْتَهٰى رَحْمَتِهٖ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ وَ مَبْلَغَ رِضَاهُ حَتّٰى يَرْضٰى وَ اِذَا رَضِيَ وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَهٗ بِهٖ خَلْقُهٗ فِيْ جَمِيْعِ مَا مَضٰى وَ عَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْهُ فِيْمَا بَقِيَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ وَّ شَهْرٍ وَّ جُمُعَةٍ وَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ وَّ سَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَ شَمٍّ وَّ نَفَسٍ مِّنَ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَبَدِ الْاٰبَادِ اَبَدِ الدُّنْيَا وَ اَبَدِ الْاٰخِرَةِ وَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَا يَنْقَطِعُ اَوَّلُهٗ وَلَا يَنْفَدُ اٰخِرُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّثْلَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ۔ (تسبیحات ابوالمعتمر رحمۃ اللہ علیہ)

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُكَ۔ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهٖ خَزَائِنُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ يَّقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْ تُعَافِيَنِيْ مِنَ الدَّيْنِ وَ تُغْنِيَنِيْ مِنَ الْفَقْرِ وَ اَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلَالًا وَّ اسِعًا مُّبَارَكًا فِيْهِ وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ۔ (از کتاب تقریب الوسیلہ للطالبین)

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً كَامِلَةً دَائِمَةً يُّشَارِكُ فِيْهَا الْاَزَلُ الْاَبَدَ وَلَا يُشَارِكُهٗ فِيْهَا مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اَحَدٌ صَلَاةً لَّا تُحْبَرُ فَتُحَدَّ وَلَا تُحْصَرُ فَتُعَدَّ، صَلَاةً نِّهَايَتُهٗ اَعْلٰى دَرَجَاتِ الْمُقَرَّبِيْنَ لَا تَصِلُ اِلٰى بِدَايَتِهَا فِي الْاَزَلِ وَلَا بِدَايَةَ وَ لَمْ تَزَلْ دَائِمَةَ التَّرَقِّيْ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ لَنْ تَزَالَ كَذٰلِكَ فَلَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ وَ

عَلٰی آلِہِ الْاَقْرَبِیْنَ وَ اُمَّھَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ صَحْبِہٖ نُجُوْمِ الْمُھْتَدِیْنَ، وَ رُجُوْمِ الْمُعْتَدِیْنَ، وَ التَّابِعِیْنَ لَھُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنَ۔ (از سیدی یوسف بن اسماعیل النبھانی)

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَتَمَّھَا وَ اَدْوَمَھَا وَ اَعَمَّھَا صَلَاۃً تُعَادِلُ جَمِیْعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِیْ صَلَّیْتَھَا وَ تُصَلِّیْھَا عَلَیْہِ فِی الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ وَ مَا بَیْنَ ذٰلِکَ وَ تُمَاثِلُ جَمِیْعَ مَا صَلّٰی وَ یُصَلِّیْ عَلَیْہِ جَمِیْعُ خَلْقِکَ کَالْاِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ الْمَلَآئِکِ، صَلَاۃً تَفُوْقُ الْحَدَّ وَ الْعَدَّ فَلَا یَبْلُغُ حَدَّھَا وَ عَدَّھَا جَمِیْعُ الْاَلْفَاظِ وَ الْاَعْدَادِ تَجْعَلُنِیْ بِھَا مِنْ اَسْعَدِ الْمُؤْمِنِیْنَ الْفَآئِزِیْنَ بِرِضَاکَ وَ رِضَاہُ فِی الْمَعَاشِ وَ الْمَعَادِ، وَ عَلٰی آلِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ اَقْرِبَآئِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ جَمِیْعِ جِھَاتِہٖ وَ اَصْحَابِہِ الَّذِیْنَ تَشَرَّفُوْا بِرُؤْیَۃِ ذَاتِہِ الشَّرِیْفَۃِ وَ مُشَاھَدَۃِ مُعْجِزَاتِہٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ صَلَّیْتَھَا اَوْ تُصَلِّیْھَا عَلٰی اَحَدٍ مِّنْ عِبَادِکَ الْاَبْرَارِ وَ الْمُقَرَّبِیْنَ، تَکُوْنُ صَلَاتُکَ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَ آلِہٖ مَعَ کَمَالِھَا بِالنِّسْبَۃِ اِلَیْھَا کَالذَّرَّۃِ بِالنِّسْبَۃِ اِلٰی جَمِیْعِ الْعَالَمِیْنَ، وَ عَلٰی اِخْوَانِہِ الْاَنْبِیَآءِ الَّذِیْنَ تَقَدَّمُوْہُ فِی الزَّمَانِ تَقَدُّمَ الْاُمَرَآءِ عَلَی السُّلْطَانِ وَ اَصْحَابِہٖ نُجُوْمِ الْھُدٰی وَ اَئِمَّۃِ اُمَّتِہٖ وَ مَنْ بِھِمُ اقْتَدٰی، وَ سَلِّمِ اللّٰھُمَّ عَلَیْہِ وَ عَلَیْھِمْ تَسْلِیْمًا کَذٰلِکَ، فَالْکُلُّ مَمْلُوْکٌ وَّ اَنْتَ وَحْدَکَ الْمَالِکُ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَکْمَلَھَا وَ اَدْوَمَھَا وَ اَشْمَلَھَا، عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ الَّذِیْ خَصَّصْتَہٗ بِالسِّیَادَۃِ الْعَامَّۃِ فَھُوَ سَیِّدُ الْعَالَمِیْنَ عَلَی الْاِطْلَاقِ، وَ رَسُوْلِکَ الَّذِیْ بَعَثْتَہٗ بِاَحْسَنِ الشَّمَآئِلِ وَ اَوْضَحِ الدَّلَآئِلِ لِیُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْاَخْلَاقِ، صَلَاۃً تُنَاسِبُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَہٗ مِنَ الْقُرْبِ الَّذِیْ مَا فَازَ بِہٖ اَحَدٌ وَّ تُشَاکِلُ مَا لَدَیْکُمَا مِنَ الْحُبِّ الَّذِی انْفَرَدَ بِہٖ فِی الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ، صَلَاۃً لَّا یَعُدُّھَا وَ لَا یَحُدُّھَا قَلَمٌ وَّ لَا لِسَانٌ وَّ لَا یَصِفُھَا وَ لَا یَعْرِفُھَا مَلَکٌ وَّ لَا اِنْسَانٌ صَلَاۃً تَسُوْدُ کَافَّۃَ الصَّلَوَاتِ کَسِیَادَتِہٖ عَلٰی کَافَّۃِ الْمَخْلُوْقَاتِ، صَلَاۃً یَّشْمَلُنِیْ نُوْرُھَا مِنْ جَمِیْعِ جِھَاتِیْ فِیْ جَمِیْعِ اَوْقَاتِیْ وَ یُلَازِمُ جَمِیْعَ ذَرَّاتِیْ فِیْ حَیَاتِیْ وَ بَعْدَ مَمَاتِیْ وَ عَلٰی آلِہِ الْاَطْھَارِ، وَ اَصْحَابِہِ الْاَخْیَارِ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا۔


- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ صَلَاۃً لَّا صَلَاۃَ اَفْضَلُ مِنْھَا لَدَیْکَ وَ لَدَیْہِ وَ لَا صَلَاۃَ اَحَبُّ مِنْھَآ اِلَیْکَ وَ اِلَیْہِ وَ لَا صَلَاۃَ اَنْفَعُ مِنْھَا لَہٗ وَ لِکُلِّ مَنْ صَلّٰی عَلَیْہِ صَلَاۃً تَجْمَعُ مَا فِیْ جَمِیْعِ الصَّلَوَاتِ مِنَ الْفَضَآئِلِ وَ الْکَمَالَاتِ بِجَمِیْعِ الْاَعْدَادِ وَ الْمُضَاعَفَاتِ، مَعَ جَمِیْعِ التَّقْدِیْرَاتِ وَ الْاِعْتِبَارَاتِ الْمَطْلُوْبَۃِ لَہٗ مِنْ جَمِیْعِ الْمُصَلِّیْنَ عَلَیْہِ مِنْ اَھْلِ الْاَرْضِیْنَ وَ السَّمٰوٰتِ فِیْ کُلِّ لَحْظَۃٍ زِنَۃَ جَمِیْعِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَ مِلْءَ جَمِیْعِ الْعَوَالِمِ مِنْ کُلِّ الْجِھَاتِ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ کُلِّ مَنْ دَخَلَ اِلٰی دِیْنِکَ الْمُبِیْنِ مِنْ بَابِہٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ وَ خَیْرِ خَلْقِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ

صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ يَمْلَانِ بِكَمَالِهِمَا دَآئِرَةَ الْاِمْكَانِ وَ يَنْفَرِدَانِ بِجَمْعِهِمَا كُلَّ مَا يَقْتَضِيْهِ الْكَرَمُ الْاِلٰهِيّ مِنْ اَنْوَاعِ الْحُسْنِ وَ الْاِحْسَانِ وَ يَجْمَعَانِ فَضَآئِلَ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ الَّتِيْ اَرَدْتَّهَا لَهٗ اَوْ لِسِوَاهُ فِي الْمَاضِيْ وَ الْحَالِ وَ الْاِسْتِقْبَالِ وَلَا يَشِذُّ عَنْهُمَا خَيْرٌ قَدَّرْتَهٗ لِاَحَدٍ فِي الدَّارَيْنِ مِنْ مَّحَاسِنِ الصِّفَاتِ وَ الْاَسْمَآءِ وَ الْاَفْعَالِ تُطَهِّرُنِيْ بِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ مِنْ اَفْعَالٍ اَوْ اَقْوَالٍ اَوْ نِيَّاتٍ وَّ تَكْفِيْنِيْ كُلَّ ضَيْرٍ وَّ تُوَلِّيْنِيْ كُلَّ خَيْرٍ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَنْفَعَهَا وَ اَشْمَلَهَا وَ اَوْسَعَهَا، وَ اَجْمَلَهَا وَ اَجْمَعَهَا وَ اَحْسَنَهَا وَ اَبْدَعَهَا وَ اَنْوَارَهَا وَ اَسْطَعَهَا وَ اَكْمَلَهَا، وَ اَرْفَعَهَا وَ اَعْلَاهَا مَكَانَةً لَّدَيْكَ وَ اَحَبَّهَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ اِلَيْكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ فِيْمَا كَانَ بِغَيْرِ بِدَايَةٍ وَّ فِيْمَا يَكُوْنُ بِغَيْرِ نِهَايَةٍ لَّوْ قُسِمَتْ جَمِيْعُ الْعَوَالِمِ اِلٰى اَصْغَرِ اَجْزَآئِهَا لَنَفَدَتْ قَبْلَ نَفَادِهَا وَ مَا بَلَغَتْ عُشْرَ مِعْشَارِ اَعْدَادِهَا تَتَوَالٰى عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ مُّسْتَكْمِلَةً فَضْلَهَا، مَضْرُوْبَةً فِيْ مَجْمُوْعِ مَا قَبْلَهَا، حَتّٰى تُصَاحِبَ سَوَابِقَ الْآبَادِ، وَ تَعْجِزَ عَنْ لُّحُوْقِهَا جَمِيْعُ الْاَعْدَادِ تَفْضُلَ جَمِيْعَ الصَّلَوَاتِ كَفَضْلِهٖ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَخْلُوْقَاتِ مَشْفُوْعَةً بِسَلَامٍ مِّنْكَ يُمَاثِلُهَا لَا تَفْضُلُهٗ وَلَا يَفْضُلُهَا، صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّصْدُرَانِ مِنْ فَيْضِ فَضْلِكَ الَّذِيْ لَا يَنْفَدُ وَ يَتَوَارَدَانِ عَلٰى اَحَبِّ عَبِيْدِكَ اِلَيْكَ اَبِي الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ كُلِّ مَنْ دَخَلَ تَحْتَ حِيْطَةِ دِيْنِهِ الْمُبِيْنِ۔

130 عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔ (از سیدی یوسف بن اسماعیل النبہانی)





وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

صَلَوَاتُ الثَّنَآءِ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ صلی اللہ علیہ وسلم

القاضی الشیخ
یوسف بن اسماعیل النبهانی

صِيغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

ترتیب نو
افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم
محمد ذیشان انجم قادری

المکتبة القادریة 27
الباکستان
0092-3335187573

صلوات الثناء علی سید الانبیاء ﷺ

درود و سلام کی یہ عظیم کتاب عاشقِ رسول ﷺ حضرت علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل النبھانی رضی اللہ عنہ کی تالیفِ مبارکہ ہے۔ آپ کتاب کے خطبہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اِس کتاب میں درود و سلام کے خزانے اکٹھے کر دیئے ہیں۔ جن میں آپ ﷺ کے اسماء مبارکہ، آیاتِ قرآنیہ، پہلی آسمانی کتب میں آپ ﷺ کی مدح و ثناء، فضائل و شمائل اور معجزات مبارکہ کا تذکرہ شامل ہے۔ پھر میں نے اِس مجموعے کو چار اوراد میں تقسیم کرنے کے بعد اس کو ''**صلوات الثناء علی سید الانبیاء** ﷺ'' کے نام سے موسوم کر دیا ہے۔ خطبہ کے آخر میں مصنف کتاب رب تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ وہ اِس مبارک عمل کو اپنے حبیب رؤف الرحیم کے صدقے قبول و منظور فرمائے اور اِس کے فیوضات و برکات سے ایک عالم مستفیض ہو۔

حضرت علامہ یوسف اسماعیل النبھانی رضی اللہ عنہ خطبۂ کتاب کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کی اِس طرح مدح سرائی فرماتے ہیں۔

ألا إنّ أصْلَ الخلقِ نورُ محمدٍ	وما زالَ في كلِّ الورَى سرُّه ساري
فلولاه ما كانوا ولولاه ما بقُوا	وخير جميع الخلق من بحره جاري
فخذ صلواتٍ طاب فيها ثناؤه	كحُقّة مسك أو كجونة عطار
محامد خير الخلق فيها تأرّجت	كروضٍ بأنواع الرياحين معطار
تضمَّنها سِفر على صِغر حجمه	حوى من حُلاه علم عدّة أسفار
ففي كل سطرٍ منه بحر حقائقٍ	وفي كل لفظ منه لُجّة أسرار
وماذا يقول المادحون بمدحه	وفي كل كتب الله يقرؤه القاري
يقولون بحرٌ أيُّ بحرٍ، فضمنه	ألوف بحورٍ بعضها كل زخار
يقولون شمس، أيّ شمسٍ، فنوره	أعار شموس الكون لمحة أنوار
بحقٍّ أجاد العارفون ثناءهم	على خير محمود وأحمد مختار
وما بالغٌ خَلْقٌ حقيقةَ وصفه	بأبلغ نثر أو بأفصح أشعار
وليس على الأقلام عار بعجزها	فما أحد يدري علاه سوى الباري
نعم هو عبد الله والكون عبده	وقد ساد كلّا من عبيدٍ وأحرار
ولست بهذا بالغًا حقَّ قدره	ولكنني أحكي حكايةَ إخبار
عليه صلاة الله في كل لحظة	تدوم ولا تحصى بعدٍّ وتكرار

صَلَوَاتُ الثَّنَآءِ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ

اَلْوِرْدُ الْاَوَّلُ

اَلثَّنَآءُ عَلَيْهِ فِيْ اَسْمَآئِهٖ وَالْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ

1 {اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

2 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

اَسْمَآؤُهُ الشَّرِيْفَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْبَدْءِ الْبَهَآءِ، الْمُضِيْءِ الضِّيَآءِ، الْمَلْجَآءِ الشِّفَآءِ، صَاحِبِ الرِّدَآءِ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ، زَعِيْمِ الْاَنْبِيَآءِ، خَطِيْبِ الْاَنْبِيَآءِ، خَيْرِ الْاَنْبِيَآءِ، خَاتِمِ الْاَنْبِيَآءِ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَارِئِ الْمُقْرِئِ الْمَلِيْئِ الْمُبَرَّاْ، نُوْرِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يُطْفَاُ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبٰى، اَلْمُعَلَّى الْاَعْلٰى، اَلْمُرْتَضٰى، اَلْهُدٰى، اَلْمُزَكَّى الْاَزْكٰى، اَلْاَتْقَى الْاَنْقٰى، اَلْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الطَّيِّبِ الْحَبِيْبِ، اَلْحَسِيْبِ النَّسِيْبِ، اللَّبِيْبِ الْمُنِيْبِ، اَلْقَرِيْبِ الرَّقِيْبِ، النَّدْبِ النَّقِيْبِ، الصَّاحِبِ الْمُسْتَجِيْبِ، الْمُجَابِ الْمُجِيْبِ، اَبِي الطَّيِّبِ الطَّيِّبِ، رَاكِبِ النَّجِيْبِ، صَاحِبِ الْقَضِيْبِ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّجِيْبِ الْمُنْتَجَبِ، الْمُهَذَّبِ الْمُنْتَخَبِ، اَلْاَطْيَبِ الْاَشْنَبِ، كَاشِفِ الْكُرَبِ رَافِعِ الرُّتَبِ، عِزِّ الْعَرَبِ سَابِقِ الْعَرَبِ، اَفْصَحِ الْعَرَبِ، اَنْفَسِ الْعَرَبِ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّجْمِ الثَّاقِبِ، الْكَوْكَبِ الْغَالِبِ، الْمُرَغِّبِ الرَّاغِبِ، الْمُعَقِّبِ الْعَاقِبِ۔

9 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقُطْبِ الْمُهَابِ، الشِّهَابِ الرَّهَّابِ، الْمُثِيْبِ الْوَهَّابِ، نَبِيِّ التَّوْبَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَانِتِ الْمُخْبِتِ، كَثِيْرِ الصَّمْتِ، دَلِيْلِ الْخَيْرَاتِ، مُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ، رَفِيْعِ الدَّرَجَاتِ، مُقِيْلِ الْعَثَرَاتِ، الصَّفُوْحِ عَنِ الزَّلَّاتِ، السَّابِقِ لِلْخَيْرَاتِ الْاٰخِذِ

بِالْحُجُزَاتِ، صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ، صَاحِبِ الْآيَاتِ، صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ، صَاحِبِ الْأَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ، صَاحِبِ الْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ۔

11 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ اللَّيْثِ، الْغَوْثِ الْغِيَاثِ الْغَيْثِ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السِّرَاجِ، صَاحِبِ التَّاجِ، صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ، الْاَبْلَجِ الْاَدْعَجِ، الْاَزَجِّ الْمُفَلَّجِ، رَفِيْعِ الدَّرَجِ، صَاحِبِ الْفَرَجِ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحُجَّةِ الْمَحَجَّةِ، صَاحِبِ الْحُجَّةِ، اَصْدَقِ النَّاسِ لَهْجَةً۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ رَّسُوْلِ الرَّاحَةِ نَبِيِّ الرَّاحَةِ، النَّبِيِّ الصَّالِحِ، الْمَمْنُوْحِ الْمَانِحِ، الْمُبِيْحِ النَّاصِحِ، الصَّفُوْحِ الْمُصَافِحِ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمِصْبَاحِ، الْمُفْلِحِ الْفَلَاحِ، الْفَاتِحِ الْمِفْتَاحِ، ذِى الْفُتُوْحِ الْفَتَّاحِ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرُّوْحِ الصَّبِيْحِ، الْمُصْلِحِ النَّصِيْحِ، الْاَرْجَحِ الرَّجِيْحِ، الْمُسَبِّحِ الْفَصِيْحِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نَّاسِخِ الشَّرَآئِعِ صَاحِبِ الْجِهَادِ، الْاَحَدِ الْفَرْدِ الْجَوَّادِ، اَحْمَدِ الْحَمِيْدِ الْحَمَّادِ، الْاَجْوَدِ الْاَمْجَدِ الْعِمَادِ۔

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَاجِدِ الْمَاجِدِ، الْمَشْهُوْدِ الشَّاهِدِ، السَّيِّدِ الْقَآئِدِ، الزَّاهِدِ السَّاجِدِ، الْمُتَهَجِّدِ الْهَجُوْدِ الْعَابِدِ، الْاَسَدِ الْمُنْجِدِ الْعَاضِدِ، الْحَمْدِ الْمَحْمُوْدِ الْحَامِدِ۔

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَجِيْدِ الرَّشِيْدِ، الْمَسْعُوْدِ السَّعِيْدِ، الْمُقْتَصِدِ السَّدِيْدِ، الْوَحِيْدِ الشَّهِيْدِ، الصِّنْدِيْدِ الشَّدِيْدِ، اُحَادَ وَاُحَيْدُ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤَيِّدِ الْمُؤَيَّدِ، الْمُرْشِدِ الْمُسَدَّدِ نَبِيِّ الْاَحْمَرِ وَ الْاَسْوَدِ، الْعُمْدَةِ الْعُدَّةِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمَجْدِ، الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ حَامِلِ لِوَآءِ الْحَمْدِ۔

21 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، صَاحِبِ الْمَظْهَرِ الْمَشْهُوْدِ، صَاحِبِ السُّجُوْدِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

22 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْقِذِ الْمَلَاذِ، الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ، الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ، الْبَصِيْرِ الْخَبِيْرِ، الْجَبَّارِ الْمُجِيْرِ، الْمُشَاوِرِ الْمُشِيْرِ، الْخَيْرِ الشَّهِيْرِ، رَاكِبِ الْبَعِيْرِ۔

23 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْاَغَرِّ الْاَزْهَرِ، النَّاضِرِ الْاَنْوَرِ، الْمُيَسِّرِ الْمُوَقَّرِ، الْمُطَهِّرِ
الْبَحْرِ الْبَرِّ، الذُّخْرِ الْفَخْرِ، الرَّفِيْعِ الذِّكْرِ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْقَمَرِ الْبَاهِرِ، الطُّهُوْرِ الطَّاهِرِ، الصَّبُوْرِ الصَّابِرِ، الْمُظَفَّرِ
النَّاصِرِ، الْحَاشِرِ النَّاشِرِ، الْاٰمِرِ الزَّاجِرِ، الْمُدَّثِّرِ، الْمُهَاجِرِ، التَّذْكِرَةِ الْمُذَكِّرِ الْاٰخِرِ۔

25 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اُذُنِ الْخَيْرِ، اِمَامِ الْخَيْرِ، قَائِدِ الْخَيْرِ، صَاحِبِ الْخَيْرِ وَ الْمَيْرِ۔

26 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَشْعَرِ، صَاحِبِ الْمِنْبَرِ، صَاحِبِ الْاِزَارِ، صَاحِبِ
الْمِئْزَرِ، صَاحِبِ الْمِغْفَرِ، صَاحِبِ الْمَحْشَرِ، صَاحِبِ الْكَوْثَرِ، صَاحِبِ الْقَضِيْبِ الْاَصْفَرِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُسْتَغْفِرِ الْغَفُوْرِ، الْمُنْتَصِرِ الْمَنْصُوْرِ، الْفَجْرِ الطَّاهِرِ
النُّوْرِ، الشَّاكِرِ الشَّكَّارِ، الشَّكُوْرِ، الذِّكْرِ الذَّاكِرِ الذَّكَّارِ الْمَذْكُوْرِ۔

28 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الطَّاهِرِ الْمُخْتَارِ، عَبْدِ الْقَادِرِ عَبْدِ الْغَفَّارِ، عَبْدِ الْجَبَّارِ
عَبْدِ الْقَهَّارِ، مُقِيْمِ السُّنَّةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ، الْحَائِدِ لِاُمَّتِهٖ عَنِ النَّارِ۔

29 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِ الْمُبَشِّرِ الْبُشْرٰى، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى،
خَيْرِ الْعَالَمِيْنَ طُرًّا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

30 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْكَنْزِ الْمُعَزَّزِ، الْعَزِيْزِ الْاَعَزِّ، ذِى الْعِزَّةِ عَيْنِ الْعِزَّةِ
الْمَخْصُوْصِ بِالْعِزِّ۔

31 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ الْمُقَدَّسِ، يٰسٓ الشَّمْسِ۔

32 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاسِ، اِمَامِ النَّاسِ، خَيْرِ النَّاسِ، اَتْقَى النَّاسِ،
اَجْوَدِ النَّاسِ، اَكْرَمِ النَّاسِ، اَحْسَنِ النَّاسِ، اَشْجَعِ النَّاسِ۔

33 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْخَالِصِ الْمُخْلِصِ، الْمُخْتَصِّ الْمُتَرَبِّصِ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْخَافِضِ الْمُحَرِّضِ الْاَبْيَضِ، اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ
الْاَرْضُ۔

35 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْفَرَطِ الْمُقْسِطِ، رُوْحِ الْقِسْطِ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُتَوَسِّطِ الْوَاسِطِ الْاَوْسَطِ الضَّابِطِ۔

37 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْحَفِيْظِ الْحَافِظِ، الْمَحْفُوْظِ الْوَاعِظِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى
اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ السَّمِيْعِ السَّرِيْعِ الْبَدِيْعِ، الشَّفْعِ الْمُشَفَّعِ الشَّفِيْعِ، الْمُطَاعِ الْمُطِيْعِ۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الشَّارِعِ الْجَامِعِ، الرَّافِعِ الْوَاضِعِ، الْمُتَضَرِّعِ الضَّارِعِ، الْوَرِعِ الْخَاشِعِ، الْمُضْطَلِعِ الْبَارِعِ، اَوَّلِ مُشَفَّعٍ وَّ اَوَّلِ شَافِعٍ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمِدْرَعَةِ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ، صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُبَلِّغِ الْبَلِيْغِ الْبَالِغِ، الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ الدَّامِغِ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْخَلِيْفَةِ الشَّرِيْفِ، الْعَفِيْفِ الْحَنِيْفِ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْعَارِفِ الْمَعْرُوْفِ، الْمُنْصِفِ الرَّؤُوْفِ، الْكَافِّ الْعَطُوْفِ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّيْفِ الرَّحْبِ الْكَفِّ، النَّاظِرِ مِنْ خَلْفِ، الْمَخْصُوْصِ بِالشَّرَفِ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الصَّدُوْقِ، الْمُصَدَّقِ الْمَصْدُوْقِ، الْفَارِقِ الْفَارُوْقِ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُصَدِّقِ الصِّدِّيْقِ، الصِّدْقِ الشَّفِيْقِ، الْحَقِّ الرَّفِيْقِ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ الْفَائِقِ، حُجَّةِ اللهِ عَلَى الْخَلَائِقِ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوْثِ بِالْحَقِّ، الْعَالِمِ بِالْحَقِّ، النَّاطِقِ بِالْحَقِّ، رُوْحِ الْحَقِّ، قَدَمِ الصِّدْقِ، خَيْرِ الْخَلْقِ، سَعْدِ الْخَلْقِ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْخَالِقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، رَاكِبِ النَّاقَةِ رَاكِبِ الْبُرَاقِ، الْمُتَمِّمِ لِمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ۔

50 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمَلِكِ الْمَلِيْكِ، الْمُبَارَكِ النَّاسِكِ الضَّحُوْكِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الرَّسُوْلِ الدَّلِيْلِ، الْمُرْسَلِ الْاِكْلِيْلِ، الْخَلِيْلِ الْكَفِيْلِ، الْاَجَلِّ الْجَلِيْلِ، الْمُرَتِّلِ التَّنْزِيْلِ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْفَاضِلِ الْمِفْضَالِ، الْقَتُوْلِ الْقَتَّالِ، اَبِي الْاَرَامِلِ الثِّمَالِ، اَرْحَمِ النَّاسِ بِالْعِيَالِ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَضْلِ الْمُفَضَّلِ، الْوَسِيْلَةِ الْمُؤَمَّلِ، رَاكِبِ الْجَمَلِ، اِمَامِ الرُّسُلِ الْاَوَّلِ۔

54 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبْتَهِلِ الْمُتَبَتِّلِ، الْحُلَاحِلِ الْمُحَلِّلِ، اَوَّلِ الرُّسُلِ الْمُزَّمِّلِ۔

55 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَادِلِ الْعَامِلِ، الْعَدْلِ الْكَامِلِ۔

56 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَاصِلِ الْوَصُوْلِ، الْمُوَصِّلِ الْمَوْصُوْلِ، سَيْفِ اللهِ الْمَسْلُوْلِ۔

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ، صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ، ذِى الْفَضْلِ وَلِيِّ الْفَضْلِ، اَرْجَحِ النَّاسِ عَقْلًا خَاتِمِ الرُّسُلِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ، الْكَرِيْمِ الْاَكْرَمِ، الرَّحِيْمِ الْاَرْحَمِ، الطِّرَازِ الْمُعْلَمِ، سَيْفِ الْاِسْلَامِ الْاَدْوَمِ۔

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَكِيْمِ الْمُحَكَّمِ، الْيَتِيْمِ الْمُكَرَّمِ، الْمُسْتَقِيْمِ الْمُقَوَّمِ، الْمُقَدِّمِ الْمُقَدَّمِ، الْمُعَلِّمِ الْمُعَلَّمِ، الْقَيِّمِ الْمُفَخَّمِ، الْفَهِمِ الْمُكَلَّمِ، السَّيْفِ الْمُخَذَّمِ، الْاُمَّةِ الْمُيَمَّمِ، الْمُعَمَّمِ الْمُتَمَّمِ، الْمُغْنَمِ الْمُغْرَمِ، النَّبِيِّ الْمُزَمْزَمِ، خَطِيْبِ الْاُمَمِ نُوْرِ الْاُمَمِ، صَاحِبِ الْقَدَمِ صَاحِبِ الْمَغْنَمِ، صَاحِبِ الْحَطِيْمِ صَاحِبِ زَمْزَمَ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّجْمِ الشَّهِمِ، مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ، الْمُؤْتٰى جَوَامِعَ الْكَلِمِ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، الْمُقْسِمِ الزَّعِيْمِ، الْمُحَرِّمِ الْحَلِيْمِ، الْمُتَبَسِّمِ الْوَسِيْمِ، ذِى الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، عَيْنِ النَّعِيْمِ، دَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الضَّيْغَمِ الْهُمَامِ، صَحِيْحِ الْاِسْلَامِ، اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَبْدِ السَّلَامِ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاِمَامِ الْمَعْصُوْمِ، الْمُتَرَحِّمِ الْمَرْحُوْمِ، اَبِى الْقَاسِمِ الْمَعْلُوْمِ۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النِّعْمَةِ الْعِصْمَةِ دَارِ الْحِكْمَةِ، مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ، رَحْمَةِ الْاُمَّةِ، مُزِيْلِ الْغُمَّةِ، خَيْرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ، الرَّحْمَةِ الْمَرْحَمَةِ الْمَرْغَمَةِ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الْمَرْحَمَةِ۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَائِمِ الْقَاسِمِ الْعَالِمِ الْخَاتِمِ، نَبِيِّ الْمَلَاحِمِ، رَسُوْلِ الْمَلَاحِمِ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، اَكْرَمِ وَلَدِ آدَمَ، صَاحِبِ الْخَاتِمِ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ، اَوْفَى النَّاسِ ذِمَامًا زَيْنِ مَنْ وَّافَى الْقِيَامَةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْمَأْمُوْنِ الْمُؤْتَمَنِ الْاَمِيْنِ اللِّسَانِ اللَّسِنِ الْمُبِيْنِ الْفَطِنِ الضَّمِيْنِ، الْمُعِيْنِ، الْمَتِيْنِ، الْمُتَمَكِّنِ الْمَكِيْنِ، عَلَمِ الْيَقِيْنِ، خَيْرِ الْعَالَمِيْنَ، رَحْمَةِ الْعَالَمِيْنَ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، دَعْوَةِ النَّبِيِّيْنَ، اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، اِمَامِ الْعَالَمِيْنَ، اَوَّلِ الْمُسْلِمِيْنَ، اَوَّلِ الْمُؤْمِنِيْنَ، خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، خَاتِمِ الْمُرْسَلِيْنَ، اَبِي الْمُؤْمِنِيْنَ، فِئَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، حِرْزِ الْاُمِّيِّيْنَ، مُبَشِّرِ الْيَآئِسِيْنَ، رُكْنِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ، نَاصِرِ الدِّيْنِ، مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ الرَّحْمٰنِ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ، مُلَقَّى الْقُرْآنِ، صَاحِبِ السُّلْطَانِ، صَاحِبِ الْبَيَانِ، صَاحِبِ الْبُرْهَانِ، عَلَمِ الْاِيْمَانِ، فَصِيْحِ اللِّسَانِ، الزَّيْنِ الْحَنَانِ، الْهَيْنِ الْبَيَانِ، الْعَيْنِ الْمِيْزَانِ، مُطَهِّرِ الْجَنَانِ، الْاَمَنَةِ الْاَمْنِ الْاَمَانِ،

الْحَرِيْصِ عَلٰى اَهْلِ الْاِيْمَانِ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْمُهَيْمِنِ الْمُؤْمِنِ، الْبَاطِنِ الْمُعْلِنِ، الْبُرْهَانِ الْمُوْقِنِ، الْمَصُوْنِ الضَّيِّنِ، عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ، عَبْدِ الْمُؤْمِنِ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ، سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ، صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ، ثَانِي اثْنَيْنِ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمَكَانَةِ ذِى السَّكِيْنَةِ، نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ، صَاحِبِ الْمَدِيْنَةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْهِرَاوَةِ ذِى الْقُوَّةِ، سَيِّدِ مَنْ اُوْتِيَ الرِّسَالَةَ وَ النُّبُوَّةَ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ، نَبِيِّ اللهِ، رَسُوْلِ اللهِ، حَبِيْبِ اللهِ، خَلِيْلِ اللهِ، نَجِيِّ اللهِ، كَلِيْمِ اللهِ، صِرَاطِ اللهِ، سَبِيْلِ اللهِ، رِضْوَانِ اللهِ، ذِكْرِ اللهِ، حِزْبِ اللهِ، سَعْدِ اللهِ، فَضْلِ اللهِ، سَيْفِ اللهِ، خَلِيْفَةِ اللهِ، خِيَرَةِ اللهِ، عِصْمَةِ اللهِ، مِنَّةِ اللهِ، نِعْمَةِ اللهِ، هَدِيَّةِ اللهِ۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الدَّاعِيْ اِلَى اللهِ، الْاَبَرِّ بِاللهِ، الْاَتْقٰى لِلّٰهِ، الْاَخْشٰى لِلّٰهِ،

الْاَعْظَمِ بِاللهِ، الْغَنِيِّ بِاللهِ، الْخَازِنِ لِمَالِ اللهِ، الصَّادِعِ بِاَمْرِ اللهِ، الْحَاكِمِ بِمَآ اَرَاهُ اللهُ۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طٰهَ الْوَجِيْهِ الْاَوَّاهِ، خَيْرِ خَلْقِ اللهِ، صَاحِبِ قَوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، خَطِيْبِ الْوَافِدِيْنَ عَلَى اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، الْعَرَبِيِّ الْمُضَرِيِّ، الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ، التِّهَامِيِّ الْحِجَازِيِّ، الْحَرَمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ، الْمَكِّيِّ الزَّمْزَمِيِّ، الْيَثْرَبِيِّ الْمَدَنِيِّ۔

77 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ اللَّوْذَعِيِّ الْاَلْمَعِيِّ، الْمُتَّقِيِّ التَّقِيِّ الزَّكِيِّ، الْمُحَيِّي الْحَيِّ الْحَيِيِّ، الْمُسْتَغْنِيِّ الْمُغْنِيِّ الْغَنِيِّ، الْمُقْتَفِيِّ الْمُقَفِّى الْوَصِيِّ، الْمَاحِى الْحَامِى الْعَلِيِّ، الدَّانِى الدَّاعِى الْقَوِيِّ، الْهَادِى الْمُهْتَدِى الْمَهْدِيِّ، الْمُنَادِى الْمُلَبِّى الرَّاجِى الْحَفِيِّ، الْمُعْطِى الْمُنْجِى السَّخِيِّ السَّمِيِّ۔

78 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ التَّالِى، الْوَلِيِّ الْوَالِى، الْمَوْلَى الْقَاضِى، الرَّضِيِّ الرَّاضِى، النَّاهِى الزَّاهِى، الْبَهِيِّ الْبَاهِى، الشَّافِى الْعَافِى، الصَّفِيِّ الْوَفِيِّ الْوَافِى، الْمُكْتَفِى الْمَكْفِيِّ الْكَافِى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

79 اَلثَّنَآءُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَلَقْتَهٗ مَخْتُوْنًا مَّسْرُوْرًا۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَرَحْتَ صَدْرَهٗ وَ طَهَّرْتَهٗ تَطْهِيْرًا۔

81 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَعَثْتَهٗ لِلْمُؤْمِنِيْنَ نَعِيْمًا وَّ عَلَى الْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا، وَّ خَاطَبْتَهٗ بِقَوْلِكَ {اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا}۔

82 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْكَرِيْمِ۔

83 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَشَّرَ بِهِ الْمَسِيْحُ وَ الْكَلِيْمُ۔

84 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّؤْيَا اُمِّهٖ وَ دَعْوَةِ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ، وَ هِىَ قَوْلُهٗ {رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ}۔

85 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَوْلَيْتَهٗ فِى الدُّنْيَا عِزًّا مَّشْهُوْدًا وَّ فِى الْآخِرَةِ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۔

86 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ فَضَّلْتَهٗ هُوَ وَ اُمَّتَهٗ فِى الْمَحْشَرِ بِجَعْلِهٖ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ

وَجَعَلِهِمْ عَلَى النَّاسِ شُهُوْدًا۔

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ جَعَلْتَ اُمَّتَهٗ وَاسِطَةَ عِقْدِ الْاُمَمِ وَخَاطَبْتَهُمْ بِقَوْلِكَ تَشْرِيْفًا لَّهُمْ وَتَمْجِيْدًا { وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا }۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ بِالْفَضْلِ الْبَاهِرِ، وَالْعِلْمِ الظَّاهِرِ، وَالسِّرِّ الْمَصُوْنِ۔

89 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ اِلَى النَّاسِ كَآفَّةً، فَرَبِحَ بِهٖ اَهْلُ الْحَقِّ وَخَسِرَ الْمُبْطِلُوْنَ۔

90 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اُمَّتِهٖ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ، فَقُلْتُ { كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ }۔

91 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْمَبْعُوْثِ بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَالْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ { تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

94 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ۔

95 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ۔

96 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّوْصِلِ مُتَّبِعِيْهِ اِلٰى مَحَبَّتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَجَنَّاتِ النَّعِيْمِ، الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ { قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ }۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَرَسُوْلِ الْمُرْسَلِيْنَ۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اَخَذْتَ لَهُ الْمِيْثَاقَ عَلَيْهِمْ تَشْرِيْفًا لَّهُمْ وَتَكْلِيْفًا لِّاُمَمِهِمِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ فَقُلْتَ { وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ

رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ﴾۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَتْمَمْتَ بِهٖ مَكَارِمَ اَخْلَاقِ النَّبِيِّيْنَ۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بَعَثْتَهٗ بِالصِّدْقِ وَالرِّفْقِ وَاللِّيْنِ۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قُلْتَ فِيْ حُسْنِ مُعَاشَرَتِهٖ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾۔

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِّعْمَتِكَ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ۔

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّتِكَ الْعُظْمٰى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قُلْتَ مُمْتَنًّا بِهٖ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَعَلْتَ فَضْلَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْعَالَمِيْنَ مَشْهُوْدًا۔

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَعْطَيْتَهٗ لِوَآءَ الْحَمْدِ وَ جَعَلْتَهٗ لَكَ حَامِدًا وَّ مِنْكَ وَ مِنْ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ مَحْمُوْدًا۔

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ فِي الْمَحْشَرِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الشَّهَادَةِ عَلٰى اُمَّتِهٖ وَ الْاَنْبِيَآءِ وَلَمْ تَجْعَلْهُمْ اِلَّا عَلٰى اُمَمِهِمْ شُهُوْدًا، وَ قُلْتَ لَهٗ فِيْ ذٰلِكَ ﴿فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ حَاكِمًا حَكِيْمًا۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى يُحَكِّمَهٗ فِيْ اَمْرِهٖ تَحْكِيْمًا۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ نَفَيْتَ الْاِيْمَانَ عَمَّنْ لَّمْ يَرْضَ بِحُكْمِهٖ وَ يُسَلِّمْ بِقَضَآئِهٖ تَسْلِيْمًا، وَّ اَقْسَمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ بِقَوْلِكَ ﴿فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاَوَّابِ الْاَوَّاهِ۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ اَفْضَلِ الْخَلْقِ وَ اَحَبِّهِمْ اِلٰى مَوْلَاهُ، الَّذِىْ جَعَلْتَ طَاعَتَهٗ
طَاعَتَكَ فَقُلْتَ {وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ}۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ آتَيْتَهٗ فَضْلًا كَبِيْرًا وَّ خُلُقًا عَظِيْمًا۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَتَمْتَ بِهِ الْاَنْبِيَآءَ وَعَمَّمْتَ بِعْثَتَهٗ تَعْمِيْمًا۔

117 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ اِلَى النَّاسِ كَآفَّةً وَّ حَكَّمْتَهٗ فِيْهِمْ تَحْكِيْمًا
فَقُلْتَ {اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا}۔

118 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَلَّمْتَهٗ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَدَخَلَتْ فِىْ عِلْمِهِ الْعُلُوْمُ
كُلُّهَا خُصُوْصًا وَّ عُمُوْمًا۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَظَّمْتَ فَضْلَكَ عَلَيْهِ وَمَآ اَعْظَمَ شَيْئًا رَّاَيْتَهٗ اَنْتَ
يَا عَظِيْمُ عَظِيْمًا۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قُلْتَ فِىْ حَقِّهٖ تَعْرِيْفًا وَّتَشْرِيْفًا وَّ تَفْخِيْمًا {وَاَنْزَلَ اللّٰهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ج وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا}۔

121 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنَحْتَهٗ قَلْبًا ذَكُوْرًا وَّلِسَانًا شَكُوْرًا۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَوْلَيْتَهٗ خَيْرًا كَثِيْرًا وَّفَضْلًا كَبِيْرًا۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَمَعْتَ لَهٗ بِوَحْيِكَ مَا تَفَرَّقَ فِى النَّبِيِّيْنَ وَ قَدَّمْتَهٗ
عَلَيْهِمْ وَاِنْ جَآءَ اٰخِيْرًا، فَقُلْتَ لَهٗ {اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيِّيْنَ مِنْ م بَعْدِهٖ ج وَ
اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هَارُوْنَ وَ
سُلَيْمَانَ ج وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا}۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَيَّدْتَهٗ عَلٰى اَعْدَآئِهٖ تَاْيِيْدًا۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ لِلْخَلَآئِقِ سَيِّدًا وَّلَكَ وَحْدَكَ مَسُوْدًا۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَهِدْتَ بِصِدْقِهٖ وَ جَعَلْتَ مَلَآئِكَتَكَ لَهٗ شُهُوْدًا
فَقُلْتَ {لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ صلے اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ صلے وَالْمَلَآئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ج وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا}۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيِّدِ الْكَرِيْمِ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِى الْعَلِيْمِ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَقَمْتَ بِهٖ عَلٰى اَهْلِ الْكِتَابِ الْحُجَّةَ، وَ بَيَّنْتَ لَهُمُ الْمَحَجَّةَ، وَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، فَقُلْتَ { يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ج قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ ۙ يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَبِيْرِ الْبَصِيْرِ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَنْصُوْرِ النَّصِيْرِ۔

132 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ، الْمَقْصُوْدِ بِقَوْلِكَ { يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ ۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ }۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُطَهَّرِ مِنَ الْاَرْجَاسِ۔

134 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْفُوْظِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حَرَسْتَهٗ فَتَرَكَ الْحُرَّاسَ، وَ اَنْجَزْتَ لَهٗ مَا وَعَدْتَهٗ مِنَ الْعِصْمَةِ بِقَوْلِكَ { يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ج وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ }۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَشَّرْتَ بِهٖ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَصَفْتَهٗ بِكُلِّ وَصْفٍ جَمِيْلٍ وَّ نَعْتٍ جَلِيْلٍ۔

138 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَعَدْتَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَلٰى اِتِّبَاعِهِ الْفَلَاحَ وَرَفَعْتَ عَنْ مُّتَّبِعِيْهِ الْعِبْءَ الثَّقِيْلَ، فَقُلْتَ { اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ج فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ }۔

139 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ فَازَ بِتَصْدِيْقِهِ الْمُهْتَدُوْنَ۔

140 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هَلَكَ بِتَكْذِيْبِهِ الْمُعْتَدُوْنَ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَمَّمْتَ رِسَالَتَهٗ فَدَخَلَ تَحْتَ حِيْطَتِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَ

الْآخِرُوْنَ لِقَوْلِكَ { قُلْ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ }.

142 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ الْاَمِيْنِ.

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَنْ قَالَ لَكَ { اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ }.

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ قُلْتَ لَهٗ اِذْ اٰمَنْتَهٗ مَكْرَ الْكَافِرِيْنَ { وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ }.

145 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هَادِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَ حَامِيْهِمْ.

146 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَمَنَةِ اَصْحَابِهٖ وَ اَمَانِيْهِمْ.

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لَمْ تُعَذِّبِ الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ م بَيْنِهِمْ بِمَسَاوِيْهِمْ، بِقَوْلِكَ { وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ.

148 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ سَعِدَ بِمُوَافَقَتِهِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ شَقِيَ بِمُخَالَفَتِهِ الْكَافِرُوْنَ.

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُكَ وَ فِيْهِ وَعْدٌ م بِالْاِنْجَازِ مَقْرُوْنٌ { هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ }.

151 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ اَيَّدَهُ اللّٰهُ وَ حَمَاهُ.

152 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ خَذَلَ اللّٰهُ مَنْ عَانَدَهٗ وَ عَادَاهُ.

153 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ نَصَرَهُ اللّٰهُ وَ اٰوَاهُ. فَقَالَ تَعَالٰى { اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ }.

154 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ كَرِيْمٍ.

155 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ.

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّنْذِرِ الْكَافِرِيْنَ نِيْرَانَ الْجَحِيْمِ، الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ { وَ

مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةٌ
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ } ۔

157 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَلِيِّ الْعَلِيْمِ ۔

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَوَّادِ الْكَرِيْمِ ۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَطُوْفِ الْحَلِيْمِ الْمَوْصُوْفِ بِقَوْلِكَ { لَقَدْ جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ } ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ الْاَنْجَابِ ۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْاَصْفِيَآءِ الْاَحْبَابِ ۔

162 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ بِالْحَقِّ الْحَاكِمِ بِالصَّوَابِ الْمَشْهُوْدِ لَهٗ بِقَوْلِكَ {
وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتَابِ } ۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَمِيْنِ الْمَاْمُوْنِ ۔

164 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَوْهَرِ الْمَكْنُوْنِ ۔

165 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهٖ وَهُوَ عَظِيْمٌ لَّوْ يَعْلَمُوْنَ فَقُلْتَ لَهٗ {
لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ } ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ فَضَّلْتَهٗ عَلَى الْخَلِيْلِ وَ الْمَسِيْحِ وَ الْكَلِيْمِ ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ بِاٰيَاتِكَ الْبَيِّنَاتِ وَ ذِكْرِكَ الْحَكِيْمِ ۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ كِتَابِكَ الْكَرِيْمِ { وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ
سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ
تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الصَّيِّنِ الْمَصُوْنِ ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُؤْتَمَنِ الْمَاْمُوْنِ ۔

171 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُبَيِّنِ لِاُمَّتِهٖ مَا يُنْجِيْهَا مِنْ عَذَابِ الْهُوْنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ
قَوْلُكَ { وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ } ۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِنُوْرِ سُعُوْدِهٖ نَجَا الْمُهْتَدُوْنَ ۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ بِظَلَامِ جُحُوْدِهٖ هَلَكَ الْمُعْتَدُوْنَ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ بَيَّنَ بِالْقَدِیْمِ وَالْحَدِیْثِ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ، الَّذِیْ قُلْتَ لَهٗ { وَ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ }۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحُكَّامِ الْعَادِلِيْنَ۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الشَّاهِدِ عَلٰى اُمَّتِهٖ وَمُزَكِّی الْمُرْسَلِيْنَ، الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ { وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ }۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُدْوَةِ الْعُلَمَآءِ وَالْعَارِفِيْنَ۔

180 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هَادِی الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الْعَامِلِ بِقَوْلِكَ { اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ }۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ شَرَّفْتَهٗ بِالْاِسْرَآءِ مَعَ خَيْرِ سَفِيْرٍ۔

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ قَدَّمْتَهٗ عَلَى الْاَنْبِيَآءِ فَكَانَ لَهُمْ نِعْمَ الْاِمَامُ وَنِعْمَ الْاَمِيْرُ۔

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ لِبَيَانِ هٰذَا الشَّرَفِ الْجَلِيْلِ وَالْفَضْلِ الْكَبِيْرِ { سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ }۔

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ اَحْيَيْتَهٗ سَعِيْدًا وَّ اَمَتَّهٗ شَهِيْدًا۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ اَعْطَيْتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَآءَ الْحَمْدِ فَكَانَ لَكَ حَامِدًا وَّ مِنْكَ مَحْمُوْدًا۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِیْ مَجَّدْتَهٗ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَهِیَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ فَكَانَ بَيْنَ الْخَلَآئِقِ حَمِيْدًا مَّجِيْدًا، وَقُلْتَ لَهٗ فِیْ ذٰلِكَ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَّ وَعْدُكَ صِدْقٌ { عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ

مَقَامًا مَّحْمُوْدًا }۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ جَعَلْتَهٗ سَيِّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ اَمِيْرًا۔

188 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِى اتَّخَذْتَهٗ عَبْدًا خَالِصًا لَّكَ لَمْ يَرْضَ تَدْبِيْرًا وَّلَا تَخْيِيْرًا۔

189 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْخَائِفِ مِنْكَ مَعْ كَوْنِهٖ اَمِيْنًا وَّ لِفَضْلِكَ شَكُوْرًا، الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۔ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَنْ كَبَّرَكَ يَا كَبِيْرُ تَكْبِيْرًا۔

191 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ مَنْ كَانَ لَكَ حَامِدًا شَكُوْرًا۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ فَبَشَّرَ مُؤْمِنًا وَّاَنْذَرَ كَفُوْرًا، اِذْ قُلْتَ لَهٗ {وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا }۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ عَزَّ عَلَيْهِ اَنَّ اَحَدًا مِنْ قَوْمِهٖ يَشْقٰى۔

194 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ تَعِبَ فِىْ عِبَادَتِكَ فَمَا تَرَكَ مِنْ وُّسْعِهٖ شَيْئًا وَّمَآ اَبْقٰى۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ رَحْمَةً ۢ بِهٖ وَرِفْقًا { طٰهٰ ۔ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى }۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا لَّكَ وَشُكْرًا۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَطْوَعِ الطَّائِعِيْنَ لَكَ نَهْيًا وَّاَمْرًا۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ النَّبِيِّيْنَ عِنْدَكَ خَبَرًا وَّخُبْرًا، الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ { كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ؕ وَقَدْ اٰتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا }۔

199 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ۔

200 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالْمُنَبَّاِ وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ۔

201 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ رَحِمْتَ بِهِ الْخَلْقَ اَجْمَعِيْنَ، الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ {وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ }۔

202 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَنْجَحِ هُدَاةِ الْعَالَمِيْنَ۔

203 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْصَحِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔

204 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِىْ اَنْذَرَ النَّاسَ وَبَيَّنَ لَهُمْ اَحْسَنَ تَبْيِيْنٍ، اَلْمَاْمُوْرِ بِقَوْلِكَ {قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ}۔

205 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ كُلِّ نَبِيٍّ كَرِيْمٍ۔

206 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْعَالَمِيْنَ بِالتَّخْصِيْصِ وَالتَّعْمِيْمِ۔

207 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ بِدِيْنِكَ الْحَقِّ وَشَرْعِكَ الْقَوِيْمِ، وَخَاطَبْتَهٗ بِقَوْلِكَ {وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ط اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ}۔

208 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ رَسُوْلٍ سَادَ اُمَّتَهٗ وَسَاسَ۔

209 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ جَالَ بِالْجِهَادِ فِيْ دِيَارِ الشِّرْكِ وَجَاسَ۔

210 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِىْ زَكَّيْتَنَا بِهٖ وَطَهَّرْتَنَا مِنَ الْاَرْجَاسِ، وَقُلْتَ لَنَا فِيْ ذٰلِكَ {لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ}۔

211 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْمَبْعُوْثِ بِالتَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ۔

212 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِىْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ اَنْتَ وَمَلَآئِكَتُكَ وَاَمَرْتَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيْمِ۔

213 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْمُرْسَلِ لِكَافَّةِ الْاُمَمِ بِكُلِّ الْاَزْمَانِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَقَالِيْمِ، الَّذِىْ قُلْتَ لَهٗ {وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ} صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

214 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِىْ طَهَّرْتَهٗ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ ذَمِيْمٍ وَّخَلْقٍ دَمِيْمٍ۔

215 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِىْ جَمَّلْتَهٗ بِكُلِّ وَصْفٍ جَمِيْلٍ وَّطَبْعٍ كَرِيْمٍ۔

216 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِىْ عَلَّمْتَ اَصْحَابَهٗ حُسْنَ مُعَامَلَتِهٖ بِقَوْلِكَ فِيْ كَلَامِكَ الْقَدِيْمِ {اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ج اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ ج اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۰ لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ج قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ج فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ

عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ }.

217 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعَمِّ الْمُرْسَلِيْنَ اِنْذَارًا وَّتَبْشِيْرًا.

218 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ النَّبِيِّيْنَ وَعْظًا وَّتَذْكِيْرًا.

219 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ عَلَى الْعَالَمِيْنَ اَمِيْرًا، وَّاَنْزَلْتَ عَلَيْهِ قَوْلَكَ { تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا } وَقَوْلَكَ { وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا }.

220 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَيِيِّ الْحَلِيْمِ.

221 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْخَلْقِ الْوَسِيْمِ وَالْخُلُقِ الْبَسِيْمِ.

222 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُكَ { وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ }.

223 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ حِرْزِ الْاُمِّيِّيْنَ.

224 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ وَالْيَقِيْنِ.

225 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزُّهَّادِ وَالْمُتَوَكِّلِيْنَ، الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ { فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ }.

226 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ.

227 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ قَدْ خَسِرَ الْكَافِرُوْنَ.

228 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ عَمِيَ عَنْ اٰيَاتِهِ الْجَاحِدُوْنَ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُكَ { وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَاتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۰ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ }.

229 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ ذَلَّ الْمُشْرِكُوْنَ وَانْخَفَضَتْ مَقَامَاتُهُمْ.

230 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ عَزَّ الْمُوَحِّدُوْنَ، وَارْتَفَعَتْ دَرَجَاتُهُمْ.

231 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِهٖ فَازَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَقُضِيَتْ فِي الدَّارَيْنِ حَاجَاتُهُمْ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُكَ { اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ.

232 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَرَّظْتَهٗ بِكَلَامِكَ الْقَدِيْمِ تَقْرِيْظًا.

233 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ لَمْ تَزَلْ بِهٖ حَفِيًّا وَّلَهٗ حَفِيْظًا۔

234 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ جَعَلْتَ حَظَّهٗ فَآئِقًا لِّجَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ حُظُوْظًا، وَّ قَدَّمْتَهٗ عَلَيْهِمْ وَهُوَ آخِرُهُمْ بِقَوْلِكَ {وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ

عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا}۔

235 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ نَفَيْتَ عَنْهُ الْاُبُوَّةَ وَاَثْبَتَ لَهُ النُّبُوَّةَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ قَدِيْمًا۔

236 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيّٖنَ وَحَبَّذَا هُوَ مِنْ خَاتِمٍ، صَارَ بِهٖ كِتَابُ النُّبُوَّةِ مَخْتُوْمًا۔

237 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ قَوْلَكَ تَعْظِيْمًا لِّشَأْنِهٖ وَتَفْخِيْمًا {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا}۔

238 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ لَمْ تَخْلُقْ لَهٗ فِى الْعَالَمِيْنَ نَظِيْرًا۔

239 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ جَعَلْتَ فَضْلَهٗ عَلَى الْخَلَآئِقِ مَشْهُوْدًا مَّشْهُوْرًا۔

240 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ تَفَرَّدْتَ بِالسِّيَادَةِ عَلَيْهِ فَجَعَلْتَهٗ لَكَ عَبْدًا مَّأْمُوْرًا وَّ عَلَى الْجَمِيْعِ سَيِّدًا اَمِيْرًا، وَّجَمَعْتَ لَهٗ اَوْصَافَ الشَّرَفِ بِقَوْلِكَ {يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ٠ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا}۔

241 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ اَفْرَدْتَهٗ بِالتَّفْضِيْلِ عَلٰى جَمِيْعِ الْخَلَآئِقِ خُصُوْصًا وَّ عُمُوْمًا۔

242 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ شَرَحْتَ صَدْرَهٗ وَرَفَعْتَ ذِكْرَهٗ وَمَنَحْتَهٗ فَضْلًا كَبِيْرًا وَّخُلُقًا عَظِيْمًا۔

243 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ خَصَّصْتَهٗ دُوْنَ سَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ بِخُصُوْصِيَّةِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ تَشْرِيْفًا لَّهٗ وَتَكْرِيْمًا {اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}۔

244 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ خَلَقْتَهٗ مُؤْتَمَنًا اَمِيْنًا۔

245 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِىْ فَطَرْتَهٗ مَكِيْنًا مَّتِيْنًا۔

246 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَعَلْتَ مَنْ يُّؤْذِيْهِ فِي الدَّارَيْنِ لَعِيْنًا، فَقُلْتَ {اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا}۔

247 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبِيْدِ۔

248 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَلِيْمِ الرَّشِيْدِ۔

249 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَقَرَّ بِصِدْقِهٖ وَ شَهِدَ بِحَقِّهٖ مِنْ عُلَمَآءِ اَهْلِ الْكِتَابِ كُلُّ ذِيْ قَلْبٍ رَّشِيْدٍ وَّرَاْيٍ سَدِيْدٍ، اَلْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ {وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ}۔

250 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْوُجُوْدِ الَّذِیْ فَرَّعْتَ عَنْهُ مِنَ الْاَصْفِيَآءِ نُجُوْمًا وَّ بُدُوْرًا۔

251 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَعَلْتَهٗ سُلْطَانَ الْاَنْبِيَآءِ وَ جَعَلْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِيْ اُمَّتِهٖ عَنْهُ نَآئِبًا وَّلَهٗ وَزِيْرًا۔

252 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَرْسَلْتَهٗ لِجَمِيْعِ النَّاسِ وَلَمْ تَسْتَثْنِ مِنْهُمْ اَوَّلًا وَّلَمْ تَخُصَّ اٰخِرًا، اَلْمَخْصُوْصِ بِقَوْلِكَ {وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا} صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

253 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيِّدِ الْكَرِيْمِ۔

254 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زَعِيْمِ الْاَنْبِيَآءِ وَنِعْمَ الزَّعِيْمُ۔

255 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَقْسَمْتَ عَلٰى رِسَالَتِهٖ بِقَوْلِكَ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ {يٰسٓ ۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ}۔

256 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي التَّكْمِيْلِ التَّمْكِيْنِ۔

257 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَغْنَيْتَهٗ عَنْ جَمِيْعِ الْعَالَمِيْنَ۔

258 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَرِيْءِ مِنَ التَّكَلُّفِ فِي الدُّنْيَا وَ الدِّيْنِ، اَلْمَاْمُوْرِ بِقَوْلِكَ {قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ}۔

259 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبِيْدِ الطَّآئِعِيْنَ۔

260 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْبَدِ الْعُبَّادِ الْمُخْلِصِيْنَ۔

261 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَسْعَدِ الْعُبَّادِ اَجْمَعِيْنَ، الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ قَوْلَكَ { اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ } وَ قَوْلَكَ { قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۔ وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ } ۔

262 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَلْقِ ۔

263 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الشَّمْسِ وَبَيْنَ وَجْهِهِ الْجَمِيْلِ فَرْقٌ ۔

264 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ هَدٰى بِاَنْوَارِ كِتَابِكَ اَهْلَ الْغَرْبِ وَ الشَّرْقِ، الَّذِيْ قُلْتَ لَهٗ { اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ } ۔

265 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ النَّبِيِّيْنَ ۔

266 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُدْوَةِ الْعُلَمَآءِ وَ الْعَارِفِيْنَ ۔

267 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّخْبَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُكَ { قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ } ۔

268 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ قِيْلَ لَهٗ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ۔

269 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَنْ شَكَرَكَ يَا مَشْكُوْرُ اِذْ شُكِرْتَ ۔

270 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَنْ نَّصَرَكَ وَ اَنْتَ النَّاصِرُ اِنْ نُّصِرْتَ، الْمُسْتَقِيْمِ كَمَآ اَمَرْتَهٗ بِقَوْلِكَ { فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَ اسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ } ۔

271 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُعَلِّمِ الْعَلِيْمِ ۔

272 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُقَوِّمِ الْمُسْتَقِيْمِ ۔

273 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَبْعُوْثِ بِالدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَ الشَّرْعِ الْقَوِيْمِ، الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ { فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ } ۔

274 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالسَّيِّدِ الْمَصُوْنِ ۔

275 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالصَّادِقِ الْمَاْمُوْنِ ۔

276 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُشْرِقَةِ شُمُوْسُ اٰيٰتِهٖ وَاِنْ جَحَدَهَا الْعَمُوْنَ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُكَ { تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ ۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ ۔

277 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَمِ الْخَلْقِ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ۔

278 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُرْسَلِ لِلْعَالَمِيْنَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ۔

279 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ الْجَامِعَةِ لِمَا شَرَعَهُ النَّبِيُّوْنَ، الَّذِىْ قُلْتَ لَهٗ {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ}۔

280 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ بِالْحَقِّ صَادِقًا اَمِيْنًا۔

281 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ فَضَّلْتَ دِيْنَهٗ عَلَى الْاَدْيَانِ دِيْنًا فَدِيْنًا۔

282 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مَكَّنْتَ لَهٗ بِالْفَتْحِ الْمُبِيْنِ وَالنَّصْرِ الْعَزِيْزِ تَمْكِيْنًا، وَ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ قَوْلَكَ {اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۔ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۔ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا}۔

283 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ فَضَّلْتَهٗ عَلَى الْخَلَآئِقِ تَفْضِيْلًا۔

284 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَمَّلْتَهٗ بِاَوْصَافِ الشَّرَفِ تَكْمِيْلًا۔

285 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ بَعَثْتَهٗ لِعِبَادِكَ بِالشَّهَادَةِ وَالْبَشَارَةِ وَالنَّذَارَةِ رَسُوْلًا، فَقُلْتَ لَهٗ {اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا}۔

286 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَاصِرِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَمُوَالِيْهِمْ۔

287 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَاهِرِ الْمُشْرِكِيْنَ وَمُعَادِيْهِمْ۔

288 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَعَلْتَ مُبَايَعَةَ اَصْحَابِهٖ لَهٗ مُبَايَعَةً لَّكَ تَرْضِيَةً وَتَرْضِيْهِمْ، فَقُلْتَ لَهٗ {اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ}۔

289 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ مَهَّدَ اللّٰهُ لَهُ الْبِلَادَ وَالْعِبَادَ تَمْهِيْدًا۔

290 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَيَّدَهُ اللّٰهُ بِالْكِتَابِ وَالْاَصْحَابِ وَالْمَلَآئِكَةِ تَاْيِيْدًا۔

291 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَظْهَرَ دِيْنَهٗ عَلَى الْاَدْيَانِ كُلِّهَا وَجَدَّدَهٗ فِىْ كُلِّ عَصْرٍ تَجْدِيْدًا، فَقَالَ تَعَالٰى {هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ج وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا}۔

292 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اتَّخَذْتَهٗ حَبِيْبًا كَمَآ اتَّخَذْتَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَّ مُوْسٰى كَلِيْمًا۔

293 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَّؤُوْفًا رَّحِيْمًا۔

294 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ وَصَفْتَهٗ وَ اَصْحَابَهٗ بِالشِّدَّةِ عَلَى الْكُفَّارِ وَ الرَّحْمَةِ بَيْنَهُمْ تَعْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا، فَقُلْتَ { مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ صلے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا صلے سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا } صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

295 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْمَعْصُوْمِ الْمَصُوْنِ۔

296 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ تَعَلَّمَ الْاَدَبَ مَعَهٗ مِنْ كِتَابِكَ الْمُؤْمِنُوْنَ۔

297 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ كَانَ اَصْحَابُهٗ يُحَدِّثُوْنَهٗ بِخَفْضِ صَوْتٍ وَّ هُمْ لِحَدِيْثِهٖ سَامِعُوْنَ، لِقَوْلِكَ { يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ صلے وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ }۔

298 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمَقَامِ الرَّفِيْعِ وَ الْقَدْرِ الْفَخِيْمِ۔

299 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَثْنَيْتَ عَلَى الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ عِنْدَهٗ اَصْوَاتَهُمْ بِكَلَامِكَ الْقَدِيْمِ۔

300 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ وَبَّخْتَ مَنْ اَسَآءَ الْاَدَبَ مَعَهٗ مِنْ كُلِّ غَبِىٍّ م بَهِيْمٍ، فَقُلْتَ { اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۔ وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ }۔

301 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِنَا مَعَاشِرَ الْخَلَآئِقِ وَ اَكْمَلِنَا۔

302 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْلَمِنَا بِاللّٰهِ وَ شَرَآئِعِهٖ وَ اَعْمَلِنَا۔

303 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِنَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ وَ اَفْضَلِنَا، الْمَخْصُوْصِ بِقَوْلِكَ { وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا }۔

304 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْمُصْطَفٰى۔

305 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ الْوَرٰى۔

306 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْمَخْصُوْصِ بِالْمِعْرَاجِ اِلَى السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى وَالْمَقَامِ الْاَعْلٰى، الَّذِیْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ {وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۔ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ يُّوْحٰى ۔ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۔ ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ۔ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۔ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۔ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۔ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۔ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۔ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۔ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى}۔

307 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْبَهِیِّ وَالطَّبْعِ السَّلِيْمِ۔

308 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْعَلِیِّ وَالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

309 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ عَلَّمْتَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْاَدَبَ فِیْ مُعَامَلَتِهٖ لِبَيَانِ قَدْرِهِ الْفَخِيْمِ، فَقُلْتَ {يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَیْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ}۔

310 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ خَصَّصْتَهٗ بِخَيْرِ دِيْنٍ وَّخَيْرِ كِتَابٍ۔

311 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ اَمَرْتَ بِاِتِّبَاعِهٖ جَمِيْعَ اُولِی الْاَلْبَابِ۔

312 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ اَوْجَبْتَ عَلَى النَّاسِ طَاعَتَهٗ بِالسَّلْبِ وَالْاِيْجَابِ، فَقُلْتَ {وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ}

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

313 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْمَحْمُوْدِ الْاَحْمَدِ۔

314 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْمَسْعُوْدِ الْاَسْعَدِ۔

315 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الَّذِیْ بَشَّرَ بِهِ الْمَسِيْحُ وَهُوَ بِرِسَالَتِهٖ يَشْهَدُ، فَقَالَ {يٰبَنِیْۤ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا ۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ}۔

316 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّبِيِّيْنَ اَجْمَعِيْنَ۔

317 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْمَبْعُوْثِ لِخَيْرِ اُمَّةٍ ۢ بِخَيْرِ دِيْنٍ۔

318 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَمْتَنَ اللهُ بِهٖ عَلَى الْعَرَبِ وَهُوَ مِنَّةُ اللهِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ تَعَالٰى {هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ}۔

319 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّاصِرِ الْمَنْصُوْرِ۔

320 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الشَّاكِرِ الْمَشْكُوْرِ۔

321 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَمِ الْهِدَايَةِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِىْ قُلْتَ فِيْهِ {قَدْ اَنْزَلَ اللهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۔ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ}۔

322 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْخَيْرِ الْخَبِيْرِ۔

323 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الشَّرَفِ الْعَظِيْمِ وَ الْفَضْلِ الْكَبِيْرِ۔

324 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ عَظَّمْتَ قَدْرَهٗ بِقَوْلِكَ لِبَعْضِ اَزْوَاجِهٖ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنِيْرِ {وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلَآئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ}۔

325 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْمُمْتَازِ بِالتَّعْظِيْمِ وَ التَّوْقِيْرِ۔

326 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ سَيِّدٍ وَّ اَمِيْرِ كُلِّ اَمِيْرٍ۔

327 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ شَرَّفْتَهٗ وَ اُمَّتَهٗ بِقَوْلِكَ فِىْ يَوْمٍ عَسِيْرٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرِ يَسِيْرٍ {يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِىَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ}۔

328 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَدْرِ الْجَلِيْلِ وَ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ۔

329 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْقَلِ الْعُقَلَآءِ فِى الْحَدِيْثِ وَ الْقَدِيْمِ۔

330 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ اَثْنَيْتَ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ فِىْ كِتَابِكَ الْكَرِيْمِ {نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ۔ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۔ وَّاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۔ وَّاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ}۔

331 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ۔

332 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ جَعَلْتَ سَيِّدَ الْمَلَآئِكَةِ جِبْرِيْلَ سَفِيْرًا اِلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ وَالذِّكْرِ الْمُبِيْنِ۔

333 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَفَيْتَ عَنْ كَلَامِكَ الرَّيْبَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَعَلٰى هٰذَا السَّفِيْرِ الْاَمِيْنِ، بِقَوْلِكَ {اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۔ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۔ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۔ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ} صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

334 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَقَيْتَهٗ اَنْوَاعَ الرَّدٰى۔

335 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَلَّغْتَهٗ غَايَاتِ الْمُنٰى۔

336 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى مِنْ جَمِيْعِ الْوَرٰى، اَلْمُخَاطَبِ بِقَوْلِكَ {وَالضُّحٰى ۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۔ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۔ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۔ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۔ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۔ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۔ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۔ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}۔

337 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَوْلَيْتَهٗ خَيْرَكَ وَبِرَّكَ۔

338 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَلْهَمْتَهٗ حَمْدَكَ وَشُكْرَكَ۔

339 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ ذَكَّرْتَهٗ نِعَمَكَ اِذْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ ذِكْرَكَ، فَقُلْتَ لَهٗ {اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۔ اَلَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۔ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۔ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۔ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ}۔

340 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَبْيَضِ الْاَزْهَرِ۔

341 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ۔

342 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى فِى الْمَحْشَرِ، الَّذِىْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ {اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ} صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

اَلْوِرْدُ الثَّانِىْ

مِنْ صَلَوَاتِ الثَّنَاءِ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَلثَّنَاءُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ

343 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَشَرْتَ ذِكْرَهٗ فِى الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ كَالزَّبُوْرِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ، وَبَيَّنَ كُلُّ نَبِيٍّ وَّصْفَهُ الْجَمِيْلَ وَنَعْتَهُ الْجَلِيْلَ۔

344 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّحِرْزًا لِّلْاُمِّيِّيْنَ۔

345 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ سَمَّيْتَهُ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيْظٍ وَّلَا سَخَّابٍ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا مُتَزَيِّنٍ ۨ بِالْفُحْشِ وَلَا قَوَّالٍ لِّلْخَنَا وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَ يَغْفِرُ، وَ يَشْكُرُ وَ يَصْبِرُ۔

346 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ لَمْ تَقْبِضْهُ حَتّٰى اَقَمْتَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَآءَ، وَ فَتَحْتَ بِهٖ اَعْيُنًا عُمْيًا وَّ آذَانًا صُمًّا وَّ قُلُوْبًا غُلْفًا سَدَّدْتَهٗ لِكُلِّ جَمِيْلٍ وَّ وَهَبْتَ لَهٗ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيْمٍ وَّ جَعَلْتَ الْهُدٰى اِمَامَهٗ، وَ الْاِسْلَامَ مِلَّتَهٗ، وَ اَحْمَدَ اِسْمَهٗ، وَ السَّكِيْنَةَ لِبَاسَهٗ، وَ الْبِرَّ شِعَارَهٗ، وَ التَّقْوٰى ضَمِيْرَهٗ، وَ الْحِكْمَةَ مَقُوْلَهٗ، وَ الصِّدْقَ وَ الْوَفَآءَ طَبِيْعَتَهٗ، وَ الْعَفْوَ وَ الْمَعْرُوْفَ خُلُقَهٗ، وَ الْعَدْلَ سِيْرَتَهٗ، وَ الْحَقَّ شَرِيْعَتَهٗ۔

347 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْمُتَوَاضِعِ فِيْ هَيْبَتِهِ الْمُجْتَمِعِ لَهُ اللُّبُّ فِيْ سُكُوْنِهِ الرَّحِيْمِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ، سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ اَجْمَعِيْنَ۔

348 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ كَانَ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ وَ يَبْكِيْ لِلْبَهِيْمَةِ الْمُثْقَلَةِ، وَ لِلْيَتِيْمِ فِيْ حِجْرِ الْاَرْمَلَةِ۔

349 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ كَانَ لَوْ يَمُرُّ اِلٰى جَنْبِ السِّرَاجِ لَمْ يُطْفِئْهُ مِنْ سَكِيْنَتِهٖ، وَلَوْ يَمْشِيْ عَلَى الْقَصَبِ الرَّعْرَاعِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ لِهَيْنَتِهٖ۔

350 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ هَدَيْتَ بِهٖ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، وَ عَلَّمْتَ بِهٖ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، وَ رَفَعْتَ بِهٖ بَعْدَ الْخَمَالَةِ، وَ سَمَّيْتَ بِهٖ بَعْدَ النَّكِرَةِ، وَ اَكْثَرْتَ بِهٖ بَعْدَ الْقِلَّةِ، وَ اَغْنَيْتَ بِهٖ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، وَ جَمَعْتَ بِهٖ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، وَ اَلَّفْتَ بِهٖ بَيْنَ قُلُوْبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَّ اَهْوَآءٍ مُّتَشَتِّتَةٍ وَّ اُمَمٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَّ جَعَلْتَ اُمَّتَهٗ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

فَضَآئِلُهٗ قَبْلَ وُجُوْدِهٖ وَ حِيْنَ حَيَاتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

351 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ اِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ۔

352 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبٰى، خَيْرِ النَّاسِ نَسَبًا وَّ اَشْرَفِهِمْ حَسَبًا، الَّذِيْ لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ يَنْقُلُهٗ مِنَ الْاَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ اِلَى الْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، لَا تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ اِلَّا كَانَ فِيْ

خَيْرِهِمَا، حَتّٰى اَتٰى مُصَفًّى مُّهَذَّبًا۔

353 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، الْمُصْطَفٰى مِنْ م بَنِىْ هَاشِمٍ صَفْوَةِ قُرَيْشٍ صَفْوَةِ كِنَانَةَ صَفْوَةِ بَنِىْ اِسْمَاعِيْلَ صَفْوَةِ بَنِىْ اِبْرَاهِيْمَ۔

354 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَعَذْتَهٗ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الْمُخْتَارِ مِنْ م بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خِيَارِ بَنِىْ هَاشِمٍ، خِيَارِ قُرَيْشٍ، خِيَارِ الْعَرَبِ، خِيَارِ النَّاسِ۔

355 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيْلِ النَّبِيْهِ، الْمَبْعُوْثِ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِىْ اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتّٰى كَانَ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِىْ كَانَ فِيْهِ۔

356 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ النَّاسِ بِنَفْسِهٖ وَ قَوْمِهٖ، اَلَّذِىْ لَمْ يَلْتَقِ اَبَوَاهُ قَطُّ عَلٰى سِفَاحٍ مُّنْذُ خَرَجَ مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى اَبِيْهِ وَ اُمِّهٖ۔

357 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّاسِ عَشِيْرَةً وَّ عِشْرَةً، اَلَّذِىْ لَمْ تَزَلْ تَتَنَازَعُهُ الْاُمَمُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ اَفْضَلِ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ هَاشِمٍ وَّ زُهْرَةٍ۔

358 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ خَلَقْتَ الْخَلْقَ فَجَعَلْتَهٗ فِىْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ، ثُمَّ خَيَّرْتَ الْقَبَآئِلَ فَجَعَلْتَهٗ فِىْ خَيْرِ قَبِيْلَةٍ، ثُمَّ خَيَّرْتَ الْبُيُوْتَ فَجَعَلْتَهٗ فِىْ خَيْرِ بُيُوْتِهِمْ، فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ نَفْسًا وَ خَيْرُهُمْ بَيْتًا، وَّ اَكْمَلُهُمْ ذَاتًا وَّ اَكْمَلُهُمْ نَعْتًا۔

359 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَوَالِمِ، اَلَّذِىْ قَالَ فِيْهِ، وَ فِىْ قَوْمِهٖ، جِبْرِيْلُ : قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا، فَلَمْ اَجِدْ رَجُلًا اَفْضَلَ مِنْ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّ قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا، فَلَمْ اَجِدْ بَنِىْ اَبٍ اَفْضَلَ مِنْ م بَنِىْ هَاشِمٍ۔

360 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيِّيْنَ، وَ اَرْسَلْتَهٗ اِلَى الْخَلْقِ كَآفَّةً وَّ بَعَثْتَهٗ اِلَى النَّاسِ عَآمَّةً م بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَ كَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَعْمَالِ وَ لِرَفْعِ قَوْمٍ وَّ خَفْضِ اٰخَرِيْنَ۔

361 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ دَارِ الْحِكْمَةِ الَّذِىْ اَدَّبْتَهٗ فَاَحْسَنْتَ تَأْدِيْبَهٗ، وَ اخْتَرْتَ لَهٗ خَيْرَ الْكَلَامِ الْقُرْاٰنَ، وَ اَعْطَيْتَهٗ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ فَوَاتِحَهٗ وَ خَوَاتِمَهٗ، وَ اخْتَصَرْتَ لَهُ الْحَدِيْثَ اِخْتِصَارًا، اَوَّلِ النَّاسِ فِى الْخَلْقِ وَ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ، وَ اٰخِرِهِمْ فِى الْبَعْثِ وَ اَعْلَمِهِمْ بِاللهِ، وَ اَعْرَبِ الْعَرَبِ وَ اَكْرَمِ وَلَدِ اٰدَمَ عَلَى اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

362 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ عَظَّمْتَ بَيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَضْلَهٗ، وَ اَعْطَيْتَهٗ مَا لَمْ

تُعْطِ اَحَدًا مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ قَبْلَهٗ، الَّذِیْ خَلَقْتَهٗ مِنْ نُّوْرِكَ، وَخَلَقْتَ مِنْ نُّوْرِهِ الْخَلْقَ اَجْمَعِيْنَ، وَجَعَلْتَهٗ عِنْدَكَ فِیْ اُمِّ الْكِتَابِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، وَاَخَذْتَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ بِالْاِيْمَانِ بِهٖ وَبِنُصْرَتِهٖ، وَاِنَّ اٰدَمَ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ لَمُنْجَدِلٌ فِیْ طِيْنَتِهٖ، وَلَوْ اَدْرَكَهٗ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَغَيْرُهُمَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ لَمَنْ وَّسِعَهُمْ اِلَّا الْاِيْمَانُ بِهٖ، وَاِتِّبَاعُ دِيْنِهٖ وَمَذْهَبِهٖ۔

363 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَتَبْتَ اِسْمَهٗ عَلَى الْعَرْشِ مَعَ اسْمِكَ، وَرَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ، الَّذِیْ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُ اٰدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ۔

364 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ اَكْرَمِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ، الَّذِیْ قُلْتَ لَهٗ: اِنْ كُنْتُ اِتَّخَذْتُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا، وَّمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَیَّ مِنْكَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لِاُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِیْ، وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔

365 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخَذْتَ بِالنُّبُوَّةِ مِيْثَاقَهٗ وَبِالْاِسْلَامِ عَهْدَهٗ، وَسَئَلَكَ اٰدَمُ بِحَقِّهٖ فَغَفَرْتَ لَهٗ وَاَرْسَلْتَ لَهٗ مَلَكًا فَبَشَّرَهٗ اَنَّهٗ لَيْسَ اَحَدٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُ وَجَعَلْتَهٗ عَبْدًا كَرِيْمًا، وَّلَمْ تَجْعَلْهُ جَبَّارًا عَنِيْدًا، وَّاَحْيَيْتَهٗ سَعِيْدًا، وَّاَمَتَّهٗ شَهِيْدًا۔

366 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَعْطَيْتَهٗ مَقَالِيْدَ الدُّنْيَا وَمَفَاتِيْحَ خَزَآئِنِ الْاَرْضِ وَاَعْطَيْتَهُ الْقُوَّةَ وَالنَّصْرَ، وَجَعَلْتَ لَهُ الْاَرْضَ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا، وَّاَحْلَلْتَ لَهُ الْغَنَآئِمَ، وَنَصَرْتَهٗ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَّغَفَرْتَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ۔

367 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ خَتَمْتَ بِهِ النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ، وَجَعَلْتَ اُمَّتَهٗ خَيْرَ الْاُمَمِ وَلَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ فِی الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ وَّوَعَدْتَهٗ اَنْ لَّا تُفْنِيَهُمْ بِسَنَةٍ وَّلَا يَسْتَاْصِلَهُمْ عَدُوٌّ وَّلَا تَجْمَعَهُمْ عَلٰى ضَلَالَةٍ۔

368 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، الَّذِیْ بَاهَيْتَ بِهٖ سُكَّانَ الْهَوَآءِ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمَلَآئِكَةَ السَّمٰوٰتِ وَاَرْوَاحَ النَّبِيِّيْنَ۔

369 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَسْرَيْتَ بِهٖ اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى وَالْمَحَلِّ الْاَعْلٰى، حَتّٰى جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى، وَدَنَا فَتَدَلّٰى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَفَرَضْتَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اُمَّتِهِ الْخَمْسَ صَلَوٰاتٍ، وَاَكْرَمْتَهٗ بِاَفْضَلِ الْفَضَآئِلِ وَاَكْمَلِ الْهِبَاتِ، لَبِنَةِ التَّمَامِ، وَمِسْكِ الْخِتَامِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

فَضَآئِلُهٗ فِي الْاٰخِرَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

370 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ فَضَّلْتَ عَلٰى جَمِيْعِ النَّاسِ نَسَبَهٗ وَحَسَبَهٗ، وَ جَعَلْتَ كُلَّ سَبَبٍ وَّنَسَبٍ يَّنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا سَبَبَهٗ وَنَسَبَهٗ۔

371 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالشَّامِلِ جَمِيْعَ خَلْقِ اللّٰهِ خَيْرُهٗ، اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضِ فَيُكْسٰى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَقُوْمُ عَنْ يَّمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ يَقُوْمُ ذٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرُهٗ۔

372 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَكْثَرِ النَّبِيِّيْنَ تَابِعًا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اَوَّلِهِمْ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا، وَ سَابِقِهِمْ اِذَا وَرَدُوْا، وَ خَطِيْبِهِمْ اِذَا وَفَدُوْا، وَ مُبَشِّرِهِمْ اِذَا اَيِسُوْا، وَاِمَامِهِمْ اِذَا سَجَدُوْا، وَاَقْرَبِهِمْ مَجْلِسًا اِذَا اجْتَمَعُوْا، وَاَوَّلِهِمْ شَفَاعَةً اِذَا شَفَعُوْا۔

373 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ شَافِعٍ، وَّ اَوَّلِ مُشَفَّعٍ، سَيِّدِ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَا مِنْ نَّبِيٍّ يَّوْمَئِذٍ، اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَآئِهِ الَّذِيْ جَعَلْتَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْبَرًا مِّنْ نُّوْرٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَاَعْطَيْتَهٗ اَطْوَلَهَا وَ اَنْوَرَهَا، وَاَفْضَلَهَا وَ اَكْبَرَهَا۔

374 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى حِيْنَ يَسْجُدُ لَكَ فَتَقُوْلُ لَهٗ : اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ سَلْ تُعْطَ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَ حَرَّمْتَ الْجَنَّةَ عَلَى الْاَنْبِيَآءِ كُلِّهِمْ حَتّٰى يَدْخُلَهَا، وَ حَرَّمْتَهَا عَلٰى اُمَمِهِمْ حَتّٰى تَدْخُلَهَا اُمَّتُهٗ قَبْلَهَا، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

375 مَحَاسِنُ صُوْرَتِهِ الشَّرِيْفَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ حَسَنَ الْخَلْقِ وَسِيْمًا قَسِيْمًا اَبْيَضَ اللَّوْنِ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ، وَّ كَانَ وَجْهُهٗ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اَغَرَّ ظَاهِرَ الْوَضَآءَةِ يَتَلَأْلَأُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔

376 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ فِيْ وَجْهِهٖ تَدْوِيْرٌ، وَّ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ، وَ كَانَ وَاسِعَ الْجَبِيْنِ اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ فِيْ غَيْرِ قَرَنٍ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُّدِرُّهُ الْغَضَبُ، اَبْلَجَ الْحَاجِبَيْنِ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا الْفِضَّةُ الْمُخَلَّصَةُ۔

377 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ حَادَّ الْبَصَرِ، عَظِيْمَ الْعَيْنَيْنِ، اَنْجَلَهُمَا اَدْعَجَهُمَا اَكْحَلَهُمَا، اَسْوَدَ الْحَدَقَةِ مَمْزُوْجَةً بِحُمْرَتِهَا، اَحْمَرَ الْمَاقِيْ اَهْدَبَ الْاَشْفَارِ حَتّٰى تَكَادَ تَلْتَبِسُ مِنْ كَثْرَتِهَا۔

378 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ شَارِعَ الْاَنْفِ حَسَنَ الْاَرْنَبَةِ اَقْنَى الْعِرْنِيْنِ، لَهٗ نُوْرٌ يَّعْلُوْهُ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ اَسِيْلَهُمَا صُلْبَهُمَا، تَامَّ الْاُذُنَيْنِ ضَلِيْعَ الْفَمِ حَسَنَهٗ، اَشْنَبَ الْاَسْنَانِ مُفَلَّجَ

الثَّنَايَا بَرَّاقَهَا، اِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ، وَاِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ، وَ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ شَفَتَيْنِ وَ اَلْطَفَهُمْ خَتْمَ فَمٍ۔

379 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فِىْ صَوْتِهٖ صَهَلٌ يَّبْلُغُ حَيْثُ لَا يَبْلُغُهٗ صَوْتُ غَيْرِهٖ، وَاِذَا خَطَبَ اِشْتَدَّ غَضَبُهٗ وَ عَلَا صَوْتُهٗ كَاَنَّهٗ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَّقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَ مَسَّاكُمْ۔

380 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ اَحْسَنَ عِبَادِ اللهِ عُنُقًا، لَّا بِالطَّوِيْلِ وَلَا الْقَصِيْرِ، كَاَنَّهٗ جِيْدُ دُمْيَةٍ فِىْ صَفَآءِ الْفِضَّةِ، وَاِذَا ظَهَرَ لِلشَّمْسِ وَ الرِّيَاحِ فَكَاَنَّهٗ اِبْرِيْقُ فِضَّةٍ مُّشْرَبٌ ذَهَبًا يَّتَلَأْلَأُ فِىْ بَيَاضِ الْفِضَّةِ وَفِىْ حُمْرَةِ الذَّهَبِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

381 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ اَجْمَلَ النَّاسِ وَ اَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِيْدٍ وَّ اَحْسَنَهُمْ مِّنْ قَرِيْبٍ، اَجْرَدَ اَزْهَرَ اللَّوْنِ اَنْوَرَ الْمُتَجَرَّدِ، لَا بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ، اِذَا رَفَعَ رِدَآءَهٗ عَنْ مَّنْكِبِهٖ فَكَاَنَّهٗ سَبِيْكَةُ فِضَّةٍ۔

382 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَّ اَلْيَنَ النَّاسِ كَفًّا، وَّ اَنْوَرَ النَّاسِ لَوْنًا، وَّ كَانَ يُرٰى رِضَاهُ وَ غَضَبُهٗ فِىْ وَجْهِهٖ لِصَفَآءِ بَشَرَتِهٖ، فَاِذَا غَضِبَ اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَاِذَا سُرَّ فَكَانَ وَجْهُهُ الْمِرْآةُ، وَ كَاَنَّ الْجُدُرَ يُرٰى شَخْصُهَا فِيْهِ۔

383 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ اِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهٗ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، مَنْ رَّآهُ بَدِيْهَةً هَابَهٗ، وَمَنْ خَالَطَهٗ مَعْرِفَةً اَحَبَّهٗ، يَقُوْلُ نَاعِتُهٗ: لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ۔

384 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ فَخْمًا مُّفَخَّمًا حَسَنَ الْجِسْمِ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ بَادِنًا اَحْسَنَ النَّاسِ قَوَامًا، لَا يَعْدُوْ لَحْمُ بَعْضِ بَدَنِهٖ بَعْضًا، كَالْمِرْآةِ فِىْ اِسْتِوَآئِهَا وَ كَالْقَمَرِ فِىْ بَيَاضِهٖ، ثُمَّ سَمِنَ فِىْ آخِرِ عُمْرِهٖ فَكَانَ لَهٗ ثَلَاثُ عُكَنٍ يُّغَطِّى الْاِزَارُ مِنْهَا وَاحِدَةً۔

385 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ بِالْفَارِعِ الْجَسِيْمِ وَلَا بِالطَّوِيْلِ الْبَآئِنِ، كَانَ اَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوْعِ وَ اَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، عَرِيْضَ الصَّدْرِ بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ سَوَآءَ الْبَطْنِ وَ الصَّدْرِ، كَاَنَّ ظَهْرَهٗ سَبِيْكَةُ فِضَّةٍ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ مِمَّا يَلِىْ مَنْكِبَهُ الْاَيْمَنِ، فِيْهِ شَامَةٌ سَوْدَآءُ تَضْرِبُ اِلَى الصُّفْرَةِ حَوْلَهَا شَعَرَاتٌ مُّتَوَالِيَاتٌ۔

386 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ قَوِىَّ الْجِسْمِ شَدِيْدَ الْبَطْشِ عَظِيْمَ الْهَامَةِ ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ شَثْنَ الْاَصَابِعِ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ جَلِيْلَ الْمُشَاشِ وَ الْكَتَدِ۔

387 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ شَبَحَ الذِّرَاعَيْنِ عَبْلَهُمَا، عَبْلَ الْعَضُدَيْنِ ضَخْمَ الزَّنْدَيْنِ طَوِيْلَهُمَا، ضَخْمَ الْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، رَحْبَ الرَّاحَتَيْنِ، سَآئِلَ الْاَطْرَافِ، كَانَ اَصَابِعُهٗ قُضْبَانُ فِضَّةٍ مَّنْهُوْسَ الْكَعْبَيْنِ، مَسِيْحَ الْقَدَمَيْنِ، خَمْصَانَ الْاَخْمَصَيْنِ، اَحْسَنَ الْبَشَرِ قَدَمًا۔

388 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ اِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا وَّ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَتَقَلَّعُ عَنْ صَخْرٍ وَّ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ يَّخْطُوْ تَكَفِّيًا وَّ يَمْشِىْ هَوْنًا ۢ بِغَيْرِ تَبَخْتُرٍ، مَّا مَشٰى مَعَ اَحَدٍ اِلَّا طَالَهٗ، كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تُطْوٰى لَهٗ، ذَرِيْعُ الْمِشْيَةِ، يُجْهِدُ اَصْحَابُهٗ اَنْفُسَهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ مُكْتَرِثٍ يَّمْشِىْ مُجْتَمِعًا مَّشْيًا يُّعْرَفُ فِيْهِ اَنَّهٗ لَيْسَ بِعَاجِزٍ وَّلَا كَسْلَانَ، وَاِذَا مَشٰى فَكَاَنَّمَا يَتَوَكَّاُ، وَلَا يَلْتَفِتُ وَرَآءَهٗ وَلَا يَعْيَا وَلَا يَلْهَثُ، يُقْبِلُ جَمِيْعًا وَّ يُدْبِرُ جَمِيْعًا، اِذَا جَآءَ مَعَ الْقَوْمِ غَمَرَهُمْ، يَسُوْقُ اَصْحَابَهٗ وَيَبْدُرُ مَنْ لَّقِيَهٗ بِالسَّلَامِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

389 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ حَسَنَهَا حَسَنَ السَّبَلَةِ، حَسَنَ الشَّعْرِ رَجِلَهٗ شَدِيْدَ سَوَادِهٖ، اِذَا انْفَرَقَتْ عَقِيْقَتُهٗ فَرَقَهَا، جَمِيْلَ الْوَفْرَةِ حَسَنَ اللِّمَّةِ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ ۢ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ، كَانَ جَعْدًا رَّجِلًا۔

390 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًّا وَّاِذَا مَشَطَ شَعْرَهٗ يَاْتِىْ كَاَنَّهٗ حُبُكُ الرَّمْلِ، وَرُبَّمَا جَعَلَهٗ غَدَآئِرَ اَرْبَعًا، تَخْرُجُ كُلُّ اُذُنٍ مِنْ ۢ بَيْنِ غَدِيْرَتَيْنِ، وَرُبَّمَا جَعَلَهٗ عَلٰى اُذُنَيْهِ فَتَبْدُوْ سَوَالِفُهٗ تَتَلَاْلَاُ۔

391 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ اَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَاَعَالِى الصَّدْرِ، وَ كَانَ طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ دَقِيْقَهَا مَوْصُوْلَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرٍ يَّجْرِىْ كَالْخَطِّ لَمْ يَكُنْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَلَا عَلٰى ظَهْرِهٖ شَعْرٌ غَيْرُهٗ۔

392 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ لَمْ يَكُنْ فِىْ رَاْسِهٖ شَيْبٌ اِلَّا شَعَرَاتٌ فِىْ مَفْرِقِهٖ، اِذَا اِدَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ، وَلَمْ يَكُنْ فِىْ رَاْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ اِلَّا نَحْوَ عِشْرِيْنَ شَعْرَةً ۢ بَيْضَآءَ، وَخَضَبَ فِىْ وَقْتٍ دُوْنَ وَقْتٍ۔

393 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ يُكْثِرُ تَسْرِيْحَ لِحْيَتِهٖ وَيَنْظُرُ فِى الْمِرْاٰةِ اِذَا سَرَّحَهَا وَيُعْفِيْهَا، وَقَدْ يَاْخُذُ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا وَيَقُصُّ شَارِبَهٗ، وَاِذَا حَلَقَ الْحَلَّاقُ شَعْرَهٗ اَطَافَ بِهٖ اَصْحَابُهٗ فَمَا تَقَعُ شَعْرَةٌ اِلَّا فِىْ يَدِ رَجُلٍ مِّنْهُمْ۔

394 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِىْ كَانَ اَطْيَبَ النَّاسِ رِيْحًا، وَّ كَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ، كَاَنَّ

عَرَقُهُ اللُّؤْلُؤُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْاَذْفَرِ، لَمْ يَسْلُكْ طَرِيْقًا فَيَتْبَعُهُ اَحَدٌ اِلَّا عَرَفَ اَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرَقِهٖ وَيُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ اِذَا اَقْبَلَ۔

395 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَتْ رَآئِحَةُ كَفِّهٖ كَرَآئِحَةِ كَفِّ الْعَطَّارِ، مَسَّهَا بِطِيْبٍ اَمْ لَمْ يَمَسَّهَا، وَ كَانَ يُصَافِحُ الرَّجُلَ فَيَظَلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيْحَهَا، وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ م بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِطِيْبِ رِيْحِهَا عَلٰى رَأْسِهٖ، وَ كَانَتْ تِلْكَ رَآئِحَتَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الذَّاتِيَّةَ بِلَا طِيْبٍ، وَّ مَعَ ذٰلِكَ فَكَانَ يُحِبُّ الطِّيْبَ وَ الرَّآئِحَةَ الْحَسَنَةَ وَ يَسْتَعْمِلُهَا كَثِيْرًا وَّ يَحُضُّ عَلَيْهَا وَ يَكْرَهُ الرَّآئِحَةَ الرَّدِيْئَةَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

مَحَاسِنُ اَخْلَاقِهِ الْكَرِيْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

396 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَّ اَجْوَدِ النَّاسِ صَدْرًا، وَّ اَصْدَقِ النَّاسِ لَهْجَةً، وَّ اَلْيَنِ النَّاسِ عَرِيْكَةً، وَّ اَكْرَمِ النَّاسِ عِشْرَةً، اَطْهَرِ النَّاسِ طَبْعًا، وَّ اَشْجَعِ النَّاسِ قَلْبًا، وَّ اَسْخَى النَّاسِ كَفًّا، وَّ اَطْيَبِ النَّاسِ نَفْسًا۔

397 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ اَعْرَفَ النَّاسِ بِاللّٰهِ وَ اَخْشَاهُمْ لِلّٰهِ، وَ اَكْثَرَهُمْ صِيَامًا وَّ قِيَامًا لَا سِيَّمَا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ۔

398 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ وَ يَأْتِيْهِ فِيْهِ جِبْرِيْلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ، فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ۔

399 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ لَا يَرُدُّ مَنْ سَئَلَهُ حَاجَةً اِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُوْرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ رَاجِيَهُ وَلَا يَخِيْبُ فِيْهِ، وَلَا يَأْتِيْهِ اَحَدٌ اِلَّا وَعَدَهُ وَ اَنْجَزَ لَهُ، وَاِنْ كَانَ عِنْدَهُ اَعْطَاهُ، وَلَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِّغَدٍ، وَّمَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا۔

400 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ م بِالْجَافِيْ وَلَا الْمَهِيْنِ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَ خُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ اَبًا، وَّ صَارُوْا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَآءً، وَّ كَانَ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَاِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا۔

401 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ لَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا، فَاِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهٖ شَيْءٌ حَتّٰى يَنْتَصِرَ لَهُ، يَغْضَبُ لِرَبِّهٖ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهٖ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا وَاِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَ اَشَاحَ، وَاِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، وَاِذَا رَاٰى شَيْئًا يَّكْرَهُهُ عُرِفَ فِيْ وَجْهِهٖ، وَ كَانَ اَشَدَّ حَيَآءً

مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا۔

402 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ مِنْ اَفْكَهِ النَّاسِ، لَا يُحَدِّثُ حَدِيْثًا اِلَّا تَبَسَّمَ، قَلِيْلَ الضَّحِكِ جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، اِذَا افْتَرَّ ضَاحِكًا يَّفْتَرُّ عَنْ مِّثْلِ سَنَا الْبَرْقِ اِذَا تَلَأْلَأَ وَعَنْ مِّثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ۔

403 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ بُكَاؤُهٗ مِنْ جِنْسِ ضَحِكِهٖ، لَمْ يَكُنْ بِشَهِيْقٍ وَّ رَفْعِ صَوْتٍ، كَمَا لَمْ يَكُنْ ضَحِكُهٗ بِقَهْقَهَةٍ، وَّلٰكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتّٰى تَنْهَمِلَانِ، وَيُسْمَعُ بِصَدْرِهٖ اَزِيْزٌ يَّبْكِيْ رَحْمَةً لِّمَيِّتٍ، وَّخَوْفًا عَلٰى اُمَّتِهٖ وَشَفَقَةً، وَّمِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْاٰنِ، وَاَحْيَانًا فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ۔

404 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ اِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهٗ اَوْ ثَوْبَهٗ عَلٰى فِيْهِ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهٗ، وَمَا تَثَاءَبَ قَطُّ وَكَانَ يَكْرَهُهٗ مِنْ غَيْرِهٖ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

405 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ طَوِيْلَ السُّكُوْتِ، لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَّيُعْرِضُ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ جَمِيْلٍ وَّ يَكْنِيْ عَنِ الْاُمُوْرِ الْمُسْتَقْبَحَةِ فِي الْعُرْفِ اِذَا اضْطَرَّهُ الْكَلَامُ اِلٰى ذِكْرِهَا، وَيَخْزُنُ لِسَانَهٗ اِلَّا فِيْمَا يَعْنِيْهِ، اِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَاِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ۔

406 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ يَذْكُرُ اللهَ بَيْنَ كُلِّ خَطْوَتَيْنِ وَلَا يَقُوْمُ وَلَا يَجْلِسُ اِلَّا عَلٰى ذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتَتِمُهٗ بِاسْمِ اللهِ تَعَالٰى۔

407 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ حُلْوَ الْمَنْطِقِ، فِيْ كَلَامِهٖ تَرْتِيْلٌ، يَّتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، كَلَامُهٗ فَصْلٌ لَّا نَزْرٌ وَّلَا هَذْرٌ، بَيِّنٌ يَّحْفَظُهٗ مَنْ جَلَسَ وَيَفْهَمُهٗ كُلُّ مَنْ سَمِعَهٗ، كَاَنَّمَا هُوَ خَرَزَاتٌ نُّظِمْنَ، لَا فُضُوْلَ فِيْهِ وَلَا تَقْصِيْرَ لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ، لَا يَذُمُّ اَحَدًا وَّلَا يَعِيْبُهٗ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهٗ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهٗ۔

408 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ مَجْلِسُهٗ مَجْلِسَ حِلْمٍ وَّحَيَاءٍ وَّاَمَانَةٍ وَّصَبْرٍ لَّا تُرْفَعُ فِيْهِ الْاَصْوَاتُ وَلَا تُؤْبَنُ فِيْهِ الْحُرَمُ، اِذَا تَكَلَّمَ اَطْرَقَ جُلَسَاؤُهٗ كَاَنَّمَا عَلٰى رُءُوْسِهِمُ الطَّيْرُ، فَاِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوْا لَا يَتَنَازَعُوْنَ عِنْدَهٗ، حَدِيْثُهُمْ عِنْدَهٗ حَدِيْثُ اَوَّلِهِمْ، اِنْ قَالَ اَنْصَتُوْا لِقَوْلِهٖ، وَاِنْ اَمَرَ تَبَادَرُوْا لِاَمْرِهٖ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُوْنَ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُوْنَ۔

409 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ كَانَ يُعْطِيْ كُلَّ جُلَسَائِهٖ نَصِيْبَهٗ وَلَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهٗ

اَنَّ اَحَدًا اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَ كَانَ يَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِيْ مَنْطِقِهٖ وَ مَسْئَلَتِهٖ حَتّٰى اِنْ كَانَ اَصْحَابُهٗ لَيَسْتَجْلِبُوْنَهُمْ مَنْ جَالَسَهٗ اَوْ فَاوَضَهٗ فِيْ حَاجَةٍ صَابَرَهٗ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ عَنْهُ، لَا يَقْطَعُ عَلٰى اَحَدٍ حَدِيْثَهٗ حَتّٰى يَجُوْزَ فَيَقْطَعُهٗ بِنَهْيٍ اَوْ قِيَامٍ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

410 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ خَافِضَ الطَّرْفِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ، نَظْرُهٗ اِلَى الْاَرْضِ اَطْوَلُ مِنْ نَّظَرِهٖ اِلَى السَّمَآءِ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهٗ۔

411 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ يُؤْثِرُ اَهْلَ الْفَضْلِ بِاِذْنِهٖ وَ قَسْمِهٖ عَلٰى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَ يُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَ يُكْرِمُ كُلَّ كَرِيْمِ قَوْمٍ وَّ يُوَلِّيْهِ عَلَيْهِمْ، وَ كَانَ يَحْذَرُ النَّاسَ وَ يَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّطْوِيَ عَنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِشْرَهٗ وَ خُلُقَهٗ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِيْ وَلَا يَكَادُ يُوَاجِهُ اَحَدًا ۢ بِشَيْءٍ يَّكْرَهُهٗ، وَمَا ضَرَبَ بِيَدِهٖ شَيْئًا قَطُّ اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلَا ضَرَبَ اِمْرَاَةً وَّلَا خَادِمًا۔

412 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ يَتَفَقَّدُ اَصْحَابَهٗ وَ يَسْئَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَ يُقَوِّيْهِ، وَ يُقَبِّحُ الْقَبِيْحَ وَ يُوَهِّيْهِ۔

413 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ اَفْضَلُ النَّاسِ عِنْدَهٗ اَعَمُّهُمْ نَصِيْحَةً، وَّ اَعْظَمُ النَّاسِ عِنْدَهٗ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُّوَاسَاةً وَّ مُوَازَرَةً، وَّ كَانَ يَقُوْلُ: اِذَا رَاَيْتُمْ صَاحِبَ حَاجَةٍ فَارْفِدُوْهُ۔

414 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ مُعْتَدِلَ الْاَمْرِ، لَا يُقَصِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَاوِزُهٗ، وَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ يُثِيْبُ عَلَيْهَا وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَآءَ اِلَّا مِنْ مُّكَافِئٍ۔

415 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ يَاْتِيْ ضُعَفَآءَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ يَزُوْرُهُمْ وَ يَعُوْدُ مَرْضَاهُمْ وَ يَشْهَدُ جَنَآئِزَهُمْ، وَ كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَ يُرْدِفُ خَلْفَهٗ، وَ كَانَ يَوْمَ بَنِيْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حِمَارٍ مَّخْطُوْمٍ ۢ بِحَبْلٍ مِّنْ لِّيْفٍ وَّ عَلَيْهِ اِكَافٌ مِّنْ لِّيْفٍ وَّ حَجَّ عَلٰى رَحْلٍ رَثٍّ وَّ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ لَّا تُسَاوِيْ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لَّا رِيَآءَ فِيْهِ وَلَا سُمْعَةَ۔

416 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مَآ اَكَلَ عَلٰى خِوَانٍ وَّلَا فِيْ سُكُرُّجَةٍ وَّلَا خُبِزَ لَهٗ مُرَقَّقٌ وَّ كَانَ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ عَلٰى خُبْزِ الشَّعِيْرِ، وَ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْاَرْضِ وَ يَاْكُلُ عَلَى الْاَرْضِ، وَ يَعْتَقِلُ الشَّاةَ وَ يَخْصِفُ النَّعْلَ، وَ يَرْقَعُ الْقَمِيْصَ وَ يَلْبَسُ الصُّوْفَ۔

417 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ يَمُرُّ بِالصِّبْيَانِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُدْفَعُ عَنْهُ النَّاسُ وَلَا يُضْرَبُوْنَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْهُ، وَ كَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا، لِمَا يَعْلَمُوْنَ

مِنْ كَرَاهَتِهٖ لِذٰلِكَ، وَ إِذَا انْتَهٰى إِلٰى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ

أَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

أَحَاسِنُ الْعِبَارَاتِ فِي مَحَاسِنِ سَيِّدِ السَّادَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

418 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي قَالَ عُمَرُ فِي وَصْفِهٖ: بِأَبِي وَ أُمِّي لَمْ أَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

419 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي قَالَ عَلِيٌّ فِي وَصْفِهٖ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا صَبِيحَ الْوَجْهِ كَرِيمَ الْحَسَبِ حَسَنَ الصَّوْتِ، وَ كَانَ نَبِيُّكُمْ كَرِيمَ الْحَسَبِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهٗ مِثْلُهٗ وَلَا يَكُونُ بَعْدَهٗ مِثْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

420 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ فِي وَصْفِهٖ: سَقَطَتْ مِنِّي الْإِبْرَةُ فَتَبَيَّنْتُهَا بِشُعَاعِ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُنْتَصِرًا مِّنْ مَّظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَّحَارِمِ اللهِ تَعَالٰى، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَّحَارِمِ اللهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذٰلِكَ غَضَبًا وَّ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَّأْثَمًا، وَ مَا رَأَيْتُهٗ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ وَ سُئِلَتْ عَنْ خُلُقِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ۔

421 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي وَصْفِهٖ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهٖ، وَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا م بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

422 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي وَصَفَتْهُ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ عَفْرَاءَ حِينَ قِيلَ لَهَا: صِفِي لَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهٗ لَقُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةً۔

423 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي قَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ هَمْدَانَ فِي وَصْفِهٖ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَرَّاتٍ فَرَأَيْتُهٗ عَلٰى بَعِيرٍ لَّهٗ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، بِيَدِهٖ مِحْجَنٌ، عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْمَرَانِ يَكَادُ يَمَسُّ شَعْرُهٗ مَنْكِبَهٗ، إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ اسْتَلَمَهٗ بِالْمِحْجَنِ ثُمَّ يَرْفَعُهٗ إِلٰى فِيهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

424 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي وَصْفِهٖ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ. اِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهٗ کَاَنَّهٗ قِطْعَةُ قَمَرٍ۔

425 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ جُبَیْرُ بْنُ مُطْعِمٍ فِیْ وَصْفِهٖ : اِلْتَفَتَ اِلَیْنَا رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ، بِوَجْهٍ مِّثْلِ شُقَّةِ الْقَمَرِ، صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَھٰی مَرْضَاةِ اللہِ تَعَالٰی وَ مَرْضَاتِهٖ۔

426 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ فِیْ وَصْفِهٖ : رَاَیْتُ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ، فِیْ لَیْلَةٍ اِضْحِیَانٍ وَّ عَلَیْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَیْهِ وَ اِلَی الْقَمَرِ، فَلَھُوَ عِنْدِیْ اَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، وَ مَا رَاَیْتُ مِنْ ذِیْ لِمَّةٍ فِیْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ، وَ قَالَ : مَا رَاَیْتُ اَحْسَنَ شَعَرًا وَّلَا اَحْسَنَ بَشَرًا فِیْ ثَوْبَیْنِ اَحْمَرَیْنِ مِنْ رَّسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ، وَ قَالَ : رَاَیْتُ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ، فِیْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُتَرَجِّلًا، فَمَا رَاَیْتُ اَحَدًا کَانَ اَجْمَلَ مِنْهُ، وَ سُئِلَ : اَکَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّیْفِ؟ فَقَالَ : لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ، وَمَا رَاَیْتُ شَیْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ، وَ قَالَ : مَسَّ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ خَدِّیْ فَوَجَدْتُ لِیَدِهٖ بَرْدًا وَّ رِیْحًا کَاَنَّمَا اَخْرَجَھَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارٍ۔

427 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِیْ وَصْفِهٖ : کُنْتُ اِذَا رَاَیْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : کَاَنَّهٗ دِیْنَارٌ۔

428 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَتْ اُمُّ اَبِیْ قِرْصَافَةَ فِیْ وَصْفِهٖ : مَا رَاَیْنَا مِثْلَ ھٰذَا الرَّجُلِ اَحْسَنَ وَجْھًا وَّلَا اَنْقٰی ثَوْبًا وَّلَا اَلْیَنَ کَلَامًا، وَّ رَاَیْنَا کَالنُّوْرِ یَخْرُجُ مِنْ فِیْهِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔

429 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ اَنَسٌ فِیْ وَصْفِهٖ : مَا مَسِسْتُ خَزًّا وَّلَا حَرِیْرًا وَّلَا شَیْئًا کَانَ اَلْیَنَ مِنْ کَفِّ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْکًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا کَانَ اَطْیَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ، وَ قَالَ : مَا رَاَیْتُ اَحَدًا اَرْحَمَ بِالْعِیَالِ مِنْ رَّسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ، وَ کَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔

430 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِیْ وَصْفِهٖ : مَا رَاَیْتُ اَنْجَدَ وَلَا اَجْوَدَ وَلَا اَشْجَعَ وَلَا اَضْوَأَ مِنْ رَّسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔

431 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ عَبْدُ اللہِ بْنُ الْحَارِثِ فِیْ وَصْفِهٖ : مَا رَاَیْتُ اَحَدًا اَکْثَرَ تَبَسُّمًا مِّنْ رَّسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔

432 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَالَ اَبُو الطُّفَیْلِ فِیْ وَصْفِهٖ : رَاَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِي، كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَزَوْجَاتِهِ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهِ۔

صَلَوَاتُ الْمُخَاطَبَاتِ فِي دَلَائِلِهِ وَمُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

433 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا سَيِّدَ الْعَوَالِمِ، يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا أَحْمَدُ يَا حَبِيْبَ اللهِ يَآ أَبَآ إِبْرَاهِيْمَ يَآ أَبَا الْقَاسِمِ، يَا مَنْ خَلَقَ اللهُ مِنْ نُّوْرِهٖ جَمِيْعَ الْمَخْلُوْقَاتِ، وَأَعْطَاهُمْ بِقِسْمَتِهٖ كُلَّ الْأَرْزَاقِ وَالْكَمَالَاتِ، وَكَتَبَ اسْمَكَ عَلَى الْعَرْشِ مَعَ اسْمِهٖ وَرَفَعَ ذِكْرَكَ مَعَ ذِكْرِهٖ وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى أَنْبِيَآئِهٖ بِنُصْرَتِكَ، وَالْإِيْمَانِ بِنُبُوَّتِكَ، ثُمَّ خَصَّكَ بِتَنْزِيْلِ التَّنْزِيْلِ، بَعْدَ أَنْ بَشَّرَ بِكَ فِيْ كُتُبِهٖ كَالزَّبُوْرِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ، وَنَشَرَ عِلْمَ نُبُوَّتِكَ مِنْ طَيِّ الْكِتْمَانِ، فِي عَوَالِمِ الْمَلَكِ وَالْإِنْسِ وَالْجَانِّ، فَهَتَفَتْ بِكَ الْهَوَاتِفُ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ، وَّبَشَّرَتْ بِكَ الْأَحْبَارُ وَالرُّهْبَانُ وَالْكُهَّانُ، وَسَارَتْ بِأَخْبَارِكَ يَا دَعْوَةَ الْخَلِيْلِ وَبُشْرَى الْمَسِيْحِ الرُّكْبَانُ، حَتّٰى أَظْهَرَكَ اللهُ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ أَكْمَلَ الْمَظَاهِرِ، وَتَحَقَّقَ بِكَ مَا وَرَدَ فِيْ شَأْنِكَ مِنَ الْعَلَامَاتِ وَالْبَشَآئِرِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ عِلْمَ الْأَوَآئِلِ فِيْكَ كَانَ مُطَابِقًا لِّمُشَاهَدَةِ الْأَوَاخِرِ، وَظَهَرَ أَنَّكَ يَا عَبْدَ اللهِ الْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَتَسْلِيْمَاتِهٖ، وَتَحِيَّاتِهٖ وَبَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَيُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَيَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ۔

434 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْعَوَالِمِ، وَسُلَالَةَ السَّادَةِ الْأَكَابِرِ الْأَعَاظِمِ، يَا كَرِيْمَ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، يَآ ابْنَ الْأَكَارِمِ وَالْكَرَآئِمِ، يَا فَخْرَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، مِنْ حَوَّآءَ إِلٰى آمِنَةَ، وَمِنْ آدَمَ إِلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، يَآ أَصْلَ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ الَّذِيْ تَفَرَّعَتْ عَنْهُ كُلُّ الْفَضَآئِلِ وَالْمَكَارِمِ، يَا مَنْ خَلَقَ اللهُ نُوْرَهٗ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ مِنْهُ جَمِيْعَ الْأَشْيَآءِ، ثُمَّ أَطْلَعَ شَمْسَهُ الْمُشْرِقَةَ فِيْ بُرُوْجِ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَآءِ، وَلَمْ يَزَلْ يَنْتَقِلُ فِيْهِمُ انْتِقَالَ الْبَدْرِ فِيْ مَنَازِلِ السَّمَآءِ، إِلٰى أَنْ حَلَّ فِيْ أَبَوَيْكَ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ وَآمِنَةَ الْغَرَّآءِ، فَلِلّٰهِ دَرُّهُمَا، أَنْجَبُ أُمٍّ اقْتَرَنَتْ بِأَنْجَبِ الْآبَاءِ، فَحَمَلَتْ بِكَ يَآ أَبَا الْعَوَالِمِ يَا سَيِّدَ الْأَنْبِيَآءِ، وَأَتَتْ قَوْمَهَا بِأَفْضَلِ مِمَّا حَمَلَتْ قَبْلُ مَرْيَمُ الْعَذْرَآءُ، وَظَهَرَ لِلنَّاسِ فِيْ مُدَّةِ حَمْلِكَ وَوِلَادَتِكَ مَا انْتَشَرَتْ أَخْبَارُهٗ فِي الْعَالَمِيْنَ، وَانْكَشَفَتْ أَسْرَارُهٗ لِلْعَارِفِيْنَ، وَسَطَعَتْ أَنْوَارُهٗ لِلنَّاظِرِيْنَ، وَصَدَحَتْ أَطْيَارُهٗ لِلسَّامِعِيْنَ، مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّتِكَ الْبَاهِرَةِ، وَآيَاتِ رِسَالَتِكَ الظَّاهِرَةِ، وَشُمُوْسِ فَضَآئِلِكَ السَّافِرَةِ، وَبَرَاهِيْنِ دَلَائِلِكَ الْقَاهِرَةِ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۔ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۔ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ﴾ أَمَا دَلَّتْ عَلٰى نُبُوَّتِكَ رُؤْيَا الْمُوْبَذَانِ، وَانْشِقَاقُ الْإِيْوَانِ، وَغَيْضُ مِيَاهِ الْفُرْسِ، وَخُمُوْدُ النِّيْرَانِ، وَتَنْكِيْسُ الْأَصْنَامِ

وَ الْاَوْثَانِ، اَمَا ظَهَرَ فِي السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لِقُرْبِ ظُهُوْرِكَ بَشَائِرُ الْاِسْتِبْشَارِ، وَ عَمَّ قُرَيْشًا بِيُمْنِكَ السُّرُوْرُ وَ الْيَسَارُ، وَ اخْتَصَّتْ اُمُّكَ بِرُؤْيَةِ عَجَآئِبِ الْاٰيَاتِ وَ سَوَاطِعِ الْاَنْوَارِ، وَ امْتَازَتْ عَنْ جِيَادِ النِّسَآءِ بِاِحْرَازِهَا قَصَبَ السَّبْقِ فِيْ مِضْمَارِ الْفَخَارِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

435 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ سَعِدَتْ بِهٖ مُرْضِعَتُهُ السَّعْدِيَّةُ بَعْدَ الشَّقَآءِ، وَ اَبْدَلَ اللهُ شِدَّتَهَا بِالرَّخَآءِ، وَ قَوِيَتْ اَتَانُهَا الضَّعِيْفَةُ وَ دَرَّتْ شَارِفُهَا الْعَجْفَآءُ، وَ اَتَتْكَ عِنْدَهَا مَلَآئِكَةُ اللهِ وَ اَنْتَ مَعَ ابْنِهَا فِي الصَّحْرَآءِ، فَشَقُّوْا صَدْرَكَ الشَّرِيْفَ وَ حَشَوْهُ اِيْمَانًا وَّ حِكْمَةً، وَّ وَزَنُوْكَ فَرَجَحْتَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاُمَّةِ، وَ لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ اللهَ اَوْلَاكَ مِنْ فَضْلِهٖ مَآ اَوْلَاكَ، قَبَّلُوْا رَاْسَكَ وَ قَالُوْا : اِنَّكَ لَوْ تَدْرِيْ مَا يُرَادُ بِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ لَقَرَّتْ عَيْنَاكَ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

436 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الدُّرُّ الْيَتِيْمُ الَّذِيْ صَانَهُ اللهُ بَعْدَ عَبْدِ اللهِ بِحِرْزِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُدَّةً مِّنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ اَحْرَزَهٗ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَامَ بِحُقُوْقِ الصِّيَانَةِ وَ الْاَمَانَةِ وَ الْاَمَانِ، وَ لَمْ يَزَلْ يَتَعَاهَدُكَ بِكَمَالِ الشَّفَقَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الْحَنَانِ، حَتّٰى كَانَ مِنْ ظُهُوْرِكَ مَا كَانَ، وَ قَامَتْ بِنُصْرَتِكَ الْاَكْوَانُ، وَ اٰمَنَ بِكَ الْاِنْسُ وَ الْجَانُّ، وَ اَجَابَ دَعْوَتَكَ الْجَمَادُ فَضْلًا عَنِ الْحَيَوَانِ، وَ مَالَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ ظِلُّ الشَّجَرَةِ اِلَيْكَ، وَ انْحَنَتْ اَغْصَانُهَا عَلَيْكَ، اِذْ سَافَرْتَ اِلَى الشَّامِ، وَ خَصَّكَ اللهُ فِي الْحَرِّ الشَّدِيْدِ، وَ السَّفَرِ الْبَعِيْدِ، بِتَظْلِيْلِ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْغَمَامِ، وَ مِنَ الْعَجَآئِبِ اَنَّكَ لَا ظِلَّ لَكَ يَا شَمْسَ الْوُجُوْدِ، وَ سَعْدَ السُّعُوْدِ، وَ قَدْ عَاشَ فِيْ ظِلِّكَ الْاَنَامُ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

437 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَآ اَوَّلَ الْخَلْقِ وَ خَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ، يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَ نَبَّاَهٗ وَ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَ الطِّيْنِ، وَ اَرْسَلَ اِلَيْكَ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ، بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَ الدِّيْنِ الْمُبِيْنِ، فَاَتَاكَ وَ اَنْتَ فِيْ غَارِ حِرَآءَ تَعْبُدُ اللهَ عَلٰى مِنْهَاجِ الْحُنَفَآءِ فَغَطَّكَ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى وَ ضَمَّكَ اِلَيْهِ، وَ اَفْرَغَ فِيْكَ بِقَوْلِهٖ {اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ} مَآ اَوْدَعَ اللهُ لَكَ مِنْ سِرِّ النُّبُوَّةِ لَدَيْهِ، فَرَجَعْتَ اِلٰى سَيِّدَةِ النِّسَآءِ، خَدِيْجَةَ الْغَرَّآءِ، فَتَحَقَّقَتْ مَا كَانَتْ تَفَرَّسَتْهُ فِيْكَ مِنْ اَنَّكَ خَاتِمُ الْاَنْبِيَآءِ، وَ قَالَتْ لَكَ. اِذْ قُلْتَ لَهَا : خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ. قَوْلًا رَّشَدًا، اَحْرَزَتْ بِهٖ فِيْ خِصَالِ الْاِيْمَانِ وَ الْعِرْفَانِ خَصْلَ السَّبْقِ : كَلَّا وَ اللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَ تُعِيْنُ عَلٰى نَوَآئِبِ الْحَقِّ، وَ حَدَّثَتْهَا

بِذٰلِكَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ فَهَنَّأَ وَبَشَّرَ، وَقَالَ لَكَ: إِنَّهُ يَأْتِيكَ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ، وَإِنَّكَ نَبِيُّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي بِهِ الْمَسِيحُ بَشَّرَ وَ الْكَلِيمُ اَخْبَرَ، وَ زَادَهُ يَقِينًا اَنَّهُ هُوَ وَ سَائِرَ قَوْمِكَ عَلِمُوكَ قَدْ نَشَأْتَ عَلٰى اَكْمَلِ اَخْلَاقِ الرِّجَالِ، مُبَرَّأً مِّنْ مَّسَاوِي الْخِلَالِ مُتَّصِفًا ، بِمَحَاسِنِ الْخِصَالِ، مُسْتَجْمِعًا لِّاَنْوَاعِ الْفَضْلِ وَ الْاِفْضَالِ، مُسْتَكْمِلًا لِّجَمِيعِ اَوْصَافِ الْكَمَالِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَتَسْلِيمَاتِهِ، وَ تَحِيَّاتِهِ وَ بَرَكَاتِهِ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَائِلَ جَمِيعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ۔

438 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ اَسْرٰى بِهِ اللهُ فِيْ بَعْضِ لَيْلَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى الْمَحَلِّ الْاَعْلٰى وَ الْعَرْشِ الْاَبْهٰى، حَتّٰى دَنَا فَتَدَلّٰى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَ رَافَقَكَ اَخُوكَ جِبْرِيْلُ وَ اَنْتَ عَلَى الْبُرَاقِ رَاكِبٌ، وَّ رَاَيْتَ مَا رَاَيْتَ فِيْ طَرِيْقِكَ مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَرِ وَ الْعَجَائِبِ، فَلَمَّا اَتَيْتُمَا الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ قَدَّمَكَ فَصَلَّيْتَ بِالْاَنْبِيَاءِ، ثُمَّ صَعِدَ بِكَ اِلَى السَّمٰوَاتِ سَمَآءً سَمَآءً، وَّ حَصَلَ لَكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْاَنْبِيَاءِ كَمَالُ الْاِحْتِفَالِ وَ الْاِحْتِفَاءِ، وَ رَاَيْتَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ مَا فِيْهِمَا مِنْ اَحْوَالِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَ الشَّقَاءِ، فَلَمَّا جُزْتُمَا السَّمٰوَاتِ الْعُلَا، وَ رَقِيْتُمَا اَرْفَعَ مُرْتَقًى، وَّ بَلَغْتُمَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجَوَازُ فَانْتَهٰى، وَ تَقَدَّمْتَ وَحْدَكَ حَتّٰى وَصَلْتَ اِلٰى اَعْلٰى مَقَامٍ، سَمِعْتَ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ، وَ زُجَّ بِكَ فِي النُّوْرِ حَتّٰى حَظِيْتَ مَعَ كَمَالِ التَّنْزِيْهِ بِرُؤْيَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، وَ بَلَغْتَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ مَخْلُوْقٌ مِّنْ اِكْرَامِ ذِي الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، وَ رَجَعْتَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ اَنْتَ لِجَمِيْعِ خَلْقِ اللهِ اِمَامٌ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيمَاتِهِ، وَ تَحِيَّاتِهِ وَ بَرَكَاتِهِ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَائِلَ جَمِيعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ۔

439 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ شَرَّفَ اللهُ بِهِ نَوْعَ الْاِنْسَانِ، وَ بَعَثَهُ لِخَيْرِ الْاُمَمِ بِخَيْرِ الْاَدْيَانِ، وَ قَيَّضَ لَهُ مِنْ قَوْمِهِ وَ صَحْبِهِ خَيْرَ اَنْصَارٍ وَّ اَعْوَانٍ، وَّ مَنَحَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مُنْتَهٰى مَا فِي الْاِمْكَانِ، قَدْ فَضَّلَكَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّيْنَ بِاَكْمَلِ الْفَضَائِلِ وَ اَفْضَلِ الْكَمَالَاتِ، وَ اَكْثَرِ الدَّلَائِلِ وَ اَظْهَرِ الْمُعْجِزَاتِ، وَ اَعْظَمِ الْحُجَجِ وَ اَدْوَمِ الْاٰيَاتِ، وَ لَمْ تَخْتَصَّ بِهَا الْاَرْضُ حَتّٰى ظَهَرَتْ فِي السَّمٰوَاتِ، فَمِنْ ذٰلِكَ بَلْ اَعْظَمُ مَا هُنَالِكَ الْقُرْاٰنُ، الَّذِيْ عَجَزَ عَنْ مُّعَارَضَتِهِ عَوَالِمُ الْمَلَكِ وَ الْاِنْسِ وَ الْجَانِّ، وَ تَحَدَّى اللهُ بِهِ فُصَحَاءَ الْعَرَبِ مِنْ عَدْنَانَ وَ قَحْطَانَ، وَ قَالَ لَهُمْ : { وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ } فَحَكَمَ بِالْعَجْزِ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَكْوَانِ، وَ رُمِيَتْ لِبِعْثَتِكَ الشَّيَاطِيْنُ بِالشُّهُبِ فَهَوَتْ فِي الْهَوَاءِ، وَ اَصَابَ سَهْمُ دَعْوَتِكَ الْقَمَرَ فَانْشَقَّ فِيْ كَبِدِ السَّمَاءِ، وَ حُبِسَتْ لِاَمْرِكَ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً ، بِمَكَّةَ وَ مَرَّةً ، بِالصَّهْبَاءِ، فَتَمَّتْ سِيَادَتُكَ عَلَى الْعَوَالِمِ الْعُلْوِيَّةِ وَ السُّفْلِيَّةِ وَ هٰذَا مُنْتَهَى الْعَلَاءِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيمَاتِهِ، وَ

تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

440 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شِفَآءَ الْاَسْقَامِ، يَا طَبِيْبَ الْاَرْوَاحِ وَ الْاَجْسَامِ، يَا مَنْ اَطْلَعَهُ اللهُ عَلٰى كُلِّ دَآءٍ وَّ دَوَآءٍ، وَّ حَكَّمَهٗ فِيْهِمَا فَهُوَ يُسْقِمُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَشْفِيْ مَنْ يَّشَآءُ، قَدْ دَعَوْتَ عَلَى الْمُسْتَهْزِئِيْنَ فَاَهْلَكَهُمُ اللهُ بِاَقْبَحِ الْاَدْوَآءِ، وَ اَصَابَتْ اَبَا لَهَبٍ الْعَدَسَةُ فَكَانَتْ لِذَاتِهِ الْخَبِيْثَةِ بِئْسَ الْغِذَآءُ، وَ هَلَكَ سَآئِرُهُمْ فِيْ بَدْرٍ بِظَلَامِ الشِّرْكِ وَ حُرِمُوْا مِنْكَ يَا بَدْرَ الْهِدَايَةِ الضِّيَآءَ، وَ طَالَمَا شَفَيْتَ بِمُجَرَّدِ الْمَسِّ وَ الدُّعَآءِ عُضَالَ الْاَسْقَامِ، وَ اَبْرَأْتَ بِالتَّفْلِ الْجُرُوْحَ وَ جَبَرْتَ الْعِظَامَ، وَ اَزَلْتَ بِيَسِيْرٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَ الْاَذْكَارِ جَمِيْعَ اَنْوَاعِ الْاٰلَامِ، كَاِعَادَتِكَ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ سَيَلَانِهَا، وَ شِقِّ ابْنِ عَفْرَآءَ بَعْدَ اَنْ مَّالَ مِنْ ضَرْبَةِ الْحُسَامِ، بَلْ اَحْيَا اللهُ لَكَ وَ لِاَوْلِيَآءِ اُمَّتِكَ الْمَوْتٰى كَمَا وَقَعَ لِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ كَمْ شَفَيْتَ اُمَمًا مِّنْ اَمْرَاضِ الْاَرْوَاحِ وَ هِيَ اَشَدُّ مِنْ اَمْرَاضِ الْاَجْسَامِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

441 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اسْتَحَالَ بِكِيْمِيَآءِ نَظَرِهٖ ظَلَامُ الشِّرْكِ نُوْرَ اِيْمَانٍ، وَّ انْقَلَبَتِ الْاَوْصَافُ وَ الْاَخْلَاقُ وَ الْاَعْيَانُ، فَكُنْتَ تَجْعَلُ عُوْدَ الْحَطَبِ سَيْفًا شَدِيْدَ الْمَتْنِ لَا يَبْلُغُ حَدَّهُ الْعَضْبُ الْيَمَانِ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْاَعْرَابِيُّ الْجِلْفُ وَ هُوَ فِيْ غَايَةِ الْجَهْلِ وَ الْعُدْوَانِ، فَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ حَكِيْمَ الْاُمَّةِ وَ عَلَّامَةَ الزَّمَانِ، وَ هٰذَا سِرٌّ اِلٰهِيٌّ خَصَّكَ بِهِ الْمَلِكُ الدَّيَّانُ، لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُهَّانُ الْعَرَبِ وَ بَرَاهِمَةُ الْهِنْدِ وَ مُوَابِذَةُ الْفُرْسِ وَ حُكَمَآءُ الْيُوْنَانِ، فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰى تَخْصِيْصِكَ بِنِعَمٍ لَّمْ يُقَدِّرْهَا لِاَحَدٍ فِيْمَا يَكُوْنُ وَ مَا كَانَ، حَتّٰى سَبَقْتَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ بِكُلِّ وَصْفٍ جَمِيْلٍ وَّ اِنْ تَاَخَّرَ بِكَ الزَّمَانُ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

442 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَنْبِيَآءِ، يَا دَاعِيَ اللهِ يَا مُسْتَجَابَ الدُّعَآءِ، يَا مَنِ اجْتَمَعَتْ بِدُعَآئِهٖ لِاَوْلِيَآئِهٖ كُنُوْزُ الْبِرِّ، وَ دَوَاعِي الْفَتْحِ وَ النَّصْرِ، وَ اَسْبَابُ السُّرُوْرِ وَ الْيُسْرِ، وَ مُوْجِبَاتُ الْحَمْدِ وَ الشُّكْرِ، فَكُنْتَ لَهُمْ مِّصْبَاحًا لِّلْاِهْتِدَآءِ، فِي اللَّيْلَةِ الدَّهْمَآءِ، اِذَا اشْتَدَّ الظَّلَامُ وَ عَزَّ الضِّيَآءُ، وَ رِيًّا وَّ غِذَآءً فِي السَّنَةِ الشَّهْبَآءِ، وَ الْمَفَازَةِ الْجَرْدَآءِ، الَّتِيْ لَا نَبَاتَ فِيْهَا وَلَا مَآءَ، وَ مَلْجَاً فِي الْمُلِمَّاتِ، عِنْدَ اشْتِدَادِ الْاَزَمَاتِ، وَ احْتِدَامِ الْكُرُبَاتِ، وَ اسْتِحْكَامِ الْحَلَقَاتِ، وَ انْسِدَادِ اَبْوَابِ الْفَرَجِ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ، فَكُنْتَ اِذَا رَفَعْتَ يَدَيْكَ لِلْمَلِكِ الْوَهَّابِ، وَ قُلْتَ: اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اَللّٰهُمَّ مُجْرِيَ السَّحَابِ

وَ هَازِمِ الْاَحْزَابِ، وَ مَآ اَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنْ دُعَآئِكَ الْمُسْتَجَابِ، لَا تَرْجِعُهُمَآ اِلَّا وَ قَدْ حَصَلَ الْجَوَابُ بِالْاِيْجَابِ، وَ كَمْ شَفَيْتَ بِهٖ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ سَقِيْمًا، وَّ جَرِيْحًا، وَّ اَسْقَمْتَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ سَلِيْمًا وَّ صَحِيْحًا، وَّ تَرَكْتَ مِنْهُمْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ قَتِيْلًا وَّ طَرِيْحًا، وَ كَمْ جَهَّزْتَ مِنْهُ جَيْشًا ، بِلَا سِلَاحٍ وَّلَا زَادٍ وَّلَا مَآءٍ سُدَّتْ بِهٖ عَنْ اَعْدَآئِكَ اَبْوَابُ النَّجَاةِ لِمَا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَآءِ، وَ كُنْتَ اِذَا رَمَيْتَ مِنْهُ سَهْمًا اِسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْخَطَآءُ، وَ تَفَرَّعَتْ مِنْهُ سِهَامٌ ، بِعَدَدِ الْاَعْدَآءِ، وَ مَا قَضَيْتَ بِهٖ لِقَوْمٍ اَوْ عَلٰى قَوْمٍ اِلَّا جَرٰى بِقَدَرِ اللهِ الْقَضَآءُ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

443 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ اللهِ عَلَى الْبَرِيَّةِ، فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَّ مَكَانٍ، يَا رَاقِيًا اَعْلٰى مَرَاقِي الْعُبُوْدِيَّةِ، وَ هُوَ لِلْاَنْبِيَآءِ سُلْطَانٌ، قَدْ اَعْطَاكَ الْمَلِكُ الْوَهَّابُ سِرَّ كُنْ فَدَخَلَتْ تَحْتَ تَصَرُّفِكَ الْاَكْوَانُ، فَلَوْ قُلْتَ لِلْجِبَالِ: كُوْنِيْ ذَهَبًا، لَّكَانَتْ: بَلْ لَّوْ قُلْتَ لِاَمْسِ: كُنْ غَدًا، لَّكَانَ، وَلَا اِسْتِحَالَةَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَدَارَ لَكَ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضَ الزَّمَانُ، وَ قُلْتَ يَوْمَ تَبُوْكَ لِشَبَحٍ ، بَعِيْدٍ: كُنْ اَبَا ذَرٍّ، وَلِاٰخَرَ: كُنْ اَبَا خَيْثَمَةَ، فَكَانَ الْاِثْنَانِ، وَ قُلْتَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهٗ عَلِيًّا، فَجَعَلَهٗ اِيَّاهُ الرَّحْمٰنُ، لِاَنَّكَ تَنْطِقُ بِاللهِ وَ هُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يَشَآءُ، وَلَا حَدَّ عِنْدَهٗ لِدَآئِرَةِ الْاِمْكَانِ، فَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الشَّرِيْكِ وَ مَا يَعُوْدُ عَلٰى كَمَالِهٖ سُبْحَانَهٗ بِالنُّقْصَانِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

444 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اجْتَبَاهُ اللهُ وَ اصْطَفَاهُ، وَ مَا مِنْ شَيْءٍ سِوٰى كَفَرَةِ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ اِلَّا يَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ السَّمَآءُ بِمَلَآئِكَتِهَا وَ كَوَاكِبِهَا وَ سُكَّانِهَا، وَ زُخْرِفَتْ لَكَ فِيْهَا الْجِنَانُ بِخَزَنَتِهَا وَ حُوْرِهَا وَ وِلْدَانِهَا، وَ لَوْ شِئْتَ لَاَوْقَفْتَ بِاِذْنِ اللهِ اَفْلَاكَهَا عَنْ دَوَرَانِهَا، وَ آمَنَتْ بِكَ الْاَرْضُ بِاَحْجَارِهَا وَ اَشْجَارِهَا وَ عُمَّارِهَا، وَ جِبَالِهَا وَ اَوْدِيَتِهَا وَ اَنْهَارِهَا وَ بِحَارِهَا، وَ لَوْ شِئْتَ لَاَخْرَجَتْ لَكَ بِاِذْنِ اللهِ كُنُوْزَ جَوَاهِرِهَا وَ نُضَارِهَا، فَقَدْ زُوِيَتْ لَكَ حَتّٰى رَاَيْتَ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا وَ مَا تَمْلِكُهٗ اُمَّتُكَ مِنْ اَقْطَارِهَا، وَ خَسَفَتْ بِسُرَاقَةَ وَ فَرَسِهٖ، لَوْلَاكَ لَغَرِقَا فِيْ تَيَّارِهَا، وَ رَفَضَتِ الْمُرْتَدَّ وَ قَاتِلَ الْمُسْلِمِ لَمْ تَقْبَلْهُمَا فِيْ بَطْنِهَا فَرَضِمَا بِاَحْجَارِهَا، وَ صَارَتْ كُدْيَتُهَا فِي الْخَنْدَقِ بِضَرْبَتِكَ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ، بَعْدَ اِسْتِعْصَآئِهَا وَ اسْتِحْجَارِهَا، وَ اجْتَمَعَتْ بِاَمْرِكَ شَجَرَاتُهَا وَ حِجَارَتُهَا فَاسْتَتَرْتَ بِاَسْتَارِهَا، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

445 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ صَدَّقَتْ بِنُبُوَّتِهِ الْاَرْضُ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ اَحْجَارُهَا، وَ سَعَتْ اِلَيْكَ وَ شَهِدَتْ بِرِسَالَتِكَ دَوَآبُّهَا وَ اَشْجَارُهَا، وَ عَذُبَ بِتَفْلَتِكَ مِلْحُهَا وَ جَرَتْ عُيُوْنُهَا وَ فَاضَتْ آبَارُهَا، وَ حَنَّ اِلَيْكَ جِذْعُهَا وَ اهْتَزَّتْ لَكَ جِبَالُهَا وَ نَصَرَتْكَ صَبَاهَا وَ حَمَاكَ غَارُهَا، وَ اَطَاعَتْكَ هِيَ وَ السَّمَآءُ وَ خَيْرُ اَهْلِيْهِمَا لَمَّا حَكَّمَكَ عَلَى الْبَرِيَّةِ قَهَّارُهَا، وَمَا كَانَ الْكُفَّارُ يَعْصُوْنَكَ لَوْلَا مَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ مِنَ الْاَغْلَالِ اِلَى الْاَذْقَانِ، وَ السَّلَاسِلِ الْمُقَادِيْنَ بِهَآ اِلٰى مَا قُدِّرَ لَهُمْ مِّنَ النَّكَالِ وَ الْوَبَالِ وَ النِّيْرَانِ، فَاِنَّ شَمْسَ نُبُوَّتِكَ اَظْهَرُ مِنْ اَنْ يَّجْحَدَهَآ اِنْسَانٌ، اَوْ يَخْتَلِفَ فِيْهَآ اِثْنَانِ، فَكُنْ وَسِيْلَتَنَآ اِلَى اللهِ تَعَالٰٓى اَنْ يَّرْزُقَنَا الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ يَخْتِمَ لَنَا بِكَمَالِ الْاِيْمَانِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

446 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَنْبِيَآءِ الْكِرَامِ، يَا صَاحِبَ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْآيَاتِ وَ الْاَعْلَامِ، يَا مَنْ نَّبَعَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ، وَ هَمَعَ بِدَعْوَتِهِ الْغَمَامُ، وَ سَبَّحَ فِيْ كَفِّهِ الْحَصٰى وَ الطَّعَامُ، وَ رَمٰى بِالْحَصْبَآءِ فَاسْتَوْعَبَ اللُّهَامَ، وَ تَسَاقَطَتْ لِاِشَارَتِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْاَصْنَامُ وَ اَضَآءَ لِقَتَادَةَ الْعُرْجُوْنُ وَ لِلطُّفَيْلِ السَّوْطُ فَزَالَ بِنُوْرِهِمَا الظَّلَامُ، وَ حَنَّ لَكَ الْجِذْعُ حَنِيْنَ الطِّفْلِ عِنْدَ الْفِطَامِ وَ اهْتَزَّ بِكَ الْمِنْبَرُ فَاَثَّرَ فِيْهِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْكَافِرِيْنَ الْكَلَامُ، وَ اضْطَرَبَ اُحُدٌ وَّ حِرَآءُ اِذْ عَلَوْتَهُمَا وَ مَا عَلَى الْمُحِبِّ اِذَا اضْطَرَبَ مَلَامٌ، وَّ اَثَّرَ قَدَمُكَ فِي الصَّخْرِ وَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الرَّمْلِ فَلَكَ مَقَامَانِ وَ لِاِبْرَاهِيْمَ مَقَامٌ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

447 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ الطِّفْلُ قَبْلَ الْفِطَامِ، وَ نَسَجَ لَهُ الْعَنْكَبُوْتُ وَ بَاضَ الْحَمَامُ، وَ قَرَضَتِ الْاَرَضَةُ صَحِيْفَةَ الْآثَامِ وَ قَطِيْعَةَ الْاَرْحَامِ، وَ فَرَّشَتِ الْحُمَّرَةُ، وَ شَكَا الْبَعِيْرُ، وَ اَرْشَدَ الذِّئْبُ رَاعِيَ الْاَغْنَامِ، وَ آمَنَ بِكَ الضَّبُّ، وَ كَلَّمَتْكَ الظَّبْيَةُ بِاَفْصَحِ كَلَامٍ، وَّ حَلَبْتَ الْعَنَاقَ وَ الْحَآئِلَ الْعَجْفَآءَ وَ كَفَيْتَ بِقَدَحِ اللَّبَنِ الْفِئَامَ بَعْدَ الْفِئَامِ، وَ بَرَكَتْ بِكَ الْعَضْبَآءُ فِي الْهِجْرَةِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ لِاَسْرَارٍ ظَهَرَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ لِلْاَنَامِ، وَ كَمْ مِّنْ دَآبَّةٍ اٰخَرَهَا الْقِطَافُ وَ الْهُزَالُ سَبَقَتْ بِكَ الرَّكْبَ فَكَانَتْ اِمَامَ، وَ اَخْبَرَتْكَ الشَّاةُ الْمَسْمُوْمَةُ فَلَمْ يَضُرَّكَ وَ عَفَوْتَ عَنْ اُولٰٓئِكَ اللِّئَامِ وَ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ الْاَكْلَةُ تُعَاوِدُكَ حَتّٰى خَتَمَ اللهُ لَكَ بِالشَّهَادَةِ وَ مَآ اَحْسَنَ هٰذَا الْخِتَامَ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

448 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاذَا الرَّأْيِ السَّدِيْدِ وَالْبَطْشِ الشَّدِيْدِ، يَآ اَشْجَعَ النَّاسِ وَاَجْمَعَهُمْ لِكُلِّ وَصْفٍ حَمِيْدٍ، قَدْ صَرَعْتَ رُكَانَةَ الْبَطَلَ الصِّنْدِيْدَ، فَرَكَنَ اِلَى الْوَدَاعَةِ بَعْدَ الْوَعِيْدِ، وَ خَلَّفْتَ ابْنَ خَلَفٍ مُّعَفَّرًا بِالصَّعِيْدِ، فَهَلَكَ شَرَّ قَتِيْلٍ شَقِيٍّ لِّخَيْرِ قَاتِلٍ سَعِيْدٍ، وَّ تَحَقَّقَ مَآ اَخْبَرْتَهُ بِهٖ يَآ اَصْدَقَ النَّاسِ مِنْ اَمَدٍ بَعِيْدٍ، وَّ كَانَ اَصْحَابُكَ يَتَّقُوْنَ بِكَ اِذَا اشْتَدَّ الْبَاسُ، وَ هُمْ شُجْعَانُ النَّاسِ، وَ اَصْحَابُ الْجِلَادِ وَ الْمِرَاسِ، وَ قَدْ فَرُّوْا يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْهُمُ الْكَثْرَةُ، وَمَا فَعَلُوْهُ قَبْلَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ، فَثَبَتَّ ثُبُوْتَ الْاَبْطَالِ، فِيْ اَضْيَقِ مَجَالٍ، وَّ اَدْبَرْتَ عَنِ الْاِدْبَارِ وَ اَقْبَلْتَ عَلَى الْاِقْبَالِ، وَ اسْتَقْبَلْتَ الْاَعْدَآءَ عَلٰى بَغْلَتِكَ وَ مَنْ يَّرْكَبُ فِي الْحَرْبِ الْبِغَالَ، وَنَادَيْتَ بِاَعْلٰى صَوْتِكَ بِاَفْصَحِ مَقَالٍ، فِيْ حَوْمَةِ الْقِتَالِ:

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ... اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

وَ رَمَيْتَهُمْ بِقَبْضَةٍ مِّنْ تُرَابٍ، اَلْقَتْ عَلٰى عُيُوْنِهِمُ الْحِجَابَ، وَ عَادَ اَصْحَابُكَ بِالسُّيُوْفِ الْبَوَاتِرِ، كَالْاَسْوَدِ الْكَوَاسِرِ، فَاَوْلَيْتَ هَوَازِنَ بِالْجَبْرِ كَسْرًا، وَّ اسْتَوْعَبْتَهُمْ قَتْلًا وَّ اَسْرًا، وَّ رَكِبْتَ يَوْمًا فَرَسَ اَبِيْ طَلْحَةَ اِلَى الْبَرِّ وَ كَانَ قَطُوْفًا فَاَعَدْتَهُ بَحْرًا، وَّ اَجْرَيْتَهُ نَهْرًا، فَسَبَقْتَ اَصْحَابَكَ اِلٰى صَوْتِ الصَّارِخِ وَ اَنْتَ بِالسَّبْقِ اَحْرٰى، وَ كَمْ قُدْتَ الْاَبْطَالَ، اِلٰى مَعَارِكِ الْقِتَالِ، وَ تَخَطَّيْتَ الْاَهْوَالَ، فِيْ تَقَلُّبِ الْاَحْوَالِ، وَ جَاهَدْتَ فِي اللّٰهِ حَقَّ الْجِهَادِ، فِي التِّلَاعِ وَ الْوِهَادِ، وَ مَنَعْتَ نَفْسَكَ لَذِيْذَ الرُّقَادِ، لِاِصْلَاحِ الْعِبَادِ وَ الْبِلَادِ، مُعْتَمِدًا فِيْ بُلُوْغِ الْمُرَادِ، عَلَى الْمَلِكِ الْجَوَّادِ، اِلٰى اَنِ انْقَادَتْ لَكَ الْاَعَارِبُ وَ الْاَعَاجِمُ، وَ انْتَشَرَتْ دَعْوَتُكَ فِيْ جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ، وَ صَارَتْ اَيَّامُكَ كُلُّهَا لِلتَّوْحِيْدِ مَوَاسِمَ، وَ لِلشِّرْكِ مَاۤتِمَ، وَ انْقَلَبَتْ بِعُلُوْمِ شَرِيْعَتِكَ مَجَاهِلُ الْجَاهِلِيَّةِ مَعَالِمَ، فَاَزَالَتْ بِنُوْرِهَا مِنَ الْاَرْضِ ظُلُمَاتِ الْمَظَالِمِ، وَ اسْتَضَآءَ بِعَدْلِهَا وَ فَضْلِهَا السُّعَدَآءُ وَ الْعُلَمَآءُ وَ الْحُكَّامُ وَ الْمَحَاكِمُ، وَ اسْتَمَرَّتْ اِلَى الْيَوْمِ وَ سَتَبْقٰى اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِاَنَّهَا خَاتِمَةُ الشَّرَآئِعِ كَمَآ اَنَّكَ لِلنَّبِيِّيْنَ خَاتِمٌ، عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهٖ، وَ تَحِيَّاتِهٖ وَ بَرَكَاتِهٖ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَ يُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

449 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الرُّوْحُ الْاَعْظَمُ فِيْ صُوْرَةِ اِنْسَانٍ، يَا سَبَبَ وُجُوْدِ الْوُجُوْدِ وَ تَكْوِيْنِ الْاَكْوَانِ، يَا مَنْ فَاقَ الْمُرْسَلِيْنَ بِكَثْرَةِ الْفَضَآئِلِ وَ الدَّلَآئِلِ وَ الْاَتْبَاعِ وَ الْاَعْوَانِ، حَتّٰى حَجَجْتَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَ اِنَّ جَيْشَكَ لَاَكْثَرُ مِنْ مِّائَةِ اَلْفِ اِنْسَانٍ، مَا مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اسْتَنَارَ مِنْكَ يَا شَمْسَ الْوُجُوْدِ بِبُرْهَانٍ، خَرَجَ بِهٖ مِنْ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ اِلٰى نُوْرِ الْاِيْمَانِ، وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فِيْ عَرَفَاتِكَ اٰيَةَ الْكَمَالِ مِنْ خَيْرِ الْكَلَامِ، فَكَانَتْ لِعُمْرِكَ الشَّرِيْفِ اٰيَةَ التَّمَامِ ﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ﴾ وَ رَجَعْتَ اِلٰى طَيْبَةَ فَطَابَ لَكَ فِيْهَا الْمُقَامُ، وَ تَمَّ لَكَ بِهَا يَا خَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ

حُسْنُ الْخِتَامِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهِ، وَ تَحِيَّاتِهِ وَ بَرَكَاتِهِ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ الْعَظِيْمَ، وَيُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمَ، وَ يَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ۔

450 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رُوْحَ الْوُجُوْدِ، يَا سَبَبَ السَّعَادَةِ لِكُلِّ مَسْعُوْدٍ، يَا قَبْضَةَ النُّوْرِ الَّتِيْ تَفَرَّعَ عَنْهَا مِنَ الْكَائِنَاتِ كُلُّ مَوْجُوْدٍ، يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ فِيْ قَبْرِهٖ بِلَا اِنْحِجَابٍ وَّلَا اِنْحِصَارٍ، دَآئِمُ التَّرَقِّيْ وَ السُّعُوْدِ، مُسْتَمِرُّ الْاِنْتِقَالِ فِيْ مَعَارِجِ الْكَمَالِ، مِنْ شُهُوْدٍ اِلٰى شُهُوْدٍ، قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ، وَ بَذَلْتَ فِي الْجِهَادِ غَايَةَ الْمَجْهُوْدِ، وَ اَطْلَعْتَ شَمْسَ التَّوْحِيْدِ فَنَسَخْتَ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ الْمُدْلَهِمَّةَ، وَ جَمَعْتَ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعْبُوْدِ، فَلَمَّا تَمَّتْ حِكْمَةُ وُجُوْدِكَ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا، وَ حَصَلَ مِنْ رِّسَالَتِكَ الْمَقْصُوْدُ، خَيَّرَكَ اللهُ فَاخْتَرْتَ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى، سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَنِ الْحُدُوْثِ وَ الْحُدُوْدِ، فَنَقَلَكَ اِلَى الْبَرْزَخِ مِنْ هٰذِهِ الدَّارِ، لِيَحْصُلَ لَهٗ مَا حَصَلَ لَهَا مِنَ الْاَنْوَارِ وَ الْاَسْرَارِ، وَ يَنَالُ بِكَ كَمَالَ السَّعَادَةِ وَ السُّعُوْدِ، وَ سَيَنْقُلُكَ مِنْهُ اِلَى الْاٰخِرَةِ، وَ يَخُصُّكَ فِيْهَا بِالْخَصَآئِصِ الْبَاهِرَةِ، وَ يُظْهِرُ سِيَادَتَكَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ يُمَيِّزُكَ عَلَى الْخَلْقِ بِالْقِيَامِ عَنْ يَّمِيْنِ الْعَرْشِ وَ جَمِيْعِ مَوَاطِنِ الْقِيَامَةِ، وَ يُجِيْزُكَ عَلَى الصِّرَاطِ وَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَنْبِيَآءِ وَ يَجْعَلُكَ اِمَامَ اَهْلِهَا فِيْ كُلِّ اَنْوَاعِ الْكَرَامَةِ، وَ يَخُصُّكَ فِيْهَا بِالْكَوْثَرِ وَ الْوَسِيْلَةِ وَ هِيَ اَعْلٰى دَرَجَةٍ فِيْ جِنَانِ الْخُلُوْدِ، وَ هَا اَنْتَ الْاٰنَ مُقِيْمٌ فِي الْبَرْزَخِ بَيْنَ الدَّارَيْنِ فِيْ اَعْلٰى مَقَامٍ، تُمِدُّ فِي الثَّلَاثَةِ بِكُلِّ الْخَيْرَاتِ جَمِيْعَ الْاَنَامِ، فَلَا يَصِلُ اِلٰى اَحَدٍ فِيْهَا اِلَّا بِقِسْمَتِكَ وَاِنْ تَفَاوَتَتِ الْاَقْسَامُ، فَاِنَّكَ اَنْتَ الْقَاسِمُ وَ اللهُ الْمُعْطِيْ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، وَ لَمْ يَزَلْ كَثِيْرٌ مِّنْ مُّعْجِزَاتِكَ مُسْتَمِرًّا بِلَا اِنْصِرَامٍ، مَهْمَا تَصَرَّمَتِ اللَّيَالِيْ وَ الْاَيَّامُ، وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِّنْهَآ اِلَّا كِتَابُ اللهِ لَكَانَ فِيْهِ وَحْدَهٗ كِفَايَةٌ لِّذَوِي الْاَحْلَامِ، كَيْفَ وَ مَعَهٗ سُنَّتُكَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلٰى بُحُوْرٍ مِّنَ الْعِلْمِ عَلَّمَكَهَا الْمَلِكُ الْعَلَّامُ، وَ كَمْ اَخْبَرْتَ بِغُيُوْبٍ لَّمْ تَزَلْ تَظْهَرُ لِلْخَاصِّ وَ الْعَامِّ، وَ مَا اسْتَغَاثَ بِكَ مُؤْمِنٌ اِلَّا اَغَثْتَهٗ، وَلَا تَوَسَّلَ بِكَ صَادِقٌ اِلَّا بَلَّغَهُ اللهُ الْمَرَامَ، وَ مِنْ مُّعْجِزَاتِكَ الدَّآئِمَةِ كَرَامَاتُ اَوْلِيَآءِ اُمَّتِكَ وَ هِيَ كَثِيْرَةٌ تَعْجِزُ عَنْ حَصْرِهَا الْاَقْلَامُ، وَ مِنْ اٰيَاتِكَ الْبَاقِيَةِ رُؤْيَةُ مُحِبِّيْكَ ذَاتَكَ الشَّرِيْفَةَ فِي الْيَقْظَةِ وَ الْمَنَامِ، لِاَنَّكَ شَمْسُ الْوُجُوْدِ وَ رُوْحُ كُلِّ مَوْجُوْدٍ فَاَنْتَ لِلْعَالَمِ ضِيَآءٌ وَّ اَنْتَ لِلْعَالَمِ قِوَامٌ، وَّ اِنَّمَا يَرَاكَ الْبَصِيْرُ وَ يُحِسُّ بِكَ الْعُضْوُ السَّلِيْمُ، وَ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْعُضْوِ الْاَشَلِّ مَلَامٌ، فَمَتٰى اَزَالَ اللهُ عَنِ الْبَصَآئِرِ حُجُبَ الْاَغْيَارِ وَ الْاٰثَامِ، رَاٰكَ اَهْلُهَا حَاضِرًا فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ زَمَانٍ كَمَا تَرَى الشَّمْسَ عِنْدَ زَوَالِ الْغَمَامِ، فَكُنْ شَفِيْعِيْ اِلَى اللهِ تَعَالٰى اَنْ يُّزِيْلَ هٰذِهِ الْحُجُبَ حَتّٰى اُشَاهِدَكَ يَا شَمْسَ الْكَمَالِ وَ بَدْرَ التَّمَامِ، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ فِي الدَّارَيْنِ وَ يَرْزُقَنِيْ فِيْ جِوَارِكَ حُسْنَ الْخِتَامِ، عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ صَلَوَاتِ اللهِ وَ تَسْلِيْمَاتِهِ، وَ تَحِيَّاتِهِ وَ بَرَكَاتِهِ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ مَّا يُمَاثِلُ فَضْلَكَ

الْعَظِيْمِ، وَيُعَادِلُ قَدْرَكَ الْفَخِيْمِ، وَيَجْمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيْعِ اَنْوَاعِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ۔

اَلْوِرْدُ الثَّالِثُ

وَهُوَ اَوَّلُ الْقِسْمِ الثَّانِيْ مِنْ صَلَوَاتِ الثَّنَآءِ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَنَآءُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ

451 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِيْ مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِّوَحْيِكَ حَافِظًا لِّعَهْدِكَ، مَاضِيًا عَلٰى نَفَاذِ اَمْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبَسًا لِّقَابِسٍ اٰلَآءُ اللّٰهِ تَصِلُ بِاَهْلِهٖ اَسْبَابُهٗ بِهٖ هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْاِثْمِ وَ اَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ، وَ نَآئِرَاتِ الْاَحْكَامِ، وَ مُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ، فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَأْمُوْنُ، وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنُ، وَ شَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَ بَعِيْثُكَ نِعْمَةً، وَّ رَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

452 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَآئِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ

453 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ وَصَفِيِّكَ، اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ، الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ، التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ، صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْهِرَاوَةِ وَ الْجِهَادِ وَ الْمَغْنَمِ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَ الْمِيْرِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَ الْعَطَايَا وَ الْاٰيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ، وَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ، وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الشَّفَاعَةِ وَ السُّجُوْدِ، لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ

454 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرِ النَّبِيِّيْنَ تَبَعًا، وَّ اَكْثَرِهِمْ اَزْرَآءً، وَاَفْضَلِهِمْ كَرَامَةً وَّ نُوْرًا، وَّ اَعْلَاهُمْ دَرَجَةً، وَّ اَفْسَحِهِمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا وَّ اَفْضَلِهِمْ ثَوَابًا، وَّ اَقْرَبِهِمْ مَجْلِسًا وَّ اَثْبَتِهِمْ مَقَامًا، وَّ اَصْوَبِهِمْ كَلَامًا، وَّ اَنْجَحِهِمْ مَسْئَلَةً وَّ اَفْضَلِهِمْ لَدَيْكَ نَصِيْبًا، اَصْدَقِ قَآئِلٍ، وَّ اَنْجَحِ سَآئِلٍ، وَّ اَوَّلِ شَافِعٍ، وَّ

اَفْضَلِ مُشَفَّعٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الشَّافِعِيّ

455 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِيْ اَنْقَذَنَا اللهُ بِهٖ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ جَعَلَنَا فِيْ خَيْرِ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ دَائِنِيْنَ بِدِيْنِهِ الَّذِي ارْتَضٰى وَ اصْطَفٰى بِهٖ مَلَآئِكَتَهٗ وَ مَنْ اَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِّنْ خَلْقِهِ الَّذِيْ لَمْ تُمْسِ بِنَا نِعْمَةٌ ظَهَرَتْ وَلَا بَطَنَتْ نِلْنَا بِهَا حَظًّا فِيْ دِيْنٍ وَّ دُنْيَا وَ رُفِعَ عَنَّا بِهَا مَكْرُوْهٌ فِيْهِمَا وَ فِيْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَآ اِلَّا وَ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَبُهَا الْقَائِدُ اِلٰى خَيْرِهَا، الْهَادِيْ اِلٰى اَرْشَدِهَا، الذَّآئِدُ عَنِ الْهَلَكَةِ وَ مَوَارِدِ السُّوْءِ فِيْ خِلَافِ الرُّشْدِ الْمُنَبِّهِ لِلْاَسْبَابِ الَّتِيْ تُوْرِدُ الْهَلَكَةَ الْقَائِمِ بِالنَّصِيْحَةِ فِي الْاِرْشَادِ وَ الْاِنْذَارِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الْغَزَالِيّ

456 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ الْخَلَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ، وَ مَجْمَعِ الْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ، وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ، وَ مَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ۔

457 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ، وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ قَآئِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، وَ اَفْضَلِ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ۔

458 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى، وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ، وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ، وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ، وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ۔

459 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ، وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ، رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، الْمُتَخَلِّقِ بِاَعْلَى الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ، وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الرِّفَاعِيّ

460 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَسْبَقِ، وَ صِرَاطِكَ الْمُحَقَّقِ، الَّذِيْ اَبْرَزْتَهٗ رَحْمَةً شَامِلَةً لِّوُجُوْدِكَ، وَ اَكْرَمْتَهٗ بِشُهُوْدِكَ، وَ اصْطَفَيْتَهٗ لِنُبُوَّتِكَ وَ رِسَالَتِكَ، وَ اَرْسَلْتَهٗ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا، وَّ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

461 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ںِ الَّذِيْ فَتَقْتَ بِهٖ رَتْقَ الْوُجُوْدِ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِاَشْرَفِ

الْمَقَامَاتِ بِمَوَاهِبِ الْاِمْتِنَانِ وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ اَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهٖ فِيْ كِتَابِكَ الْمَشْهُوْدِ۔

462 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ اَحْيَيْتَ بِهِ الْمَوْجُوْدَاتِ، مِنْ مَّعْدِنٍ وَّ حَيَوَانٍ وَّ نَبَاتٍ، قَلْبِ الْقُلُوْبِ وَ رُوْحِ الْاَرْوَاحِ الْقَلَمِ الْاَعْلٰى وَ الْعَرْشِ الْمُحِيْطِ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، وَ بَرْزَخِ الْبَحْرَيْنِ، وَ فَخْرِ الْكَوْنَيْنِ۔

463 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الْقَاسِمِ، اَبِي الطَّيِّبِ، النُّوْرِ اللَّامِعِ، وَ الْقَمَرِ السَّاطِعِ، وَ الْبَدْرِ الطَّالِعِ، وَ الْفَيْضِ الْهَامِعِ، وَ الْمَدَدِ الْوَاسِعِ، وَ الْحَبِيْبِ الشَّافِعِ، وَ النَّبِيِّ الشَّارِعِ، وَ الرَّسُوْلِ الصَّادِعِ، وَ الْمَاْمُوْرِ الطَّائِعِ، وَ الْمُخَاطَبِ السَّامِعِ، وَ السَّيْفِ الْقَاطِعِ، وَ الْقَلْبِ الْجَامِعِ، وَ الطَّرْفِ الدَّامِعِ۔

464 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ، وَ الرَّحْمَةِ الْمُنَزَّلَةِ، حَبِيْبِكَ وَ صَفِيِّكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ۔

465 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۣ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ خَيْرِ خَلْقِكَ وَ اَحَبِّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِيْ خَتَمْتَ بِهِ الْاَنْبِيَآءَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الْجِيْلَانِيِّ

466 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيْ هُوَ فَلَقُ صُبْحِ اَنْوَارِ الْوَحْدَانِيَّةِ، وَ طَلْعَةُ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ بَهْجَةُ قَمَرِ الْحَقَائِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ، وَ عَرْشُ حَضْرَةِ الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ۔

467 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّ سَنَاهُ {يٰسٓ ۚ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ} سِرِّ كُلِّ نَبِيٍّ وَّ هُدَاهُ {ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ} وَ جَوْهَرِ كُلِّ وَلِيٍّ وَّ ضِيَاهُ {سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ}۔

468 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ، الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ، التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ، صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْكَرَامَةِ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَ الْمَيْرِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَ الْعَطَايَا وَ الْغَزْوِ وَ الْجِهَادِ وَ الْمَغْنَمِ وَ الْمَقْسَمِ صَاحِبِ الْاٰيَاتِ وَ الْمُعْجِزَاتِ، وَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ، صَاحِبِ الْحَجِّ وَ الْحَلْقِ وَ التَّلْبِيَةِ، صَاحِبِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ الْمَقَامِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الْمِحْرَابِ وَ الْمِنْبَرِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الشَّفَاعَةِ وَ السُّجُوْدِ، لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ، صَاحِبِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ، وَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَاتٍ، صَاحِبِ الْعَلَمِ الطَّوِيْلِ، وَ الْكَلَامِ الْجَلِيْلِ، صَاحِبِ كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَ الصِّدْقِ وَ

التَّصْدِيْقِ۔

469 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالسَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، وَ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلِيْفَتِكَ، وَ صَفِيِّكَ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ، وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ۔

470 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُصْطَفَى الْمُجْتَبٰى، اَلْمُنْتَقَى الْمُرْتَضٰى، عَيْنِ الْعِنَايَةِ، وَ زَيْنِ الْقِيَامَةِ وَ كَنْزِ الْهِدَايَةِ، وَ اِمَامِ الْحَضْرَةِ وَ اَمِيْنِ الْمَمْلَكَةِ وَ طِرَازِ الْحُلَّةِ وَ كَنْزِ الْحَقِيْقَةِ وَ شَمْسِ الشَّرِيْعَةِ كَاشِفِ دَيَاجِى الظُّلْمَةِ، وَ نَاصِرِ الْمِلَّةِ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

471 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنُّوْرِ الْاَبْلَجِ، وَ الْبَهَآءِ الْاَبْهَجِ، نَامُوْسِ تَوْرَاةِ مُوْسٰى، وَ قَامُوْسِ اِنْجِيْلِ عِيْسٰى، طِلَسْمِ الْفَلَكِ الْاَطْلَسِ، فِيْ بُطُوْنِ كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ طَاوُسِ الْمَلِكِ الْمُقَدَّسِ، فِيْ ظُهُوْرِ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَتَعَرَّفْتُ اِلَيْهِمْ فَبِيْ عَرَفُوْنِيْ۔

472 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُرَّةِ عَيْنِ الْيَقِيْنِ، مِرْاٰةِ اُولِى الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، اِلٰى شُهُوْدِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، نُوْرِ اَنْوَارِ اَبْصَارِ بَصَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، وَ مَحَلِّ نَظَرِكَ وَ سَعَةِ رَحْمَتِكَ مِنَ الْعَوَالِمِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

473 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عِلْمِ يَقِيْنِ الْعُلَمَآءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وَ عَيْنِ يَقِيْنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَ حَقِّ يَقِيْنِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، اَلَّذِىْ تَاهَتْ فِيْ اَنْوَارِ جَلَالِهٖ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ تَحَيَّرَتْ فِيْ دَرْكِ حَقَآئِقِهٖ عُظَمَآءُ الْمَلَآئِكَةِ الْمُهَيَّمِيْنَ، اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ {لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ}۔

474 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةِ صِفَاتِكَ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْكَمَالِ، اَلْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ، مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْمَخْلُوْقِيْنَ فِى الْمِثَالِ، يَنْبُوْعِ الْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ حِيْطَةِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، غَايَةِ مُنْتَهَى السَّآئِلِيْنَ، وَ دَلِيْلِ كُلِّ حَائِرٍ مِّنَ السَّالِكِيْنَ۔

475 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَحْمُوْدِ بِالْاَوْصَافِ وَ الذَّاتِ، اَحْمَدِ مَنْ مَّضٰى وَ مَنْ هُوَ اٰتٍ، فَتْحِ اَبْوَابِ حَضْرَتِكَ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ بِخَلْقِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِلٰى جِنِّكَ وَ اِنْسِكَ۔

476 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّحْدَانِيِّ الذَّاتِ، اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ الْوَاضِحَاتُ، مُقِيْلِ

الْعَثَرَاتِ، وَ سَيِّدِ السَّادَاتِ، مَاحِي الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَاتِ، بِالسُّيُوْفِ الصَّارِمَاتِ، الْآمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهِيْ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ، الثَّمِلِ مِنْ شَرَابِ الْمُشَاهَدَاتِ۔

477 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، مَنْ لَّهُ الْاَخْلَاقُ الرَّضِيَّةُ، وَ الْاَوْصَافُ الْمَرْضِيَّةُ، وَ الْاَقْوَالُ الشَّرْعِيَّةُ، وَ الْاَحْوَالُ الْحَقِيْقِيَّةُ، وَ الْعِنَايَاتُ الْاَزَلِيَّةُ وَ السَّعَادَاتُ الْاَبَدِيَّةُ، وَ الْفُتُوْحَاتُ الْمَكِّيَّةُ، وَ الظُّهُوْرَاتُ الْمَدَنِيَّةُ، وَ الْكَمَالَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ، وَ الْمَعَالِمُ الرَّبَّانِيَّةُ، سِرُّ الْبَرِيَّةِ، وَ شَفِيْعِنَا يَوْمَ بَعْثِنَا، الْمُسْتَغْفِرِ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا۔

478 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ وَ الْمُقْتَدٰى بِهٖ لِمَنْ اَرَادَ الْوُصُوْلَ اِلَيْكَ، الْاَنِيْسِ بِكَ وَ الْمُسْتَوْحِشِ مِنْ غَيْرِكَ حَتّٰى تَمَتَّعَ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ وَ رَجَعَ بِكَ لَا بِغَيْرِكَ وَ شَهِدَ وَحْدَتَكَ فِيْ كَثْرَتِكَ وَ قُلْتَ لَهٗ بِلِسَانِ حَالِكَ وَ قَوَّيْتَهٗ بِكَلَامِكَ {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ}۔

479 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الذَّاكِرِ لَكَ فِيْ لَيْلِكَ وَ الصَّائِمِ لَكَ فِيْ نَهَارِكَ الْمَعْرُوْفِ عِنْدَ مَلَآئِكَتِكَ اَنَّهٗ خَيْرُ خَلْقِكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

480 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ، وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، اَشْرَفِ الْحَقَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ الْجَآنِّيَّةِ، وَ مَجْمَعِ الرَّقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ، وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ، وَ مَهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ، وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ قَآئِدِ رَكْبِ الْاَوْلِيَآءِ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَ اَفْضَلِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى، وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ، وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ الْاَوَلِ، وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ، وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ، مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ، وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ، الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ، رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، وَ الْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ۔

481 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَلْبِ الْوَاسِعِ، لِكُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا وَّ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَ الصَّدْرِ الْجَامِعِ {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} {وَ ضِيَآءً وَّ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ} وَ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ النَّيِّرَةِ بِاَنْوَارِ عُلُوْمِهٖ {وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ}۔

482 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ لُطْفِكَ، وَ حَنَانِ عَطْفِكَ، وَ جَلَالِ قُدْسِكَ۔

483 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْمُطْلَقِ بِسِرِّ الْمَعِيَّةِ الَّتِيْ لَا تَتَقَيَّدُ الْبَاطِنِ مَعْنًى فِيْ غَيْبِكَ الظَّاهِرِ حَقًّا فِيْ شَهَادَتِكَ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ مَجْلٰى حَضْرَةِ الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ، مَنَازِلِ الْكُتُبِ الْقَيِّمَةِ، وَ نُوْرِ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ۔

484 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ خَلَقْتَهٗ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ، وَ حَقَّقْتَهٗ بِاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ خَلَقْتَ مِنْ نُّوْرِهِ الْاَنْبِيَآءَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ تَعَرَّفْتَ اِلَيْهِمْ بِاَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِكَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ {وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ} صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

485 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ بَهْجَةِ الْكَمَالِ، وَ تَاجِ الْجَلَالِ، وَ بَهَآءِ الْجَمَالِ، وَ شَمْسِ الْوِصَالِ، وَ عَبِقَةِ الْوُجُوْدِ، وَ حَيَاةِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، عِزِّ جَلَالِ سَلْطَنَتِكَ، وَ جَلَالِ عِزِّ مَمْلَكَتِكَ، وَ مَلِيْكِ صُنْعِ قُدْرَتِكَ، وَ طِرَازِ صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ مِنْ اَهْلِ صَفْوَتِكَ، وَ خُلَاصَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ اَهْلِ قُرْبِكَ۔

486 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ سِرِّ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ، وَ حَبِيْبِ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ، وَ خَلِيْلِ اللّٰهِ الْمُكَرَّمِ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى، وَ الْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّا، وَ الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا، وَ الْمَنْزِلَةِ الزُّلْفٰى، وَ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى۔

487 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْجَامِعِ الْاَكْمَلِ، وَ الْقُطْبِ الرَّبَّانِيِّ الْاَفْضَلِ، طِرَازِ حُلَّةِ الْاِيْمَانِ، وَ مَعْدِنِ الْجُوْدِ وَ الْاِحْسَانِ، صَاحِبِ الْهِمَمِ السَّمَاوِيَّةِ، وَ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّةِ، مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُوْدَ لِاَجْلِهٖ وَ رَخَّصْتَ الْاَنْبِيَآءَ بِسَبَبِهٖ۔

488 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْحَامِدِ الْمَحْمُوْدِ، صَاحِبِ الْمَكَارِمِ، وَ الْجُوْدِ صَاحِبِ النُّوْرِ الْبَهِيِّ، وَ الْبَيَانِ الْجَلِيِّ، وَ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، وَ الدِّيْنِ الْحَنِيْفِيِّ، خَاتِمِ النَّبِيّٖنَ، الْمُرْسَلِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، الْمُؤَيَّدِ بِالرُّوْحِ الْاَمِيْنِ، وَ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

489 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِىْ خَلَقْتَهٗ مِنْ نُّوْرِكَ وَ جَعَلْتَ كَلَامَهٗ مِنْ كَلَامِكَ، وَ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى اَنْبِيَآئِكَ وَ اَوْلِيَآئِكَ، وَ جَعَلْتَ السِّعَايَةَ مِنْكَ اِلَيْهِ وَ مِنْهُ اِلَيْهِمْ كَمَالِ كُلِّ وَلِيٍّ لَّكَ وَ هَادِىْ كُلِّ مُضِلٍّ عَنْكَ هَادِى الْخَلْقِ اِلَى الْحَقِّ، تَارِكِ الْاَشْيَآءِ لِاَجْلِكَ، وَ مَعْدِنِ الْخَيْرَاتِ بِفَضْلِكَ، مَنْ خَاطَبْتَهٗ عَلٰى بِسَاطِ قُرْبِكَ بِقَوْلِكَ {وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا}۔

490 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْقَآئِمِ لَكَ فِىْ لَيْلِكَ وَ الْهَآئِمِ بِكَ فِىْ جَلَالِكَ نَبِيِّكَ الْخَلِيْفَةِ فِىْ خَلْقِكَ الْمُشْتَغِلِ بِذِكْرِكَ، الْمُتَفَكِّرِ فِىْ خَلْقِكَ وَ الْاَمِيْنِ لِسِرِّكَ، وَ الْبُرْهَانِ لِرُسُلِكَ الْحَاضِرِ فِىْ سَرَآئِرِ قُدْسِكَ وَ الْمُشَاهِدِ لِجَمَالِ جَلَالِكَ۔

491 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْمُفَسِّرِ لِاٰيَاتِكَ، وَ الظَّاهِرِ فِيْ مُلْكِكَ وَ الْغَائِبِ فِيْ مَلَكُوْتِكَ، وَ الْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ، وَ الدَّاعِيْ إِلٰى جَبَرُوْتِكَ، الْحَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَ الْبُرْدَةِ الْجَلَالِيَّةِ، وَ السَّرَابِيْلِ الْجَمَالِيَّةِ، الْعَرِيْشِ السَّقِيِّ، وَ الْحَبِيْبِ النَّبَوِيِّ، وَ النُّوْرِ الْبَهِيِّ، وَ الدُّرِّ النَّقِيِّ، وَ الْمِصْبَاحِ الْقَوِيِّ۔

492 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَ رُوْحِ اَرْوَاحِ عِبَادِكَ الدُّرَّةِ الْفَاخِرَةِ وَ الْعَبِقَةِ النَّافِحَةِ۔

493 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ بُؤْبُؤِ الْمَوْجُوْدَاتِ، وَ حَاءِ الرَّحْمَاتِ، وَ جِيْمِ الدَّرَجَاتِ، وَ سِيْنِ السَّعَادَاتِ، وَ نُوْنِ الْعِنَايَاتِ، وَ كَمَالِ الْكُلِّيَّاتِ، وَ مَنْشَأِ الْاَزَلِيَّاتِ، وَ خَتْمِ الْاَبَدِيَّاتِ، الْمَشْغُوْلِ بِكَ عَنِ الْاَشْيَاءِ الدُّنْيَوِيَّاتِ، الطَّاعِمِ مِنْ ثَمَرَاتِ الْمُشَاهَدَاتِ، الْمَسْقِيِّ مِنْ اَسْرَارِ الْقُدْسِيَّاتِ، الْعَالِمِ بِالْمَاضِيْ وَ الْمُسْتَقْبَلَاتِ۔

494 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ اَعْطَيْتَهٗ وَ كَرَّمْتَهٗ وَ فَضَّلْتَهٗ وَ نَصَرْتَهٗ وَ اَعَنْتَهٗ وَ قَرَّبْتَهٗ وَ اَدْنَيْتَهٗ وَ سَقَيْتَهٗ وَ مَكَّنْتَهٗ وَ مَلَأْتَهٗ بِعِلْمِكَ الْاَنْفَسِ، وَ بَسَطْتَهٗ بِحُبِّكَ الْاَطْوَسِ، وَ زَيَّنْتَهٗ بِقَوْلِكَ الْاَقْبَسِ۔

495 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَخْرِ الْاَفْلَاكِ، وَ عَذْبِ الْاَخْلَاقِ، وَ نُوْرِكَ الْمُبِيْنِ، وَ عَبْدِكَ الْقَدِيْمِ، وَ حَبْلِكَ الْمَتِيْنِ، وَ حِصْنِكَ الْحَصِيْنِ، وَ جَلَالِكَ الْحَكِيْمِ، وَ جَمَالِكَ الْكَرِيْمِ۔

496 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَشْرَافِ، جَامِعِ مَحَاسِنِ الْاَوْصَافِ، الْمَخْصُوْصِ بِاَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَ الْمَقَامَاتِ، الْمُؤَيَّدِ بِاَوْضَحِ الْبَرَاهِيْنِ وَ الدَّلَالَاتِ، الْمَنْصُوْرِ بِالرُّعْبِ وَ الْمُعْجِزَاتِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

497 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْجَوْهَرِ الشَّرِيْفِ الْاَبَدِيِّ، وَ النُّوْرِ الْقَدِيْمِ السَّرْمَدِيِّ، الْمَحْمُوْدِ فِي الْاِيْجَادِ وَ الْوُجُوْدِ، الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ، حَضْرَةِ الْمُشَاهَدَةِ وَ الشُّهُوْدِ۔

498 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدَاهُ، سِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَّ سَنَاهُ، الَّذِي انْشَقَّتْ مِنْهُ الْاَسْرَارُ، وَ انْفَلَقَتْ مِنْهُ الْاَنْوَارُ، السِّرِّ الْبَاطِنِ، وَ النُّوْرِ الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ، الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ، الْعَاقِبِ الْحَاشِرِ، النَّاهِي الْاٰمِرِ، النَّاصِحِ النَّاصِرِ، الصَّابِرِ الشَّاكِرِ، الْقَانِتِ الذَّاكِرِ۔

499 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْمَاحِى الْمَاجِدِ الْعَزِيْزِ الْحَامِدِ الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ الزَّاهِدِ۔

500 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْقَآئِمِ الطَّآئِعِ الشَّهِيْدِ الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ الْبُرْهَانِ الْحُجَّةِ الْمُطَاعِ الْمُخْتَارِ الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبَرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، طٰهٰ وَ يٰسٓ، اَلْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَخَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، وَحَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

501 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى، وَ الرَّسُوْلِ الْمُجْتَبٰى، اَلْحَكَمِ الْعَدْلِ الْحَكِيْمِ الْعَلِيْمِ، الْعَزِيْزِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، نُوْرِكَ الْقَدِيْمِ، وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ۔

502 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ، وَ صَفِيِّكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ دَلِيْلِكَ، وَ نَجِيِّكَ وَ نُخْبَتِكَ، وَ ذَخِيْرَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ، الشَّاهِدِ الْمَشْهُوْدِ، الْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ السَّعِيْدِ الْمَسْعُوْدِ۔

503 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ، الْحَسِيْبِ الرَّفِيْعِ، الْمَلِيْحِ الْبَدِيْعِ، الْوَاعِظِ الْخَبِيْرِ، الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ، الْعَطُوْفِ الْحَلِيْمِ، الْجَوَّادِ الْكَرِيْمِ، الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ، الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ الْاَمِيْنِ، الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ۔

504 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اَدْرَكَ الْحَقَآئِقَ بِجُمْلَتِهَا، وَ فَاقَ الْخَلَآئِقَ بِرُمَّتِهَا، وَ جَعَلْتَهٗ لَكَ حَبِيْبًا، وَّ نَاجَيْتَهٗ قَرِيْبًا، وَّ اَدْنَيْتَهٗ رَقِيْبًا، وَّ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَ الدَّلَالَةَ وَ الْبَشَارَةَ وَ النِّذَارَةَ وَ النُّبُوَّةَ وَ نَصَرْتَهٗ بِالرُّعْبِ، وَ ظَلَّلْتَهٗ بِالسُّحُبِ، وَ رَدَدْتَ لَهُ الشَّمْسَ وَ شَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ وَ اَنْطَقْتَ لَهُ الضَّبَّ، وَ الظَّبْيَ وَ الذِّئْبَ، وَ الْجِذْعَ وَ الذِّرَاعَ وَ الْجَمَلَ وَ الْجَبَلَ وَ الْمَدَرَ وَ الشَّجَرَ، وَ اَنْبَعْتَ مِنْ اَصَابِعِهِ الْمَآءَ الزُّلَالَ وَ اَنْزَلْتَ مِنَ الْمُزْنِ بِدَعْوَتِهٖ فِيْ عَامِ الْجَدْبِ وَ الْمَحْلِ وَابِلَ الْغَيْثِ وَ الْمَطَرِ، فَاعْشَوْشَبَ مِنْهُ الْقَفْرُ وَ الصَّخْرُ وَ الْوَعْرُ، وَ السَّهْلُ وَ الرَّمْلُ وَ الْحَجَرُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

505 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ اَسْرَيْتَ بِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلَا، اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، اِلٰى قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَ اَرَيْتَهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى، وَ اَنَلْتَهُ الْغَايَةَ الْقُصْوٰى، وَ اَكْرَمْتَهٗ بِالْمُخَاطَبَةِ وَ الْمُرَاقَبَةِ وَ الْمُشَاهَدَةِ وَ الْمُعَايَنَةِ بِالْبَصَرِ۔

506 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ بِالْوَسِيْلَةِ الْعَذْرَا، وَ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى، يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ، فِي الْمَحْشَرِ، وَ جَمَعْتَ لَهٗ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ جَوَاهِرَ الْحِكَمِ، وَ جَعَلْتَ اُمَّتَهٗ خَيْرَ الْاُمَمِ، وَ غَفَرْتَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَا تَاَخَّرَ۔

507 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّى الْاَمَانَةَ وَنَصَحَ الْاُمَّةَ، وَكَشَفَ الْغُمَّةَ، وَجَلَّى الظُّلْمَةَ، وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَبَدَ رَبَّهٗ حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ۔

508 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ افْتَتَحْتَ بِهٖ اَغْلَاقَ كَنْزِ الْوُجُوْدِ، وَنَصَبْتَهٗ وَاسِطَةً لِّاِيْصَالِ الْفَيْضِ وَ الْجُوْدِ، وَ رَفَعْتَهٗ اِلٰى اَعْلٰى غُرَفِ الْمُعَايَنَةِ وَ الشُّهُوْدِ، وَ بَوَّأْتَهٗ مِنْ حَضَرَاتِ قُدْسِكَ حَيْثُ شَآءَ بِلَا حُدُوْدٍ۔

509 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَقَمْتَ بِخِدْمَتِهٖ مُقَرَّبَ الْاَمْلَاكِ، وَ جَعَلْتَهٗ قُطْبًا تَدُوْرُ عَلَيْهِ الْاَفْلَاكُ، وَاَجْلَسْتَهٗ عَلٰى كُرْسِيِّ الْمَكَانَةِ وَسَرِيْرِ التَّمْكِيْنِ، وَخَاطَبْتَهٗ لِلْاِرْشَادِ وَالتَّعْلِيْمِ وَ التَّبْيِيْنِ، فَقُلْتَ بِطَرِيْقِ التَّبْجِيْلِ وَ التَّعْظِيْمِ {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ} {بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ} {نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۔ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۔ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۔ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ}۔

510 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَائِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، وَ صَفْوَةِ الْاَمَاثِلِ وَ الْاَفَاخِرِ، لِسَانِ الْحَضْرَةِ الْاَقْدَسِيَّةِ، اَمِيْنِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ۔

511 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْلَى الذَّاتِ، وَ مَظْهَرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ الرَّحَمُوْتِ، وَمِيْمِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، دَالِ الدَّوَامِ سِرِّ حَيَاةِ الْعَالَمِ، عِلَّةِ السُّجُوْدِ لِاٰدَمَ۔

512 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ الْاَرْوَاحِ، السَّارِىْ فِىْ جَمِيْعِ الْاَشْبَاحِ، مَجْمَعِ حَقَآئِقِ اللَّاهُوْتِ، مَنْبَعِ دَقَآئِقِ النَّاسُوْتِ، غَايَةِ اِمَامَتِهٖ {قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ} خِلْعَةُ خِلَافَتِهٖ {اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ} تَاجُ مَحْبُوْبِيَّتِهٖ {وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى} لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ، يَا مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ، بِسَاطُ خُلَّتِهٖ {لَعَمْرُكَ} {عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ} {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى}۔

513 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرَفِ وَ الْمَجْدِ، حَامِلِ لِوَآءِ الْحَمْدِ، صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَ الْفَضِيْلَةِ، اٰدَمُ وَ مَنْ دُوْنَهٗ تَحْتَ لِوَآئِهٖ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الْكَوْثَرِ سُلَّمِ الرِّضَا، رَفْرَفِ الْاِصْطِفَا، سِدْرَةِ الْاِنْتِهَا، شَمْسِ الْعَالَمِ، بَدْرِ الْكَمَالِ، نَجْمِ الْهِدَايَةِ، جَوْهَرَةِ الْوُجُوْدِ، خَلِيْلِكَ الْاَقْدَمِ، وَحَبِيْبِكَ الْاَكْرَمِ، وَصِرَاطِكَ الْاَقْوَمِ۔

514 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْقَآئِمِ بِاَمْرِكَ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ، وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ، وَطِرَازِ مُلْكِكَ، وَخَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ، وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ، الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ، عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ۔

515 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ، وَ لِسَانِ اَهْلِ التَّفْرِيْدِ وَ التَّمْجِيْدِ، سَيِّدِ السَّادَاتِ وَ الْعَبِيْدِ، اَفْضَلِ عِبَادِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَفْوَتِكَ مِنْ اَنْبِيَآئِكَ الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ، وَ الرَّحْمَةِ الْمُرْسَلَةِ الْمُفَضَّلَةِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الْبَدْوِيِّ

516 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ، وَ لَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ، وَ اَشْرَفِ الصُّوْرَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ خَزَآئِنِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْاَصْلِيَّةِ، وَ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ، وَ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ فَهُمْ مِّنْهُ وَ اِلَيْهِ۔

517 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ، وَ تِرْيَاقِ الْاَغْيَارِ، وَ مِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ، الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الدَّسُوْقِيِّ

518 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، اللَّطِيْفَةِ الْاَحَدِيَّةِ، شَمْسِ سَمَآءِ الْاَسْرَارِ، وَ مَظْهَرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ، وَ قُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ

519 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ التَّعَيُّنَاتِ الْمُفَاضَةِ مِنَ الْعَمَآءِ الرَّبَّانِيِّ، وَ اٰخِرِ التَّنَزُّلَاتِ الْمُضَافَةِ اِلَى النَّوْعِ الْاِنْسَانِيِّ، الْمُهَاجِرِ مِنْ مَّكَّةَ كَانَ اللّٰهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَّعَهٗ شَيْءٌ ثَانٍ اِلٰى مَدِيْنَةِ وَ هُوَ الْاٰنَ عَلٰى مَا عَلَيْهِ كَانَ، مُحْصِيْ عَوَالِمِ الْحَضَرَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ فِيْ وُجُوْدِهٖ {وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ} وَ رَاحِمِ سَآئِلِي اسْتِعْدَادَاتِهَا بِنَدَاهُ وَ جُوْدِهٖ {وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ}۔

520 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّقْطَةِ الْبَسْمَلَةِ الْجَامِعَةِ لِمَا يَكُوْنُ وَ لِمَا كَانَ، وَ نُقْطَةِ الْاَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَآئِرِ الْاَكْوَانِ، سِرِّ الْهُوِيَّةِ الَّتِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ سَارِيَةٌ، وَّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّجَرَّدَةٌ وَّ عَارِيَةٌ، اَمِيْنِ اللّٰهِ عَلٰى خَزَآئِنِ الْفَوَاضِلِ وَ مُسْتَوْدَعِهَا، وَ مُقَسِّمِهَا عَلٰى حَسَبِ الْقَوَابِلِ وَ مُوَزِّعِهَا، كَلِمَةِ الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ، وَ فَاتِحَةِ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، الْمَظْهَرِ الْاَتَمِّ الْجَامِعِ بَيْنَ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الرُّبُوْبِيَّةِ، وَ النَّشْأِ الْاَعَمِّ الشَّامِلِ لِلْاِمْكَانِيَّةِ وَ الْوُجُوْبِيَّةِ، الطَّوْدِ الْاَشَمِّ الَّذِيْ لَمْ يُزَحْزِحْهُ تَجَلِّي التَّعَيُّنَاتِ عَنْ مَّقَامِ التَّمْكِيْنِ، وَ الْبَحْرِ الْخِضَمِّ الَّذِيْ

لَمْ تُعَكِّرْهُ جِيَفُ الْغَفَلَاتِ عَنْ صَفَآءِ الْيَقِيْنِ۔

521 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْقَلَمِ النُّوْرَانِيِّ الْجَارِيْ بِمِدَادِ الْحُرُوْفِ الْعَالِيَاتِ، وَ
النَّفَسِ الرَّحْمَانِيِّ السَّارِيْ بِمَوَادِ الْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ، الْفَيْضِ الْاَقْدَسِ الذَّاتِيِّ الَّذِيْ تَعَيَّنَتْ بِهِ
الْاَعْيَانُ وَ اسْتِعْدَادَاتُهَا، وَ الْفَيْضِ الْمُقَدَّسِ الصِّفَاتِيِّ الَّذِيْ تَكَوَّنَتْ بِهِ الْاَكْوَانُ وَ اسْتِمْدَادَاتُهَا۔

522 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّطْلَعِ شَمْسِ الذَّاتِ، فِيْ سَمَآءِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، وَ مَنْبَعِ
نُوْرِ الْاِفَاضَاتِ، فِيْ رِيَاضِ النِّسَبِ وَ الْاِضَافَاتِ، خَطِّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَيِ الْاَحَدِيَّةِ وَ الْوَاحِدِيَّةِ، وَ وَاسِطَةِ
التَّنَزُّلِ الْاِلٰهِيِّ مِنْ سَمَآءِ الْاَزَلِيَّةِ اِلٰى اَرْضِ الْاَبَدِيَّةِ۔

523 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ النُّسْخَةِ الصُّغْرٰى الَّتِيْ تَفَرَّعَتْ عَنْهَا الْكُبْرٰى، وَ الدُّرَّةِ
الْبَيْضَا الَّتِيْ تَنَزَّلَتْ اِلَى الْيَاقُوْتَةِ الْحَمْرَا جَوْهَرَةِ الْحَوَادِثِ الْاِمْكَانِيَّةِ الَّتِيْ لَا تَخْلُوْ عَنِ الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنِ،
وَ مَادَّةِ الْكَلِمَةِ الْفَهْوَانِيَّةِ الطَّالِعَةِ مِنْ كِنِّ كُنْ اِلٰى شَهَادَةِ فَيَكُوْنُ، هُيُوْلَى الصُّوَرِ الَّتِيْ لَا تَتَجَلّٰى بِاِحْدَاهَا
مَرَّةً لِّاِثْنَيْنِ، وَلَا بِصُوْرَةٍ مِّنْهَا لِاَحَدٍ مَّرَّتَيْنِ۔

524 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُرْاٰنِ الْجَمْعِ الشَّامِلِ لِلْمُمْتَنِعِ وَ الْعَدِيْمِ، وَ فُرْقَانِ الْفَرْقِ
الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَادِثِ وَ الْقَدِيْمِ، صَائِمِ نَهَارِ اِنِّيْ اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيْ، وَ قَائِمِ لَيْلِ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا قَلْبِيْ،
وَاسِطَةِ مَا بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ} وَ رَابِطَةِ تَعَلُّقِ الْحُدُوْثِ بِالْقِدَمِ {بَيْنَهُمَا
بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ} صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

525 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَذْلَكَةِ دَفْتَرِ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ، وَ مَرْكَزِ اِحَاطَةِ الْبَاطِنِ وَ
الظَّاهِرِ، حَبِيْبِكَ الَّذِي اسْتَجْلَيْتَ بِهٖ جَمَالَ ذَاتِكَ عَلٰى مِنَصَّةِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ نَصَبْتَهٗ قِبْلَةً لِّتَوَجُّهَاتِكَ، فِيْ
جَامِعِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ خَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعَةَ الصِّفَاتِ وَ الْاَسْمَا، وَ تَوَّجْتَهٗ بِتَاجِ الْخِلَافَةِ الْعُظْمٰى، وَ اَسْرَيْتَ
بِجَسَدِهٖ يَقَظَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، وَ تَرَقّٰى اِلٰى قَابِ
قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، فَاَنْسَرَّ فُؤَادَهٗ بِشُهُوْدِكَ، حَيْثُ لَا صَبَاحَ وَلَا مَسَا، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى، وَ قَرَّ بَصَرُهٗ
بِوُجُوْدِكَ، حَيْثُ لَا خَلَآءَ وَلَا مَلَا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى۔

526 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بَابِكَ مَنْ لَّمْ يَقْصِدْكَ مِنْهُ سُدَّتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ وَ
الْاَبْوَابُ، وَ رُدَّ بِعَصَاةِ الْاَدَبِ اِلٰى اِصْطَبْلِ الدَّوَآبِّ۔

527 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ اَهْلِ سَمٰوَاتِكَ،
النُّوْرِ الْاَعْظَمِ، وَ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ، وَ السِّرِّ الْمُمْتَدِّ، الَّذِيْ لَيْسَ لَهٗ مِثْلٌ مَّنْطُوْقٌ، وَّلَا
شِبْهٌ مَّخْلُوْقٌ۔

528 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ إِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، الَّذِىْ خَلَقْتَهٗ مِنْ جَلَالِكَ، وَ زَيَّنْتَهٗ بِجَمَالِكَ، وَ تَوَّجْتَهٗ بِكَمَالِكَ، وَ اَهَّلْتَهٗ لِرُؤْيَةِ ذَاتِكَ، وَ جَعَلْتَهٗ مَحَلًّا لِّاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ قَرَنْتَ اسْمَهٗ بِاِسْمِكَ وَ طَاعَتَهٗ بِطَاعَتِكَ نَآئِبِ حَضْرَةِ ذَاتِكَ، الْمُتَحَقِّقِ بِاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، الْجَامِعِ بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ، وَ الْبَرْزَخِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحُدُوْثِ وَ الْقِدَمِ، عَيْنِ الْاَحَدِيَّةِ الَّذِىْ انْفَتَحَ بِهٖ كُلُّ مَقْفُوْلٍ وَّ انْجَبَرَ بِهٖ كُلُّ مَكْسُوْرٍ، وَّ انْعَتَقَ بِهٖ كُلُّ عَبْدٍ مَّقْهُوْرٍ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

529 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ الْمَجْدِ الْبَاذِخِ، وَ النُّوْرِ الطَّامِحِ، وَ الْحَقِّ الْوَاضِحِ، مِيْمِ الْمَمْلَكَةِ وَ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْعِلْمِ وَ دَالِ الدَّلَالَةِ وَ اَلِفِ الذَّاتِ وَ حَآءِ الرَّحَمُوْتِ، وَ مِيْمِ الْمَلَكُوْتِ، وَ دَالِ الْهِدَايَةِ وَ جِيْمِ الْجَبَرُوْتِ، وَ لَامِ الْاَلْطَافِ الْخَفِيَّةِ، وَ رَآءِ الرَّأْفَةِ الْحَقِيَّةِ، وَ نُوْنِ الْمِنَنِ وَ عَيْنِ الْعِنَايَةِ، وَ كَافِ الْكِفَايَةِ، وَ يَآءِ السِّيَادَةِ، وَ سِيْنِ السَّعَادَةِ، وَ قَافِ الْقُرْبَةِ وَ طَآءِ السَّلْطَنَةِ وَ هَآءِ الْعُرْوَةِ، وَ وَاوِ الْوُثْقٰى وَ صَادِ الْعِصْمَةِ۔

530 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجُوْدِ الْاَكْرَمِ، وَ النُّوْرِ الْاَفْخَمِ، وَ الْعِزِّ الْاَعْظَمِ، الْمَبْعُوْثِ بِالْقِيْلِ الْاَقْوَمِ، مِنَّةِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ فَصِيْحٍ وَّ اَعْجَمَ، قُطْبِ رَحَى النَّبِيِّيْنَ، وَ نُقْطَةِ دَآئِرَةِ الْمُرْسَلِيْنَ، الْمُخَاطَبِ فِى الْكِتَابِ الْمَكْنُوْنِ {مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ وَّاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ} اَلْمَوْصُوْفِ بِقَوْلِكَ الْكَرِيْمِ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ}۔

531 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الذَّاتِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الْغَيْثِ الْمُطَمْطَمِ، وَ الْكَمَالِ الْمُكَتَّمِ، لَاهُوْتِ الْجَمَالِ، وَ نَاسُوْتِ الْوِصَالِ، وَ طَلْعَةِ الْحَقِّ هُوِيَّةِ اِنْسَانِ الْاَزَلِ، فِىْ نَشْرِ مَنْ لَّمْ يَزَلْ، مَنْ اَقَمْتَ بِهٖ نَوَاسِيْتَ الْفَرْقِ، اِلٰى طُرُقِ الْحَقِّ۔

532 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَوَّلِ فِى الْاِيْجَادِ وَ الْجُوْدِ وَ الْوُجُوْدِ، الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَتَيِ الشَّاهِدِ وَ الْمَشْهُوْدِ، السِّرِّ الْبَاطِنِ وَ النُّوْرِ الظَّاهِرِ الَّذِىْ هُوَ عَيْنُ الْمَقْصُوْدِ، حَآئِزِ قَصَبِ السَّبْقِ، فِىْ عَالَمِ الْخَلْقِ، الْمَخْصُوْصِ بِالْاَوَّلِيَّةِ الرُّوْحِ الْاَقْدَسِ الْعَلِيِّ، وَ النُّوْرِ الْاَكْمَلِ الْبَهِيِّ، الْقَآئِمِ بِكَمَالِ الْعُبُوْدِيَّةِ فِىْ حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ، الرَّسُوْلِ الْاَعْظَمِ، وَ النَّبِيِّ الْاَكْرَمِ، وَ الْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ الْمَسْعُوْدِ۔

533 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّقَدِّمَةِ الْوُجُوْدِ الْاَوَّلِ، وَ رُوْحِ الْحَيَاةِ الْاَفْضَلِ، وَ نُوْرِ الْعِلْمِ الْاَكْمَلِ، وَ بِسَاطِ الرَّحْمَةِ فِى الْاَزَلِ، وَ سَمَآءِ الْخُلُقِ الْاَجَلِ، السَّابِقِ بِالرُّوْحِ وَ الْفَضْلِ، وَ الْخَاتِمِ بِالصُّوْرَةِ وَ الْبَعْثِ وَ النُّوْرِ بِالْهِدَايَةِ وَ الْبَيَانِ۔

534 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَالْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى، وَالْحَبِيْبِ الْاَدْنٰى، وَالْوَلِيِّ الْمَوْلٰى، وَالصَّفِيِّ الْمُصْطَفٰى، وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبٰى، عَرْشِ اسْتِوَآءِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ كُنْهِ هُوِيَّةِ تَنَزُّلَاتِكَ، النُّوْرِ الْاَزْهَرِ، وَالسِّرِّ الْاَبْهَرِ، وَالْفَرْدِ الْجَامِعِ، وَالْوِتْرِ الْوَاسِعِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ ابْنِ مَشِيْشٍ

535 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ، وَانْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ، وَفِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَآئِقُ، وَتَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ اٰدَمَ فَاَعْجَزَ الْخَلَآئِقَ، وَلَهٗ تَضَآءَلَتِ الْفُهُوْمُ فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ وَّلَا لَاحِقٌ، فَرِيَاضُ الْمَلَكُوْتِ، بِزَهْرِ جَمَالِهٖ مُوْنِقَةٌ، وَّحِيَاضُ مَعَالِمِ الْجَبَرُوْتِ، بِفَيْضِ اَنْوَارِهٖ مُتَدَفِّقَةٌ، وَّلَا شَيْءَ اِلَّا وَهُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ، سِرِّكَ الْجَامِعِ الدَّآلِّ عَلَيْكَ، وَحِجَابِكَ الْاَعْظَمِ الْقَآئِمِ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الشَّاذِلِيِّ

536

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِاَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ، وَاَكْمَلِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتِ، النُّوْرِ الذَّاتِيِّ، وَالسِّرِّ السَّارِيْ فِيْ سَآئِرِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ النَّقْشَبَنْدِيِّ

537

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِنِّبْرَاسِ الْاَنْبِيَآءِ، وَنَيِّرِ الْاَوْلِيَآءِ، وَزِبْرِقَانِ الْاَصْفِيَآءِ، وَيُوْحِ الثَّقَلَيْنِ، وَضِيَآءِ الْخَافِقَيْنِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ مُحَمَّدْ وَفَا

538 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَالْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى، اَلصَّفِيِّ الْمُرْتَضٰى، وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبٰى، اَحْمَدِ اَمْرِكَ وَمُحَمَّدِ خَلْقِكَ وَاَسْعَدِ كَوْنِكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ عَلِيِّ وَفَا

539 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنُّوْرِ الْاَوَّلِ، وَالسِّرِّ الْاَنْزَهِ الْاَكْمَلِ، عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَبَهْجَةِ الْاِخْتِرَاعَاتِ الْاَكْوَانِيَّةِ، صَاحِبِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ وَالْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ، نُوْرِ كُلِّ شَيْءٍ

وَّهُدَاهُ، وَسِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَّسَنَاهُ، مَنْ فَتَحْتَ بِهٖ خَزَآئِنَ الْحِكْمَةِ وَالرَّحَمُوْتِ، وَمَنَحْتَ بِظُهُوْرِهٖ اَنْوَارَ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، قُطْبِ دَآئِرَةِ الْكَمَالِ، وَيَاقُوْتَةِ تَاجِ مَحَاسِنِ الْجَلَالِ۔

540 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ عَيْنِ الْمَظَاهِرِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَلَطِيْفَةِ تَرَوْحُنَاتِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ، مَدَدِ الْاَمْدَادِ، وَجُوْدِ الْجُوْدِ، وَوَاحِدِ الْاَحَادِ، وَسِرِّ الْوُجُوْدِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ السُّلُوْكِ، وَشَرَفِ الْاَمْلَاكِ وَالْمُلُوْكِ، بَدْرِ الْمَعَارِفِ فِيْ سَمٰوَاتِ الدَّقَآئِقِ، وَشَمْسِ الْعَوَارِفِ فِيْ عُرُوْشِ الْحَقَآئِقِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

541 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَابِكَ الْاَعْظَمِ، وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ الْاَقْوَمِ، وَبَرْقِكَ اللَّامِعِ، وَنُوْرِكَ السَّاطِعِ، وَضِيَآئِكَ الَّذِيْ هُوَ فِيْ اُفُقِ كُلِّ قَلْبٍ سَلِيْمٍ طَالِعٌ، وَّسِرِّكَ الْمُنَزَّهِ السَّارِيْ فِيْ جُزْئِيَّاتِ الْعَالَمِ وَكُلِّيَّاتِهٖ، عُلْوِيَّاتِهٖ وَسُفْلِيَّاتِهٖ، مِنْ جَوْهَرٍ وَّعَرَضٍ وَّوَسَآئِطٍ وَّمُرَكَّبَاتٍ وَّبَسَآئِطٍ۔

542 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّغْرِبِ اَسْرَارِ الذَّاتِ، وَمَشْرِقِ اَنْوَارِ الصِّفَاتِ، وَمَظْهَرِ اَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ، بِاَنْوَارِ السُّبُحَاتِ، مِنْ سَنَا السُّرَادِقَاتِ، بِاَرْوَاحِ التَّرَوْحُنَاتِ، الْمُصَلِّيْ فِيْ مِحْرَابِ جَامِعِ الْجَمْعِ بِاَحْمَدَ، وَالْقَارِئِ بِقُرْاٰنِ الْفَرْقِ بِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، الْقَآئِمِ فِي الْمُلْكِ بِشَرْعِهٖ وَجَلَالِهٖ، وَالرَّاحِمِ فِي الْمَلَكُوْتِ بِرَحْمَتِهٖ وَجَمَالِهٖ، عَيْنِ غَيْبِكَ الْكَامِلَةِ، وَخَلِيْفَتِكَ عَلَى الْاِطْلَاقِ فِيْ مَمْلَكَتِكَ الشَّامِلَةِ۔

543 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ وَجَبَ اِتِّصَافُهٗ بِالْكَمَالَاتِ، وَعَمَّتْ عِصْمَتُهٗ فِيْ جَمِيْعِ الْخَطَرَاتِ، وَتَنَزَّهَ شَامِخُ عِزِّهٖ عَنِ النَّقْصِ وَالسُّلُوْبِ، وَثَبَتَ رَاسِخُ مَجْدِهٖ بِالذَّاتِ وَالْوُجُوْبِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ اَبِي الْمَوَاهِبِ

544 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُتَوَّجِ بِمَقَامِ الْاَكْمَلِيَّةِ، عَلٰى سَآئِرِ الْبَرِيَّةِ، مِرْاٰةِ الذَّاتِ، وَمَظْهَرِ الصِّفَاتِ، وَحَضْرَةِ السُّبُحَاتِ۔

545 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْحَنَانِ الْاَعْظَمِ، وَالْعَطَآءِ الْاَكْرَمِ، وَالنُّوْرِ الْخَارِقِ، وَالْعِلْمِ الْفَارِقِ، وَالْجَمَالِ الْيَتِيْمِ، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، وَالْهُدَى الْقَوِيْمِ، وَالْكَمَالِ الْمُطْلَقِ، وَالْعِزِّ الْمُحَقَّقِ، وَالْمَقَامِ الْاَعْلٰى، وَالشَّرَفِ الْاَغْلٰى، وَالسِّرِّ الْاَجْلٰى، وَالْمَوْرِدِ الْاَحْلٰى، وَالْبَاطِنِ الْاَنْقٰى، وَالْقَلْبِ الْاَتْقٰى، وَاللِّسَانِ الْمُعَرَّبِ، وَالْجَنَانِ الْمُقَرَّبِ، وَالْجَلَالِ الظَّاهِرِ، وَالْعُنْصُرِ الطَّاهِرِ، وَالرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ، وَالنِّعْمَةِ الْكَامِلَةِ۔

546 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّبْدَأِ الْاَمْرِ وَالْخِتَامِ، وَوَاسِطَةِ عِقْدِ النِّظَامِ، طِرَازِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، مُسْتَوْدَعِ خَزَآئِنِ الرَّحَمُوْتِ قُطْبِ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ، وَمَعْدِنِ فَيْضَانِ الْجُوْدِ۔

547 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ عَيْنِ الْكَمَالِ، وَفَخْرِ الْمَزَايَا وَالْخِصَالِ، مُتَفَجِّرِ يَنَابِيْعِ الْحِكَمِ، وَمُؤَيِّدِ اَخْلَاقِ الْهِمَمِ۔

548 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَّطِيْفَةِ سِرِّ الْخِلَافَةِ الْاٰدَمِيَّةِ، الْمُشْتَمِلَةِ الْمُشْتَهِرَةِ بِالْاَنْوَارِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، الْمَظْهَرِ التَّآمِّ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النِّظَامِ، فَاتِحِ خَزَآئِنِ الْمَعَارِفِ، وَمُفِيْضِ الْاَسْرَارِ وَاللَّطَآئِفِ۔

549 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ، وَسِرِّ الْاَسْرَارِ، مَعْدِنِ الْجُوْدِ، وَمَدَدِ الْوُجُوْدِ، وَسِرِّ كُلِّ وَالِدٍ وَّمَوْلُوْدٍ، مَّقَرِّ التَّنَزُّلَاتِ، وَمَجْلَى التَّجَلِّيَاتِ، بِالْمَعْنَى الرُّوْحِيِّ، وَالسِّرِّ السُّبُوْحِيِّ۔

550 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الْعَالَمِ، وَمَقْصُوْدِ الْعِلْمِ مِنَ الْعُلُوْمِ لِلْعَالَمِ، رُوْحِ الْاَرْوَاحِ، وَلَطِيْفَةِ الْاِرْتِيَاحِ، اِنْسَانِ عَيْنِ الْاَعْيَانِ، فِيْ جَمِيْعِ دَوْرَاتِ الزَّمَانِ، مُبَلِّغِ الْمَقَاصِدِ السَّنِيَّةِ، لِاَرْبَابِ الْهِمَمِ الْعَلِيَّةِ فِي الْحَضَرَاتِ الْقُدْسِيَّةِ۔

551 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَهْجَةِ الْاَنْوَارِ الْمُتَاَلِّقَةِ فِي الْمَظَاهِرِ الصِّبَاحِ، وَاُنْسِ خَفَرِ الْوُجُوْهِ الْمَقْبُوْلَةِ الْمِلَاحِ، مُرْشِدِ الْعُقُوْلِ وَمُطَمِّنِ الْقُلُوْبِ وَهَادِي النُّفُوْسِ، وَمُنَوِّرِ الْاَرْوَاحِ وَدَاعِيْهَا اِلَى الْحُضُوْرِ فِيْ حَضْرَةِ الْقُدُّوْسِ۔

552 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَطِيْبِ خُطْبَةِ الْوِصَالِ، لِخِطَابِ الْاِتِّصَالِ، بِذِي الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ، مِنْ اَهْلِ الْكَمَالِ، وَاِمَامِ اَهْلِ الْعِرْفَانِ، فِيْ حَضْرَةِ الْاِحْسَانِ۔

553 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، وَسِرَاجِ الْعَالَمِيْنَ، وَعَلَمِ الْمُهْتَدِيْنَ، وَقَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ۔

554 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْمَكْنُوْنِ، وَغَيْبِكَ الْمَخْزُوْنِ، عَيْنِ الْوُجُوْدِ، النُّوْرِ الْمَشْهُوْدِ، صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَاللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ، وَسِيْلَةِ اٰدَمَ اَبِي الْبَشَرِ، وَالشَّفِيْعِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ۔

555 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّمِدِّ الْاَرْوَاحِ، وَمُنْعِشِ الْاَشْبَاحِ، دَآلِّ الْخَلْقِ عَلَيْكَ، وَمُوَجِّهِهِمْ اِلَيْكَ، بَهْجَةِ الطُّرُوْسِ، وَمُهَذِّبِ النُّفُوْسِ، مُفِيْضِ الْمَعَارِفِ عَلَى الْقُلُوْبِ، مِنْ حَضَرَاتِ الْمَلَكُوْتِ وَالْغُيُوْبِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

556 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَلَمِ التَّجَلِّي الْاَوَّلِ، لَوْحِ التَّجَلِّي الثَّانِيْ سِرِّ الْاَحَدِيَّةِ، نُوْرِ الْوَاحِدِيَّةِ، حَضْرَةِ الذَّاتِ، مُشْرِقِ الصِّفَاتِ، فَاتِحِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ نِظَامِ الْاَبَدِ صَاحِبِ الْفَضْلِ الْفَرِيْدِ،

الَّذِیْ لَمْ یُشَارِکْهُ فِیْهِ اَحَدٌ مِّنَ الْعَبِیْدِ، الَّذِیْ عَلَا شَرَفُهُ السَّامِیْ عَلَی الرُّسُلِ وَ الْاَنْبِیَآءِ، وَ عَلَی الْمَلَائِکَةِ وَ عَلٰی کُلِّ الْاَوْلِیَآءِ۔

557 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْعُلُوْمِ وَ مُفِیْدِھَا وَ اِمَامِ الرُّسُلِ وَ خَطِیْبِھَا رُوْحِ اُنْسِ کُلِّ حَضْرَةٍ، وَّ ارْتِیَاحِ کُلِّ بَهْجَةٍ وَّ نَظْرَةٍ، مِّفْتَاحِ الْغَیْبِ الْاَزَلِیِّ، وَ خِتَامِ السِّرِّ الْکُلِّیِّ، حَائِزِ الصِّفَاتِ الْقُدْسِیَّةِ، وَ جَلِیْسِ الْحَضْرَةِ الْعِنْدِیَّةِ، نِهَایَةِ الْحَقِیْقَةِ، وَ دَلَالَةِ الطَّرِیْقَةِ۔

558 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْکَوْنَیْنِ، فِیْ سَابِقِ التَّعْیِیْنِ، تَاجِ مَفْرِقِ الْوُجُوْدِ، وَ وَاسِطَةِ دُرِّ الْعُقُوْدِ، مُحَمَّدِ الْجَلَالِ، وَ اَحْمَدِ الْجَمَالِ، رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، وَ وَلِیِّ النِّعْمَةِ، خَیْرِ الْاَبْرَارِ، وَ اَبَرِّ الْاَخْیَارِ۔

559 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِی الْاِسْرَآءِ وَ الْمِعْرَاجِ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ وَ التَّاجِ، الْمُصْطَفَی الْمُصَفّٰی النَّقِیِّ التَّقِیِّ السَّیِّدِ السَّنَدِ، الْمُمِدِّ الْمَدَدِ۔

560 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْاَسْیَادِ الْمُفْرَدِ فِی الْکَمَالِ غَایَةِ النِّعْمَةِ الْفَرْدِ الْفَرِیْدِ فَخْرِ الْکِرَامِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِیْمِ الْجَلِیْلِ الرَّفِیْعِ الْحَامِدِ الشَّکُوْرِ الْمُعَظَّمِ الْبَاهِیْ۔

561 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْعَبِیْدِ الْمُعَلِّمِ لِلْاِسْلَامِ الْوَجِیْهِ فِی الْمُلْکِ وَ الْمَلَکُوْتِ مُعَطِّرِ الْوُجُوْدِ بِالْاَنْفَاسِ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ، فِی الْحَضَرَاتِ الْقُدْسِیَّةِ، الشَّفِیْعِ فِی الْبَرَایَا مَقْبُوْلِ الشَّفَاعَةِ، مَنْ جَعَلْتَ طَاعَتَهٗ لَکَ طَاعَةً۔

562 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قَدَّمْتَهٗ فِی الْقِدَمِ، فَکَانَ لَهُ الْقَدَمُ عَلٰی کُلِّ ذِیْ قَدَمٍ، مَنْ عَیَّنْتَهٗ فِی التَّعْیِیْنِ الْاَوَّلِ، بِالْمَقَامِ الْاَکْمَلِ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِکَمَالِ النِّظَامِ، وَ جَعَلْتَهٗ لَبِنَةَ التَّمَامِ۔

563 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ جَامِعِ الْاُنْسِ، وَ خَطِیْبِ حَضْرَةِ الْقُدْسِ، مَظْهَرِ حَقِیْقَةِ الْوُجُوْبِ الْمُنَزَّهِ، وَ مَظْهَرِ اِمْکَانِ الْجَمَالِ الْاَنْزَهِ، مُحَمَّدِ الْجَلَالِ، وَ اَحْمَدِ الْجَلَالِ۔

564 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰی، صَفْوَةِ اَهْلِ الْاِصْطِفَا، سَیِّدِ کُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ اَفْضَلِ مَنْ صَلّٰی وَ تَلَا، وَ عَبَدَ رَبَّهٗ فِی الْخَلْوَةِ وَ الْمَلَا، الَّذِیْ خَصَّصْتَهٗ فِی الْاَزَالِ، بِمَرَاتِبِ التَّکْمِیْلِ بَعْدَ الْکَمَالِ، حَائِزِ الْفَضِیْلَةِ، صَاحِبِ الْوَسِیْلَةِ۔

565 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَاتِحِ خَزَائِنِ الْاَسْرَارِ، وَ خَاتِمِ دَوَرَاتِ الْاَنْوَارِ، رَوْنَقِ کُلِّ اِشَارَةٍ لَّطِیْفَةٍ، تُشِیْرُ اِلٰی کَمَالِ الْمَعَانِی الْمُنِیْفَةِ، بِالْاِشَارَاتِ الْعِرْفَانِیَّةِ، فِی الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِیَّةِ۔

566 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الشَّفِیْعِ، ذِی الْجَنَابِ الرَّفِیْعِ، حَضْرَةِ الْاَسْرَارِ، وَ مَنْبَعِ

الْاَنْوَارِ، مُطَهِّرِ النُّفُوْسِ مِنَ الرَّذَآئِلِ، وَاَجْمَلِ مَوْلُوْدٍ فِيْ سَآئِرِ الْقَبَآئِلِ۔

567 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ اِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ، مُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَ اَعْلَمِ الْخَلْقِ، وَنَاصِحِ الْاُمَّةِ وَ مُرْشِدِهَا اِلَى الْحَقِّ، اَكْرَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَ قُطْبِ دَوَآئِرِ السَّعَادَاتِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الرَّازِيْ

568 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ عَبْدٍ لَّكَ فِيْ هٰذَا الْعَالَمِ، مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ، الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ لَكَ ظِلًّا، وَّلِحَوَآئِجِ خَلْقِكَ قِبْلَةً وَّ مَحَلًّا، وَّ اصْطَفَيْتَهٗ لِنَفْسِكَ وَ اَقَمْتَهٗ بِحُجَّتِكَ، وَ اَظْهَرْتَهٗ بِحِكْمَتِكَ، وَ اخْتَرْتَهٗ مُسْتَوًى لِّتَجَلِّيْكَ، وَ مَنْزِلًا لِّتَنْفِيْذِ اَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِيْكَ، فِيْ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، وَ وَاسِطَةً بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مُكَوَّنَاتِكَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الْفَاكِهَانِيْ

569 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ بِنُوْرِهِ الظُّلَمُ، الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّكُلِّ الْاُمَمِ، الْمُخْتَارِ لِلسِّيَادَةِ وَ الرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ، الْمَوْصُوْفِ بِاَفْضَلِ الْاَخْلَاقِ وَ الشِّيَمِ، الْمَخْصُوْصِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَ خَوَاصِّ الْحِكَمِ، الَّذِيْ كَانَ لَا تُنْتَهَكُ فِيْ مَجَالِسِهِ الْحُرَمُ، وَلَا يُغْضِيْ عَمَّنْ ظَلَمَ، الَّذِيْ كَانَ اِذَا مَشٰى تُظَلِّلُهُ الْغَمَامَةُ حَيْثُمَا يَمَّمَ، وَ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَ اَقَرَّ بِرِسَالَتِهٖ وَ صَمَّمَ، الَّذِيْ اَثْنٰى عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ نَصًّا فِيْ سَالِفِ الْقِدَمِ، وَ اَمَرَ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَ يُسَلَّمَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ ابْنِ ظَهِيْرَةَ

570 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ، صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ الَّذِيْ تَمَيَّزَ بِهٖ عَنْ جَمِيْعِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، صَاحِبِ الْحَوْضِ وَ الْكَوْثَرِ الَّذِيْ يُرْوٰى مِنْهُ الْوَارِدِيْنَ۔

571 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا اَحْمَدَ اَبِي الْقَاسِمِ الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ طٰهٰ يٰسٓ، اِنْسَانِ عَيْنِ الْعَالَمِ صَآئِغِ خَاتِمِ الْوُجُوْدِ رَضِيْعِ ثَدْيِ الْوَحْيِ حَافِظِ سِرِّ الْاَزَلِ كَاشِفِ كُرَبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ۔

572 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ، مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النُّبُوَّةِ دُرَّةِ تَاجِ الرِّسَالَةِ، قَآئِدِ رَكْبِ الْوِلَايَةِ، اِمَامِ اَهْلِ

الْحَضْرَةِ، مُقَدَّمِ عَسْكَرِ السَّادَةِ الْمُرْسَلِيْنَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ ابْنِ عُجَيْلٍ

573 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ، اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ فَاتِحِ الْبِرِّ وَ مُعَلِّمِ الْحِكْمَةِ، وَ رَسُوْلِ الْهُدٰى وَ الرَّحْمَةِ۔

574 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْمَاحِي الْجَامِعِ الدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ، وَ النُّوْرِ الْهَادِيْ مِنَ الْاَضَالِيْلِ، اَمِيْنِكَ الْمَأْمُوْنِ، وَ خَازِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ۔

575 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى، وَ الرَّسُوْلِ الْمُجْتَبٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْمُعْتَبَرِ، وَ الْمُقَدَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْمُشَفَّعِ فِي الْمَحْشَرِ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَقْصُوْدِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ وَ الْكَوْثَرِ۔

576 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَ الدَّلَالَةَ وَ الْبَشَارَةَ وَ النِّذَارَةَ وَ النُّبُوَّةَ وَ الْفُتُوَّةَ وَ اَسْرَيْتَ بِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، اِلَى السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى، اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، اِلٰى قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَ اَرَيْتَهٗ وَ خَصَّصْتَهٗ بِالْحُبِّ وَ الْقُرْبِ وَ التَّمْكِيْنِ، وَ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَ خَاطَبْتَهٗ وَ وَصَفْتَهٗ بِقَوْلِكَ الْكَرِيْمِ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ} نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ، وَ كَاشِفِ الْغُمَّةِ، وَ جِلَآءِ الظُّلْمَةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الْمَسْرَعِيِّ

577 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ حَضْرَتِكَ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، الْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ النُّوْرِ السَّاطِعِ، وَ الْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ، الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، وَ الْحَضْرَةِ الْجَامِعَةِ۔

578 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ، طِرَازِ حُلَّةِ الْفَخَارِ، دُرَّةِ صَدَفَةِ الْوُجُوْدِ، وَ ذَخِيْرَةِ الْمَلِكِ الْوَدُوْدِ، وَ مَنْبَعِ الْفَضَآئِلِ وَ الْجُوْدِ۔

579 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَاجِ مَمْلَكَةِ التَّمْكِيْنِ، الرَّؤُوْفِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ، نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، الْجَمَالِ الزَّاهِرِ، وَ الْجَلَالِ الْقَاهِرِ، وَ الْكَمَالِ الْفَاخِرِ۔

580 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ عِقْدِ النُّبُوَّةِ، وَ لُجَّةِ زَخَّارِ الْكَرَمِ وَ الْفُتُوَّةِ، حَبِيْبِكَ

وَ خَلِيْلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ حَبِيْبِنَا وَ شَفِيْعِنَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ الْمُبِيْنِ { وَ مَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ }۔

581 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، الرَّسُوْلِ الْعَظِيْمِ، الْعَلِيْمِ الْحَلِيْمِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، الْعَفُوِّ الْغَفُوْرِ، الشَّكُوْرِ الصَّبُوْرِ، الْوَدُوْدِ الْمَجِيْدِ، الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ، النُّوْرِ الْمُبِيْنِ، حَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ، وَ حِرْزِهِ الْأَمِيْنِ، الْمُنَبَّأِ وَ آدَمَ بَيْنَ الْمَآءِ وَ الطِّيْنِ۔

582 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ أَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ أَسْرَارِكَ، وَ نَبِيِّ رَحْمَتِكَ، وَ بُؤْبُؤِ عَيْنِ مَمْلَكَتِكَ، السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ، وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، رُوْحِ الْحَقِّ، مِنَّةِ اللهِ عَلَى الْخَلْقِ، تَاجِ الْعِزِّ وَ الْكَرَامَةِ، شَفِيْعِ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

583 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَلْبِ الْقُرْآنِ، وَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ، وَ حَبِيْبِ اللهِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، الْمَبْعُوْثِ بِالدَّلِيْلِ وَ الْبُرْهَانِ، وَ الْمَنْعُوْتِ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَ الزَّبُوْرِ وَ الْفُرْقَانِ، بِسِمَتِهٖ وَ صِفَتِهٖ تَعْزِيْزًا وَّ تَوْقِيْرًا { يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۰ وَّ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ۰ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا }۔

584 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُنَوَّهِ بِذِكْرِهٖ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ إِجْلَالًا لِّحَقِّهٖ وَ تَعْظِيْمًا، وَّ تَشْرِيْفًا لَّهٗ وَ تَكْرِيْمًا، بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى { إِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا } صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

585 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَحْمَدِكَ الْمَخْصُوْصِ بِثَبَاتِ { مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى } فِي مَقَامِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى، النُّوْرِ الْأَزْهَرِ، الَّذِيْ أَدْهَشَ الْعُقُوْلَ وَ حَيَّرَ، مَجْلٰى تَجَلِّي الذَّاتِ الْأَحَدِيَّةِ، فِي حَقَآئِقِ الصِّفَاتِ الْوَاحِدِيَّةِ، سِرِّ سَرَآئِرِ اللَّاهُوْتِ، فِي مَشَارِقِ أَنْوَارِ الْجَبَرُوْتِ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، تَثْبِيْتًا لَّهٗ وَ تَمْكِيْنًا، وَّ تَعْظِيْمًا وَّ تَبْيِيْنًا { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۰ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۰ وَّ يَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا }۔

586 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنُّوْرِ الْأَكْمَلِ الْأَعْلٰى، وَ الْكَمَالِ الْأَنْوَرِ الْأَبْهٰى، مَهْبَطِ تَجَلِّيَاتِ الْكَمَالَاتِ الْإِلٰهِيَّةِ، وَ مَوَاقِعِ نُجُوْمِ الْأَسْرَارِ الْجَمَالِيَّةِ وَ الْجَلَالِيَّةِ، اللَّطِيْفِ بِلَطَآئِفِ شَمَآئِلِ فَضَآئِلِ مَكَارِمِ الْبَرِّ الْكَرِيْمِ، الرَّؤُوْفِ بِرَأْفَةِ رَحْمَةِ { لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا

عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾.

587 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْعَزِيْزِ بِعِزِّ عَظَمَةِ اللهِ، الْعَظِيْمِ بِعَظَمَةِ عِزَّةِ اللهِ، الْقُدُّوْسِ بِسُبُحَاتِ سُبْحَانَ اللهِ، الْمَحْمُوْدِ بِمَحَامِدِ الْحَمْدِ لِلّٰهِ، الْوَحْدَانِيِّ بِتَوْحِيْدِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، الْفَرْدَانِيِّ بِمَنَارِ اللهِ اَكْبَرُ، الْمُدَبِّرِ بِتَدْبِيْرِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ، الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْمُطَاعِ الْاَمِيْنِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، رَحْمَةِ الْعَالَمِيْنَ، وَ قَدَمِ صِدْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ.

588 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غِبْطَةِ الْحَقِّ، وَ عُمْدَةِ الْخَلْقِ، الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ، وَ الْبِرِّ الْاَرْحَمِ، الَّذِيْ خَاطَبْتَهٗ بِقَوْلِكَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَحَبَّ وَلَآ اَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ.

ثَنَآءُ النُّعْمَانِيْ

589 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ، وَ الْبَرَكَةِ الْكَامِلَةِ، جَامِعِ الْحَقَآئِقِ، وَ اَفْضَلِ الْخَلَآئِقِ حَضْرَةِ حَظِيْرَةِ حَظَآئِرِ قُدْسِكَ الْجَامِعِ، وَ نُوْرِ اَنْوَارِكَ اللَّامِعِ، وَ عَبْدِ عُبُوْدِيَّةٍ مَوْضُوْعِكَ الْمُتَوَاضِعِ.

590 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اخْتَرْتَهٗ قَبْلَ سَوَابِقِ السَّوَابِقِ، وَ اَلْحَقْتَهٗ بَعْدَ لَوَاحِقِ اللَّوَاحِقِ، وَ اَبْقَيْتَهٗ بِكَ وَ مَحَقْتَ عَنْهُ اٰثَارَ الْبَقِيَّةِ، وَ نَزَعْتَ مِنْ صَدْرِهٖ غِلَّ الْغُلُوْلِ النَّفْسِيَّةِ، وَ بَشَّرْتَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ رُوْحِ الْجَبَرُوْتِ رُعُوْنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَ رَفَعْتَهٗ اِذْ رَفَعْتَ عَنْهُ بِتَخَلُّقِ اَخْلَاقِهٖ حِجَابَ الْاَخْلَاقِ الْخَلْقِيَّةِ، وَ جَعَلْتَهٗ مَوْضُوْعًا لِّمَحْمُوْلِكَ، وَ لَوْحًا حَافِظًا لِّكَلِمَاتِ مَقُوْلِكَ، وَ كُرْسِيًّا وَّاسِعًا لِّمُتَفَرِّقَاتِ مَجْمُوْعِكَ، وَ صَرَفْتَ قُوَّةَ قُدْرَتِهٖ فِيْ اَمْلَاكِ اَفْلَاكِ الدَّآئِرَةِ، وَ اَطْلَعْتَ فِيْ مَطَالِعِ اٰفَاقِهٖ مَصَابِيْحَ كَوَاكِبِ اَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ، وَ بَسَطْتَ بِسَاطَ بَسْطَتِهٖ قَرَارًا لِّقُرَّةِ الْاَعْيُنِ النَّاظِرَةِ.

591 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي انْجَلٰى فِيْ جِلَآءِ مِرْاٰةِ رَأْيِهِ الْجَلِيْلِ تَجَلِّيْ جَمَالِهٖ وَ جَلَالِهٖ، وَ عَلَا اَعْلٰى تَعَالٰى هِمَمِ اِهْتِمَامِهٖ مَا طَارَ مِنْ تَصَوُّرِ صُوْرَةِ كَمَالِهٖ، الَّذِيْ جَاوَزَتْ بِهٖ حُزُوْنَ الْحُزْنِ فَبَاشَرَ الْبُشْرٰى لِاِصَابَتِهِ الصَّوَابِ، وَ اَمِنَتْ اِيْمَانَ تَمَنِّيْهِ مِنَ النَّكْصِ عَلَى الْاَعْقَابِ فِيْ عَقَبَاتِ الْعِقَابِ، وَ خَلَّصَتْ اِخْلَاصَهٗ مِنْ اٰثَارِ التَّلَفُّتِ لِمَثُوْبَاتِ الثَّوَابِ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ رَيْبٍ وَّلَا عُرْوَةُ عَيْبٍ، لَّا يَأْنَسُ بِالْخَلْقِ، وَلَا يَسْتَوْحِشُ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا تَلْحَظُ لِوَاحِظُ مُلَاحَظَتِهٖ عَيْنَ جَمْعِ الْجَمْعِ فِيْ عَيْنِ الْفَرْقِ، الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، وَ الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ، وَ الرُّوْحِ الْمُنْعَمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ.

ثَنَآءُ الْمَسَالِكِ

592 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَ مُرَادِ الْإِرَادَاتِ حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ بِالْكَرَامَاتِ، وَالْمُؤَيَّدِ بِالنَّصْرِ وَ السَّعَادَاتِ، السِّرِّ الظَّاهِرِ وَ النُّوْرِ الْبَاطِنِ الْجَامِعِ لِجَمِيْعِ الْحَضَرَاتِ۔

593 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَمْدِ الَّذِىْ هُوَ مِفْتَاحُ اَقْفَالِ الْاَغْطِيَةِ الْاِلٰهِيَّاتِ، الَّذِىْ خَتَمَ اللّٰهُ بِهِ النُّبُوَّةَ وَ الرِّسَالَةَ نُوْرِ عَيْنِ الْعِنَايَاتِ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتِ، الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَةِ الْمَشَاهِدِ وَ الْكَمَالَاتِ، الَّذِىْ اُسْرِىَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ وَ رُوْحِهِ الْاَقْدَسِ الْعَالِىْ اِلٰى اَعْلَى الْمَقَامَاتِ، وَ خَاطَبَهٗ رَبُّهٗ وَ اَكْرَمَهٗ بِالتَّحِيَّاتِ، النُّوْرِ الْاَكْمَلِ وَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الْاَزْهَرِ الْقَآئِمِ بِكَمَالِ الْعُبُوْدِيَّةِ فِىْ حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ مَعَ الْعِبَادَاتِ۔

594 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْاَعْظَمِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الْبَرِّ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الصَّادِقِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْعُبَّادِ وَ الزَّاهِدِيْنَ، وَ سَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ وَ السَّاجِدِيْنَ وَ سَيِّدِ الطَّآئِفِيْنَ وَ الْعَاكِفِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْقَآئِمِيْنَ، وَ الصَّآئِمِيْنَ، وَ سَيِّدِ الطَّالِبِيْنَ وَ الْوَاصِلِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَ الْمُتَّقِيْنَ، وَ سَيِّدِ خَلْقِ اللّٰهِ اَجْمَعِيْنَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ ابْنِ عِرَاقٍ

595

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لَّوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ، الَّذِىْ كَتَبْتَ فِيْهِ بِقَلَمِ رَحِيْمِيَّتِكَ، وَ مِدَادِ مَدَدِ رَحَمُوْتِيَّتِكَ { وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ } عَرْشِ اسْتِوَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ اَحَدِيَّةِ اُلُوْهِيَّتِكَ، وَ رَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ، وَ بَرَكَاتِكَ الْكَامِلَةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ { وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ }۔

596 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ عَيْنِ الْكُلِّ فِىْ حَضْرَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَ جَمْعِ جَمْعِ اَحَدِيَّتِكَ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ { يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا }۔

597 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَافِ كِفَايَتِكَ، وَ هَآءِ هِدَايَتِكَ، وَ يَآءِ يُمْنِكَ، وَ عَيْنِ عِصْمَتِكَ، وَ صَادِ صِرَاطِكَ { صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ } { صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ }۔

598 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَسْمٰى، الْمُشَفَّعِ بِالْاَسْمَا، فِىْ حَضْرَةِ الْاَسْمَا، فَكَانَ

عَيْنَ مَظَاهِرِهَا الْوُجُوْدِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةُ عِلْمِكَ، وَعَيْنِ أَسْرَارِهَا الْجُوْدِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةُ كَرَمِكَ، وَ عَيْنِ إِخْتِرَاعَاتِهَا الْكُلِّيَّةِ وَ الْكَوْنِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةُ إِرَادَاتِكَ، وَ عَيْنِ مَقْدُوْرَاتِهَا الْجَبَرُوْتِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةُ قُدْرَتِكَ وَقَهْرِكَ، وَعَيْنِ إِنْشَآتِهَا الْإِحْسَانِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ إِحَاطَةُ سَعَةِ رَحْمَتِكَ ۔

599 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّيْمِ مُلْكِكَ، وَ حَآءِ حِكْمَتِكَ، وَ مِيْمِ مَلَكُوْتِكَ، وَ دَالِ دَيْمُوْمِيَّتِكَ، وَ أَلِفِ أَحَدِيَّتِكَ، وَحَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ، وَمِيْمِ مُلْكِكَ، وَدَالِ دِيْنِكَ {أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ} ۔

600 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْوَاحِدِ الثَّانِي، الْمَخْصُوْصِ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِي، السِّرِّ السَّارِيْ فِيْ مَنَازِلِ الْأُفُقِ الرَّحْمَانِي، الْقَلَمِ الْجَارِيْ بِمِدَادِ الْمَدَدِ الرَّبَّانِي، عَلٰى طُوْرِ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِي ۔

601 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ أَقَامَ دِيْنَكَ، وَبَلَّغَ رِسَالَتَكَ، وَأَوْضَحَ سَبِيْلَكَ وَأَدّٰى أَمَانَتَكَ، وَأَقَامَ الْبُرْهَانَ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِكَ، وَأَثْبَتَ فِي الْقُلُوْبِ أَحَدِيَّتَكَ ۔

602 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ بِهَيْبَتِكَ وَجَلَالِكَ، الْمُتَوَّجِ بِنُوْرِ أَسْرَارِكَ وَ جَمَالِكَ، مَوْضِعِ نَظَرِكَ، وَ مَظْهَرِ خَزَآئِنِ كَرَمِكَ، عُقْدَةِ عِزِّكَ وَ مِفْتَاحِ قُدْرَتِكَ، مَحَلِّ رَحْمَتِكَ وَ مَجْدِ عَظَمَتِكَ، خُلَاصَتِكَ مِنْ كُنْهِ كَوْنِكَ وَصَفْوَتِكَ مِمَّنْ خَصَصْتَ بِاِصْطِفَآئِكَ ۔

603 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ، الْأَبْطَحِيِّ الْقُرَشِيِّ، أَحْمَدِ الْحَامِدِيْنَ فِيْ سُرَادِقَاتِ جَلَالِكَ، وَمُحَمَّدِ الْمَحْمُوْدِيْنَ فِيْ بِسَاطِ جَمَالِكَ ۔

604 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَلِفِ إِبْدَاعِكَ، وَ بَآءِ بِدَايَةِ إِخْتِرَاعِكَ، وَ وَاوِ وُدِّكَ فِيْ إِنْشَآتِكَ، وَ أَلِفِ إِبْرَازِكَ لِمَخْلُوْقَاتِكَ وَ لَامِ لُطْفِكَ فِيْ تَدْبِيْرَاتِكَ، وَ قَافِ إِحَاطَةِ قُدْرَتِكَ عَلٰى خَلْقِ أَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، وَ سِيْنِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيْعِ مَبْدُوْعَاتِكَ، وَ مِيْمِ مَمْلَكَتِكَ الْمُحِيْطَةِ بِمَعْلُوْمَاتِكَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ ۔

605 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ وُجُوْدِكَ، وَمَظْهَرِ جُوْدِكَ، وَخِزَانَةِ مَوْجُوْدِكَ ۔

606 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ حَضْرَةِ جَبَرُوْتِكَ الْمُصَلِّيْ فِيْ مِحْرَابِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى لِأَحَدِيَّةِ جَمْعِهٖ فَانْجَمَعَ بِكَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَجَمَعْتَهٗ عَلَيْكَ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ، وَ أَخْلَصْتَهٗ بِالسُّجُوْدِ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَجَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِهٖ فِي الصَّلَاةِ الْخَالِصَةِ لَدَيْكَ ۔

607 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۨالْمُخْتَصِّ بِأَبْكَارِ أَسْرَارِ الْإِخْتِرَاعِ وَالْإِبْتِدَاعِ، وَعُرْوَتِكَ الْوُثْقٰى، مِنْ حَيْثُ تَتَابُعِ الْأَتْبَاعِ، وَ حَبْلِكَ الْمُعْتَصِمِ عِنْدَ الضَّيْقِ وَ الْإِتِّسَاعِ، وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ لِلْهِدَايَةِ وَالْإِتِّبَاعِ ۔

608 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ، الْمُسْتَغْرِقِ فِیْ مُشَاهَدَةِ ذَاتِكَ، الْحَقِّ الْمُتَخَلِّقِ بِالْحَقِّ {اَحَقٌّ هُوَ ۚ قُلْ اِیْ وَرَبِّیْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ}۔

609 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مِنْهُ ابْتَدَأْتَ الْمَعْلُوْمَاتِ، وَ اِلَیْهِ جَعَلْتَ غَایَةَ الْغَایَاتِ، وَ بِهٖ اَقَمْتَ الْحُجَجَ عَلَی الْمَخْلُوْقَاتِ، فَهُوَ اَمِیْنُكَ خَازِنُ عِلْمِكَ حَامِلُ لِوَآءِ حَمْدِكَ مَعْدِنُ سِرِّكَ مَظْهَرُ عِزِّكَ نُقْطَةُ دَآئِرَةِ مُلْكِكَ وَ مُحِیْطُهٗ، وَ مُرَكَّبُهٗ وَ بَسِیْطُهٗ۔

610 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْفَرِدِ بِالْمَشْهَدِ الْاَعْلٰی، وَ الْمَوْرِدِ الْاَحْلٰی، وَ الطَّوْرِ الْاَجْلٰی، وَ النُّوْرِ الْاَسْمٰی، الْمُخْتَصِّ فِیْ حَضْرَةِ الْاَسْمَا، بِالْمَقَامِ الْاَسْنٰی، وَ النُّوْرِ الْاَبْهٰی وَ السِّرِّ الْاَحْمٰی۔

611 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّشْاَةِ الْحُبِّیَّةِ، وَ الشَّجَرَةِ الْعُلْوِیَّةِ، الثَّابِتِ اَصْلُهَا فِیْ مَعَادِنِ هَیْبَتِكَ، السَّامِیْ فَرْعُهَا فِیْ سُرَادِقَاتِ عَظَمَتِكَ۔

612 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ، الْمُنْذِرِ الْمُبَشِّرِ، الْمُكَبِّرِ الْمُطَهِّرِ، الْعَطُوْفِ الْحَلِیْمِ {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ}۔

613 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْبَارِزِ الْمَسْتُوْرِ، الْبَاهِرِ الْمَشْهُوْرِ، الَّذِیْ بَهَرْتَ بِهٖ كُلِّیَّةَ الْكَوْنَیْنِ، وَ طَرَّزْتَ بِهٖ حُلَّةَ الثَّقَلَیْنِ، وَ زَیَّنْتَ بِهٖ اَرْكَانَ عَرْشِكَ وَ مَلَآئِكَةَ قُدْسِكَ وَ اَدْنَیْتَهٗ مِنْ حَضْرَةِ جَبَرُوْتِكَ وَ جَعَلْتَهُ الْمُتَشَفِّعَ اِلَیْكَ فِیْ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَنْبِیَآئِكَ وَ رُسُلِكَ فَهُوَ بَابُ الرِّضَا، وَ الرَّسُوْلُ الْمُرْتَضٰی۔

614 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ حَقِیْقَةِ حَقِّكَ، وَ صَفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، الَّذِیْ بِنُوْرِهٖ حَمَلْتَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ بِسِرِّهٖ رَفَعْتَ سَمٰوَاتِكَ وَ بَسَطْتَ اَرْضَكَ فَهُوَ سَمَآءُ سَمَآئِكَ وَ غَیَابَةُ غُیُوْبِ اِحْسَانِكَ، وَ مَظْهَرُ عِزِّكَ وَ سُلْطَانِكَ۔

615 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ سِرَاجِ دِیْنِكَ وَ كَوْكَبِ یَقِیْنِكَ، وَ قَمَرِ تَوْحِیْدِكَ وَ شَمْسِ مُشَاهَدَةِ اِحْسَانِكَ، فِیْ جَمِیْعِ اَكْوَانِكَ، اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ، وَ سَیِّدِ كُلِّ مَسْوُدِنِ الَّذِیْ كَمُلَ بِهِ الْوُجُوْدُ، صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰی مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الشُّوْنِیْ

616 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ اَفْضَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، صَاحِبِ الْعَلَامَةِ وَ الْغَمَامَةِ، الْاَبْهٰی مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، عَبْدِكَ الَّذِیْ جَمَعْتَ بِهٖ شَتَاتَ النُّفُوْسِ وَ نَبِیِّكَ الَّذِیْ جَلَیْتَ بِهٖ ظَلَامَ الْقُلُوْبِ، وَ

حَبِيْبِكَ الَّذِىْ اخْتَرْتَهٗ عَلٰى كُلِّ حَبِيْبٍ۔

617 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَ بِالْحَقِّ الْمُبِيْنِ، وَاَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، النَّبِيِّ الْمَلِيْحِ، صَاحِبِ الْمَقَامِ الْاَعْلٰى وَاللِّسَانِ الْفَصِيْحِ۔

618 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ، الْمُطَاعِ الْاَمِيْنِ، عَيْنِ الْعِنَايَةِ، وَزَيْنِ الْقِيَامَةِ وَكَنْزِ الْهِدَايَةِ، وَطِرَازِ الْحُلَّةِ وَعَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ وَلِسَانِ الْحُجَّةِ وَشَفِيْعِ الْاُمَّةِ، وَاِمَامِ الْحَضْرَةِ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

اَلْوِرْدُ الرَّابِعُ
مِنْ صَلَوَاتِ الثَّنَآءِ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَنَآءُ اَبِى الْحَسَنِ الْبَكْرِىْ

619 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّلِكِ الْكَمَالَاتِ، وَقُطْبِ الْبِدَايَاتِ وَالنِّهَايَاتِ، وَسَيِّدِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ۔

620 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَلِفِ الْاِمَامَةِ، وَبَآءِ الْبَرَكَةِ، وَتَآءِ التَّمَامِ، ثَآءِ ثَمَرَةِ الْعِزِّ، وَجِيْمِ الْجَمَالِ، وَحَآءِ الْحَقِّ الْكَامِلِ، وَخَآءِ الْخُلُوْدِ الدَّآئِمِ، وَدَالِ الدَّيْمُوْمَةِ الْاَبَدِيَّةِ، وَذَالِ ذَمِّ الْاَغْيَارِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَرَآءِ الرِّفْعَةِ الْقُطْبِيَّةِ، وَزَايِ الزِّيْنَةِ الْجَمَالِيَّةِ، وَسِيْنِ السُّمُوِّ اِلَى الْمَعَارِفِ الْعَلِيَّةِ، وَشِيْنِ الشَّرَفِ الْاَكْبَرِ، وَصَادِ الصِّدْقِ الْاَنْوَرِ، وَضَادِ الضَّوْءِ اللَّامِعِ الْاَزْهَرِ، وَطَآءِ طُلُوْعِ شَمْسِ الْعِزِّ وَالْمَعْرِفَةِ، وَظَآءِ الظُّهُوْرِ فِىْ مَرَاتِبِ الْعِزِّ الْمُشَرَّفَةِ، وَعَيْنِ عِنَايَتِكَ الْاَزَلِيَّةِ الْاَبَدِيَّةِ، وَغَيْنِ الْغُفْرَانِ الْوَارِدِ مِنْ فَضْلِكَ وَرُتَبِ كَمَالِكَ الْبَهِيَّةِ، وَفَآءٍ وَقَافِ قَهْرِ الْمُخَالِفِ بِالْخَطِيْئَةِ الْقَوِيَّةِ، وَكَافِ كَمَالِكَ الْعَالِىْ، وَلَامِ لِقَآئِكَ الْغَالِىْ، وَمِيْمِ مَبْدَاِ الْاَشْيَآءِ ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا، وَّنُوْنِ نِهَايَاتِهَا سِرًّا وَّعَلَنًا وَّهَآءِ الْهُوِيَّةِ الْعُظْمٰى، وَوَاوِ وُرُوْدِ الْمَشْرَبِ الْاَسْمٰى، مَنْ لَّا نَظِيْرَ لَهٗ فِىْ خَلْقِكَ، وَلَا مُسَاوِىَ لَهٗ فِىْ حَضْرَةِ عِزِّكَ وَيَآءِ يُسْرِ الذِّكْرِ بِبَرَكَتِكَ ثُمَّ بِبَرَكَتِهٖ۔

621 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ اَفْلَاكِ الْعِزِّ وَسُلْطَانِ سُرَادِقَاتِ الْحِفْظِ وَرَئِيْسِ الْجِنَانِ، وَالشَّافِعِ مِنَ النِّيْرَانِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْاَوَّلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْجَبَّارِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الْمُهَيْمِنِ سَيِّدِ اَوْلِيَآئِكَ الْعَارِفِيْنَ، وَمَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَالْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، مَنْ لَّاحَ جَمَالُهٗ فِى الْقِدَمِ، وَاَشْرَقَ نُوْرُهٗ فِى الْوُجُوْدِ بِلَا عَدَمٍ، سَيِّدِ اَسْرَارِ الْمَلَكُوْتِ، وَالْعَالَمِ نِهَايَةِ الرَّغَبُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ،

مَنْ اَقَامَ الْحَقَّ وَ اَذَلَّ الطَّاغُوْتَ۔

622 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَتَمِّ، وَ فَضْلِكَ الْاَعَمِّ، قُطْبِ الْاَقْطَابِ، وَ مَلَاذِ الْاَحْبَابِ، الْوَالِجِ اِلَيْكَ مِنَ الْبَابِ، بَابِ الْخَيْرَاتِ، وَ مِفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ، شَمْسِ الْمَعَانِي الزَّاهِرَةِ، وَ سَيِّدِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ، مَنْ لَّمْ يَغِبْ عَنْ حَضْرَتِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَكَ مِنَ الزَّمَانِ وَ الْاَيْنِ، سَيِّدِ الدَّآلِّيْنَ عَلَيْكَ، الْمُوْصِلِيْنَ اِلَيْكَ۔

623 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ بَهْجَةِ الْاَسْرَارِ، الْعَالِمِ بِكَشْفِ الْاَسْتَارِ، السَّاتِرِ مِنْ وَّصْفِكَ الْغَفُوْرِ السَّتَّارِ، مَظْهَرِكَ التَّآمِّ، وَ عَيْنِ جُوْدِكَ الْعَآمِّ، سَيِّدِنَا الْاَكْمَلِ، وَ نُوْرِنَا الْاَفْضَلِ، خَيْرِ مَنْ سَبَقَ وَ لَحِقَ الْاٰخِرِ الْاَوَّلِ۔

624 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَآئِمِ النُّوْرِ، وَاضِحِ الظُّهُوْرِ، الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ، ذِى الْبَرَاهِيْنِ السَّاطِعَةِ، شَمْسِ الْعُلُوْمِ، وَ قَمَرِ جِلَآءِ الْغُمُوْمِ، سَيِّدِ الْاَطْفَالِ وَ الْكُهُوْلِ، وَ قُطْبِ دَوَآئِرِ الْعِزِّ الْمَقْبُوْلِ، مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ، وَ ذَلَّتْ لَهُ الْاَقْطَابُ، وَ دَرَجَ الرُّسُلُ تَحْتَ لِوَآئِهٖ، وَ نَالُوْا شَرَفَ كَمَالِهٖ وَ اِيْوَآئِهٖ۔

625 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَرْدِ الْاَفْرَادِ، وَ قُطْبِ الْاَقْطَابِ وَ وَتَدِ الْاَوْتَادِ، الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى، خَيْرِ مَنِ اتَّقٰى، مَنْ قَرُبَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، وَ لَاحَ مِنْ مَّظْهَرِ النُّوْرِ الْاَسْنٰى۔

626 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْحَضَرَاتِ الْكَامِلَةِ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ الرُّتَبِ الْفَاضِلَةِ، سِرَاجِ الْمِلَّةِ، وَ كَنْزِ الذُّخْرِ الْكَاشِفِ لِكُلِّ عِلَّةٍ، نِهَايَةِ اَعْمَالِ الْوَاصِلِيْنَ، وَ غَايَةِ رَغْبَةِ الرَّاغِبِيْنَ، مَنْ سَئَلَكَ بِهٖ اٰدَمُ فَنَجَا، وَ كُلُّ رُسُلِكَ اِلَيْهِ قَدِ الْتَجَا، الْحَبْلِ الْمُمْتَدِّ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ سَعِيْدِ السُّعَدَآءِ سَيِّدِ السَّادَاتِ، فَرْدِ الْاِحَاطَاتِ وَ الْكَمَالَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، رَوْضِ الْعِلْمِ الْخَصِيْبِ، وَ مَظْهَرِ سِرِّ الْقَوْلِ الْمُصِيْبِ۔

627 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ لَاحَ فِيْهِ وَ عَلَيْهِ كَلَامُكَ الْقَدِيْمُ، وَ ظَهَرَ فِيْهِ نُوْرُ سِرِّكَ الْعَظِيْمِ، مَنْ فَضَّلْتَ تُرْبَتَهٗ عَلَى الْعَرْشِ، وَ قَرَّبْتَهٗ مِنْ عِزِّكَ وَ قُدْسِكَ، وَ هُوَ نُوْرُكَ الْاَعْظَمُ، وَ جَمَالُكَ الْاَكْرَمُ، وَ كَمَالُكَ الْاَقْدَمُ، وَ صِرَاطُكَ الْاَقْوَمُ، مَنْ اَقْسَمْتَ بِعَمْرِهٖ لِعَظَمَتِهٖ، وَ شَرَّفْتَهٗ فِىْ ذٰلِكَ بِوَصْفِ سِيَادَتِهٖ، مَنْ اَفْرَدْتَهٗ لَكَ فَانْفَرَدَ، وَ وَحَّدْتَهٗ بِكَ فَتَوَحَّدَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

628 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، مُشْرِقِ الْبَوَاطِنِ وَ الظَّوَاهِرِ، الْمُفِيْضِ عَلَى الْوَارِدِيْنَ اِلَيْكَ، الْمُمِدِّ لِلْوَاصِلِيْنَ اِلٰى حَضْرَتِكَ، مَنْ مَّلَأَ نُوْرُهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا

بَيْنَهُمَا وَ اَحَاطَ بِعِلْمِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، وَ تَحَقَّقَ بِحَقَآئِقِ الْعِرْفَانِ وَ الْيَقِيْنِ، وَ تَمَّ قَبْلَ مَظَاهِرِ التَّكْوِيْنِ، وَ كَتَبْتَ اسْمَهٗ عَلٰى عَرْشِكَ قَبْلَ ظُهُوْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ۔

629 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِّهَايَةِ الْاَمْدَادِ وَ الْاِمْدَادِ، وَ كِفَايَةِ الْاِسْعَادِ، مَنِ اهْتَدَتْ بِهِ السَّآئِرُوْنَ، وَ اسْتَرْشَدَتْ بِهِ الْمُسْتَرْشِدُوْنَ، مَنْ رَّحِمْتَ الْعَالَمِ بِسَبَبِهٖ، وَ اَعْلَيْتَ الصِّدِّيْقِيْنَ بِهٖ لِشُهُوْدِ شَرِيْفِ رُتَبِهٖ، مَنْ اَحَقَّ الْحَقَّ وَ اَبْطَلَ الْبَاطِلَ، وَ شَقَقْتَ لَهٗ مِنِ اسْمِكَ لِيَنْفَرِدَ عَنِ الْاَوَاخِرِ وَ الْاَوَآئِلِ، اَحْمَدِ هٰذَا الْعَالَمِ الْكَبِيْرِ وَ الصَّغِيْرِ، وَ اَشْرَفِهٖ وَ اَجَلِّهٖ فِيْ سَآئِرِ التَّقَادِيْرِ، سَيِّدِ كُلِّ مَحْمُوْدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَ حَامِدٍ، اَجَلِّ مَنْ حَمِدَ وَ حُمِدَ وَ جَمَعَ الْمَحَامِدَ۔

630 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الذَّاتِ الْعُظْمٰى، مُكَمِّلَةِ اَهْلِ النُّوْرِ الْاَسْنٰى، قُطْبِ دَآئِرَةِ الْعَالَمِيْنَ، وَاسِطَةِ عِقْدِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، صَفْوَةِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ الدِّيْنِ، بُرْهَانِكَ الْقَاطِعِ، وَ نُوْرِكَ السَّاطِعِ، وَارِثِ الْخِلَافَةِ الْكُبْرٰى، وَ اِمَامِ الدُّنْيَا وَ الْاُخْرٰى، ذِى اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ، وَ السِّرِّ الْمَشْهُوْدِ، وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ الْمَمْدُوْدِ، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الْكَوْثَرِ الْجَارِىْ، وَ النُّوْرِ السَّارِىْ، مَلِكِ الْكَمَالَاتِ، وَ سُلْطَانِ الْبِدَايَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، اَحْمَدِ كُلِّ عَالَمٍ، وَّ مُحَمَّدِ كُلِّ مَقَامٍ مِّنْ خَلْقِ اٰدَمَ، جَامِعِ الْقُرْاٰنِ، الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ فِيْ كُلِّ اٰنٍ وَّ اَوَانٍ۔

631 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ الْمُهَيْمِنِ الْجَبَّارِ الْعَزِيْزِ الرَّؤُوْفِ السَّيِّدِ الْبَدْرِ مَنْ اَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ الدَّآئِمَةِ، وَ عِزَّتِهِ الْقَآئِمَةِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الشَّافِعِ، الْاَمِيْنِ عَلٰى اَسْرَارِكَ الْجَوَامِعِ، الْحَاشِرِ لِاَهْلِ الْخَيْرِ لِلْجِنَانِ، وَ لِاَهْلِ الشَّرِّ لِلنِّيْرَانِ، الَّذِىْ تَمَّ فِيْهِ مَظْهَرُكَ بِكُلِّ زَمَانٍ، الْقَآئِمِ بِكُلِّ مَقَامٍ ، بِكَمَالِ الْاِمْتِنَانِ، الْخَاتِمِ لِرُسُلِكَ الْكِرَامِ، الْمُحِيْطِ بِمَوَآدِّ الْاِنْعَامِ، الرَّسُوْلِ لِلظَّوَاهِرِ بِالْجَمَالِ الْبَشَرِيِّ، وَ الْاِشْرَاقِ الظُّهُوْرِيِّ، وَ لِلْبَوَاطِنِ بِالنُّوْرِ السَّنِيِّ، وَ الْعَيْشِ الْهَنِيِّ، الشَّاهِدِ عَلٰى كُلِّ رَسُوْلٍ، وَّ الْمُبَلِّغِ لِنِهَايَةِ السُّؤْلِ۔

632 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَهِدَكَ بِعَيْنِ رَاْسِهٖ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِذٰلِكَ تَمْيِيْزًا لَّهٗ فِيْ حَضْرَةِ قُدْسِهٖ، الضَّحُوْكِ لِلُطْفِهٖ وَ مَظْهَرِ اِمْتِنَانِهٖ، الْعَالِىْ بِاِشْرَاقِ نُوْرِكَ عَلٰى صَفَحَاتِ وَجْهِهٖ وَ ثَنَايَاهُ وَ لِسَانِهٖ، الْعَاقِبِ لِلرُّسُلِ الْكِرَامِ فِى الصُّوَرِ، الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِمْ بِالْمَكَانَةِ وَ الْمَكَانِ وَ الْمُفَصَّلِ وَ فَوَاتِحِ وَ خَوَاتِمِ السُّوَرِ، الْفَاتِحِ لِلْمُقْفَلَاتِ، الْقَآئِمِ بِحَلِّ الْمُعْضِلَاتِ، الْقَتَّالِ لِكُلِّ غَوِيٍّ، وَّ الْمُزِيْلِ لِكُلِّ دَنِيٍّ، اَلْقِسْمِ الَّذِىْ تَمَّ بِهٖ كُلُّ ظُهُوْرٍ، وَّ جَمَعَ كُلَّ نُوْرٍ۔

633 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَاحِىْ لِظَلَامِ الشِّرْكِ وَ الشُّكُوْكِ وَ الْاَوْهَامِ الْمُوْصِلِ لِدَارِ السَّلَامِ الْمُصْطَفٰى عَلٰى كُلِّ الْاَنَامِ، الْمُبَشِّرِ بِلِقَآءِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، وَ فَوَاتِحِ الْاِنْعَامِ وَ خَوَاتِمِ

الْاِسْلَامِ، مِنَ السَّلَامِ بِدَارِ السَّلَامِ، الْمُتَوَكِّلِ بِحَالِهٖ، الْمُظْهِرِ لِذٰلِكَ فِيْ مَقَالِهٖ، لِئَلَّا يَأْلَفَ الْخَلْقُ سِوَاكَ، وَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلَّا اِلَيْكَ، وَلَا يَعْتَمِدُوْنَ اِلَّا عَلَيْكَ، وَلَا يُؤَمِّلُوْنَ اِلَّا اِيَّاكَ، الْمُقَنَّعِ بِقِنَاعِ بَهَاۤءِ نُوْرِكَ، فِيْ مَعَالِيْ مَعَالِمِ ظُهُوْرِكَ۔

634 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الَّذِيْ اَنْبَأْتَهٗ بِكَ فَاَنْبَأَ عَنْكَ، النَّذِيْرِ لِمَنْ عَصَاكَ بِتَخْوِيْفِهٖ مِنْكَ بِكَ نَبِيِّ التَّوْبَةِ الَّتِيْ قَبِلْتَهَا مِنْ اُمَّتِهٖ بِلَا قَتْلٍ ظَاهِرٍ لِّلنُّفُوْسِ، مِنْ غَيْرِ مُشَقَّةٍ وَّلَا بُؤْسٍ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَ اِنْقَاذِ الْهَالِكِيْنَ، نَبِيِّ الْمَلَاحِمِ الْعُظْمٰى، وَ مَوَاقِعِ الْخَيْرِ الْاَهْمٰى، اَلَّذِيْ هَدَيْتَ بِهٖ مَنْ كَانَ عَنْهُ اَعْمٰى، وَ فَتَحْتَ بِهٖ آذَانًا صُمًّا، وَّ اَعْيُنًا عُمْيًا وَّ قُلُوْبًا غُلْفًا، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ مُحَمَّدُ الْبِكْرِيْ

635 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ الْاَسْنٰى، وَسِرِّكَ الْاَبْهٰى، وَحَبِيْبِكَ الْاَعْلٰى، وَ صَفِيِّكَ الْاَزْكٰى، وَاسِطَةِ اَهْلِ الْحُبِّ، وَ قِبْلَةِ اَهْلِ الْقُرْبِ، رُوْحِ الْمَشَاهِدِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، وَلَوْحِ الْاَسْرَارِ الْقَيُّوْمِيَّةِ، تَرْجُمَانِ الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ، لِسَانِ الْغَيْبِ الَّذِيْ لَا يُحِيْطُ بِهٖ اَحَدٌ، صُوْرَةِ الْحَقِيْقَةِ الْفَرْدَانِيَّةِ، وَ حَقِيْقَةِ الصُّوْرَةِ الْمُزَيَّنَةِ بِالْاَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ۔

636 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ اللّٰهِ الْمُخْتَصِّ بِالْعِبَارَةِ عَنْهُ، سِرِّ قَابِلِيَّةِ التَّهَيُّؤِ الْاِمْكَانِيِّ الْمُتَلَقِّيَةِ مِنْهُ، اَحْمَدِ مَنْ حَمِدَ وَ حُمِدَ عِنْدَ رَبِّهٖ، مُحَمَّدِ ِالْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ بِتَفْعِيْلِ التَّكْمِيْلِ الذَّاتِيِّ فِيْ مَرَاتِبِ قُرْبِهٖ، غَايَةِ طَرَفِيِ الدَّوْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْاَوَّلِ نَظَرًا وَّ اِمْدَادًا ۔ بِدَايَةِ نُقْطَةِ الْاِنْفِعَالِ الْوُجُوْدِيِّ اِرْشَادًا وَّاِسْعَادًا۔

637 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَمِيْنِ اللّٰهِ عَلٰى سِرِّ الْاُلُوْهِيَّةِ الْمُطَلْسَمِ، وَحَفِيْظِهٖ عَلٰى غَيْبِ اللَّاهُوْتِيَّةِ الْمُكَتَّمِ، مَنْ لَّا تُدْرِكُ الْعُقُوْلُ الْكَامِلَةُ مِنْهُ اِلَّا مِقْدَارَ مَا تَقُوْمُ عَلَيْهَا بِهٖ حُجَّتُهُ الْبَاهِرَةُ، وَلَا تَعْرِفُ النُّفُوْسُ الْعَرْشِيَّةُ مِنْ حَقِيْقَتِهٖ اِلَّا مَا يَتَعَرَّفُ لَهَا بِهٖ مِنْ لَّوَامِعِ اَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ۔

638 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّنْتَهٰى هِمَمِ الْقُدْسِيِّيْنَ، وَقَدْ بَدَوْا مِمَّا فَوْقَ عَالَمِ الطَّبَآئِعِ، مَرْمٰى اَبْصَارِ الْمُوَحِّدِيْنَ، وَ قَدْ طَمَحَتْ لِمُشَاهَدَةِ السِّرِّ الْجَامِعِ، مَنْ لَّا تُجَلّٰى اَشِعَّةُ اللّٰهِ لِقَلْبٍ اِلَّا مِنْ مِّرْآةِ سِرِّهٖ، وَ هِيَ النُّوْرُ الْمُطْلَقُ، وَلَا تُتْلٰى مَزَامِيْرُهٗ عَلٰى لِسَانٍ اِلَّا بِرَنَّاتِ ذِكْرِهٖ، وَ هُوَ الْوِتْرُ الشَّفْعِيُّ الْمُحَقَّقُ، الْمَحْكُوْمِ بِالْجَهْلِ عَلٰى كُلِّ مَنِ ادَّعٰى مَعْرِفَةَ اللّٰهِ مُجَرَّدَةً فِيْ نَفْسِ الْاَمْرِ عَنْ نَّفْسِهِ الْمُحَمَّدِيِّ، الْفَرْعِ الْحُدْثَانِيِّ الْمُتَرَعْرِعِ فِيْ نَمَآئِهٖ بِمَا يُمِدُّ بِهٖ كُلَّ اَصْلٍ اَبَدِيٍّ، جَنِيِّ شَجَرَةِ الْقِدَمِ، خُلَاصَةِ نُسْخَتَيِ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ، عَبْدِ اللّٰهِ، وَنِعْمَ الْعَبْدُ الَّذِيْ بِهٖ كَمَالُ الْكَمَالِ، وَعَابِدِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلَا حُلُوْلٍ وَّلَا اِتِّحَادٍ وَّلَا اِتِّصَالٍ

وَّلَا انْفِصَالٍ۔

639 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الدَّاعِيْ اِلَى اللهِ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ نَّبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَمُمِدِّ الرُّسُلِ بِجَمَالِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِخْتِصَاصِيَّةِ، وَجَلَالِ التَّدَلِّيَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْبَاطِنِ بِكَ فِيْ غَيَابَاتِ الْعِزِّ الْاَكْبَرِ، الظَّاهِرِ بِنُوْرِكَ فِيْ مَشَارِقِ الْمَجْدِ الْاَفْخَرِ۔

640 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَزِيْزِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ، وَسُلْطَانِ الْمَمْلَكَةِ الْاَحَدِيَّةِ، عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ كَمَا هُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ كَآفَّةِ اَسْمَآئِكَ وَصِفَاتِكَ، مُسْتَوٰى تَجَلِّيْ عَظَمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَحُكْمِكَ فِيْ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

641 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ كَحَلْتَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ مُقْلَتَهٗ فَرَاٰى ذَاتَكَ الْعَلِيَّةَ جِهَارًا، وَّسَتَرْتَ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فِيْ بَاطِنِهٖ لَكَ اَسْرَارًا، وَّفَلَقْتَ بِكَلِمَةِ خُصُوْصِيَّتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِحَارَ الْجَمْعِ، وَمَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَجَمَالِكَ وَخِطَابِكَ الْقَلْبَ وَالْبَصَرَ وَالسَّمْعَ، وَاَخَّرْتَ عَنْ مَّقَامِهٖ تَأْخِيْرًا ذَاتِيًّا كُلَّ اَحَدٍ، وَّجَعَلْتَهٗ بِحُكْمِ اَحَدِيَّتِكَ وِتْرَ الْعَدَدِ۔

642 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّوَآءِ عِزَّتِكَ الْخَافِقِ، وَلِسَانِ حِكْمَتِكَ النَّاطِقِ، دَآئِرَةِ الْاِحَاطَةِ الْعُظْمٰى، وَمَرْكَزِ مُحِيْطِ الْفَلَكِ الْاَسْمٰى۔

643 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عُلُوْمِكَ بِمَا لَمْ تُهَيِّئْ لَهٗ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ، سُلْطَانِ مَمَالِكِ الْعِزَّةِ بِكَ فِيْ كَآفَّةِ بِلَادِكَ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ الَّذِيْ تَلَاطَمَتْ بِرِيَاحِ التَّعَيُّنِ الصَّمَدَانِيِّ اَمْوَاجُهٗ، قَآئِدِ جَيْشِ النُّبُوَّةِ الَّذِيْ تَسَارَعَتْ بِكَ اِلَيْكَ اَفْوَاجُهٗ۔

644 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْفَتِكَ عَلٰى كَآفَّةِ خَلِيْقَتِكَ، اَمِيْنِكَ عَلٰى جَمِيْعِ بَرِيَّتِكَ، مَنْ غَايَةُ الْمُجِدِّ الْمُجِيْدِ فِي الثَّنَآءِ عَلَيْهِ الْاِعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ عَنِ اكْتِنَاهِ صِفَاتِهٖ، وَنِهَايَةِ الْبَلِيْغِ الْمُبَالِغِ اَنْ لَّا يَصِلَ اِلٰى مَبَالِغِ الْحَمْدِ عَلٰى مَكَارِمِهٖ وَهِبَاتِهٖ، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَّكَ عَلَيْهِ سِيَادَةٌ، مُحَمَّدِكَ الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنَ الْحَمْدِ بِكَ لَكَ اِصْدَارَهٗ وَاِيْرَادَهٗ۔

645 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّيِّرِ هِدَايَتِكَ الْاَعْظَمِ، وَسِرِّ اِرَادَتِكَ الْمَكْنُوْنِ مِنْ نُّوْرِكَ الْمُطَلْسَمِ، مُخْتَارِكَ مِنْكَ لَكَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَّنُوْرِكَ الْمُجَرَّدِ بَيْنَ مَسَالِكِ اللُّقِيِّ۔

646 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَنْزِكَ الَّذِيْ لَمْ يُحِطْ بِهٖ سِوَاكَ، وَاَشْرَفِ خَلْقِكَ الَّذِيْ بِحُكْمِ اِرَادَتِكَ كَوَّنْتَ مِنْ نُّوْرِهٖ اَجْرَامَ الْاَفْلَاكِ وَهَيَاكِلَ الْاَمْلَاكِ، فَطَافَتْ بِهِ الصَّآفُّوْنَ حَوْلَ عَرْشِكَ

تَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا، وَّاَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ {اِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}۔

647 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ نَشَرْتَ فَوْقَ هَامَتِهٖ فِيْ تَخْتِ مُلْكِكَ لِوَآءَ حَمْدِكَ، وَقَدَّمْتَهٗ عَلٰى صَنَادِيْدِ جُيُوْشِ سُلْطَانِكَ بِقُوَّةِ عَزْمِكَ، وَاَخَذْتَ لَهٗ عَلٰٓى اَصْفِيَآئِكَ بِالْحَقِّ مِيْثَاقَكَ الْاَوَّلَ، وَقَرَّبْتَهٗ بِكَ وَمِنْكَ وَلَكَ وَجَعَلْتَ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلَ، وَمَتَّعْتَهٗ بِجَمَالِكَ فِيْ مَظْهَرِ التَّجَلِّيْ، وَخَصَّصْتَهٗ بِقَابِ قَوْسَيْنِ قُرْبِ الدُّنُوِّ وَالتَّدَلِّيْ، وَزَجَّيْتَ بِهٖ فِيْ نُوْرِ اُلُوْهِيَّتِكَ الْعُظْمٰى، وَعَرَّفْتَ بِهٖ اٰدَمَ حَقَآئِقَ الْحُرُوْفِ وَالْاَسْمَا، فَمَا عَرَفَكَ مَنْ عَرَفَكَ اِلَّا بِهٖ، وَمَا وَصَلَ مَنْ وَّصَلَ اِلَيْكَ اِلَّا مَنِ اتَّصَلَ بِسَبَبِهٖ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

648 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ خَلِيْفَتِكَ بِمَحْضِ الْكَرَمِ عَلٰى سَآئِرِ مَخْلُوْقَاتِكَ، سَيِّدِ اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمٰوَاتِكَ، خَصِيْصِ حَضْرَتِكَ بِخَصَآئِصِ نَعْمَآئِكَ وَفُيُوْضَاتِ اٰلَآئِكَ، اَعْظَمِ مَنْعُوْتٍ اَقْسَمْتَ بِعُمْرِهٖ فِيْ كِتَابِكَ، وَفَضَّلْتَهٗ بِمَا فَضَّلْتَ بِهٖ مِنْ اَسْرَارِ خِطَابِكَ۔

649 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ فَتَحْتَ بِهٖ اَقْفَالَ اَبْوَابِ سَابِقِ النُّبُوَّةِ وَالْجَلَالَةِ، وَخَتَمْتَ بِهٖ دَوْرَ دَوَآئِرِ مَظَاهِرِ الرِّسَالَةِ، وَرَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ وَسَيَّدْتَّهٗ بِنِسْبَةِ الْعُبُوْدِيَّةِ اِلَيْكَ فَخَضَعَ لِاَمْرِكَ، وَشَيَّدْتَّ بِهٖ قَوَآئِمَ عَرْشِكَ الْمَحُوْطِ بِحِيْطَتِكَ الْكُبْرٰى، وَمَنْطَقْتَهٗ بِمِنْطَقَةِ الْعِزِّ فَمَنْطَقَ بِعِزِّهٖ اَهْلَ الدُّنْيَا وَالْاُخْرٰى، وَاَلْبَسْتَهٗ مِنْ سُرَادِقَاتِ جَلَالِكَ اَشْرَفَ حُلَّةٍ، وَّتَوَّجْتَهٗ بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ۔

650 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ نَّبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، الْمَبْعُوْثِ بِاَمْرِكَ اِلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، بَحْرِ فَيْضِكَ الْمُتَلَاطِمِ بِاَمْوَاجِ الْاَسْرَارِ، وَسَيْفِ عَزْمِكَ الْقَاهِرِ الْحَاسِمِ لِحِزْبِ الْكُفْرِ وَالْبَغْيِ وَالْاِنْكَارِ، اَحْمَدِكَ الْمَحْمُوْدِ بِلِسَانِ التَّكْرِيْمِ، مُحَمَّدِكَ الْحَاشِرِ الْعَاقِبِ الْمُسَمّٰى بِالرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ۔

651 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَمَالِ الْاَنْفَسِ، وَالنُّوْرِ الْاَقْدَسِ، وَالْحَبِيْبِ مِنْ حَيْثُ الْهُوِيَّةُ، وَالْمُرَادَ فِي اللَّاهُوْتِيَّةِ، مُتَرْجِمِ كِتَابِ الْاَزَلِ، وَالْمُتَعَالِيْ بِالْحَقِيْقَةِ عَنْ حَقِيْقَةِ الْاَثَرِ حَتّٰى كَاَنَّهٗ الْمَثَلُ، الْجِنْسِ الْاَعْلٰى، وَالْمَخْصُوْصِ الْاَوْلٰى، وَالْحِكْمَةِ السَّارِيَةِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، وَّالْحِكْمَةِ الْكَابِحَةِ لِكُلِّ كَنُوْدٍ۔

652 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ رُّوْحِ صُوَرِ الْاَسْرَارِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، وَلَوْحِ نُقُوْشِ الْعُلُوْمِ الْاَحَدِيَّةِ، مُحَمَّدِكَ وَاَحْمَدِكَ وِتْرِ الْعَدَدِ، وَلِسَانِ الْاَبَدِ، الْعَرْشِ الْقَآئِمِ بِتَحَمُّلِ كَلِمَةِ الْاِسْتِوَآءِ الذَّاتِيِّ فَلَا عَارِضَ، الْمُتَجَلِّيْ بِسُلْطَانِ قَهْرِكَ عَلٰى ظُلَلِ ظُلَمِ الْاَغْيَارِ لِمَحْقِ كُلِّ مُعَارِضٍ، اَلنُّقْطَةِ الَّتِيْ عَلَيْهَا

مَدَارُ حُرُوْفِ الْمَوْجُوْدَاتِ بِجَمِيْعِ الْاِعْتِبَارَاتِ، الصَّاعِدِ فِيْ مَعَارِجِ الْقُدْسِ حَتّٰى لَا يُدْرَكُ كُنْهُهٗ وَلَا الْاِشَارَاتُ۔

653 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبِيْدِ، وَاِمَامِ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ، وَنُقْطَةِ دَوَآئِرِ الْمَزِيْدِ، لَوْحِ الْاَسْرَارِ، وَنُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَمَلَاذِ اَهْلِ الْاَعْصَارِ۔

654 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَطِيْبِ مَنَابِرِ الْاَبَدِ بِلِسَانِ الْاَزَلِ، وَمَظْهَرِ اَنْوَارِ اللَّاهُوْتِ فِيْ نَاسُوْتِ الْمَثَلِ، الْقَآئِمِ بِكُلِّ حَقِيْقَةٍ سَرَيَانًا وَّتَحْكِيْمًا، الْوَاسِعِ لِتَنَزُّلَاتِ الرِّضَا تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا، مَالِكِ اَزِمَّةِ الْاَمْرِ الْاِلٰهِيِّ تَهَيُّؤًا وَّاِسْتِعْدَادًا، سَالِكِ مَسَالِكِ الْعُبُوْدِيَّةِ اِمْدَادًا وَّاِسْتِمْدَادًا، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

655 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ جُنُوْدِ الْمَظَاهِرِ الْكَمَالِيَّةِ، شَمْسِ اٰفَاقِ الْمَشَاهِدِ الْجَمَالِيَّةِ، الْمُصَلِّيْ لَكَ بِكَ عِنْدَكَ فِيْ جَوَامِعِ اَسْمَآئِكَ وَصِفَاتِكَ، الْمُحَلّٰى بِزَوَاهِرِ جَوَاهِرِ اِخْتِصَاصَاتِ اَوْلِيَآءِ حَضَرَاتِكَ۔

656 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْوِتْرِ الْمُطْلَقِ فِيْ حَقِّ نُبُوَّتِهٖ عَنِ الْاَشْبَاهِ وَالنَّظَآئِرِ، الْفَرْدِ الْمُقَدَّسِ سِرِّ مُحَمَّدِيَّتِهٖ عَنْ مُّدَانَاةِ مَقَامِهٖ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، الْاَبِ الرَّحِيْمِ، وَالسَّيِّدِ الْعَلِيْمِ، مَاحِيْ ظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ بِشُعَاعِ الْحَقِّ وَالْيَقِيْنِ، قَاطِعِ شُبُهَاتِ التَّمْوِيْهِ الشَّيْطَانِيِّ بِقَاهِرِ بَاهِرِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ۔

657 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الشَّافِعِ الْاَعْظَمِ، وَالْمُشَفَّعِ الْاَكْرَمِ، وَالصِّرَاطِ الْاَقْوَمِ، وَالذِّكْرِ الْمُحْكَمِ، وَالْحَبِيْبِ الْاَخَصِّ، وَالدَّلِيْلِ الْاَنَصِّ، الْمُتَجَلِّيْ بِمَلَابِسِ الْحَقَآئِقِ الْفَرْدَانِيَّةِ، الْمُتَمَيِّزِ بِصَفْوَةِ الشُّؤُوْنِ الرَّبَّانِيَّةِ، الْحَافِظِ عَلَى الْاَشْيَآءِ قُوَاهَا بِقُوَّتِكَ، الْمُمِدِّ لِذَرَّاتِ الْكَآئِنَاتِ بِمَا بِهٖ بَرَزَتْ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ بِقُدْرَتِكَ۔

658 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَعْبَةِ الْاِخْتِصَاصِ الرَّحْمَانِيِّ، مَحَجِّ التَّعَيُّنِ الصَّمَدَانِيِّ، قَيُّوْمِ الْمَعَاهِدِ الَّتِيْ سَجَدَتْ لَهَا جِبَاهُ الْعُقُوْلِ، اُقْنُوْمِ الْوَحْدَةِ وَلَا اُقْنُوْمَ وَاِنَّمَا نُوْرُكَ بِنُوْرِكَ مَوْصُوْلٌ۔

659 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَنْ اَظْهَرْتَ وَسَتَرْتَ مِنْ خَلْقِكَ الْكِرَامِ، وَاَكْمَلِ مَا اَبْدَيْتَ وَاَخْفَيْتَ مِنْ مَّخْلُوْقَاتِكَ الْعِظَامِ، مُنْتَهٰى كَمَالِ النُّقْطَةِ الْمَفْرُوْضَةِ فِيْ دَوَآئِرِ الْاِنْفِعَالِ، وَمَبْدَاِ مَا يَصِحُّ اَنْ يَّشْمَلَهُ اسْمُ الْوُجُوْدِ الْقَابِلِ لِتَنَوُّعَاتِ الْقَضَآءِ وَالْقَدَرِ فِي الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ۔

660 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ظِلِّكَ الْوَارِفِ عَلٰى مَمَالِكِ حِيْطَتِكَ الْاِلٰهِيَّةِ، وَفَضْلِكَ الذَّارِفِ عَلٰى مَا سِوَاكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ اَنْتَ بِمَا شِئْتَ مِنْ فُيُوْضَاتِ الْعَلِيَّةِ، سَرِيْرِ الْاِسْتِوَآءِ الْمَعْنَوِيِّ،

وَ سِرِّ سَرَآئِرِ الْكَنْزِ الْاَحَدِيِّ الصَّمَدِيِّ، شَامِلِ الدَّعْوَةِ لِلْعَالَمِ تَفْصِيلًا وَّ اِجْمَالًا، اَكْمَلِ خَلْقِكَ تَفْضِيلًا وَّ جَمَالًا۔

661 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ بِهٖ اَقَلْتَ الْعَثَرَاتِ، وَ لِاَجْلِهٖ غَفَرْتَ الزَّلَّاتِ، وَ بِفَضْلِهٖ عَمَّرْتَ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوٰتِ، وَ بِذِكْرِهٖ عَمَّرْتَ شَرَآئِفَ الْمَقَامَاتِ، وَ لَهٗ اَخْدَمْتَ الْمَلَاَ الْاَعْلٰى، وَ عَلَيْهِ اَثْنَيْتَ فِي الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى، وَ مِمَّآ اَوْدَعْتَ فِيْ كَنْزِهٖ اَنْفَقْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ مَمْلُوْءٌ عَلٰى حَالِهٖ، وَ بِمَآ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ وَ حَقَّقْتَهٗ فِيْهِ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى جَمِيْعِ خَوَآصِّ مَقَامِكَ الْاَقْدَسِ وَ مُلُوْكِ كَمَالِهٖ۔

662 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ، وَ حَبِيْبِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ نَجِيِّكَ وَ مُجْتَبَاكَ وَ مُرْتَضَاكَ، وَ الْقَآئِمِ بِاَعْبَآءِ دَعْوَتِكَ، وَ النَّاطِقِ بِلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ الْهَادِيْ بِكَ اِلَيْكَ وَ الدَّاعِيْ بِاِذْنِكَ لِمَا يَدَيْكَ۔

663 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، النَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَ الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

664 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاحِدِ عَوَالِمِ الْقُدُّوْسِيَّةِ الْاَكْرَمِ نُوْرَانِيِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ، صَمَدَانِيِّ الْوِجْهَةِ بِكَ اِلَيْكَ فِي الْمَآرِبِ وَ الْمَطَالِبِ، لَوْحِ نُقُوْشِ سِرِّكَ الْمُحِيْطِ الْجَامِعِ، رُوْحِ هَيَاكِلِ اَمْرِكَ اللَّدُنِّيِّ الْوَاسِعِ، لِسَانِ اِحْسَانِكَ فِي الْاَزَلِ الْمُفِيْضِ لِكُلِّ مَا شِئْتَ، خِزَانَةِ رُتْبَةِ الْاَبَدِ الْمُمِدَّةِ لِكُلِّ مَآ اَرَدْتَ۔

665 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَوَّلِ الْقَابِلِ لِاَنْوَاعِ تَعَيُّنَاتِكَ الْعَلِيَّةِ، عَلٰى اِخْتِلَافِ شُؤُوْنِهَا، الْاٰخِرِ الْخَاتِمِ عَلٰى كُنُوْزِ اِمْدَادَاتِكَ الزَّكِيَّةِ، فِيْ ظُهُوْرِهَا وَ بُطُوْنِهَا، الْعَبْدِ الْقَآئِمِ بِسِرِّ الْغَيْبِ وَ الْاِحَاطَةِ لِغَايَاتِ الْوَصْلِ، النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ اِلٰى عَيْنِ الذَّاتِ وَلَا كَيْفَ وَلَا مِثْلَ۔

666 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَاتِحَةِ كِتَابِ الْهَيْآتِ وَ الصِّفَاتِ وَ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، سِرِّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّآئِمَاتِ، الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ، الَّذِيْ عِنْدَهُ الْمَطْلُوْبُ۔

667 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ اَنْبِيَآئِكَ، وَ تَاجِ اَوْلِيَآئِكَ، وَ سِرِّ اَهْلِ وَفَآئِكَ، الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ، الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، دَعْوَةِ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ، وَ بُشْرٰى اَخِيْهِ عِيْسٰى وَ الْمُنَوَّهِ بِاسْمِهٖ فِيْ تَوْرَاةِ مُوْسَى الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ، الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، ذِي الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَ الْعِصْمَةِ۔

668 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ، شَفِیْعِ الْمُذْنِبِیْنَ، نُوْرِكَ السَّاطِعِ، سَیْفِ حُجَّتِكَ اللَّامِعِ الْقَاطِعِ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰی، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الْوَسِیْلَةِ فِی الْمَحَلِّ الْاَسْمٰی، وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، الشَّاهِدِ الشَّهِیْدِ لِلْاَنْبِیَآءِ وَ عَلَی الْاُمَمِ خَیْرِ دَلِیْلٍ، اَلْهَادِیْ بِنُوْرِكَ الْمَجِیْدِ اِلٰی اَشْرَفِ سَبِیْلٍ۔

669 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ اسْتُسْقِیَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ فَهَمَعَ، وَ انْشَقَّ لِهَیْبَتِهٖ قَمَرُ السَّمَآءِ ثُمَّ اجْتَمَعَ، وَ عَادَ لَهٗ نُوْرُ الشَّمْسِ الْمُشْرِقَةِ بَعْدَ الْاُفُوْلِ وَ رَجَعَ، وَ انْفَجَرَ الْمَآءُ الْمُنْهَمِرُ مِنْ اَصَابِعِهٖ وَ هَمَعَ، وَ سَجَدَ الْبَعِیْرُ لِهَیْبَتِهٖ، وَ سَكَنَ ثَبِیْرٌ لِّرَكْضَتِهٖ، وَ حَنَّ الْجِذْعُ حَنِیْنَ الْعِشَارِ لِفُرْقَتِهٖ، وَ اَیَّدْتَهٗ بِرُوْحِ قُدُسِكَ، وَ حَقَّقْتَهٗ بِحَقَآئِقِ مَعْرِفَتِكَ وَ اُنْسِكَ۔

670 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الصَّادِعِ بِالْحَقِّ، النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ، الْمَنْصُوْرِ بِالرُّعْبِ، الْمَمْلُوْءِ قَلْبُهٗ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ الْاِیْمَانِ وَ الْعِرْفَانِ وَ الْحُبِّ۔

671 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ رَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ، وَ اَقَمْتَهٗ فِیْ مِحْرَابِ الْعُبُوْدِیَّةِ وَ الرِّسَالَةِ مُطِیْعًا لِّاَمْرِكَ، مُعْتَرِفًا لَّكَ بِعَظِیْمِ قَدْرِكَ، وَ اَقْسَمْتَ بِهٖ فِیْ كِتَابِكَ، وَ فَضَّلْتَهٗ بِمَا فَضَّلْتَهٗ عَلَیْهِ مِنْ اَنْوَاعِ خِطَابِكَ، وَ خَلَقْتَ نُوْرَ ذَاتِهٖ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ الْعُظْمٰی، وَ زَجَّجْتَ بِهٖ فِیْ غَیْبِ لَاهُوْتِ سِرِّكَ الْاَسْمٰی، وَ ثَبَتَ لَهٗ فِی الْخِلَافَةِ عَنْكَ حَیْثُ اَنْتَ قَدَمًا، وَّ نَشَرْتَ لَهٗ بِوِرَاثَةِ اسْمِكَ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ فِی الْكَوْنَیْنِ عَلَمًا، وَّ حَقَّقْتَهٗ بِكَ فِیْ مَظَاهِرِ {وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی} وَ جَعَلْتَ بَیْعَتَهٗ عَیْنَ بَیْعَتِكَ، وَ اَنْطَقْتَ لِسَانَهٗ بِحُجَّتِكَ۔

672 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اُفُقِ اَنْوَارِكَ، وَ بَحْرِ اَسْرَارِكَ، قَآئِدِ جُیُوْشِ الْهِدَایَةِ اِلَیْكَ، سَیِّدِنَا وَ سَیِّدِ كُلِّ مَنْ اَرْشَدَ بِكَ عَلَیْكَ، حَبِیْبِكَ الْاَكْرَمِ، وَ رَسُوْلِكَ الْاَعْظَمِ، مُحَمَّدِكَ الْمَحْمُوْدِ فِیْ ذَاتِهٖ وَ صِفَاتِهٖ، مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُوْدَ لِاَجْلِ ذَاتِهٖ، وَ عَمَّرْتَ الْاَكْوَانَ بِبَرَكَاتِهٖ، صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰی مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ زَیْنِ الْعَابِدِیْنَ الْبِكْرِیْ

673 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِیِّكَ الْاَكْرَمِ، وَ رَسُوْلِكَ الْاَعْظَمِ، نُوْرِكَ الْبَدِیْعِ، وَ سِرِّكَ الرَّفِیْعِ، وَ حَبِیْبِكَ الشَّفِیْعِ، وَ اسِطَةِ عِقْدِ النَّبِیِّیْنَ، وَ قِبْلَةِ اَوْلِیَآئِكَ وَ اَصْفِیَآئِكَ الْمُقَرَّبِیْنَ، رُوْحِ اَرْوَاحِ الْمَوْجُوْدَاتِ، وَ لَوْحِ الْاَسْرَارِ الْمَنْقُوْشِ بِاَنْوَارِ التَّجَلِّیَاتِ، النَّاطِقِ بِكَ عَنْكَ اَزَلًا وَّ اَبَدًا، لِسَانِ حُجَّتِكَ الَّذِیْ اَبْدٰی مِنَ الْحَقِّ طَرَآئِقَ قِدَدًا۔

674 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ جَمَالِكَ الْمُطْلَقِ، وَ بَرْقِ اُفُقِ اَسْرَارِكَ الَّذِىْ لَاحَ وَ اَشْرَقَ، اَحْمَدِكَ مَنْ حَمِدَكَ وَ حَمِدْتَهٗ، مُحَمَّدِكَ الَّذِىْ لِحَمْدِهٖ لَكَ وَ حَمْدِكَ لَهٗ اصْطَفَيْتَهٗ وَ اخْتَرْتَهٗ۔

675 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بِدَايَتُهٗ مَرْمٰى اَبْصَارِ السُّبَّاقِ، وَ غَايَتُهٗ لَا يُدْرَكُ لَهَا حَدٌّ وَّلَا يُرَامُ لَحَاقٌ، خَلِيْفَتِكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ عَلٰى كَآفَّةِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَ مُخْتَارِكَ اَنْتَ لِحِفْظِ اَمَانَتِكَ عَلٰى جُمْلَةِ بَرِيَّاتِكَ، الْهَادِىْ بِكَ اِلَيْكَ، وَ الْمُرْشِدِ بِفَضْلِكَ عَلَيْكَ۔

676 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بَدْرِ هَالَةِ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ، وَ شَمْسِ بُرُوْجِ الْعِزَّةِ بِكَ وَ الْجَلَالَةِ، مَنْ اَخَذْتَ الْمِيْثَاقَ مِنْ اَنْبِيَآئِكَ عَلٰى تَصْدِيْقِهٖ وَ نُصْرَتِهٖ، وَ اَقَرَّ كُلٌّ مِّنْهُمْ بِذٰلِكَ وَ قَرَّرَهٗ وَ بَيَّنَهٗ لِاُمَّتِهٖ، مَنْ شَرَحْتَ صَدْرَهٗ وَ مَلَأْتَهٗ حِكْمَةً وَّ اِيْمَانًا، وَّ وَضَعْتَ وِزْرَهُ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَهٗ وَ اَبْدَلْتَهٗ رَحْمَةً وَّ غُفْرَانًا، وَّ رَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ، وَ اَقَمْتَهٗ فِىْ مِحْرَابِ الْعُبُوْدِيَّةِ لَكَ مُطِيْعًا لِّاَمْرِكَ، نَاطِقًا م بِحَمْدِكَ وَ مَدْحِكَ وَ شُكْرِكَ۔

677 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عَطَآئِكَ وَ نَعْمَآئِكَ بِمَا لَا عَيْنٌ رَّاَتْ وَ لَآ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ، مَنْ مَّتَّعْتَ بِمَعْرِفَتِكَ وَ خِطَابِكَ وَ جَمَالِكَ مِنْهُ الْقَلْبَ وَ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ، سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ عَرْشِ اَحَدِيَّتِكَ الْاَوْسَعِ، الْقَآئِمِ بِسِرِّ الْخِلَافَةِ عَنْكَ الْمَقَامَ الْاَبْدَعَ الْاَرْفَعَ، مَنِ اسْتَنَارَ بِاَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ الصَّمَدَانِيَّةِ وُجُوْدُهٗ، وَ اسْتَدَارَ عَلٰى دَوَآئِرِ التَّعَيُّنَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ عُهُوْدُهٗ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ عَلِيِّ الْاَنْصَارِيِّ

678 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَصْنُوْعَاتِكَ، وَ اَجَلِّ مَظَاهِرِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ اَكْمَلِ مُتَخَلِّقٍ م بِحَقَآئِقِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ اَعْظَمِ مُتَحَقِّقٍ م بِدَقَآئِقِ مُشَاهَدَاتِ ذَاتِكَ اَشْرَفِ نَوْعِ الْاِنْسَانِ، وَ اِنْسَانِ عُيُوْنِ الْاَعْيَانِ، وَ الْمُسْتَخْلَصِ مِنْ خَالِصَةِ خُلَاصَةِ وَلَدِ عَدْنَانَ، الْمَمْنُوْحِ بِبَدِيْعِ الْاٰيَاتِ، وَ الْمَخْصُوْصِ بِعُمُوْمِ الرِّسَالَةِ وَ غَرَآئِبِ الْمُعْجِزَاتِ۔

679 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السِّرِّ الْجَامِعِ الْفُرْقَانِيِّ، الْمَخْصُوْصِ بِمَوَاهِبِ الْقُرْبِ مِنَ النَّوْعِ الْاِنْسَانِيِّ، مَوْرِدِ الْحَقَآئِقِ الْاَزَلِيَّةِ وَ مَصْدَرِهَا، وَ جَامِعِ جَوَامِعِ مُفْرَدَاتِهَا وَ مِنْبَرِهَا، وَ خَطِيْبِهَا وَ مُرْشِدِهَآ اِذَا حَضَرَ فِىْ حَضَآئِرِهَا۔

680 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بَيْتِ اللهِ الْمَعْمُوْرِ الَّذِىْ اتَّخَذَهٗ لِنَفْسِهٖ، وَ جَعَلَهٗ نَاظِمًا لِّحَقَآئِقِ قُدْسِهٖ، مُدَّةِ مِدَادِ نُقْطَةِ الْاَكْوَانِ، وَ مَنْبَعِ يَنَابِيْعِ الْحِكَمِ وَ الْعِرْفَانِ، مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الْاَنْبِيَآءَ، وَ

وَرَّثَتْ عُلُوْمِهٖ لِلْاَصْفِيَآءِ، سَيِّدِ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، الَّذِىْ جَاهَدَ فِيْكَ حَقَّ الْجِهَادِ حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ اَبِىْ سَلْعَةَ الْخَلْوَتِىْ

681 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا، وَ سِرِّ اَسْرَارِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَ مَا حَوَاهُمَا، الْمَنْعُوْتِ بِالْحَقِّ، وَ الْمُصْطَفٰى مِنَ الْخَلْقِ، مَظْهَرِ جُمْلَةِ الْاَسْمَا، مِرْاٰةِ وَجْهِ الْمُسَمّٰى، حَامِلِ لِوَآءِ الْاَمَانَةِ، الْمَوْصُوْفِ بِالصِّدْقِ وَ الصِّيَانَةِ، حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى، وَ رَسُوْلِكَ الْمُنَبَّا، الْقَآئِمِ بِحَمْدِكَ اَبَدًا، وَّ الْمَحْمُوْدِ بِمَدْحِكَ سَرْمَدًا۔

682 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اُنْمُوْذَجِ الْحَقَآئِقِ الْعَلِيَّةِ، وَ مَجْلَى التَّعَيُّنَاتِ الثُّبُوْتِيَّةِ، وَ مُحْتَدِ الْهَيُوْلَاتِ الْاِمْكَانِيَّةِ، وَ رُوْحِ الْاَرْوَاحِ الْاَكْوَانِيَّةِ، وَ جَوْهَرِ الطَّبِيْعَةِ الْكُلِّيَّةِ الْعُنْصُرِيَّةِ، مَظْهَرِ اللَّاهُوْتِ الْغَيْبِيِّ، وَ سِرِّ النَّاسُوْتِ الْعَيْنِيِّ، حَامِلِ اللِّوَآءِ، وَ الْقَآئِمِ بِجَمِيْعِ الْاٰلَآءِ۔

683 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّقْطَةِ بِيْكَارِ دَآئِرَةِ الْاَكْوَانِ، وَ مَجْلٰى حَقَآئِقِ وَ دَقَآئِقِ الْاَزْمَانِ، الْمُتَخَلِّقِ وَ الْمُتَحَقِّقِ بِجَمِيْعِ كَلِمَاتِ الْقُرْاٰنِ، وَ الْمُخَاطَبِ بِجَمِيْعِ مَعَانِى الْعِرْفَانِ، الْعَلِيْمِ بِحَقِيْقَةِ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْاَكْوَانِ، عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ وَ الْاَزْمَانِ، حَامِلِ لِوَآءِ حَمْدِ الرَّحْمٰنِ، وَ الْمَخْصُوْصِ بِشَفَاعَةِ فَصْلِ الْقَضَآءِ لِلْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، مَنْ يَّقُوْلُ اَنَا لَهَا فَيُكْرَمُ مِنَ اللّٰهِ بِالْمَطْلُوْبِ وَلَا يُهَانُ۔

684 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّفِيْضِ النُّوْرِ عَلَى الْاَشْبَاحِ، وَ هَادِى الْمُضِلِّيْنَ اِلٰى طُرُقِ الْفَلَاحِ، حَاوِىْ حَضْرَةِ اَبِى الْاَرْوَاحِ، وَ حَامِىْ حَوْمَةِ اُمِّ الْاَشْبَاحِ، فَمَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ، حَامِلِ لِوَآءِ الْفَتْحِ مِنَ الْفَتَّاحِ، الْمَخْصُوْصِ بِالْكَوْثَرِ وَ النَّهْرِ وَ الْفَلَاحِ۔

685 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الَّذِىْ تَشَرَّفَ بِهِ الْمَكَانُ وَ الْاِمْكَانُ، وَ قُمِعَ بِهٖ اَهْلُ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ وَ الطُّغْيَانِ، الْهَادِىْ اِلٰى صِرَاطِكَ فِى السِّرِّ وَ الْاِعْلَانِ، وَ الْمَوْعُوْدِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ دُوْنَ الْاَنَامِ مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، حَامِلِ لِوَآءِ الْاُنْسِ الْمَحْمُوْلِ لِحَضْرَةِ الْقُدْسِ مِنَ الدَّيَّانِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ مُحَمَّدٍ غَوْثِ اللّٰهِ

686 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﹰ الَّذِىْ خَصَّصَ وَ عَمَّمَ، وَ اَوْضَحَ وَ اَبْهَمَ، فَهُوَ الْحَقُّ وَ الرُّوْحُ وَ النُّوْرُ وَ السِّرَاجُ مِنْ حَيْثُ الْاِبْدَاعُ وَ الْاِخْتِرَاعُ وَ الْكَشْفُ وَ الْاِنْتِقَالُ فَهُوَ اَحْمَدُ اَمْرِكَ وَ مُحَمَّدُ خَلْقِكَ وَ

اَسۡعَدُ كَوۡنِكَ وَ الۡمَجۡمُوۡعُ مِنۡ ذٰلِكَ سَيِّدُ الۡجُنُوۡدِ، فَاتِحُ حَضۡرَةِ الشُّهُوۡدِ، وَ مَانِحُ مَدَدِ الۡوَدُوۡدِ، نُوۡرُكَ الۡمَسۡعُوۡدُ، ضِيَآءُ اُفُقِكَ فِي الۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ، ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّجۡمُوۡعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُوۡدٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصۡحَابِهٖ وَزَوۡجَاتِهٖ، مُنۡتَهٰى مَرۡضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرۡضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ مُصۡطَفَى الۡبِكۡرِيِّ

687 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيۡ تَرَقَّتۡ بِهٖ جَمِيۡعُ الۡاَكۡوَانِ، وَ اُظۡهِرَتۡ بِهٖ مَعَالِمُ الۡعِرۡفَانِ، وَ اُوۡضِحَتۡ بِهٖ دَقَآئِقُ الۡقُرۡاٰنِ، عَيۡنِ الۡاَعۡيَانِ، وَ السَّبَبِ فِيۡ وُجُوۡدِ كُلِّ اِنۡسَانٍ، مَنۡ شَيَّدَ اَرۡكَانَ الشَّرِيۡعَةِ لِلۡعَالَمِيۡنَ، وَاَوۡضَحَ اَفۡعَالَ الطَّرِيۡقَةِ لِلسَّآئِرِيۡنَ، وَرَمَزَ فِيۡ عُلُوۡمِ الۡحَقِيۡقَةِ لِلۡعَارِفِيۡنَ۔

688 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيۡ زَيَّنَ مَقَاصِيۡرَ الۡقُلُوۡبِ، وَاَظۡهَرَ سَرَآئِرَ الۡغُيُوۡبِ، بَابِ كُلِّ طَالِبٍ وَّدَلِيۡلِ كُلِّ مَطۡلُوۡبٍ، شَمۡسِ الۡوُجُوۡدِ، مَنۡ اَفَاضَ عَلَيۡنَا بِاَمۡدَادِهٖ سَحَآئِبَ الۡجُوۡدِ۔

689 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِيۡ افۡتَتَحۡتَ بِهٖ وُجُوۡدَ الۡخَلَآئِقِ طُرًّا، وَّ خَتَمۡتَ بِهٖ عِقۡدَ النُّبُوَّةِ الۡغَرَّا، وَ جَعَلۡتَهٗ اَعۡلَى النَّبِيِّيۡنَ فَضۡلًا وَّ اَعۡظَمَهُمۡ اَجۡرًا، وَّ خَلَقۡتَ جَمِيۡعَ الۡاَنۡوَارِ مِنۡ نُّوۡرِهٖ فَزَادَتۡ رُتۡبَتُهٗ بِذٰلِكَ قَدۡرًا، صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصۡحَابِهٖ وَزَوۡجَاتِهٖ، مُنۡتَهٰى مَرۡضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرۡضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ مُحَمَّدٍ عُقَيۡلَةَ الۡمَكِّيِّ

690 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَبۡدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوۡلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ حَبِيۡبِكَ وَ خَلِيۡلِكَ مَجۡمَعِ الۡحَقَآئِقِ الۡاِلٰهِيَّةِ، وَ عَرۡشِ الۡاَسۡمَآءِ الۡحَقِيَّةِ وَ الۡخَلۡقِيَّةِ، الۡاِمَامِ الۡمُبِيۡنِ الۡمُحۡصٰى فِيۡهِ كُلُّ شَيۡءٍ نُّقۡطَةِ تَرۡكِيۡبِ حُرُوۡفِ الۡمَوۡجُوۡدَاتِ، مَظۡهَرِ التَّعَيُّنَاتِ، وَ مَبۡدَاِ الۡمُبۡدَعَاتِ، مَنۡشَاِ التَّصۡوِيۡرِ، وَ التَّكۡوِيۡنِ وَ التَّدۡوِيۡرِ، الۡقَلَمِ الۡاَعۡلٰى، وَ الطَّرِيۡقِ الۡاَجۡلٰى، الرَّتۡقِ الَّذِيۡ فَتَقۡتَ مِنۡهُ جَمِيۡعَ الۡعَوَالِمِ اَصۡلَ الۡحُرُوۡفِ الۡعَالِيَاتِ، اَوَّلِ تَعَيُّنٍ لَّكَ فِي الۡمُبۡدَعَاتِ۔

691 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَبِي الۡاَرۡوَاحِ، وَ سَيِّدِ الۡاَشۡبَاحِ، مَبۡدَاِ الۡمَحَبَّةِ الۡاِلٰهِيَّةِ، وَ مَنۡشَاِ الۡمَعۡرِفَةِ الذَّاتِيَّةِ۔

692 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣالۡعَقۡلِ الۡاَوَّلِ، وَ النُّوۡرِ الۡاَكۡمَلِ، الۡاِنۡسَانِ الۡكَامِلِ، وَ الۡخَلِيۡفَةِ الۡعَادِلِ، الۡوَاسِطَةِ الۡاَعۡظَمِ، وَ الرَّسُوۡلِ الۡاَفۡخَمِ، الۡفَيۡضِ الۡاِلٰهِيِّ، وَ الۡمَدَدِ الرَّبَّانِيِّ، وَ الرُّوۡحِ الۡقُدۡسِيِّ، وَ الۡمُسۡتَوَى الرَّحۡمَانِيِّ، مَجۡمَعِ الۡقَبۡضَاتِ رَئِيۡسِ اَهۡلِ الۡيَمِيۡنِ الۡبَحۡرِ الۡفَيَّاضِ مِنۡ حَضۡرَتِهٖ اِلٰى اَهۡلِ عِنَايَتِهٖ، وَاهِبِ الۡخُصُوۡصِيَّاتِ لِاَهۡلِ وِلَايَتِهٖ۔

693 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣالۡكَثِيۡبِ الَّذِيۡ مِنۡهُ وُجُوۡدُ كُلِّ مَوۡجُوۡدٍ، قَابَ قَوۡسَيۡ

الْاَسْمَآءِ اَشْرَفِ الْمَوْجُوْدَاتِ مَظْهَرِ الْكَنْزِيَّةِ الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى، صَاحِبِ الْوَجَاهَةِ فِى الدُّنْيَا وَالْاُخْرٰى۔

694 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمِعْرَاجِ الذَّاتِيِّ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُكَالَمَةِ وَ النِّيَابَةِ الْعُظْمٰى، وَالْخِلَافَةِ الْكُبْرٰى، اَلنُّوْرِ الذَّاتِيِّ السَّارِيِّ سِرُّهٗ فِىْ جَمِيْعِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ، وَالْجَوْهَرِ السَّامِيِّ اِلٰى كُلِّ حَضْرَةٍ مِّنَ الْحَضَرَاتِ، دَآئِرَةِ الرَّحْمَةِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَالْهِدَايَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ، جَامِعِ السُّبُلِ الْجَمَالِيَّةِ وَالْجَلَالِيَّةِ، سَابِقِ الْخَلْقِ فِىْ مِضْمَارِ الْقُرْبِيَّةِ۔

695 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ مِحْرَابِ حَضْرَةِ الْحَقِّ زِمَامِ طَاعَةِ الرَّبِّ قَدَمِ الْعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيْقِ، يَمِيْنِ التَّشْرِيْعِ وَالتَّعْلِيْمِ، وَجْهِ الْوِلَايَةِ وَالتَّعْرِيْفِ، رُوْحِ التَّوْحِيْدِ وَالتَّفْرِيْدِ، قُطْبِ الْمُشَاهَدَةِ وَالتَّفَهُّمِ قَالَبِ الْمَعَانِىْ وَالْمَعْنَوِيَّاتِ عَيْنِ الْعِنَايَةِ الْاِلٰهِيَّةِ شَكْلِ التَّحْمِيْدِ وَالتَّمْجِيْدِ، صُوْرَةِ التَّكْبِيْرِ وَالتَّنْزِيْهِ، هَيُوْلَى التَّخْلِيْقِ وَالتَّقْدِيْرِ، مَآدَّةِ الْاِبْدَاعِ وَالتَّكْوِيْنِ۔

696 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَغَرِّ الْاَبْهٰى، اَلْاَبْلَجِ الَّذِىْ بِوَجْهِهِ الْغَمَامُ يُسْتَسْقٰى، اَلْاَلِفِ الْجَامِعِ ظَاهِرِ الْخَلْقِ، بَاطِنِ الْحَقِّ، الْقَافِ الْمُحِيْطِ بِكُلِّ مَوْجُوْدٍ صَاحِبِ الْعَقْلِ الْاَكْمَلِ، وَالْعِلْمِ الْاَفْضَلِ، وَالْوِلَايَةِ وَالْعِنَايَةِ وَالْبَهَآءِ وَالسَّنَا، وَالصِّفَاتِ الْحُسْنٰى، وَلِوَآءِ الْحَمْدِ وَالثَّنَا، صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَالدَّرَجَةِ الْعَالِيَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَالْخَاتِمِ وَالْعَلَامَةِ۔

697 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُقَلَّدِ بِاٰيَةِ {اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ} اَلْمُمَنْطَقِ بِاٰيَةِ {وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ} اَلْمُزَمِّلِ بِاٰيَةِ {قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا} اَلْمُرْتَدِىْ بِاٰيَةِ {وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى} اَلْمُتَطَيْلِسِ بِاٰيَةِ {لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ}۔

698 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ خَلِيْفَةٍ لَّكَ فِىْ عَالَمِ الْعَنَاصِرِ اِمَامِ الثَّقَلَيْنِ، وَسَيِّدِ الْفَرِيْقَيْنِ، وَرُوْحِ الطَّرِيْقَيْنِ، حَقِيْقَةِ الْحَقَآئِقِ، وَاِنْسَانِ عَيْنِ الْخَلَآئِقِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ عَبْدِ اللّٰهِ السَّقَّافِ

699 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سُلَّمِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، الْمُنْطَوِيَةِ فِى الْحُرُوْفِ الْقُرْاٰنِيَّةِ، مَهْبِطِ الرَّقَآئِقِ الرَّبَّانِيَّةِ، النَّازِلَةِ فِى الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ، الْمُفَصَّلَةِ فِى الْاَنْوَارِ بِالنُّوْرِ الْمُتَجَلِّيَةِ فِىْ لُبَابِ بَوَاطِنِ الْحُرُوْفِ الْقُرْاٰنِيَّةِ الصِّفَاتِيَّةِ۔

700 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْعَظِيْمِ، مَرْكَزِ حَقَآئِقِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ،

مُفِيْضِ الْاَنْوَارِ اِلٰى حَضَرَاتِهِمْ مِّنْ حَضْرَتِهِ الْمَخْصُوْصَةِ الْخَتْمِيَّةِ۔

701 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَارِبِ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ مِنْ بَاطِنِ الْكِبْرِيَآءِ، مُوَصِّلِ الْخُصُوْصِيَّاتِ الْاِلٰهِيَّاتِ اِلٰى اَهْلِ الْاِصْطِفَآءِ، مَرْكَزِ دَآئِرَةِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْاَوْلِيَآءِ، مُنَزِّلِ النُّوْرِ بِالنُّوْرِ الْمُشَاهِدِ بِالذَّاتِ، الْمُكَاشِفِ بِالصِّفَاتِ، الْعَارِفِ بِظُهُوْرِ تَجَلِّى الذَّاتِ، فِى الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، الْعَارِفِ بِظُهُوْرِ الْقُرْاٰنِ الذَّاتِيِّ فِى الْفُرْقَانِ الصِّفَاتِيِّ۔

702 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللَّطِيْفَةِ الْقُدْسِيَّةِ، الْمَكْسُوَّةِ بِالْاَكْسِيَةِ النُّوْرَانِيَّةِ، السَّارِيَةِ فِى الْمَرَاتِبِ الْاِلٰهِيَّةِ، الْمُتَكَمِّلَةِ بِالْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ الْاَزَلِيَّةِ، وَ الْمُفِيْضَةِ اَنْوَارَهَا عَلَى الْاَرْوَاحِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، الْمُتَوَجِّهَةِ فِى الْحَقَآئِقِ الْحَقِيَّةِ، النَّافِيَةِ لِظُلُمَاتِ الْاَكْوَانِ الْعَدَمِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، الْكَاشِفِ عَنِ الْمُسَمّٰى بِالْوَحْدَةِ الذَّاتِيَّةِ۔

703 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْاِجْمَالِ الذَّاتِيِّ الْقُرْاٰنِيِّ، حَاوِى التَّفْصِيْلِ الصِّفَاتِيِّ الْفُرْقَانِيِّ، صَاحِبِ السُّوْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَآءِ قُدْسِ غَيْبِ الْهُوِيَّةِ الْبَاطِنَةِ الْفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا الْاِلٰهِيِّ لِاَبْوَابِ الْوُجُوْدِ الْقَآئِمِ بِهَا مِنْ مَّطْلَعِ ظُهُوْرِهَا الْقَدِيْمِ اِلٰى اِسْتِوَآءِ اِظْهَارِهَا لِلْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ۔

704 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَقِيْقَةِ الصَّلَوَاتِ، وَ رُوْحِ الْكَلِمَاتِ، قِوَامِ الْمَعَانِى الذَّاتِيَّاتِ، وَ حَقِيْقَةِ الْحُرُوْفِ الْقُدْسِيَّاتِ، وَ سُوَرِ الْحَقَآئِقِ الْفُرْقَانِيَّةِ التَّفْصِيْلِيَّاتِ، صَاحِبِ الْجَمْعِيَّةِ الْبَرْزَخِيَّةِ، الْكَاشِفَةِ عَنِ الْعَالَمِيْنَ الْهَادِيَةِ بِهَآ اِلَيْهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً لِّكُلِّ قَلْبٍ مُّنِيْبٍ اِلٰى صِرَاطِهَا الرَّبَّانِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ فِى الْحَضْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ۔

705 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّوَصِّلِ الْاَرْوَاحِ بَعْدَ عَدَمِهَا اِلٰى نِهَايَاتِ غَايَاتِ الْوُجُوْدِ وَ النُّوْرِ وَاسِطَةِ الْاَرْوَاحِ الْمَعْنَوِيَّةِ، صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، الْجَاذِبَةِ لِلْاَرْوَاحِ الْمَعْنَوِيَّةِ، صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْوُجُوْدِيَّةِ، الذَّاهِبَةِ بِظُلُمَاتِ الطَّبَآئِعِ الْحِسِّيَّةِ وَ الْمَعْنَوِيَّةِ، مُسْتَقَرِّ بُرُوْزِ الْمَعَانِى الرَّحْمَانِيَّةِ، مِنْهَا خَرَجَتِ الْخُلَّةُ الْاِبْرَاهِيْمِيَّةُ، وَمِنْهَا حَصَلَ النِّدَآءُ بِالْمَعَانِى الْقُدْسِيَّةِ، لِلْحَقِيْقَةِ الْمُوْسَوِيَّةِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ مُحَمَّدِ السَّمَّانِ

706 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّقْطَةِ الْوُجُوْدِ، وَ حِيْطَةِ اَفْلَاكِ مَرَاقِى الشُّهُوْدِ، اَلِفِ الذَّاتِ السَّارِى سِرُّهَا فِى كُلِّ ذَرَّةٍ، حَآءِ حَيَاةِ الْعَالَمِ الَّذِى جُعِلَتْ مِنْهُ مَبْدَاُهٗ وَاِلَيْهِ مَقَرُّهٗ، مِيْمِ مُلْكِكَ الَّذِى لَا

يُضَاهٰى، وَعَدَالِ دَيْمُوْمِيَّتِكَ الَّتِيْ لَا تَتَنَاهٰى۔

707 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ اَظْهَرْتَهٗ مِنْ حَضْرَةِ الْحُبِّ فَكَانَ مِنَصَّةً لِّتَجَلِّيَاتِ ذَاتِكَ، وَاَبْرَزْتَهٗ بِكَ مِنْ نُّوْرِكَ فَكَانَ مِرْاٰةً لِّجَمَالِكَ الْبَاهِرِ فِيْ حَضْرَةِ اَسْمَآئِكَ وَصِفَاتِكَ، شَمْسِ الْكَمَالِ الْمُشْرِقِ نُوْرُهَا عَلٰى جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ، الَّذِيْ كَوَّنْتَ مِنْهُ جَمِيْعَ الْمُكَوَّنَاتِ فَكُلٌّ مِّنْهَا بِهٖ قَآئِمٌ۔

708 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ اَجْلَسْتَهٗ عَلٰى بِسَاطِ قُرْبِكَ، وَخَصَّصْتَهٗ بِاَنْ كَانَ مِفْتَاحَ خِزَانَةِ حُبِّكَ، الْمَحْبُوْبِ الْاَعْظَمِ، وَالسِّرِّ الظَّاهِرِ الْمُكْتَتِمِ، الْوَاسِطَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُكَوَّنَاتِكَ، وَالسُّلَّمِ الَّذِيْ لَا يُرْقٰى اِلَّا بِهٖ فِيْ مُشَاهَدَةِ كَمَالَاتِكَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ التِّيْجَانِيْ

709 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَالْيَاقُوْتَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ الْمُحِيْطَةِ بِمَرْكَزِ الْفُهُوْمِ وَالْمَعَانِيْ، وَنُوْرِ الْاَكْوَانِ الْمُتَكَوِّنَةِ الْاٰدَمِيِّ صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِيِّ، الْبَرْقِ السَّاطِعِ بِمُزُنِ الْاَرْيَاحِ الْمَالِئَةِ لِكُلِّ مُتَعَرِّضٍ مِّنَ الْبُحُوْرِ وَالْاَوَانِيْ، وَنُوْرِكَ اللَّامِعِ الَّذِيْ مَلَأْتَ بِهٖ كَوْنَكَ الْمُحِيْطَ بِجَمِيْعِ الْخَلَآئِقِ، عَيْنِ الْحَقِّ الَّتِيْ تَتَجَلّٰى مِنْهَا عُرُوْشُ الْحَقَآئِقِ۔

710 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْمَعَارِفِ الْاَعْلَمِ، صِرَاطِكَ التَّآمِّ الْاَقْوَمِ طَلْعَةِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ الْكَنْزِ الْاَعْظَمِ، اِفَاضَتِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ اِحَاطَةِ النُّوْرِ الْمُطَلْسَمِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ اَحْمَدَ بْنِ اِدْرِيْسَ

711 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ، وَالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، طَآمَّةِ الْحَقَآئِقِ الْكُبْرٰى، سِرِّ الْخَلْوَةِ الْاِلٰهِيَّةِ لَيْلَةَ الْاِسْرَا، تَاجِ الْمَمْلَكَةِ الْاِلٰهِيَّةِ، يَنْبُوْعِ الْحَقَآئِقِ الْوُجُوْدِيَّةِ، بَصَرِ الْوُجُوْدِ، وَسِرِّ بَصِيْرَةِ الشُّهُوْدِ، حَقِّ الْحَقِيْقَةِ الْعَيْنِيَّةِ، وَهُوِيَّةِ الْمَشَاهِدِ الْغَيْبِيَّةِ، تَفْصِيْلِ الْاِجْمَالِ الْكُلِّيِّ، الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى فِي التَّجَلِّيْ وَالتَّدَلِّيْ۔

712 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّفَسِ الْاَنْفَاسِ الرُّوْحِيَّةِ، كُلِّيَّةِ الْاَجْسَامِ الصُّوْرِيَّةِ، عَرْشِ الْعُرُوْشِ الذَّاتِيَّةِ، صُوْرَةِ الْكَمَالَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ، لَوْحِ مَحْفُوْظِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، وَسِرِّ كِتَابِكَ الْمَكْنُوْنِ، الَّذِيْ لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۔

713 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ اللَّامِعِ، وَمَظْهَرِ سِرِّكَ الْهَامِعِ، الَّذِيْ طَرَّزْتَ بِجَمَالِهٖ

الْاَكْوَانِ، وَزَيَّنَتْ بِبَهْجَةِ جَمَالِهِ الْاَوَانِ، الَّذِيْ فَتَحَتْ ظُهُوْرَ الْعَالَمِ مِنْ نُّوْرِ حَقِيْقَتِهٖ، وَخَتَمَتْ كَمَالَهُ بِاَسْرَارِ نُبُوَّتِهٖ، فَظَهَرَتْ صُوَرُ الْحُسْنِ مِنْ فَيْضِهٖ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ، وَّلَوْلَا هُوَ مَا ظَهَرَتْ لِصُوْرَةٍ عَيْنٌ مِّنَ الْعَدَمِ الرَّمِيْمِ۔

714 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَا اسْتَغَاثَكَ بِهٖ جَائِعٌ اِلَّا شَبِعَ وَلَا ظَمْاٰنٌ اِلَّا رَوِيَ، وَلَا خَائِفٌ اِلَّا اٰمِنَ، وَلَا لَهْفَانُ اِلَّا اُغِيْثَ۔

715 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ بَحْرِ الْحَقَائِقِ الْوُجُوْدِيَّةِ، الْمُطْلَقَةِ اللَّاهُوْتِيَّةِ، وَمَنْبَعِ الرَّقَائِقِ اللَّطِيْفَةِ الْمُقَيَّدَةِ النَّاسُوْتِيَّةِ، صُوْرَةِ الْجَمَالِ، وَمَطْلَعِ الْجَلَالِ، مَجْلَى الْاُلُوْهِيَّةِ، وَسِرِّ اِطْلَاقِ الْاَحَدِيَّةِ۔

716 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ اسْتِوَاءِ الذَّاتِ، وَجْهِ مَحَاسِنِ الصِّفَاتِ، مُزِيْلِ بُرْقُعِ حِجَابِ ظُلُمَاتِ اللَّبْسِ، بِطَلْعَةِ شَمْسِ حَقَائِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ الْاَنْفَسِ، عَنْ وَّجْهِ تَجَلِّيَاتِ الْكَمَالِ الْاِلٰهِيِّ الْاَقْدَسِ۔

717 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كِتَابِ مَسْطُوْرِ جَمْعِ اَحَدِيَّةِ الذَّاتِ الْحَقِّ، فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرِ تَجَلِّيَاتِ الشُّؤُوْنِ الْاِلٰهِيَّةِ الْمُسَمّٰى كَثْرَةُ صُوَرِهَا بِالْخَلْقِ، جَانِبِ طُوْرِ الْحَقَائِقِ الرُّوْحِيَّةِ الْاَيْمَنِ الْمُكَلِّمِ مِنْهُ مُوْسَى النَّفْسِ، بِاَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فِيْ حَضْرَةِ الْقُدْسِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

718 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ حَضْرَةِ الذَّاتِ، مَالِكِ اَزِمَّةِ تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ، قُطْبِ رَحٰى عَوَالِمِ الْاُلُوْهِيَّةِ، كَثِيْبِ الرُّؤْيَةِ يَوْمَ الزَّوْرِ الْاَعْظَمِ فِيْ مَشَاهِدِكَ الْجِنَانِيَّةِ، جِبَالِ مَوْجِ بِحَارِ اَحَدِيَّةِ الذَّاتِ، طِلَّسْمِ كُنُوْزِ الْمَعَارِفِ الْاِلٰهِيَّاتِ، سِدْرَةِ مُنْتَهَى الْاِحَاطِيَّاتِ الْخَلْقِيَّاتِ الصِّفَاتِيَّاتِ، بَيْتِ مَعْمُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْكُنْهِيَّاتِ الذَّاتِيَّاتِ، سَقْفِ مَرْفُوْعِ الْكَمَالَاتِ الْاَسْمَائِيَّةِ بَحْرِ مَسْجُوْرِ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّاتِ۔

719 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَوْضِ الْاُلُوْهِيَّةِ الْاَعْظَمِ الْمُمِدِّ لِبِحَارِ اَمْوَاجِ صُوَرِ الْكَوْنِ الظَّاهِرَةِ مِنْ فُيُوْضِ حَقَائِقِ اَنْفَاسِهٖ، قَلَمِ الْقُدْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ الْعُظْمَوِيَّةِ الْكَاتِبِ فِيْ لَوْحِ نَفْسِهٖ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ مِنْ مَّحَاسِنِ مُبْدَعَاتِ الْعَالَمِ وَتَقَلُّبَاتِهٖ وَجَمَالِ كُلِّ صُوْرَةٍ اِلٰهِيَّةٍ وَّسِرِّ حَقِيْقَتِهَا غَيْبًا وَّشَهَادَةً، وَّجَلَالِ كُلِّ مَعْنًى كَمَالِيٍّ بَدْاً وَّاِعَادَةً، لِسَانِ الْعِلْمِ الْاِلٰهِيِّ الْمُطْلَقِ التَّالِيْ لِقُرْاٰنِ حَقَائِقِ حُسْنِ ذَاتِهٖ، مِنْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنِ غَيْبِ كُنْهِ صِفَاتِهٖ، جَمْعِ الْجَمْعِ وَفَرْقِ الْفَرْقِ، مِنْ حَيْثُ لَا جَمْعَ وَلَا فَرْقَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الْمِيْرْغَنِیْ

720 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ حَضَرَاتِكَ، وَجَمِيْلِ مَصْنُوْعَاتِكَ، وَمِرْآةِ ذَاتِكَ، وَمَجْلٰى صِفَاتِكَ، وَ قِبْلَةِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ وِجْهَةِ عَظَمَاتِكَ، وَ مِنْحَةِ هِبَاتِكَ، وَ عَظِيْمِ مَمْلَكَتِكَ، وَ اِنْسَانِ عَيْنِ مُكَوَّنَاتِكَ، وَفَرِيْدِ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ۔

721 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْمُصَفَّى الْمُصْطَفٰى، وَ الْوَفِيِّ ذِی الْوَفَا، وَ النَّقِيِّ الْمُنَقّٰى، وَ الْمُرْتَقِيِّ الْمُرَقّٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْمُجْتَبٰى، وَسِيْلَةِ آدَمَ وَ الْخَلِيْلِ وَمُوْسٰى، وَمُمِدِّ دَاوٗدَ وَعِيْسٰى۔

722 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِيْفَتِكَ الْفَيَّاضِ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّرَسُوْلٍ، الْوَاهِبِ لِكُلِّ وَلِيٍّ فَاضِلٍ وَّمَفْضُوْلٍ، خِزَانَةِ عَطَآءِ مَلَآئِكَتِكَ الْكِرَامِ، وَوَلِيِّ خِزَانَتِكَ لِكُلِّ الْكَآئِنَاتِ بِلَا كَلَامٍ۔

723 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الصَّافِي الشَّافِي، الْمُوَافِي الْوَافِي، غِيَاثِنَا الْكَافِي، بَحْرِ الْعَظَمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَبَرِّ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَبَاطِنِ الْعُلُوْمِ الْقُرْاٰنِيَّةِ، وَظَاهِرِ الْاَنْوَارِ الْوُجُوْدِيَّةِ۔

724 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ كَثِيْبِ الزِّيَارَاتِ فِي الْجِنَانِ، وَغَوْثِ حَضْرَةِ الْوَسِيْلَةِ وَالْاِحْسَانِ، السَّارِیْ سِرُّهٗ فِيْ جَمِيْعِ الْاَعْيَانِ، وَ الْفَآئِضِ نُوْرُهٗ عَلٰى سَآئِرِ الْاَكْوَانِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ الدِّرْقَاوِیْ

725 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ مِّنْهُ انْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ الْكَامِنَةُ فِيْ ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ ظُهُوْرًا، وَّ انْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ الْمُنْطَوِيَّةُ فِيْ سَنَا صِفَاتِهِ السَّنِيَّةِ بُدُوْرًا، وَّ فِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَآئِقُ مِنْهُ اِلَيْهِ، وَ تَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ آدَمَ بِهٖ فِيْهِ عَلَيْهِ، فَاَعْجَزَ كُلًّا مِّنَ الْخَلَآئِقِ فَهْمًا مَآ اُوْدِعَ مِنَ السِّرِّ فِيْهِ، وَلَهٗ تَضَآءَلَتِ الْفُهُوْمُ وَ كُلٌّ عَجْزُهٗ يَكْفِيْهِ۔

726 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ السِّرِّ الْمَصُوْنِ الَّذِیْ لَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ فِيْ وُجُوْدِهٖ، وَلَا يَبْلُغُهٗ لَاحِقٌ عَلٰى سَوَابِقِ شُهُوْدِهٖ، فَاَعْظِمْ بِهٖ مِنْ نَّبِيٍّ رِيَاضُ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ الزَّاهِرِ مُوْنِقَةٌ، وَّ حِيَاضُ مَعَالِمِ الْجَبَرُوْتِ بِفَيْضِ اَنْوَارِ سِرِّهِ الْبَاهِرِ مُتَدَفِّقَةٌ، وَّلَا شَيْءَ اِلَّا وَ هُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ، وَّ بِسِرِّهِ السَّارِیْ مَحُوْطٌ۔

727 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْاَسْرَارِ، وَنُوْرِكَ الْوَاسِعِ لِجَمِيْعِ الْاَنْوَارِ، وَ دَلِيْلِكَ الدَّآلِّ بِكَ مِنْكَ عَلَيْكَ، وَ قَآئِدِ رَكْبِ عَوَالِمِكَ اِلَيْكَ، وَ حِجَابِكَ الْاَعْظَمِ الْقَآئِمِ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا يَصِلُ وَاصِلٌ اِلَّآ اِلٰى حَضْرَتِهِ الْمَانِعَةِ، وَلَا يَهْتَدِیْ حَآئِرٌ اِلَّا بِاَنْوَارِهِ اللَّامِعَةِ، الَّذِیْ لَا نَقْدِرُ

قَدْرَهُ الْعَظِيْمَ، وَلَا نُدْرِكُ مَا يَلِيْقُ بِهٖ مِنَ الْاِحْتِرَامِ وَ التَّعْظِيْمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

ثَنَآءُ مُحَمَّدٍ الْفَاسِيْ

728 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ سَبَبًا لِّانْشِقَاقِ اَسْرَارِكَ الْجَبَرُوْتِيَّةِ، وَ انْفِلَاقِ اَنْوَارِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ، فَصَارَ نَآئِبًا عَنِ الْحَضْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ خَلِيْفَةِ اَسْرَارِكَ الذَّاتِيَّةِ، فَهُوَ يَاقُوْتَةُ اَحَدِيَّةِ ذَاتِكَ الصَّمَدِيَّةِ، وَ عَيْنِ مَظْهَرِ صِفَاتِكَ الْاَزَلِيَّةِ، فَبِكَ مِنْكَ، صَارَ حِجَابًا عَنْكَ، وَ سِرًّا مِّنْ اَسْرَارِ غَيْبِكَ، حُجِبْتَ بِهٖ عَنْ كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقِكَ۔

729 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الْبَحْرِ الزَّاهِرِ الْمُطَمْطَمِ، السِّرِّ الْمَصُوْنِ، وَ الْجَوْهَرِ الْمَكْنُوْنِ، الْيَاقُوْتَةِ الْمُنْطَوِيَّةِ عَلَيْهَآ اَصْدَافُ مُكَوَّنَاتِكَ، وَ الْغَيْهُوْبَةِ الْمُنْتَخَبِ مِنْهَآ اَصْنَافُ مَعْلُوْمَاتِكَ، فَكَانَ غَيْبًا مِّنْ غَيْبِكَ، وَبَدَلًا مِّنْ سِرِّ رُبُوْبِيَّتِكَ، حَتّٰى صَارَ بِذٰلِكَ، فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ بِقَوْلِكَ { اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ } صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ

730 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الرَّحْمَةِ الشَّامِلِ، الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ۔

731 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ، الَّذِيْ مَلَأْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ، وَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ، فَاَصْبَحَ فَرِحًا مَّسْرُوْرًا، مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ

732 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ، وَّ اَفْضَلِ مَوْلُوْدٍ، وَّ اَكْرَمِ مَخْصُوْصٍ وَّ مَحْمُوْدٍ، سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِيَّاتِكَ، وَ مَنْ لَّهُ التَّفْضِيْلُ عَلٰى جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ، سِرِّ حَيَاةِ الْوُجُوْدِ، وَ السَّبَبِ الْاَعْظَمِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ۔

733 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحُهٗ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ، وَ الْمَلَآئِكَةِ وَ الْكَوْنِ، اِمَامِ اَهْلِ

الْجَنَّةِ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ، وَمَنْبَعِ الْاَنْوَارِ، وَجَمَالِ الْكَوْنَيْنِ، وَشَرَفِ الدَّارَيْنِ، وَسَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ، الْمَخْصُوْصِ بِقَابِ قَوْسَيْنِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

دَلَآئِلُ الْخَيْرَاتِ

734 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ، الَّذِيْ نُوْرُهٗ مِنْ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ، وَاَشْرَقَ بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْاَسْرَارُ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، شَفِيْعِ الْاُمَّةِ، كَاشِفِ الْغُمَّةِ، مُجَلِّي الظُّلْمَةِ، مُوْلِي النِّعْمَةِ، مُؤْتِي الرَّحْمَةِ۔

735 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، صَاحِبِ الْعِزِّ الْمَمْدُوْدِ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ، صَاحِبِ الْمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ، صَاحِبِ السُّجُوْدِ، لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ، الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُوْدِ، الَّذِيْ هُوَ فِي الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ وَّفِي السَّمَآءِ مَحْمُوْدٌ۔

736 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّامِلَةِ، صَاحِبِ الْعَلَامَةِ، الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ، الْمَخْصُوْصِ بِالزَّعَامَةِ، الْمُظَلَّلِ بِالْغَمَامَةِ، الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِيْ كَانَ يَرٰى مَنْ خَلْفَهٗ كَمَا يَرٰى مَنْ اَمَامَهٗ۔

737 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الضَّرَاعَةِ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ، صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ، صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ، صَاحِبِ الْبُرْهَانِ، صَاحِبِ السُّلْطَانِ، صَاحِبِ التَّاجِ، صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ، صَاحِبِ الْهِرَاوَةِ، صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ، صَاحِبِ الْحُجَّةِ صَاحِبِ الْقَضِيْبِ، رَاكِبِ النَّجِيْبِ، رَاكِبِ الْبُرَاقِ، مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطِّبَاقِ۔

738 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الشَّفِيْعِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَنَامِ، الَّذِيْ حَنَّ لِفِرَاقِهِ الْجِذْعُ وَسَبَّحَ فِيْ كَفِّهِ الطَّعَامُ، وَتَشَفَّعَ اِلَيْهِ الظَّبْيُ بِاَفْصَحِ كَلَامٍ، وَّكَلَّمَهُ الضَّبُّ فِيْ مَجْلِسِهٖ مَعَ اَصْحَابِهِ الْاَعْلَامِ۔

739 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ، مَنِ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ، الَّذِيْ تَوَسَّلَ بِهٖ طَيْرُ الْفَلَاةِ، وَسَبَّحَ فِيْ كَفِّهِ الْحَصَاةُ، وَشَكَآ اِلَيْهِ الْبَعِيْرُ، وَتَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ النَّمِيْرُ۔

740 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ، الرَّسُوْلِ الْمُقَرَّبِ، الْفَجْرِ السَّاطِعِ النَّجْمِ الثَّاقِبِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى نَذِيْرِ اَهْلِ الْاَرْضِ، الشَّفِيْعِ يَوْمَ الْعَرْضِ، السَّاقِيْ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ۔

741 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمْدِ، الْمُشَمِّرِ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، الْمُسْتَعْمِلِ فِيْ مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجُهْدِ، النَّبِيِّ الْخَاتِمِ، الْمُصْطَفَى الْقَآئِمِ، رَسُوْلِكَ اَبِي الْقَاسِمِ۔

742 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاٰيَاتِ، صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ، صَاحِبِ الْاِشَارَاتِ،

صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ، صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ، صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ، صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ، صَاحِبِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ۔

743 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ، الَّذِىْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْاَشْجَارُ، وَ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُّوْرِهِ الْاَزْهَارُ، وَ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثِّمَارُ وَ اَخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيَّةِ وُضُوْئِهِ الْاَشْجَارُ وَ فَاضَتْ مِنْ نُّوْرِهِ جَمِيْعُ الْاَنْوَارِ، الَّذِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُحَطُّ الْاَوْزَارُ، وَ تُنَالُ مَنَازِلُ الْاَبْرَارِ، وَ يُرْحَمُ الْكِبَارُ وَ الصِّغَارُ، وَ تُنَالُ رَحْمَةُ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ، وَ نَتَنَعَّمُ فِىْ هٰذِهِ الدَّارِ، وَ فِىْ تِلْكَ الدَّارِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

744 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْمَنْصُوْرِ الْمُؤَيَّدِ، الْمُخْتَارِ الْمُمَجَّدِ، مَنْ كَانَ اِذَا مَشٰى فِى الْبَرِّ الْاَقْفَرِ تَعَلَّقَتِ الْوُحُوْشُ بِاَذْيَالِهٖ اَكْرَمِ خَلْقِكَ، وَ سِرَاجِ اُفُقِكَ، وَ اَفْضَلِ مَمْدُوْحٍ بِقَوْلِكَ، وَ اَشْرَفِ دَاعٍ لِّلْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ، وَ خَاتِمِ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ، اَكْرَمِ الْكُرَمَآءِ مِنْ عِبَادِكَ، وَ اَشْرَفِ الْمُنَادِيْنَ لِطُرُقِ رَشَادِكَ، وَ سِرَاجِ اَقْطَارِكَ وَ بِلَادِكَ۔

745 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الرَّفِيْعِ مَقَامُهٗ، اَلْوَاجِبِ تَعْظِيْمُهٗ وَ اِحْتِرَامُهٗ، نَبِىِّ الْحُكْمِ وَ الْحِكْمَةِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، الْمَخْصُوْصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ خَتْمِ الرُّسُلِ ذِى الْمِعْرَاجِ۔

746 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفْوَتِكَ مِنَ الْعِبَادِ، وَ شَفِيْعِ الْخَلَآئِقِ فِى الْمِيْعَادِ، النَّاهِضِ بِاَعْبَآءِ الرِّسَالَةِ وَ التَّبْلِيْغِ الْاَعَمِّ، وَ الْمَخْصُوْصِ بِشَرَفِ السِّعَايَةِ فِى الصَّلَاحِ الْاَعْظَمِ۔

747 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، وَ اَفْضَلِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، اَفْضَلِ خَلْقِ اللهِ، وَ اَحْسَنِ خَلْقِ اللهِ، وَ اَجَلِّ خَلْقِ اللهِ، وَ اَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ، وَ اَجْمَلِ خَلْقِ اللهِ، وَ اَكْمَلِ خَلْقِ اللهِ، وَ اَتَمِّ خَلْقِ اللهِ، وَ اَعْظَمِ خَلْقِ اللهِ، عِنْدَ اللهِ۔

748 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ، وَ نَبِىِّ اللهِ، وَ حَبِيْبِ اللهِ، وَ صَفِىِّ اللهِ، وَ نَجِىِّ اللهِ، وَ خَلِيْلِ اللهِ، وَ وَلِىِّ اللهِ، وَ اَمِيْنِ اللهِ، وَ عُرْوَةِ اللهِ، وَ عِصْمَةِ اللهِ، وَ نِعْمَةِ اللهِ۔

749 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خِيَرَةِ اللهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ، وَ نُخْبَةِ اللهِ، مِنْ بَرِيَّةِ اللهِ، وَ صَفْوَةِ اللهِ، مِنْ اَنْبِيَآءِ اللهِ، وَ مِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللهِ، الْمُخْتَارِ مِنْ رُّسُلِ اللهِ، الْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقِ اللهِ۔

750 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ الْفَآئِزِ بِالْمَطْلَبِ، فِى الْمَرْهَبِ وَ الْمَرْغَبِ، الْمُخْلَصِ فِيْمَا وُهِبَ، اَكْرَمِ مَبْعُوْثٍ اَصْدَقِ قَآئِلٍ، اَنْجَحِ شَافِعٍ اَفْضَلِ مُشَفَّعٍ، اَلْاَمِيْنِ فِيْمَا اسْتُوْدِعَ، الصَّادِقِ فِيْمَا بَلَّغَ، الصَّادِعِ بِاَمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَلِعِ بِمَا حُمِّلَ، اَقْرَبِ رُسُلِ اللهِ اِلَى اللهِ وَسِيْلَةً، وَّ اَعْظَمِهِمْ غَدًا عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً وَّ

فَضِيۡلَةً۔

751 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَكۡرَمِ اَنۡبِيَآءِ اللهِ الۡكِرَامِ الصَّفۡوَةِ عَلَى اللهِ، وَاَحَبِّهِمۡ اِلَى اللهِ، وَاَقۡرَبِهِمۡ زُلۡفٰى لَدَى اللهِ، وَاَكۡرَمِ الۡخَلۡقِ عَلَى اللهِ، وَاَحۡظَاهُمۡ وَاَرۡضَاهُمۡ لَدَى اللهِ۔

752 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَعۡلَى النَّاسِ قَدۡرًا وَّ اَعۡظَمِهِمۡ مَحَلًّا، وَّ اَكۡمَلِهِمۡ مَحَاسِنًا وَّ فَضۡلًا، اَفۡضَلِ الۡاَنۡبِيَآءِ دَرَجَةً وَّ اَكۡمَلِهِمۡ شَرِيۡعَةً وَّ اَشۡرَفِهِمۡ نِصَابًا، وَّ اَبۡيَنِهِمۡ بَيَانًا وَّ خِطَابًا، وَّ اَفۡضَلِهِمۡ مَّوۡلِدًا وَمُهَاجِرًا وَّ عِتۡرَةً وَّ اَصۡحَابًا، صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَعَلٰۤى اٰلِهٖ وَاَصۡحَابِهٖ وَزَوۡجَاتِهٖ، مُنۡتَهٰى مَرۡضَاةِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَرۡضَاتِهٖ۔

753 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَكۡرَمِ النَّاسِ اَرُوۡمَةً، وَّ اَشۡرَفِهِمۡ جُرۡثُوۡمَةً وَّ خَيۡرِهِمۡ نَفۡسًا وَّ اَطۡهَرِهِمۡ قَلۡبًا وَّ اَصۡدَقِهِمۡ قَوۡلًا، وَّ اَزۡكَاهُمۡ فِعۡلًا، وَّ اَثۡبَتِهِمۡ اَصۡلًا، وَّ اَوۡفَاهُمۡ عَهۡدًا، وَّ اَمۡكَنِهِمۡ مَجۡدًا، وَّ اَكۡرَمِهِمۡ طَبۡعًا، وَّ اَحۡسَنِهِمۡ صُنۡعًا، وَّ اَطۡيَبِهِمۡ فَرۡعًا، وَّ اَكۡثَرِهِمۡ طَاعَةً وَّ سَمۡعًا، وَّ اَعۡلَاهُمۡ مَقَامًا، وَّ اَحۡلَاهُمۡ كَلَامًا، وَّ اَزۡكَاهُمۡ سَلَامًا۔

754 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَجَلِّ النَّاسِ قَدۡرًا، وَّ اَعۡظَمِهِمۡ فَخۡرًا، وَاَسۡنَاهُمۡ نُوۡرًا، وَّ اَرۡفَعِهِمۡ فِي الۡمَلَاِ الۡاَعۡلٰى ذِكۡرًا، وَّ اَوۡفَاهُمۡ عَهۡدًا، وَّ اَصۡدَقِهِمۡ وَعۡدًا، وَاَكۡثَرِهِمۡ شُكۡرًا، وَّ اَعۡلَاهُمۡ اَمۡرًا، وَّ اَجۡمَلِهِمۡ صَبۡرًا، وَّ اَحۡسَنِهِمۡ خَيۡرًا، وَّ اَقۡرَبِهِمۡ يُسۡرًا۔

755 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَعۡظَمِ النَّاسِ شَاۡنًا، وَّ اَبۡعَدِهِمۡ مَّكَانًا، وَّ اَثۡبَتِهِمۡ بُرۡهَانًا، وَّ اَرۡجَحِهِمۡ مِّيۡزَانًا، وَّ اَوَّلِهِمۡ اِيۡمَانًا، وَّ اَوۡضَحِهِمۡ بَيَانًا، وَّ اَفۡصَحِهِمۡ لِسَانًا، وَّ اَظۡهَرِهِمۡ سُلۡطَانًا۔

756 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ نُّوۡرِ الۡاَنۡوَارِ، وَ سِرِّ الۡاَسۡرَارِ، وَ سَيِّدِ الۡاَبۡرَارِ، وَ زَيۡنِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ الۡاَخۡيَارِ، وَاَكۡرَمِ مَنۡ اَظۡلَمَ عَلَيۡهِ اللَّيۡلُ وَاَشۡرَقَ عَلَيۡهِ النَّهَارُ۔

757 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَبۡهٰى شُمُوۡسِ الۡهُدٰى نُوۡرًا وَّ اَبۡهَرِهَا، وَاَسۡيَرِ عِصَابَةِ الۡاَنۡبِيَآءِ فَخۡرًا وَّ اَشۡهَرِهَا، وَ نُوۡرُهٗ اَزۡهَرُ اَنۡوَارِ الۡاَنۡبِيَآءِ وَ اَشۡرَقُهَا وَ اَوۡضَحُهَا، وَ اَزۡكَى الۡخَلِيۡقَةِ اَخۡلَاقًا وَّ اَطۡهَرِهَا، وَ اَكۡرَمِهَا خَلۡقًا وَّ اَعۡدَلِهَا۔

758 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيۡ هُوَ اَبۡهٰى مِنَ الۡقَمَرِ التَّآمِّ وَ اَكۡرَمِ مِنَ السَّحَابِ الۡمُرۡسَلَةِ وَ الۡبَحۡرِ الۡخَضَمِّ الَّذِيۡ قُرِنَتِ الۡبَرَكَةُ بِذَاتِهٖ وَ مُحَيَّاهُ، وَ تَعَطَّرَتِ الۡعَوَالِمُ بِطِيۡبِ ذِكۡرِهٖ وَ رَيَّاهُ نَبِيِّكَ الۡمُصۡطَفٰى، وَرَسُوۡلِكَ الۡمُرۡتَضٰى، وَوَلِيِّكَ الۡمُجۡتَبٰى، وَاَمِيۡنِكَ عَلٰى وَحۡيِ السَّمَا۔

759 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ اَكۡرَمِ الۡاَسۡلَافِ، الۡقَآئِمِ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِنۡصَافِ، الۡمَنۡعُوۡتِ

فِیْ سُوْرَۃِ الْاَعْرَافِ، الْمُنْتَخَبِ مِنَ الْاَصْلَابِ الشِّرَافِ وَ الْبُطُوْنِ الظِّرَافِ، الْمُصَفّٰی مِنْ مُّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، الَّذِیْ هَدَیْتَ بِهٖ مِنَ الْخِلَافِ، وَبَیَّنْتَ بِهٖ سَبِیْلَ الْعَفَافِ۔

760 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ رَفَعْتَ دَرَجَتَهٗ، وَ اَکْرَمْتَ مَقَامَهٗ وَ ثَقَّلْتَ مِیْزَانَهٗ وَ اَبْلَجْتَ حُجَّتَهٗ، وَ اَظْهَرْتَ مِلَّتَهٗ، وَ اَجْزَلْتَ ثَوَابَهٗ وَ اَضَأْتَ نُوْرَهٗ وَ عَظَّمْتَهٗ فِی النَّبِیِّیْنَ الَّذِیْنَ خَلَوْا قَبْلَهٗ۔

761 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَکْثَرِ النَّبِیِّیْنَ تَبَعًا وَّ اَکْثَرِهِمْ اُزَرَاءَ وَ اَفْضَلِهِمْ کَرَامَةً وَّ نُوْرًا وَّ اَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَّ اَفْسَحِهِمْ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلًا۔

762 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ جَعَلْتَ فِی السَّابِقِیْنَ غَایَتَهٗ، وَ فِی الْمُنْتَخَبِیْنَ مَنْزِلَتَهٗ، وَفِی الْمُقَرَّبِیْنَ دَارَهٗ وَفِی الْمُصْطَفِیْنَ مَنْزِلَهٗ۔

763 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَکْرَمِ الْاَکْرَمِیْنَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَّ اَفْضَلِهِمْ ثَوَابًا وَّ اَقْرَبِهِمْ مَّجْلِسًا وَّ اَثْبَتِهِمْ مَّقَامًا، وَّ اَصْوَبِهِمْ کَلَامًا، وَّ اَنْجَحِهِمْ مَّسْئَلَةً وَّ اَفْضَلِهِمْ لَدَیْكَ نَصِیْبًا وَّ اَعْظَمِهِمْ فِیْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً ِ الَّذِیْ خَصَّصْتَهٗ فِیْ غُرُفَاتِ الْفِرْدَوْسِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا الَّتِیْ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلٰٓی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ، مُنْتَهٰی مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالٰی وَ مَرْضَاتِهٖ۔

764 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْاَصْدَقِیْنَ قِیْلًا، وَّ الْاَحْسَنِیْنَ عَمَلًا وَ الْمَهْدِیِّیْنَ سَبِیْلًا، نُوْرِ الْهُدٰی وَ الْقَائِدِ اِلَی الْخَیْرِ وَ الدَّاعِیْ اِلَی الرُّشْدِ، نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ، وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

765 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ لَا نَبِیَّ بَعْدَهٗ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ وَ تَلَا اٰیَاتِكَ وَ اَقَامَ حُدُوْدَكَ وَ وَفّٰی بِعَهْدِكَ وَ اَنْفَذَ حُکْمَكَ وَ اَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَ نَهٰی عَنْ مَّعْصِیَتِكَ وَ وَالٰی وَلِیَّكَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ تُوَالِیَهٗ، وَ عَادٰی عَدُوَّكَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ تُعَادِیَهٗ۔

766 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ اِذَا قَالَ صَدَّقْتَهٗ، وَ اِذَا سَئَلَ اَعْطَیْتَهٗ، الَّذِیْ عَظَّمْتَ شَأْنَهٗ، وَ بَیَّنْتَ بُرْهَانَهٗ، وَ رَفَعْتَ مَکَانَهٗ، وَ شَرَّفْتَ بُنْیَانَهٗ، وَ اَبْلَجْتَ حُجَّتَهٗ، وَ بَیَّنْتَ فَضِیْلَتَهٗ۔

767 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِیْ قَامَ بِاَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ، وَ اسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَ جَاهَدَ اَهْلَ الْکُفْرِ وَ الضَّلَالَةِ، وَ دَعَا اِلٰی تَوْحِیْدِكَ، وَ قَاسَی الشَّدَآئِدَ فِیْ اِرْشَادِ عَبِیْدِكَ۔

768 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْمَبْعُوْثِ مِنْ تِهَامَةَ، وَ الْاٰمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ الْاِسْتِقَامَةِ، وَ الشَّفِیْعِ لِاَهْلِ الذُّنُوْبِ فِیْ عَرَصَاتِ الْقِیَامَةِ۔

769 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ اَنْبِیَآئِكَ، وَ اَکْرَمِ اَصْفِیَآئِكَ، وَ اِمَامِ اَوْلِیَآئِكَ،

حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ شَهِيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ، وَ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ اَجْمَعِيْنَ، الْمَرْفُوْعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ۔

770 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ، السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ، الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ، الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، الْهَادِىْ اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، الَّذِىْ آتَيْتَهٗ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ۔

771 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَ هَادِى الْاُمَّةِ، اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، الْمُؤَيَّدِ بِجِبْرِيْلَ وَ مِيكَآئِيْلَ، الْمُبَشَّرِ بِهٖ فِى التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ۔

772 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُسْنِ وَ الْجَمَالِ، وَ الْبَهْجَةِ وَ الْكَمَالِ، وَ الْبَهَآءِ وَ النُّوْرِ، وَ الْوِلْدَانِ وَ الْحُوْرِ، وَ الْغُرَفِ وَ الْقُصُوْرِ، وَ اللِّسَانِ الشَّكُوْرِ، وَ الْقَلْبِ الْمَشْكُوْرِ، وَ الْعَلَمِ الْمَشْهُوْرِ، وَ الْجَيْشِ الْمَنْصُوْرِ۔

773 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَنِيْنَ وَ الْبَنَاتِ، وَ الْاَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ، وَ الْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ، صَاحِبِ زَمْزَمَ وَ الْمَقَامِ، وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَ اجْتِنَابِ الْآثَامِ، وَ تَرْبِيَةِ الْاِيْتَامِ، صَاحِبِ الْحَجِّ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَ تَسْبِيْحِ الرَّحْمٰنِ، وَ صِيَامِ رَمَضَانَ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ، وَ الْكَرَمِ وَ الْجُوْدِ، وَ الْوَفَآءِ بِالْعُهُوْدِ، صَاحِبِ الرَّغْبَةِ وَ التَّرْغِيْبِ، وَ الْبَغْلَةِ وَ النَّجِيْبِ، وَ الْحَوْضِ وَ الْقَضِيْبِ۔

774 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاَوَّابِ، الْمَنْعُوْتِ فِى الْكِتَابِ، عَبْدِ اللّٰهِ كَنْزِ اللّٰهِ حُجَّةِ اللّٰهِ، مَنْ اَطَاعَهٗ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ، وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ زَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَرْضَاتِهٖ۔

775 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الزَّمْزَمِيِّ، الْمَكِّيِّ التِّهَامِيِّ، صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ، وَ الطَّرْفِ الْكَحِيْلِ، وَ الْخَدِّ الْاَسِيْلِ، وَ الْكَوْثَرِ وَ السَّلْسَبِيْلِ۔

776 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَاهِرِ الْمُضَآدِّيْنَ، مُبِيْدِ الْكَافِرِيْنَ، وَ قَاتِلِ الْمُشْرِكِيْنَ، قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، اِلٰى جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَ جِوَارِ الْكَرِيْمِ، صَاحِبِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ۔

777 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ غَايَةِ الْغَمَامِ، وَ مِصْبَاحِ الظَّلَامِ، وَ قَمَرِ التَّمَامِ، الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ مِنْ اَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيْزَانًا، وَّ اَوْضَحِهَا بَيَانًا، وَّ اَفْصَحِهَا لِسَانًا، وَّ اَشْمَخِهَآ اِيْمَانًا، وَّ اَعْلَاهَا مَقَامًا، وَّ اَحْلَاهَا كَلَامًا، وَّ اَوْفَاهَا ذِمَامًا، وَ اَصْفَاهَا رَغَامًا، فَاَوْضَحَ الطَّرِيْقَةَ، وَ نَصَحَ الْخَلِيْقَةَ، وَ شَهَرَ الْاِسْلَامَ، وَ

كَسَرَ الْاَصْنَامَ، وَاَظْهَرَ الْاَحْكَامَ، وَحَظَرَ الْحَرَامَ، وَعَمَّ بِالْاِنْعَامِ۔

778 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنْ طَابَ مِنْهُ النِّجَارُ، وَسَمَا بِهِ الْفَخَارُ، وَاسْتَنَارَتْ بِنُوْرِ جَبِيْنِهِ الْاَقْمَارُ، وَتَضَآءَلَتْ عِنْدَ جُوْدِ يَمِيْنِهِ الْغَمَآئِمُ وَالْبِحَارُ، الَّذِیْ بِبَاهِرِ اٰيَاتِهٖ اَضَآءَتِ الْاَنْجَادُ وَالْاَغْوَارُ، وَبِقَاهِرِ مُعْجِزَاتِهٖ نَطَقَ الْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ۔

779 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْفُتُوَّةِ وَالْجَلَالَةِ، وَشَمْسِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، الْهَادِیْ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَالْمُنْقِذِ مِنَ الْجَهَالَةِ، النَّبِيِّ الزَّاهِدِ، رَسُوْلِ الْمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ، سَيِّدِ الْاَبْرَارِ، وَزَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَخْيَارِ، وَاَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ۔

780 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاَصِيْلِ، السَّيِّدِ النَّبِيْلِ، الَّذِیْ جَآءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيْلِ، وَاَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيْلِ، وَجَآءَهُ الْاَمِيْنُ جِبْرِيْلُ، بِالْكَرَامَةِ وَالتَّفْضِيْلِ، وَاَسْرٰى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيْلُ، فِي اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ الطَّوِيْلِ، فَكَشَفَ لَهٗ عَنْ اَعْلَى الْمَلَكُوْتِ، وَاَرَاهُ سَنَآءَ الْجَبَرُوْتِ، وَنَظَرَ اِلٰى قُدْرَةِ الْحَيِّ الدَّآئِمِ الْبَاقِي الَّذِیْ لَا يَمُوْتُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَزَوْجَاتِهٖ، مُنْتَهٰى مَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرْضَاتِهٖ۔

صِيَغُ الْخِطَابِ

ثَنَآءُ النَّوَوِیْ، بِزِيَادَةٍ لِّلْقُسْطَلَانِيْ وَاَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِیْ

(وَزِدْتُ فِيْهَا الصَّلَاةَ، وَهِيَ فِيْ كَلَامِهِمْ مَّقْصُوْرَةٌ عَلَى السَّلَامِ

لِاَنَّ الْاِقْتِصَارَ اَفْضَلُ عِنْدَ زِيَارَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

781 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔

782 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ۔

783 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّٰهِ۔

784 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّٰهِ۔

785 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔

786 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ۔

787 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ۔

788 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ۔

789 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طُهْرُ۔

790 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ۔

791 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آبَا الْقَاسِمِ۔

792 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

793 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ۔

794 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ۔

795 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ۔

796 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ۔

797 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ۔

798 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَارِجَ الْغُمَّةِ۔

799 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَهَرَتْ لَوَامِعُ مَجْدِهٖ۔

800 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ هَمَعَتْ هَوَامِعُ رِفْدِهٖ۔

801 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ظَهَرَتْ اَنْوَارُ عَلَائِهٖ۔

802 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَهَرَتْ آثَارُ سَنَائِهٖ۔

803 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَتِيْجَةَ الشَّرَفِ الْبَاذِخِ۔

804 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا زُبْدَةَ الْمَجْدِ الرَّاسِخِ۔

805 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ الْاَنْبِيَاءِ۔

806 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ الْاَصْفِيَاءِ۔

807 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دُرَّةَ لُؤَيٍّ۔

808 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُرَّةَ قُصَيٍّ۔

809 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْبَعَ الْمَكَارِمِ۔

810 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سُلَالَةَ الْاَكَارِمِ۔

811 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَهَرَتْ آيَاتُهٗ۔

812 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ظَهَرَتْ مُعْجِزَاتُهٗ۔

813 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَآ اِمَامَ الْمُتَّقِیْنَ۔

814 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ۔

815 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مِنَّةَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ۔

816 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا شَفِیْعَ الْمُذْنِبِیْنَ۔

817 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا هَادِیًا اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ۔

818 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ وَّصَفَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهٖ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ} {بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ} اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَ خِیَرَتُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّیْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَ جَاهَدْتَّ فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ۔

ثَنَآءُ اَبِی الْمَوَاهِبِ

819 اَلصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا سَیِّدَنَا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْتَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْوُجُوْدِ، وَ اَنْتَ سَیِّدُ كُلِّ وَلَدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ۔

820 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْتَ الْجَوْهَرَةُ الْیَتِیْمَةُ الَّتِیْ دَارَتْ عَلَیْهَا اَصْدَافُ الْمُكَوَّنَاتِ، وَ اَنْتَ النُّوْرُ الَّذِیْ مَلَأَ اِشْرَاقُهُ الْاَرْضِیْنَ وَ السَّمٰوٰتِ۔

821 اَلصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَرَكَاتُكَ لَا تُحْصٰی، وَ مُعْجِزَاتُكَ لَا یَحُدُّهَا الْعَدَدُ فَتُسْتَقْصٰی، اَلْاَحْجَارُ وَ الْاَشْجَارُ سَلَّمَتْ عَلَیْكَ، وَ الْحَیَوَانَاتُ الصَّامِتَةُ نَطَقَتْ بَیْنَ یَدَیْكَ، وَ الْمَآءُ تَفَجَّرَ وَ جَرٰی مِنْ بَیْنِ اِصْبَعَیْكَ، وَ الْجِذْعُ عِنْدَ فِرَاقِكَ حَنَّ اِلَیْكَ، وَ الْبِئْرُ الْمَالِحَةُ حَلَتْ بِتَفْلَةٍ مِّنْ بَیْنِ شَفَتَیْكَ۔

822 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِبِعْثَتِكَ الْمُبَارَكَةِ اَمِنَّا الْمَسْخَ وَ الْخَسْفَ وَ الْعَذَابَ، وَ بِرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ شَمِلَتْنَا الْاَلْطَافُ وَ نَرْجُوْ رَفْعَ الْحِجَابِ۔

823 اَلصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا طَهُوْرُ یَا مُطَهَّرُ یَا طَاهِرُ، یَا اَوَّلُ یَآ اٰخِرُ یَا بَاطِنُ یَا ظَاهِرُ، شَرِیْعَتُكَ مُقَدَّسَةٌ طَاهِرَةٌ وَّ مُعْجِزَاتُكَ بَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ، اَنْتَ الْاَوَّلُ فِی النِّظَامِ، وَ الْاٰخِرُ فِی الْخِتَامِ، وَ الْبَاطِنُ بِالْاَسْرَارِ، وَ الظَّاهِرُ بِالْاَنْوَارِ۔

824 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا جَامِعَ الْفَضْلِ، وَ خَطِیْبَ الْوَصْلِ، وَ اِمَامَ اَهْلِ الْكَمَالِ، وَ صَاحِبَ الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ، الْمَخْصُوْصَ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰی، وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ الْعَلِیِّ الْاَسْمٰی، وَ بِلِوَآءِ الْحَمْدِ الْمَعْقُوْدِ، وَ الْكَرَمِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ الْجُوْدِ۔

825 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا سَیِّدًا سَادَ الْاَسْیَادُ، وَ یَا سَنَدًا اِسْتَنَدَ اِلَیْهِ الْعِبَادُ۔

826 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَآ اَکْرَمَکَ عَلَی اللّٰہِ۔

827 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَا خَابَ مَنْ تَوَسَّلَ بِکَ اِلَی اللّٰہِ۔

828 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اَلْاَمْلَاکُ تَشَفَّعَتْ بِکَ عِنْدَ اللّٰہِ۔

829 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اَلْاَنْبِیَآءُ وَالرُّسُلُ مُمِدُّوْنَ مِنْ مَّدَدِکَ الَّذِیْ خُصِصْتَ بِہٖ مِنَ اللّٰہِ۔

830 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اَلْاَوْلِیَآءُ اَنْتَ وَالَیْتَہُمْ فِیْ عَالَمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَۃِ حَتّٰی تَوَلَّاھُمُ اللّٰہُ۔

831 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ سَلَکَ فِیْ مَحَجَّتِکَ وَقَامَ بِحُجَّتِکَ اَیَّدَہُ اللّٰہُ۔

832 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اِنَّ الْمَخْذُوْلَ مَنْ اَعْرَضَ عَنِ الْاِقْتِدَآءِ بِکَ یَا وَسِیْلَتَنَآ اِلَی اللّٰہِ۔

833 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ اَطَاعَکَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ۔

834 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ عَصَاکَ فَقَدْ عَصَی اللّٰہَ۔

835 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ اَتٰی لِبَابِکَ مُتَوَسِّلًا قَبِلَہُ اللّٰہُ۔

836 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ حَطَّ رَحْلَ ذُنُوْبِہٖ فِیْ عَتَبَاتِکَ غَفَرَ لَہُ اللّٰہُ۔

837 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ دَخَلَ حَرَمَکَ خَآئِفًا اٰمَّنَہُ اللّٰہُ۔

838 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ لَّاذَ بِجَنَابِکَ وَعَلِقَ بِاَذْیَالِ جَاھِکَ اَعَزَّہُ اللّٰہُ۔

839 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَنْ اَمَّ لَکَ لَمْ یَخِبْ مِنْ فَضْلِکَ یَآ اَکْرَمَ خَلْقِ اللّٰہِ۔

840 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ اَلْعَرَبُ یَحْمُوْنَ النَّزِیْلَ، وَیُجِیْرُوْنَ الدَّخِیْلَ، وَاَنْتَ سَیِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ۔

841 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اَنْتَ الْغِیَاثُ وَاَنْتَ الْمَلَاذُ، فَاَغِثْنَا بِجَاھِکَ الْوَجِیْہِ الَّذِیْ لَا یَرُدُّہُ اللّٰہُ۔

ثَنَآءُ مَسَالِکِ الْحُنَفَآءِ

842 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارُوْحَ جَسَدِ الْکَوْنَیْنِ، عَدَدَ مَا کَانَ وَعَدَدَ مَا یَکُوْنُ۔

843 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَانُوْرَ حَیَاۃِ الدَّارَیْنِ، عَدَدَ مَا کَانَ وَعَدَدَ مَا یَکُوْنُ۔

844 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ وَسَلَامُہٗ وَرَحْمَتُہٗ وَبَرَکَاتُہٗ عَلٰی جَمِیْعِ عَوَالِمِکَ الْمُمْتَدَّۃِ کُلِّھَا۔

845 اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَامَنْ ظَھَرَ بِالْکَمَالَاتِ، وَبُشِّرَ بِہٖ فِیْ عَالَمِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ۔

846 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَاوَزَ فِي السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى، مَقَامَاتِ الرُّسُلِ وَ الْاَنْبِيَآءِ، وَ زَادَ رِفْعَةً وَّ اسْتِعْلَاءً عَلٰى ذَوَاتِ الْمَلَاِ الْاَعْلٰى، وَبَلَغَ الْغَايَةَ الْقُصْوٰى، وَ الْمَقْصُوْدَ الَّذِيْ عَجَزَتْ عَنْهُ قُوَّةُ اُولِي النُّهٰى۔

ثَنَآءُ اَحْمَدَ بْنِ اِدْرِيْس

847 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَةَ الْمَوْجُوْدَاتِ۔

848 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ بَحْرَيِ الْحَقَآئِقِ الْاَزَلِيَّاتِ وَ الْاَبَدِيَّاتِ۔

849 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ جَمَالِ الْاِخْتِرَاعَاتِ وَ الْاِنْفِعَالَاتِ۔

850 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُقْطَةَ مَرْكَزِ جَمِيْعِ التَّجَلِّيَاتِ۔

851 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ حَيَاةِ الْحُسْنِ الَّذِيْ طَارَتْ مِنْهُ رَشَاشَاتٌ، فَاقْتَسَمَتْهَا بِحُكْمِ الْمَشِيْئَةِ الْاِلٰهِيَّةِ جَمِيْعُ الْمُبْدَعَاتِ۔

852 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَعْنٰى كِتَابِ الْحُسْنِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اعْتَكَفَتْ فِيْ حَضْرَتِهٖ جَمِيْعُ الْمَحَاسِنِ لِتَقْرَأَ حُرُوْفَ حُسْنِهِ الْمُقَيَّدَاتِ۔

853 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْخَتْ حَقَآئِقُ الْكَمَالِ كُلِّهَا بُرْقُعَ الْحِجَابِ دُوْنَ الْخَلْقِ وَ اَجْمَعَتْ اَنْ لَّا تَنْظُرَ لِغَيْرِهٖ اِلَّا بِهٖ مِنْ جَمِيْعِ الْمُكَوَّنَاتِ۔

854 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَصَبَّ يَنَابِيْعِ ثَجَّاجِ الْاَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّاتِ الشَّعْشَعَانِيَّاتِ۔

855 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ تَعَشَّقَتْ بِكَمَالِهٖ جَمِيْعُ الْمَحَاسِنِ الْاِلٰهِيَّاتِ۔

856 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا يَاقُوْتَةَ الْاَزَلِ يَا مَغْنَاطِيْسَ الْكَمَالَاتِ۔

857 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَيِسَتِ الْعُقُوْلُ وَ الْفُهُوْمُ وَ الْاَلْسُنُ وَ جَمِيْعُ الْاِدْرَاكَاتِ، اَنْ تَقْرَأَ رُقُوْمَ مَسْطُوْرِ كُنْهِيَّاتِكَ الْمُحَمَّدِيَّةِ اَوْ تَصِلَ اِلٰى حَقِيْقَةِ مَكْنُوْنَاتِ عُلُوْمِكَ اللَّدُنِّيَّاتِ، وَ كَيْفَ لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنْ لَّوْحٍ مَحْفُوْظٍ كُنْهِكَ قَرَأَ الْمُقَرَّبُوْنَ كُلُّهُمْ حَقِيْقَةَ التَّجَلِّيَاتِ۔

858 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ الْبَرَايَا، يَا مَنْ لَّوْلَاهُ هُوَ لَمْ تَظْهَرْ لِلْعَالَمِ عَيْنٌ مِّنَ الْخَفِيَّاتِ۔

859 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَامِلَ الذَّاتِ۔

860 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَمِيْلَ الصِّفَاتِ۔

861 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُنْتَهَى الْغَايَاتِ۔

862 اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ الْحَقِّ يَا سِرَاجَ الْعَوَالِمِ۔

863 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا اَحْمَدُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ۔

864 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَلَّ كَمَالُكَ اَنْ يُّعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانٌ، وَّ عَزَّ جَمَالُكَ اَنْ يَّكُوْنَ مُدْرَكًا لِّلْاِنْسَانِ، وَّ تَعَاظَمَ جَلَالُكَ اَنْ يَّخْطُرَ فِيْ جَنَانٍ۔

865 صَلَّى اللهُ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا مَجْلَى الْكَمَالَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ الْاَعْظَمِ، لَا لِسَانَ لِمَخْلُوْقٍ يَّبْلُغُ الثَّنَآءَ عَلَيْكَ۔

866 صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلَانَا يَا مُحَمَّدُ عَلَيْكَ۔

ثَنَآءُ مُحَمَّدٌ عُثْمَانَ الْمِيْرَغَنِيْ

867 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفِيَّ اللهِ۔

868 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفْوَةَ اللهِ۔

869 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا عَبْدَ اللهِ۔

870 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا اِبْنَ عَبْدِ اللهِ

871 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَحْبُوْبَ الْحَضَرَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ۔

872 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا يَعْسُوْبَ الْحَظَآئِرِ الرَّبَّانِيَّةِ۔

873 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَئِيْسَ دِيْوَانِ الْكِبْرِيَآءِ۔

874 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا فَرِيْدَ الْاَصْفِيَآءِ۔

875 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا اِمَامَ اَهْلِ بِسَاطِ الْقُرْبِ۔

876 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَا الْجَمَالِ الْمَحْبُوْبِ لِاَهْلِ الْحُبِّ۔

877 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا جَبَلَ قَافِ عَظَمَةِ التَّجَلِّيَاتِ۔

878 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا بَحْرَ مُحِيْطِ اَسْرَارِ الصِّفَاتِ۔

ثَنَآءُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَوَاهِبِيْ

879 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

880 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ۔

881 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الْاِلٰهِ الْمَعْبُوْدِ۔

882 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَآءَ بِالْاَحْكَامِ وَالْحُدُوْدِ۔

883 اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَآلًّا عَلَى الْحَقِّ الْمَشْهُوْدِ۔

884 اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُفِيْضَ الشُّهُوْدِ۔

885 اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْوُجُوْدِ۔

886 اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِرَّ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، بِسْمِ اللّٰهِ الْبَاعِثِ لَكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، وَ مُغِيْثًا لِّلْمُسْتَغِيْثِيْنَ، وَ رَأْفَةً لِّلْمُسْتَرْئِفِيْنَ، وَ جَامِعًا لِّشَمْلِ الْمُتَفَرِّقِيْنَ، وَ وُصْلَةً لِّلْمُنْقَطِعِيْنَ، وَ اَمَانًا لِّلْخَآئِفِيْنَ، وَ دَلِيْلًا لِّلْحَآئِرِيْنَ، وَ عِصْمَةً لِّلْمُسْتَعْصِمِيْنَ، اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَ بِكَ وَ اَسْئَلُكَ يَا حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، بِوَجْهِكَ وَ مُوَاجَهَتِكَ وَ تَوْجِيْهِكَ وَ وَجَاهَتِكَ وَ جَاهِكَ وَ كَرَامَتِكَ، وَ تَخْصِيْصِكَ وَ خُصُوْصِيَّتِكَ، وَ بِمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ رَبِّكَ وَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا وَ هُوَ بِمَآ اَعْطَاكَ مِنْ عِلْمٍ وَّ شُهُوْدٍ، وَّ مَقَامٍ وَّ عُهُوْدٍ، وَّ كَمَالٍ وَّ عُقُوْدٍ، وَّ وُصْلَةٍ وَّ حَقٍّ وَّ حَقِيْقَةٍ وَّ رَأْفَةٍ وَّ رَحْمَةٍ وَّ شَفَقَةٍ عَلٰى عَبِيْدِهٖ اُمَّتِكَ اللَّآئِذِيْنَ بِجَنَابِكَ، الْوَاقِفِيْنَ عَلٰى بَابِكَ، الْمُتَوَسِّلِيْنَ بِتُرَابِ اَعْتَابِكَ، الْمُتَوَسِّمِيْنَ بِكَ مِنْ مَّوْلَاكَ فَوْقَ مَا فِيْ اٰمَالِهِمْ، فِيْ دُنْيَاهُمْ وَ مَآلِهِمْ، فَبَالِغِيْنَ بِكَ ذٰلِكَ فَهَا عَبْدُكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اَقَلُّهُمْ وَ اَذَلُّهُمْ اِلَى اللّٰهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يَدَيْكَ، يَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَ الرَّحْمَةَ الشَّامِلَةَ، وَ الْعَفْوَ وَ الرَّأْفَةَ الْعَآمَّةَ الْكَامِلَةَ، وَ التَّوْفِيْقَ اِلٰى طَاعَتِهٖ وَ اتِّبَاعَ سَبِيْلِهٖ بِكَ مُعَافًى مِّنْ جَمِيْعِ مَا لَا يُرْضِيْهِ، مُسْتَهْلِكًا جَمِيْعَ حَرَكَاتِهٖ وَ سَكَنَاتِهِ الْبَاطِنَةِ وَ الظَّاهِرَةِ فِيْ مَرَاضِيْهِ، مُشَاهِدًا لَّهٗ بِهٖ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى مَا دَامَ دَوَامُهٗ لِيَبْلُغَ الْعَبْدُ بِذٰلِكَ رِضَاهُ وَ رِضَاكَ اِتِّسَامًا ۔ بِعُبُوْدِيَّتِهٖ، وَ قِيَامًا ۔ بِبَعْضِ وَفَآءِ حُقُوْقِ رُبُوْبِيَّتِهٖ، شَيْئٌ لِّلّٰهِ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، شَيْئٌ لِّلّٰهِ يَا حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ يَا خِيْرَتَهٗ مِنْ خَلْقِهٖ، وَ يَا مَعْدِنَ ظُهُوْرِ سِرِّ حَقِّهٖ۔

ثَنَآءُ الدَّلَآئِلِ

887 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِحَبِيْبِكَ الْمُصْطَفٰى عِنْدَكَ يَا حَبِيْبَنَا يَا مُحَمَّدُ، اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيْمِ، يَا نِعْمَ الرَّسُوْلُ الطَّاهِرُ۔

اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيْنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّيْنَ وَ الْمُسَلِّمِيْنَ عَلَيْهِ، وَ مِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْهُ الْوَارِدِيْنَ عَلَيْهِ، وَ مِنْ اَخْيَارِ الْمُحِبِّيْنَ فِيْهِ وَ الْمَحْبُوْبِيْنَ لَدَيْهِ، وَ فَرِّحْنَا بِهٖ فِيْ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَ اجْعَلْهُ لَنَا دَلِيْلًا اِلٰى جَنَّةِ النَّعِيْمِ، بِلَا مُؤْنَةٍ وَّلَا مُشَقَّةٍ وَّلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ، وَ اجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا، وَ اغْفِرْ لَنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْمَيِّتِيْنَ، وَ اٰخِرُ دَعْوَانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔


888 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔



عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی حضرت علامہ یوسف اسماعیل النبہانی رضی اللہ عنہ کی جملہ کتب کی قبولیت

حضرت علامہ یوسف اسماعیل النبہانی رضی اللہ عنہ دلائل الخیرات شریف کی شرح کے ابتدائیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل وکرم اور مہربانی ہے کہ اُسی کی توفیق سے میں اس وقت تک 60 سے زائد کتب تحریر کر چکا ہوں اور وہ سب کی سب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین متین کی خدمت میں ہیں اور پھر اُسکی توفیق اور فضل وکرم سے یہ کتابیں شائع ہو کر عالم اسلام میں پھیلیں اور انکو شرف قبولیت حاصل ہوا اور لوگ اُن سے مستفیض ہو رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اور اُس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کتابوں کی قبولیت کی سب سے عظیم نشانی یہ ہے کہ مجھے ان کتابوں کی تالیف کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کمال مہربانی فرماتے ہوئے متعدد بار اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ان کتابوں میں سے کئی کتابیں صرف درود وسلام کے موضوع پر تحریر کیں۔ برکت حاصل کرنے کیلئے ان کتابوں کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔

1. افضل الصلوات علی سید السادات صلی الله علیه و آله وسلم
2. سعادة الدارین فی الصلاة علی سیدالکونین صلی الله علیه و آله وسلم
3. صلوات الثناء علی سید الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم
4. جامع الصلوات فی سید السادات صلی الله علیه و آله وسلم
5. صلوات الاخیار علی النبی المختار صلی الله علیه و آله وسلم
6. الصلوات الالفیه فی الکمالاتِ المحمدیة
7. صلوات المخاطبات الجامعه لدلائل النبوة والمعجزات
8. الدلدلات الواضحات علی دلائل الخیرات وشوارق الانوار فی ذکر الصلاة علی النبی المختار صلی الله علیه و آله وسلم



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

جَامِعُ الصَّلَوَاتِ وَمَجْمَعُ السَّعَادَاتِ

فِي الصَّلَاةِ عَلٰى

سَيِّدِ السَّادَاتِ ﷺ

القاضی الشیخ

یوسف بن اسماعیل النبهانی

صِيْغَةُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ

ترتیب نو

افتخار احمد حافظ قادری

تحقیق و تقدیم

محمد ذیشان انجم قادری

المكتبة القادرية 28

الباکستان

0092-3335187573

جامع الصلوات و مجمع السعادات

دُرود وسلام کے موضوع پر عاشقِ رسول ﷺ حضرت علامہ شیخ یوسف اسماعیل النبھانی رضی اللہ عنہ کی ترتیب میں یہ تیسری تصنیفِ مبارکہ ہے۔ اِس سے پہلے دُرود وسلام کے موضوع پر آپ کی دو کتب "**افضل الصلوات علی سید السادات**" اور "**سعادۃ الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین** ﷺ" منصۂ شہود پر آ چکی تھیں۔ حضرت علامہ یوسف النبھانی کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اِس کتاب میں 200 صیغہ ہائے دُرود وسلام اکٹھے کئے اور پھر اُن کو 7 دنوں کے حساب سے 7 اوراد میں تقسیم کیا۔

کتاب کا جو نسخہ زیرِ نظر رہا وہ دارالکتب العلمیہ (بیروت) سے سال 2005ء میں شائع ہونے والا پہلا ایڈیشن ہے۔ جس کے سر ورق کا عکس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

جامع الصلوات

ومجمع السعادات

في

الصلاة على سيد السادات ﷺ

للعلامة المحقق الجليل

الشيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني

المتوفى ١٣٥٠هـ

اعتنى به

الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي

الحسيني الشاذلي الدرقاوي

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جَامِعُ الصَّلَوَاتِ وَ مَجْمَعُ السَّعَادَاتِ
فِي الصَّلَاةِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ

الورد الاول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا }

1 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ

اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ۔

- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

مَّجِيدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَاةُ اللهِ وَصَلَاةُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَبْلِغْهُ الْوَسِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهٗ وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ مَوَدَّتَهٗ وَفِي الْاَعْلِيْنَ ذِكْرَهٗ وَدَارَهٗ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّاٰلَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰھُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ، وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ، وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ، وَ تَحَنَّنْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاھِیْمَ، وَ ارْحَمْ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا رَحِمْتَ اِبْرَاھِیْمَ وَ آلَ اِبْرَاھِیْمَ، وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ، وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ آلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ وَ اَزْوَاجِہٖ اُمَّھَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ ذُرِّیَّتِہٖ وَ اَھْلِ بَیْتِہٖ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ وَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔
- اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ آلَ اِبْرَاهِيْمَ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ۔
- اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَّ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مِنْ اَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِی الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِی الْقُبُوْرِ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

2 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِی الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

4 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

5 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِی الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِی الْقُبُوْرِ۔

6 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ فِی الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

7 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ۔

8 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَلِّ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ۔

9 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

10 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

11 اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيْلَةَ فِي الْجَنَّةِ۔
اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

12 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

13 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ۔

14 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ وَّ ارْحَمْ
سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٌ وَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى
سآلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ۔

15 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي
الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

16 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ
اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

17 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ بَارِكْ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ وَ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

وَ صَلِّ وَ بَارِكْ وَ تَرَحَّمْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَزْكٰى بَرَكَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ وَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ.

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ، وَ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرٰى وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَ اَعْطِهٖ سُؤْلَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى كَمَا اٰتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهٗ وَ فِى الْمُقَرَّبِيْنَ مَوَدَّتَهٗ وَ فِى الْاَعْلَيْنَ ذِكْرَهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ اجْزِ الْاَنْبِيَآءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا، صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ وَ مَغْفِرَتُهٗ وَ رِضْوَانُهٗ.

اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ وَ ارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ وَ اَتْبِعْهُ مِنْ اُمَّتِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ مَا تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

18 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ كَمَا يَلِيْقُ بِعَظِيْمِ شَرَفِهٖ وَ كَمَالِهٖ وَ رِضَاكَ عَنْهُ وَ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهٗ دَآئِمًا اَبَدًا بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةِ عَرْشِكَ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَكْمَلَهَا وَ اَتَمَّهَا كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَذٰلِكَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ.

19 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰدَمَ وَ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَا بَيْنَهُمْ

مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

20 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَمَعْدِنِ الْاَسْرَارِ، وَمَنْبَعِ الْاَنْوَارِ، وَجَمَالِ الْكَوْنَيْنِ وَسَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ الْمَخْصُوْصِ بِقَابَ قَوْسَيْنِ۔

21 {اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ۔

22 اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ اِجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعْلِنِ بِالْحَقِّ وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِلَ فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِيْ مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِّوَحْيِكَ حَافِظًا لِّعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلٰى نَفَاذِ اَثْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبَسًا لِّقَابِسٍ اٰلَآءُ اللّٰهِ تَصِلُ بِاَهْلِهٖ اَسْبَابَهٗ بِهٖ هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْاِثْمِ، وَ اَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ، وَ نَآئِرَاتِ الْاَحْكَامِ وَ مُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَاْمُوْنُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ وَ شَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَ بَعِيْثُكَ نِعْمَةً وَّ رَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً۔

اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ فِيْ عَدْنِكَ وَاجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّاٰتٍ لَّهٗ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمَحْلُوْلِ وَجَزِيْلِ عَطَآئِكَ الْمَعْلُوْلِ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلٰى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَآءَهٗ وَاَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهٗ وَاَتْمِمْ لَهٗ نُوْرَهٗ وَاجْزِهٖ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهٗ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَّ خُطَّةٍ فَصْلٍ وَّ بُرْهَانٍ عَظِيْمٍ۔

23 صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَآئِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

24 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ رُّوْحُهٗ مِحْرَابُ الْاَرْوَاحِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكَوْنِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ اِمَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

25 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَآئِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ يَغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ۔

26 اَللّٰهُمَّ يَادَآئِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ يَابَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ يَاصَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرٰى سَجِيَّةً وَّاغْفِرْلَنَا يَاذَا الْعُلٰى فِيْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ۔

27 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَآبًّا فَتِيًّا وَّصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا وَّصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا نَّبِيًّا۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَرْضٰى وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بَعْدَ الرِّضَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدًا اَبَدًا۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَرَدْتَّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِّضَا نَفْسِكَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِيْ لَا تُنْفَدُ۔

اَللّٰهُمَّ وَاَعْطِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضْلَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ۔

اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَاَفْلِجْ حُجَّتَهٗ وَاَبْلِغْهُ مَاْمُوْلَهٗ فِيْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَاُمَّتِهٖ۔

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَاْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ وَصَفِيِّكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ م بِاَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّثْلَ ذٰلِكَ وَارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا مِّثْلَ ذٰلِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الصَّلَاةَ التَّآمَّةَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِ الْبَرَكَةَ

التَّامَّةَ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ السَّلَامَ التَّامَّ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَآئِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقَرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْهَرَاوَةِ وَ الْجِهَادِ وَ الْمَغْنَمِ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَ الْمَيْرِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَ الْعَطَايَا وَ الْاٰيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ وَ الشَّفَاعَةِ وَالسُّجُوْدِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔

28 اَللّٰهُمَّ اَسْئَالُكَ بِاَفْضَلِ مَسْئَلَتِكَ وَبِاَحَبِّ اَسْمَآئِكَ اِلَيْكَ وَاَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذْتَنَا بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ جَعَلْتَ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَّ كَفَّارَةً وَّ لُطْفًا وَّ مَنًّا مِّنْ اِعْطَآئِكَ فَادْعُوْكَ تَعْظِيْمًا لِّاَمْرِكَ وَ اتِّبَاعًا لِّوَصِيَّتِكَ وَ تَنْجِيْزًا لِّوَعْدِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ عَلَيْنَا فِيْ اَدَآءِ حَقِّهٖ قِبَلَنَا وَ اَمَرْتَ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَرِيْضَةً اِفْتَرَضْتَهَا فَنَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ نُوْرِ عَظَمَتِكَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ وَمَلَآئِكَتُكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَنَبِيِّكَ وَ صَفِيِّكَ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهٗ وَاَكْرِمْ مَقَامَهٗ وَثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَاَجْزِلْ ثَوَابَهٗ وَاَفْلِجْ حُجَّتَهٗ وَاَظْهِرْ مِلَّتَهٗ وَاَضِئْ نُوْرَهٗ وَ اَدِمْ كَرَامَتَهٗ وَاَلْحِقْ بِهٖ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ مَا تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ وَعَظِّمْهُ فِي النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا قَبْلَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا اَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ تَبَعًا وَّ اَكْثَرَهُمْ وُزَرَآءَ وَّ اَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَّ نُوْرًا وَّ اَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَّ اَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا وَّ اَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَّ اَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا، وَّ اَثْبَتَهُمْ مَقَامًا وَّ اَصْوَبَهُمْ كَلَامًا، وَّ اَنْجَحَهُمْ مَسْاَلَةً وَّ اَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيْبًا وَّ اَعْظَمَهُمْ فِيْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً وَّ اَنْزِلْهُ فِيْ غُرَفِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِيْ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا اَصْدَقَ قَآئِلٍ وَّ اَنْجَحَ سَآئِلٍ وَّ اَوَّلَ شَافِعٍ وَ اَفْضَلَ مُشَفَّعٍ وَّ شَفِّعْهُ فِيْ اُمَّتِهٖ شَفَاعَةً يَّغْبِطُهٗ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ وَ اِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ بِفَصْلِ الْقَضَآءِ فَاجْعَلْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا فِي الْاَصْدَقِيْنَ قِيْلًا وَّ الْاَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَّ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ سَبِيْلًا اِجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطًا وَّ حَوْضَهٗ لَنَا مَوْرِدًا۔

اَللّٰھُمَّ احْشُرْنَا فِیْ زُمْرَتِہٖ وَ اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِہٖ وَ تَوَفَّنَا عَلٰی مِلَّتِہٖ وَ اجْعَلْنَا فِیْ حِزْبِہٖ وَ زُمْرَتِہٖ۔

اَللّٰھُمَّ وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَہٗ کَمَآ اٰمَنَّا بِہٖ وَ لَمْ نَرَہٗ، وَلَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَہٗ حَتّٰی تُدْخِلَنَا مُدْخَلَہٗ وَ تَجْعَلَنَا مِنْ رُّفَقَآئِہٖ مَعَ الْمُتَنَعَّمِ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشُّھَدَآءِ وَ الصّٰلِحِیْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِکَ رَفِیْقًا۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی نُوْرِ الْھُدٰی وَ الْقَآئِدِ اِلَی الْخَیْرِ وَ الدَّاعِیْ اِلَی الرُّشْدِ نَبِیِّ الرَّحْمَۃِ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَکَ وَ تَلَا اٰیَاتِکَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِکَ وَ اَقَامَ حُدُوْدَکَ وَ وَفّٰی بِعَھْدِکَ وَ اَنْفَذَ حُکْمَکَ وَ اَمَرَ بِطَاعَتِکَ وَ نَھٰی عَنْ مَّعْصِیَتِکَ وَ وَالٰی وَلِیَّکَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ تُوَالِیَہٗ وَ عَادٰی عَدُوَّکَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ تُعَادِیَہٗ وَ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی جَسَدِہٖ فِی الْاَجْسَادِ وَ عَلٰی رُوْحِہٖ فِی الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰی مَوْقِفِہٖ فِی الْمَوَاقِفِ وَ عَلٰی مَشْھَدِہٖ فِی الْمَشَاھِدِ وَ عَلٰی ذِکْرِہٖ اِذَا ذُکِرَ صَلَاۃً مِّنَّا عَلٰی نَبِیِّنَا۔

اَللّٰھُمَّ اَبْلِغْہُ عَنَّا السَّلَامَ کُلَّمَا ذُکِرَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہٗ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مَلَآئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِیْنَ وَ عَلٰی اَنْبِیَآئِکَ الْمُطَھَّرِیْنَ وَ عَلٰی رُسُلِکَ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی حَمَلَۃِ عَرْشِکَ اَجْمَعِیْنَ وَ عَلٰی جِبْرِیْلَ وَ مِیْکَآئِیْلَ وَ اِسْرَافِیْلَ وَ مَلَکِ الْمَوْتِ، وَ رِضْوَانَ وَ مَالِکٍ وَ صَلِّ عَلَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِیْنَ وَ عَلٰی اَھْلِ طَاعَتِکَ اَجْمَعِیْنَ مِنْ مِنْ اَھْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَھْلِ الْاَرْضِیْنَ۔

- اَللّٰھُمَّ اٰتِ اَھْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ اَفْضَلَ مَآ اٰتَیْتَ اَحَدًا مِّنْ اَھْلِ بُیُوْتَاتِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ اجْزِ اَصْحَابَ نَبِیِّکَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ اَفْضَلَ مَا جَزَیْتَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ الْمُرْسَلِیْنَ۔

اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْیَآءِ مِنْھُمْ وَ الْاَمْوَاتِ وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّکَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ۔

29 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَوْلَادِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّتِہٖ وَ اَھْلِ بَیْتِہٖ وَ اَصْھَارِہٖ وَ اَنْصَارِہٖ وَ اَشْیَاعِہٖ وَ مُحِبِّیْہِ وَ اُمَّتِہٖ وَ عَلَیْنَا مَعَھُمْ اَجْمَعِیْنَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ۔

30 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰی عَلَیْہِ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ یُصَلِّ عَلَیْہِ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَآ اَمَرْتَ بِالصَّلَاۃِ عَلَیْہِ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ اَنْ یُّصَلّٰی عَلَیْہِ وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا تَنْبَغِی الصَّلَاۃُ عَلَیْہِ۔

31 صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی نَبِیِّنَا سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کُلَّمَا ذَکَرَہُ الذّٰکِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِکْرِہِ الْغٰفِلُوْنَ۔

32 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اَفْضَلَ وَ اَكْثَرَ وَ اَزْكٰى مَا صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ وَ زَكَّانَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ اَفْضَلَ مَا زَكّٰى اَحَدًا مِّنْ اُمَّتِهٖ بِصَلَاتِهٖ عَلَيْهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ وَ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى مُرْسَلًا عَمَّنْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ فَاِنَّهٗ اَنْقَذَنَا بِهٖ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ جَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ دَائِنِيْنَ بِدِيْنِهِ الَّذِى ارْتَضَاهُ وَ اصْطَفٰى بِهٖ مَلَائِكَتَهٗ وَ مَنْ اَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهٖ فَلَمْ تُمْسِ بِنَا نِعْمَةٌ ظَهَرَتْ وَلَا بَطَنَتْ نِلْنَا بِهَا حَظًّا مِّنْ دِيْنٍ وَّ دُنْيَا وَ دُفِعَ عَنَّا بِهَا مَكْرُوْهٌ فِيْهِمَا وَ فِيْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَآ اِلَّا وَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَبُهَا الْقَائِدُ اِلٰى خَيْرِهَا وَ الْهَادِىْ اِلٰى اَرْشَدِهَا الزَّائِدُ عَنِ الْهَلَكَةِ وَ مَوَارِدِ السُّوْءِ فِيْ خِلَافِ الرُّشْدِ الْمُنَبِّهُ لِلْاَسْبَابِ الَّتِىْ تُوْرِدُ الْهَلَكَةَ الْقَائِمُ بِالنَّصِيْحَةِ فِي الْاِرْشَادِ وَ الْاِنْذَارِ فِيْهَا فَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ كَمَا صَلّٰى عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

33 اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ حَمِدَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يَحْمَدْكَ وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ اَنْ تُحْمَدَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ۔

34 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ وَ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْءَ الدُّنْيَا وَ مِلْءَ الْاٰخِرَةِ۔

35 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِىْ بَرَكَاتِكَ وَ شَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ وَ رَأْفَتَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ تَحِيَّتَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَ فَاتِحِ الْبِرِّ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا تُزْلِفُ بِهٖ قُرْبَهٗ وَ تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ يَغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِهِ الْفَضْلَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْوَسِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ الْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْمُنِيْفَةَ۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا سُؤْلَهٗ وَ بَلِّغْهُ مَاْمُوْلَهٗ وَ اجْعَلْهُ اَوَّلَ شَافِعٍ وَّ اَوَّلَ مُشَفَّعٍ۔

اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَ ثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ ارْفَعْ فِيْ اَعْلَى الْمُقَرَّبِيْنَ دَرَجَتَهٗ۔

اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهٖ وَ اَحْيِنَا عَلٰى سُنَّتِهٖ وَ تَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ اَوْرِدْنَا حَوْضَهٗ وَ اسْقِنَا بِكَاْسِهٖ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِيْنَ وَلَا شَاكِّيْنَ وَلَا مُبَدِّلِيْنَ وَلَا فَاتِنِيْنَ وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

36 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ۔

37 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا، وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا عَلٰى اَشْرَفِ الْخَلَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ، وَ مَجْمَعِ الْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ، وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ، وَ مَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ، وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ قَآئِدِ رَكْبِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، وَ اَفْضَلِ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى، وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ، وَ مُشَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ، وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ، وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ، مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ، وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعَلَوِيِّ وَ السِّفْلِيِّ، رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، الْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، الْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ، وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔

38 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَرْوَاحِ وَ صَلِّ عَلٰى جَسَدِهٖ فِی الْاَجْسَادِ وَ اجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ نَوَامِیْ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ وَ رِضْوَانِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

39 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی النَّبِيِّيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

40 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَآءِ الرَّحْمَةِ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ

الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَائِنٌ اَوْقَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ
الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

41 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ۔

42 اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّ سَلِّمْ سَلَامًا تَآمًّا عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تَقْضِيْ بِهِ الْحَوَآئِجُ وَ تَنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ۔

43 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ۔

44 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ عَدَدَ كُلِّ حَادِثٍ وَّ قَدِيْمٍ۔

45 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَ كَمَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهٖ۔

46 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ عَدَدَ كَمَالَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَ عَدَّ كَمَالِهٖ۔

47 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ عَدَدَ اِنْعَامِ اللهِ وَ اِفْضَالِهٖ۔

48 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

49 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ، وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ، وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

50 اَللّٰهُمَّ جَدِّدْ وَ جَرِّدْ فِيْ هٰذَا الْوَقْتِ وَ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ مِنْ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّاتِ، وَ تَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيَاتِ وَ رِضْوَانِكَ الْاَكْبَرِ الْاَتَمِّ الْاَدْوَمِ، اِلٰى اَكْمَلِ عَبْدٍ لَّكَ فِيْ هٰذَا الْعَالَمِ، مِنْ بَنِيْ آدَمَ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ لَكَ ظِلًّا وَّ لِحَوَآئِجِ خَلْقِكَ قِبْلَةً وَّ مَحَلًّا وَّ اصْطَفَيْتَهٗ لِنَفْسِكَ وَ اَقَمْتَهٗ بِحُجَّتِكَ، وَ اَظْهَرْتَهٗ بِصُوْرَتِكَ وَ اخْتَرْتَهٗ مُسْتَوًى لِّتَجَلِّيْكَ، وَ مَنْزِلًا لِّتَنْفِيْذِ اَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِيْكَ، فِيْ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، وَ وَاسِطَةً بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مُكَوَّنَاتِكَ وَ بَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِكَ هٰذَآ اِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الْاٰنَ عَنْ عَبْدِكَ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ اَشْرَفُ التَّسْلِيْمِ وَ اَزْكٰى

التَّحِيَّاتِ o اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْهُ بِيْ لِيَذْكُرَنِيْ عِنْدَكَ بِمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ اَنَّهُ نَافِعٌ لِّيْ عَاجِلًا وَّ آجِلًا عَلٰى قَدْرِ مَعْرِفَتِهٖ بِكَ وَ مَكَانَتِهٖ لَدَيْكَ لَا عَلٰى مِقْدَارِ عِلْمِيْ وَ مُنْتَهٰى فَهْمِيْ اِنَّكَ بِكُلِّ فَضْلٍ جَدِيْرٌ وَّ عَلٰى مَا تَشَآءُ قَدِيْرٌ، وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمْ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

51 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ صَلَاةً اَنْتَ لَهَآ اَهْلٌ وَّ هُوَ لَهَآ اَهْلٌ۔

52 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ مَلَأْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ عَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مَسْرُوْرًا مُّؤَيَّدًا مَنْصُوْرًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ۔

53 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى لَوْحِ رَحْمَانِيَّتِكَ الَّذِيْ كَتَبْتَ فِيْهِ بِقَلَمِ رَّحِيْمِيَّتِكَ وَ مِدَادِ مَدَدِ رَحَمُوْتِيَّتِكَ { وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ }۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَرْشِ اسْتِوَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةِ اَحَدِيَّةِ اُلُوْهِيَّتِكَ وَ رَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ وَ بَرَكَتِكَ الْكَامِلَةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ { وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ } بَلْ صَلِّ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى رَحْمَةِ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اِنْسَانِ عَيْنِ الْكُلِّ فِيْ حَضْرَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَ جَمْعِ جَمْعِ اَحَدِيَّتِكَ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قَوْلِكَ { يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۰ وَ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ۰ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْرًا } فَكَانَ الْمُبَشِّرُ عَيْنَ الْمُبَشَّرِ بِهٖ فَاَنِلْنَا مِنْ بَرَكَاتِهٖ وَ افْتَحِ اللّٰهُمَّ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِمَفَاتِحِ حُبِّهٖ وَ كَحِّلْ اَبْصَارَ بَصَآئِرِنَا بِاِثْمِدِ نُوْرِهٖ وَ طَهِّرْ اَسْرَارَ سَرَآئِرِنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ وَ قُرْبِهٖ حَتّٰى لَا نَرٰى فِي الْوُجُوْدِ اِلَّآ اَنْتَ بِهٖ وَ مِنْ نَّوْمِ غَفْلَتِنَا نَنْتَبِهُ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَافِ كِفَايَتِكَ وَ هَآءِ هِدَايَتِكَ وَ يَآءِ يُمْنِكَ وَ عَيْنِ عِصْمَتِكَ وَ صَادِ صِرَاطِكَ صِرَاطِ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ صِرَاطِ اللهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ اَلَآ اِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِكَ الْاَسْمٰى، اَلْمُتَشَفِّعِ بِالْاِسْمَآءِ فِيْ حَضْرَةِ الْاَسْمَآءِ فَكَانَ عَيْنَ مَظَاهِرِهَا الْوُجُوْدِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ عِلْمِكَ وَ عَيْنَ اَسْرَارِهَا الْجُوْدِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ كَرَمِكَ وَ عَيْنَ اِخْتِرَاعَاتِهَا الْكُلِّيَّةِ الْكَوْنِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ اِرَادَتِكَ، وَ عَيْنَ مَقْدُوْرَاتِهَا الْجَبَرُوْتِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ قُدْرَتِكَ وَ قَهْرِكَ، وَ عَيْنَ اِنْشَآئَاتِهَا الْاِحْسَانِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ سَعَةُ اِحَاطَةِ رَحْمَتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِيْمِ مُلْكِكَ وَ حَآءِ حِكْمَتِكَ وَ مِيْمِ مَلَكُوْتِكَ وَ دَالِ دَيْمُوْمِيَّتِكَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَاحِدِ الثَّانِيِّ الْمَخْصُوْصِ بِالسَّبْعِ الْمَثَانِيِّ السِّرِّ السَّارِيِّ فِيْ مَنَازِلِ الْأُفُقِ الرَّحْمَانِيِّ الْقَلَمِ الْجَارِيِّ بِمِدَادِ الْمَدَدِ الرَّبَّانِيِّ عَلٰى مَسْطُوْرِ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ صَلَاةً تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ رَحْمَتِكَ عَلَيْهِ وَإِنْتِهَآءِ نُوْرِكَ وَسِرِّكَ إِلَيْهِ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَلِفِ اَحَدِيَّتِكَ وَ حَآءِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَ مِيْمِ مُلْكِكَ وَ دَالِ دِيْنِكَ { اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ } فَقَدْ اَخْلَصْتَ الْخَالِصَ الْقَآئِمَ بِالدِّيْنِ الْخَالِصِ فَاَضَفْتَهُ إِلَيْكَ فَصَلِّ رَبِّ عَلٰى مَنْ قَامَ إِلَيْكَ بِمَآ اَضَفْتَ عَلَى التَّحْقِيْقِ، اَقَامَ دِيْنَكَ وَبَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ اَوْضَحَ سَبِيْلَكَ وَ اَدّٰى اَمَانَتَكَ وَ اَقَامَ الْبُرْهَانَ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِكَ وَ اَثْبَتَ فِي الْقُلُوْبِ اَحَدِيَّتَكَ فَهُوَ سِرُّكَ الْمَصُوْنُ بِهَيْبَتِكَ وَ جَلَالِكَ، اَلْمُتَوَّجُ بِنُوْرِ اَسْرَارِكَ وَ جَمَالِكَ، بَلْ صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ عَلٰى قَدْرِ مَقَامِهِ الْعَظِيْمِ لَدَيْكَ، وَ عَلٰى قَدْرِ عِزَّتِهٖ عَلَيْكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَوْضِعِ نَظْرِكَ وَ مَظْهَرِ خَزَآئِنِ كَرَمِكَ وَ مُجَلّٰى عِزِّكَ وَ مِفْتَاحِ قُدْرَتِكَ وَ مَحَلِّ رَحْمَتِكَ وَ مُجَلّٰى عَظْمَتِكَ خُلَاصَتِكَ مِنْ كُنْهِ كَوْنِكَ وَ صَفْوَتِكَ مِمَّنْ خَصَّصْتَهٗ بِاِصْطِفَآئِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ الْاَبْطَحِيِّ الْقَرَشِيِّ اَحْمَدِ الْحَامِدِيْنَ فِيْ سُرَادِقَاتِ جَلَالِكَ وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِيْنَ فِيْ بِسَاطِ جَمَالِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَلِفِ اِبْدَاعِكَ، وَ بَآءِ بِدَايَةِ اِخْتِرَاعِكَ وَ وَاوِ وُدِّكَ فِيْ اِنْشَآئِكَ، وَ اَلِفِ اِبْرَازِكَ لِمَخْلُوْقَاتِكَ، وَ لَامِ لُطْفِكَ فِيْ تَدْبِيْرَاتِكَ وَ قَافِ اِحَاطَةِ قُدْرَتِكَ عَلٰى خَلْقِ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، وَ سِيْنِ سِرِّكَ بَيْنَ جَمِيْعِ اَفْرَادِ مُبْدِعَاتِكَ، وَ مِيْمِ مَمْلَكَتِكَ الْمُحِيْطَةِ بِمَعْلُوْمَاتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرِّ وُجُوْدِكَ وَ مَظْهَرِ جُوْدِكَ وَ خَزَانَةِ مَوْجُوْدِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اِمَامِ حَضْرَةِ جَبَرُوْتِكَ الْمُصَلِّيْ فِيْ مِحْرَابِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى لِاَحَدِيَّةِ جَمْعِهٖ فَاَنْجَمَعَ بِكَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَجَمَعْتَهٗ عَلَيْكَ وَ خَصَّصْتَهٗ بِالنَّظْرِ اِلَيْكَ، وَ اَخْلَصْتَهٗ بِالسُّجُوْدِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ جَعَلْتَ قُرَّةَ عَيْنِهٖ فِي الصَّلَاةِ الْخَالِصَةِ لَدَيْكَ فَهُوَ الْمُفْتَضُّ، لِاِبْكَارِ اَسْرَارِ مَشَاهِدِكَ الْمُقْتَنِصُ لِلَامِعَاتِ لَمْحَاتِ نَفْحَاتِ مُشَاهَدَاتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى كَلِمَتِكَ الْعُلْيَا مِنْ حَيْثُ الْاِخْتِرَاعُ وَ الْاِبْدَاعُ، وَ عُرْوَتِكَ الْوُثْقٰى مِنْ حَيْثُ تَتَابُعُ الْاَتْبَاعِ وَ حَبْلِكَ الْمُعْتَصِمِ عِنْدَ الضِّيْقِ وَ الْاِتِّسَاعِ، وَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ لِلْهِدَايَةِ وَ الْاِتِّبَاعِ، الٓمّٓ حٰمٓ اٰدَمُ حٓ قٓ طٰسٓمٓ { مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ

السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ { وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ } اَحْوَنُ وَدُوْدٍ طٰهٰ يٰسٓ قٓ {نٓ ۚ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ، الْمُسْتَغْرِقِ فِيْ مُشَاهَدَةِ ذَاتِكَ الْحَقِّ الْمُتَخَلِّقِ بِالْحَقِّ حَقِيْقَةَ الْحَقِّ اَحَقُّ هُوَ قُلْ اِيْ وَ رَبِّيْ اِنَّهُ لَحَقٌّ {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ عَجَزْنَا مِنْ حَيْثُ اِحَاطَةُ عُقُوْلِنَا وَ غَايَةُ اَفْهَامِنَا وَ مُنْتَهٰى اِرَادَتِنَا وَ سَوَابِقُ هِمَمِنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَ كَيْفَ نَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ وَ قَدْ جَعَلْتَ كَلَامَكَ خُلُقَهٗ وَ اَسْمَآئَكَ مَظْهَرَهٗ وَ مَنْشَأَ كَوْنِكَ مِنْهُ وَ اَنْتَ مَلْجُؤُهٗ وَ رُكْنُهٗ وَ مَلَؤُكَ الْاَعْلٰى عِصَابَتُهٗ وَ نُصْرَتُهٗ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ قُدْرَتِكَ بِمَصْنُوْعَاتِكَ وَ تَحَقُّقُ اَسْمَآئِكَ بِاِرَادَتِكَ مِنْهُ اِبْتَدَأْتَ الْمَعْلُوْمَاتِ وَ اِلَيْهِ جَعَلْتَ الْغَايَاتِ وَ بِهٖ اَقَمْتَ الْحُجَجَ عَلَى الْمَخْلُوْقَاتِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ خَازِنُ عِلْمِكَ حَامِلُ لِوَآءِ حَمْدِكَ مَعْدِنُ سِرِّكَ مَظْهَرُ عِزِّكَ نُقْطَةُ دَآئِرَةِ مُلْكِكَ وَ مُحِيْطُهٗ مُرَكَّبُهٗ وَ بَسِيْطُهٗ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ بِالْمَشْهَدِ الْاَعْلٰى وَ الْمَوْرِدِ الْاَحْلٰى، وَ الطَّوْرِ الْاَجْلٰى، وَ النُّوْرِ الْاَسْنَى الْمُخْتَصِّ فِيْ حَضْرَةِ الْاَسْمَآءِ، بِالْمَقَامِ الْاَسْمٰى، وَ النُّوْرِ الْاَبْهٰى وَ السِّرِّ الْاَحْمٰى۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّشْأَةِ الْحَبِيْبِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّجَرَةِ الْعُلْوِيَّةِ الثَّابِتِ اَصْلُهَا فِيْ مَعَادِنِ هَيْبَتِكَ، السَّامِيْ فَرْعُهَا فِيْ سُرَادِقَاتِ عَظْمَتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ الْمُنَذِّرِ الْمُبَشِّرِ الْمُكَبِّرِ الْمُطَهِّرِ وَ الْعَطُوْفِ الْحَلِيْمِ {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ} {اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۖ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۖ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۖ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۖ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ}۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِشْكَاةِ جِسْمِهٖ وَ مِصْبَاحِ قَلْبِهٖ وَ زُجَاجَةِ عَقْلِهٖ وَ كَوْكَبِ سِرِّهِ الْمُوْقَدِ مِنْ شَجَرَةِ اَصْلِهِ الْمُفَاضِ عَلَيْهِ مِنْ نُّوْرِ رَبِّهٖ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۔ بَلْ صَلِّ عَلَى الضَّمِيْرِ الْبَارِزِ الْمَسْتُوْرِ فِي النُّوْرِ

الثَّانِي الْآخِرِ الْمَضْرُوبِ بِهِ الْأَمْثَالُ فِي عَالَمِ الْمِثَالِ.

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ تَنَوَّرَتْ بِنُوْرِهٖ مَلَكُوْتُ سَمٰوَاتِكَ وَ اَرْضِكَ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةِ كَوْنِكَ فِيْهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ نُوْرِهِ الْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةِ اَجْسَامِ اَنْبِيَآئِكَ وَمَلَآئِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ الزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ اَصْلُهُ النُّوْرُ الَّذِيْ هُوَ الْمُفَاضُ عَلَيْهِ مِنْ فَيْضِ اَسْمَآئِكَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ خَلْقِهٖ {وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ}.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَلِيْمٌ ، بِهٰذَا النُّوْرِ الْبَارِزِ الْمَسْتُوْرِ الْبَاهِرِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِيْ بَهَرَتْ بِهٖ كُلِّيَّةَ الْكَوْنَيْنِ، وَ طَرَّزَتْ بِهِ الثَّقَلَيْنِ، وَ زَيَّنْتَ بِهٖ اَرْكَانَ عَرْشِكَ وَ مَلَآئِكَةَ قُدْسِكَ وَ اَدْنَيْتَهٗ مِنْ حَضْرَةِ جَبَرُوْتِكَ وَ جَعَلْتَهُ الْمُتَشَفِّعَ اِلَيْكَ فِيْ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ فَهُوَ بَابُ الرِّضَا، وَ الرَّسُوْلُ الْمُرْتَضٰى حَقِيْقَةُ حَقِّكَ، وَ صَفْوَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، بِنُوْرِهٖ حَمَّلْتَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ بِسِرِّهٖ رَفَعْتَ سَمٰوَاتِكَ وَ بَسَطْتَ اَرْضَكَ فَهُوَ سَمَآءُ اَسْمَآئِكَ وَ غِيَابُهُ غُيُوْبُ اِحْسَانِكَ، وَ مَظْهَرُ عِزِّكَ وَ سُلْطَانِكَ، فَاَنْتَ الْعَلِيْمُ بِهٖ مِنْ حَيْثُ الْحَقُّ وَ الْحَقِيْقَةُ فَصَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَةُ عِلْمِكَ بِذٰلِكَ وَ تَحَقُّقُهٗ بِمَا هُنَالِكَ.

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرَاجِ دِيْنِكَ، وَ كَوْكَبِ يَقِيْنِكَ، وَ قَمَرِ تَوْحِيْدِكَ، وَ شَمْسِ مُشَاهَدَةِ اِحْسَانِكَ، فِيْ اِيْجَادِ اِنْسَانِكَ صَلِّ رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَصْعَدُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ وَ تُعْرَفُ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اَنَّهَا خَالِصَةٌ لَّدَيْكَ، صَلَاةً مَّبْلَغُهَا الْعِلْمُ الْمُحِيْطُ بِالْكُلِّ حَقِيْقَةُ الْكُلِّ تَتَجَدَّدُ بِكُلِّيَّةِ ذٰلِكَ الْكُلِّ وَ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَقَامِ الْمُخْتَصِّ بِهٖ تَسْلِيْمًا مَبْلَغُهٗ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا مَنَحَ مِنَ الْفَتْحِ الَّذِيْ بِهٖ اَبْصَارُ بَصَآئِرِنَا قَدْ فُتِحَتْ بِالصَّلَاةِ عَلٰى اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ وَّ سَيِّدِ كُلِّ مَسُوْدٍ، الَّذِيْ كَمُلَ بِهِ الْوُجُوْدُ، وَ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيْقُ وَ بِهٖ يُطْلَبُ كَمَالُ اِكْمَالِنَا عَلَى التَّحْقِيْقِ.

اَللّٰهُمَّ بِجَاهِ صَاحِبِهِ الصِّدِّيْقِ، وَ بِالْفَارُوْقِ الْمُوَفِّي لِلتَّصْدِيْقِ، وَ بِذِي النُّوْرَيْنِ وَ بِخَاتِمِ الْخِلَافَةِ ابْنِ عَمِّهٖ عَلِيٍّ عَلَى التَّحْقِيْقِ اِجْمَعْنَا بِكَ عَلَيْكَ، وَ اَوْرِدْنَا مِنْكَ اِلَيْكَ، وَ اَرْشِدْنَآ اِلَيْهِ فِيْ حَضْرَةِ جَمْعِ الْجَمْعِ حَيْثُ لَا فُرْقَةَ وَلَا مَنْعَ، اِنَّكَ اَنْتَ الْمَانِحُ الْفَاتِحُ، تَمْنَحُ مَا شِئْتَ مِنْ مَّوَاهِبِ رَبَّانِيَّتِكَ لِمَنْ شِئْتَ مِمَّنْ خَصَّصْتَهٗ بِرَهْبَانِيَّتِكَ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَحْشُرَنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَ اَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِ سُنَّتِهٖ وَلَا تُخَالِفَ بِنَا يَا مَوْلَانَا عَنْ مِّلَّتِهٖ وَلَا عَنْ طَرِيْقَتِهٖ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَا، مُجِيْبٌ لِّمَنْ دَعَا، اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ كَمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِفَهْمِ الْكِتَابِ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْهِ لِاَنَّهٗ شِفَآءٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔ 54

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةَ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرَضِيْنَ عَلَيْهِ وَاَجْرِ يَا رَبِّ لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِىْ اَمْرِىْ وَالْمُسْلِمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِبَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَخَزَانَةِ رَحْمَتِكَ، وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ وَمُشَاهَدَتِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِىْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقٰى بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ۔
- اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَا ِالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالْوَسِيْلَةَ فِى الْجَنَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔
- اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَّ سَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى نَبِيٍّ تَحُلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَآئِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ

الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ مَعَ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ وَ عَلٰی اَبِيْنَا آدَمَ وَ اُمِّنَا حَوَّآءَ وَ مَنْ وَّلَدَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَ صَلِّ عَلٰی مَلَآئِكَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرَضِيْنَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ وَ دَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِكَ كَآئِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً دَآئِمَةً ، بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً ، بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰی لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، النَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ اَلْهَادِیْ اِلٰی صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰی آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ مِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقُطْبِ الْكَامِلِ وَ عَلٰی اَخِيْهِ جِبْرِيْلَ الْمُطَوَّقِ بِالنُّوْرِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَزِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا فِیْ عِلْمِكَ عَدَدَ اَفْرَادِ جَوَاهِرِ كُرَّةِ الْعَالَمِ وَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ الذَّاتِیِّ وَ السِّرِّ السَّارِیْ فِیْ جَمِيْعِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَهْلِ بَيْتِهٖ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی النَّبِيِّيْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِيْنَ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَاِ الْاَعْلٰی اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا يَبْقٰی مِنَ الصَّلَاةِ شَیْءٌ، وَ ارْحَمْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا حَتّٰی لَا يَبْقٰی مِنَ السَّلَامِ شَیْءٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَ الْاٰفَاتِ وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لَهٗ جَزَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ۔
- اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنِّيْ تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَآءً۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالسَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ الرَّحْمَةُ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا اِنْتِهَآءَ وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا اِنْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ وَ تُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ وَ تُنْقِذُنِيْ بِهَا مِنْ وَّحْلَتِيْ وَ تُقِيْلُ بِهَا عَثْرَتِيْ وَ تَقْضِيْ بِهَا حَاجَتِيْ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

55 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللهِ۔

- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طُهْرُ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آبَا الْقَاسِمِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى آلِكَ وَ اَهْلِ بَيْتِكَ وَ اَزْوَاجِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ اَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَ جَمِيْعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ۔

جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا وَّ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَّ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ، اَفْضَلَ وَ اَكْمَلَ وَ اَطْيَبَ مَا صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَ خِيَرَتُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَ جَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ وَ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا ِۨالَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ آتِهٖ نِهَايَةَ مَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَّسْاَلَهُ السَّآئِلُوْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَلْوِرْدُ الثَّانِيْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}

{لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ} 56

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِاَسْمَآئِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً هُوَ اَهْلُهَا۔

- اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاجْزِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيْمِ۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ فَلَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ صَلَاةً مُّبَارَكَةً طَيِّبَةً كَمَآ اَمَرْتَ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ وَّارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ رَّحْمَتِكَ شَيْءٌ وَّبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَاَفْلِحْ وَاَنْجِحْ وَاَتِمَّ وَاَصْلِحْ وَزَكِّ وَارْبِحْ وَاَوْفِ وَاَرْجِحْ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَاَجْزَلَ الْمِنَنِ وَالتَّحِيَّاتِ عَلٰى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ هُوَ فَلَقُ صُبْحِ اَنْوَارِ الْوَحْدَانِيَّةِ، وَطَلْعَةُ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَبَهْجَةُ قَمَرِ الْحَقَآئِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ، وَحَضْرَةُ عَرْضِ الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ نُوْرُ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّسَنَاهُ {يٰسٓ ۰ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۰ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۰ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ} وَسِرُّ كُلِّ نَبِيٍّ وَّهُدَاهُ {ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ} وَجَوْهَرُ كُلِّ وَلِيٍّ وَّضِيَاهُ {سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْكَرَامَةِ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَالْمَيْرِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالْعَطَايَا وَالْغَزْوِ وَالْجِهَادِ

وَ الْمَغْنَمِ وَ الْمُقْسَمِ صَاحِبِ الْآيَاتِ وَ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ صَاحِبِ الْحَجِّ وَ الْحَلْقِ وَ التَّلْبِيَةِ صَاحِبِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ الْمَقَامِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الْمِحْرَابِ وَ الْمِنْبَرِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الشَّفَاعَةِ وَ السُّجُوْدِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُوْدِ، صَاحِبِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ، وَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَاتٍ، صَاحِبِ الْعَلَمِ الطَّوِيْلِ، وَ الْكَلَامِ الْجَمِيْلِ، صَاحِبِ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَ الصِّدْقِ وَ التَّصْدِيْقِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْمِحَنِ وَ الْإِحَنِ وَ الْأَهْوَالِ وَ الْبَلِيَّاتِ وَ تَسْلَمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ وَ الْأَسْقَامِ وَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْعُيُوْبِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ تَغْفِرُ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الذُّنُوْبَاتِ، وَ تَمْحُوْ بِهَا عَنَّا جَمِيْعَ الْخَطِيْئَاتِ، وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ مَا نَطْلُبُهٗ مِنَ الْحَاجَاتِ، وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ يَا رَبِّ يَا اللهُ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ۔

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيْ فِيْ مُدَّةِ حَيَاتِيْ وَ بَعْدَ مَمَاتِيْ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذٰلِكَ أَلْفَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَّ سَلَامٍ مَّضْرُوْبِيْنَ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ وَ أَمْثَالِ أَمْثَالِ ذٰلِكَ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ أَوْلَادِهٖ وَ أَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ أَهْلِ بَيْتِهٖ وَ أَصْهَارِهٖ وَ أَنْصَارِهٖ وَ أَشْيَاعِهٖ وَ أَتْبَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهِ وَ خُدَّامِهٖ وَ حُجَّابِهٖ، إِلٰهِيْ اِجْعَلْ كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ ذٰلِكَ تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِيْنَ أَجْمَعِيْنَ كَفَضْلِهِ الَّذِيْ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى كَافَّةِ خَلْقِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْمُلْكِ، وَ دَالِ الدَّوَامِ، بَحْرِ أَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ أَسْرَارِكَ، وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، وَ عَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ، وَ صَفِيِّكَ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ، وَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنْتَقَى الْمُرْتَضٰى عَيْنِ الْعِنَايَةِ وَ زَيْنِ الْقِيَامَةِ، وَ كَنْزِ الْهِدَايَةِ، وَ إِمَامِ الْحَضْرَةِ، وَ أَمِيْنِ الْمَمْلَكَةِ، طِرَازِ الْحُلَّةِ، وَ كَنْزِ الْحَقِيْقَةِ، وَ شَمْسِ الشَّرِيْعَةِ كَاشِفِ دَيَاجِي الظُّلْمَةِ وَ نَاصِرِ الْمِلَّةِ، وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَ شَفِيْعِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَخْشَعُ الْأَصْوَاتُ وَ تَشْخَصُ الْأَبْصَارُ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْأَبْلَجِ، وَ الْبَهَاءِ الْأَبْهَجِ، نَامُوْسِ تَوْرَاةِ مُوْسٰى، وَ قَامُوْسِ إِنْجِيْلِ عِيْسٰى، صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهٗ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ طِلَسْمِ الْفُلْكِ

الْاَطْلَسِ، فِيْ بُطُوْنِ كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ طَاؤُوْسَ الْمُلْكِ الْمُقَدَّسِ، فِيْ ظُهُوْرِ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَتَعَرَّفْتُ اِلَيْهِمْ فَبِيْ عَرَفُوْنِيْ قُرَّةُ عَيْنِ الْيَقِيْنِ، مِرْآةُ اُولِى الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، اِلٰى شُهُوْدِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ نُوْرِ اَنْوَارِ اَبْصَارِ بَصَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، وَ مَحَلِّ نَظْرِكَ وَسَعَةِ رَحْمَتِكَ مِنَ الْعَوَالِمِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ، وَ اَتْحِفْ وَ اَنْعِمْ، وَ امْنَحْ وَ اَكْرِمْ، وَ اَجْزِلْ وَ اَعْظِمْ اَفْضَلَ صَلَاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ صَلَاةً وَّسَلَامًا يَتَنَزَّلَانِ مِنْ اُفُقِ كُنْهِ بَاطِنِ الذَّاتِ اِلٰى فَلَكِ سَمَآءِ مَظَاهِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، وَ يَرْتَقِيَانِ عِنْدَ سِدْرَةِ مُنْتَهَى الْعَارِفِيْنَ، اِلٰى مَرْكَزِ جَلَالِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ عِلْمِ يَقِيْنِ الْعُلَمَآءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ وَ عَيْنِ يَقِيْنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَ حَقِّ يَقِيْنِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ الَّذِيْ تَاهَتْ فِيْ اَنْوَارِ جَلَالِهٖ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ تَحَيَّرَتْ فِيْ دَرْكِ حَقَآئِقِهٖ عُظَمَآءُ الْمَلَآئِكَةِ الْمُهَيَّمِيْنَ، اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ {لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ صَلَاةَ ذَاتِكَ عَلٰى حَضْرَةِ صِفَاتِكَ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْكَمَالِ الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْمَخْلُوْقِيْنَ فِى الْمِثَالِ يَنْبُوْعِ الْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ حِيْطَةِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ غَايَةِ مُنْتَهَى السَّآئِلِيْنَ وَ دَلِيْلِ كُلِّ حَآئِرٍ مِّنَ السَّالِكِيْنَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُوْدِ بِالْاَوْصَافِ وَ الذَّاتِ وَ اَحْمَدَ مَنْ مَّضٰى وَ مَنْ هُوَ اٰتٍ وَّ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا بِدَايَةِ الْاَزَلِ وَ غَايَةِ الْاَبَدِ حَتّٰى لَا يَحْصُرَهٗ عَدَدٌ، وَلَا يُنْهِيْهِ اَمَدٌ، وَ ارْضَ عَنْ تَوَابِعِهٖ فِى الشَّرِيْعَةِ وَ الطَّرِيْقَةِ وَ الْحَقِيْقَةِ مِنَ الْاَصْحَابِ وَ الْعُلَمَآءِ وَ اَهْلِ الطَّرِيْقَةِ وَ اجْعَلْنَا يَا مَوْلَانَا مِنْهُمْ حَقِيْقَةً۔ اٰمِيْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَتْحِ اَبْوَابِ حَضْرَتِكَ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ بِخَلْقِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِلٰى جِنِّكَ وَ اِنْسِكَ وَحْدَانِيِّ الذَّاتِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ الْوَاضِحَاتُ، مُقِيْلِ الْعَثَرَاتِ وَ سَيِّدِ السَّادَاتِ مَاحِى الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَاتِ، بِالسُّيُوْفِ الصَّارِمَاتِ، اَلْاٰمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهِيْ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ، اَلثَّمِلِ مِنْ شَرَابِ الْمُشَاهَدَاتِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ لَّهُ الْاَخْلَاقُ الرَّضِيَّةُ، وَ الْاَوْصَافُ الْمَرْضِيَّةُ، وَ الْاَقْوَالُ الشَّرْعِيَّةُ، وَ الْاَحْوَالُ الْحَقِيْقِيَّةُ وَ الْعِنَايَاتُ الْاَزَلِيَّةُ وَ السَّعَادَاتُ الْاَبَدِيَّةُ، وَ الْفُتُوْحَاتُ الْمَكِّيَّةُ وَ الظُّهُوْرَاتُ الْمَدَنِيَّةُ وَ الْكَمَالَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ وَ الْمَعَالِمُ الرَّبَّانِيَّةُ وَ سِرُّ الْبَرِيَّةُ وَ شَفِيْعُنَا يَوْمَ

بَعْثِنَا، اَلْمُسْتَغْفِرُ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا، اَلدَّاعِيْ اِلَيْكَ وَ الْمُقْتَدٰى بِهٖ لِمَنْ اَرَادَ الْوُصُوْلَ اِلَيْكَ، اَلْاَنِيْسُ بِكَ وَ الْمُسْتَوْحِشُ مِنْ غَيْرِكَ حَتّٰى تَمَتَّعَ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ وَ رَجَعَ بِكَ لَا بِغَيْرِكَ وَ شَهِدَ وَحْدَتَكَ فِيْ كَثْرَتِكَ وَ قُلْتَ لَهٗ بِلِسَانِ حَالِكَ وَ قَوَّيْتَهٗ بِكَمَالِكَ {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ} اَلذَّاكِرُ لَكَ فِيْ لَيْلِكَ وَ الصَّآئِمُ لَكَ فِيْ نَهَارِكَ وَ الْمَعْرُوْفُ عِنْدَ مَلَآئِكَتِكَ اَنَّهٗ خَيْرُ خَلْقِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِالْحَرْفِ الْجَامِعِ لِمَعَانِيْ كَمَالِكَ نَسْئَلُكَ اِيَّاكَ بِكَ اَنْ تُرِيَنَا وَجْهَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْ تَمْحُوَ عَنَّا وُجُوْدَ ذُنُوْبِنَا بِمُشَاهَدَةِ جَمَالِكَ وَ تُغَيِّبَنَا عَنَّا فِيْ بِحَارِ اَنْوَارِكَ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الشَّوَاغِلِ الدُّنْيَوِيَّةِ رَاغِبِيْنَ اِلَيْكَ غَآئِبِيْنَ بِكَ يَا هُوَ يَآ اَللّٰهُ يَا هُوَ يَآ اَللّٰهُ يَا هُوَ يَآ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ اَسْقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَ اَغْمِسْنَا فِيْ بِحَارِ اَحَدِيَّتِكَ حَتّٰى نَرْتَعَ فِيْ بُحْبُوْحَةِ حَضْرَتِكَ وَ تَقَطَّعَ عَنَّآ اَوْهَامُ خَلِيْقَتِكَ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ نَوِّرْنَا بِنُوْرِ طَاعَتِكَ وَ اهْدِنَا وَلَا تُضِلَّنَا وَ بَصِّرْنَا بِعُيُوْبِنَا عَنْ عُيُوْبِ غَيْرِنَا بِحُرْمَةِ نَبِيِّنَا وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ مَصَابِيْحِ الْوُجُوْدِ وَ اَهْلِ الشُّهُوْدِ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ نَسْئَلُكَ اَنْ تُلْحِقَنَا بِهِمْ وَ تَمْنَحَنَا حُبَّهُمْ يَآ اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۰ وَ تُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ} وَ هَبْ لَنَا مَعْرِفَةً نَّافِعَةً اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ، نَسْئَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنَا رُؤْيَةَ وَجْهِ نَبِيِّنَا فِيْ مَنَامِنَا وَ يَقْظَتِنَا وَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَآئِمَةً اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى خَيْرِنَا وَ كُنْ لَّنَا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا، وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا، عَلٰى اَشْرَفِ الْخَلَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ الْجَآنِّيَّةِ وَ مَجْمَعِ الرَّقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَ مَهْبِطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّيْنَ وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ قَآئِدِ رَكْبِ الْاَوْلِيَآءِ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ اَفْضَلِ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ وَ شَاهِدِ اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ وَ الْحِكَمِ، مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ، وَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعُلْوِيِّ وَ السُّفْلِيِّ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، اَلْمُتَحَقِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ الْعُبُوْدِيَّةِ، اَلْمُتَخَلِّقِ بِاَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ الْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَآئِمًا۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنُوْرِهِ السَّارِيْ فِي الْوُجُوْدِ اَنْ تُحْيِيَ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ حَيَاةِ قَلْبِهِ الْوَاسِعِ لِكُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا، وَّ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ اَنْ تَشْرَحَ صُدُوْرَنَا بِنُوْرِ صَدْرِهِ الْجَامِعِ {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} وَّ ضِيَآءً وَّ ذِكْرٰى لِلْمُتَّقِيْنَ وَ تُطَهِّرَ نُفُوْسَنَا بِطَهَارَةِ نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَ تُعَلِّمَنَا بِاَنْوَارِ عُلُوْمِهٖ {وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ} وَ تُسْرِيَ سَرَآئِرَهٗ فِيْنَا بِلَوَامِعِ اَنْوَارِكَ حَتّٰى تُغَيِّبَنَا عَنَّا فِيْ

حَقِّ حَقِيْقَتِهٖ فَيَكُوْنُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ فِيْنَا بَقَيُّوْمِيَّتِكَ السِّرِّ مَدِيَّةٍ فَتَعِيْشُ بِرُوْحِهٖ عَيْشَ الْحَيَاةِ الْاَبَدِيَّةِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اٰمِيْنَ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ عَلَيْنَا يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا
رَحْمٰنُ وَ بِتَجَلِّيَاتِ مَنَازِلَاتِكَ فِيْ مِرْاٰةِ شُهُوْدِهٖ لِمَنَازِلَاتِ تَجَلِّيَاتِكَ فَتَكُوْنُ فِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فِيْ وِلَايَةِ
الْاَقْرَبِيْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ لُطْفِكَ وَ حَنَانِ عَطْفِكَ وَ جَلَالِ مُلْكِكَ وَ
كَمَالِ قُدْسِكَ وَ النُّوْرِ الْمُطْلَقِ بِسِرِّ الْمَعِيَّةِ الَّتِيْ لَا تَتَقَيَّدُ الْبَاطِنِ مَعْنًى فِيْ غَيْبِكَ الظَّاهِرِ حَقًّا
فِيْ شَهَادَتِكَ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ مُجَلِّيْ حَضْرَةِ الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ مُنَازِلِ الْكُتُبِ الْقَيِّمَةِ
وَ نُوْرِ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ الَّذِيْ خَلَقْتَهٗ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ وَ حَقَّقْتَهٗ بِاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ وَ خَلَقْتَ مِنْ
نُّوْرِهِ الْاَنْبِيَآءَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ تَعَرَّفْتَ اِلَيْهِمْ بِاَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِكَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ { وَ اِذْ
اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ
فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ }۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى بَهْجَةِ الْكَمَالِ، وَ تَاجِ الْجَلَالِ، وَ بَهَآءِ الْجَمَالِ، وَ شَمْسِ الْوِصَالِ وَ عَبَقِ
الْوُجُوْدِ، وَ حَيَاةِ كُلِّ مَوْجُوْدٍ، عِزِّ جَلَالِ سَلْطَنَتِكَ وَ جَلَالِ عِزِّ مَمْلَكَتِكَ، وَ مَلِيْكِ صُنْعِ قُدْرَتِكَ، وَ
طِرَازِ الصَّفْوَةِ مِنْ اَهْلِ صَفْوَتِكَ وَ خُلَاصَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ اَهْلِ قُرْبِكَ سِرِّ اللهِ الْاَعْظَمِ وَ حَبِيْبِ اللهِ
الْاَكْرَمِ وَ خَلِيْلِ اللهِ الْمُكَرَّمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَيْكَ وَ نَتَشَفَّعُ بِهٖ لَدَيْكَ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى، وَ الْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَ الشَّرِيْعَةِ
الْغَرَّا، وَ الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا وَ الْمَنْزِلَةِ الزُّلْفٰى، وَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى اَنْ تُحَقِّقَنَا بِهٖ ذَاتًا وَّ صِفَاتًا وَّ اَسْمَآءً وَّ
اَفْعَالًا وَّ اٰثَارًا حَتّٰى لَا نَرٰى وَلَا نَسْمَعَ وَلَا نُحِسَّ وَلَا نَجِدَ اِلَّا اِيَّاكَ، اِلٰهِيْ وَ سَيِّدِيْ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ اَسْئَلُكَ
اَنْ تَجْعَلَ هُوِيَّتَنَا عَيْنَ هُوِيَّتِهٖ فِيْ اَوَآئِلِهٖ وَ نِهَايَتِهٖ وَ بُوُدِّ خُلَّتِهٖ وَ صَفَآءِ مَحَبَّتِهٖ وَ فَوَاتِحِ اَنْوَارِ بَصِيْرَتِهٖ وَ جَوَامِعِ
اَسْرَارِ سَرِيْرَتِهٖ وَ رَحِيْمِ رُحَمَآئِهٖ وَ نَعِيْمِ نُعَمَآئِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَغْفِرَةَ وَ الرِّضَا وَ الْقَبُوْلَ قَبُوْلًا تَآمًّا لَا تَكِلْنَا فِيْهِ اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ يَا نِعْمَ
الْمُجِيْبُ فَقَدْ دَخَلَ الدَّخِيْلُ يَا مَوْلَايَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِنَّ غُفْرَانَ
ذُنُوْبِ الْخَلْقِ بِاَجْمَعِهِمْ اَوَّلِهِمْ وَ اٰخِرِهِمْ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ كَقَطْرَةٍ فِيْ بَحْرِ جُوْدِكَ الْوَاسِعِ الَّذِيْ لَا سَاحِلَ
لَهٗ فَقَدْ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ { وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ } صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ
اَجْمَعِيْنَ { رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا } { رَبِّ اَنِّيْ
مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ } { رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ } يَا عَوْنَ الضُّعَفَآءِ يَا عَظِيْمَ
الرَّجَآءِ يَا مُنْقِذَ الْغَرْقٰى يَا مُنْجِيَ الْهَلْكٰى يَا نِعْمَ الْمَوْلٰى يَا اَمَانَ الْخَآئِفِيْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ

إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْجَامِعِ الْاَكْمَلِ، وَالْقُطْبِ الرَّبَّانِيِّ الْاَفْضَلِ، طِرَازِ حُلَّةِ الْإِيْمَانِ، وَمَعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْإِحْسَانِ، صَاحِبِ الْهِمَمِ السَّمَاوِيَّةِ، وَالْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُوْدَ لِاَجْلِهٖ وَرَخَّصْتَ الْاَشْيَآءَ بِسَبَبِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ صَاحِبِ الْمَكَارِمِ وَالْجُوْدِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْاَقْطَابِ السَّابِقِيْنَ اِلٰى جَنَابِ ذٰلِكَ الْجَنَابِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْبَهِيِّ وَالْبَيَانِ الْجَلِيِّ وَاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَالدِّيْنِ الْحَنِيْفِيِّ، الْمُرْسَلِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ الْمُؤَيَّدِ بِالرُّوْحِ الْاَمِيْنِ وَبِالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَرَحْمَةِ اللهِ لِلْعَالَمِيْنَ وَالْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ خَلَقْتَهٗ مِنْ نُّوْرِكَ وَجَعَلْتَ كَلَامَهٗ مِنْ كَلَامِكَ وَفَضَّلْتَهٗ عَلٰى اَنْبِيَآئِكَ وَجَعَلْتَ السِّعَايَةَ مِنْكَ اِلَيْهِ وَمِنْهُ اِلَيْهِمْ كَمَالَ كُلِّ وَلِيٍّ لَّكَ وَهَادِيْ كُلَّ مُضِلٍّ عَنْكَ هَادِي الْخَلْقَ اِلَى الْحَقِّ تَارِكِ الْاَشْيَآءِ لِاَجْلِكَ، وَمَعْدِنِ الْخَيْرَاتِ بِفَضْلِكَ، وَخَاطَبْتَهٗ عَلٰى بِسَاطِ قُرْبِكَ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا، اَلْقَآئِمِ لَكَ فِيْ لَيْلِكَ وَالصَّآئِمِ لَكَ فِيْ نَهَارِكَ وَالْهَآئِمِ بِكَ فِيْ جَلَالِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ الْخَلِيْفَةِ الْمُشْتَغِلِ بِذِكْرِكَ الْمُتَفَكِّرِ فِيْ خَلْقِكَ وَالْاَمِيْنِ لِسِرِّكَ وَالْبُرْهَانِ لِرُسُلِكَ الْحَاضِرِ فِيْ سَرَآئِرِ قُدْسِكَ وَالْمُشَاهِدِ لِجَمَالِ جَلَالِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُفَسِّرِ لِاٰيَاتِكَ وَالظَّاهِرِ فِيْ مُلْكِكَ وَالْغَآئِبِ فِيْ مَلَكُوْتِكَ، وَالْمُتَخَلِّقِ بِصِفَاتِكَ وَالدَّاعِيْ اِلٰى جَبَرُوْتِكَ، الْحَضْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَالْبُرْدَةِ الْجَلَالِيَّةِ، وَالسَّرَابِيْلِ الْجَمَالِيَّةِ، الْعَرِيْشِ السَّقِيِّ، وَالْحَبِيْبِ النَّبَوِيِّ، وَالنُّوْرِ الْبَهِيِّ وَالدُّرِّ النَّقِيِّ وَالْمِصْبَاحِ الْقَوِيِّ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَرُوْحِ اَرْوَاحِ عِبَادِكَ، الدُّرَّةِ الْفَاخِرَةِ، وَالْعَبِقَةِ النَّافِحَةِ بُؤْبُؤِ الْمَوْجُوْدَاتِ، وَحَآءِ الرَّحْمَاتِ وَجِيْمِ الدَّرَجَاتِ، وَسِيْنِ السَّعَادَاتِ، وَنُوْنِ الْعِنَايَاتِ وَكَمَالِ الْكُلِّيَّاتِ، وَمَنْشَأِ الْاَزَلِيَّاتِ، وَخَتْمِ الْاَبَدِيَّاتِ، الْمَشْغُوْلِ بِكَ عَنِ الْاَشْيَآءِ الدُّنْيَوِيَّاتِ الطَّاعِمِ مِنْ ثَمَرَاتِ الْمُشَاهَدَاتِ الْمُسْقِيِّ مِنْ اَسْرَارِ الْقُدْسِيَّاتِ، الْعَالِمِ بِالْمَاضِيْ وَالْمُسْتَقْبِلَاتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهِ الْاَخْيَارِ وَاَصْحَابِهِ الْاَبْرَارِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ وَعَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ وَعَلٰى مَنْظَرِهٖ فِي الْمَنَاظِرِ وَعَلٰى سَمْعِهٖ فِي الْمَسَامِعِ وَعَلٰى حَرَكَتِهٖ فِي الْحَرَكَاتِ وَعَلٰى سُكُوْنِهٖ فِي السَّكَنَاتِ وَعَلٰى قُعُوْدِهٖ فِي الْقُعُوْدَاتِ وَعَلٰى قِيَامِهٖ فِيْ

الْقِيَامَاتِ وَ عَلٰى لِسَانِهِ الْبَشَّاشِ الْاَزَلِيِّ وَ الْخَتْمِ الْاَبَدِيِّ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَعْطَيْتَهٗ وَ كَرَّمْتَهٗ وَ فَضَّلْتَهٗ وَ نَصَرْتَهٗ وَ اَعَنْتَهٗ وَ قَرَّبْتَهٗ وَ اَدْنَيْتَهٗ وَ سَقَيْتَهٗ وَ مَكَّنْتَهٗ وَ مَلَأْتَهٗ بِعِلْمِكَ الْاَنْفُسِ وَ بَسَطْتَهٗ بِحُبِّكَ الْاَطْوَسِ وَ زَيَّنْتَهٗ بِقَوْلِكَ الْاَقْبَسِ فَخْرِ الْاَفْلَاكِ وَ عَذْبِ الْاَخْلَاقِ وَ نُوْرِكَ الْمُبِيْنِ وَ عَبْدِكَ الْقَدِيْمِ وَ حَبْلِكَ الْمَتِيْنِ وَ حِصْنِكَ الْحَصِيْنِ وَ جَلَالِكَ الْحَكِيْمِ وَ جَمَالِكَ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ مَصَابِيْحِ الْهُدٰى وَ قَنَادِيْلِ الْوُجُوْدِ وَ كَمَالِ السُّعُوْدِ الْمُطَهَّرِيْنَ مِنَ الْعُيُوْبِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَ رِيْحًا تَفُكُّ بِهَا الْكُرَبُ وَ تَرَحُّمًا تَزِيْلُ بِهِ الْعَطَبُ وَ تَكْرِيْمًا تَقْضِيْ بِهِ الْاِرَبُ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ نَسْئَلُكَ مِنْ فَضَائِلِ لُطْفِكَ وَ غَرَائِبِ فَضْلِكَ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً وَّ لِحَقِّهٖ اَدَاءً وَّ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ وَ نَسْئَلُكَ وَ نَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِكِتَابِكَ الْعَزِيْزِ وَ نَبِيِّكَ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِشَرَفِهِ الْمَجِيْدِ وَ بِاَبَوَيْهِ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ، وَ بِصَاحِبَيْهِ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ ذِي النُّوْرَيْنِ عُثْمَانَ وَ آلِهٖ فَاطِمَةَ وَ عَلِيٍّ وَّ وَلَدَيْهِمَا الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَمَّيْهِ حَمْزَةَ وَ الْعَبَّاسِ وَ زَوْجَتَيْهِ خَدِيْجَةَ وَ عَائِشَةَ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اَبَوَيْهِ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ وَ عَلٰى آلِ كُلٍّ وَّ صَحْبِ كُلٍّ صَلَاةً يُّتَرْجِمُهَا لِسَانُ الْاَزَلِ فِيْ رِيَاضِ الْمَلَكُوْتِ وَ عَلَى الْمَقَامَاتِ وَ نَيْلِ الْكَرَامَاتِ وَ رَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَ يَنْعِقُ بِهَا لِسَانُ الْاَبَدِ فِيْ حَضِيْضِ النَّاسُوْتِ بِغُفْرَانِ الذُّنُوْبِ وَ كَشْفِ الْكُرُوْبِ وَ دَفْعِ الْمُهِمَّاتِ كَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِاِلٰهِيَّتِكَ وَ شَأْنِكَ الْعَظِيْمِ وَ كَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِاَهْلِيَّتِهِمْ وَ مَنْصَبِهِمِ الْكَرِيْمِ بِخُصُوْصِ خَصَائِصِ {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ}۔

اَللّٰهُمَّ حَقِّقْنَا بِسَرَائِرِهِمْ فِيْ مَدَارِجِ مَعَارِفِهِمْ بِمَثُوْبَةِ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْفَوْزَ بِالسَّعَادَةِ الْكُبْرٰى بِمَوَدَّتِهِ الْقُرْبٰى وَ عُمَّنَا فِيْ عِزَّةِ الْمَصْمُوْدِ فِيْ مَقَامِهِ الْمَحْمُوْدِ تَحْتَ لِوَائِهِ الْمَعْقُوْدِ وَ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِ عِرْفَانِ مَعْرُوْفِهِ الْمَوْرُوْدِ {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ} صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِبُرُوْزِ بَشَارَةِ قُلْ يُسْمَعْ وَ سَلْ تُعْطَ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ بِظُهُوْرِ بَشَارَةِ {وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى}

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِعِزِّ جَلَالِكَ وَبِجَلَالِ عِزَّتِكَ وَبِقُدْرَةِ سُلْطَانِكَ وَبِسُلْطَانِ قُدْرَتِكَ وَبِحُبِّ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقَطِيْعَةِ وَ الْاَهْوَاءِ الرَّدِيْئَةِ يَا ظَهِيْرَ اللَّاجِئِيْنَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ اَجِرْنَا مِنَ الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ وَاحْفَظْنَا مِنَ الشَّهَوَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ وَطَهِّرْنَا مِنْ قَاذُوْرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَصَفِّنَا بِصَفَاءِ الْمَحَبَّةِ الصِّدِّيْقِيَّةِ مِنْ صَدَأِ الْغَفْلَةِ وَ وَهْمِ الْجَهْلِ حَتّٰى تَضْمَحِلَّ رُسُوْمُنَا بِفَنَاءِ الْاَنَانِيَّةِ وَ مُبَايَنَةِ الطَّبِيْعَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الْجَمْعِ وَ التَّخْلِيَةِ وَ التَّحَلِّيْ بِالْاُلُوْهِيَّةِ الْاَحَدِيَّةِ وَ التَّجَلِّيْ بِالْحَقَائِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ فِيْ شُهُوْدِ الْوَحْدَانِيَّةِ حَيْثُ لَا حَيْثُ وَلَا اَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَ يَبْقَى الْكُلُّ لِلّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَ مَعَ اللّٰهِ غَرْقًا بِنِعْمَةِ اللّٰهِ فِيْ حِبْرِ مِنَّةِ اللّٰهِ مَنْصُوْرِيْنَ بِسَيْفِ اللّٰهِ مَخْصُوْصِيْنَ بِمَكَارِمِ اللّٰهِ مَلْحُوْظِيْنَ بِعَيْنِ اللّٰهِ مَحْظُوْظِيْنَ بِعِنَايَةِ اللّٰهِ مَحْفُوْظِيْنَ بِعِصْمَةِ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ يَّشْغَلُ عَنِ اللّٰهِ وَخَاطِرٍ يَّخْطُرُ فِيْ غَيْرِ اللّٰهِ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ۔

اَللّٰهُمَّ اشْغَلْنَا بِكَ وَهَبْ لَنَا هِبَةً لَّا سِعَةَ فِيْهَا لِغَيْرِكَ وَلَا مَدْخَلَ فِيْهَا لِسِوَاكَ وَاسِعَةً بِالْعُلُوْمِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ الصِّفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ الْاَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ قَوِّ عَقَائِدَنَا بِحُسْنِ الظَّنِّ الْجَمِيْلِ وَ حَقِّ الْيَقِيْنِ وَ حَقِيْقَةِ التَّمْكِيْنِ وَ سَدِّدْ اَحْوَالَنَا بِالتَّوْفِيْقِ وَ السَّعَادَةِ وَ حُسْنِ الْيَقِيْنِ وَ شُدَّ قَوَاعِدَنَا عَلٰى صِرَاطِ الْاِسْتِقَامَةِ وَ قَوَاعِدِ الْعِزِّ الرَّصِيْنِ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ شَيِّدْ مَقَاصِدَنَا فِي الْمَجْدِ الْاَثِيْلِ عَلٰى اَعْلٰى ذِرْوَةِ الْكَرَامَةِ وَ عَزَائِمِ اُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنَا بِاَلْطَافِ رَحْمَتِكَ مِنْ ضَلَالِ الْبُعْدِ وَ اشْمَلْنَا بِنَفَحَاتِ عِنَايَتِكَ فِيْ مَصَارِعِ الْحُبِّ، وَ اَسْعِفْنَا بِاَنْوَارِ هِدَايَتِكَ فِيْ حَظَائِرِ الْغُرْبِ، وَاَيِّدْنَا بِنَصْرِكَ الْعَزِيْزِ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا، بِالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۰ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ}۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، يَا عِمَادَ مَنْ لَّا عِمَادَ لَهٗ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهٗ، يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيْرٍ، يَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيْبٍ، يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ {لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ} {اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ} {وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ} صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا مَعَهٗ بِشَفَاعَتِهٖ وَ ضَمَانِهٖ وَ رِعَايَتِهٖ مَعَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ بِدَارِكَ دَارِ السَّلَامِ {فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ

عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ } يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، وَ اَتْحِفْنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ بِلَطِيْفِ مَنَازِلَتِهٖ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ
اَكْرِمْنَا بِالنَّظَرِ اِلٰى جَمَالِ سُبُحَاتِ وَجْهِكَ الْعَظِيْمِ، وَ احْفَظْنَا بِكَرَامَتِهٖ بِالتَّكْرِيْمِ وَ التَّبْجِيْلِ وَ التَّعْظِيْمِ،
وَ اَكْرِمْنَا بِنُزُلِهٖ { نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ } فِيْ رَوْضِ رِضْوَانِ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ اَبَدًا
وَ اُعْطِيْكُمْ مَفَاتِيْحَ الْغَيْبِ لِخَزَآئِنِ السِّرِّ الْمَكْنُوْنِ فِيْ مَكْنُوْنِ جَنَّاتٍ مَّعَارِفِ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ بِاَنْوَارِ
ذَاتٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ { وَ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۚ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ } بِانْعِطَافِ رَافَةِ الرَّأْفَةِ
الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنْ عَيْنِ عِنَايَتِهٖ { فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ } فِيْ مَحَاسِنِ قُصُوْرِ ذَخَآئِرِ سَرَآئِرِ {
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ } فِيْ مِنَصَّةِ مَحَاسِنِ خَوَاتِمِ {
دَعْوٰاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوٰاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } .

57 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ
خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ، وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا
اِنْقِضَاءَ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ .

58 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَّ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّ عَدَدًا عَلٰى اَشْرَفِ
الْحَقَآئِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَ مَعْدِنِ الدَّقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَ طُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِحْسَانِيَّةِ وَ مَهْبِطِ الْاَسْرَارِ
الرَّحْمَانِيَّةِ وَ عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِيِّيْنَ وَ مُقَدَّمِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اَفْضَلِ
الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ الْاَعْلٰى، وَ مَالِكِ اَزِمَّةِ الشَّرَفِ الْاَسْنٰى، شَاهِدِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ وَ مُشَاهِدِ
اَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْاُوَلِ وَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ وَ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ، مَظْهَرِ سِرِّ الْجُوْدِ الْجُزْئِيِّ وَ الْكُلِّيِّ، وَ
اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ الْعَلْوِيِّ وَ السِّفْلِيِّ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ عَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، الْمُتَخَلِّقِ بِاَعْلٰى رُتَبِ
الْعُبُوْدِيَّةِ الْمُتَحَقِّقِ بِاَسْرَارِ الْمَقَامَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، سَيِّدِ الْاَشْرَافِ، وَ جَامِعِ الْاَوْصَافِ، الْخَلِيْلِ
الْاَعْظَمِ، وَ الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ الْمَخْصُوْصِ بِاَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَ الْمَقَامَاتِ، وَ الْمُؤَيَّدِ بِاَوْضَحِ الْبَرَاهِيْنِ وَ
الدَّلَالَاتِ، الْمَنْصُوْرِ بِالرُّعْبِ وَ الْمُعْجِزَاتِ، وَ الْجَوْهَرِ الشَّرِيْفِ الْاَبَدِيِّ، وَ النُّوْرِ الْقَدِيْمِ السَّرْمَدِيِّ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ ِ الْمَحْمُوْدِ فِي الْاِيْجَادِ وَ الْوُجُوْدِ، الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ حَضْرَةِ
الْمُشَاهَدَةِ وَ الشُّهُوْدِ نُوْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدَاهُ سِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَّ سَنَاهُ الَّذِيْ انْشَقَّتْ مِنْهُ الْاَنْوَارُ، اَلسِّرِّ الْبَاطِنِ، وَ
النُّوْرِ الظَّاهِرِ، اَلسَّيِّدِ الْكَامِلِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ، الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ، الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ، الْعَاقِبِ الْحَاشِرِ، النَّاهِي
الْاٰمِرِ، النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ، الْقَانِتِ الذَّاكِرِ، الْمَاحِي الْمَاجِدِ، الْعَزِيْزِ الْحَامِدِ، الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ
الْمُتَوَكِّلِ الزَّاهِدِ الْقَآئِمِ الطَّآئِعِ الشَّهِيْدِ، الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ، الْبُرْهَانِ الْحُجَّةِ الْمُطَاعِ الْمُخْتَارِ الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ
الْبَرِّ الْمُسْتَنْصِرِ، الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ، الْحَقِّ الْمُبِيْنِ طٰهٰ وَ يٰسٓ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَ خَاتَمِ
النَّبِيِّيْنَ، وَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى، وَ الرَّسُوْلِ الْمُجْتَبٰى، اَلْحَكَمِ الْعَدْلِ الْحَكِيْمِ الْعَلِيْمِ،
الْعَزِيْزِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، نُوْرِكَ الْقَدِيْمِ وَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ

وَ صَفِيِّكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ دَلِيْلِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ ذَخِيْرَتِكَ، اِمَامِ الْخَيْرِ، وَ قَآئِدِ الْخَيْرِ، وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ التِّهَامِيِّ الشَّاهِدِ الْمَشْهُوْدِ، الْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ السَّعِيْدِ الْمَسْعُوْدِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الْحَسِيْبِ الرَّفِيْعِ، الْمَلِيْحِ الْبَدِيْعِ، الْعَطُوْفِ الْحَلِيْمِ، الْجَوَّادِ الْكَرِيْمِ، الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ، الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ الْاَمِيْنِ، الْوَاعِظِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ، الدَّاعِیْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الَّذِیْ اَدْرَكَ الْحَقَآئِقَ بِجُمْلَتِهَا وَ فَاقَ الْخَلَآئِقَ بِرُمَّتِهَا وَ جَعَلْتَهٗ حَبِيْبًا وَّ نَاجَيْتَهٗ قَرِيْبًا وَّ اَدْنَيْتَهٗ رَقِيْبًا وَّ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَ الدَّلَالَةَ وَ الْبَشَارَةَ وَ النَّذَارَةَ وَ النُّبُوَّةَ وَ نَصَرْتَهٗ بِالرُّعْبِ وَ ظَلَّلْتَهٗ بِالسُّحُبِ، وَ رَدَدْتَ لَهُ الشَّمْسَ، وَ شَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ، وَ اَنْطَقْتَ لَهُ الضَّبَّ وَ الظَّبْیَ وَ الذِّئْبَ وَ الْجِزْعَ وَ الذِّرَاعَ وَ الْجَمَلَ وَ الْجَبَلَ وَ الْمَدَرَ وَ الشَّجَرَ، وَ اَنْبَعْتَ مِنْ اَصَابِعِهِ الْمَآءَ الزُّلَالَ وَ اَنْزَلْتَ مِنَ الْمُزْنِ بِدَعْوَتِهٖ فِیْ عَامِ الْجَدْبِ وَ الْمَحْلِ وَابِلَ الْغَيْثِ وَ الْمَطَرِ فَاعْشَوْشَبَ مِنْهُ الْقَفْرُ وَ الصَّخْرُ وَ الْوَعْرُ وَ السَّهْلُ وَ الرَّمْلُ وَ الْحَجَرُ، وَ اَسْرَيْتَ بِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى، اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى اِلٰى قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى وَ اَرَيْتَهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى، وَ اَنَلْتَهُ الْغَايَةَ الْقُصْوٰى، وَ اَكْرَمْتَهٗ بِالْمُخَاطَبَةِ وَ الْمُقَارَبَةِ وَ الْمُشَاهَدَةِ وَ الْمُعَايَنَةِ بِالْبَصَرِ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِالْوَسِيْلَةِ الْعَذْرَا وَ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ فِی الْمَحْشَرِ وَ جَمَعْتَ لَهٗ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ جَوَاهِرَ الْحِكَمِ وَ جَعَلْتَ اُمَّتَهٗ خَيْرَ الْاُمَمِ وَ غَفَرْتَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَا تَاَخَّرَ الَّذِیْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّى الْاَمَانَةَ وَ نَصَحَ الْاُمَّةَ وَ كَشَفَ الْغُمَّةَ وَ جَلَاَ الظُّلْمَةَ وَ جَاهَدَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ عَبَدَ رَبَّهٗ حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ۔

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهٗ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ۔

اَللّٰهُمَّ عَظِّمْهُ فِی الدُّنْيَا بِاِعْلَآءِ ذِكْرِهٖ وَاِظْهَارِ دِيْنِهٖ وَاِبْقَآءِ شَرِيْعَتِهٖ وَفِی الْاٰخِرَةِ بِشَفَاعَتِهٖ فِیْ اُمَّتِهٖ وَاِجْزَالِ اَجْرِهٖ وَ مَثُوْبَتِهٖ وَاِبْدَآءِ فَضْلِهٖ عَلَى الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ تَقْدِيْمِهٖ عَلٰى كَآفَّةِ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ۔

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرٰى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَ اَعْطِهٖ سُؤْلَهٗ فِی الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى كَمَآ اَعْطَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ اَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَّ مِنْ اَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَّ اَعْظَمِهِمْ خَطَرًا وَ اَمْكَنِهِمْ شَفَاعَةً۔

اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَ اَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَ اَبْلِغْهُ مَاْمُوْلَهٗ فِیْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ اَتْبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اُمَّتِهٖ مَا تُقِرُّ بِهٖ عَيْنَهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ اجْزِ الْاَنْبِيَآءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْاَبْصَارُ وَ سَمِعَتْهُ الْاٰذَانُ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّیَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ

عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ عَدَدَ نَعْمَآءِ اللهِ وَاِفْضَالِهٖ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَعِتْرَتِهٖ وَ عَشِيْرَتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ خَزَنَةِ اَسْرَارِهٖ وَ مَعَادِنِ اَنْوَارِهٖ وَ كُنُوْزِ الْحَقَآئِقِ وَ هُدَاةِ الْخَلَآئِقِ نُجُوْمِ الْهُدٰى لِمَنِ اقْتَدٰى وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَآئِمًا اَبَدًا، وَ ارْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ رِضَآءً سَرْمَدًا، عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَّسَهَا عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّلِحَقِّهٖ اَدَآءً وَّلَنَا صَلَاحًا وَّآتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ. وَ اَعْطِهِ اللِّوَآءَ الْمَعْقُوْدَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَصَلِّ يَارَبِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَوْلِيَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَالرَّحْمَةُ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ م بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمِنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا اِنْتِهَآءَ، وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا اِنْقِضَآءَ، صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، صَلَاةً مَّعْرُوْضَةً عَلَيْهِ وَ مَقْبُوْلَةً لَّدَيْهِ، صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ، صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا، صَلَاةً تَمْلَاُ الْاَرْضَ وَ السَّمَآءَ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَ تَفْرُجُ بِهَا الْكُرَبُ وَ يَجْرِيْ بِهَا لُطْفُكَ فِيْ اَمْرِيْ وَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَبَارِكْ عَلَى الدَّوَامِ وَ عَافِنَا وَاهْدِنَا وَاجْعَلْنَا آمِنِيْنَ، وَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَاَبْدَانِنَا، وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِيْ دِيْنِنَا وَ دُنْيَانَا وَ آخِرَتِنَا وَ تَوَفَّنَا عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ اجْمَعْنَا مَعَهٗ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ يَّسْبِقُ وَ اَنْتَ رَاضٍ عَنَّا، وَلَا تَمْكُرْ بِنَا وَ اخْتِمْ لَنَا بِخَيْرٍ مِّنْكَ وَ عَافِيَةٍ م بِلَا مِحْنَةٍ اَجْمَعِيْنَ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۰ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }.

59 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ وَبَارِكْ وَ كَرِّمْ وَزِدْ وَتَمِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الَّذِيْ اِفْتَتَحْتَ بِهٖ اَغْلَاقَ كَنْزِ الْوُجُوْدِ وَ نَصَبْتَهٗ وَاسِطَةً لِّاِيْصَالِ الْفَيْضِ وَ الْجُوْدِ، وَ رَفَعْتَهٗ اِلٰى اَعْلٰى غُرَفِ الْمُعَايَنَةِ وَ الشُّهُوْدِ وَ بَوَّأْتَهٗ مِنْ حَضَرَاتِ قُدْسِكَ حَيْثُ شَآءَ بِلَا حُدُوْدٍ، الَّذِيْ اَقَمْتَ بِخِدْمَتِهٖ مَقَرَّبَ الْاَمْلَاكِ وَ جَعَلْتَهٗ قُطْبًا تَدُوْرُ عَلَيْهِ الْاَفْلَاكُ وَ اَجْلَسْتَهٗ عَلٰى كُرْسِيِّ الْمَكَانَةِ وَسَرِيْرِ التَّمْكِيْنِ وَ خَاطَبْتَهٗ لِلْاِرْشَادِ وَ التَّعْلِيْمِ وَ التَّبْيِيْنِ فَقُلْتَ بِطَرِيْقِ التَّبْجِيْلِ وَ التَّعْظِيْمِ { وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ } بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ { نٓ ۰ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۰ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۰ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۰ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ } سَيِّدِ الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ وَ صَفْوَةِ الْاَمَآئِلِ وَ الْاَفَاخِرِ لِسَانِ الْحَضْرَةِ الْاَقْدَسِيَّةِ اَمِيْنِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ مَجْلَى الذَّاتِ، وَ مَظْهَرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ

الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَ دَالِ الدَّوَامِ سِرِّ حَيَاةِ الْعَالَمِ عِلَّةِ السُّجُوْدِ لِاٰدَمَ، رُوْحِ الْاَرْوَاحِ، السَّارِيْ فِيْ جَمِيْعِ الْاَشْبَاحِ، لَا يَشَاكُ اَحَدُ كُمْ بِشَوْكَةٍ اِلَّا وَ يَجِدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلَمَهَا مَجْمَعِ حَقَآئِقِ اللَّاهُوْتِ مَنْبَعِ دَقَآئِقِ النَّاسُوْتِ، رَاْيَةُ اِمَامَتِهٖ {قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ} خِلْعَةُ خِلَافَتِهٖ {اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ} تَاجُ مَحْبُوْبِيَّتِهٖ {وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى} لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ يَا مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ، بِسَاطُ خِلَّتِهٖ لَعَمْرُكَ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى، صَاحِبِ الشَّرَفِ وَ الْمَجْدِ حَامِلِ لِوَآءِ الْحَمْدِ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَ الْفَضِيْلَةِ، اٰدَمُ وَ مَنْ دُوْنَهٗ تَحْتَ لِوَآئِهٖ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الْكَوْثَرِ، سَلِيْمِ الرِّضَا رَفْرَفِ الْاِصْطِفَآءِ، سِدْرَةِ الْاِنْتِهَآءِ شَمْسِ الْعَالَمِ، بَدْرِ الْكَمَالِ، نَجْمِ الْهِدَايَةِ، جَوْهَرَةِ الْوُجُوْدِ، خَلِيْلِكَ الْاَقْدَمِ، وَ حَبِيْبِكَ الْاَكْرَمِ، وَ صِرَاطِكَ الْاَقْوَمِ، عَبْدِكَ الْقَآئِمِ بِاَمْرِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ ذَوِى الشِّيَمِ وَ اَصْحَابِهٖ ذَوِى الْهِمَمِ، مَا تَعَاقَبَ النَّهَارُ الْاَبْيَضُ وَ اللَّيْلُ الْاَبْهَمُ عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

60 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَ طِرَازِ مُلْكِكَ، وَ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ، وَ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ، الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ، وَ السَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ وَ تُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ، صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ عَدَدَ الْاَمْطَارِ وَ الْاَحْجَارِ وَ الْاَشْجَارِ وَ مَلَآئِكَةِ الْبِحَارِ وَ جَمِيْعِ مَا خَلَقَ مَوْلَانَا مِنْ اَوَّلِ الزَّمَانِ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ۔

61 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِاَفْضَلِ مَا تُحِبُّ وَ اَكْمَلِ مَا تُرِيْدُ عَلٰى اِمَامِ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ، وَ لِسَانِ اَهْلِ التَّفْرِيْدِ وَ التَّمْجِيْدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ سَنَدِنَا وَ اَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَ الْعَبِيْدِ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ صَحْبِهٖ وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ وَ كُلِّ مَنْسُوْبٍ اِلٰى جَنَابِهِ الْمَجِيْدِ، مِنْ غَيْرِ نِهَايَةٍ وَّ لَا تَحْدِيْدٍ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

62 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَفْضَلِ عِبَادِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَفْوَتِكَ مِنْ اَنْبِيَآئِكَ الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ، وَ الرَّحْمَةِ الْمُرْسَلَةِ الْمُفَضَّلَةِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ مِلْءَ الْاَرْضِيْنَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔

63 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نُوْرِكَ الْاَسْبَقِ، وَ صِرَاطِكَ الْمُحَقَّقِ، الَّذِيْ اَبْرَزْتَهٗ رَحْمَةً شَامِلَةً لِّوُجُوْدِكَ وَ اَكْرَمْتَهٗ بِشُهُوْدِكَ وَ اصْطَفَيْتَهٗ لِنُبُوَّتِكَ وَ رِسَالَتِكَ وَ اَرْسَلْتَهٗ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا، وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا، نُّقْطَةِ مَرَاكِزِ الْبَآءِ الدَّآئِرَةِ الْاَوَّلِيَّةِ، وَ سِرِّ اَسْرَارِ الْاَلِفِ الْقُطْبَانِيَّةِ، الَّذِيْ فَتَقْتَ بِهٖ رَتْقَ الْوُجُوْدِ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِاَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ بِمَوَاهِبِ الْاِمْتِنَانِ وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ اَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهٖ فِيْ كِتَابِكَ الْمَشْهُوْدِ لِاَهْلِ الْكَشْفِ وَ الشُّهُوْدِ فَهُوَ سِرُّكَ الْقَدِيْمُ السَّارِيْ وَ مَآءُ جَوَاهِرِ الْجَوْهَرِيَّةِ الْجَارِيْ الَّذِيْ اَحْيَيْتَ بِهِ الْمَوْجُوْدَاتِ مِنْ مَّعْدِنٍ وَّ حَيَوَانٍ وَّ نَبَاتٍ، قَلْبِ الْقُلُوْبِ وَ رُوْحِ الْاَرْوَاحِ وَ عِلْمِ

الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ، الْقَلَمِ الْاَعْلٰى وَ الْعَرْشِ الْمُحِيْطِ رُوْحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ وَ بَرْزَخِ الْبَحْرَيْنِ وَ ثَانِي اثْنَيْنِ وَ فَخْرِ الْكَوْنَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ اَبِي الطَّيِّبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

64 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ، وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ خَيْرِ خَلْقِكَ، وَ اَحَبِّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ الَّذِىْ خَتَمْتَ بِهِ الْاَنْبِيَآءَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

65 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّوْرِ اللَّامِعِ، وَ الْقَمَرِ السَّاطِعِ وَ الْبَدْرِ الطَّالِعِ وَ الْفَيْضِ الْهَامِعِ وَ الْمَدَدِ الْوَاسِعِ، وَ الْحَبِيْبِ الشَّافِعِ، وَ النَّبِيِّ الشَّارِعِ، وَ الرَّسُوْلِ الصَّادِعِ، وَ الْمَأْمُوْرِ الطَّائِعِ، وَ الْمُخَاطَبِ السَّامِعِ وَ السَّيْفِ الْقَاطِعِ، وَ الْقَلْبِ الْجَامِعِ، وَ الطَّرْفِ الدَّامِعِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَوْلَادِهِ الْكِرَامِ، وَ اَصْحَابِهِ الْعِظَامِ، وَ اَتْبَاعِهِمْ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْاِسْلَامِ۔

66 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْتَسِبُ بِهَا السُّطُوْرُ وَ تَشْرَحُ بِهَا الصُّدُوْرُ، وَ تَهُوْنُ بِهَا الْاُمُوْرُ، بِرَحْمَةٍ مِّنْكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

67 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الذَّاتِ الْمُكَمَّلَةِ، وَ الرَّحْمَةِ الْمُنَزَّلَةِ، عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ صَفِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ جِيْرَانِهٖ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔

68 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ مَنْ وَّالَاهُ، عَدَدَ مَا تَعْلَمُهٗ مِنْ مَبْدَءِ الْاَمْرِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

69 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ حَبِيْبِكَ صَلَاةً اَرْقٰى بِهَا مَرَاقِيَ الْاِخْلَاصِ، وَ اَنَالُ بِهَا غَايَةَ الْاِخْتِصَاصِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا عَدَدَ مَآ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ اَحْصَاهُ كِتَابُكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ۔

70 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْاَصْلِ النُّوْرَانِيَّةِ، وَ لَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَ اَفْضَلِ الْخَلِيْقَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ، وَ اَشْرَفِ الصُّوَرِ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ خَزَآئِنِ الْعُلُوْمِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْاَصْلِيَّةِ، وَ الْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ، وَ الرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَآئِهٖ، فَهُمْ مِنْهُ وَ اِلَيْهِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ اِلٰى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ اَفْنَيْتَ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

71 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ، وَ تِرْيَاقِ الْاَغْيَارِ، وَ مِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

الْمُخْتَارِ، وَ آلِهِ الْاَطْهَارِ، وَ اَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ، عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَ اَفْضَالِهِ۔

72 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، اللَّطِيفَةِ الْاَحَدِيَّةِ شَمْسِ سَمَاءِ الْاَسْرَارِ، وَ مَظْهَرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ، وَ قُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ۔

اَللّٰهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ، وَ بِسَيْرِهِ اِلَيْكَ، آمِنْ خَوْفِي وَ اَقِلْ عَثْرَتِي وَ اَذْهِبْ حُزْنِي وَ حِرْصِي وَ كُنْ لِّي وَ خُذْنِي اِلَيْكَ مِنِّي وَ ارْزُقْنِي الْفَنَاءَ عَنِّي وَلَا تَجْعَلْنِي مَفْتُونًا بِنَفْسِي مَحْجُوبًا بِحِسِّي وَ اكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرٍّ مَّكْتُومٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ۔

73 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَبَدًا اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا، وَ زِدْهُ شَرَفًا وَّ تَكْرِيْمًا، وَ اَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ فَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ وَ افْعَلْ بِنَا مَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ فَاِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ مُسْتَحَقُّهٗ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّ مَلَكٍ وَّ وَلِيٍّ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اجْزِ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ

آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

74 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ مِّنْهُ انْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ، وَ انْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ، وَفِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَآئِقُ، وَ تَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ آدَمَ فَاَعْجَزَ الْخَلَآئِقَ وَ لَهٗ تَضَآءَلَتِ الْفُهُوْمُ فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ وَّلَا لَاحِقٌ فَرِيَاضُ الْمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهٖ مُوْنِقَةٌ وَّ حِيَاضُ الْجَبَرُوْتِ بِفَيْضِ اَنْوَارِهٖ مُتَدَفِّقَةٌ وَّلَا شَيْءَ اِلَّا وَ هُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ اِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا قِيْلَ الْمَوْسُوْطُ، صَلَاةً تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ سِرُّكَ الْجَامِعُ الدَّآلُّ عَلَيْكَ، وَ حِجَابُكَ الْاَعْظَمُ الْقَآئِمُ بَيْنَ يَدَيْكَ، اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنِيْ بِنَسَبِهٖ وَ حَقِّقْنِيْ بِحَسَبِهٖ وَ عَرِّفْنِيْ اِيَّاهُ مَعْرِفَةً اَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَّوَارِدِ الْجَهْلِ وَ اَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَّوَارِدِ الْفَضْلِ وَ احْمِلْنِيْ عَلٰى سَبِيْلِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ حَمْلًا مَّحْفُوْفًا بِنُصْرَتِكَ، وَ اقْذِفْ بِيْ عَلَى الْبَاطِلِ فَاَدْمَغُهٗ وَ زُجَّ بِيْ فِيْ بِحَارِ الْاَحَدِيَّةِ وَ انْشُلْنِيْ مِنْ اَوْحَالِ التَّوْحِيْدِ وَ اَغْرِقْنِيْ فِيْ عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتّٰى لَآ اَرٰى وَلَآ اَسْمَعَ وَلَآ اَجِدَ وَلَآ اُحِسَّ اِلَّا بِهَا وَ اجْعَلِ الْحِجَابَ الْاَعْظَمَ حَيَاةَ رُوْحِيْ، وَ رُوْحَهٗ سِرَّ حَقِيْقَتِيْ وَ حَقِيْقَتَهٗ جَامِعَ عَوَالِمِيْ بِتَحْقِيْقِ الْحَقِّ الْاَوَّلِ يَآ اَوَّلُ يَآ آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ اِسْمَعْ نِدَآئِيْ بِمَا سَمِعْتَ بِهٖ نِدَآءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا وَ انْصُرْنِيْ بِكَ لَكَ وَ اَيِّدْنِيْ بِكَ لَكَ وَ اجْمَعْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ وَ حُلْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ {اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ} {رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا} {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}۔

75 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِيِّ وَ السِّرِّ السَّارِيْ فِيْ سَآئِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ۔

76 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سِرِّكَ الْجَامِعِ الدَّآلِّ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى كَمَا هُوَ لَآئِقٌ بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ خَصِيْصٌ بِهٖ مِنَ السَّلَامِ لَدَيْكَ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ صَلَاتِهٖ صِلَةً وَّ عَآئِدًا تُتَمِّمُ بِهِمَا وُجُوْدَنَا، وَ تُعَمِّمُ بِهِمَا شُهُوْدَنَا، وَ تُخَصِّصُ بِهِمَا مَزِيْدَنَا، وَمِنْ سَلَامِهٖ اِسْلَامًا وَّ سَلَامَةً لِّبُرْهَانِ مَا ظَهَرَ مِنَّا وَ مَا بَطَنَ مِنْ شَوَآئِبِ الْاِرَادَاتِ وَ الْاِخْتِيَارَاتِ وَ التَّدَابِيْرَاتِ وَ الْاِضْطِرَارَاتِ، لِتَأْتِيَكَ بِالْقَوَالِبِ الْمُسَلَّمَةِ وَ الْقُلُوْبِ السَّلِيْمَةِ حَسْبُمَا هُوَ لَدَيْكَ مِنَ الْكَمَالِ الْاَقْدَسِ وَ الْجَمَالِ الْاَنْفَسِ۔

77 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ وَ اَسْمَى الْبَرَكَاتِ وَ اَزْكَى التَّحِيَّاتِ فِيْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ عَلٰى اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوَاتِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَآ اَزْكَى التَّحِيَّاتِ فِيْ جَمِيْعِ الْحَضَرَاتِ وَ اللَّحَظَاتِ۔

78 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْضَلَ وَ اَزْكٰى وَ اَنْمٰى وَ اَعْلٰى صَلَاةً صَلَّاهَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَنْبِيَآئِهٖ وَ اَصْفِيَآئِهٖ اَشْهَدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ بَلَّغْتَ مَآ اُرْسِلْتَ بِهٖ وَ نَصَحْتَ اُمَّتَكَ وَ عَبَدْتَ رَبَّكَ حَتّٰى

آتَاكَ الْيَقِيْنُ وَ كُنْتَ كَمَا نَعَتَكَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ} فَصَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ وَسَمٰوَاتِهٖ وَاَرْضِهٖ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا صَاحِبَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَا اَبَابَكْرٍ وَّيَا عُمَرُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ فَجَزَاكُمَا اللّٰهُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَ اَهْلِهٖ مَا جَزٰى بِهٖ وَزِيْرَيْ نَبِيٍّ فِيْ حَيَاتِهٖ وَ عَلٰى حُسْنِ خِلَافَتِهٖ فِيْ اُمَّتِهٖ بَعْدَ وَفَاتِهٖ فَجَزَاكُمَا اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ مَرَافَقَتَهٗ فِيْ جَنَّتِهٖ وَ اِيَّانَا مَعَكُمَا بِرَحْمَتِهٖ اِنَّهٗ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُشْهِدُكَ وَ اُشْهِدُ رَسُوْلَكَ وَ اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ اُشْهِدُ الْمَلَآئِكَةَ النَّازِلِيْنَ عَلٰى هٰذِهِ الرَّوْضَةِ الْكَرِيْمَةِ وَالْعَاكِفِيْنَ اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ كُلَّ مَا جَآءَ بِهٖ مِنْ اَمْرٍ وَّنَهْيٍ وَّخَبَرٍ عَمَّا كَانَ وَيَكُوْنُ فَهُوَ حَقٌّ لَّا كَذِبَ فِيْهِ وَلَا امْتِرَآءَ وَ اِنِّيْ مُقِرٌّ لَّكَ يَآ اِلٰهِيْ بِجِنَايَتِيْ وَ مَعْصِيَتِيْ فِي الْخَطْرَةِ وَالْفِكْرَةِ وَالْاِرَادَةِ وَ الْغَفْلَةِ وَ مَآ اِسْتَأْثَرْتَ عَنِّيْ مِمَّآ اِذْ شِئْتَ اَخَذْتَ بِهٖ وَ اِذَا شِئْتَ عَفَوْتَ عَنْهُ مِمَّا هُوَ مُتَضَمِّنٌ لِّلْكُفْرِ وَ النِّفَاقِ وَ الْبِدْعَةِ اَوِ الضَّلَالِ اَوِ الْمَعْصِيَةِ اَوْ سُوْءِ الْاَدَبِ مَعَكَ وَمَعَ رَسُوْلِكَ وَمَعَ اَنْبِيَآئِكَ وَ اَوْلِيَآئِكَ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَ مَا خَلَقْتَ مِنْ شَيْءٍ فِيْ مُلْكِكَ فَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ بِجَمِيْعِ ذٰلِكَ فَاغْفِرْ لِيْ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالَّذِيْ مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَآئِكَ فَاِنَّكَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ.

اَلْوِرْدُ الثَّالِثُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}

79 اَللّٰهُمَّ اَفِضْ صِلَةَ صَلَوَاتِكَ وَ سَلَامَةَ تَسْلِيْمَاتِكَ عَلٰى اَوَّلِ التَّعَيُّنَاتِ الْمُفَاضَةِ مِنَ الْعَمَآءِ الرَّبَّانِيِّ، وَ اٰخِرِ التَّنَزُّلَاتِ الْمُفَاضَةِ اِلَى النَّوْعِ الْاِنْسَانِيِّ، الْمُهَاجِرِ مِنْ مَّكَّةَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهٗ شَيْءٌ ثَانٍ، اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَ هُوَ الْاٰنَ عَلٰى مَا عَلَيْهِ كَانَ، مُحْصِيْ عَوَالِمِ الْحَضَرَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ الْخَمْسِ فِيْ وُجُوْدِهٖ {وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ} وَ رَاحِمِ سَآئِلِيْ اِسْتِعْدَادَاتِهَا بِنِدَاهُ وَ جُوْدِهٖ، {وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ} نُقْطَةِ الْبَسْمَلَةِ الْجَامِعَةِ لِمَا يَكُوْنُ وَلِمَا كَانَ، وَ نُقْطَةِ الْاَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوَآئِرِ الْاَكْوَانِ، سِرِّ الْهُوِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ سَارِيَةٌ، وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّجَرَّدَةٌ وَّ عَارِيَةٌ، اَمِيْنِ اللّٰهِ عَلٰى خَزَآئِنِ الْفَوَاضِلِ وَ مُسْتَوْدَعِهَا وَ مُقَسِّمِهَا عَلٰى حَسَبِ الْقَوَابِلِ وَ مُوَزِّعِهَا، كَلِمَةِ الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ، وَ فَاتِحَةِ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، الْمَظْهَرِ الْاَتَمِّ، الْجَامِعِ بَيْنَ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الْمَرْبُوْبِيَّةِ، وَ النَّشْءِ الْاَعَمِّ، اَلشَّامِلِ لِلْاِمْكَانِيَّةِ وَ الْوُجُوْبِيَّةِ، الطَّوْدِ الْاَشَمِّ، الَّذِيْ لَمْ يُزَحْزِحْهُ تَجَلِّي التَّعَيُّنَاتِ عَنْ مَّقَامِ التَّمْكِيْنِ، وَ الْبَحْرِ الْخِضَمِّ، الَّذِيْ لَمْ تُعَكِّرْهُ تُرَبُ الْغَفَلَاتِ عَنْ صَفَآءِ الْيَقِيْنِ، الْقَلَمِ النُّوْرَانِيِّ الْجَارِيْ بِمِدَادِ الْحُرُوْفِ الْعَالِيَاتِ وَ النَّفَسِ الرَّحْمَانِيِّ السَّارِيْ بِمَوَادِّ

الْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ، الْفَيْضِ الْاَقْدَسِ الذَّاتِيِّ الَّذِيْ تَعَيَّنَتْ بِهِ الْاَعْيَانُ وَ اسْتِعْدَادَاتُهَا، وَ الْفَيْضِ الْمُقَدَّسِ الصِّفَاتِيِّ الَّذِيْ تَكَوَّنَتْ بِهِ الْاَكْوَانُ وَ اسْتِمْدَادَاتُهَا، مَطْلَعِ شَمْسِ الذَّاتِ فِيْ سَمَآءِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، وَ مَنْبَعِ نُوْرِ الْاِفَاضَاتِ، فِيْ رِيَاضِ النِّسَبِ وَ الْاِضَافَاتِ، خَطِّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَيِ الْاَحَدِيَّةِ وَ الْوَاحِدِيَّةِ، وَ وَاسِطَةِ التَّنَزُّلِ مِنْ سَمَآءِ الْاَزَلِيَّةِ اِلٰى اَرْضِ الْاَبَدِيَّةِ، النُّسْخَةِ الصُّغْرٰى الَّتِيْ تَفَرَّعَتْ عَنْهَا الْكُبْرٰى، وَ الدُّرَّةِ الْبَيْضَآءِ الَّتِيْ تَنَزَّلَتْ اِلَى الْيَاقُوْتَةِ الْحَمْرَآءِ، جَوْهَرَةِ الْحَوَادِثِ الْاِمْكَانِيَّةِ، الَّتِيْ لَا تَخْلُوْ عَنِ الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنِ، وَ مَادَّةِ الْكَلِمَةِ الْفَهْوَانِيَّةِ، الطَّالِعَةِ مِنْ كِنِّ كُنْ اِلٰى شَهَادَةِ فَيَكُوْنُ، هَيُوْلَى الصُّوَرِ الَّتِيْ لَا تَتَجَلّٰى بِاِحْدَاهَا مَرَّةً لِّاِثْنَيْنِ، وَلَا بِصُوْرَةٍ مِّنْهَا لِاَحَدٍ مَّرَّتَيْنِ، قُرْاٰنِ الْجَمْعِ الشَّامِلِ لِلْمُمْتَنِعِ وَ الْعَدِيْمِ، وَ فُرْقَانِ الْفَرْقِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَادِثِ وَ الْقَدِيْمِ، صَآئِمِ نَهَارٍ اِنِّيْ اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيْ، وَ قَآئِمِ لَيْلٍ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ، وَاسِطَةِ مَا بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، وَ رَابِطَةِ تَعَلُّقِ الْحُدُوْثِ بِالْقِدَمِ {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ} فَذٰلِكَةِ دَفْتَرِ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ، وَ مَرْكَزِ اِحَاطَةِ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ، حَبِيْبِكَ الَّذِيْ اِسْتَجْلَيْتَ بِهٖ جَمَالَ ذَاتِكَ، عَلٰى مِنَصَّةِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ نَصَبْتَهٗ قِبْلَةً لِّتَوَجُّهَاتِكَ، فِيْ جَامِعِ تَجَلِّيَاتِكَ وَ خَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعَةَ الصِّفَاتِ وَ الْاَسْمَا وَ تَوَّجْتَهٗ بِتَاجِ الْخِلَافَةِ الْعُظْمٰى، وَ اَسْرَيْتَ بِجَسَدِهٖ يَقْظَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، وَ تَرَقّٰى اِلٰى قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، فَاَسَرَّ فُؤَادَهٗ بِشُهُوْدِكَ، حَيْثُ لَا صَبَاحَ وَلَا مَسَا، {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى} وَ قَرَّ بَصَرَهٗ بِوُجُوْدِكَ حَيْثُ لَا خَلَآءَ وَلَا مَلَا {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى} صَلِّ۔

- اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً يَّصِلُ بِهَا فَرْعِيْ اِلٰى اَصْلِيْ، وَ بَعْضِيْ اِلٰى كُلِّيْ، لِتَتَّحِدَ ذَاتِيْ بِذَاتِهٖ وَ صِفَاتِيْ بِصِفَاتِهٖ، وَ تَقَرُّ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، وَ يَفِرُّ الْبَيْنُ مِنَ الْبَيْنِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامًا اَسْلَمُ بِهٖ فِيْ مُتَابَعَتِهٖ مِنَ التَّخَلُّفِ، وَ فِيْ طَرِيْقِ شَرِيْعَتِهٖ مِنَ التَّعَسُّفِ لِاَ فْتَحَ بَابَ مَحَبَّتِكَ اِيَّايَ، بِمِفْتَاحِ مُتَابَعَتِهٖ وَ اَشْهَدُكَ فِيْ حَوَاسِّيْ وَ اَعْضَآئِيْ، مِنْ مِّشْكَاةِ شَرْعِهٖ وَ طَاعَتِهٖ، وَ اَدْخُلَ وَرَآءَهٗ اِلٰى حِصْنِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَ فِيْ اَثَرِهٖ اِلٰى خَلْوَةٍ لِّيْ وَقْتٌ مَّعَ اللهِ، اِذْ هُوَ بَابُكَ الَّذِيْ مَنْ لَّمْ يَقْصِدْكَ مِنْهُ سُدَّتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ وَ الْاَبْوَابُ وَ رُدَّ بِعَصَاةِ الْاَدَبِ اِلٰى اِصْطَبَلِ الدَّوَآبِّ۔

- اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ يَا مَنْ لَّيْسَ حِجَابُهٗ اِلَّا النُّوْرَ، وَلَا خِفَآؤُهٗ اِلَّا شِدَّةَ الظُّهُوْرِ، اَسْئَلُكَ بِكَ فِيْ مَرْتَبَةِ اِطْلَاقِكَ عَنْ كُلِّ تَقْيِيْدٍ، الَّتِيْ تَفْعَلُ فِيْهَا مَا تَشَآءُ وَ تُرِيْدُ، وَ بِكَشْفِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِالْعِلْمِ النُّوْرِيِّ، وَ تَحَوُّلِكَ فِيْ صُوَرِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ بِالْوُجُوْدِ الصُّوْرِيِّ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكْحُلُ بِهَا بَصِيْرَتِيْ بِالنُّوْرِ الْمَرْشُوْشِ فِي الْاَزَلِ، لِاَشْهَدَ فَنَآءَ مَا لَمْ يَكُنْ وَ بَقَآءَ مَا لَمْ يَزَلْ، وَ اَرَى الْاَشْيَآءَ كَمَا هِيَ فِيْ اَصْلِهَا مَعْدُوْمَةً مَّفْقُوْدَةً، وَ كَوْنَهَا لَمْ تَشَمَّ رَآئِحَةَ الْوُجُوْدِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا مَوْجُوْدَةً، وَ اَخْرِجْنِيْ اَللّٰهُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمَةِ اَنَانِيَّتِيْ اِلَى النُّوْرِ، وَ مِنْ قَبْرِ جُثْمَانِيَّتِيْ اِلٰى جَمْعِ الْحَشْرِ وَ فَرْقِ النُّشُوْرِ، وَ اَفِضْ عَلَيَّ مِنْ سَمَآءِ تَوْحِيْدِكَ اِيَّاكَ، مَا تُطَهِّرُنِيْ بِهٖ مِنْ رِّجْسِ الشِّرْكِ وَ

الْإِشْرَاكِ، وَ تُنْعِشُنِيْ بِالْمَوْتَةِ الْأُوْلٰى وَ الْوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ، وَ اَحْيِنِيْ بِالْحَيَاةِ الْبَاقِيَةِ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، وَ اجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا اَمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ، وَ اَرٰى بِهٖ وَجْهَكَ اَيْنَمَا تَوَلَّيْتُ بِدُوْنِ اِشْتِبَاهٍ وَّلَا اِلْتِبَاسٍ، نَاظِرًا ء بِعَيْنِي الْجَمْعِ وَ الْفَرْقِ فَاصِلًا ء بِحُكْمِ الْقَطْعِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَ الْحَقِّ، دَالًّا ء بِكَ عَلَيْكَ، وَ هَادِيًا ء بِإِذْنِكَ اِلَيْكَ، يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتَقَبَّلُ بِهَا دُعَآئِيْ وَ تُحَقِّقُ بِهَا رَجَآئِيْ وَ عَلٰى آلِهٖ آلِ الشُّهُوْدِ وَ الْعِرْفَانِ وَ اَصْحَابِ الذَّوْقِ وَ الْوِجْدَانِ، مَآ اِنْتَشَرَتْ طُرَّةُ لَيْلِ الْكِيَانِ، وَ اَسْفَرَتْ غُرَّةُ جَبِيْنِ الْعِيَانِ، آمِيْنَ { وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }۔

80 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَكْمَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ اَهْلِ سَمٰوَاتِكَ، وَالنُّوْرِ الْاَعْظَمِ، وَ الْكَنْزِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ، وَ السِّرِّ الْمُمْتَدِّ، الَّذِيْ لَيْسَ لَهٗ مِثْلٌ مَّنْطُوْقٌ وَّلَا شِبْهٌ مَّخْلُوْقٌ، وَ ارْضَ عَنْ خَلِيْفَتِهٖ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ مِنْ جِنْسِ عَالَمِ الْاِنْسَانِ، الرُّوْحِ الْمُتَجَسِّدِ، وَ الْفَرْدِ الْمُتَعَدِّدِ، حُجَّةِ اللهِ فِي الْاَقْضِيَةِ، وَ عُمْدَةِ اللهِ فِي الْاَمْضِيَةِ، مَحَلِّ نَظَرِ اللهِ مِنْ خَلْقِهٖ، مُنَفِّذِ اَحْكَامِهٖ بَيْنَهُمْ بِصِدْقِهِ الْمُمِدِّ لِلْعَوَالِمِ بِرُوْحَانِيَّتِهٖ، اَلْمُفِيْضِ عَلَيْهِمْ مِنْ نُّوْرِ نُوْرَانِيَّتِهٖ، مَنْ خَلَقَهُ اللهُ عَلٰى صُوْرَتِهٖ، وَ اَشْهَدَهٗ اَرْوَاحَ مَلَآئِكَتِهٖ، وَ خَصَّصَهٗ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ الْاَمَانَ، فَهُوَ قُطْبُ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ، وَ مَحَلُّ السَّمْعِ وَ الشُّهُوْدِ، فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي الْكَوْنِ اِلَّا بِعِلْمِهٖ، وَلَا تَسْكُنُ اِلَّا بِحُكْمِهٖ، لِاَنَّهٗ مَظْهَرُ الْحَقِّ، وَ مَعْدِنُ الصِّدْقِ۔

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ سَلَامِيْ اِلَيْهِ، وَ اَوْقِفْنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ اَفِضْ عَلَيَّ مِنْ مَّدَدِهٖ، وَ اَحْرِسْنِيْ بِعُدَدِهٖ، وَ انْفُخْ فِيَّ مِنْ رُّوْحِهٖ، كَيْ اَحْيَا بِرُوْحِهٖ، وَلِاَشْهَدَ حَقِيْقَتِيْ عَلَى التَّفْصِيْلِ، فَاَعْرِفَ بِذٰلِكَ الْكَثِيْرَ وَ الْقَلِيْلَ، وَ اَرٰى عَوَالِمِي الْغَيْبِيَّةَ، تَتَجَلّٰى بِصُوَرِي الرُّوْحِيَّةِ، عَلٰى اِخْتِلَافِ الْمَظَاهِرِ، لِاَ جْمَعَ بَيْنَ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ، وَ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ، فَاَكُوْنَ مَعَ اللهِ اَثَرَ صِفَاتِهٖ وَ اَفْعَالِهٖ، لَيْسَ لِيْ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّعْلُوْمٌ وَّلَا جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ، فَاَعْبُدَهٗ بِهٖ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ بَلْ بِحَوْلٍ وَّ قُوَّةٍ ذِي الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ۔

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ، اِجْمَعْنِيْ بِهٖ وَ عَلَيْهِ وَ فِيْهِ، حَتّٰى لَآ اُفَارِقَهٗ فِي الدَّارَيْنِ وَلَآ اَنْفَصِلَ عَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ، بَلْ اَكُوْنَ كَاَنِّيْ اِيَّاهُ، فِيْ كُلِّ اَمْرٍ تَوَلَّاهُ، مِنْ طَرِيْقِ الْاِتِّبَاعِ وَ الْاِنْتِفَاعِ، لَا مِنْ طَرِيْقِ الْمُمَاثَلَةِ وَ الْاِرْتِفَاعِ وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَآئِكَ الْحُسْنَى الْمُسْتَجَابَةِ، اَنْ تُبَلِّغَنِيْ ذٰلِكَ مِنَّةً مُّسْتَطَابَةً، فَاِنَّكَ الْوَاجِدُ الْكَرِيْمُ، وَ اَنَا الْعَبْدُ الْعَدِيْمُ، وَ صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

81 اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْ خَلَقْتَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَ زَيَّنْتَهٗ بِجَمَالِكَ وَ تَوَّجْتَهٗ بِكَمَالِكَ وَ اَهَّلْتَهٗ لِرُؤْيَةِ ذَاتِكَ، وَ جَعَلْتَهٗ مَجْلٰى لِاَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ قَرَنْتَ اِسْمَهٗ بِاِسْمِكَ وَ طَاعَتَهٗ بِطَاعَتِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَ آلِهٖ وَ صَحْبِهِ الدَّاعِيْنَ اِلَى اللهِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّآئِبِ حَضْرَةِ ذَاتِكَ، الْمُتَحَقِّقِ بِأَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، الْجَامِعِ بَيْنَ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ، وَ الْبَرْزَخِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحُدُوْثِ وَ الْقِدَمِ، عَيْنِ الْاَحَدِيَّةِ الَّذِى انْفَتَحَ بِهٖ كُلُّ مَقْفُوْلٍ وَّ انْجَبَرَ بِهٖ كُلُّ مَكْسُوْرٍ وَّ انْعَتَقَ بِهٖ كُلُّ مَقْهُوْرٍ۔

82 لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ، سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنِ {رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ}۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ، وَ اَبْرِ وَ اَكْرِمْ وَ اَنْعِمْ، عَلَى الْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ الْمَجْدِ الْبَاذِخِ، وَ النُّوْرِ الطَّامِحِ، وَ الْحَقِّ الْوَاضِحِ، مِيْمِ الْمَمْلَكَةِ وَ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَ مِيْمِ الْعِلْمِ وَ دَالِ الدَّلَالَةِ، وَ اَلِفِ الذَّاتِ وَ حَآءِ الرَّحَمُوْتِ، وَ مِيْمِ الْمَلَكُوْتِ، وَ دَالِ الْهِدَايَةِ، وَ جِيْمِ الْجَبَرُوْتِ، وَ لَامِ الْاَلْطَافِ الْخَفِيَّةِ، وَ رَآءِ الرَّأْفَةِ الْحَقِيَّةِ، وَ نُوْنِ الْمِنَنِ وَ عَيْنِ الْعِنَايَةِ، وَ كَافِ الْكِفَايَةِ وَ يَآءِ السِّيَادَةِ، سِيْنِ السَّعَادَةِ، وَ قَافِ الْقُرْبَةِ، وَ طَآءِ السُّلْطَةِ وَ عَيْنِ الْعُرْوَةِ، وَ وَاوِ الْوُثْقٰى وَ صَادِ الْعِصْمَةِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ جَوَاهِرَ عِلْمِهِ الْعَزِيْزِ وَ اَصْحَابِهٖ مَنْ اَصْبَحَ بِهِمُ الدِّيْنَ فِىْ حِرْزٍ حَرِيْزٍ، صَلَاتَكَ الْمُهَيْمِنَةَ بِعَظْمَةِ جَلَالِكَ، الْمُشَرَّفَةَ بِجَلَالِ جَمَالِكَ، الْمُكَرَّمَةَ بِعَظِيْمِ نَوَالِكَ، دَآئِمَةً م بِدَوَامِ مُلْكِكَ لَآ اِنْتِهَآءَ لَهَا سَامِيَةً م بِسُمُوِّ رِفْعَتِكَ لَآ انْقِضَآءَ لَهَا، صَلَاةً تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ وَ تَلِيْقُ بِمَجْدِ كَرَمِكَ وَ عَظِيْمِ فَضْلِكَ اَنْتَ لَهَآ اَهْلٌ لَّا يَبْلُغُ كُنْهُهَا، وَلَا يَقْدُرُ قَدْرُهَا، كَمَا يَنْبَغِىْ لِشَرَفِ نُبُوَّتِهٖ وَ عَظِيْمِ قَدْرِهٖ وَ كَمَا هُوَ لَهَآ اَهْلٌ صَلَاةً تُفَرِّجُ عَنَّا بِهَا هُمُوْمَ حَوَادِثِ الْاِخْتِيَارِ، وَ تَمْحُوْ بِهَا عَنَّا ذُنُوْبَ وُجُوْدِنَا بِمَآءِ سَمَآءِ الْقُرْبَةِ حَيْثُ لَا حَيْثُ وَلَا بَيْنَ وَلَآ اَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا جِهَةَ وَلَا قَرَارَ، وَ تُغَيِّبُنَا بِهَا فِىْ غَيَاهِبِ غُيُوْبِ اَنْوَارِ اَحَدِيَّتِكَ فَلَا تَشْعُرُ بِتَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ تُخَوِّلُنَا بِهَا سَمَاحَ رِيَاحِ فُتُوْحِ حَقَآئِقِ بَدِيْعِ جَمَالِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ن الْمُخْتَارِ، وَ تَتَّحِفُنَا بِهَا بِأَسْرَارِ اَنْوَارِ زَيْتُوْنِيَّتِكَ فِىْ مِشْكَاةِ الزُّجَاجَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَتَضَاعَفَ اَنْوَارَنَا بِلَآ اِمْتِرَآءٍ وَّلَا حَدٍّ وَّلَآ اِنْحِصَارٍ، يَارَبِّ يَآ اَللّٰهُ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ نَسْئَلُكَ بِدَقَآئِقِ مَعَانِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الْمُتَلَاطِمَةِ اَمْوَاجُهَا فِىْ بَحْرِ بَاطِنِ خَزَآئِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، وَ بِاٰيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ الزَّاهِرَاتِ الْبَاهِرَاتِ عَلٰى مَظْهَرِ اِنْسَانِ عَيْنِ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ، اَنْ تَذْهَبَ عَنَّا ظُلَامَ الْفَقْدِ، بِنُوْرِ اُنْسِ الْوَجْدِ، وَ اَنْ تَكْسُوَنَا مِنْ حُلَلِ صِفَاتِ كَمَالِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نُوْرِ الْجَلَالَةِ، وَ اَنْ تَسْقِيَنَا مِنْ كَوْثَرِ مَعْرِفَتِهٖ رَحِيْقَ تَسْلِيْمِ تَسْنِيْمِ شَرَابِ الرِّسَالَةِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْجُوْدِ الْاَكْرَمِ، وَ النُّوْرِ الْاَفْخَمِ، وَ الْعِزِّ الْاَعْظَمِ، الْمَبْعُوْثِ بِالْقِيْلِ الْاَقْوَامِ، وَ مِنَّةِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ فَصِيْحٍ وَّ اَعْجَمَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا وَ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، قُطْبِ رَحَى النَّبِيِّيْنَ، وَ نُقْطَةِ دَآئِرَةِ الْمُرْسَلِيْنَ، الْمُخَاطَبِ فِى الْكِتَابِ الْمَكْنُوْنِ بِقَوْلِكَ {مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ} اَلْمَوْصُوْفِ بِقَوْلِكَ الْكَرِيْمِ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى

خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ اَئِمَّةِ الْهُدٰى، لِمَنِ اهْتَدٰى، وَ نُجُوْمِ الْاِقْتِدَاءِ، لِمَنِ اقْتَدٰى، مَا تَعَاقَبَتْ اَدْوَارُ الْاَنْوَارِ وَ اَشْرَقَتْ اَنْوَارُ الْاَسْرَارِ بِالْاَسْرَارِ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى الطَّلْعَةِ الذَّاتِ الْمُطَلْسَمِ، وَ الْغَيْثِ الْمُطَمْطَمِ، وَ الْكَمَالِ الْمُكَتَّمِ، لَاهُوْتِ الْجَمَالِ، وَ نَاسُوْتِ الْوِصَالِ، وَ طَلْعَةِ الْحَقِّ هُوِيَّةِ اِنْسَانِ الْاَزَلِ، فِيْ نَشْرِ مَنْ لَّمْ يَزَلْ مَنْ اَقَمْتَ بِهٖ نَوَاسِيْتَ الْفَرْقِ، اِلٰى طُرُقِ الْحَقِّ فَصَلِّ.

اَللّٰهُمَّ بِهٖ مِنْهُ فِيْهِ عَلَيْهِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

84 صَلَّى اللهُ عَلَى الْاَوَّلِ فِي الْاِيْجَادِ وَ الْجُوْدِ وَ الْوُجُوْدِ، الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَتَيِ الشَّاهِدِ وَ الْمَشْهُوْدِ، السِّرِّ الْبَاطِنِ وَ النُّوْرِ الظَّاهِرِ الَّذِيْ هُوَ عَيْنُ الْمَقْصُوْدِ، حَائِزِ قَصَبِ السَّبَقِ، فِيْ عَالَمِ الْخَلْقِ، الْمَخْصُوْصِ بِالْاَوَّلِيَّةِ الرُّوْحِ الْاَقْدَسِ الْعَلِيِّ، وَ النُّوْرِ الْاَكْمَلِ الْبَهِيِّ، الْقَائِمِ بِكَمَالِ الْعُبُوْدِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ، الَّذِيْ اَفِيْضُ عَلٰى رُوْحِيْ مِنْ حَضْرَةِ رُوْحَانِيَّتِهٖ، وَ اتَّصَلَتْ بِمِشْكَاةِ قَلْبِيْ اَشِعَّةُ نُوْرَانِيَّتِهٖ، فَهُوَ الرَّسُوْلُ الْاَعْظَمُ وَ النَّبِيُّ الْاَكْرَمُ، وَ الْوَلِيُّ الْمُقَرَّبُ الْمَسْعُوْدُ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ خَزَائِنِ اَسْرَارِهٖ، وَ مَعَارِفِ اَنْوَارِهٖ، وَ مَطَالِعِ اَقْمَارِهٖ، كُنُوْزِ الْحَقَائِقِ، وَ هُدَاةِ الْخَلَائِقِ، نُجُوْمِ الْهُدٰى، لِمَنِ اهْتَدٰى، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، وَ سُبْحَانَ اللهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۰ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾.

85 اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ فِيْمَا سَاَلْتُكَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِيْ قُبُوْلِهٖ بِمُقَدَّمَةِ الْوُجُوْدِ الْاَوَّلِ وَ رُوْحِ الْحَيَاةِ الْاَفْضَلِ، وَ نُوْرِ الْعِلْمِ الْاَكْمَلِ، وَ بِسَاطِ الرَّحْمَةِ فِي الْاَزَلِ، وَ سَمَاءِ الْخُلُقِ الْاَجَلِّ، السَّابِقِ بِالرُّوْحِ وَ الْفَضْلِ، وَ الْخَاتِمِ بِالصُّوْرَةِ وَ الْبَعْثِ وَ النُّوْرِ بِالْهِدَايَةِ وَ الْبَيَانِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى، وَ الرَّسُوْلِ الْمُجْتَبٰى، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

86 اَللّٰهُمَّ بِكَ تَوَسَّلْتُ، وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَ مِنْكَ سَاَلْتُ وَ فِيْكَ لَا فِيْ اَحَدٍ سِوَاكَ رَغِبْتُ، لَا اَسْئَلُكَ سِوَى اللهِ وَلَا اَطْلُبُ مِنْكَ اِلَّا اِيَّاكَ.

اَللّٰهُمَّ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِيْ قُبُوْلِ ذٰلِكَ بِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى وَ الْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْاَدْنٰى، وَ الْوَلِيِّ الْمَوْلٰى، وَ الصَّفِيِّ الْمُصْطَفٰى، وَ النَّبِيِّ الْمُجْتَبٰى، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِهٖ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةً اَبَدِيَّةً سَرْمَدِيَّةً اَزَلِيَّةً، اِلٰهِيَّةً قَيُّوْمِيَّةً، دَائِمَةً دَيْمُوْمِيَّةً، رَبَّانِيَّةً، بِحَيْثُ اَشْهَدُنِيْ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ عَيْنَ الْاَغْيَارِ كَمَا تَسْتَهْلِكُنِيْ فِيْ مَعَارِفِ ذَاتِهٖ فَاَنْتَ وَلِيُّ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

87 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ النَّبِيِّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ اسْتِوَاءِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ كُنْهِ هُوِيَّةِ تَنَزُّلَاتِكَ، النُّوْرِ الْاَزْهَرِ، وَ السِّرِّ الْاَبْهَرِ، وَ الْفَرْدِ الْجَامِعِ، وَ الْوَتْرِ الْوَاسِعِ، صَلَاةً اُشَاهِدُ بِهَا عَجَائِبَ

الْمَلَكُوْتِ، وَ اسْتَجَلّٰى بِهَا عَرَآئِسَ الْجَبَرُوْتِ وَ اسْتَمْطِرُ بِهَا غُيُوْثَ الرَّحَمُوْتِ، وَ ارْتَاضُ بِهَا عَنْ عَلَاقَةِ نَاسُوْتِ الْبَهَمُوْتِ، يَالَاهُوْتَ كُلِّ نَاسُوْتٍ يَآ اَللّٰهُ۔

88 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ حَمَلَةِ عَرْشِكَ الطَّاهِرِيْنَ، وَ اَنْبِيَآئِكَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ، وَ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ، وَ اخْصُصِ اللّٰهُمَّ مِنْ م بَيْنِهِمْ نَبِيَّكَ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ اَصْفِيَآئَكَ آدَمَ وَ شِيْثَ وَ اِدْرِيْسَ وَ نُوْحًا وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ الْخِضْرَ وَ اِلْيَاسَ وَ آلَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خُصُوْصًا اِبْنَتَهٗ فَاطِمَةَ وَ عَلِيًّا وَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْاِمَامَ مُحَمَّدًا نِ الْمَهْدِيَّ وَ خَاتَمَ اَمْرِنَا وَ كَامِلَ عَصْرِنَا وَ صَحْبَهٗ وَ الصَّفْوَةَ مِنْ اُمَّتِهٖ وَ الْكَامِلِيْنَ الْمُكَمِّلِيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ بِاَفْضَلِ الصَّلَوَاتِ وَ اَطْيَبِ التَّحِيَّاتِ وَ اَزْكَى التَّسْلِيْمِ۔

اَللّٰهُمَّ وَ بَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِكَ هٰذَا الْمِسْكِيْنِ اِلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اِلٰى سَآئِرِ مَنْ ذَكَرْتُ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِيْنَ مُجْمَلًا وَّ مُفَصَّلًا فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ مِنْكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّحْظَةِ مِنْ هٰذَا الْمِسْكِيْنِ اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَ اَطْيَبُ التَّحِيَّاتِ وَ اَزْكَى التَّسْلِيْمِ۔

89 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نِّبْرَاسِ الْاَنْبِيَآءِ وَ نَيِّرِ الْاَوْلِيَآءِ وَ زِبْرِقَانِ الْاَصْفِيَآءِ وَ بُوْحِ الثَّقَلَيْنِ وَ ضِيَآءِ الْخَافِقَيْنِ۔

90 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا يُّوَافِيْ نِعَمَهٗ وَ يُكَافِئُ مَزِيْدَهٗ سُبْحَانَكَ لَآ اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتّٰى تَرْضٰى { وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۔ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا }۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ اَفْضَلَ وَ اَجَلَّ، وَ اَكْمَلَ وَ اَنْبَلَ، وَ اَطْهَرَ وَ اَزْهَرَ صَلَوَاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ صَلَاةً تَمْتَدُّ وَ تَزِيْدُ بِوَابِلِ سَحَآئِبِ مَوَاهِبِ جُوْدِ كَرَمِكَ، وَ تَنْمُوْ وَ تَزْكُوْ بِنَفَآئِسِ شَرَآئِفِ لَطَآئِفِ جُوْدِ مِنَنِكَ دَآئِمَةً م بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَلَا مُنْتَهٰى لِعِلْمِكَ، اَزَلِيَّةً م بِاَزَلِيَّتِكَ لَا تَزُوْلُ، اَبَدِيَّةً م بِاَبَدِيَّتِكَ لَا تَحُوْلُ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ حَضْرَتِكَ، وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ عَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، الْعِزِّ الشَّامِخِ، وَ النُّوْرِ السَّاطِعِ وَ الْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ وَ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ وَ الْحَضْرَةِ الْجَامِعَةِ، نُوْرِ الْاَنْوَارِ، وَ مَعْدِنِ الْاَسْرَارِ وَ طِرَازِ حُلَّةِ الْفَخَارِ، دُرَّةِ صَدَفَةِ الْوُجُوْدِ وَ ذَخِيْرَةِ الْمُلْكِ الْوَدُوْدِ، وَ مَنْبَعِ الْفَضَآئِلِ وَ الْجُوْدِ تَاجِ مَمْلَكَةِ التَّمْكِيْنِ الرَّؤُوْفِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَى الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، صَلَاتَكَ الَّتِيْ عَلَيْهِ بِهَآ اَنْعَمْتَ وَ بِفَضَآئِلِهَآ لَهٗ اَكْرَمْتَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ خَزَآئِنِ عِلْمِهٖ وَ نُجُوْمِ هِدَايَتِهٖ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ صَلَاةً تُحَسِّنُ بِهَآ اَخْلَاقَنَا وَ تُوَسِّعُ بِهَا وَ تُزَكِّيْ بِهَآ اَعْمَالَنَا وَ تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوْبَنَا وَ تَشْرَحُ بِهَا صُدُوْرَنَا وَ تُطَهِّرُ بِهَا قُلُوْبَنَا وَ تُرَوِّحُ بِهَآ اَرْوَاحَنَا وَ تُقَدِّسُ بِهَآ

اَسْرَارَنَا وَ تُنَزِّهُ بِهَا اَفْكَارَنَا وَ تُصَفِّيْ بِهَا سَرَآئِرَنَا وَ تُنَوِّرُ بِهَا بَصَآئِرَنَا بِنُوْرِ الْفَتْحِ الْمُبِيْنِ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ نَصَبِهٖ وَ زَلَازِلِهٖ وَ تَعَبِهٖ يَا جَوَّادُ يَا كَرِيْمُ وَ تَهْدِيْنَا بِهَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، وَ تُجِيْرُنَا بِهَا مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ، وَ تُنَعِّمُنَا بِهَا بِالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، يَا رَبِّ يَآ اللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ. نَسْئَلُكَ حَقِيْقَةَ الْاِسْتِقَامَةِ فِيْ حَظَآئِرِ قُدْسِكَ وَ مَقَاصِيْرِ اُنْسِكَ، عَلٰى اَرَآئِكِ مُشَاهَدَتِكَ، وَ تَجَلِّيَاتِ مُنَازَلَتِكَ وَ الِهِيْنَ بِسَطَعَاتِ اَنْوَارِ ذَاتِكَ، مُخَلِّقِيْنَ بِاَخْلَاقِ حَقَآئِقِ رَقَآئِقِ صِفَاتِكَ، فِيْ مَقْعَدِ حَبِيْبِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ صَفِيِّكَ الْجَمَالِ الزَّاهِرِ، وَ الْجَلَالِ الْقَاهِرِ، وَ الْكَمَالِ الْفَاخِرِ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النُّبُوَّةِ، وَ لُجَّةِ زَخَّارِ الْكَرَمِ وَ الْفُتُوَّةِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا وَ حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ الْمُبِيْنِ {وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ} {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۰ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}.

91 {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۰ وَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَ كَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۰ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَ كَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا}.

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ، وَ شَرِّفْ وَ عَظِّمْ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، الرَّسُوْلِ الْعَظِيْمِ، الْعَلِيْمِ الْحَلِيْمِ، الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، الْعَفُوِّ الْغَفُوْرِ، الشَّكُوْرِ الصَّبُوْرِ، الْوَدُوْدِ الْمَجِيْدِ، الْوَلِيِّ الْحَمِيْدِ، النُّوْرِ الْمُبِيْنِ، حَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ، وَ حِرْزِهِ الْاَمِيْنِ، الْمُنَبِّئِ وَ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَ الطِّيْنِ.

• صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ، وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ، وَ رَاْفَةَ تَحَنُّنِكَ، وَ فَضَآئِلَ اٰلَآئِكَ وَ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ حَسْبَ قَدْرِكَ وَ سُرَادِقِ هَيْبَتِكَ، وَ عَظِيْمِ شَاْنِكَ، كَمَا يَحْسُنُ وَ يَلِيْقُ بِذُرْوَةِ شَرَفِهٖ وَ عُلُوِّ مَنْصَبِهٖ حَسْبَ قَدْرِهٖ وَ جَاهِهٖ وَ عَظِيْمِ شَاْنِهٖ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْاَقْطَابِ الْاَفْرَادِ الْاَنْجَابِ، السَّابِقِيْنَ اِلٰى بُحْبُوْحَةِ ذٰلِكَ الْجَنَابِ، وَ اَصْحَابِهٖ هُدَاةِ التَّحْقِيْقِ، اَئِمَّةِ الصِّدْقِ وَ التَّصْدِيْقِ، الرَّاشِدِيْنَ اِلٰى مَدْرَجَةِ سَبِيْلِ التَّوْفِيْقِ، صَلَاتَكَ الْمَرْبُوْبَةَ بِعِنَايَتِكَ فِيْ ضِمْنِ مَحَبَّتِكَ قَبْلَ الْقَبْلِ حِيْنَ لَا قَبْلَ، الْمَحْفُوْفَةَ بِكَرَامَتِكَ فِيْ سَفَرِ سَعَادَتِكَ بَعْدَ الْبَعْدِ حِيْنَ لَا بَعْدَ، كَمَا لَهَا اَحْبَبْتَ وَ اَفْضَلْتَ، وَ اِلَيْهَا هَدَيْتَ وَ اَرْشَدْتَ، وَ بِهَا اَعْطَيْتَ وَ اَجْزَلْتَ، وَ عَلَيْهَا اَوْجَبْتَ وَ عَوَّلْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ بِمَآ اَنْعَمْتَ، لَا نُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ، صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَ تُفَرِّجُ بِهَا الْكُرَبُ، وَ تُزِيْلُ بِهَا الْهُمُوْمُ وَ تُبَلِّغُ بِهَا الْعَبْدَ مَا طَلَبَ، صَلَاةً تُطْفِئُ عَنَّا بِهَا وَهَجَ حَرِّ الْقَطِيْعَةِ بِبَرْدِ يَقِيْنِ وِصَالِكَ، وَ تُلْبِسُنَا بِهَآ اَنْوَارَ غُرَرِ تَبَلُّجِ رَوْنَقِ مَجْدِ كَمَالِكَ، فِي الْحَضَرَاتِ الْعِنْدِيَّةِ، وَ الْمَشَاهِدِ الْقُدْسِيَّةِ، مُنْخَلِعِيْنَ عَنْ ذَوَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، بِلَطَآئِفِ

الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّةِ، وَ سَرَآئِرِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ جَوَاهِرِ الْحِكَمِ الْفَرْدَانِيَّةِ، وَ حَقَآئِقِ الصِّفَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. يَآاَللّٰهُ يَاسَمِيْعُ يَاقَرِيْبُ يَامُجِيْبُ يَافَتَّاحُ يَاوَهَّابُ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ، وَ اَنْ تُلْحِقَنَا بِالسَّابِقِيْنَ فِيْ حِلْبَةِ التَّوْفِيْقِ، الْفَآئِزِيْنَ بِالْاَكْمَلِيَّةِ فِيْ كُلِّ خَلْقٍ اَنِيْقٍ، اَلْمُنْعِمِيْنَ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى، مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِمَوَاهِبِ اَنْوَارِ بَهَآئِكَ الْاَجْلٰى، عَلٰى بِسَاطِ صِدْقِ الْمَحَبَّةِ، مَعَ الْاَحِبَّةِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ حِزْبِهٖ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَ مَعْدِنِ اَسْرَارِكَ، وَ نَبِيِّ رَحْمَتِكَ، وَ بُؤْبُؤِ عَيْنِ مَمْلَكَتِكَ، السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ الرَّحْمَةُ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، رُوْحِ الْحَقِّ، وَ مِنَّةِ اللّٰهِ عَلَى الْخَلْقِ، تَاجِ الْعِزِّ وَ الْكَرَامَةِ، شَفِيْعِ الْاُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَلْبِ الْقُرْآنِ، وَ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ، وَ حَبِيْبِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، الْمَبْعُوْثِ بِالدَّلِيْلِ وَ الْبُرْهَانِ، وَ الْمَنْعُوْتِ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الزَّبُوْرِ وَ الْفُرْقَانِ بِسِمَتِهٖ وَ صِفَتِهٖ تَعْزِيْزًا وَّ تَوْقِيْرًا { يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۰ وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ۰ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا } اَلْمُنَوَّهِ بِذِكْرِهٖ فِي السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ اِجْلَالًا لِّحَقِّهٖ وَ تَعْظِيْمًا، وَّ تَشْرِيْفًا لَّهٗ وَ تَكْرِيْمًا { اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا }۔

92 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۢ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۢ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقَمَرِ الْمُنِيْرِ وَ بَارِكْ عَلَى الْقَمَرِ الْمُنِيْرِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۢ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ۔

اَللّٰهُمَّ سُقِ الصَّلَاةَ كُلَّهَا وَ الْبَرَكَاتِ كُلَّهَا وَ السَّلَامَ كُلَّهٗ وَ الرِّفْعَةَ كُلَّهَا وَ الْعِزَّ كُلَّهٗ وَ الشَّرَفَ كُلَّهٗ وَ الْكَرَامَةَ كُلَّهَآ اِلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، اَللّٰهُمَّ آمِيْنَ اَللّٰهُمَّ آمِيْنَ اَللّٰهُمَّ آمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّ صَلَاتَكَ جَلَّتْ ذَاتُكَ وَ تَقَدَّسَتْ اَسْمَآؤُكَ وَ صَلَاةَ مَلَآئِكَتِكَ وَ اَنْبِيَآئِكَ وَ عَبِيْدِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَفِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نِعْمَةٌ مِّنْكَ عَلَيْهِ، وَ وُصْلَةٌ مِّنْكَ اِلَيْهِ فَنَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ وَ جَمِيْعُ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمَآئِكَ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا ضَمَّهُ الْفَوْقُ وَ التَّحْتُ وَ الْقَبْلُ وَ الْبَعْدُ بِجَمِيْعِ اَنْوَاعِ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّةِ الْمَقْبُوْلَةِ، وَ تُسَلِّمَ بِجَمِيْعِ اَنْوَاعِ سَلَامِكَ الَّذِيْ آلَاؤُهٗ بِكَ مَوْصُوْلَةٌ، عَلٰى سَيِّدِ الْخَلْقِ عَلَى الْاِطْلَاقِ، وَ الْمَبْعُوْثِ لِتَتْمِيْمِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ، عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ، الَّذِيْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جِبْرِيْلَ الْاَمِيْنِ عَلٰى وَحْيِكَ وَ الْقَوِيِّ عَلٰى اَمْرِكَ وَ الْمُطَاعِ فِيْ سَمٰوَاتِكَ، وَ مَحَلِّ كَرَامَاتِكَ، الْمُتَحَمِّلِ لِكَلِمَاتِكَ النَّاصِرِ لِاَنْبِيَآئِكَ، الْمُدَمِّرِ لِاَعْدَآئِكَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ مَلَكِ رَحْمَتِكَ، وَالْمَخْلُوْقِ لِرَأْفَتِكَ، وَالْمُسْتَغْفِرِ لِاَهْلِ طَاعَتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اِسْرَافِيْلَ حَامِلِ عَرْشِكَ، وَصَاحِبِ الصُّوْرِ الْمُنْتَظِرِ لِاَمْرِكَ، الْوَاجِلِ الْمُشْفِقِ مِنْ خِيْفَتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَمَلَةِ عَرْشِكَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلَى السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ الطَّيِّبِيْنَ، وَعَلٰى مَلَآئِكَةِ الْجِنَانِ، وَخَزَنَةِ النِّيْرَانِ، وَعَلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ وَالْاَعْوَانِ، وَعَلٰى رِضْوَانَ خَازِنِ الْجِنَانِ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْمَلَآئِكَةِ الْكِرَامِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِيْنَآ اٰدَمَ بَدِيْعِ فِطْرَتِكَ، الَّذِيْ اَكْرَمْتَهٗ بِسُجُوْدِ مَلَآئِكَتِكَ، وَاِبَاحَةِ جَنَّتِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اُمِّنَا حَوَّآءَ الْمُطَهَّرَةِ مِنَ الرِّجْسِ الْمُفَضَّلَةِ عَلَى الْاِنْسِ، الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ مَحَالِّ الْقُدْسِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هَابِيْلَ وَشِيْثَ وَاِدْرِيْسَ وَنُوْحٍ وَّهُوْدٍ وَّصَالِحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَيُوْسُفَ وَالْاَسْبَاطِ وَاَيُّوْبَ وَمُوْسٰى وَهَارُوْنَ وَيُوْشَعَ وَالْخِضْرَ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَيُوْنُسَ وَاِلْيَاسَ وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ وَلُوْطٍ وَّدَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَشُعَيْبَ وَاَشْعِيَا وَاَرْمِيَا وَدَانِيَالَ وَعُزَيْرَ وَعِيْسٰى وَشَمْعُوْنَ وَجَرْجِيْسَ وَالْحَوَارِيِّيْنَ وَالْاَتْبَاعِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَّاٰلَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى السُّعَدَآءِ وَالشُّهَدَآءِ وَاَئِمَّةِ الْهُدٰى وَالْاَبْدَالِ وَالْاَوْتَادِ، وَالْاَشْيَاخِ وَالزُّهَّادِ وَالْعُبَّادِ، وَالصَّالِحِيْنَ وَاَهْلِ الْجِدِّ وَالْاِجْتِهَادِ، وَخُصَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلَ بَيْتِهٖ بِاَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَاَكْرَمِ كَرَامَاتِكَ وَبَلِّغْ رُوْحَهٗ مِنِّيْ تَحِيَّةً وَّسَلَامًا، وَزِدْهُ شَرَفًا وَّفَضْلًا وَّكَرَمًا وَّاِكْرَامًا، حَتّٰى تُبَلِّغَهٗ اَعْلٰى دَرَجَاتِ اَهْلِ الشَّرَفِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ سَمَّيْتَ وَعَلٰى مَنْ لَّمْ تُسَمِّ مِنْ مَّلَآئِكَتِكَ وَاَنْبِيَآئِكَ وَرُسُلِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ وَاَوْصِلْ صَلَاتِيْ وَسَلَامِيْ اِلَيْهِمْ وَاِلٰى اَرْوَاحِهِمْ وَاَجْسَادِهِمْ وَاجْعَلْهُمْ اِخْوَانِيْ فِيْكَ وَاَعْوَانِيْ عَلٰى دُعَآئِكَ بِكَرَمِكَ وَجُوْدِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۰ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾۔

93 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَاَفْلِحْ وَاَنْجِحْ، وَاَتِمَّ وَاَصْلِحْ، وَزَكِّ وَارْبِحْ، وَاَوْفِ وَاَرْجِحْ، اَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ، وَاَجْزَلَ الْمِنَنِ وَالتَّحِيَّاتِ، عَلٰى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَلَقِ صُبْحِ الْاَنْوَارِ الْوَحْدَانِيَّةِ، وَ

طَلْعَةِ شَمْسِ الْاَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ بَهْجَةِ قَمَرِ الْحَقَائِقِ الصَّمَدَانِيَّةِ، وَ عَرُوْسِ حَضْرَةِ الْحَضَرَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ، نُوْرِ كُلِّ رَسُوْلٍ وَّ سَنَاهُ {يٰسٓ ۚ وَ الْقُرآنِ الْحَكِيْمِ} سِرِّ كُلِّ نَبِيٍّ وَّ هُدَاهُ {ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ} جَوْهَرِ عَقْلِ كُلِّ وَلِيٍّ وَّ ضِيَاهُ {سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ}.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَنْبِيَاءِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ.

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَاتِكَ عَلٰى ذَاتِهٖ فِي الذَّوَاتِ مُقَدَّسَةً ، بِسَرَآئِرِ قُدْسِكَ، رَآئِقَةً ، بِرَقَآئِقِ اُنْسِكَ، وَ عَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَاءِ مَوْسُوْمَةً ، بِصِفَاتِكَ وَ اَسْمَآئِكَ، وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ مَنُوْطَةً ، بِنَعْمَآئِكَ، وَ آلَآئِكَ، وَ عَلٰى قَلْبِهٖ فِي الْقُلُوْبِ مُرَوَّقَةً ، بِالْعِلْمِ وَ الْيَقِيْنِ وَ الْعِرْفَانِ، وَ عَلٰى رُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ مُحَبَّرَةً ، بِالتَّوْفِيقِ وَ الرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ، وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ مُنَمَّقَةً ، بِالْفَوْزِ وَ الْقَبُوْلِ وَ الرِّضْوَانِ، صَلَاةً تَتَضَاعَفُ اَعْدَادُهَا بِالْفَضْلِ وَ الْمِنَنِ وَ الْاِحْسَانِ، وَ تَتَرَادَفُ اَمْدَادُهَا بِالْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الْاِمْتِنَانِ، لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا اَمَدَ لَهَا شَرِيْفَةً عَنِ الْمَكَانِ وَ الزَّمَانِ، صَلَاتَكَ الْمُنَزَّهَةَ عَنِ الْحُدُوْثِ وَ الْفُتُوْرِ وَ النُّقْصَانِ، وَ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحْمٰنُ، وَ عَلٰى آلِهٖ مَصَابِيْحِ طُرُقِ الْهِدَايَةِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ، وَ مَفَاتِيْحِ كُنُوْزِ الْحَقَآئِقِ لِذَخَائِرِ الْكَوْنَيْنِ، وَ اَصْحَابِهٖ نُجُوْمِ ظُلَمِ لَيْلِ الْجَهَالَةِ، اُمَنَةِ الْاُمَّةِ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَةِ، صَلَاةً تُصَفِّيْنَا بِهَا مِنْ كَدَرِ شَوْبِ الطَّبِيْعَةِ الْاٰدَمِيَّةِ، بِالسَّحْقِ وَ الْمَحْقِ، وَ تَطْمِسُ بِهَآ آثَارَ وُجُوْدِ الْغَيْرِيَّةِ مِنَّا فِيْ غَيْبِ غَيْبِ الْهُوِيَّةِ، فَيَبْقَى الْكُلُّ لِلْحَقِّ فِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَ تَرْقِيْنَا بِهَا فِيْ مَعَارِجِ شُهُوْدِ وُجُوْدِ {سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ} يَا رَبِّ يَآ اَللهُ يَآ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ، يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ {لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ} نَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ اَنْ تَمْنَحَنَا بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ اَنْوَارَ عُلُوْمِ الرَّقَآئِقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، بِدَقِيْقِ اِشَارَاتِ {وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا} وَ تُخَصِّصَنَا بِكَرَمِكَ مِنْ حَضْرَةِ الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ وَ النِّعْمَةِ الْكَامِلَةِ النَّبَوِيَّةِ، بِاِثَابَةِ الْفَتْحِ الْقَرِيْبِ وَ الْفَتْحِ الْمُبِيْنِ وَ الْفَتْحِ الْمُطْلَقِ فُتُوْحَ الْمَوَاهِبِ الْاَحْمَدِيَّةِ بِكَمْحَاتِ لَحَظَاتِ خِطَابِ {اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا} وَ تُبِيْحُنَا مِنْ اَرْفَعِ الْمَخَادِعِ اَعْلٰى شَرَفِ الْمَجْدِ الْاَسْنٰى، وَ اَجَلَّ مَرَاتِبِ الْقُطْبِيَّةِ الْكُبْرٰى، وَ اَكْمَلَ الْاَخْلَاقِ الْعَلِيَّةِ الْعُظْمٰى، فِيْ مَقَامِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى، بِوَاسِطَةِ اَحْمَدِكَ الْمَخْصُوْصِ بِثُبَاتِ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى، يَا ذَا الْكَرَمِ الْعَظِيْمِ، وَ الْعَطَآءِ الْجَسِيْمِ، وَ الْفَضْلِ الْعَمِيْمِ، بِحُرْمَةِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ.

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ صَلَاتَكَ وَ سَلَامَكَ فِيْ طَيِّ عِلْمِكَ الْاَزَلِيِّ، وَ سَابِقِ حِكْمِكَ الْاَبَدِيِّ، صَلَاةً لَّا يَضْبِطُهَا الْعَدُّ، وَلَا يَحْصُرُهَا الْحَدُّ، وَلَا تَكْتَنِفُهَا الْعِبَارَةُ وَلَا تَحْوِيْهَا

الْإِشَارَةِ، سَطَعَ فَجْرُهَا بِحَظِّهِ الْاَنْفُسِ، عَلٰى اَفْرَادِ الْفُحُوْلِ، فَاَبْهَتَ وَ اَبْهَرَ، وَ لَمَعَ نُوْرُهَا بِفَيْضِهِ الْاَقْدَسِ، عَلٰى ذَوِی الْعُقُوْلِ، فَاَدْهَشَ وَ حَيَّرَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا وَ شَفِيْعِنَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَزْهَرِ، مُجْلٰى تَجَلِّی الذَّاتِ الْاَحَدِيَّةِ، فِیْ حَقَآئِقِ الصِّفَاتِ الْوَاحِدِيَّةِ، سِرِّ سَرَآئِرِ اللَّاهُوْتِ، فِیْ مَشَارِقِ اَنْوَارِ الْجَبَرُوْتِ، الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، تَعْظِيْمًا لَّهٗ وَ تَبْيِيْنًا وَّ تَثْبِيْتًا وَّ تَمْكِيْنًا {بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ} {اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۔ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۔ وَّ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا}۔

94 {اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۔ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ} {يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَاۤ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِی الْمُتَصَدِّقِيْنَ} {هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ}۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ اَتْحِفْ وَ اَنْعِمْ، وَ امْنَحْ وَ اَكْرِمْ، وَ اَجْزِلْ وَ اَعْظِمْ، اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّتَنَزَّلَانِ مِنْ اُفُقِ كُنْهِ بَاطِنِ الذَّاتِ، اِلٰى فَلَكِ سَمَآءِ مَظَاهِرِ الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، وَيَرْتَقِيَانِ مِنْ سِدْرَةِ مُنْتَهَى الْعَارِفِيْنَ، اِلٰى مَرْكَزِ جَلَالِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ عِلْمِ يَقِيْنِ الْعُلَمَآءِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وَ عَيْنِ يَقِيْنِ الْخُلَفَآءِ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَ حَقِّ يَقِيْنِ الْاَنْبِيَآءِ الْمُكَرَّمِيْنَ، الَّذِیْ تَاهَتْ فِیْ اَنْوَارِ جَلَالِهٖ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ تَحَيَّرَتْ فِیْ دَرْكِ حَقَآئِقِهٖ عُظَمَآءُ الْمَلَآئِكَةِ الْمُهَيَّمِيْنَ، اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ {لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ}۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ وَ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ وَ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ وَ رَاْفَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ عَلَى النُّوْرِ الْاَكْمَلِ الْاَعْلٰى، وَ الْكَمَالِ الْاَنْوَارِ الْاَبْهٰى، مَهْبَطِ تَجَلِّيَاتِ الْكَمَالَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ مَوَاقِعِ نُجُوْمِ الْاَسْرَارِ الْجَمَالِيَّةِ وَ الْجَلَالِيَّةِ، اللَّطِيْفِ بِلَطَآئِفِ شَمَآئِلِ فَضَآئِلِ مَكَارِمِ الْبِرِّ الْكَرِيْمِ، الرَّؤُوْفِ بِرَاْفَةٍ {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ} صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ وَ رَحْمَتُهٗ وَ بَرَكَاتُهٗ وَ رَاْفَتُهٗ وَ تَحِيَّتُهٗ وَ

الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ، وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ، وَاللِّوَآءَ الْمَعْقُوْدَ، وَالْمَكَانَ الْمَشْهُوْدَ، الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَزِدْهُ شَرَفًا وَّ كَرَمًا وَّ تَعْظِيْمًا، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ بِدَوَامِ مُلْكِكَ النَّزِيْهِ، عَدَدَ مَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعَدَدَ مَا لَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ، وَعَدَدَ مَا تَغْرُبُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعَدَدَ مَا لَا تَغْرُبُ عَلَيْهِ، يَآ اللّٰهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

97 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَسَآئِرِ عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِيْنَ، وَاَتْبَاعِهِ الْمُكْرَمِيْنَ، وَاَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَتَحَنَّنْ وَتَرَحَّمْ وَتَعَطَّفْ وَتَلَطَّفْ وَتَكَرَّمْ، دَآئِمًا بِدَوَامِكَ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَتَحَنَّنْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَتَعَطَّفْتَ وَتَلَطَّفْتَ وَتَكَرَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَّغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَآئِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ صَلَاةً مَّيْمُوْنَةً زَكِيَّةً هَنِيَّةً رَّضِيَّةً، مَّبْسُوْطَةً مُّبَارَكَةً مَّرْفُوْعَةً مَّرْضِيَّةً، جَلِيْلَةً عَظِيْمَةً عَالِيَةً نَّامِيَةً، طَيِّبَةً طَاهِرَةً مَّقْبُوْلَةً كَرِيْمَةً صَافِيَةً صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَآءَ وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَمَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ صَحَابَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَصَّهُ اللّٰهُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى يَوْمَ الدِّيْنِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَآ اَفْضَلَ عِبَادِ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَآ اَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَاَزْوَاجِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَاَتْبَاعِكَ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ السُّلْطَانِ الْكَامِلِ الْمُخْتَارِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ، وَخَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ، الْمُتَلَذِّذِ بِمُشَاهَدَتِكَ، الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَآئِكَ خُلَاصَةِ خَاصَّةِ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ مِيْمِ الْمَعْرِفَةِ وَحَآءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَمَعْدِنِ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَصَاحِبِ

التَّاجِ وَ الْوَقَارِ شَفِيعِ اُمَّتِهٖ مِنَ النَّارِ، وَ سَآئِقِهِمْ لِدَارِ الْقَرَارِ صَلَاةً دَآئِمَةً ۢ بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً ۢ بِبَقَآئِكَ دَآئِمَةً اَبَدًا ۢ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ، صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَ تُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا صَلَاةً تُسْعِدُنَا بِهَا سَعَادَةً لَّا شَقَاوَةَ بَعْدَهَا وَ تُغْنِيْنَا بِهَا غِنًى لَّا نَاقَةَ بَعْدَهٗ صَلَاةً تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ تُفَرِّجُ بِهَا الْكُرَبَ وَ تَذْهَبُ بِهَا عَنَّا كُلَّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ وَّ سُوْءٍ وَّ حُزْنٍ، صَلَاةً تَرْفَعُ لَنَا بِهَا الدَّرَجَاتِ وَ تَمْحُوْ بِهَا السَّيِّئَاتِ، وَ تَضَاعَفُ بِهَا الْحَسَنَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَعْلَى الْمَقَامَاتِ، بِجِوَارِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِنَفُوْزَ بِبَرَكَتِهٖ بِلَذِيْذِ الْمُشَاهَدَةِ وَ الْمُنَاجَاةِ، مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ صَلَاةً تَزِيْدُ وَ تَنْمُوْ وَ تَفُوْقُ وَ تَعْلُوْ وَ تَسْمُوْ صَلَاةً كُلِّ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ، وَ عَدَدَ كُلِّ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ، وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ، صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا اِنْتِهَآءَ، وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَآ اِنْقِضَآءَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ۔

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْهُ فِيْ نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الطَّاهِرَةِ وَ فِيْ اُمَّتِهٖ وَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ فِيْ صَحَابَتِهٖ، فَوْقَ مَا يُؤَمِّلُهُ مِنْكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، بِفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ، بِزِيَادَاتٍ كُلِّيَاتٍ لَا يُدْرِكُهَآ اَحَدٌ اِلَّآ اَنْتَ وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَآ اَحَدٌ سِوَاكَ وَلَا يَعْلَمُهَآ اَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَآ اَحَدٌ اِلَّآ اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّى الْاَمَانَةَ وَ كَشَفَ الْغُمَّةَ، وَ نَصَحَ الْاُمَّةَ وَ دَرَّ الْبَرَكَةَ وَ اَقَامَ الْحُجَّةَ وَ اَظْهَرَ اللهُ بِبَرَكَتِهِ النِّعْمَةَ، وَ جَعَلَهٗ عَيْنَ الرَّحْمَةِ، جَاهَدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ سَبِيْلِكَ لَآ اَعْرَضَ وَلَآ اَدْبَرَ وَ عَبَدَكَ حَتّٰى اَتَاهُ الْيَقِيْنُ۔

اَللّٰهُمَّ اٰتِهٖ نِهَايَةَ مَا يَسْاَلُهُ السَّآئِلُوْنَ، وَ مَا يَرْغَبُ فِيْهِ الرَّاغِبُوْنَ، اَفْضَلَ وَ اَطْيَبَ وَ اَزْكٰى وَ اَنْمٰى وَ اَعْلٰى وَ اَقْرَبَ وَ اَكْمَلَ مَآ اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ، وَ ارْضَ عَنْ صَحَابَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ، وَ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }۔

98 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا ۢ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِيْنٍ۔

99 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً تَزِنُ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوٰتِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ عَدَدَ جَوَاهِرِ اَفْرَادِ كُرَّةِ الْعَالَمِ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

100 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَشْرَفِ مَوْجُوْدٍ وَّ اَفْضَلِ مَوْلُوْدٍ وَّ اَكْرَمِ مَخْصُوْصٍ وَّ مَحْمُوْدٍ سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِيَّاتِكَ وَ مَنْ لَّهُ التَّفْضِيْلُ عَلٰى جُمْلَةِ مَخْلُوْقَاتِكَ صَلَاةً تَنَاسَبُ مَقَامَهُ الْعَالِيْ وَ مِقْدَارَهٗ وَ تَعُمُّ اَهْلَهٗ وَ اَزْوَاجَهٗ وَ اَوْلِيَآءَهٗ۔

· اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى جُمْلَةِ رُسُلِكَ وَاَنْبِيَآئِكَ وَزُمَرِ مَلٰٓئِكَتِكَ وَاَصْفِيَآئِكَ صَلَاةً تَعُمُّ بَرَكَاتُهَا الْمُطِيْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمَآئِكَ۔

101 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةً اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرَضِيْنَ عَلَيْهِ وَ اَجْرِ يَا مَوْلَانَا لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِيْ اَمْرِيْ وَ اَرِنِيْ سِرَّ جَمِيْلِ صُنْعِكَ فِيْمَا اٰمِلُهٗ مِنْكَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ۔

102 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اتَّصَلَتِ الْعُيُوْنُ بِالنَّظَرِ، وَ تَزَخْرَفَتِ الْاَرَضُوْنَ بِالْمَطَرِ، وَحَجَّ حَاجٌّ وَّ اعْتَمَرَ، وَلَبّٰى وَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَقَبَّلَ الْحَجَرَ۔

103 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْفَاتِحِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ رَحْمَةِ اللهِ لِلْعٰلَمِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

104 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ ۢ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ۔

105 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَجَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُكَ فِيْ خَلْقِكَ وَاَجْرِ لُطْفَكَ فِيْ اُمُوْرِنَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

106 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ صَلَاةً تَتَفَاضَلُ عَلٰى كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا الْمُصَلُّوْنَ مِنْ اَوَّلِ الدَّهْرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِهٖ وَمِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ۔

107 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ وَ مُرَادِ الْاِرَادَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ بِالْكَرَامَاتِ وَ الْمُؤَيَّدِ بِالنُّصْرِ وَ السَّعَادَاتِ السِّرِّ الظَّاهِرِ وَ النُّوْرِ الْبَاطِنِ الْجَامِعِ لِجَمِيْعِ الْحَضَرَاتِ صَاحِبِ الْحَمْدِ الَّذِيْ هُوَ مِفْتَاحُ اَقْفَالِ الْاَعْطِيَةِ الْاِلٰهِيَّاتِ، اَلْاَوَّلِ فِي الْاِيْجَادِ وَالْوُجُوْدِ وَمَنْ ۢ بِهٖ خَتَمَ اللهُ النُّبُوَّةَ وَ الرِّسَالَةَ، نُوْرِ عَيْنِ الْعِنَايَاتِ وَ سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتِ، اَلْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ حَضْرَةَ الْمَشَاهِدِ وَ الْكَمَالَاتِ، اَلَّذِيْ اُسْرِيَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ وَ رُوْحِهِ الْاَقْدَسِ الْعَالِيْ اِلٰى اَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَ خَاطَبَهٗ رَبُّهٗ وَ اَكْرَمَهٗ بِالتَّحِيَّاتِ، النُّوْرِ الْاَكْمَلِ وَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الْاَزْهَرِ الْقَآئِمِ بِكَمَالِ الْعُبُوْدِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ مَعَ الْعِبَادَاتِ صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ مَنِ اقْتَدٰى بِهِمُ اهْتَدٰى اِلَى اللهِ وَ صَارَ مِنْ اَهْلِ الْهِدَايَاتِ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا لَّا يَبْلُغُ حَصْرَ عَدَدِهِمَا اَهْلُ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتِ۔

· اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى السَّيِّدِ الْاَعْظَمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الْبَرِّ الرَّؤُوْفِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ السَّابِقِ اِلَى الْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ الرَّحْمَةِ لِلْعٰلَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ ۢ بَقِيَ، وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَا، وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ، صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةً دَآئِمَةً ۢ بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً ۢ بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَ اَجْرِ يَا رَبِّ خَفِيَّ لُطْفِكَ الْجَمِيْلِ فِيْ اَمْرِيْ وَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

108 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ خَلْقِ اللهِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَ عَدَدَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ
عِلْمِ اللهِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهٗ وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ حَمَلَةِ عَرْشِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيْمِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ اَصْحَابِهٖ وَ
سَلِّمْ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ اَجْمَعِيْنَ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَوَامِ مُلْكِ
اللهِ وَ ضَعْفَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ
السَّمٰوَاتِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اَضْعَافِهِمْ وَ اَضْعَافِ اَضْعَافِهِمْ
صَلَاةً تَزِيْدُ وَ تَدُوْمُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ، كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

109 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ سَيِّدِ الْاٰخِرِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْعُبَّادِ وَ سَيِّدِ الزَّاهِدِيْنَ، وَ
سَيِّدِ الرَّاكِعِيْنَ وَ السَّاجِدِيْنَ، وَ سَيِّدِ الطَّآئِفِيْنَ، وَ الْعَاكِفِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْقَآئِمِيْنَ وَ الصَّآئِمِيْنَ، وَ سَيِّدِ
الطَّالِبِيْنَ وَ الْوَاصِلِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَ الْمُتَّقِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ سَيِّدِ الْمَلَآئِكَةِ
الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ سَيِّدِ خَلْقِ اللهِ اَجْمَعِيْنَ، صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ
اَنْصَارِهٖ وَ آلِ بَيْتِهٖ مَا اتَّصَلَتْ عَيْنٌ م بِيَقِيْنٍ وَّ اُذُنٌ م بِحَنِيْنٍ۔

110 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ مِلْئَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضَا
وَ عَدَدَ النِّعَمِ وَ زِنَةَ الْعَرْشِ۔

111 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً طَيِّبَةً مُّبَارَكَةً تَسْكُنُ بِهَا قَلْبِيْ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ، وَ خَوْفِ
الْخَلْقِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رُوْحَ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ حَيَاةِ
الدَّارَيْنِ، عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ۔

112 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا، وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ اَلْفٍ ضِعْفًا ضِعْفًا۔

113 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّلْئَ مَا بَيْنَهُمَا۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّا اَحْصٰى كِتَابُكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ
صَحْبِهٖ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

114 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الثَّرٰى وَ الْبَرٰى وَ الْوَرٰى وَ عَدَدَ مَا كَانَ

وَمَا يَكُوْنُ وَمَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ عِلْمِ اللهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ عَدَدَ الرِّمَالِ ذَرَّةً ذَرَّةً۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ اَلْفَ مَرَّةٍ۔

115 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النُّوْرِ الْكَامِلِ وَعَلٰى سَيِّدِنَا جِبْرِيْلَ الْمُطَوَّقِ بِالنُّوْرِ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَآءِ يَا لَطِيْفًا لِّمَا يَشَآءُ نَوِّرْ۔

اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا قُلُوْبَنَا وَقُبُوْرَنَا وَاَبْصَارَنَا وَبَصَآئِرَنَا بِرَحْمَةٍ مِّنْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

116 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَّاحِقَةً بِنُوْرِهٖ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَّقْرُوْنَةً بِذِكْرِهٖ وَمَذْكُوْرِهٖ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُّنَوِّرَةً لِّقَبْرِهٖ بِاَكْمَلِ تَنْوِيْرِهٖ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً شَارِحَةً لِّصَدْرِهٖ مُوْجِبَةً لِّسُرُوْرِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَالْاَوْلِيَآءِ صَلَاةً بِعَدَدِ النُّوْرِ وَظُهُوْرِهٖ۔

117 سَلَامُ اللهِ تَعَالٰى وَرَحْمَتُهٗ وَبَرَكَاتُهٗ عَلٰى جَمِيْعِ عَوَالِمِكَ الْمُمْتَدَّةِ كُلِّهَا، ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَهٗ، ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَهٗ، ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَهٗ، ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ كَصَلَاةِ اِبْرَاهِيْمَ مِنْ حَيْثُ شَرِيْعَتُكَ وَكَصَلَاةِ مَلَآئِكَتِهٖ مِنْ حَيْثُ حَقِيْقَتُكَ وَكَصَلَاتِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى مِنْ حَيْثُ حَقُّهٗ وَرَحْمَانِيَّتُهٗ، ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَاوَزَ فِي السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى مَقَامَاتِ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَآءِ، وَزَادَ رِفْعَةً وَّاسْتَعْلٰى، عَلٰى ذَوَاتِ الْمَلَاِ الْاَعْلٰى، وَبَلَغَ الْغَايَةَ الْقُصْوٰى، وَالْمَقْصُوْدَ الَّذِيْ عَجَزَتْ عَنْهُ قُوَّةُ اُولِي النُّهٰى، وَنَبَّهَهٗ لِسَانُ مَفْهُوْمِ قَوْلِهٖ { وَاِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى } وَكَانَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَعْنَى الْوُجُوْدِيِّ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنَ الْمَلَكِ، وَاسْتَوٰى بِذَاتِ كَمَالِهٖ عَلٰى مَوْضُوْعِ جُمْلَةِ الْفَلَكِ، ثُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ظَهَرَ بِالْكَمَالَاتِ وَبُشِّرَ بِهٖ فِيْ عَالَمِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتِ}۔

اَلْوِرْدُ الرَّابِعُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{اِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}

118 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَا رَبِّ يَا اَللهُ يَا رَبِّ يَا اَللهُ يَا رَبِّ يَا اَللهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ۔

اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ وَفِيْ كُلِّ سَاعَةٍ وَّوَقْتٍ وَّنَفَسٍ وَّلَمْحَةٍ وَّلَحْظَةٍ وَّخَطْرَةٍ وَّطَرْفَةٍ يَّطْرِفُ بِهَآ اَهْلُ السَّمٰوَاتِ وَاَهْلُ الْاَرْضِ وَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ عِلْمِكَ كَآئِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ۔

اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ فِيْ مُدَّةِ حَيَاتِيْ وَ بَعْدَ مَمَاتِيْ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ اَلْفَ اَلْفِ صَلَاةٍ وَّ سَلَامٍ مَّضْرُوْبِيْنَ فِيْ مِثْلِ ذٰلِكَ وَ اَمْثَالِ ذٰلِكَ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهِ وَ خُدَّامِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ اِلٰهِيْ اِجْعَلْ كُلَّ صَلَاةٍ مِّنْ ذٰلِكَ تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ اَجْمَعِيْنَ كَفَضْلِهِ الَّذِيْ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى كَافَّةِ خَلْقِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهِ وَ خُدَّامِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ اَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ، وَ عَدَدَ الْمَعْلُوْمَاتِ وَ عَدَدَ الْحُرُوْفِ وَ الْكَلِمَاتِ، وَ عَدَدَ السُّكُوْنِ وَ الْحَرَكَاتِ، صَلَاةً تَمْلَاُ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ، وَ مِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضَا وَ زِنَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْعَرْشِ وَ عَدَدَ الْحُجُبِ وَ السُّرَادِقَاتِ، وَ عَدَدَ الْاَسْمَآءِ الْحُسْنٰى، وَ الصِّفَاتِ الْعُلْيَا، رَبِّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ، يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ يَا رَفِيْعَ الدَّرَجَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَ ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ وَ سَهَا عَنْ ذِكْرِكَ وَ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ، وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَ عَدَدَ مَآ اَحْصَاهُ الْمُحْصُوْنَ، وَ عَدَدَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً اَنْتَ لَهَآ اَهْلٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً هُوَ لَهَآ اَهْلٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا تُحِبُّ اَنْتَ وَ تَرْضٰى۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا يَنْبَغِيْ لِشَرَفِ نُبُوَّتِهٖ وَ عَظِيْمِ قَدْرِهٖ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ

الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَآءً وَّلِحَقِّهٖ اَدَآءً۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ، وَ بِعَدَدِ مَا عُلِمَ وَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ}۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- اَللّٰهُمَّ وَ تَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

- اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
- {اِنَّ اللهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَ الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ مَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالٰى وَ مَلَآئِكَتِهٖ وَ اَنْبِيَآئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ۔
- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ فَاتِحِ الْبِرِّ وَ مُعَلِّمِ الْحِكْمَةِ، وَ رَسُوْلِ الْهُدٰى وَ الرَّحْمَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَ بَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ وَ خَالِقَ الْمَخْلُوْقَاتِ اِجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ رَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ وَ فَضَآئِلَ آلَآئِكَ وَ اَزْكٰى تَحِيَّاتِكَ وَ اَوْفٰى سَلَامِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتَمِ الْاَوَّلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْمَاحِي الْجَامِعِ الدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ، وَ النُّوْرِ وَ النُّوْرِ الْهَادِيْ مِنَ الْاَضَالِيْلِ، اَمِيْنِكَ الْمَأْمُوْنِ، وَ خَازِنِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَنْبِيَآءِ، وَ عَلٰى اِسْمِهٖ فِي الْاَسْمَآءِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى رُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ صَلَاةً تَتَضَاعَفُ اَعْدَادُهَا، وَ يَتَرَادَفُ اِمْدَادُهَا، صَلَاتَكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِدَوَامِكَ وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَذٰلِكَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ}۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى، وَ الرَّسُوْلِ الْمُجْتَبٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْمُعْتَبَرِ، وَ الْمُقَدَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْمُشَفَّعِ فِي الْمَحْشَرِ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ، وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ الْمُسَمّٰى بِالْكَوْثَرِ، الَّذِيْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ

وَ الدَّلَالَةَ وَ الْبَشَارَةَ وَ النَّذَارَةَ وَ النُّبُوَّةَ وَ الْفُتُوَّةَ وَ اَسْرَيْتَ بِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى، اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، اِلٰى قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى وَ اَرَيْتَهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى، وَ اَنَلْتَهُ الْغَايَةَ الْقُصْوٰى، وَ اَكْرَمْتَهٗ بِالْمُكَالَمَةِ وَ الْمُشَاهَدَةِ وَ الْمُعَايَنَةِ بِالنَّظْرِ وَ خَصَّصْتَهٗ بِالْحُبِّ وَ الْقُرْبِ وَ التَّمْكِيْنِ، وَ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَ خَاطَبْتَهٗ وَ وَصَّفْتَهٗ بِقَوْلِكَ الْكَرِيْمِ {وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ وَ اَنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ وَ مَوَالِيْهٖ وَ خُدَّامِهٖ وَ مُحِبِّيْهٖ وَ اُمَّتِهٖ وَ عَلَيْنَآ اَجْمَعِيْنَ، يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَتَمَّ سَلَامَكَ وَ اَنْمٰى بَرَكَاتِكَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْاَمْدَادَ، وَ تُحِيْطُ بِالْاٰحَادِ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا اِنْقِضَآءَ لَهَا صَلَاةً مُّتَّصِلَةً اَبَدِيَّةً سَرْمَدِيَّةً تَدُوْمُ بِدَوَامِ مُلْكِكَ يَا دَآئِمُ يَا كَرِيْمُ، يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ۔

- وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَ عَلٰى اَبَوَيْهِ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اٰلِ كُلٍّ مِّنْهُمْ وَ اَوْلَادِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

- وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَ عَلٰى اُولِى الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ۔

- وَ صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَ عَلٰى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَ مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَآئِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عِزْرَآئِيْلَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ مَلَآئِكَتِهِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِيْنَ۔

- وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَ عَلَى الصَّالِحِيْنَ مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ وَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

- وَ صَلِّ يَا رَبِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ، وَ كَاشِفِ الْغُمَّةِ، وَ جِلَآءِ الظُّلْمَةِ، عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ، وَ عَدَدَ السَّحَابِ وَ الْقَطْرِ، وَ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْبَرِّ وَ

الْبَحْرِ، وَ عَدَدَ الثِّمَارِ وَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ، وَ عَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ اَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَ عَدَدَ نَعْمَآئِكَ، وَ اَفْضَالِكَ وَ آلَائِكَ، وَ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ الْمُبَارَكَاتِ، الطَّيِّبَاتِ، صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاِحَنِ وَ الْمِحَنِ وَ الْاَهْوَالِ وَ الْبَلِيَّاتِ، وَ تُسَلِّمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ وَ الْاَسْقَامِ وَ الْاَمْرَاضِ وَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْعُيُوْبِ وَ السَّيِّئَاتِ، وَ تَغْفِرُلَنَا بِهَا جَمِيْعَ الذُّنُوْبِ وَ تَمْحُوْ بِهَا عَنَّا الْخَطِيْئَاتِ، وَ تَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ مَا نَطْلُبُ مِنَ الْحَاجَاتِ، وَ تَرْفَعُنَا بِهَآ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَ تُبَلِّغُنَا بِهَآ اَقْصَى الْغَايَاتِ، مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ، يَا رَبِّ يَآ اَللّٰهُ يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ}۔

اَللّٰهُمَّ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكُبْرٰى، وَ بَلِّغْهُ بِنَظْرِكَ اِلَيْهِ نِهَايَةَ الْبُشْرٰى، وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَ آتِهِ سُؤْلَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى، كَمَآ آتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى، وَ اَعْطِهِ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لِنَفْسِهٖ وَ اَفْضَلَ مَا سَئَلَكَ لَهٗ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَ اَفْضَلَ مَآ اَنْتَ مَسْؤُوْلٌ لَّهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اَللّٰهُمَّ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهٗ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَ الْاٰخِرُوْنَ وَ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَ الشَّرَفَ الْاَعْلٰى وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، وَ الْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْعَالِيَةَ الْمُنِيْفَةَ، وَ اجْزِهٖ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ زِدْ فِىْ دَرَجَتِهٖ وَ شَرَفِهٖ وَ رِفْعَتِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَحْيِنَا مُسْتَمْسِكِيْنَ بِسُنَّتِهٖ وَ مَحَبَّتِهٖ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اُمَّتِهٖ، وَ اسْتُرْنَا بِذَيْلِ حُرْمَتِهٖ وَ اَمِتْنَا عَلٰى دِيْنِهٖ وَ مِلَّتِهٖ، وَ احْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ زُمْرَتِهٖ، وَ اسْقِنَا مِنْ حَوْضِهٖ وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهٖ، مَعَ اَهْلِهٖ وَ خَاصَّتِهٖ، وَ اجْمَعْنَا بِهٖ وَ بِهِمْ فِىْ مَقْعَدِ الصِّدْقِ عِنْدَكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحْمٰنُ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ} بِحُرْمَةِ هٰذَا النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ الرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ۔

وَ صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِىْ لَا تَنْفُذُ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا عَلِمَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمَ وَ مِلْئَ مَا عَلِمَ۔

وَ اَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُمَّ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ يَا غَفُوْرُ يَا تَوَّابُ وَ اَعُوْذُ بِعِلْمِكَ مِنْ جَهْلِىْ، وَ بِغِنَاكَ مِنْ فَقْرِىْ وَ بِعِزِّكَ مِنْ ذِلِّىْ وَ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ مِنْ عَجْزِىْ وَ ضَعْفِىْ وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِىْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَ الْاَعْمَالِ وَ الْاَهْوَآءِ وَ الْاَدْوَآءِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ

غَلَبَةِ الدُّوَنِ وَ شَمَاتَةِ الْعُبَّادِ وَ الْحُسَّادِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ الْعِجْزِ وَ الْكَسْلِ وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَ خَوَاتِمَهُ وَ جَوَامِعَهُ وَ اَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ وَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ نَبِيُّكَ وَ رَسُوْلُكَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللهُ}

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ} {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۚ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

119 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعْصِمُنَا بِهَا مِنَ الْاَهْوَالِ وَ الْآفَاتِ وَ تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ۔

120 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْئَ مَا عَلِمْتَ۔

121 اَللّٰهُمَّ بِكَ تَوَسَّلْتُ، وَ مِنْكَ سَاَلْتُ، وَ فِيْكَ لَا فِیْ شَيْئٍ سِوَاكَ رَغِبْتُ، لَآ اَسْاَلُ مِنْكَ سِوَاكَ، وَلَآ اَطْلُبُ مِنْكَ اِلَّآ اِيَّاكَ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِیْ قُبُوْلِ ذٰلِكَ بِالْوَسِيْلَةِ الْعُظْمٰى، وَ الْفَضِيْلَةِ الْكُبْرٰى، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الْمُصْطَفٰى، وَ الصَّفِیِّ الْمُرْتَضٰى، وَ النَّبِیِّ الْمُجْتَبٰى، وَ بِهٖ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ صَلَاةً اَبَدِيَّةً دَيْمُوْمِيَّةً قَيُّوْمِيَّةً اِلٰهِيَّةً رَّبَّانِيَّةً ۣ بِحَيْثُ يَشْهَدُ لِیْ ذٰلِكَ بِعَيْنِ كَمَالِهٖ بِشَهَادَةِ مَعَارِفِ ذَاتِهٖ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ كَذٰلِكَ، فَاِنَّكَ وَلِیُّ ذٰلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ۔

122 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَحْمَدِ اَمْرِكَ وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلْقِكَ وَ اَسْعَدِ كَوْنِكَ۔

- اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِهٖ وَ بِهٖ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَيْهِ صَلَاةً ذَاتِيَةً خَاصَّةً ۣ بِهٖ عَامَّةً فِیْ جَمِيْعِ الْوَاحِدِ الْحَرْفِيَّةِ وَ الْاِسْمِيَّةِ، وَ جَمِيْعِ مَرَاتِبِهِ الْعَقْلِيَّةِ وَ الْعِلْمِيَّةِ، صَلَاةً مُّتَّصِلَةً لَّا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا بِسَلْبٍ وَّلَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ بَلْ يَسْتَحِيْلُ عَقْلًا وَّ نَقْلًا وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْاُمَّهَاتِ الْجَوَامِعِ، وَ الْخَزَآئِنِ الْمَوَانِعِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

123 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النُّوْرِ الْاَوَّلِ وَ السِّرِّ الْاَنْوَهِ الْاَكْمَلِ عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ بَهْجَةِ الْاَخْتِرَاعَاتِ الْاَكْوَانِيَّةِ صَاحِبِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ، وَ الْحَقَآئِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ، نُوْرِ كُلِّ شَيْئٍ وَّ هُدَاهُ وَ سِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَّ سَنَاهُ، مَنْ فَتَحْتَ بِهٖ خَزَآئِنَ الْحِكْمَةِ وَ الرَّحَمُوْتِ، وَ مَنَحْتَ بِظُهُوْرِهٖ اَنْوَارَ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ، قُطْبِ دَآئِرَةِ الْكَمَالِ، وَ يَاقُوْتِهٖ

تَاجِ مَحَاسِنِ الْخِلَالِ اِنْسَانِ عَيْنِ الْمَظَاهِرِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ لَطِيْفَةِ تَرَوْحُنَاتِ الْحَضْرَةِ الْقُدُسِيَّةِ مَدَدِ الْاَمْدَادِ وَ جُوْدِ الْجُوْدِ، وَ وَاحِدِ الْاٰحَادِ وَ سِرِّ الْوُجُوْدِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ السُّلُوْكِ، وَ شَرَفِ الْاِمْلَاكِ وَ الْمُلُوْكِ، بَدْرِ الْمَعَارِفِ فِیْ سَمَآءِ الدَّقَآئِقِ، وَ شَمْسِ الْعَوَارِفِ فِیْ عُرُوْشِ الْحَقَآئِقِ، بَابِكَ الْاَعْظَمِ، وَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ الْاَقْوَمِ بِرِزْقِكَ اللَّامِعِ وَ نُوْرِكَ السَّاطِعِ، وَ ضِيَآئِكَ الَّذِیْ هُوَ بِاُفُقِ كُلِّ قَلْبٍ سَلِيْمٍ طَالِعٌ وَّ سِرِّكَ الْمُنَزَّهِ السَّارِیْ فِیْ جُزْئِيَّاتِ الْعَالَمِ وَ كُلِّيَاتِهٖ عَلَوِيَّاتِهٖ وَ سِفْلِيَّاتِهٖ، مِنْ جَوْهَرٍ وَّ عَرَضٍ وَّ وَسَآئِطٍ وَّ مُرَكَّبَاتٍ وَّ بَسَآئِطٍ، مَغْرِبِ اَسْرَارِ الذَّاتِ، وَ مَشْرِقِ اَنْوَارِ الصِّفَاتِ، وَ مَظْهَرِ اَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ، بِاَنْوَارِ السُّبُحَاتِ، مِنْ سَنَا السُّرَادِقَاتِ، بِاَرْوَاحِ التَّرَوْحُنَاتِ، الْمُصَلِّیْ فِیْ مِحْرَابِ جَامِعِ الْجَمْعِ بِاَحْمَدَ، وَ الْقَارِیْ بِقُرْاٰنِ الْفَرْقِ بِسَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الْقَآئِمِ فِی الْمُلْكِ بِشَرْعِهٖ وَ جَلَالِهٖ، وَ الرَّاحِمِ فِی الْمَلَكُوْتِ بِرَحْمَتِهٖ وَ جَمَالِهٖ، عَيْنِ غَيْبِكَ الْكَامِلَةِ، وَ خَلِيْفَتِكَ عَلَى الْاِطْلَاقِ فِیْ مَمْلَكَتِكَ الشَّامِلَةِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُعَرِّفُنِیْ بِهَآ اِيَّاهُ فِیْ مَرَاتِبِهٖ وَ عَوَالِمِهٖ وَ مَوَاطِنِهٖ وَ مَعَالِمِهٖ، حَتّٰی اَشْهَدَهٗ بِعَيْنِ الْعَيَانِ، لَا بِالدَّلِيْلِ وَ الْبُرْهَانِ وَ اَعْرِفَهٗ بِالتَّحْقِيْقِ، فِیْ كُلِّ مَوْطِنٍ وَّ طَرِيْقٍ، وَ اَرٰی سِرَيَانَ سِرِّهٖ فِی الْاَكْوَانِ، وَ مَعْنَاهُ الْمَشْرِقَ فِیْ مَجَالِيْهِ الْحِسَانِ۔

- وَ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ مَدَدِیْ مِنْ شَمْسِ حَقِيْقَتِهٖ، وَ مِنْ نُّوْرِ شَرِيْعَتِهٖ، حَتّٰی اَسْتَضِيْئَ فِیْ لَيْلِ جَهْلِیْ بِاَنْوَارِ حَقَآئِقِ مَعَارِفِهٖ، وَ آنَسَ فِیْ غُرْبَةِ مَسْرَایِ بِاِيْنَاسِ لَطَآئِفِهٖ، وَ احْمِلْنِیْ اِلٰی حَضْرَتِهِ الْقُدُسِيَّةِ الْاَحْمَدِيَّةِ، عَلٰی كَاهِلِ شَرِيْعَتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، عَمِّرْ اَوْطَانَ نَقْصِیْ بِاَوْطَارِ كَمَالِهٖ، وَ اَلْبِسْنِیْ مِنْ خَلْعِ جَلَالِهٖ وَ جَمَالِهٖ، وَ اَفْرِدْنِیْ فِیْ حُبِّهٖ كَمَآ اَفْرَدْتَّهٗ فِیْ حُسْنِهٖ وَ اِحْسَانِهٖ، وَ خَصِّصْنِیْ بِخَصَآئِصِ قُرْبِهٖ وَ اِمْتِنَانِهٖ، حَتّٰی اَكُوْنَ وَارِثًا لَّدَيْهِ، وَ نَاظِرًا مِّنْهُ اِلَيْهِ، وَ جَامِعًا لَّهٗ بِهٖ عَلَيْهِ۔

- اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاتَكَ الْاَزَلِيَّةَ الْاَحَدِيَّةَ فِیْ مَظَاهِرِكَ الْاَبَدِيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ مَا تَوَحَّدَ تَجَلِّيْكَ وَ تَكَثَّرَ الْفَرْدَ فِی الْعَدَدِ، وَ اَشْرَقَتْ اَنْوَارُ الصِّفَاتِ بِتَوَالِی الْمَدَدِ، وَ اتَّسَعَتْ رُبُوْبِيَّةُ الْحَكِيْمِ، وَ تَقَدَّسَتْ سُبُحَاتُ الْعَلِيْمِ، بِتَسْبِيْحِ التَّمْجِيْدِ وَ التَّكْرِيْمِ، بِلِسَانِ الْقِدَمِ فِیْ اَزَلِ الْاٰزَالِ وَ تَقْدِيْسِهٖ فِیْ صِفَتِی الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ۔

- وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ الْفَرْدَانِيَّةِ، مَا تَعَدَّدَتْ مَرَاتِبُ الْعَدَدِيَّةِ فِیْ وَحْدَةِ مَرَاقِیْ دَرَجَاتِهِ الْعُلْوِيَّةِ، فِیْ مَقَامَاتِ الْعُبُوْدِيَّةِ، بِتَوَالِیْ شُهُوْدِ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ، وَ اِنْدِرَاجِ الْاَنْوَارِ الصِّفَاتِيَّةِ، فِی الْمَجَالَاتِ الْاَطْوَارِيَّةِ، وَ الْمَطَارَاتِ الْمَلَكِيَّةِ، وَ سَجَدَتْ لَهُ الْاَرْوَاحُ الرُّوْحَانِيَّةُ فِیْ مِحْرَابِ الْاٰدَمِيَّةِ، فِیْ جَامِعِ حِيْطَتِهِ الْاَحْمَدِيَّةِ، الْمُحِيْطَةِ بِالْاَنْوَارِ السُّبُوْحِيَّةِ، الْكَاتِبَةِ بِالْاَقْلَامِ الْمَعْنَوِيَّةِ، فِی الْاَلْوَاحِ الشُّهُوْدِيَّةِ، بِالْاَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ، عَنِ الْاِدْرَاكَاتِ الْبَشَرِيَّةِ۔

- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّتَقَدَّسُ بِهِمَا عَنْ عَوَارِضِ الْاِمْكَانِ لِوُجُوْبِ اِتِّصَافِهٖ بِالْكَمَالَاتِ، وَ عُمُوْمِ عِصْمَتِهٖ فِیْ جَمِيْعِ الْخَطَرَاتِ، مَا تَنَزَّهَ شَامِخُ عِزِّهٖ عَنِ النَّقْصِ وَ السُّلُوْبِ، وَ

ثَبِّتْ رَاسِخَ مَجْدِهٖ بِالذَّاتِ وَ الْوُجُوْبِ وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ اَئِمَّةِ الْهُدٰى، وَ نُجُوْمِ الْاِقْتِدَا، مَا تَعَاقَبَتْ اَدْوَارُ الْاَنْوَارِ وَ اَشْرَقَتِ الْاَسْرَارُ بِالْاَسْرَارِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَّ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

124 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَ مُرَادِ الْاِرَادَاتِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

125 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَشْرَقَتْ بِنُوْرِهِ الظُّلَمُ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّكُلِّ الْاُمَمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمُخْتَارِ لِلسِّيَادَةِ وَ الرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَوْصُوْفِ بِاَفْضَلِ الْاَخْلَاقِ وَ الشِّيَمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْمَخْصُوْصِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَ خَوَاصِّ الْحِكَمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ لَا تُنْتَهَكُ فِيْ مَجَالِسِهِ الْحُرَمُ وَلَا يَغْضِيْ عَمَّنْ ظَلَمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ اِذَا مَشٰى تَظَلَّلَهُ الْغَمَامَةُ حَيْثُمَا يَمَّمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اِنْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَ اَقَرَّ بِرِسَالَتِهٖ وَ صَمَّمَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ اَثْنٰى عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ نَصًّا فِيْ سَالِفِ الْقِدَمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ صَلّٰى عَلَيْهِ رَبُّنَا فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِهٖ وَ اَمَرَ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ مَا انْهَلَّتِ الدِّيَمُ وَ مَا جُرَّتْ عَلَى الْمُذْنِبِيْنَ اَذْيَالُ الْكَرَمِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ شَرِّفْ وَ كَرِّمْ۔

126 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ سَلَامٍ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ آلِهِمْ وَ صَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ، وَ سَآئِرِ الصَّالِحِيْنَ، عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ بِدَوَامِكَ بَاقِيَيْنِ بِبَقَآئِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهُمَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

127 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَ تُفَكُّ بِهَا الْكُرَبُ۔

128 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ وَ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَ مَنْ بَقِيَ وَ مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَ مَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ،

وَ تُحِيْطُ بِالْحَلِّ، صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهٰى وَلَآ اِنْقِضَآءَ صَلَاةً دَآئِمَةً م بِدَاوٰمِكَ بَاقِيَةً م بِبَقَآئِكَ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَصْهَارِهٖ، وَ اَنْصَارِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذٰلِكَ وَ اَجْرِ يَا مَوْلَانَا خَفِيَّ لُطْفِكَ فِيْ اُمُوْرِنَا كُلِّهَا وَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

129 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُحِلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ وَ تُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ، تُنْقِذُنِيْ بِهَا مِنْ وَّحْلَتِيْ، وَ تُقِيْلُ بِهَا عُثْرَتِيْ، وَ تَقْضِيْ بِهَا حَاجَتِيْ۔

130 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ قَآئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ، صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ الَّذِيْ تَمَيَّزَ بِهٖ عَنْ جَمِيْعِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، صَاحِبِ الْحَوْضِ وَ الْكَوْثَرِ الَّذِيْ يَرْوِيْ مِنْهُ الْوَارِدِيْنَ، اَحْمَدَ اَبِي الْقَاسِمِ الْمُزَّمِّلِ الْمُدَّثِّرِ طٰهٰ يٰسٓ، اِنْسَانِ عَيْنِ الْعَالَمِ جَوْهَرِ خَاتِمِ الْوُجُوْدِ رَضِيْعِ ثَدْيِ الْوَحْيِ حَافِظِ سِرِّ الْاَزَلِ كَاشِفِ كَرْبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ تَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقِدَمِ حَامِلِ لِوَآءِ الْعِزِّ مَالِكِ اَزِمَّةِ الْمَجْدِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النُّبُوَّةِ دُرَّةِ تَاجِ الرِّسَالَةِ، قَآئِدِ رَكْبِ الْوِلَايَةِ اِمَامِ اَهْلِ الْحَضْرَةِ مُقَدَّمِ عَسْكَرِ السَّادَةِ الْمُرْسَلِيْنَ مَنْ اَتَاهُ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ، مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَاَرْكَبَهُ الْبُرَاقَ، وَ خَرَّقَ بِهِ السَّبْعَ الطِّبَاقَ لِمُبَاشَرَةِ جَمَالِ الْجَلَالِ الْاَزَلِيِّ، وَ مُحَاضَرَةِ كَمَالِ الْعِزِّ الْاَبَدِيِّ وَ زُفَّتْ عَلَيْهِ مُخَدَّرَاتُ اَنْبَآءِ الْكَوْنَيْنِ وَ اَسْرَارِ الْمَلَكَيْنِ وَ اُمُوْرِ الدَّارَيْنِ وَ عُلُوْمِ الثَّقَلَيْنِ فِيْ مَجْلِسِ {لَقَدْ رَاٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى} وَ اَتَتْهُ رُؤُسَآءُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُسَلِّمَةً عَلَيْهِ وَ هُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى، وَ اَقْبَلَتْ مُلُوْكُ الْاَمْلَاكِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَسْعٰى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ دُهِشَتْ لِجَمَالِهٖ اَبْصَارُ سُكَّانِ الصَّفِيْحِ الْاَسْمٰى، وَ خَشَعَتْ لِهَيْبَتِهٖ اَعْنَاقُ اَهْلِ السُّرَادِقِ الْاَسْنٰى، وَ خَضَعَتْ لِعِزَّتِهٖ رُؤُوْسُ اَصْحَابِ صَوَامِعِ النُّوْرِ وَ شَخَّصَتْ لِكَمَالِ مَجْدِهٖ اَعْيُنُ الْكُرُوْبِيِّيْنَ وَ الرُّوْحَانِيِّيْنَ، وَ وَقَفَتِ الْمَلَآئِكَةُ صُفُوْفًا مِّنَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَ ابْتَهَجَتْ حَظَآئِرُ الْقُدْسِ بِزَجَلِ الْمُسَبِّحِيْنَ وَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ وَ الْكُرْسِيُّ طَرَبًا م بِرُؤْيَتِهٖ وَ زَيَّنَتِ الْجِنَانُ وَ الْحُوْرُ الْحِسَانُ فَرَحًا م بِمَقْدَمِهٖ وَ افْتَخَرَ الْعُلٰى عَلَى الثَّرٰى بِمَا رَاٰى وَ انْكَشَفَتْ لِعَيْنِ الْمُخْتَارِ الْاَسْرَارُ وَ رُفِعَتْ لِصَاحِبِ الْاَنْوَارِ الْاَسْتَارُ، وَ تَقَدَّمَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ اِلٰى دَآئِرَةٍ {وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ} وَ قَالَ لَهٗ اَيُّهَا الْحَبِيْبُ الْمُقَرَّبُ تَهَيَّاْ لِتَلَقِّي اللّٰهِ وَحْدَكَ خَالِيًا وَّ زَجَّهٗ فِي النُّوْرِ وَ عِنْدَ التَّنَاهِيْ يَقْصُرُ الْمُتَطَاوِلُ فَانْتَهٰى مُسَرَّاهُ اِلٰى مُسْتَوًى يَّسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ بِمَا يُوْحٰى عَلٰى صِفَا اللَّوْحِ الْاَعْظَمِ وَ سَارَ عَلٰى رَفْرَفِ النُّوْرِ اِلَى الْاُفُقِ الْاَعْلٰى وَ طَارَ بِجَنَاحِ الْاَشْوَاقِ اِلٰى مَقَامِ دَنَا فَتَدَلّٰى، وَ اَنْزَلَهٗ فِيْ مَضِيْفِ الْكَرَمِ فِيْ رَوْضَةِ قَابَ قَوْسَيْنِ وَ بَسَطَ لَهٗ فَرَّاشُ الدُّنُوِّ فِرَاشَ اَوْ اَدْنٰى، سَمِعَ مِنْ جَنَابِ الرَّفِيْعِ الْاَعْلٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ، تَلَقَّاهُ الْحَبِيْبُ بِالْاِكْرَامِ، وَ نَادَاهُ الْجَلِيْلُ بِالسَّلَامِ، وَ بَسَطَ مُنْقَبِضَ رَوْعَتِهٖ، وَ آنَسَ مُنْزَعِجَ وَحْشَتِهٖ، نُوْغِيَ بِمُخَاطَبَاتِ {فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى} كُوْشِفَ بِعَيَانِ {وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى} هَمَّ اَنْ يُّجِيْبَ فَسَبَقَهُ الْقَدَرُ فَفَتَحَ فَمَهٗ فَقَطَرَتْ فِيْهِ قَطْرَةٌ مِّنْ م بَحْرِ الْعِلْمِ الْاَزَلِيِّ فَعَلِمَ بِهَا عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، ثُمَّ عَادَ اِلٰى مَعَالِمِهٖ وَ اَهْلِ عَوَالِمِهٖ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ. شَاوِيْشُ هٰذَا عَطَآؤُنَا يَتَرَنَّمُ بِاَنَاشِيْدِ عِيْدِ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ. تَاجُ شَرَفِهٖ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ. طِرَازُ حُلَّتِهٖ {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى} نَادٰى مُنَادِيْ سُلْطَانِ عِزَّةٍ فِيْ طَبَقَاتِ الْاَكْوَانِ وَصَفَحَاتِ الْوُجُوْدِ بِلِسَانِ الْاَمْرِ بِالتَّشْرِيْفِ تَعْظِيْمًا لَّهٗ وَتَكْرِيْمًا {اِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}۔

- اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ رُوْحَهُ الطَّاهِرَةَ مِنَّآ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَاجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ۔
- اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ الْحَبِيْبِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَبِيْبِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ الْحَبِيْبَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا۔

اَللّٰهُمَّ اَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ فَآئِضِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّاحْشُرْنَا يَا رَبَّنَا فِيْ زُمْرَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ اَجِرْنَا يَا رَبَّنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِبَرَكَاتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّاَدْخِلْنَا وَوَالِدَيْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَّارْزُقْنَا النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

131 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَسَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ۔

132 اَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَحْسَنُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَجَلُّ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَجْمَلُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَكْمَلُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَسْمَعُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَتَمُّ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَظْهَرُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَزْكٰى صَلَوَاتِ اللهِ وَاَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَبْرَكُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَوْفٰى صَلَوَاتِ اللهِ وَاَسْنٰى صَلَوَاتِ اللهِ وَاَعْلٰى صَلَوَاتِ اللهِ وَاَكْثَرُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَعَمُّ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَبْقٰى صَلَوَاتِ اللهِ وَاَعَزُّ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللهِ عَلٰى اَفْضَلِ خَلْقِ اللهِ وَاَحْسَنِ خَلْقِ اللهِ وَاَجَلِّ خَلْقِ اللهِ وَاَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ وَاَجْمَلِ خَلْقِ اللهِ وَاَكْمَلِ خَلْقِ اللهِ وَاَتَمِّ خَلْقِ اللهِ وَاَعْظَمِ خَلْقِ اللهِ عِنْدَ اللهِ رَسُوْلِ اللهِ وَنَبِيِّ اللهِ وَحَبِيْبِ اللهِ وَصَفِيِّ اللهِ وَنَجِيِّ اللهِ وَخَلِيْلِ اللهِ وَوَلِيِّ اللهِ وَاَمِيْنِ اللهِ وَخِيَرَةِ اللهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ وَنُخْبَةِ اللهِ مِنْ بَرِيَّةِ اللهِ وَصَفْوَةِ اللهِ مِنْ اَنْبِيَآءِ اللهِ وَعُرْوَةِ اللهِ وَعِصْمَةِ اللهِ وَنِعْمَةِ اللهِ وَمِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللهِ، الْمُخْتَارِ مِنْ رُّسُلِ اللهِ، الْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقِ اللهِ، الْفَآئِزِ بِالْمَطْلَبِ فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ، الْمُخْلِصِ فِيْمَا وُهِبَ، اَكْرَمِ مَبْعُوْثٍ اَصْدَقِ قَآئِلٍ اَنْجَحِ شَافِعٍ اَفْضَلِ مُشَفَّعٍ، الْاَمِيْنِ فِيْمَا اسْتُوْدِعَ، الصَّادِقِ فِيْمَا بَلَّغَ، الصَّادِعِ بِاَمْرِ رَبِّهٖ، الْمُضْطَلِعِ بِمَا حُمِّلَ، اَقْرَبِ رُسُلِ اللهِ اِلَى اللهِ وَسِيْلَةً وَّاَعْظَمِهِمْ غَدًا عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً وَّفَضِيْلَةً وَّاَكْرَمِ اَنْبِيَآءِ اللهِ الْكِرَامِ الصَّفْوَةِ عَلَى اللهِ وَاَحَبِّهِمْ اِلَى اللهِ وَاَقْرَبِهِمْ زُلْفٰى لَدَى اللهِ وَاَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ وَاَحْظَاهُمْ وَاَرْضَاهُمْ لَدَى اللهِ وَاَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا وَّاَعْظَمِهِمْ مَحَلًّا وَّاَكْمَلِهٖ مَحَاسِنًا وَّ

فَضْلًا وَّ اَفْضَلِ الْاَنْبِيَاءِ دَرَجَةً وَّ اَكْمَلِهِمْ شَرِيْعَةً وَّ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ نِصَابًا وَّ اَبْيَنِهِمْ بَيَانًا وَّ خِطَابًا وَّ اَفْضَلِهِمْ مَوْلِدًا وَّ مُهَاجِرًا وَّ عِتْرَةً وَّ اَصْحَابًا وَّ اَكْرَمِ النَّاسِ اَرُوْمَةً وَّ اَشْرَفِهِمْ جُرْثُوْمَةً وَّ خَيْرِهِمْ نَفْسًا وَّ اَطْهَرِهِمْ قَلْبًا وَّ اَصْدَقِهِمْ قَوْلًا وَّ اَزْكَاهُمْ فِعْلًا وَّ اَثْبَتِهِمْ اَصْلًا وَّ اَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَّ اَمْكَنِهِمْ مَجْدًا وَّ اَكْرَمِهِمْ طَبْعًا وَّ اَحْسَنِهِمْ صُنْعًا وَّ اَطْيَبِهِمْ فَرْعًا وَّ اَكْثَرِهِمْ طَاعَةً وَّ سَمْعًا وَّ اَعْلَاهُمْ مَقَامًا وَّ اَحْلَاهُمْ كَلَامًا وَّ اَزْكَاهُمْ سَلَامًا وَّ اَجَلِّهِمْ قَدْرًا وَّ اَعْظَمِهِمْ فَخْرًا وَّ اَسْنَاهُمْ نُوْرًا وَّ اَرْفَعِهِمْ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى ذِكْرًا وَّ اَوْفَاهُمْ عَهْدًا وَّ اَصْدَقِهِمْ وَعْدًا وَّ اَكْثَرِهِمْ شُكْرًا وَّ اَعْلَاهُمْ اَمْرًا وَّ اَجْمَلِهِمْ صَبْرًا وَّ اَحْسَنِهِمْ خَيْرًا وَّ اَقْرَبِهِمْ يُسْرًا وَّ اَبْعَدِهِمْ مَكَانًا وَّ اَعْظَمِهِمْ شَاْنًا وَّ اَثْبَتِهِمْ بُرْهَانًا وَّ اَرْجَحِهِمْ مِيْزَانًا وَّ اَوَّلِهِمْ اِيْمَانًا وَّ اَوْضَحِهِمْ بَيَانًا وَّ اَفْصَحِهِمْ لِسَانًا وَّ اَظْهَرِهِمْ سُلْطَانًا۔

133 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ وَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَآئِكَ وَ اَصْفِيَآئِكَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمَآئِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ مُنْتَهٰى عِلْمِكَ وَ زِنَةَ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ صَلَاةً مُّكَرَّرَةً اَبَدًا عَدَدَ مَآ اَحْصٰى عِلْمُكَ وَ مِلْءَ مَآ اَحْصٰى عِلْمُكَ وَ اَضْعَافَ مَآ اَحْصٰى عِلْمُكَ صَلَاةً تَزِيْدُ وَ تَفُوْقُ وَ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ كَفَضْلِكَ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِكَ۔

134 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِحَبِيْبِكَ الْمُصْطَفٰى عِنْدَكَ يَا حَبِيْبَنَا يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيْمِ يَا نِعْمَ الرَّسُوْلُ الطَّاهِرُ۔

اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيْنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ۔

اَللّٰهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّيْنَ وَ الْمُسَلِّمِيْنَ عَلَيْهِ، وَ مِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْهُ وَ الْوَارِدِيْنَ عَلَيْهِ، وَ مِنْ اَخْيَارِ الْمُحِبِّيْنَ فِيْهِ وَ الْمَحْبُوْبِيْنَ لَدَيْهِ، وَ فَرِّحْنَا بِهٖ فِيْ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَ اجْعَلْهُ لَنَا دَلِيْلًا اِلٰى جَنَّةِ النَّعِيْمِ بِلَا مُؤْنَةٍ وَّلَا مُشَقَّةٍ وَّلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَ اجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْمَيِّتِيْنَ، وَ اٰخِرُ دَعْوَانَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

135 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ صَلَاةً تَشْرَحُ بِهَا صَدْرِيْ وَ تُيَسِّرُ بِهَآ اَمْرِيْ وَ تَجْبُرُ بِهَا كَسْرِيْ وَ تُغْنِيْ بِهَا فَقْرِيْ وَ تُنَوِّرُ بِهَا قَبْرِيْ وَ تَحُلُّ بِهَا عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ بِمَا لَا يُحْصٰى وَلَا تُحِيْطُ بِهٖ دَآئِرَةٌ، وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَصْحَابِهٖ اَهْلِ الْكَمَالِ وَ التَّكْمِيْلِ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ بِهِمْ كُلَّ حَآئِرٍ وَّ حَآئِرَةٍ۔

• صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ الْمُتَوَّجِ بِمَقَامِ الْاَكْمَلِيَّةِ عَلٰى سَآئِرِ الْبَرِيَّةِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ الْخُصُوْصِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الرُّبُوْبِيَّةِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يُتِمُّ نُوْرُهُمَا وَ يَدُوْمُ لَنَآ اَبَدًا وَّ يَتَجَدَّدُ ثَوَابُهُمَا وَلَا يَنْقَطِعُ سَرْمَدًا۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ الرَّسُوْلِ مِرْاٰةِ الذَّاتِ وَ مَظْهَرِ الصِّفَاتِ وَ حَضْرَةِ السُّبُحَاتِ ذِي الْحَنَانِ الْاَعْظَمِ وَ الْعَطَآءِ الْاَكْرَمِ وَ النُّوْرِ الْخَارِقِ وَ الْعِلْمِ الْفَارِقِ وَ الْجَمَالِ الْيَتِيْمِ وَ الصِّرَاطِ

الْمُسْتَقِيْمِ وَ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ الْهُدَى الْقَوِيْمِ وَ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ وَ الْعِزِّ الْمُحَقَّقِ وَ الْمَقَامِ الْاَعْلٰى وَ الشَّرَفِ الْاَعْلٰى وَ السِّرِّ الْاَجْلٰى وَ الْمَوْرِدِ الْاَحْلٰى وَ الْبَاطِنِ الْاَنْقٰى وَ الْقَلْبِ الْاَتْقٰى وَ اللِّسَانِ الْمُعَرَّبِ وَ الْجِنَانِ الْمُقَرَّبِ وَ الْجَلَالِ الظَّاهِرِ وَ الْعُنْصُرِ الطَّاهِرِ وَ الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ وَ النِّعْمَةِ الْكَامِلَةِ مُبْتَدَأِ الْاَمْرِ وَ الْخِتَامِ وَ وَاسِطَةِ عَقْدِ النِّظَامِ طِرَازِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَ مُسْتَوْدَعِ خَزَآئِنِ الرَّحَمُوْتِ قُطْبِ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ وَ مَعْدِنِ فَيَضَانِ الْجُوْدِ. اِنْسَانِ عَيْنِ الْكَمَالِ وَ فَخْرِ الْمَزَايَا وَ الْخِصَالِ، مُتَفَجِّرِ يَنَابِيْعِ الْحِكَمِ وَ مُؤَيِّدِ اَخْلَاقِ الْهِمَمِ، لَطِيْفَةِ سِرِّ الْخِلَافَةِ الْاٰدَمِيَّةِ، اَلْمُشْتَهَرَةِ الْمُشْتَمِلَةِ بِالْاَنْوَارِ الْمُحَمَّدِيَّةِ خَصَّهَا اللهُ تَعَالٰى بِصَلَاةٍ يَّرْضَاهَا لِتِلْكَ اللَّطِيْفَةِ الْاَحْمَدِيَّةِ وَ سَلَامٌ عَاطِرٌ عَلَيْهَا مِنْ مَّرْتَبَةٍ مُؤْوِيَّةٍ اَبَدًا مِنْ رَبِّ الْبَرِيَّةِ ثُمَّ مِنْ عَبْدٍ حَقِيْرٍ مُّعْتَرِفٍ بِالتَّقْصِيْرِ يَرْجُو الصَّلَاةَ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ. اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

• اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى هٰذَا الْحَبِيْبِ الْمَظْهَرِ التَّآمِّ وَاسِطَةِ عَقْدِ النِّظَامِ فَاتِحِ خَزَآئِنِ الْمَعَارِفِ وَ مُفِيْضِ الْاَسْرَارِ وَ اللَّطَآئِفِ نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَ سِرِّ الْاَسْرَارِ مَعْدِنِ الْجُوْدِ وَ مَدَدِ الْوُجُوْدِ وَ سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ مُّقِرِّ التَّنَزُّلَاتِ وَ مَجْلَى التَّجَلِّيَاتِ بِالْمَعْنَى الرُّوْحِيِّ وَ السِّرِّ السُّبُوْحِيِّ سِرَاجِ الْعَالَمِ وَ مَقْصُوْدِ الْعِلْمِ مِنَ الْعُلُوْمِ لِلْعَالَمِ، رُوْحِ الْاَرْوَاحِ وَ لَطِيْفَةِ الْاِرْتِيَاحِ، اِنْسَانِ عَيْنِ الْاَعْيَانِ فِيْ جَمِيْعِ دَوْرَاتِ الزَّمَانِ، مُبَلِّغِ الْمَقَاصِدِ السَّنِيَّةِ لِاَرْبَابِ الْهِمَمِ الْعَلِيَّةِ فِي الْحَضَرَاتِ الْقُدْسِيَّةِ، بَهْجَةِ الْاَنْوَارِ الْمُتَاَلِّقَةِ فِي الْمَظَاهِرِ الصِّبَاحِ وَ اَنَسِ خَفَرِ الْوُجُوْهِ الْمَقْبُوْلَةِ الْمَلَاحِ، مُرْشِدِ الْعُقُوْلِ وَ مَطْمَاَنِّ الْقُلُوْبِ وَ هَادِي النُّفُوْسِ وَ مُنَوِّرِ الْاَرْوَاحِ وَ دَاعِيْهَا اِلَى الْحُضُوْرِ فِيْ حَضْرَةِ الْقُدُّوْسِ، خَطِيْبِ خِطْبَةِ الْوِصَالِ لِخِطَابِ الْاِتِّصَالِ بِذِى الْجَمَالِ وَ الْجَلَالِ مِنْ اَهْلِ الْكَمَالِ، اِمَامِ اَهْلِ الْعِرْفَانِ فِيْ حَضْرَةِ الْاِحْسَانِ.

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامًا تُعَرِّفُنَا بِهٖ اَسْرَارَ مَعَارِفِ دَآئِرَتِهِ الْكُلِّيَّةِ كَمَا تُعَرِّفُنَا فِيْ دَآئِرَتِنَا الْجُزْئِيَّةِ.

اَللّٰهُمَّ حَقِّقْنَا بِحَقَآئِقِ عُلُوْمِهٖ وَ بَيَانِهٖ، فِيْ حَضَرَاتِ عَيَانِهٖ وَ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ تَنَزُّلَاتِهٖ مَا نَفُوْذُ بِهٖ مِنْ لَّحَظَاتِهٖ فِيْ جَمِيْعِ حَضَرَاتِهٖ.

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ خُصُوْصِيَّتِهٖ خَصِّصْنَا بِخَوَاصِّ مَعَارِفِهِ الَّتِيْ وَرِثَهَا عَنْهُ اَهْلُ الْخُصُوْصِيَّةِ حَتّٰى صَارُوْا بِهَا فِيْ اَكْمَلِ خَلْعَةٍ بَيْنَ الْبَرِيَّةِ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُلُوْبَنَا مَعْمُوْرَةً بِمَعَارِفِهِ الْعِلْمِيَّةِ وَ اَرْوَاحَنَا مُنَوَّرَةً بِاَنْوَارِهِ السَّنِيَّةِ وَ عُقُوْلَنَا تَابِعَةً لِمَاْمُوْرَاتِهٖ وَ نُفُوْسَنَا مَحْجُوْرَةً بِمَنْهِيَّاتِهٖ وَ اَبْدَانَنَا مُنْقَادَةً لِّعَظِيْمِ ذٰلِكَ الْهُدٰى مَآ اَحْيَيْتَنَا اَبَدًا.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَيَاتَنَا عَلٰى سُنَّتِهٖ، وَ مَوْتَنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ اجْعَلْهُ الْمُجِيْبَ عَنَّا فِي الْبَرْزَخِ عِنْدَ السُّؤَالِ وَ الشَّفِيْعَ لَنَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النِّكَالِ وَ عَظِيْمِ الْاَهْوَالِ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا مُجِيْرًا مِّنْ عَذَابِكَ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا جَارًا فِيْ دَارِ ثَوَابِكَ مِنْ غَيْرِ سَابِقِ عَذَابٍ وَّ اِمْتِحَانٍ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِشُهُوْدِ طَلْعَتِهٖ فِي الدَّارَيْنِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَنِيْسًا فِي الْكَوْنَيْنِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا عِنْدَهٗ مِنْ اَهْلِ الْعِنَايَةِ فِي الْبِدَايَةِ وَ النِّهَايَةِ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهٖ وَ اٰلِهٖ وَ مَنْ وَّالَاهُ وَ اَحَبَّهٗ مِمَّنْ سَلَفَ مِنَ الْاُمَمِ وَ خَلَفِهِمْ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مِنْ هٰذَا الطَّرِيْقِ الْاَمَمِ، وَ السَّلَامُ مِنَ السَّلَامِ الْجَوَادِ، عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ مُعَادٌ، وَ الرَّحْمَةُ وَ الْبَرَكَةُ فِيْ كُلِّ سُكُوْنٍ وَّ حَرَكَةٍ، اٰمِيْنَ {وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰدَمَ وَ حَوَّآءَ وَ عَلٰى شِيْثٍ وَّ نُوْحٍ وَّ عَلٰى دَاوٗدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ عَلٰى يَعْقُوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ عَلَى الْخِضْرِ وَ اِلْيَاسَ وَ عَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ سِرَاجِ الْعَالَمِيْنَ وَ عَلَمِ الْمُهْتَدِيْنَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ سِرِّكَ الْمَكْنُوْنِ وَ غَيْبِكَ الْمَخْزُوْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ۔
- اَللّٰهُمَّ وَ صَلِّ عَلٰى جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عِزْرَائِيْلَ وَ عَلٰى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ الْكَرُوْبِيِّيْنَ وَ عَلٰى زُوَّارِ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلٰى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ {وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} سُبْحَانَكَ اَنْتَ الَّذِيْ خَصَّصْتَ اَهْلَ الْعِنَايَةِ وَ مَنَحْتَهُمْ خِلَعَ الْهِدَايَةِ، فَمَا نَالُوْا فَضْلَكَ اِلَّا بِفَضْلِكَ وَلَا وَجُوْا حَضْرَتَكَ اِلَّا بِنَظْرَتِكَ وَ مَآ اَحَبُّوْكَ حَتّٰى اَحْبَبْتَهُمْ وَلَآ اَقْبَلُوْا عَلَيْكَ حَتّٰى نَادَيْتَهُمْ، فَنَسْئَلُكَ بِهٰذَا الْوِدَادِ السَّابِقِ اَنْ تَقْسِمَ لَنَا مِنْهُ قِسْمَةً ۔ بَيْنَ هٰذِهِ الْخَلَائِقِ بِسِرِّ الْاَسْمَآءِ الْحُسْنٰى بِالْعَظِيْمِ مِنْهَا، بِسِرِّ الْمَحَامِدِ مِنْ عَبْدِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۔ الْمَحْمُوْدِ، الْحَامِدِ بِلِوَآءِ الْحَمْدِ، بِالْكِبْرِيَآءِ بِالْمَجْدِ، بِسُجُوْدِ حَبِيْبِكَ تَحْتَ سَاقِ الْعَرْشِ، بِاِكْرَامِ قَوْلِكَ لَهٗ اِرْفَعْ رَأْسَكَ، بِعِنَايَةِ قَوْلِكَ سَلْ تُعْطَ، نَسْئَلُكَ الْاِجَابَةَ وَ الْفَوْزَ بِالنَّصْرِ وَ الْعَوْنِ وَ الْعَطَآءِ اللَّآئِقِ بِكَ لَا بِنَا مِنْ حَيْثُ كُنْهُ سِعَةِ جُوْدِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مُلْكِكَ مِمَّا لَا يَحْصُلُ بِسُؤَالٍ وَّلَا يَخْطُرُ عَلٰى بَالٍ، فِي الْحَالِ وَ الْمَآلِ عَطَآءً مُّتَّصِلًا ۔ بِالْمَدَدِ مَا دَامَ الْاَبَدُ۔

وَ نَسْئَلُكَ سُبْحَانَكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى عَيْنِ الْوُجُوْدِ النُّوْرِ الْمَشْهُوْدِ صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ وَ اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ، وَسِيْلَةِ اٰدَمَ اَبِي الْبَشَرِ وَ الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ، مُمِدِّ الْاَرْوَاحِ وَ مُنْعِشِ الْاَشْبَاحِ، دَالِّ الْخَلْقِ عَلَيْكَ وَ مُوَجِّهِهِمْ اِلَيْكَ بَهْجَةِ الطُّرُوْسِ، وَ مُهَذِّبِ النُّفُوْسِ، مُفِيْضِ الْمَعَارِفِ عَلَى الْقُلُوْبِ مِنْ حَضَرَاتِ الْمَلَكُوْتِ وَ الْغُيُوْبِ، قَلَمِ التَّجَلِّي الْاَوَّلِ، لَوْحِ التَّجَلِّي الثَّانِيْ، سِرِّ الْاَحَدِيَّةِ، نُوْرِ الْوَاحِدِيَّةِ، حَضْرَةِ الذَّاتِ،

مُشْرِقِ الصِّفَاتِ، فَاتِحِ اَسْرَارِ الْاَزَلِ، نِظَامِ الْاَبَدِ صَلَاةً مُّقَدَّسَةً مُّطَهَّرَةً كَامِلَةً مُّنَوَّرَةً تَخُصُّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِمَا هُوَ فِيْ عِزَّةِ وَصْفِهِ الْفَرِيْدِ، الَّذِيْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيْهِ اَحَدٌ مِّنَ الْعَبِيْدِ مَا دَامَ شَرَفُهُ السَّامِيْ يَعْلُوْ عَلَى الرُّسُلِ وَ الْاَنْبِيَآءِ وَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَ عَلٰى كُلِّ الْاَوْلِيَآءِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ سَلَامًا يُّبَلِّغُهُ هُنَالِكَ وَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْآلِ، بَحْرِهِ الْعَشَرَةِ الْكِرَامِ وَ عَنْ بَقِيَّةِ اَصْحَابِهِ الْعِظَامِ وَ نَسْئَلُكَ سُبْحَانَكَ الْمَزِيْدَ مِنْ فَضْلِكَ آمِيْنَ {وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَامِعِ الْعُلُوْمِ وَ مُفِيْدِهَا وَ اِمَامِ الرُّسُلِ وَ خَطِيْبِهَا، رُوْحِ اُنْسِ كُلِّ حَضْرَةٍ وَّ ارْتِيَاحِ كُلِّ بَهْجَةٍ وَّ نَظْرَةٍ، مِفْتَاحِ الْغَيْبِ الْاَزَلِيِّ وَ خِتَامِ السِّرِّ الْكُلِّيِّ، حَآئِزِ الصِّفَاتِ الْقُدْسِيَّةِ وَ جَلِيْسِ الْحَضْرَةِ الْعِنْدِيَّةِ، نِهَايَةِ الْحَقِيْقَةِ وَ دَلَالَةِ الطَّرِيْقَةِ، سَيِّدِ التَّكْوِيْنِ فِيْ سَابِقِ التَّعْيِيْنِ، تَاجِ مَفْرَقِ الْوُجُوْدِ وَ وَاسِطَةِ دُرِّ الْعُقُوْدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَلَالِ، وَ اَحْمَدِ الْخِلَالِ، رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ وَ وَلِيِّ النِّعْمَةِ۔
- صَلِّ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ يَا رَبَّنَا صَلَاةً اِتِّصَالِكَ بِمَرَاتِبِ كَمَالِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ عِنَايَتِكَ بِمَدَدِ كَرَامَتِكَ {وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔
- صَلِّ اَللّٰهُمَّ فِي الْاَدْوَارِ بِكَمَالِ الْاَنْوَارِ عَلٰى خَيْرِ الْاَبْرَارِ وَ اَبَرِّ الْاَخْيَارِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمِعْرَاجِ، صَاحِبِ اللِّوَآءِ وَ التَّاجِ يَا رَبِّ بَلِّغْ اِلَيْهِ دَآئِمًا سَلَامِيْ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى الْمُصَفَّى التُّقَى التُّقٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اَلسَّيِّدِ السَّنَدِ الْمُمِدِّ الْمَدَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، صَلَّى اللّٰهُ بِالْمَلَاِ فِي الْاَرْضِ وَ فِي الْعُلٰى عَلٰى رُوْحِ ذِي الْوُجُوْدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَحْمُوْدِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ فِي الْمَسَآءِ وَ فِي الصَّبَاحِ عَلٰى ذَاكَ الرُّوْحِ بِالْاَفْرَاحِ فِي الْاَرْوَاحِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ فِي الْآبَادِ عَلٰى سَيِّدِ الْاَسْيَادِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ بِالْاِكْمَالِ عَلَى الْمُفْرَدِ فِي الْكَمَالِ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ عَلٰى غَايَةِ النِّعْمَةِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ بِالْمَزِيْدِ عَلَى الْفَرْدِ الْفَرِيْدِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ بِالْاِكْرَامِ عَلٰى فَخْرِ الْكِرَامِ، صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلِّمْ بِالتَّعْظِيْمِ عَلَى الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ۔
- صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا اِلٰهِيْ، يَا بَدِيْعُ عَلٰى حَبِيْبِكَ الْجَلِيْلِ الرَّفِيْعِ۔
- صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا اِلٰهِيْ يَا صَبُوْرُ عَلٰى نَبِيِّكَ الْحَامِدِ الشَّكُوْرِ۔
- صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا اِلٰهِيْ عَلَى الْمُعَظَّمِ الْبَاهِيْ۔
- صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا حَمِيْدُ عَلٰى سَيِّدِ الْعَبِيْدِ۔
- صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا سَلَامُ عَلَى الْمُعَلِّمِ لِلْاِسْلَامِ۔
- صَلِّ وَ سَلِّمْ يَا رَبِّيْ عَلَى الْمُشَفَّعِ فِيْ ذَنْبِيْ۔
- صَلِّ وَ سَلِّمْ فِي الْعَلَا الرَّحَمُوْتِ عَلَى الْوَجِيْهِ فِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ، صَلَّى اللّٰهُ بِالتَّعْظِيْمِ فِي الْاَطْرَاسِ عَلٰى مُعَطِّرِ الْوُجُوْدِ بِالْاَنْفَاسِ۔

- صَلِّ عَلٰى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ فِي الْحَضَرَاتِ الْقُدْسِيَّةِ وَبَلِّغْ اِلَيْهِ سَلَامَنَا عَلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ بِالْاِكْرَامِ۔
- صَلِّ عَلَيْهِ مَعَ السَّلَامِ بِالشَّفِيْعِ فِي الْبَرَايَا لَا تُؤَاخِذْنَا بِالْخَطَايَا۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَقْبُوْلِ الشَّفَاعَةِ مَنْ جَعَلْتَ طَاعَتَهٗ لَكَ طَاعَةً وَّ قَدَّمْتَهٗ فِي الْقِدَمِ فَكَانَ لَهُ الْقِدَمُ عَلٰى كُلِّ ذِيْ قِدَمٍ مَّنْ عَيَّنْتَهٗ فِي التَّعَيُّنِ الْاَوَّلِ بِالْمَقَامِ الْاَكْمَلِ وَ خَصَّصْتَهٗ بِكَمَالِ النِّظَامِ وَ جَعَلْتَهٗ لَبِنَةَ التَّمَامِ، اِمَامِ جَامِعِ الْاِنْسِ وَ خَطِيْبِ حَضْرَةِ الْقُدْسِ، مَظْهَرِ حَقِيْقَةِ الْوُجُوْدِ الْمُنَزَّهِ وَ مَظْهَرِ اِمْكَانِ الْجَمَالِ الْاَنْزَهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الْجَلَالِ وَ اَحْمَدِ الْجَلَالِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ الْخُصُوْصِيَّةِ فِيْ حَضْرَةِ الدَّيْمُوْمِيَّةِ وَ اَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَيْكَ يَا اِلٰهِيْ فِي الْبُعْدِ عَنْ كُلِّ لَاهِيٍّ وَّ اَسْئَلُكَ الْقُرْبَ اِلَيْكَ وَ الْاِعْتِمَادَ عَلَيْكَ اِلٰهِيْ بَسَطْتُّ يَدَ الْفَاقَةِ وَ الْاِفْتِقَارِ وَ جِئْتُ بِحَالَةِ الذِّلِّ وَ الْاِنْكِسَارِ وَ قَدْ وَقَفْتُ بِالْبَابِ وَ تَوَسَّلْتُ بِالْاَحْبَابِ فَاَجِبْ سُؤَالِيْ وَلَا تُخَيِّبْ آمَالِيْ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ الْوُجُوْدِ عَلٰى سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ، اَفْضَلِ مَنْ صَلّٰى وَ تَلَا، وَ عَبَدَ رَبَّهٗ فِي الْخَلْوَةِ وَ الْمَلَا، صَفْوَةِ اَهْلِ الْاِصْطِفَا، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الْمُصْطَفٰى، وَ سَلِّمْ اَبَدًا كَذٰلِكَ مِنْ كُلِّ وَارِثٍ وَّ مَوْرُوْثٍ وَ سَالِكٍ وَّ مِنْ جَمِيْعِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ، آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ فِي الْآزَالِ بِمَرَاتِبِ التَّكْمِيْلِ بَعْدَ الْكَمَالِ، حَائِزِ الْفَضِيْلَةِ وَ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ، فَاتِحِ خَزَائِنِ الْاَسْرَارِ وَ خَاتِمِ دَوْرَاتِ الْاَنْوَارِ، رَوْنَقِ كُلِّ اِشَارَةٍ لَّطِيْفَةٍ، تُشِيْرُ اِلٰى كَمَالِ الْمَعَانِي الْمُنِيْفَةِ بِالْاِشَارَاتِ الْعِرْفَانِيَّةِ فِي الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ، ذِي الْجَنَابِ الرَّفِيْعِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّفِيْعِ۔
- صَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ اُنْسِ جَمَالِهٖ فِيْ مَقَامَاتِ كَمَالِهٖ، وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْآلِ وَ الْاَصْحَابِ سَلَامَ الْمُحِبِّ عَلَى الْاَحْبَابِ {وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَضْرَةِ الْاَسْرَارِ وَ مَنْبَعِ الْاَنْوَارِ، مُطَهِّرِ النُّفُوْسِ مِنَ الرَّذَائِلِ وَ اَطْهَرِ مَوْلُوْدٍ فِيْ سَائِرِ الْقَبَائِلِ، عَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ اِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ، مُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَ اَعْلَمِ الْخَلْقِ وَ نَاصِحِ الْاُمَّةِ، اَكْرَمِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ حَبِيْبِ الْحَقِّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ السَّادَاتِ وَ قُطْبِ دَوَآئِرِ السَّعَادَاتِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَلٰى قَدْرِ مَقَامِهٖ وَ اِجْلَالِهٖ وَ اِعْظَامِهٖ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔

136 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَ تَبْقٰى بِبَقَآئِكَ وَ تَخَلَّدُ بِخُلُوْدِكَ وَلَا غَايَةَ لَهَا دُوْنَ مَرْضَاتِكَ وَلَا جَزَآءَ لِقَآئِلِهَا وَ مُصَلِّيْهَا غَيْرَ جَنَّتِكَ وَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ۔

137 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هٰذِهِ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، الْهَادِيَّةِ الْمَهْدِيَّةِ الرُّسُلِيَّةِ، بِجَمِيْعِ صَلَوَاتِكَ التَّآمَّاتِ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ جَمِيْعَ الْعُلُوْمِ بِالْمَعْلُوْمَاتِ، بَلْ صَلَاةً لَّا نِهَايَةَ لَهَا فِيْ آمَادِهَا وَلَا اِنْقِطَاعَ لِاِمْدَادِهَا، وَ سَلِّمْ

كَذٰلِكَ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ يَا سَيِّدَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْتَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْوُجُوْدِ وَ اَنْتَ سَيِّدُ كُلِّ وَالِدٍ وَّ مَوْلُوْدٍ وَّ اَنْتَ الْجَوْهَرَةُ الْيَتِيْمَةُ الَّتِيْ دَارَتْ عَلَيْهَا اَصْدَافُ الْمُكَوِّنَاتِ وَ اَنْتَ النُّوْرُ الَّذِيْ مَلَاَ اِشْرَاقُهُ الْاَرْضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ، بَرَكَاتُكَ لَا تُحْصٰى، وَ مُعْجِزَاتُكَ لَا يَحُدُّهَا الْعَدَدُ فَتَسْتَقْصٰى، اَلْاَحْجَارُ وَ الْاَشْجَارُ سَلَّمَتْ عَلَيْكَ وَ الْحَيَوَانَاتُ الصَّامِتَةُ نَطَقَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ الْمَآءُ تَفْجُرُ وَ جَرٰى مِنْ اِصْبُعَيْكَ وَ الْجِذْعُ عِنْدَ فِرَاقِكَ حَنَّ اِلَيْكَ وَ الْبِئْرُ الْمَالِحَةُ حَلَّتْ بِتَفْلَةٍ مِّنْ ، بَيْنِ شَفَتَيْكَ، بِبِعْثَتِكَ الْمُبَارَكَةِ اٰمِنَّا الْمَسْخَ وَ الْخَسْفَ وَ الْعَذَابَ وَ بِرَحْمَتِكَ الشَّامِلَةِ شَمِلَتْنَا الْاَلْطَافَ وَ نَرْجُوْ رَفْعَ الْحِجَابِ يَا طَهُوْرُ يَا مُطَهَّرُ يَا طَاهِرُ يَا اَوَّلُ يَا آخِرُ يَا بَاطِنُ يَا ظَاهِرُ شَرِيْعَتُكَ مُقَدَّسَةٌ طَاهِرَةٌ وَّ مُعْجِزَاتُكَ بَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ، اَنْتَ الْاَوَّلُ فِي النِّظَامِ وَ الْاٰخِرُ فِي الْخِتَامِ وَ الْبَاطِنُ بِالْاَسْرَارِ وَ الظَّاهِرُ بِالْاَنْوَارِ، اَنْتَ جَامِعُ الْفَضْلِ وَ خَطِيْبُ الْوَصْلِ وَ الْمَخْصُوْصِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ الْعَلِيِّ الْاَسْمٰى وَ بِلِوَآءِ الْحَمْدِ الْمَعْقُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ الْجُوْدِ فَيَا سَيِّدًا سَادَ الْاَسْيَادُ وَ يَا سَنَدًا اِسْتَنَدَ اِلَيْهِ الْعِبَادُ، عَبِيْدٌ، مَوْلَوِيَّتُكَ الْعُصَاةُ، يَتَوَسَّلُوْنَ بِكَ فِيْ غُفْرَانِ السَّيِّئَاتِ وَ سَتْرِ الْعَوْرَاتِ وَ قَضَآءِ الْحَاجَاتِ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا وَ عِنْدَ اِنْقِضَآءِ الْاَجَلِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ يَا رَبَّنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ تَقَبَّلْ مِنَّا الدَّعْوَاتِ وَ ارْفَعْ لَنَا الدَّرَجَاتِ وَ اقْضِ عَنَّا التَّبِعَاتِ وَ اَسْكِنَّا اَعْلَى الْجَنَّاتِ وَ اَبِحْنَا النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ حَضَرَاتِ الْمُشَاهَدَاتِ وَ اجْعَلْنَا مَعَهُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ اَهْلِ الْمُعْجِزَاتِ وَ اَرْبَابِ الْكَرَامَاتِ وَ هَبْ لَنَا الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ مَعَ اللُّطْفِ فِي الْقَضَآءِ اٰمِيْنَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا اَكْرَمَكَ عَلَى اللهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا خَابَ مِنْ تَوَسُّلٍ ، بِكَ اِلَى اللهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْاَمْلَاكُ تَشَفَّعَتْ بِكَ عِنْدَ اللهِ۔
- اَلصَّلَاةُس وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْاَنْبِيَآءُ وَ الرُّسُلُ مُمِدُّوْدُوْنَ مِنْ مَّدَدِكَ الَّذِيْ خُصِّصْتَ بِهٖ مِنَ اللهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْاَوْلِيَآءُ اَنْتَ الَّذِيْ وَ الَيْتَهُمْ فِيْ عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَتّٰى تَوَلَّاهُمُ اللهُ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ سَلَكَ فِيْ مَحَجَّتِكَ وَ قَامَ بِحُجَّتِكَ اَيَّدَهُ اللهُ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْمَخْذُوْلُ مَنْ اَعْرَضَ عَنِ الْاِقْتِدَآءِ بِكَ اَيْ وَ اللهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَطَاعَكَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَى اللهَ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَتٰى لِبَابِكَ مُتَوَسِّلًا قَبَّلَهُ اللهُ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ حَطَّ رَحْلَ ذُنُوْبِهٖ فِيْ عَتَبَاتِكَ غَفَرَ لَهُ اللهُ۔

- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ دَخَلَ حَرَمَكَ خَائِفًا آمَنَهُ اللهُ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لَّاذَ بِجَنَابِكَ وَعَلِقَ بِأَذْيَالِ جَاهِكَ أَعَزَّهُ اللهُ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَمَّ لَكَ وَاَمَلَّكَ لَمْ يَخِبْ مِنْ فَضْلِكَ لَا وَاللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمَّلْنَا لِشَفَاعَتِكَ وَجَوَارِكَ عِنْدَ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَوَسَّلْنَا بِكَ فِي الْقُبُوْلِ عَسٰى وَلَعَلَّ نَكُوْنُ مِمَّنْ تَوَلَّاهُ اللهُ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكَ نَرْجُوْ بُلُوْغَ الْاَمَلِ وَلَا نَخَافُ الْعَطَشَ حَاشَا وَاللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُحِبُّوْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاقِفُوْنَ بِبَابِكَ يَا أَكْرَمَ خَلْقِ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا وَسِيْلَتَنَا اِلَى اللهِ قَصَدْنَاكَ وَقَدْ فَارَقْنَا سِوَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْعَرَبُ يَحْمُوْنَ النَّزِيْلَ وَيُجِيْرُوْنَ الدَّخِيْلَ وَاَنْتَ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ نَزَلْنَا بِحَيِّكَ وَاسْتَجَرْنَا بِجَانِبِكَ وَاَقْسَمْنَا بِحَيَاتِكَ عَلَى اللهِ اَنْتَ الْغِيَاثُ وَاَنْتَ الْمَلَاذُ فَاَغِثْنَا بِجَاهِكَ الْوَجِيْهِ الَّذِيْ لَا يَرُدُّهُ اللهُ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَا دَامَتْ دَيْمُوْمِيَّةُ اللهِ صَلَاةً وَّسَلَامًا تَرْضَاهُمَا وَتَرْضٰى بِهِمَا عَنَّا يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلَانَا يَا آاللهُ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى سَائِرِ الْمَلَآئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ وَارْضَ عَنْ ضَجِيْعَيْ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَعَنْ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ {وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} آمِيْن.

اَلْوِرْدُ الْخَامِسُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{اِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ. 138

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى

اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّتِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَزْکٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَکَاتٍ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ وَ اٰیَاتِہٖ وَ کَلِمَاتِہٖ وَ حُرُوْفِہٖ وَ نُقَطِہٖ وَ تَفْصِیْلِہٖ وَ جُمَلِہٖ وَ جُزْئِیَّاتِہٖ وَ کُلِّیَاتِہٖ وَ شَکْلِہٖ وَ ھَمْزِہٖ وَ حَرَکَاتِہٖ وَ سَکَنَاتِہٖ وَ مُعْجَمِہٖ وَ مُھْمَلِہٖ وَ مُفَصَّلِہٖ وَ مُجْمَلِہٖ وَ مَنْطُوْقِہٖ وَ مَفْھُوْمِہٖ وَ مُحْکَمِہٖ وَ مُتَشَابِہِہٖ وَ خَاصِّہٖ وَ عَامِّہٖ وَ نَاسِخِہٖ وَ مَنْسُوْخِہٖ وَ اِشَارَاتِہٖ وَ اَمْرِہٖ وَ نَھْیِہٖ وَ عِبَرِہٖ وَ وَعْدِہٖ وَ وَعِیْدِہٖ وَ قِصَصِہٖ وَ اَمْثَالِہٖ وَ عَدَدَ مَآ اَحْصٰی وَ مِلْئَ مَآ اَحْصٰی وَ عَدَدَ الْاَحَادِیْثِ الْوَارِدَۃِ وَ مَنْ رَّوَاھَا وَ الْاٰثَارِ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ وَ کَرِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّاتِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَزْکٰی سَلَامٍ وَ اَنْمٰی بَرَکَاتٍ عَدَدَ الدَّقَآئِقِ وَ الدَّرَجِ وَ السَّاعَاتِ وَ اللَّیَالِیْ وَ الْاَیَّامِ وَ الْجُمَعِ وَ الشُّھُوْرِ وَ السِّنِیْنَ وَ الْاَزْمَانِ وَ الدُّھُوْرِ وَ الْاَعْصَارِ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّاتِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَزْکٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَکَاتٍ عَدَدَ الْحَرَکَاتِ وَ السَّکَنَاتِ وَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّیِّئَاتِ وَ تَخَلُّلِ الْمَنْسُوْجَاتِ وَ مَضْغِ الْاَفْوَاہِ وَ رَمْشِ الْاَبْصَارِ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ وَ کَرِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِیْبِنَا وَ قُرَّۃِ اَعْیُنِنَا سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ رَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّاتِہٖ وَ اَھْلِ بَیْتِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَزْکٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَکَاتٍ عَدَدَ الْاَنْفَاسِ وَ الْخَوَاطِرِ وَ الْحُرُوْفِ وَ النُّقُوْطِ وَ الْکَلِمَاتِ وَ حَرَکَاتِھَا وَ عَدَدَ الْھَوَامِشِ وَ النِّیَّاتِ وَ تَعَاقُبِ الْوَسَاوِسِ وَ الْاَوْھَامِ وَ الشُّکُوْکِ وَ الظُّنُوْنِ وَ الْخَیَالِ وَ تَرَادُفِ الْاَفْکَارِ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ وَ کَرِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ حَبِیْبِنَا وَ قُرَّۃِ اَعْیُنِنَا سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّاتِہٖ وَ اَھْلِ بَیْتِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَزْکٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَکَاتٍ عَدَدَ الْاَشْبَاحِ وَ الْاَرْوَاحِ وَ الْاَجْسَامِ وَ الْجَوَاھِرِ وَ الْعُقُوْلِ وَ الْعُلُوْمِ وَ عَدَدَ مَا یَقَعُ فِیْ رُؤْیَا الْمَنَامَاتِ وَ الْخَیَالِ مِنْ اَوَّلِ الْخَلْقِ اِلٰی اٰخِرِھِمْ وَ تَعَاقُبِ الدَّلَآئِلِ وَ الْاَخْبَارِ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّاتِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَزْکٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَکَاتٍ عَدَدَ الْمَلَآئِکَۃِ وَ الْحُوْرِ الْعِیْنِ وَ الْوِلْدَانِ وَ الْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ وَ خَلْقِ الْبَحْرِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْوُحُوْشِ وَ الْاَطْیَارِ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ ذُرِّیَّاتِہٖ اَفْضَلَ صَلَاۃٍ وَّ اَزْکٰی سَلَامٍ وَّ اَنْمٰی بَرَکَاتٍ، عَدَدَ الرُّؤُوْسِ وَ

الْوُجُوْهِ وَ الْاٰذَانِ وَ الْعُيُوْنِ وَ الْاُنُوْفِ وَ الشِّفَاهِ وَ الْاَفْوَاهِ وَ الصُّدُوْرِ وَ الْاَيْدِيْ وَ الْاَرْجُلِ وَ الْاَصَابِعِ وَ الْاَظْفَارِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْقُلُوْبِ وَ الْاَضْلَاعِ وَ الْعِظَامِ وَ الْاَظْلَافِ وَ الْاَصْوَافِ وَ الْاَرْيَاشِ وَ الشُّعُوْرِ وَ الْاَوْبَارِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْجُسُوْمِ وَ الْاَعْضَاءِ وَ الْبُطُوْنِ وَ مَا حَوَتْ وَ عَدَدَ الْعُرُوْقِ وَ الْمَسَامِّ وَ الْاَلْسُنِ وَ الْاَسْنَانِ وَ الْاَسْمَاعِ وَ الْاَبْصَارِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الْحَبِّ وَ النَّوٰى وَ الْبُذُوْرِ وَ الزُّهُوْرِ وَ الْفَوَاكِهِ وَ الثِّمَارِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الْحَصٰى وَ التُّرَابِ وَ الزُّلَفِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْاَحْجَارِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَ دَوَرَانِ الْفَلَكِ وَ مَمَرِّ السَّحَابِ وَ هُبُوْبِ الرِّيَاحِ وَ لَمْعِ الْبَرْقِ وَ اَصْوَاتِ الرَّعْدِ وَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَكَايِيْلِ الْمِيَاهِ وَ مَثَاقِيْلِ الْجِبَالِ وَ الْاَحْجَارِ وَ عَدَدَ اَمْوَاجِ الْبِحَارِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ مَا اَنْتَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ مَا خَلَقْتَ وَ مَا اَنْتَ خَالِقٌ وَ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ وَّ عَدَدَ مَا جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُكَ وَ اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ مَا لَا تُدْرِكُهُ الْاَفْهَامُ وَ الْاَفْكَارُ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا

صَلّٰى عَلَيْهِ الْمُصَلُّوْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَاَهْلِ الْاَرَضِيْنَ مِنْ اَوَّلِ الدَّهْرِ اِلٰى آخِرِهٖ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَّ اَوَانٍ وَّوَقْتٍ وَّشَهْرٍ وَّ جُمُعَةٍ وَّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَّسَاعَةٍ وَّلَحْظَةٍ وَّ نَفَسٍ وَّطَرْفَةٍ وَّ نَسَمَةٍ وَّ عَدَدَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ فِي الْمَسَآءِ وَالصَّبَاحِ وَالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ زِنَةَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَزِنَةَ الْجِبَالِ وَالتِّلَالِ وَالرِّمَالِ وَالْقِلَالِ وَالْاَجْسَادِ وَالْبِحَارِ وَالْاَنْهَارِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ مِّلْءَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ الْخَلَا وَالْمَلَا وَالْعَالَمِ وَمِلْءَ الْاٰفَاقِ وَالْاَقْطَارِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ، عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ مِلْءَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ زِنَةَ مَا فِيْ عِلْمِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ مُنْتَهٰى رَحْمَتِكَ وَ مَبْلَغِ رِضَاكَ حَتّٰى تَرْضٰى وَ اِذَا رَضِيْتَ، وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ خَلْقُكَ وَ عَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْكَ وَ عَدَدَ مَا سَبَّحُوْكَ وَ حَمَّدُوْكَ وَ كَبَّرُوْكَ وَ وَحَّدُوْكَ وَ هَلَّلُوْكَ وَ اسْتَغْفَرُوْكَ، وَ عَدَدَ مَا هُمْ مُسَبِّحُوْكَ وَ حَامِدُوْكَ وَ مُكَبِّرُوْكَ وَمُوَحِّدُوْكَ وَمُهَلِّلُوْكَ وَمُسْتَغْفِرُوْكَ عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ وَالْاَعْصَارِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الطُّيُوْرِ وَالْبَهَآئِمِ وَالْوُحُوْشِ وَالْاَنْعَامِ وَالْاَبْقَارِ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ حَآءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ بَحْرِ اَنْوَارِكَ، وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ، وَ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ، وَ صَفِيِّكَ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ، وَ الرَّحْمَةُ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ، الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنْتَقَى الْمُرْتَضَى الْمُخْتَارِ، عَيْنِ الْعِنَايَةِ وَ زَيْنِ الْقِيَامَةِ وَ اِمَامِ الْحَضْرَةِ وَ اَمِيْنِ الْمَمْلَكَةِ وَ كَنْزِ الْحَقِيْقَةِ وَ شَمْسِ الشَّرِيْعَةِ وَ كَاشِفِ الْغُمَّةِ وَ جَالِي الظُّلْمَةِ وَ نَاصِرِ الْمِلَّةِ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ، عَدَدَ هٰذَا كُلِّهٖ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً مَّضْرُوْبًا فِيْ اَمْثَالِهٖ وَ اَمْثَالِ اَمْثَالِهٖ لَا يَنْقُصُ عَدَدُهَا وَلَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا،

حَتّٰی تَسْتَغْرِقَ الْعَدَّ، وَ تُحِيْطَ بِالْحَدِّ، اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ، وَ دَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ، مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُوْنَ الْعَرْشُ وَ الْكُرْسِيُّ وَ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ، وَمَا دَامَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَزْكٰى سَلَامٍ وَّ اَنْمٰى بَرَكَاتٍ، وَ اجْزِهٖ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ اَنْزِلْهُ الْمَنْزَلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ صَلِّ يَا رَبِّ وَ سَلِّمْ كَذٰلِكَ كُلِّهٖ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهِ الْاَكْرَمِيْنَ، مِنَ الْاَنْبِيَاۗءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَّ عَلٰى اٰلِ كُلٍّ وَّ صَحْبِ كُلٍّ وَّ عَلَى الْقَرَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ الْبَرَرَةِ الْاَخْيَارِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ تَسْبِيْحًا يَّلِيْقُ بِمَجْدِهٖ وَ جَلَالِهٖ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا كَافِيًا عَلٰى جَمِيْعِ نِعَمِهٖ وَ اَفْضَالِهٖ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ الْمُنْفَرِدُ فِيْ عُلُوِّهٖ وَ كَمَالِهٖ، وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ الْمُتَعَاظِمُ فِيْ كِبْرِيَآئِهٖ وَ جَلَالِهٖ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ عِنْدَ كُلِّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ وَّ كَرْبٍ وَّ ضِيْقٍ، وَّ عِنْدَ كُلِّ حَادِثٍ يَّحْدُثُ لِلْعَبْدِ فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِهٖ. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ وَ ضِيَاۗءِ النَّهَارِ وَ فِيْ اِقْبَالِ كُلٍّ مِّنْهُمَا وَ اِدْبَارِهٖ عَدَدَ ذٰلِكَ وَ مِلْءَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ اَوْ بَزَغَ بَدْرٌ اَوْ هَبَّ رِيْحٌ اَوْ سَحَّ غَمَامٌ اَوْ سَجَعَ طَيْرٌ اَوْ اَقْبَلَ لَيْلٌ اَوْ اَشْرَقَ نَهَارٌ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَبْرَارِ، وَ زَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَخْيَارِ وَ اَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ اَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

139 {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰۗئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۗاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهٗ وَ تَحِيَّاتُهٗ وَ بَرَكَاتُهٗ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ، وَ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ، عَدَدَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ زِنَةَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَ زِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَ مِلْءَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَ مِلْءَ سَمٰوَاتِهٖ وَ مِلْءَ اَرْضِهٖ وَ اَمْثَالَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ، وَ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ رِضَا نَفْسِهٖ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَ مُنْتَهٰى رَحْمَتِهٖ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ وَ مَبْلَغَ رِضَاهُ حَتّٰى يَرْضٰى وَ اِذَا رَضِيَ، وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ فِيْمَا مَضٰى، وَ عَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْنَ فِيْمَا بَقِيَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ وَّ شَهْرٍ وَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ وَّ سَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَ شَمٍّ وَّ نَفَسٍ وَّ لَمْحَةٍ وَّ طَرْفَةٍ مِّنَ الْاَبَدِ اِلَى الْاَبَدِ اَبَدِ الدُّنْيَا وَ اَبَدِ الْاٰخِرَةِ وَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَا يَنْقَطِعُ اَوَّلُهٗ وَلَا يَنْفُذُ اٰخِرُهٗ۔

140 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَحْيِ قَلْبِيْ وَ اَمِتْ نَفْسِيْ حَتّٰى اَحْيَا بِكَ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

141 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ وَالْبَرَكَةِ الْكَامِلَةِ، جَامِعِ الْحَقَآئِقِ وَاَفْضَلِ الْخَلَآئِقِ، حَضْرَةِ حَظِيْرَةِ حَظَآئِرِ قُدْسِكَ الْجَامِعِ، وَنُوْرِ اَنْوَارِكَ اللَّامِعِ، وَعَبْدِ عُبُوْدِيَّةِ عُبُوْدَةِ مَوْضُوْعِكَ الْمُتَوَاضِعِ، الَّذِيْ اِخْتَرْتَهٗ قَبْلَ سَوَابِقِ السَّوَابِقِ، وَاَلْحَقْتَهٗ بَعْدَ لَوَاحِقِ اللَّوَاحِقِ، وَاَبْقَيْتَهٗ بِكَ وَمَحَقْتَ عَنْهُ آثَارَ الْبَقِيَّةِ، وَنَزَعْتَ مِنْ صَدْرِهٖ غِلَّ الْغُلُوْلِ النَّفْسِيَّةِ وَبَشَّرْتَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ رُوْحِ الْجَبَرُوْتِ رُعُوْنَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَرَفَعْتَهٗ اِذْ رَفَعْتَ عَنْهُ بِتَخْلِيْقِ اَخْلَاقِهٖ حِجَابَ الْاَخْلَاقِ الْخِلْقِيَّةِ، وَجَعَلْتَهٗ مَوْضُوْعًا لِّمَحْمُوْلِكَ، وَلَوْحًا حَافِظًا لِّكَلِمَاتِ مَقُوْلِكَ وَكُرْسِيًّا وَّاسِعًا لِّمُتَفَرِّقَاتِ مَجْمُوْعِكَ، وَصَرَفْتَ قُوَّةَ قُدْرَتِهٖ فِيْ اَمْلَاكِ اَفْلَاكِ الدَّآئِرَةِ، وَاَطْلَعْتَ فِيْ مَطَالِعِ آفَاقِهٖ مَصَابِيْحَ كَوَاكِبِ اَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ، وَبَسَطْتَ بِسَاطَ بَسْطِتِهٖ قَرَارًا لِّقُرَّةِ الْاَعْيُنِ النَّاظِرَةِ فَفِيْ جِلَآءِ مِرَآةِ رَأْيِهِ الْجَلِيْلِ اِنْجَلٰى تَجَلِّيْ جَمَالِهٖ وَجَلَالِهٖ، وَعَلٰى اَعْلٰى تَعَالٰى هَمَمَ اِهْتِمَامِهٖ مَا طَارَ تَصَوُّرُ صُوْرَةِ كَمَالِهٖ، الَّذِيْ جَاوَزَتْ بِهٖ حُزُوْنَ الْحُزْنِ فَبَاشَرَ الْبُشْرٰى لِاِصَابَةِ الصَّوَابِ، وَاَمَّنْتَ اِيْمَانَ تَمَنِّيْهِ مِنَ النَّكْصِ عَلَى الْاَعْقَابِ فِيْ عِقَابِ الْعِقَابِ، وَخَلَّصْتَ اِخْلَاصَهٗ مِنْ آثَارِ التَّلَفُّتِ لِمَثُوْبَاتِ الثَّوَابِ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ رَيْبٍ، وَّلَا عُرْوَةُ عَيْبٍ، لَّا يَأْنَسُ بِالْخَلْقِ، وَلَا يَسْتَوْحِشُ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا تَلْحَظُ لَوَاحِظُ مَلَاحَظَتِهٖ عَيْنَ جَمْعِ الْجَمْعِ فِيْ عَيْنِ الْفَرْقِ، الْحَبِيْبِ الْاَكْرَمِ، وَالْخَلِيْلِ الْاَعْظَمِ، وَالرُّوْحِ الْمُنَعَّمِ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلٰى اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ وَاَخَوَيْهِ مُوْسَى الْكَلِيْمِ وَعِيْسَى الْاَمِيْنِ وَعَلٰى دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْاَئِمَّةِ وَالْمُقْتَدِيْنَ وَالْاُمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ وَتَاهَتِ الْعُقُوْلُ فِيْ حَضْرَةِ الذَّاتِ وَتَرَوَّحَتِ النُّفُوْسُ النَّفْسِيَّةُ بِالْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ وَظَهَرَ شَاهِدُ الْحَقِّ لِلْاَرْوَاحِ وَتَبَدَّلَتِ الذَّاكِرِيَّةُ بِالذُّكُوْرَةِ وَقْتَ حُصُوْلِ الْفَلَاحِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

142 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ مَا مَضٰى وَتَحْفَظَنِيْ فِيْمَا بَقِيَ۔

143 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَمَعْدِنِ السَّعَادَاتِ، وَمُرَادِ الْاِرَادَاتِ، حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَزِيْزِ الْمُخْتَارِ النَّبِيِّ السُّلْطَانِ النُّوْرِ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

144 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ صَلَاةً اَدْخُلُ بِهَا رِيَاضَ الْمَطَالِبِ، وَاَجْنِيْ ثَمَرَ الْمَوَاهِبِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ آفَاقِ اَهْلِ مَوَدَّتِكَ، وَمَجْلٰى عَرَآئِسِ مُشَاهِدِ اَحَدِيَّتِكَ، وَمَشْهَدِ اَنْوَارِ اَسْرَارِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَمَظْهَرِ اِعْتِزَازِ عِزِّ عِزَّتِكَ۔

145 يَا مَوْلَايَ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُرْسِلَ بُعُوْثَ غُيُوْثِ سَلَامِكَ وَصَلَاتِكَ، وَنُعُوْتَ هُبُوْبِ نَسَمَاتِ نَفَحَاتِكَ، عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وَزِنَةَ مَخْلُوْقَاتِكَ، وَمِلْئَ اَرْضِكَ وَسَمٰوَاتِكَ، عَلٰى اَفْضَلِ

مَصۡنُوۡعَاتِكَ وَ اَجَلِّ مَظَاهِرِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ اَكۡمَلِ مُتَخَلِّقٍ ۢ بِحَقَآئِقِ اَسۡمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، وَ اَعۡظَمِ مُتَحَقِّقٍ ۢ بِدَقَآئِقِ مُشَاهَدَاتِ ذَاتِكَ، اَشۡرَفِ نَوۡعِ الۡاِنۡسَانِ، وَ اِنۡسَانِ عُيُوۡنِ الۡاَعۡيَانِ وَ الۡمُسۡتَخۡلِصِ مِنۡ خَالِصَةِ خُلَاصَةِ وُلۡدِ عَدۡنَانَ، الۡمَمۡنُوۡحِ بِبَدِيۡعِ الۡاٰيَاتِ وَ الۡمَخۡصُوۡصِ بِعُمُوۡمِ الرِّسَالَةِ وَ غَرَآئِبِ الۡمُعۡجِزَاتِ، السِّرِّ الۡجَامِعِ الۡفُرۡقَانِيِّ، وَ الۡمَخۡصُوۡصِ بِمَوَاهِبِ الۡقُرۡبِ مِنَ النَّوۡعِ الۡاِنۡسَانِيِّ، مَوۡرِدِ الۡحَقَآئِقِ الۡاَزَلِيَّةِ وَ مَصۡدَرِهَا، وَ جَامِعِ جَوَامِعِ مُفۡرَدَاتِهَا وَ مِنۡبَرِهَا، وَ خَطِيۡبِهَا وَ مُرۡشِدِهَآ اِذَا حَضَرَ فِيۡ حَظَآئِرِهَا، بَيۡتِ اللّٰهِ الۡمَعۡمُوۡرِ الَّذِيۡ اِتَّخَذَهٗ لِنَفۡسِهٖ وَ جَعَلَهٗ نَاظِمًا لِّحَقَآئِقِ قُدۡسِهٖ، مُدَّةِ مِدَادِ نُّقۡطَةِ الۡاَكۡوَانِ، وَ مَنۡبَعِ يَنَابِيۡعِ الۡحِكَمِ وَ الۡعِرۡفَانِ، مَنۡ خَتَمۡتَ بِهِ الۡاَنۡبِيَآءَ، وَ وَرَّثۡتَ عُلُوۡمَهٗ لِلۡاَصۡفِيَآءِ، سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الَّذِيۡ جَاهَدَ فِيۡكَ حَقَّ الۡجِهَادِ حَتّٰى اٰتَاهُ الۡيَقِيۡنُ، صَلَوَاتٍ وَّ تَسۡلِيۡمَاتٍ تَتَجَدَّدُ مَعَ التَّضۡعِيۡفِ اَبَدًا فِيۡ كُلِّ وَقۡتٍ وَّ حِيۡنٍ مَّعَ ذِكۡرِ الذَّاكِرِيۡنَ وَ سَهۡوِ الۡغَافِلِيۡنَ وَ لَمۡحِ النَّاظِرِيۡنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحۡبِهٖ وَ التَّابِعِيۡنَ وَ الۡعُلَمَآءِ الۡعَامِلِيۡنَ وَ الۡاَوۡلِيَآءِ وَ الصَّالِحِيۡنَ وَ الۡاَئِمَّةِ الۡمُرۡشِدِيۡنَ وَ مَنۡ قَامَتۡ بِهٖ صِفَّةُ الۡاِسۡلَامِ اِلٰى يَوۡمِ الدِّيۡنِ {وَ سَلَامٌ عَلَى الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۰ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ}۔

146 اَسۡئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنۡ تُصَلِّيَ عَلٰى مَنۡ خَصَّصَ وَ عَمَّمَ وَ اَوۡضَحَ وَ اَبۡهَمَ فَهُوَ الۡحَقُّ وَ الرُّوۡحُ وَ النُّوۡرُ وَ السِّرَاجُ مِنۡ حَيۡثُ الۡاِبۡدَاعُ وَ الۡاِخۡتِرَاعُ وَ الۡكَشۡفُ وَ الۡاِنۡتِقَالُ اَحۡمَدُ اَمۡرِكَ وَ مُحَمَّدُ خَلۡقِكَ وَ اَسۡعَدُ كَوۡنِكَ وَ الۡمَجۡمُوۡعُ مِنۡ ذٰلِكَ صَلَاةً ذَاتِيَةً خَاصَّةً ۢ بِهٖ عَآمَّةً فِيۡ جَمِيۡعِ الۡوَاحِهِ الۡحَرۡفِيَّةِ وَ الۡاِسۡمِيَّةِ وَ جَمِيۡعِ مَرَاتِبِهِ الۡعَقۡلِيَّةِ وَ الۡعَلۡمِيَّةِ صَلَاةً مُّتَّصِلَةً لَّا يُمۡكِنُ اِنۡفِصَالُهَا بِسَبَبٍ وَّلَا بِغَيۡرِ ذٰلِكَ بَلۡ يَسۡتَحِيۡلُ عَقۡلًا وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصۡحَابِهِ الۡاُمَّهَاتِ الۡجَوَامِعِ وَ الۡخَزَآئِنِ الۡمَوَانِعِ، وَ سَلِّمۡ تَسۡلِيۡمًا كَثِيۡرًا وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ ۔ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ الدَّآئِمَانِ فِي الۡوُجُوۡدِ عَلٰى فَاتِحِ حَضۡرَةِ الشُّهُوۡدِ وَّ مَانِحِ مَدَدِ الۡوَدُوۡدِ، نُوۡرِكَ الۡمَسۡعُوۡدِ وَ ضِيَآءِ اُفُقِكَ فِي الۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ، {ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّجۡمُوۡعٌ لَّهُ النَّاسُ ۰ وَ ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُوۡدٌ} سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الۡجُنُوۡدِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصۡحَابِهٖ اَهۡلِ الۡمَوَاجِيۡدِ وَ الۡجُوۡدِ، اِلٰهَ الۡحَقِّ وَ اجۡعَلۡنَا مِنۡهُمۡ {وَ سُبۡحَانَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ}۔

147 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمۡ عَلٰى نُوۡرِكَ الۡاَسۡنٰى وَ سِرِّكَ الۡاَبۡهٰى وَ حَبِيۡبِكَ الۡاَعۡلٰى وَ صَفِيِّكَ الۡاَزۡكٰى، وَاسِطَةِ اَهۡلِ الۡحُبِّ وَ قِبۡلَةِ اَهۡلِ الۡقُرۡبِ، رُوۡحِ الۡمَشَاهِدِ الۡمَلَكُوۡتِيَّةِ وَ لَوۡحِ الۡاَسۡرَارِ الۡقَيُّوۡمِيَّةِ، تَرۡجُمَانِ الۡاَزَلِ وَ الۡاَبَدِ، لِسَانِ الۡغَيۡبِ الَّذِيۡ لَا يُحِيۡطُ بِهٖ اَحَدٌ، صُوۡرَةِ الۡحَقِيۡقَةِ الۡفَرۡدَانِيَّةِ وَ حَقِيۡقَةِ الصُّوۡرَةِ الۡمُزَيَّنَةِ بِالۡاَنۡوَارِ الرَّحۡمَانِيَّةِ، اِنۡسَانِ اللّٰهِ الۡمُخۡتَصِّ بِالۡعِبَارَةِ عَنۡهُ، سِرِّ قَابِلِيَّةِ التَّهَيُّؤِ الۡاِمۡكَانِيِّ الۡمُتَلَقِّيَةِ مِنۡهُ، اَحۡمَدَ مَنۡ حَمِدَ وَ حُمِدَ عِنۡدَ رَبِّهٖ، سَيِّدِنَا وَ مَوۡلَانَا مُحَمَّدِ ۣ الۡبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ بِتَفۡعِيۡلِ التَّكۡمِيۡلِ الذَّاتِيِّ فِيۡ مَرَاتِبِ قُرۡبِهٖ، غَايَةِ طَرَفَيِ الدَّوۡرَةِ النَّبَوِيَّةِ الۡمُتَّصِلَةِ بِالۡاَوَّلِ نَظۡرًا وَّ اِمۡدَادًا ۢ بِدَايَةِ نُقۡطَةِ الۡاِنۡفِعَالِ الۡوُجُوۡدِيِّ اِرۡشَادًا وَّ اِسۡعَادًا، اَمِيۡنِ اللّٰهِ عَلٰى سِرِّ الۡاُلُوۡهِيَّةِ الۡمُطَلۡسَمِ وَ حَفِيۡظِهٖ عَلٰى غَيۡبِ اللَّاهُوۡتِيَّةِ الۡمُكَتَّمِ، مَنۡ لَّا تُدۡرِكُ الۡعُقُوۡلُ الۡكَامِلَةُ مِنۡهُ اِلَّا مِقۡدَارَ مَا تَقُوۡمُ بِهٖ حُجَّتُهُ الۡبَاهِرَةُ وَلَا تَعۡرِفُ النُّفُوۡسُ الۡعَرۡشِيَّةُ مِنۡ حَقِيۡقَتِهٖ

إِلَّا مَا يَتَعَرَّفُ لَهَا بِهٖ مِنْ لَّوَامِعِ اَنْوَارِهِ الزَّاهِرَةِ، مُنْتَهٰى هِمَمِ الْقُدْسِيِّيْنَ، وَ قَدْ بَدَوْا مِمَّا فَوْقَ عَالَمِ الطَّبَآئِعِ، مَرْمٰى اَبْصَارِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَ قَدْ طُمِحَتْ لِمُشَاهَدَةِ السِّرِّ الْجَامِعِ مَنْ لَّا تَجَلّٰى اَشِعَّةُ اللهِ لِقَلْبٍ إِلَّا مِنْ مِّرْآةِ سِرِّهٖ وَ هِيَ النُّوْرُ الْمُطْلَقُ وَلَا تُتْلىٰ مَزَامِيْرُهٗ عَلٰى لِسَانٍ إِلَّا بِرَنَّاتِ ذِكْرِهٖ وَ هُوَ الْوَتْرُ الشَّفْعِيُّ الْمُحَقَّقُ، اَلْمَحْكُوْمُ بِالْجَهْلِ عَلٰى كُلِّ مَنِ ادَّعٰى مَعْرِفَةَ اللهِ مُجَرَّدَةً فِيْ نَفْسِ الْاَمْرِ عَنْ نَّفْسِهِ الْمُحَمَّدِيِّ، اَلْفَرْعُ الْحَدَثَانِيِّ الْمُتَرَعْرَعُ فِيْ نَمَآئِهٖ بِمَا يُمَدُّ بِهٖ كُلُّ اَصْلٍ اَبَدِيٍّ، جَنِيِّ شَجَرَةِ الْقِدَمِ، خُلَاصَةِ نُسْخَتَيِ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ، عَبْدِ اللهِ وَ نِعْمَ الْعَبْدُ الَّذِيْ بِهٖ كَمَالُ الْكَمَالِ وَ عَابِدُ اللهِ بِاللهِ بِلَا حُلُوْلٍ وَّلَا اِتِّحَادٍ وَّلَا اِتِّصَالٍ وَّلَا اِنْفِصَالٍ، اَلدَّاعِيْ إِلَى اللهِ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، نَبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَ مُمِدِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِ بِالذَّاتِ وَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ اَشْرَفُ التَّسْلِيْمِ، يَآ اللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَمَالِ التَّجَلِّيَاتِ الْاِخْتِصَاصِيَّةِ، وَ جَلَالِ التَّدَلِّيَاتِ الْاِصْطِفَآئِيَّةِ، الْبَاطِنِ بِكَ فِيْ غَيَابَاتِ الْعِزِّ الْاَكْبَرِ، الظَّاهِرِ بِنُوْرِكَ فِيْ مَشَارِقِ الْمَجْدِ الْاَفْخَرِ، عَزِيْزِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ، وَ سُلْطَانِ الْمَمْلَكَةِ الْاَحَدِيَّةِ، عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ كَمَا هُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ كَآفَّةُ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ، مُسْتَوٰى تَجَلِّيْ عَظْمَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ حُكْمِكَ فِيْ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ، مَنْ كَحَلْتَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ مُقْلَتَهٗ فَرَاٰى ذَاتَكَ الْعَلِيَّةَ جِهَارًا وَّ سَتَرْتَ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فِيْ بَاطِنِهٖ لَكَ اَسْرَارًا وَّ فَلَقْتَ بِكَلِمَةِ خُصُوْصِيَّتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِحَارَ الْجَمْعِ وَ مَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَ جَمَالِكَ وَ خِطَابِكَ الْقَلْبِ وَ الْبَصَرِ وَ السَّمْعِ وَ اَخَّرْتَ عَنْ مَّقَامِهٖ تَاخِيْرًا ذَاتِيًّا كُلَّ اَحَدٍ وَّ جَعَلْتَهٗ بِحُكْمِ اَحَدِيَّتِكَ وِتْرَ الْعَدَدِ، لِوَآءِ عِزَّتِكَ الْخَافِقِ وَ لِسَانَ حِكْمَتِكَ النَّاطِقِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ شِيْعَتِهٖ وَ وَارِثِيْهِ وَ حِزْبِهٖ يَآ اللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى دَآئِرَةِ الْاِحَاطَةِ الْعُظْمٰى وَ مَرْكَزِ مُحِيْطِ الْفَلَكِ الْاَسْمٰى عَبْدِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عُلُوْمِكَ بِمَا لَمْ تُهَيِّئْ لَهٗ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ، سُلْطَانِ مَمَالِكِ الْعِزَّةِ بِكَ فِيْ كَآفَّةِ بِلَادِكَ، بَحْرِ اَنْوَارِكَ الَّذِيْ تَلَاطَمَتْ بِرِيَاحِ التَّعَيُّنِ الصَّمَدَانِيِّ اَمْوَاجُهٗ، قَآئِدِ جَيْشِ النُّبُوَّةِ الَّذِيْ تَسَارَعَتْ بِكَ اِلَيْكَ اَفْوَاجُهٗ، خَلِيْفَتِكَ عَلٰى كَآفَّةِ خَلِيْقَتِكَ، اَمِيْنِكَ عَلٰى جَمِيْعِ بَرِيَّتِكَ، مَنْ غَايَةُ الْمُجِدِّ الْمَجِيْدِ فِي الثَّنَآءِ عَلَيْهِ الْاِعْتِرَافُ بِالْعِجْزِ عَنْ اِكْتِنَاهِ صِفَاتِهٖ وَ نِهَايَةِ الْبَلِيْغِ الْمُبَالِغِ اَنْ لَّا يُصَلِّ اِلٰى مُبَالِغِ الْحَمْدِ عَلٰى مَكَارِمِهٖ وَ هِبَاتِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَّكَ عَلَيْهِ سِيَادَةٌ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِكَ الَّذِيْ اِسْتَوْجَبَ مِنَ الْحَمْدِ بِكَ لَكَ اِصْدَارُهٗ وَ اِيْرَادُهٗ وَ عَلٰى آلِهِ الْكِرَامِ وَ اَصْحَابِهِ الْعِظَامِ وَ وُرَّاثِهِ الْفِخَامِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۔ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ وَ تُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ } صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

148 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِنَيِّرِ هِدَايَتِكَ الْاَعْظَمِ وَ سِرِّ اِرَادَتِكَ الْمَكْنُوْنِ مِنْ نُّوْرِكَ الْمُطَلْسِمِ مُخْتَارِكَ مِنْكَ لَكَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ نُوْرِكَ الْمُجَرَّدِ بَيْنَ مَسَالِكَ اللَّقِّیْ، كَنْزِكَ الَّذِیْ لَمْ يُحِطْ بِهٖ سِوَاكَ وَ اَشْرَفِ خَلْقِكَ الَّذِیْ بِحُكْمِ اِرَادَتِكَ كَوَّنَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ اَجْرَامُ الْاَفْلَاكِ وَ هَيَاكِلُ الْاَمْلَاكِ، فَطَافَتْ بِهِ الصَّآفُّوْنَ حَوْلَ عَرْشِكَ تَعْظِيْمًا وَّ تَكْرِيْمًا، وَ اَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} وَ نَشَرْتَ فَوْقَ هَامَتِهٖ فِیْ تَخْتِ مُلْكِكَ لِوَآءَ حَمْدِكَ وَ قَدَّمْتَهٗ عَلٰى صَنَادِيْدِ جُيُوْشِ سُلْطَانِكَ بِقُوَّةِ عَزْمِكَ وَ اَخَذْتَ لَهٗ عَلٰى اَصْفِيَآئِكَ بِالْحَقِّ مِيْثَاقَكَ الْاَوَّلَ وَ قَرَّبْتَهٗ بِكَ وَ مِنْكَ وَ لَكَ وَ جَعَلْتَ عَلَيْهِ الْمَعُوْلَ وَ مَتَّعْتَهٗ بِجَمَالِكَ فِیْ مَظْهَرِ التَّجَلِّیْ وَ خَصَّصْتَهٗ بِقَابِ قَوْسَيْنِ قُرْبَ الدُّنُوِّ وَ التَّدَلِّیْ وَ زَجَّيْتَ بِهٖ فِیْ نُوْرِ اُلُوْهِيَّتِكَ الْعُظْمٰى وَ عَرَّفْتَ بِهٖ اٰدَمَ حَقَآئِقَ الْحُرُوْفِ وَ الْاَسْمَآءِ فَمَا عَرَفَكَ مَنْ عَرَفَكَ اِلَّا بِهٖ وَ مَا وَصَلَ مَنْ وَّصَلَ اِلَيْكَ اِلَّا مَنِ اتَّصَلَ بِسَبَبِهٖ، خَلِيْفَتِكَ بِمَحْضِ الْكَرَمِ عَلٰى سَآئِرِ مَخْلُوْقَاتِكَ، سَيِّدِ اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمٰوَاتِكَ، خَصِيْصِ حَضْرَتِكَ بِخَصَآئِصِ نَعْمَآئِكَ وَ فُيُوْضَاتِ اٰلَآئِكَ، اَعْظَمِ مَنْعُوْتٍ اَقْسَمْتَ بِعَمْرِهٖ فِیْ كِتَابِكَ وَ فَضَّلْتَهٗ بِمَا فَصَّلْتَ بِهٖ مِنْ اَسْرَارِ خِطَابِكَ وَ فَتَحْتَ بِهٖ اَقْفَالَ اَبْوَابِ سَابِقِ النُّبُوَّةِ وَ الْجَلَالَةِ وَ خَتَمْتَ بِهٖ دَوْرَ دَوَآئِرِ مَظَاهِرِ الرِّسَالَةِ، وَ رَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ وَ سَيَّدْتَهٗ بِنِسْبَةِ الْعُبُوْدِيَةِ اِلَيْكَ فَخَضَعَ لِاَمْرِكَ وَ شَيَّدْتَ بِهٖ قَوَآئِمَ عَرْشِكَ الْمَحُوْطِ بِحِيْطَتِكَ الْكُبْرٰى وَ مَنْطَقْتَهٗ بِمَنْطِقَةِ الْعِزِّ فَمَنْطَقَ بِعِزِّهٖ اَهْلِ الدُّنْيَا وَ الْاُخْرٰى وَ اَلْبَسْتَهٗ مِنْ سُرَادِقَاتِ جَلَالِكَ اَشْرَفِ حُلَّةٍ وَّ تَوَّجْتَهٗ بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ الْخُلَّةِ نَبِيِّ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْمَبْعُوْثِ بِاَمْرِكَ اِلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ، بَحْرِ فَيْضِكَ الْمُتَلَاطِمِ بِاَمْوَاجِ الْاَسْرَارِ وَ سَيْفِ عَزْمِكَ الْقَاهِرِ الْحَاسِمِ لِحِزْبِ الْكُفْرِ وَ الْبَغْیِ وَ الْاِنْكَارِ، اَحْمَدِكَ الْمَحْمُوْدِ بِلِسَانِ التَّكْرِيْمِ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِكَ الْحَاشِرِ الْعَاقِبِ الْمُسَمّٰى بِالرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، اَسْئَلُكَ بِهٖ وَ بِالْاَقْسَامِ الْاَوَّلِ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِكَ اَنْتَ الْمُجِيْبُ لِمَنْ سَئَلَ اَنْ تُصَلِّیْ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً تَلِيْقُ بِذَاتِكَ وَ ذَاتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، لِاَنَّكَ اَدْرٰى بِمَنْزِلَتِهٖ وَ اَعْلَمُ بِصِفَاتِهٖ، عَدَدًا لَّا تُدْرِكُهُ الظُّنُوْنُ، زِيَادَةً عَلٰى مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ، يَا مَنْ اَمْرُهٗ بَيْنَ الْكَافِ وَ النُّوْنِ، وَ يَقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ، وَ اَنْ تُمِدَّنِیْ بِمَدَدِهِ الْمُحَمَّدِیْ مَدَدًا اَدْرِكُ بِهٖ قَبُوْلَ تَوَجُّهَاتِیْ، وَ اَسْتَأْنِسُ بِهٖ فِیْ جَمِيْعِ جِهَاتِیْ، فَاَكُوْنُ مَحْفُوْظًا بِهٖ مِنْ شَرِّ الْاَعْدَا، وَ يُعَمِّرُ قَلْبِیْ بِسَوَابِغِ نِعَمِهِ الْاُوْلٰى وَ الْاُخْرٰى، وَ يَنْطَلِقُ لِسَانِیْ مُتَرْجِمًا عَنْ اَسْرَارِ كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ وَ اَتَعَلَّمُ مِنْ عِلْمِكَ الْاَقْدَسِ الْوَهْبِیْ مَآ اَسْتَغْنِیْ بِهٖ عَنِ الْمُعَلِّمِ وَ اَنْتَ الْحَمِيْدُ الْمَجِيْدُ، وَ تَصِفُوْ مِرْاٰةَ سَرِيْرَتِیْ بِنَظْرَتِهِ الْمُحَمَّدِيَةِ، وَ اَبْصِرُ بِبَصَرِ بَصِيْرَتِیْ حَقَآئِقَ الْاَشْيَآءِ الثَّابِتَةِ الْعَلِيَّةِ لِاَرْقٰى بِهِمَّتِهٖ عَلٰى مَعَارِجِ مَدَارِجِ رُتَبِ الْكِرَامِ، وَ اَظْفَرُ بِسِرِّهِ الْمَخْصُوْصِ بِبُلُوْغِ الْمَرَامِ فِی الْمَبْدَاِ وَ الْخِتَامِ، فَاِنَّكَ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ {رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ} وَ اجْعَلْنَآ اَللّٰهُمَّ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَ حَسُنَ اُوْلٰٓئِكَ رَفِيْقًا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَ انْصُرْنَا بِنَصْرِكَ فِی الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنِ وَ اجْعَلْنَا مِنْ

حِزْبِكَ الَّذِيْنَ وَفَّقْتَهُمْ لِفَهْمِ كِتَابِكَ الْمَكْنُوْنِ، لِنَدْخُلَ فِيْ حِرْزِ قَوْلِكَ {اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ}
{اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۰ اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ} {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ
اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۰ وَ تُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ} وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

149 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى الْجَمَالِ الْاَنْفَسِ وَ النُّوْرِ الْاَقْدَسِ وَ الْحَبِيْبِ مَعَ حَيْثُ الْهُوِيَّةُ وَ الْمُرَادِ فِي
اللَّاهُوْتِيَّةِ، مُتَرْجِمِ كِتَابِ الْاَزَلِ وَ الْمُتَعَالِيْ بِالْحَقِيْقَةِ عَنْ حَقِيْقَةِ الْاَثْرِ حَتّٰى كَاَنَّهُ الْمِثْلَ، اَلْجِنْسِ الْاَعْلٰى وَ
الْمَخْصُوْصِ الْاُوْلٰى وَ الْحِكْمَةِ السَّارِيَةِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ وَّ الْحِكْمَةِ الْكَابِحَةِ لِكُلِّ كُؤُوْدٍ، رُوْحِ صُوَرِ الْاِسْرَارِ
الْمَلَكُوْتِيَّةِ وَ لَوْحِ نُقُوْشِ الْعُلُوْمِ الْاَحَدِيَّةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِكَ وَ اَحْمَدِكَ وِتْرِ الْعَدَدِ وَ لِسَانِ الْاَبَدِ،
اَلْعَرْشِ الْقَآئِمِ بِتَحَمُّلِ كَلِمَةِ الْاِسْتَوَآءِ الذَّاتِيْ فَلَا عَارِضَ، الْمُتَجَلِّيْ بِسُلْطَانِ قَهْرِكَ عَلٰى ظُلُلِ ظُلَمِ
الْاَغْيَارِ لِمُحِقِّ كُلِّ مُعَارِضٍ، اَلنُّقْطَةِ الَّتِيْ عَلَيْهَا مَدَارُ حُرُوْفِ الْمَوْجُوْدَاتِ بِجَمِيْعِ الْاِعْتِبَارَاتِ، اَلصَّاعِدِ
فِيْ مَعَارِجِ الْقُدْسِ حَتّٰى لَا يُدْرَكَ كُنْهُهٗ وَلَا الْاِشَارَاتُ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ شِيْعَتِهٖ وَ حِزْبِهٖ آمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ بِاَفْضَلِ مَا تُحِبُّ وَ اَكْمَلِ مَا تُرِيْدُ عَلٰى سَيِّدِ الْعَبِيْدِ وَ اِمَامِ
اَهْلِ التَّوْحِيْدِ وَ نُقْطَةِ دَوَآئِرِ الْمَزِيْدِ، لَوْحِ الْاَسْرَارِ وَ نُوْرِ الْاَنْوَارِ وَ مَلَاذِ اَهْلِ الْاَعْصَارِ وَ خَطِيْبِ
مَنَابِرِ الْاَبَدِ بِلِسَانِ الْاَزَلِ وَ مَظْهَرِ اَنْوَارِ اللَّاهُوْتِ فِيْ نَاسُوْتِ الْمِثْلِ، اَلْقَآئِمِ بِكُلِّ حَقِيْقَةٍ
سِرَيَانًا وَّ تَحْكِيْمًا، اَلْوَاسِعِ لِتَنَزُّلَاتِ الرِّضَا تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا، مَالِكِ اَزِمَّةِ الْاَمْرِ الْاِلٰهِيِّ تَهَيُّئًا وَ
اِسْتِعْدَادًا، سَالِكِ مَسَالِكَ الْعُبُوْدِيَّةِ اِمْدَادًا وَّ اِسْتِمْدَادًا، سُلْطَانِ جُنُوْدِ الْمَظَاهِرِ الْكَمَالِيَةِ،
شَمْسِ آفَاقِ الْمَشَاهِدِ الْجَمَالِيَّةِ، اَلْمُصَلِّيْ لَكَ بِكَ عِنْدَكَ فِيْ جَوَامِعِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ الْمُحَلّٰى
بِزَوَاهِرِ جَوَاهِرِ اِخْتِصَاصَاتِ اَوْلِيَآءِ حَضَرَاتِكَ، الْوِتْرِ الْمُطْلَقِ فِيْ حَقِّ نُبُوَّتِهٖ عَنِ الْاَشْبَاهِ وَ
النَّظَآئِرِ الْفَرْدِ الْمُقَدَّسِ سِرُّ مُحَمَّدِيَّتِهٖ عَنْ مُّدَانَاةِ مَقَامِهٖ فِي الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ، اَلْاَبِ الرَّحِيْمِ وَ
السَّيِّدِ الْعَلِيْمِ، مَاحِيْ ظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ بِشُعَاعِ الْحَقِّ وَ الْيَقِيْنِ، قَاطِعِ شُبُهَاتِ التَّمْوِيْهِ
الشَّيْطَانِيْ بِقَاهِرِ بَاهِرِ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ، اَلشَّافِعِ الْاَعْظَمِ وَ الْمُشَفَّعِ الْاَكْرَامِ وَ الصِّرَاطِ الْاَقْوَمِ وَ
الذِّكْرِ الْمُحْكَمِ وَ الْحَبِيْبِ الْاَخَصِّ وَ الدَّلِيْلِ الْاَنْصَحِ، اَلْمُتَجَلِّيْ بِمَلَابِسِ الْحَقَآئِقِ الْفَرْدَانِيَّةِ،
اَلْمُتَمَيِّزِ بِصَفْوَةِ الشُّؤُوْنِ الرَّبَّانِيَّةِ الْحَافِظِ عَلَى الْاَشْيَآءِ قُوَاهَا بِقُوَّتِكَ، اَلْمُمِدِّ لِذَرَّاتِ الْكَآئِنَاتِ
بِمَا بِهٖ بَرَزَتْ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ بِقُدْرَتِكَ، كَعْبَةِ الْاِخْتِصَاصِ الرَّحْمَانِيِّ مُحَجِّ التَّعَيُّنِ
الصَّمَدَانِيِّ، قَيُّوْمِ الْمَعَاهِدِ الَّتِيْ سَجَدَتْ لَهَا جِبَاهُ الْعُقُوْلِ، اُقْنُوْمِ الْوَحْدَةِ وَلَآ اُقْنُوْمَ وَ اِنَّمَا
نُوْرُكَ بِنُوْرِكَ مَوْصُوْلٌ، اَفْضَلِ مَنْ اَظْهَرْتَ وَ سَتَرْتَ مِنْ خَلْقِكَ الْكِرَامِ، وَ اَكْمَلِ مَآ اَبْدَيْتَ وَ
اَخْفَيْتَ مِنْ مَّخْلُوْقَاتِكَ الْعِظَامِ، مُنْتَهٰى كَمَالِ النُّقْطَةِ الْمَفْرُوْضَةِ فِيْ دَوَآئِرِ الْاِنْفِعَالِ وَ مَبْدَأِ مَا
يَصِحُّ اَنْ يَّشْمِلَهٗ اِسْمُ الْوُجُوْدِ الْقَابِلِ لِتَنَوُّعَاتِ الْقَضَآءِ وَ الْقَدَرِ فِي الْاَقْوَالِ وَ الْاَفْعَالِ، ظِلِّكَ

الْوَارِفِ عَلٰى مَمَالِكِ حِيْطَتِكَ الْاِلٰهِيَّةِ، وَفَضْلِكَ الذَّارِفِ عَلٰى مَا سِوَاكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ بِمَا شِئْتَ مِنْ فُيُوْضَاتِكَ الْعَلِيَّةِ، سَرِيْرِ الْاِسْتِوَآءِ الْمَعْنَوِيِّ، وَسِرِّ سَرَآئِرِ الْكَنْزِ الْاَحَدِيِّ الصَّمَدِيِّ، شَامِلِ الدَّعْوَةِ لِلْعَالَمِ تَفْصِيْلًا وَّ اِجْمَالًا، اَكْمَلِ خَلْقِكَ تَفْصِيْلًا وَّ جَمَالًا، مَنْ م بِهٖ اَقَلْتَ الْعَثَرَاتِ، وَ لِاَجْلِهٖ غَفَرْتَ الزَّلَّاتِ، وَ بِفَضْلِهٖ عَمَّرْتَ الْاَرْضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ وَ بِذِكْرِهٖ عَمَّرْتَ شَرَآئِفَ الْمَقَامَاتِ، وَلَهٗ اَخْدَمْتَ الْمَلَاَ الْاَعْلٰى، وَعَلَيْهِ اَثْنَيْتَ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى، وَمِمَّآ اَوْدَعْتَ فِيْ كَنْزِهٖ اَنْفَقْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ مَمْلُوْءٌ عَلٰى حَالِهٖ وَ بِمَآ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ وَ حَقَّقْتَهٗ فِيْهِ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى جَمِيْعِ خَوَآصِّ مَقَامِكَ الْاَقْدَسِ وَمُلُوْكِ كَمَالِهٖ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ، وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ وَخَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ وَنَجِيِّكَ، وَمُجْتَبَاكَ وَمُرْتَضَاكَ وَالْقَآئِمِ بِاَعْبَآءِ دَعْوَتِكَ، وَالنَّاطِقِ بِلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَ الْهَادِيْ بِكَ وَ اِلَيْكَ، وَ الدَّاعِيْ بِاِذْنِكَ لِمَا لَدَيْكَ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ وُرَّاثِهٖ كَوَاكِبِ آفَاقِ نُوْرِكَ، وَ نُجُوْمِ اَفْلَاكِ بُطُوْنِكَ وَ ظُهُوْرِكَ خُدَّامِ بَابِهٖ، وَ فُقَرَآءِ جَنَابِهٖ، وَ الْمُتَرَاسِلِيْنَ عَلٰى حُبِّهٖ، وَ الْمُتَلَازِمِيْنَ فِيْ قُرْبِهٖ وَ الْبَاذِلِيْنَ اَنْفُسَهُمْ فِيْ سَبِيْلِهٖ، وَ التَّابِعِيْنَ لِاَحْكَامِ تَنْزِيْلِهٖ، وَ الْمَحْفُوْظَةِ سَرَآئِرِهِمْ عَلَى الْعَقَآئِدِ الْحَقَّةِ فِيْ مِلَّتِهٖ، وَ الْمُنَزَّهَةِ ضَمَآئِرِهِمْ عَنْ اَنْ يَّحِلَّ بِهَا مَا لَا يُرْضِيْهِ فِيْ شَرِيْعَتِهٖ، وَ اَتْبَاعِهِمْ بِحَقٍّ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، آمِيْنَ آمِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۰ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

150 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالنَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔

151 اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوْحِيْدًا ذَاتِيًّا صَمَدَانِيًّا مُّهَيْمِنًا عَلَى الْبَوَاطِنِ وَ الظَّوَاهِرِ، اَزَلِيًّا اَبَدِيًّا مُّسْتَوْلِيًا عَلَى الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوْحِيْدًا وَّصْفِيًّا كَشْفِيًّا سَارِيًّا م بِمَشَارِقِ الْكَمَالِ الْبَاهِرِ، غَيْبِيًّا عَيْنِيًّا جَارِيًا م بِمَنَافِذِ النُّوْرِ السَّافِرِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوْحِيْدًا اِسْمِيًّا مَالِئًا اَدْوَارَ الْاَدْهَارِ بِالْمَآثِرِ، جَالِيًا طَوَالِعَ الْاَسْرَارِ فِي الدَّوَآئِرِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَوْحِيْدًا ذَاتِيًّا تَنَزَّلُ بِالْاَوْتَارِ فِي الْاَشْفَاعِ، وَ تَنَقُّلُ فِيْ اَفْرَادِ الْاَعْدَادِ فِي الْفُرْقَانِ وَ الْاِجْتِمَاعِ، سُلْطَانِ لَاهُوْتِيَّتِهٖ قَهَّارٌ، نَامُوْسِ نَاسُوْتِيَّتِهٖ يَسْلُبُ الْعُقُوْلَ وَ الْاَبْصَارَ، تَنْطَوِيْ تَحْتَ بَرَازِخِ اَحَدِيَّتِهٖ اَسْرَارُ التَّفْصِيْلِ وَ الْاِجْمَالِ، وَ تَنْزَوِيْ فِيْ ظِلِّ وَاحِدِيَّتِهٖ اَدْوَارُ الْاِنْفِصَالِ وَ الْاِتِّصَالِ، اِسْتَوَتْ بِهٖ عُرُوْشُ الصِّفَاتِ عَلٰى قَوَآئِمِ الْاَسْمَآءِ، وَ حِيْطَ فَرْشِ الْقَوَابِلِ بِسُوَرِ الظُّهُوْرِ الْاَحْمٰى، وَ اسْتَدَارَ عَلٰى حِقَآئِقِ الْمَلَكُوْتِ، وَ اسْتَنَارَ بِبَوَاهِرِ اَضْوَآءِ الْجَبَرُوْتِ مِنْ نُّقْطَتِهٖ اِسْتَمَدَّ كُلُّ عَالَمٍ، وَ مِنْ طَلْعَتِهٖ اِزْدَهَرَتْ كَوَاكِبُ آدَمَ اَمَدَّ بِلَطَآئِفِ الْجَمْعِيَّاتِ طَوَآئِفَ الْاَكْوَانِ، وَ اسْتَضَآءَ فِيْ اَصْدَافِ الْاَوْصَافِ بِلَوَامِعِ الرَّحْمٰنِ، رَجَعَتْ اِلَيْهِ اَوَامِرُ الرَّغَبُوْتِ غَيْبًا وَّ ظُهُوْرًا،

وَهَمَعَتْ مِنْهُ مَوَاطِرُ الرَّحَمُوْتِ مُطْوِيًّا وَّمَنْشُوْرًا۔

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سُوَرِهِ الْمَتْلُوَّةِ بِلِسَانِ الْبَيَانِ عَنْ حَضْرَةِ الْقِدَمِ، وَ سِتْرِهِ الْمَجْلُوَّةِ فِيْهَا عَرَآئِسُ الْحَقَآئِقِ وَ الْحِكَمِ، نَزِّلْ صَلَاةً وُّصِلَتِكَ السُّبُّوْحِيَّةِ مِنْ عَرْشِ اِسْمِكَ الْاَعْظَمِ، عَلٰى وَاحِدِ عَوَالِمِ تَجَلِّيَاتِكَ الْقُدُّوْسِيَّةِ الْاَكْوَمِ نُوْرَانِيِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ صَمَدَانِيِّ الْوَجْهَةِ بِكَ اِلَيْكَ فِى الْمَآرِبِ وَ الْمَطَالِبِ، لَوْحِ نُقُوْشِ سِرِّكَ الْمُحِيْطِ الْجَامِعِ، رُوْحِ هَيَاكِلِ اَمْرِكَ اللَّدُنِّيِّ الْوَاسِعِ، لِسَانِ اِحْسَانِكَ فِى الْاَزَلِ الْمُفِيْضِ لِكُلِّ مَا شِئْتَ، خِزَانَةِ رُتْبَةِ الْاَبَدِ الْمُمِدَّةِ لِكُلِّ مَآ اَرَدْتَّ، الْاَوَّلِ الْقَابِلِ لِاَنْوَاعِ تَعَيُّنَاتِكَ الْعَلِيَّةِ عَلٰى اِخْتِلَافِ شُؤُوْنِهَا، اَلْاٰخِرِ الْخَاتَمِ عَلٰى كُنُوْزِ اِمْدَادَاتِكَ الزَّكِيَّةِ فِىْ ظُهُوْرِهَا وَ بُطُوْنِهَا، اَلْعَبْدِ الْقَآئِمِ بِسِرِّ الْغَيْبِ وَ الْاِحَاطَةِ لِغَايَاتِ الْوَصْلِ، النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ اِلٰى عَيْنِ الذَّاتِ وَلَا كَيْفَ وَلَا مِثْلَ، فَاتِحَةِ كُتُبِ الْهِبَاتِ، وَ الصِّفَاتِ، وَ الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، سِرِّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّآئِمَاتِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هٰذَا الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ، الَّذِىْ عِنْدَهُ الْمَطْلُوْبُ، عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ بِاِسْمِكَ السَّلَامِ الْمُمِدِّ الْقَيُّوْمِىْ عَلَيْهِ مِنْكَ مَعَكَ وَ اجْعَلْنَا بِهٖ فِىْ حَضْرَةِ الْقُدُسِ الرَّبَّانِىْ مِمَّنْ تَبِعَهُ فَاتَّبِعَكَ۔

اَللّٰهُمَّ كَذٰلِكَ فِىْ كُلِّ ذٰلِكَ مَا دَامَ لَكَ كُلُّ مَا كَانَ وَ كُلُّ مَا يَكُوْنَ، وَ بَقِىَ تَعْيِيْنُ اَحَدِيَّتِكَ فِى الظُّهُوْرِ وَ الْبُطُوْنِ، وَ اَشْرَقَ جَمَالُ شُهُوْدِكَ عَلٰى عَوَالِمِ اَمْرِكَ فِى الْحَرَكَةِ وَ السُّكُوْنِ، وَ اَنْفَقْتَ مِنْ خَزَآئِنِ مَوَاهِبِكَ مَا شِئْتَ مِنْ سِرِّكَ الْمَصُوْنِ، وَ بَطَنَ عَنْ اِدْرَاكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ خَلْقِكَ مَا كَتَبْتَ مِنْ اَمْرِكَ الْمَكْنُوْنِ، اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ { دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ }۔

152 يَآ اللهُ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَآ اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ، يَاذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ، مُدَّنَا بِمَدَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ اَنْبِيَآئِكَ وَ تَاجِ اَوْلِيَآئِكَ وَ سِرِّ اَهْلِ وَفَآئِكَ، الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ، دَعْوَةِ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بُشْرٰى اَخِيْهِ عِيْسٰى وَ الْمُنَوَّهِ بِاِسْمِهٖ فِىْ تَوْرَاةِ مُوْسٰى، اَلصَّادِقِ الْاَمِيْنِ، اَلْحَقِّ الْمُبِيْنِ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، ذِى الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَ الْعِصْمَةِ، اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ، نُوْرِكَ السَّاطِعِ، سَيْفِ حُجَّتِكَ اللَّامِعِ الْقَاطِعِ، صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ، وَ الْوَسِيْلَةِ فِى الْمَحَلِّ الْاَسْمٰى وَ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، الشَّاهِدِ الشَّهِيْدِ لِلْاَنْبِيَآءِ وَ عَلَى الْاُمَمِ خَيْرِ دَلِيْلٍ، اَلْهَادِىْ بِنُوْرِكَ الْمَجِيْدِ اِلٰى اَشْرَفِ سَبِيْلٍ، مَنِ اسْتُسْقِىَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ فَهَمَعَ، وَ انْشَقَّ لِهَيْبَتِهٖ قَمَرُ السَّمَآءِ ثُمَّ اجْتَمَعَ، وَ عَادَلَهُ نُوْرُ الشَّمْسِ الْمُشْرِقَةِ بَعْدَ الْاُفُوْلِ وَ رَجَعَ، وَ انْفَجَرَ الْمَآءُ الْمُنْهَمِرُ مِنْ اَصَابِعِهٖ وَ هَمَعَ وَ سَجَدَ الْبَعِيْرُ لِهَيْبَتِهٖ، وَ سَكَنَ ثَبِيْرُ لِرَكْضَتِهٖ، وَ حَنَّ الْجِذْعُ حَنِيْنَ الْعَشَارِ لِفُرْقَتِهٖ، وَ اَيَّدْتَّهُ بِرُوْحِ قُدُسِكَ، وَ حَقَّقْتَهُ بِحَقَآئِقِ مَعْرِفَتِكَ وَ اُنْسِكَ، الصَّادِعِ

بِالْحَقِّ، النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ، الْمَنْصُوْرِ بِالرُّعْبِ، الْمَمْلُوْءِ قَلْبُهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ الْاِيْمَانِ وَ الْعِرْفَانِ وَ الْحُبِّ، مَنْ رَّفَعْتَ ذِكْرَهُ مَعَ ذِكْرِكَ، وَ اَقَمْتَهُ فِيْ مِحْرَابِ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الرِّسَالَةِ مُطِيْعًا لِّاَمْرِكَ مُعْتَرِفًا لَّكَ بِعَظِيْمِ قَدْرِكَ، وَ اَقْسَمْتَ بِهٖ فِيْ كِتَابِكَ، وَ فَضَّلْتَهُ بِمَا فَصَّلْتَهُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْوَاعِ خِطَابِكَ، وَ خَلَقْتَ نُوْرَ ذَاتِهٖ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ الْعُظْمٰى، وَ زَجَجْتَ بِهٖ فِيْ غَيْهَبِ لَاهُوْتِ سِرِّكَ الْاَسْمٰى، وَ ثَبَّتَّ لَهُ فِي الْخِلَافَةِ عَنْكَ حَيْثُ اَنْتَ قَدَمًا، وَ نَشَرْتَ لَهُ بِوِرَاثَةِ اِسْمِكَ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ فِي الْكَوْنَيْنِ عَلَمًا، وَ حَقَّقْتَهُ بِكَ فِيْ مَظَاهِرِ { وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى } وَ جَعَلْتَ بَيْعَتَهُ عَيْنَ بَيْعَتِكَ، وَ اَنْطَقْتَ لِسَانَهُ بِحُجَّتِكَ، اُفُقِ اَنْوَارِكَ، وَ بَحْرِ اَسْرَارِكَ، قَائِدِ جُيُوْشِ الْهِدَايَةِ اِلَيْكَ، سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ اَرْشَدَ بِكَ عَلَيْكَ، حَبِيْبِكَ الْاَكْرَمِ وَ رَسُوْلِكَ الْاَعْظَمِ، مُحَمَّدِكَ الْمَحْمُوْدِ فِيْ ذَاتِهٖ وَ صِفَاتِهٖ مَنْ خَلَقْتَ الْوُجُوْدَ لِاَجْلِ ذَاتِهٖ، وَ عَمَّرْتَ الْاَكْوَانَ بِبَرَكَاتِهٖ۔

- صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَلِيْقُ بِجَلَالِ اُلُوْهِيَّتِكَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يُنَاسِبُ عَظْمَةَ سُلْطَانِكَ وَرُبُوْبِيَّتِكَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ حَيْثُ ذَاتُكَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ حَيْثُ اَسْمَآؤُكَ وَصِفَاتُكَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَدَرَ مَا جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَحُكْمُكَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَّ ظَاهِرًا۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ اَوَّلًا وَّ آخِرًا وَّ عَلٰى اِخْوَانِهٖ مِنْ سَائِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَ كُلِّ الصَّحَابَةِ وَ الْقَرَابَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلَى التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِيْهِمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَ عَلٰى وَالِدِيْنَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اِنَّكَ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ آمِيْنَ۔

153 يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ۔

- صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ الْاَكْرَمِ وَ رَسُوْلِكَ الْاَعْظَمِ، نُوْرِكَ الْبَدِيْعِ وَ سِرِّكَ الرَّفِيْعِ وَ حَبِيْبِكَ الشَّفِيْعِ، وَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِيِّيْنَ، وَ قِبْلَةِ اَوْلِيَآئِكَ وَ اَصْفِيَآئِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ، رُوْحِ اَرْوَاحِ الْمَوْجُوْدَاتِ، وَلَوْحِ الْاَسْرَارِ الْمَنْقُوْشِ بِاَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ، النَّاطِقِ بِكَ عَنْكَ اَزَلًا وَّ اَبَدًا، لِسَانِ حُجَّتِكَ الَّذِيْ اَبْدٰى مِنَ الْحَقِّ طَرَآئِقَ قِدَدًا، مَّظْهَرِ جَمَالِكَ الْمُطْلَقِ، وَ بَرْقِ اُفُقِ اَسْرَارِكَ الَّذِيْ لَاحَ وَ اَشْرَقَ، اَحْمَدِ مَنْ حَمِدَكَ وَ حَمِدْتَّهُ، سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِكَ الَّذِيْ لِحَمْدِهٖ لَكَ وَ حَمْدِكَ لَهُ اِصْطَفَيْتَهُ وَ اَخْتَرْتَهُ، مَنْ بِدَايَتُهُ مَرْمٰى اَبْصَارِ السُّبَّاقِ وَ غَايَتُهُ لَا يُدْرِكُ لَهَا حَدٌّ وَّلَا يُرَامُ لَهَا

لِحَاقٌ، خَلِيْفَتِكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ عَلٰى كَآفَّةِ مَخْلُوْقَاتِكَ وَ مُخْتَارِكَ اَنْتَ لِحِفْظِ اَمَانَتِكَ عَلٰى جُمْلَةِ بَرِيَّاتِكَ، الْهَادِيْ بِكَ اِلَيْكَ وَ الْمُرْشِدِ بِفَضْلِكَ عَلَيْكَ، بَدْرِ هَالَةِ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ، وَ شَمْسِ بُرُوْجِ الْعِزَّةِ بِكَ وَ الْجَلَالَةِ، مَنْ اَخَذْتَ الْمِيْثَاقَ مِنْ اَنْبِيَآئِكَ عَلٰى تَصْدِيْقِهٖ وَ نُصْرَتِهٖ، وَ اَقَرَّ كُلٌّ مِّنْهُمْ بِذٰلِكَ وَ قَرَّرَهٗ وَ بَيَّنَهٗ لِاُمَّتِهٖ، مَنْ شَرَحْتَ صَدْرَهٗ وَ مَلَأْتَهٗ حِكْمَةً وَ اِيْمَانًا، وَ وَضَعْتَ وِزْرَهُ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَهٗ وَ اَبْدَلْتَهٗ رَحْمَةً وَّ غُفْرَانًا، وَ رَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ ذِكْرِكَ، وَ اَقَمْتَهٗ فِيْ مِحْرَابِ الْعُبُوْدِيَّةِ لَكَ مُطِيْعًا لِّاَمْرِكَ، نَاطِقًا بِحَمْدِكَ وَ مَدْحِكَ وَ شُكْرِكَ، حَبِيْبِكَ الْمُخْتَصِّ مِنْ عَطَآئِكَ وَ نَعْمَآئِكَ بِمَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَآ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ، مَنْ مَتَّعْتَ بِمَعْرِفَتِكَ وَ خِطَابِكَ وَ جَمَالِكَ مِنْهُ الْقَلْبَ وَ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ، سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ، وَ عَلٰى آلِهِ الْاَكْرَمِيْنَ وَ صَحْبِهٖ وَ التَّابِعِيْنَ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٠ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٠ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

154 اُشْهِدُكَ وَ كَفٰى بِكَ شَهِيْدًا، يَآ اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ، وَ اُشْهِدُ مَلَآئِكَتَكَ وَ رُسُلَكَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ سُكَّانَ سَمٰوٰتِكَ وَ الْاَرَضِيْنَ مِنْ كُلِّ مَا ذَرَأْتَ مِنَ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ، اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ تَجْبُرُ الْكَسِيْرَ، وَ تُغْنِي الْفَقِيْرَ، وَ تَرْحَمُ الضَّعِيْفَ، وَ تُغِيْثُ اللَّهِيْفَ، وَ تَضَعُ وَ تَرْفَعُ، وَ تَصِلُ وَ تَقْطَعُ، وَ تُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْكَ، وَ تُعِزُّ مَنْ تُذَلِّلُ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ، وَ حَبِيْبُكَ وَ خَلِيْلُكَ، عَرْشُ اَحَدِيَّتِكَ الْاَوْسَعُ الْقَآئِمُ بِسِرِّ الْخِلَافَةِ عَنْكَ فِي الْمَقَامِ الْاَبْدَعِ الْاَرْفَعِ، مَنِ اسْتَنَارَ بِاَنْوَارِ التَّجَلِّيَاتِ الصَّمَدَانِيَّةِ وُجُوْدُهٗ وَ اسْتَدَارَ عَلٰى دَوَآئِرِ التَّعَيُّنَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ عُهُوْدُهٗ۔

اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ وَ مِنْ حَيْثُ اَسْمَآؤُكَ وَ صِفَاتُكَ، صَلَاةً وَّ سَلَامًا تَوَاخِيْهِمَا هِبَاتُكَ وَ بَرَكَاتُكَ، وَ عَلٰى آلِهِ الْكِرَامِ، وَ صَحْبِهِ الْعِظَامِ وَ وُرَّاثِهِ الْفِخَامِ۔

155 اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُلْكِ الْكَمَالَاتِ، وَ قُطْبِ الْبِدَايَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، وَ سَيِّدِ اَهْلِ الْاَرَضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ، اَلِفِ الْاِمَامَةِ وَ بَآءِ الْبَرَكَةِ وَ تَآءِ التَّمَامِ وَ ثَآءِ ثَمَرَةِ الْعِزِّ وَ جِيْمِ الْجَمَالِ وَ حَآءِ الْحَقِّ الْكَامِلِ وَ خَآءِ الْخُلُوْدِ الدَّآئِمِ وَ دَالِ الدَّيْمُوْمَةِ الْاَبَدِيَّةِ، وَ ذَالِ ذَمِّ الْاَغْيَارِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَ رَآءِ الرِّفْعَةِ الْقُطْبِيَّةِ، وَ زَايِ الزِّيْنَةِ الْجَمَالِيَّةِ، وَ سِيْنِ السُّمُوِّ اِلَى الْمَعَارِفِ الْعَلِيَّةِ، وَ شِيْنِ الشَّرَفِ الْاَكْبَرِ، وَ صَادِ الصِّدْقِ الْاَنْوَارِ، وَ ضَادِ الضَّوْءِ اللَّامِعِ الْاَزْهَرِ، وَ طَآءِ طُلُوْعِ شَمْسِ الْعِزِّ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ ظَآءِ الظُّهُوْرِ فِيْ مَرَاتِبِ الْعِزِّ الْمُشَرَّفَةِ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ الْاَزَلِيَّةِ الْاَبَدِيَّةِ، وَ غَيْنِ الْغُفْرَانِ الْوَارِدِ مِنْ فَضْلِكَ وَ رُتَبِ كَمَالِكَ الْعَلِيَّةِ، وَ فَآءِ وَ قَافِ قَهْرِ الْمُخَالِفِ بِالْخَطِيْئَةِ الْقَوِيَّةِ وَ كَافِ كَمَالِكَ الْعَالِيْ، وَ لَامِ لِقَآئِكَ الْغَالِيْ وَ مِيْمِ مَبْدَأِ الْاَشْيَآءِ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا وَّ نُوْنِ نِهَايَاتِهَا سِرًّا وَّ عَلَنًا، وَ هَآءِ الْهُوِيَّةِ الْعُظْمٰى، وَ وَاوِ وُرُوْدِ الْمَشْرَبِ الْاَسْنٰى، مَنْ لَّا نَظِيْرَ لَهٗ فِيْ خَلْقِكَ وَلَا مُسَاوِيَ لَهٗ فِيْ حَضْرَةِ عِزِّكَ وَ يَآءِ يُسْرِ الذِّكْرِ بِبَرَكَتِكَ، ثُمَّ بِبَرَكَتِهٖ شَمْسِ اَفْلَاكِ الْعِزِّ وَ سُلْطَانِ سُرَادِقَاتِ الْحِفْظِ وَ رَئِيْسِ الْجِنَانِ، وَ الشَّافِعِ مِنَ النِّيْرَانِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ

الْجَبَّارِ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ الْمُهَيْمِنِ سَيِّدِ اَوْلِيَآئِكَ الْعَارِفِيْنَ وَ مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، مَنْ لَّاحَ جَمَالَهٗ فِي الْقِدَمِ، وَ اَشْرَقَ نُوْرُهٗ اِلَى الْوُجُوْدِ بِلَا عَدَمٍ، سَيِّدِ اَسْرَارِ الْمَلَكُوْتِ وَ الْعَالِمِ بِنِهَايَةِ الرَّغَبُوْتِ وَ الْجَبَرُوْتِ، مَنْ اَقَامَ الْحَقَّ وَ اَذَلَّ الطَّاغُوْتِ نُوْرِكَ الْاَتَمِّ وَ فَضْلِكَ الْاَعَمِّ، قُطْبِ الْاَقْطَابِ وَ مَلَاذِ الْاَحْبَابِ، اَلدَّاخِلِ اِلَيْكَ مِنَ الْبَابِ، بَابِ الْخَيْرَاتِ وَ مِفْتَاحِ الْبَرَكَاتِ، شَمْسِ الْمَعَانِي الزَّاهِرَةِ وَ سَيِّدِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ، مَنْ لَّمْ يَغِبْ عَنْ حَضْرَتِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَكَ مِنَ الزَّمَانِ وَ الْاَيْنِ، سَيِّدِ الدَّآلِيْنَ عَلَيْكَ اَلْمُوْصِلِيْنَ اِلَيْكَ، نُوْرِ بَهْجَةِ الْاَسْرَارِ، الْعَالِمِ بِكَشْفِ الْاَسْتَارِ، السَّاتِرِ مِنْ وَّصْفِكَ الْغَفُوْرِ السَّتَّارِ، مَظْهَرِكَ التَّآمِّ وَ عَيْنِ جُوْدِكَ الْعَآمِّ سَيِّدِنَا الْاَكْمَلِ وَ نُوْرِنَا الْاَفْضَلِ، خَيْرِ مَنْ سَبَقَ وَ لَحِقَ، دَآئِمِ النُّوْرِ، وَاضِحِ الظُّهُوْرِ الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ ذِى الْبَرَاهِيْنِ السَّاطِعَةِ، شَمْسِ الْعُلُوْمِ وَ قَمَرِ جِلَآءِ الْغُمُوْمِ، سَيِّدِ الْاَطْفَالِ وَ الشُّيُوْخِ وَ الْكُهُوْلِ وَ قُطْبِ دَوَآئِرِ الْعِزِّ الْمَقْبُوْلِ، مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَ ذَلَّتْ لَهُ الْاَقْطَابُ، دُرِجَ الرُّسُلُ تَحْتَ لِوَآئِهٖ وَ نَالُوْا شَرَفَ كَمَالِهٖ وَ اِيْوَآئِهٖ، فَرْدِ الْاَفْرَادِ وَ قُطْبِ الْاَقْطَابِ وَ وَتَدِ الْاَوْتَادِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى، خَيْرِ مَنِ اتَّقٰى، مِنْ قُرْبِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى وَ لَاحَ مِنْ مَّظْهَرِ النُّوْرِ الْاَسْنٰى، اِمَامِ الْحَضَرَاتِ الْكَامِلَةِ وَ سَيِّدِ اَهْلِ الرُّتَبِ الْفَاضِلَةِ سِرَاجِ الْمِلَّةِ وَ كَنْزِ الذُّخْرِ الْكَاشِفِ لِكُلِّ عِلَّةٍ، نِهَايَةِ اَعْمَالِ الْوَاصِلِيْنَ وَ غَايَةِ رَغْبَةِ الرَّاغِبِيْنَ مَنْ سَئَلَكَ بِهٖ اٰدَمُ فَنَجَا وَ كُلُّ رُسُلِكَ اِلَيْهِ قَدِ الْتَجَا، اَلْحَبْلِ الْمُمْتَدِّ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ، سَعِيْدِ السُّعَدَآءِ، سَيِّدِ السَّادَاتِ، فَرْدِ الْاِحَاطَاتِ وَ الْكَمَالَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، رَوْضِ الْعِلْمِ الْخَصِيْبِ، وَ مَظْهَرِ سِرِّ الْقَوْلِ الْمُصِيْبِ، مَنْ لَّاحَ فِيْهِ وَ عَلَيْهِ كَلَامُكَ الْقَدِيْمُ وَ ظَهَرَ فِيْهِ نُوْرُ سِرِّكَ الْعَظِيْمِ، مَنْ فَضَّلْتَ تُرْبَتَهٗ عَلَى الْعَرْشِ وَ قَرَّبْتَهٗ مِنْ عِزِّكَ وَ قُدْسِكَ وَ هُوَ نُوْرُكَ الْاَعْظَمُ وَ جَمَالُكَ الْاَكْرَمُ وَ كَمَالُكَ الْاَقْدَمُ وَ صِرَاطُكَ الْاَقْوَامُ، مَنْ اَقْسَمْتَ بِهٖ لِعَظْمَتِهٖ وَ شَرَّفْتَهٗ فِي ذٰلِكَ بِوَصْفِ ذٰلِكَ لِسِيَادَتِهٖ، مَنْ اَفْرَدْتَّهٗ لَكَ فَانْفَرَدَ وَ وَحَّدْتَّهٗ بِكَ فَتَوَحَّدَ، خَيْرِ الْاَوَآئِلِ وَ الْاَوَاخِرِ، مُشْرِقِ الْبَوَاطِنِ وَ الظَّوَاهِرِ، الْمُفِيْضِ عَلَى الْوَارِدِيْنَ اِلَيْكَ الْمُمِدِّ لِلْوَاصِلِيْنَ اِلٰى حَضْرَتِكَ مَنْ مَّلَاَ نُوْرُهُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اَحَاطَ بِعِلْمِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَ تَحَقَّقَ بِحَقَآئِقِ الْعِرْفَانِ وَ الْيَقِيْنِ وَ تَمَّ قَبْلَ مَظَاهِرِ التَّكْوِيْنِ وَ كَتَبْتَ اِسْمَهٗ عَلٰى عَرْشِكَ قَبْلَ ظُهُوْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ، نِهَايَةِ الْاَمْدَادِ وَ الْاِمْدَادِ وَ كِفَايَةِ الْاِسْعَادِ، مَنِ اهْتَدٰى بِهِ السَّآئِرُوْنَ وَ اسْتَرْشَدَ بِهِ الْمُسْتَرْشِدُوْنَ، مَنْ رَّحِمْتَ الْعَالَمَ بِسَبَبِهٖ وَ اَعْلَيْتَ الصِّدِّيْقِيْنَ بِهٖ، لِشُهُوْدِ شَرِيْفِ رُتَبِهٖ، مَنْ اَحَقَّ الْحَقَّ وَ اَبْطَلَ الْبَاطِلَ وَ شَقَقْتَ لَهٗ مِنْ اِسْمِكَ لِيَنْفَرِدَ عَنِ الْاَوَاخِرِ وَ الْاَوَآئِلِ، اَحْمَدِ هٰذَا الْعَالَمِ الْكَبِيْرِ وَ الصَّغِيْرِ وَ اَشْرَفَهٗ وَ اَجَلَّهٗ فِيْ سَآئِرِ التَّقَادِيْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ مَحْمُوْدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَ حَامِدٍ، اَجَلِّ مَنْ حَمِدَ وَ حُمِدَ وَ جَمَعَ الْمَحَامِدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ مَّا دَامَ ذِكْرُكَ وَ مَآ اَشْرَقَ عِزُّكَ وَ مَا عَرَفَكَ عَارِفٌ وَّ مَا وَقَفَ بِبَابِكَ وَاقِفٌ مَّا نَطَقَ فَمٌ وَّ خَطَّ قَلَمٌ.

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ اعْفُ عَنَّا وَ اسْتَجِبْ لَنَا.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَنْ اَحَبَّنَا فِيْكَ وَلِمَنْ اَحْبَبْنَاهُ مِنْ اَجْلِكَ وَلِاُمَّةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَ كُنْ لَّهُمْ وَلَنَا وَلِسَآئِرِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۰ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } {فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ } وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

156 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْعُظْمٰى، مُكَمِّلَةِ اَهْلِ النُّوْرِ الْاَسْنٰى، قُطْبِ دَآئِرَةِ الْعَالَمِيْنَ، وَاسِطَةِ عَقْدِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، صَفْوَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالدِّيْنِ، بُرْهَانِكَ الْقَاطِعِ وَنُوْرِكَ السَّاطِعِ، وَارِثِ الْخِلَافَةِ الْكُبْرٰى وَ اِمَامِ الدُّنْيَا وَ الْاُخْرٰى، ذِى اللِّوَآءِ الْمَعْقُوْدِ وَالسِّرِّ الْمَشْهُوْدِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ الْمَمْدُوْدِ وَالْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ وَالْكَوْثَرِ الْجَارِىْ وَ النُّوْرِ السَّارِىْ، مُلْكِ الْكَمَالَاتِ وَ سُلْطَانِ الْبِدَايَاتِ وَ النِّهَايَاتِ، اَحْمَدِ كُلِّ عَالَمٍ، وَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ كُلِّ مَقَامٍ مِّنْ خَلْقِ آدَمَ، جَامِعِ الْقُرْآنِ، الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ فِىْ كُلِّ آنٍ وَّ اَوَانٍ، اَلْبَرِّ الرَّحِيْمِ الْمُهَيْمِنِ الْجَبَّارِ الْعَزِيْزِ الرَّؤُوْفِ السَّيِّدِ الْبَدْرِ مَنْ اَقْسَمْتَ بِحَيَاتِهِ الدَّآئِمَةِ، عِزَّتِهِ الْقَآئِمَةِ، الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الشَّافِعِ، الْاَمِيْنِ عَلٰى اَسْرَارِكَ الْجَوَامِعِ، الْحَاشِرِ لِاَهْلِ الْخَيْرِ لِلْجِنَانِ وَلِاَهْلِ الشَّرِّ لِلنِّيْرَانِ، الَّذِىْ تَمَّ فِيْهِ مَظْهَرُكَ بِكُلِّ زَمَانٍ، وَ الْقَآئِمُ بِكُلِّ مَقَامٍ بِكَمَالِ الْاِمْتِنَانِ، الْخَاتِمِ لِرُسُلِكَ الْكِرَامِ، الْمُحِيْطِ بِمَوَادِ الْاِنْعَامِ، الرَّسُوْلِ لِلظَّوَاهِرِ بِالْجَمَالِ الْبُشْرٰى وَ الْاِشْرَاقِ الظُّهُوْرِىِّ وَلِلْبَوَاطِنِ بِالنُّوْرِ السَّنِىِّ وَ الْعَيْشِ الْهَنِىِّ، اَلشَّاهِدِ عَلٰى كُلِّ رَسُوْلٍ وَّ الْمُبَلِّغِ لِنِهَايَةِ السُّؤْلِ، الَّذِىْ شَهِدَكَ بِعَيْنِ رَاْسِهٖ وَ خَصَّصْتَهُ بِذٰلِكَ تَمْيِيْزًا لَّهٗ فِىْ حَضْرَةِ قُدْسِهٖ، اَلضَّحُوْكِ لِلُطْفِهٖ وَ مَظْهَرِ اِمْتِنَانِهٖ، اَلْعَالِىْ بِاِشْرَاقِ نُوْرِكَ عَلٰى صَفْحَاتِ وَجْهِهٖ وَ ثَنَايَاهُ وَلِسَانِهٖ، اَلْعَاقِبِ لِلرُّسُلِ الْكِرَامِ فِى الصُّوَرِ، الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِمْ بِالْمَكَانَةِ وَ الْمَكَانِ وَ الْمُفَصَّلِ وَ فَوَاتِحِ وَ خَوَاتِمِ السُّوَرِ، الْفَاتِحِ لِلْمُقَفَّلَاتِ، الْقَآئِمِ بِحَلِّ الْمُعْضَلَاتِ، الْقَتَّالِ لِكُلِّ غَوِىٍّ، وَ الْمُزِيْلِ لِكُلِّ دَنِىٍّ، الْقِسْمِ الَّذِىْ تَمَّ بِهٖ كُلُّ ظُهُوْرٍ، وَ جَمَعَ كُلُّ نُوْرٍ، اَلْمَاحِىْ لِظَلَامِ الشِّرْكِ وَ الشُّكُوْكِ وَ الْاَوْهَامِ، الْمُوَصِّلِ لِدَارِ السَّلَامِ، الْمُصْطَفٰى عَلٰى كُلِّ الْاَنَامِ، الْمُبَشِّرِ بِلِقَآءِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ وَ فَوَاتِحِ الْاَنْعَامِ وَ خَوَاتِمِ الْاِسْلَامِ، مِنَ السَّلَامِ بِدَارِ السَّلَامِ، الْمُتَوَكِّلِ بِحَالِهٖ اَلْمَظْهَرِ لِذٰلِكَ فِىْ مَقَالِهٖ، لِئَلَّا يَأْلَفَ الْخَلْقُ سِوَاكَ، فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلَّا اِلَيْكَ، وَلَا يَعْتَمِدُوْنَ اِلَّا عَلَيْكَ، وَلَا يُؤَمِّلُوْنَ اِلَّا اِيَّاكَ، اَلْمُقَنَّعِ بِقِنَاعِ بَهَآءِ نُوْرِكَ فِىْ مَعَالِىْ مُعَالِمِ ظُهُوْرِكَ، اَلنَّبِىِّ الَّذِىْ اَنْبَأْتَهٗ بِكَ فَاَنْبَاَ عَنْكَ، النَّذِيْرِ لِمَنْ عَصَاكَ بِتَخْوِيْفِهٖ بِكَ مِنْكَ نَبِىِّ التَّوْبَةِ الَّتِىْ قَبِلْتَهَا مَنْ اُمَّتِهٖ بِلَا قَتْلٍ ظَاهِرٍ لِلنُّفُوْسِ، مِنْ غَيْرِ مُشَقَّةٍ وَّلَا بُؤْسٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ الَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَ اِنْقَاذِ الْهَالِكِيْنَ، نَبِىِّ الْمَلَاحِمِ الْعُظْمٰى وَ مَوَاقِعِ الْخَيْرِ الْاَهْمٰى، اَلَّذِىْ هَدَيْتَ بِهٖ مَنْ كَانَ عَنْهُ اَعْمٰى وَ فَتَحْتَ بِهٖ آذَانًا صُمًّا وَّ اَعْيُنًا عُمْيًا وَّ قُلُوْبًا غُلْقًا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۰ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ {دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

157 اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ۔

- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللّٰهِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَآ اِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَآئِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِنَّةَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيًا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ وَّصَفَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهٖ {وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ} {بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ}۔
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى سَآئِرِ الْاَنْبِيَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اٰلِكَ وَ اَهْلِ بَيْتِكَ وَ اَزْوَاجِكَ وَ اَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ وَ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ، جَزَى اللّٰهُ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ، جَزَاكَ اللّٰهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ، اَفْضَلَ وَ اَكْمَلَ مَا صَلّٰى عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَ خِيَرَتُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَ جَاهَدْتَّ فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ وَ كُنْتَ كَمَا نَصَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّاتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ {رَبَّنَآ آمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ} اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَقَرَّ عَيْنَيَّ بِرُؤْيَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَوْضَتِكَ وَ حَضْرَتِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔

اَلْوِرْدُ السَّادِسُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}

158 اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِمَظَاهِرِ ذَاتِكَ وَ صِفَاتِكَ عَلٰى مَجْمَعِ الْحَقَآئِقِ الْاِلٰهِيَّةِ، وَ عَرْشِ الْاَسْمَآءِ الْحَقِيَّةِ وَ الْخَلْقِيَّةِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ الْاِمَامِ الْمُبِيْنِ الْمُحْصٰى فِيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ نُقْطَةِ تَرْكِيْبِ حُرُوْفِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رَسُوْلِكَ مَظْهَرِ التَّعَيُّنَاتِ وَ مَبْدَأِ الْمُبْدَعَاتِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَفِيِّكَ مَنْشَأِ التَّصْوِيْرِ وَ التَّكْوِيْنِ وَ التَّقْدِيْرِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حَبِيْبِكَ الْقَلَمِ الْاَعْلٰى، وَ الطَّرِيْقِ الْاَجْلٰى، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى خَلِيْلِكَ الرَّتْقِ الْمَفْتُوْقِ مِنْهُ جَمِيْعُ الْعَوَالِمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَصْلِ الْحُرُوْفِ الْعَالِيَةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَوَّلِ تَعَيُّنٍ لَكَ فِي الْمُبْدَعَاتِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرُّوْحِ الْاَعْظَمِ اَبِي الْاَرْوَاحِ وَ سَيِّدِ الْاَشْبَاحِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَبْدَأِ الْمَحَبَّةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَ مَنْشَأِ الْمَعْرِفَةِ الذَّاتِيَّةِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْعَقْلِ الْاَوَّلِ وَ النُّوْرِ الْاَكْمَلِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاِنْسَانِ الْكَامِلِ وَ الْخَلِيْفَةِ الْعَادِلِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْوَاسِطَةِ الْاَعْظَمِ وَ الرَّسُوْلِ الْاَفْخَمِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْفَيْضِ الْاِلٰهِيِّ وَ الْمَدَدِ الرَّبَّانِيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرُّوْحِ الْقُدْسِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُسْتَوِى الرَّحْمَانِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْمَعِ الْقَبْضَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَّئِيْسِ اَهْلِ الْيَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْدَأِ الْفَيَاضِ مِنْ حَضْرَتِهٖ اِلٰى اَهْلِ عِنَايَتِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاهِبِ الْخُصُوْصِيَّاتِ لِاَهْلِ وِلَايَتِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْكَثِيْبِ الَّذِىْ مِنْهُ وُجُوْدُ كُلِّ مَوْجُوْدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَابِ قَوْسَيِ الْاَسْمَآءِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ بِكَمَالِكَ وَجَمَالِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَشْرَفِ الْمَوْجُوْدَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّجْمَعِ مَظَاهِرِ الذَّاتِ وَالْاَسْمَآءِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْعَمَآءِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْكَنْزِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْاُلُوْهِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ اللَّاهُوْتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُمْنٰى فِى الْاٰخِرَةِ وَالدُّنْيَا وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْقَبْضَةِ الْيُسْرٰى فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْاَفْعَالِ الْحَقِيَّةِ وَالْخَلْقِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قُوَى الْاَسْمَآءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَظْهَرْ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْاَنِيَّةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْهُوِيَّةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْاَحَدِيَّةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَظَاهِرِ الْوَاحِدِيَّةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اِتِّصَالِ كُلِّ اِسْمٍ اِلٰى مَوْجُوْدٍ وَّ مَعْدُوْمٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ اَنْفَاسِ اَهْلِ النَّعِيْمِ اَوْ مَا يَكُوْنُ مِنْ مَّطَالِبِهِمْ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى وَالْوَاسِطَةِ الْعُظْمٰى فِى الدُّنْيَا وَالْاُخْرٰى وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمِعْرَاجِ الذَّاتِىِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْمُشَافَهَةِ وَالْمُكَالَمَةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالنِّيَابَةِ الْعُظْمٰى وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِالْخِلَافَةِ الْكُبْرٰى وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِىِّ السَّارِىْ سِرُّهٗ فِىْ جَمِيْعِ الْاَسْمَآءِ وَالصِّفَاتِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجَوْهَرِ السَّامِىْ اِلٰى كُلِّ حَضْرَةٍ وَّ عَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ دَآئِرَةِ الرَّحْمَةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَالْهِدَايَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ السُّبُلِ الْجَمَالِيَّةِ وَالْجَلَالِيَّةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَابِقِ الْخَلْقِ فِىْ مِضْمَارِ الْقُرْبَةِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ مِحْرَابِ حَضْرَةِ الْحَقِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِمَامِ طَاعَةِ الرَّبِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَدَمِ الْعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيْقِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ يَّمِيْنِ التَّشْرِيْعِ وَالتَّعْلِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّجْهِ الْوِلَايَةِ وَالتَّعْرِيْفِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ التَّوْحِيْدِ وَالتَّفْرِيْدِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْمُشَاهَدَةِ وَالتَّفْهِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَالَبِ الْمَعَانِيْ وَالْمَعْنَوِيَّاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعِنَايَةِ الْاِلٰهِيَّةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَكْلِ التَّحْمِيْدِ وَالتَّمْجِيْدِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صُوْرَةِ التَّكْبِيْرِ وَالتَّنْزِيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ هَيُوْلَى التَّخْلِيْقِ وَالتَّقْطِيْرِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّادَةِ الْاِبْدَاعِ وَالتَّكْوِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَعَزِّ الْاَبْهٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْاَبْلَجِ الَّذِيْ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْاَلِفِ الْجَمْعِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الٓمّٓ ظَاهِرِ الْخَلْقِ وَبَاطِنِ الْحَقِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقَافِ الْمُحِيْطِ بِكُلِّ مَوْجُوْدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَقْلِ الْاَكْمَلِ وَالْعِلْمِ الْاَفْضَلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوِلَايَةِ وَالْعِنَايَةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَهَآءِ وَالسَّنَآءِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّفَاتِ الْحُسْنٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمْدِ وَالثَّنَآءِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الْعَالِيَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَاتِمِ وَالْعَلَامَةِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُقَلَّبِ {اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰہِ} وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُمَنْطِقِ {مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ} وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُدَّثِّرِ {مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ} وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُزَّمِّلِ {قُلْ یٰٓاَیُّھَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا} وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَرَضّٰی {وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی} وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَطَیْلَسِ {لَعَمْرُكَ اِنَّھُمْ لَفِیْ سَكْرَتِھِمْ یَعْمَھُوْنَ} وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَوَّلِ خَلِیْفَةٍ لَّہٗ فِیْ عَالَمِ الْعَنَاصِرِ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی جَمِیْعِ الْاَنْبِیَآءِ وَ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْوُرَثَآءِ وَ التَّابِعِیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْاَوْلِیَآءِ وَ الصَّالِحِیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الشُّھَدَآءِ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْمَحْبُوْبِیْنَ وَ الْمُقَرَّبِیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْمَلَآئِكَةِ الْعَالِیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْمَلَآئِكَةِ اللَّاھُوْتِیِّیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْمَلَآئِكَةِ النَّاسُوْتِیِّیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْمَلَآئِكَةِ الرَّحْمَانِیِّیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَی الْمَلَآئِكَةِ الْجَبَرُوْتِیِّیْنَ وَ عَلٰی آلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الثَّقَلَیْنِ وَ سَیِّدِ الْفَرِیْقَیْنِ وَ رُوْحِ الطَّرِیْقَیْنِ حَقِیْقَةِ الْحَقَآئِقِ وَ اِنْسَانِ عَیْنِ الْخَلَآئِقِ۔

اَللّٰھُمَّ وَ اجْعَلْنَا بِفَضْلِكَ لَہٗ مِنَ التَّابِعِیْنَ، وَ اِلٰی سُنَّتِہٖ وَ طَرِیْقَتِہٖ مِنَ الْمُقْتَفِیْنَ، وَ عَلٰی حَوْضِہٖ مِنَ الْوَارِدِیْنَ، وَ اِلٰی قَدَمِہٖ مِنَ الْوَاصِلِیْنَ، وَ بِحُبِّكَ وَ حُبِّہٖ مِنَ الْمَشْغُوْلِیْنَ، وَ اِلٰی طَلَبِكَ قَاصِدِیْنَ، وَ فِیْمَا عِنْدَكَ

رَاغِبِيْنَ وَاِلَيْكَ مُتَوَجِّهِيْنَ، وَعَلٰى مَا يُرْضِيْكَ مُقِيْمِيْنَ، وَعَمَّنْ سِوَاكَ مُنْقَطِعِيْنَ وَبِكَ مَتَوَلِّعِيْنَ، وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ قِبَلِهٖ لَكَ شَاهِدِيْنَ، وَبِمَآ اَعْطَيْتَنَا رَاضِيْنَ، وَفِيْ جَمَالِكَ مُسْتَغْرِقِيْنَ، وَفِيْ كَمَالِكَ مُسْتَهْلِكِيْنَ، وَ بِجَمَالِكَ عَارِفِيْنَ، وَبِكُلِّ نَاطِقٍ لَّكَ سَامِعِيْنَ، وَبِكُلِّ مُبْصِرٍ لَّكَ مُبْصِرِيْنَ۔

اِجْعَلْنَا اَللّٰهُمَّ مِمَّنْ وَّسِعَكَ فِيْ كُلِّ مَظْهَرٍ لَّكَ، فَلَمْ يُنْكِرْكَ فِيْ شَيْءٍ صَدَرَ عَنْكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

- صَلِّ عَلٰى قُرَّةِ عَيْنِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَتَقَبَّلْنَا بِجَاهِهٖ اٰمِيْنَ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ
- وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۰ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}۔

159 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِيْ اَدْرِكْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔

160 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاتَكَ الْقَدِيْمَةَ الْاَزَلِيَّةَ الدَّآئِمَةَ الْبَاقِيَةَ الْاَبَدِيَّةَ الَّتِيْ صَلَّيْتَهَا فِيْ حَضْرَةِ عِلْمِكَ الْقَدِيْمِ، الَّذِيْ اَنْزَلْتَهٗ بِمَلٰٓئِكَتِكَ فِيْ حَضْرَةِ كَلَامِكَ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، فَقُلْتَ بِاللِّسَانِ الْمُحَمَّدِيِّ الرَّحِيْمِ {اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ} وَخَاطَبْتَنَا بِهَا مَعَ السَّلَامِ تَتْمِيْمًا لِّلْاِكْرَامِ مِنْكَ لَنَا وَالْاِنْعَامِ، فَقُلْتَ {يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} فَقُلْتَ اِمْتِثَالًا لِّاَمْرِكَ وَرَغْبَةً فِيْمَا عِنْدَكَ مِنْ اَجْرِكَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، صَلَاةً دَآئِمَةً ۢ بَاقِيَةً اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، حَتّٰى نَجِدَهَا وِقَايَةً لَّنَا مِنْ نَّارِ الْجَحِيْمِ وَمُوْصِلَةً لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى دَارِ النَّعِيْمِ وَرُؤْيَةِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ يَا عَظِيْمُ۔

161 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ، الرَّسُوْلِ الْكَامِلِ، الرَّحْمَةِ الشَّامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَحْبَابِهٖ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللّٰهِ بِدَوَامِ اللّٰهِ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ يَا رَبَّنَا رِضَآءً وَّلِحَقِّهٖ اَدَآءً وَاَسْئَلُكَ بِهٖ مِنَ الرَّفِيْقِ اَحْسَنَهٗ وَمِنَ الطَّرِيْقِ اَسْهَلَهٗ وَمِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهٗ وَمِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهٗ وَمِنَ الْمَكَانِ اَفْسَحَهٗ وَمِنَ الْعَيْشِ اَرْغَدَهٗ وَمِنَ الرِّزْقِ اَطْيَبَهٗ وَاَوْسَعَهٗ۔

162 نَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلٰى نُوْرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَسِرِّ اَسْرَارِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَمَا حَوَاهُمَا، اَلْمَنْعُوْتِ بِالْحَقِّ، وَالْمُصْطَفٰى مِنَ الْخَلْقِ، مَظْهَرِ جُمْلَةِ الْاَسْمَآءِ، وَمِرْاٰةِ وَجْهِ الْمُسَمّٰى، حَامِلِ لِوَآءِ الْاَمَانَةِ، الْمَوْصُوْفِ بِالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ حَبِيْبِكَ الْمُجْتَبٰى، وَرَسُوْلِكَ الْمُنْبَا، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِمِ بِحَمْدِكَ اَبَدًا، وَّالْمَحْمُوْدِ بِمَدْحِكَ سَرْمَدًا، وَّاَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ ۢ بَابِهٖ يَا وَاحِدُ يَآ اَحَدُ اِلٰى حَضْرَةِ الْهِدَايَةِ وَالْاِهْتِدَآءِ۔

وَنَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلٰى اُنْمُوْذَجِ الْحَقَآئِقِ الْعَلِيَّةِ، وَمَجْلَى التَّعَيُّنَاتِ الثُّبُوْتِيَّةِ، وَمَحْتِدِ الْهَيُوْلَاتِ الْاِمْكَانِيَّةِ، وَرُوْحِ الْاَرْوَاحِ الْاَكْوَانِيَّةِ وَجَوْهَرِ الطَّبِيْعَةِ الْكُلِّيَةِ الْعَنْصَرِيَّةِ، مَظْهَرِ اللَّاهُوْتِ الْغَيْبِيِّ، وَسِرِّ النَّاسُوْتِ الْعَيْنِيِّ، حَامِلِ اللِّوَآءِ، وَالْقَآئِمِ بِجَمِيْعِ الْاٰلَآءِ، صَلَاةً يَّسْتَحِقُّهَا عَظِيْمُ شَاْنِهٖ وَمَا حَوٰى، وَ

اَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ يَا سَامِعَ السِّرِّ وَ النَّجْوٰى۔

وَ نَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى نُقْطَةِ بِيْكَارِ دَآئِرَةِ الْاَكْوَانِ، وَ مَجْلٰى حَقَآئِقِ وَ رَقَآئِقِ الْاَزْمَانِ، اَلْمُتَخَلِّقِ وَ الْمُتَحَقِّقِ بِجَمِيْعِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ، وَ الْمُخَاطَبِ بِجَمِيْعِ مَعَانِي الْعِرْفَانِ، اَلْعَلِيْمِ بِحَقِيْقَةِ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْاَكْوَانِ، عَلٰى مَمَرِّ الدُّهُوْرِ وَ الْاَزْمَانِ، حَامِلِ لِوَآءِ رَحْمَةِ الرَّحْمٰنِ، وَ الْمَخْصُوْصِ بِشَفَاعَةِ فَصْلِ الْقَضَآءِ لِلْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، مَنْ يَّقُوْلُ اَنَا لَهَا فَيُكْرَمُ مِنَ اللهِ بِالْمَطْلُوْبِ وَلَا يُهَانُ وَ اَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ۔

وَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى مُمِدِّ الْاَرْوَاحِ، وَ مُفِيْضِ النُّوْرِ عَلَى الْاَشْبَاحِ، وَ هَادِي الْمُضِلِّيْنَ اِلٰى طُرُقِ الْفَلَاحِ، حَاوِيْ حَضْرَةِ اَبِي الْاَرْوَاحِ، وَ حَامِيْ حَوْمَةِ اُمِّ الْاَشْبَاحِ، فَمَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ حَامِلِ لِوَآءِ الْفَتْحِ مِنَ الْفَتَّاحِ، الْمَخْصُوْصِ بِالْكَوْثَرِ وَ النَّحْرِ وَ الْفَلَاحِ، وَ اَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَةِ الْعِيَانِ وَ الْكِفَاحِ۔

وَ نَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى مَنْ تَشَرَّفَ بِهِ الْمَكَانُ وَ الْاِمْكَانُ، وَ قُمِعَ بِهٖ اَهْلُ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ وَ الطُّغْيَانِ، الْهَادِيْ اِلٰى صِرَاطِكَ فِي السِّرِّ وَ الْاِعْلَانِ، وَ الْمَوْعُوْدِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ دُوْنَ الْاَنَامِ مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجَآنِّ، حَامِلِ لِوَآءِ الْاِنْسِ الْمَحْمُوْلِ لِحَضْرَةِ الْقُدُسِ مِنَ الدَّيَّانِ۔

اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اَوْرِدْنَا حَوْضَهٗ وَ اسْقِنَا مِنْ يَّدِهٖ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهَآ اَبَدًا وَّ اَدْخِلْنَا مِنْ بَابِهٖ اِلٰى حَضْرَتِكَ بِمَنِّكَ وَ كَرَمِكَ يَا مَنَّانُ۔

163 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَشَرَّفَتْ بِهٖ جَمِيْعُ الْاَكْوَانِ۔

- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَظْهَرْتَ بِهٖ مَعَالِمَ الْعِرْفَانِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَوْضَحَ دَقَآئِقَ الْقُرْآنِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْاَعْيَانِ وَ السَّبَبِ فِيْ وُجُوْدِ كُلِّ اِنْسَانٍ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ شَيَّدَ اَرْكَانَ الشَّرِيْعَةِ لِلْعَالَمِيْنَ وَ اَوْضَحَ اَفْعَالَ الطَّرِيْقَةِ لِلسَّآئِلِيْنَ، وَ رَمَزَ فِيْ عُلُوْمِ الْحَقِيْقَةِ لِلْعَارِفِيْنَ۔
- فَصَلِّ وَ سَلِّمْ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَلِيْقُ بِجَنَابِهِ الشَّرِيْفِ، وَ مَقَامِهِ الْمُنِيْفِ، وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا دَآئِمًا يَآ اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ زَيَّنَ مَقَاصِيْرَ الْقُلُوْبِ، وَ اَظْهَرَ سَرَآئِرَ الْغُيُوْبِ، بَابِ كُلِّ طَالِبٍ وَّ دَلِيْلِ كُلِّ مَحْجُوْبٍ۔
- فَصَلِّ وَ سَلِّمْ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ الْاَكْوَانِ عَلَى الْوُجُوْدِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنْ اَفَاضَ عَلَيْنَا بِاِمْدَادِهٖ سَحَآئِبَ الْجُوْدِ، يَآ اَللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ۔

- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃً تُدْنِیْ بَعِیْدَنَا اِلَی الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِیَّۃِ، وَ تَذْھَبُ بِقَرِیْبِنَآ اِلٰی مَالَا نِھَایَۃَ لَہٗ مِنَ الْمَقَامَاتِ الْاِحْسَانِیَّۃِ۔
- وَ صَلِّ اَللّٰھُمَّ عَلَیْہِ صَلَاۃً تَنْشَرِحُ بِھَا الصُّدُوْرُ، وَ تَھُوْنُ بِھَا الْاُمُوْرُ، وَ تَنْکَشِفُ بِھَا السُّتُوْرُ وَ سَلِّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔

164 اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّنِ افْتَتَحْتَ بِہٖ وُجُوْدَ الْخَلَآئِقِ طُرًّا، وَ خَتَمْتَ بِہٖ عِقْدَ النُّبُوَّۃِ الْغَرَّا، وَ جَعَلْتَہٗ اَعْلَی النَّبِیِّیْنَ فَضْلًا وَّ اَعْظَمَھُمْ اَجْرًا، وَّ خَلَقْتَ جَمِیْعَ الْاَنْوَارِ مِنْ نُّوْرِہٖ فَزَادَتْ رُتْبَتُہٗ بِذٰلِکَ قَدْرًا، صَلَاۃً وَّ سَلَامًا دَآئِمَیْنِ لَآئِقَیْنِ بِتِلْکَ الْحَضْرَۃِ الْعَلِیِّ ، عَدَدَ اَفْرَادِ اَنْوَاعِ الْبَرِیَّۃِ، مَا ظَھَرَ فِی الْوُجُوْدِ مِنْھَا وَ مَا بَطَنَ، وَ مَا تَحَرَّکَ وَ مَا سَکَنَ، وَ عَدَدَ مَا لَکَ فِیْ خَلْقِکَ مِنْ اِفْضَالٍ وَّ مِنَنٍ، وَ عَدَدَ کُلِّ عَدَدٍ وَقَعَ وَ سَیَقَعُ فِی الْمُلْکِ وَ الْمَلَکُوْتِ اِنْ اُرِیْدَتْ اِحَاطَتُہٗ لَا یُحْصٰی، اَوْ جُمِعَ اَنْوَاعُ جُمَلِہٖ وَ اَفْرَادِہٖ بَعْدَ لَا یَسْتَقْصٰی۔

اَللّٰھُمَّ اشْرَحْ بِھَا صُدُوْرَنَا، وَ یَسِّرْ بِھَآ اُمُوْرَنَا، وَ اَخْرِجْنَا بِھَا مِنْ کُلِّ ضِیْقٍ وَّ عُسْرٍ، اِلٰی کُلِّ فَرَجٍ وَّ یُسْرٍ، وَ قَرِّبْنَا بِھَا قُرْبَۃً نَصِیْرُ بِھَا لَدَیْکَ مِنْ اَعْلَی الْمُقَرَّبِیْنَ، وَ اکْتُبْنَا عِنْدَکَ مِنَ الْمَحْبُوْبِیْنَ، وَ اَبْعِدْنَا عَنْ دِیْوَانِ الْبُعَدَآءِ وَ الْمَطْرُوْدِیْنَ، وَبَارِکْ اَللّٰھُمَّ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

165 اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃَ الرِّضَا وَ ارْضَ عَنْ اَصْحَابِہٖ رِضَآءَ الرِّضَا۔

- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَرِیْمِ الْاٰبَآءِ وَ الْاُمَّھَاتِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ صَلَاۃً تَلِیْقُ بِجَمَالِہٖ وَ جَلَالِہٖ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَذِقْنَا بِالصَّلَاۃِ عَلَیْہِ لَذَّۃَ وِصَالِہٖ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَ دَوَآئِھَا، وَ عَافِیَۃِ الْاَبْدَانِ وَ شِفَآئِھَا، وَ نُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِیَآئِھَا، وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی وَ صَحْبِہٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا وَ اَجْرِ یَارَبِّ لُطْفَکَ الْخَفِیَّ فِیْ اُمُوْرِنَا وَ الْمُسْلِمِیْنَ اَجْمَعِیْنَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاۃَ اَھْلِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرَضِیْنَ عَلَیْہِ وَ اَجْرِ یَارَبِّ لُطْفَکَ الْخَفِیَّ فِیْ اَمْرِیْ وَ الْمُسْلِمِیْنَ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔
- اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِکْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِہٖ اُمَّھَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمَنَاقِبِ الْفَاخِرَةِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّخَلِّقْنَا بِاَخْلَاقِهِ الطَّاهِرَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِى الْمَقَامَاتِ الْجَلِيْلَةِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّخَلِّقْنَا بِاَخْلَاقِهِ الْجَمِيْلَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّهَبْ لَنَا قَلْبًا شُكُوْرًا۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاجْعَلْ سَعْيَنَا مَشْكُوْرًا۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّلَقِّنَا نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاَلْقِ عَلَيْنَا مِنْكَ مَحَبَّةً وَّنُوْرًا۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّهَبْ لَنَا سِرًّا بِالْاَسْرَارِ مَسْرُوْرًا۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالصَّادِقِ الْاَمِيْنِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ جَآءَ بِالْحَقِّ الْمُبِيْنِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ اَجْمَعِيْنَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى سَآئِرِ اَنْبِيَآئِكَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مَلَآئِكَتِكَ وَاَوْلِيَآئِكَ، مِنْ اَرْضِكَ وَسَمَآئِكَ، عَدَدَ مَا كَانَ وَعَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَعَدَدَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِىْ عِلْمِ اللهِ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ، وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ، وَاجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ الْاٰمِنِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔

166 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سُلَّمِ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، الْمَنْطُوِيَّةِ فِى الْحُرُوْفِ الْقُرْاٰنِيَّةِ، مَهْبَطِ الرَّقَآئِقِ الرَّبَّانِيَّةِ، النَّازِلَةِ مِنَ الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ، الْمُفَصِّلَةِ فِى الْاَنْوَارِ بِالنُّوْرِ الْمُتَجَلِّيَةِ فِىْ لُبَابِ بَوَاطِنِ الْحُرُوْفِ الْقُرْاٰنِيَّةِ الصِّفَاتِيَّةِ، فَهُوَ النَّبِيُّ الْعَظِيْمُ، مَرْكَزُ حَقَآئِقِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، مُفِيْضُ الْاَنْوَارِ اِلٰى حَضَرَاتِهِمْ مِنْ حَضْرَتِهِ الْمَخْصُوْصَةِ الْخَتْمِيَّةِ، شَارِبُ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ مِنْ ، بَاطِنِ بَاطِنِ الْكِبْرِيَآءِ مُوْصِلُ الْخُصُوْصِيَّاتِ الْاِلٰهِيَّاتِ اِلٰى اَهْلِ الْاِصْطِفَآءِ مَرْكَزِ دَآئِرَةِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْاَوْلِيَآءِ مُنَزِّلُ النُّوْرِ بِالنُّوْرِ الْمُشَاهِدُ بِالذَّاتِ،

الْمَكَاشِفُ بِالصِّفَاتِ، الْعَارِفُ بِظُهُوْرِ تَجَلِّي الذَّاتِ، فِي الْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ، الْعَارِفُ بِظُهُوْرِ الْقُرْآنِ الذَّاتِيِّ فِي الْفُرْقَانِ الصِّفَاتِيِّ، فَمِنْ هٰهُنَا ظَهَرَتِ الْوَحْدَتَانِ الْمُتَعَاكِسَتَانِ الْهَاوِيَتَانِ عَلَى الطَّرَفَيْنِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللَّطِيْفَةِ الْقُدْسِيَّةِ، الْمَكْسُوَّةِ بِالْاَكْسِيَّةِ النُّوْرَانِيَّةِ السَّارِيَةِ فِي الْمَرَاتِبِ الْاِلٰهِيَّةِ، الْمُتَكَمِّلَةِ بِالْاَسْمَآءِ وَ الصِّفَاتِ الْاَزَلِيَّةِ وَ الْمُفِيْضَةِ اَنْوَارِهَا عَلَى الْاَرْوَاحِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ، الْمُتَوَجِّهَةِ فِي الْحَقَآئِقِ الْحَقِيَّةِ، النَّافِيَةِ لِظُلُمَاتِ الْاَكْوَانِ الْعَدَمِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالْكَاشِفِ عَنِ الْمُسَمّٰى بِالْوَحْدَةِ الذَّاتِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْاِجْمَالِ الذَّاتِيِّ الْفُرْقَانِيِّ، حَاوِي التَّفْصِيْلِ الصِّفَاتِيِّ الْقُرْقَانِيِّ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصُّوْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَآءِ قُدْسِ غَيْبِ الْهُوِيَّةِ الْبَاطِنَةِ الْفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا الْاِلٰهِيِّ لِاَبْوَابِ الْوُجُوْدِ الْقَآئِمِ بِهَا مِنْ مَّطْلَعِ ظُهُوْرِهَا الْقَدِيْمِ اِلَى اِسْتِوَآءِ اِظْهَارِهَا لِلْكَلِمَاتِ التَّآمَّاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى حَقِيْقَةِ الصَّلَوَاتِ، وَ رُوْحِ الْكَلِمَاتِ قِوَامِ الْمَعَانِي الذَّاتِيَّاتِ، وَ حَقِيْقَةِ الْحُرُوْفِ الْقُدْسِيَّاتِ، وَ صُوَرِ الْحَقَآئِقِ الْفُرْقَانِيَّةِ التَّفْصِيْلِيَّاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَمْعِيَّةِ الْبَرْزَخِيَّةِ الْكَاشِفَةِ عَنِ الْعَالَمِيْنَ، الْهَادِيَةِ بِهَآ اِلَيْهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً لِّكُلِّ قَلْبٍ مُّنِيْبٍ اِلٰى صِرَاطِهَا الرَّبَّانِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ فِي الْحَضْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّوْصِلِ الْاَرْوَاحِ بَعْدَ عَدَمِهَا اِلٰى نِهَايَاتِ غَايَاتِ الْوُجُوْدِ وَ النُّوْرِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ الْاَرْوَاحِ الْاَزَلِيَّةِ فِي الْمَدَارِجِ الظُّهُوْرِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ لِوُجُوْدِيَّةِ، الذَّاهِبَةِ بِظُلُمَاتِ الطَّبَآئِعِ الْحِسِّيَّةِ وَ الْمَعْنَوِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّسْتَقَرِّ بُرُوْزِ الْمَعَانِي الرَّحْمَانِيَّةِ، مِنْهَا خَرَجَتِ الْخُلَّةُ الْاِبْرَاهِيْمِيَّةُ، وَ مِنْهَا حَصَلَ النِّدَآءُ بِالْمَعَانِي الْقُدْسِيَّةِ لِلْحَقِيْقَةِ الْمُوْسَوِيَّةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ جَعَلْتَ وُجُوْدَكَ الْبَاقِيْ عِوَضًا عَنْ وُّجُوْدِهِ الْفَانِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ سَلِّمْ۔

167 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُّقْطَةِ دَآئِرَةِ الْوُجُوْدِ، وَ حِيْطَةِ اَفْلَاكِ مَرَاقِي الشُّهُوْدِ، اَلِفِ الذَّاتِ السَّارِيْ سِرُّهَا فِيْ كُلِّ ذَرَّةٍ، حَآءِ حَيَاةِ الْعَالَمِ الَّذِيْ جَعَلْتَ مِنْهُ مَبْدَأَهٗ وَ اِلَيْهِ مَقَرَّهٗ، مِيْمِ مُلْكِكَ

الَّذِیْ لَا یُضَاهِیْ، وَ دَالِ دَیْمُوْمِیَّتِكَ الَّتِیْ لَا تَتَنَاهٰی، مَنْ اَظْهَرْتَهٗ مِنْ حَضْرَةِ الْحُبِّ فَكَانَ مِنَصَّةً لِّتَجَلِّیَاتِ ذَاتِكَ، وَ اَبْرَزْتَهٗ بِكَ مِنْ نُّوْرِكَ فَكَانَ مِرْاٰةً لِّجَمَالِكَ الْبَاهِرِ فِیْ حَضْرَةِ اَسْمَآئِكَ وَ صِفَاتِكَ شَمْسِ الْكَمَالِ الْمُشْرِقِ نُوْرُهَا عَلٰی جَمِیْعِ الْعَوَالِمِ، الَّذِیْ كَوَّنْتَ مِنْهُ جَمِیْعَ الْمُكَوَّنَاتِ فَكُلٌّ مِّنْهَا بِهٖ قَآئِمٌ، مَنْ اَجْلَسْتَهٗ عَلٰی بِسَاطِ قُرْبِكَ، وَ خَصَّصْتَهٗ بِاَنْ كَانَ مِفْتَاحَ خَزَانَةِ حُبِّكَ، الْمَحْبُوْبِ الْاَعْظَمِ، السِّرِّ الظَّاهِرِ الْمُكَتَّمِ، الْوَاسِطَةِ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ مُكَوَّنَاتِكَ وَ السُّلَّمِ الَّذِیْ لَا یَرْقٰی اِلَّا بِهٖ فِیْ مُشَاهِدِ كَمَالَاتِكَ، وَ عَلٰی اٰلِهٖ یَنَابِیْعُ الْحَقَآئِقِ، وَ اَصْحَابِهٖ مَصَابِیْحُ الْهُدٰی لِكُلِّ الْخَلَآئِقِ، صَلَاةً مِّنْكَ عَلَیْهِ، مَقْبُوْلَةً بِكَ مِنَّا لَدَیْهِ، تَلِیْقُ بِذَاتِهٖ، تَغْمِسُنَا بِهَا فِیْ اَنْوَارِ تَجَلِّیَاتِهٖ، وَ تُطَهِّرُ بِهَا قُلُوْبَنَا، وَ تُقَدِّسُ بِهَآ اَسْرَارَنَا وَ تَرْقِیْ بِهَآ اَرْوَاحَنَا وَ تُعَمِّمُ بَرَكَاتُهَا عَلَیْنَا وَ عَلٰی مَشَایِخِنَا وَ وَالِدَیْنَا وَ اِخْوَانِنَا وَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُسْلِمِیْنَ، مَقْرُوْنَةً بِسَلَامٍ مِّنْكَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ، مَضْرُوْبَةً بِاَلْفَیْ اَلْفِ صَلَاةٍ وَّ تَسْلِیْمٍ عَلَی السَّیِّدِ الْاَمِیْنِ، وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ مِنْكَ فِیْ كُلِّ وَقْتٍ وَّ حِیْنٍ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

168 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰی عَلَیْهِ مِنْ خَلْقِكَ۔

- وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ مِنْ خَلْقِكَ۔
- وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّیَ عَلَیْهِ۔
- وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً زَاكِیَةً تَبْلُغُهُ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِیْلَةَ۔
- وَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهٗ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ حَیْثُمَا ذُكِرَ اللهُ۔
- اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَلَامَكَ الَّذِیْ سَلَّمْتَ عَلَیْهِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَلَآئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِیْنَ وَ عَلٰی اَنْبِیَآئِكَ الْمُطَهَّرِیْنَ وَ عَلٰی عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ وَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَ اَهْلِ الْاَرْضِیْنَ وَ خَصَّ سَیِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ بِاَفْضَلِ الصَّلَاةِ وَ اَشْرَفِ التَّسْلِیْمِ۔

169 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی نَبِیِّكَ وَ حَبِیْبِكَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اِخْوَانِهٖ وَ اٰلِهٖ صَلَاةً وَّ سَلَامًا نَّقْرَعُ بِهِمَآ اَبْوَابَ جَنَابِكَ وَ نَسْتَجْلِبُ بِهِمَآ اَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَ نُؤَدِّیْ بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهٖ عَلَیْنَا بِفَضْلِكَ وَ اِحْسَانِكَ اٰمِیْنَ۔

170 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِكُلِّ صَلَاةٍ تُحِبُّ اَنْ یُّصَلّٰی بِهَا عَلَیْهِ فِیْ كُلِّ وَقْتٍ یُّحِبُّ اَنْ یُّصَلّٰی بِهٖ عَلَیْهِ۔

- اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِكُلِّ سَلَامٍ تُحِبُّ اَنْ یُّسَلَّمَ بِهٖ عَلَیْهِ فِیْ كُلِّ وَقْتٍ یُّحِبُّ اَنْ یُّسَلَّمَ بِهٖ عَلَیْهِ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَیْنِ بِدَوَامِكَ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ كَذٰلِكَ عَلٰی ذٰلِكَ فِیْ كُلِّ ذٰلِكَ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اِخْوَانِهٖ۔

171 سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ زِنَةَ مَا خَلَقَ وَ زِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ مَا خَلَقَ وَ مِلْءَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَّ مِلْءَ سَمٰوَاتِهٖ وَ مِلْءَ اَرْضِهٖ وَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ ذٰلِكَ وَ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَ رِضَا نَفْسِهٖ وَ مُنْتَهٰى رَحْمَتِهٖ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ وَ مَبْلَغَ رِضَاهُ حَتّٰى يَرْضٰى وَ اِذَا رَضِيَ وَ عَدَدَ مَا ذَكَرَهٗ بِهٖ خَلْقُهٗ فِيْ جَمِيْعِ مَا مَضٰى وَ عَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوْهُ فِيْمَا بَقِيَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ وَّ شَهْرٍ وَّ جُمُعَةٍ وَّ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ وَّ سَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَ شَمٍّ وَّ نَفَسٍ مِّنَ الْاَنْفَاسِ، وَ اَبَدٍ مِّنَ الْاٰبَادِ مِنْ اَبَدِ اِلَى اَبَدِ الدُّنْيَا وَ اَبَدِ الْاٰخِرَةِ وَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَا يَنْقَطِعُ اَوَّلُهٗ وَلَا يَنْفَدُ اٰخِرُهٗ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّثْلَ ذٰلِكَ وَ اَضْعَافَ اَضْعَافِ ذٰلِكَ۔

172 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُ اللهِ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُ اللهِ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُ اللهِ وَ وَسِعَهٗ عِلْمُ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اَضْعَافَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدَ خَلْقِ اللهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَ رِضَا نَفْسِهٖ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ عَدَدَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَ تُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً دَائِمَةً ، بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ بَاقِيَةً ، بِبَقَاءِ اللهِ۔

173 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ اَمْوَاجِ الْبَحْرِ الدَّقِيْقِ۔

- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الرَّمْلِ الدَّقِيْقِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَيِّدِ اَهْلِ التَّوْفِيْقِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَيِّدِ اَهْلِ التَّحْقِيْقِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ سَيِّدِ اَهْلِ التَّدْقِيْقِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ حَسَنَاتِ اٰلِ الْبَيْتِ وَ عَدَدَ حَسَنَاتِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ تَابِعِيْهِمْ وَ تَابِعِيْ تَابِعِيْهِمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى اَقْوَمِ طَرِيْقٍ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَ مَا بَيْنَهُمَا حَتّٰى تَضِيْقَ۔

174 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ عَدَدَ مَا فِيْ

عِلْمِكَ، صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ۔

175 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ۔

176 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ قَدْرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَغْنِنَا وَاحْفَظْنَا وَوَفِّقْنَا لِمَا تَرْضَاهُ، وَاصْرِفْ عَنَّا السُّوْءَ وَارْضَ عَنِ الْحَسَنَيْنِ رَيْحَانَتَيْ خَيْرِ الْاَنَامِ وَعَنْ سَآئِرِ آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَئِمَّةِ الْهُدٰى وَمَصَابِيْحِ الظَّلَامِ، وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ، يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَآاَللهُ۔

177 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْيَاقُوْتَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ الْحَآئِطَةِ بِمَرْكَزِ الْفُهُوْمِ وَالْمَعَانِيْ، وَنُوْرِ الْاَكْوَانِ الْمُتَكَوَّنَةِ الْاٰدَمِيِّ صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِيِّ، الْبَرْقِ الْاَسْطَعِ بِمُزْنِ الْاَرْيَاحِ الْمَالِئَةِ لِكُلِّ مُتَعَرِّضٍ مِّنَ الْبُحُوْرِ وَالْاَوَانِيْ، وَنُوْرِكَ اللَّامِعِ الَّذِيْ مَلَاْتَ بِهٖ كَوْنَكَ الْحَآئِطَ بِاَمْكِنَةِ الْمَكَانِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَيْنِ الْحَقِّ الَّتِيْ تَنْجَلِيْ مِنْهَا عُرُوْشُ الْحَقَآئِقِ عَيْنَ الْمَعَارِفِ الْاَعْلَمِ، صِرَاطِكَ التَّآمِّ الْاَقْوَمِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى طَلْعَةِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ الْكَنْزِ الْاَعْظَمِ اِفَاضَتِكَ مِنْكَ اِلَيْكَ اِحَاطَةِ النُّوْرِ الْمُطَلْسَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ صَلَاةً تُعَرِّفُنَا بِهَآ اِيَّاهُ۔

178 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ۔

- وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَا يَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ۔
- وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَآ اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ۔

179 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ صَلَاةً تَعْدِلُ جَمِيْعَ صَلَوَاتِ اَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ سَلَامًا يَّعْدِلُ سَلَامَهُمْ۔

180 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ، الَّذِيْ مَلَاَ اَرْكَانَ عَرْشِ اللهِ الْعَظِيْمِ، وَقَامَتْ بِهٖ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيْمِ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ، وَعَلٰى آلِ نَبِيِّ اللهِ الْعَظِيْمِ، بِقَدْرِ عَظْمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيْمِ، فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفْسٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ، صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيْمِ تَعْظِيْمًا لِّحَقِّكَ يَا مَوْلَانَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالنَّفْسِ، ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا يَّقْظَةً وَّمَنَامًا وَاجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوْحًا لِّذَاتِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْاٰخِرَةِ يَا عَظِيْمُ۔

181 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى طَآمَّةِ الْحَقَآئِقِ الْكُبْرٰى، سِرِّ الْخَلْوَةِ الْاِلٰهِيَّةِ لَيْلَةِ الْاِسْرَا، تَاجِ لِلْمَمْلَكَةِ الْاِلٰهِيَّةِ، يَنْبُوْعِ الْحَقَآئِقِ الْوُجُوْدِيَّةِ بَصَرِ الْوُجُوْدِ، وَسِرِّ بَصِيْرَةِ الشُّهُوْدِ، حَقِّ الْحَقِيْقَةِ الْعَيْنِيَّةِ، وَهُوِيَّةِ الْمُشَاهِدِ الْغَيْبِيَّةِ، تَفْصِيْلِ الْاِجْمَالِ الْكُلِّيِّ، الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى فِي التَّجَلِّيِّ وَالتَّدَلِّيِّ، نَفَسِ الْاَنْفَاسِ الرُّوْحِيَّةِ، كُلِّيَّةِ الْاَجْسَامِ الصُّوْرِيَّةِ، عَرْشِ الْعُرُوْشِ الذَّاتِيَّةِ، صُوْرَةِ الْكَمَالَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ، لَوْحِ مَحْفُوْظِ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، وَسِرِّ كِتَابِكَ الْمَكْنُوْنِ، الَّذِيْ لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ، يَا فَاتِحَةَ الْمَوْجُوْدَاتِ، يَا جَامِعَ بَحْرَيِ الْحَقَآئِقِ الْاَزَلِيَّاتِ

وَ الْاَبَدِيَّاتِ، يَا عَيْنَ جَمَالِ الْاِخْتِرَاعَاتِ وَ الْاِنْفِعَالَاتِ، يَا نُقْطَةَ مَرْكَزِ جَمِيْعِ التَّجَلِّيَاتِ، يَا عَيْنَ حَيَاةِ الْحُسْنِ الَّذِيْ طَارَتْ مِنْهُ رَشَاشَاتٌ فَاقْتَسَمَتْهَا بِحُكْمِ الْمَشِيْئَةِ الْاِلٰهِيَّةِ جَمِيْعُ الْمُبْدَعَاتِ، يَا مَعْنٰى كِتَابِ الْحُسْنِ الْمُطْلَقِ الَّذِيْ اِعْتَكَفَتْ فِيْ حَضْرَتِهٖ جَمِيْعُ الْمَحَاسِنِ لِتَقْرَأَ حُرُوْفَ حُسْنِهِ الْمُقَيَّدَاتِ، يَا مَنْ اَرْخَتْ حَقَآئِقُ الْكَمَالِ كُلُّهَا بُرْقَعَ الْحِجَابِ دُوْنَ الْخَلْقِ وَ اجْمَعَتْ اَنْ لَّا تَنْظُرَ لِغَيْرِهٖ اِلَّا بِهٖ مِنْ جَمِيْعِ الْمُكَوَّنَاتِ، يَا مُصِبَّ يَنَابِيْعِ ثَجَّاجِ الْاَنْوَارِ السُّبْحَانِيَّاتِ الشَّعْشَعَانِيَّاتِ، يَا مَنْ تُعُشِّقَتْ بِكَمَالِهٖ جَمِيْعُ الْمَحَاسِنِ الْاِلٰهِيَّاتِ، يَا يَاقُوْتَةَ الْاَزَلِ يَا مِغْنَاطِيْسَ الْكَمَالَاتِ، قَدْ اَيِسَتِ الْعُقُوْلُ وَ الْفُهُوْمُ وَ الْاَلْسُنُ وَ جَمِيْعُ الْاِدْرَاكَاتِ، اَنْ تَقْرَاَ رُقُوْمَ مَسْطُوْرِ كُنْهِيَّاتِكَ الْمُحَمَّدِيَّةِ اَوْ تَصِلَ اِلٰى حَقِيْقَةِ مَكَوَّنَاتِ عُلُوْمِكَ اللَّدُنِّيَّاتِ، وَ كَيْفَ لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ مِنْ لَّوْحٍ مَحْفُوْظٍ كُنْهِكَ قَرَاَ الْمُقَرَّبُوْنَ كُلُّهُمْ حَقِيْقَةَ التَّجَلِّيَاتِ صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْكَ يَا زَيْنَ الْبَرَايَا يَا مَنْ لَّوْلَا هُوَ لَمْ تَظْهَرْ لِلْعَالَمِ عَيْنٌ مِنَ الْخَفِيَّاتِ.

182 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نُوْرِكَ اللَّامِعِ، وَ مَظْهَرِ سِرِّكَ الْهَامِعِ الَّذِيْ طَرَّزْتَ بِجَمَالِهِ الْاَكْوَانَ، وَ زَيَّنْتَ بِبَهْجَةِ جَلَالِهِ الْاَوَانَ، الَّذِيْ فَتَحْتَ ظُهُوْرَ الْعَالَمِ مِنْ نُّوْرِ حَقِيْقَتِهٖ، وَ خَتَمْتَ كَمَالَهٗ بِاَسْرَارِ نُبُوَّتِهٖ، فَظَهَرَتْ صُوَرُ الْحُسْنِ مِنْ فَيْضَةٍ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ، وَ لَوْلَا هُوَ مَا ظَهَرَتْ لِصُوْرَةٍ عَيْنٌ مِّنَ الْعَدَمِ الرَّمِيْمِ، الَّذِيْ مَا اسْتَغَاثَكَ بِهٖ جَآئِعٌ اِلَّا شَبِعَ وَلَا ظَمْاٰنٌ اِلَّا رُوِيَ وَلَا خَآئِفٌ اِلَّا اٰمِنَ وَلَا لَهْفَانٌ اِلَّا اُغِيْثَ وَ اِنِّيْ لَهْفَانٌ مُّسْتَغِيْثُكَ اَسْتَمْطِرُ رَحْمَتَكَ الْوَاسِعَةَ مِنْ خَزَآئِنِ جُوْدِكَ فَاَغِثْنِيْ يَا رَحْمٰنُ يَا مَنْ اِذَا نَظَرَ بِعَيْنِ حِلْمِهٖ وَ عَفْوِهٖ لَمْ يَظْهَرْ فِيْ جَنْبِ كِبْرِيَآءِ حِلْمِهٖ وَ عَظْمَةِ عَفْوِهٖ ذَنْبٌ، اِغْفِرْ لِيْ وَ تُبْ عَلَيَّ وَ تَجَاوَزْ عَنِّيْ يَا كَرِيْمُ.

183 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَيْنِ بَحْرِ الْحَقَآئِقِ الْوُجُوْدِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ اللَّاهُوْتِيَّةِ، وَ مَنْبَعِ الرَّقَآئِقِ اللَّطِيْفَةِ الْمُقَيَّدَةِ النَّاسُوْتِيَّةِ، صُوْرَةِ الْجَمَالِ، وَ مَطْلَعِ الْجَلَالِ، مَجْلَى الْاُلُوْهِيَّةِ وَ سِرِّ اِطْلَاقِ الْاَحَدِيَّةِ، عَرْشِ اِسْتِوَآءِ الذَّاتِ، وَجْهِ مَحَاسِنِ الصِّفَاتِ، مُزِيْلِ بُرْقُعِ حِجَابِ ظُلُمَاتِ اللُّبْسِ، بِطَلْعَةِ شَمْسِ حَقَآئِقِ كُنْهِ ذَاتِهِ الْاَنْفُسِ، عَنْ وَّجْهِ تَجَلِّيَاتِ الْكَمَالِ الْاِلٰهِيِّ الْاَقْدَسِ، كِتَابِ مَسْطُوْرِ جَمْعِ اَحَدِيَّةِ الذَّاتِ الْحَقِّ، فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرِ تَجَلِّيَاتِ الشُّؤُوْنِ الْاِلٰهِيَّةِ الْمُسَمّٰى كَثْرَةُ صُوَرِهَا بِالْخَلْقِ، جَانِبِ طُوْرِ الْحَقَآئِقِ الرُّوْحِيَّةِ الْاَيْمَنِ الْمُكَلَّمِ مِنْهُ مُوْسَى النَّفْسِ بِاَنَا اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فِيْ حَضْرَةِ الْقُدْسِ، يَا كَامِلَ الذَّاتِ، يَا جَمِيْلَ الصِّفَاتِ، يَا مُنْتَهَى الْغَايَاتِ، يَا نُوْرَ الْحَقِّ يَا سِرَاجَ الْعَوَالِمِ يَا مُحَمَّدُ يَا اَحْمَدُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ، جَلَّ كَمَالُكَ اَنْ يُّعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانٌ وَّ عَزَّ جَمَالُكَ اَنْ يَّكُوْنَ مُدْرَكًا لِلْاِنْسَانِ، وَ تَعَاظَمَ جَلَالُكَ اَنْ يَّخْطُرَ فِيْ جَنَانٍ، صَلَّى اللهُ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَا مَجْلَى الْكَمَالَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ الْاَعْظَمِ.

184 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سُلْطَانِ حَضَرَاتِ الذَّاتِ، مَالِكِ اَزِمَّةِ تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ، قُطْبِ رَحَى عَوَالِمِ الْاُلُوْهِيَّةِ، كَثِيْبِ الرُّؤْيَةِ يَوْمَ الزَّوْرِ الْاَعْظَمِ فِيْ مُشَاهِدِكَ الْجِنَانِيَّةِ، جِبَالِ مَوْجِ بِحَارِ اَحَدِيَّةِ الذَّاتِ، طِلَسْمِ كُنُوْزِ الْمَعَارِفِ الْاِلٰهِيَّاتِ، سِدْرَةِ مُنْتَهَى الْاِحَاطِيَّاتِ الْخَلْقِيَّاتِ الصِّفَاتِيَّاتِ، بَيْتِ مَعْمُوْرِ التَّجَلِّيَاتِ

الْكُنْهِيَّاتِ الذَّاتِيَاتِ، سَقْفِ مَرْفُوْعِ الْكَمَالَاتِ الْاَسْمَآئِيَّةِ، بَحْرٍ مَسْجُوْرِ الْعُلُوْمِ اللَّدُنِّيَّاتِ، حَوْضِ الْاُلُوْهِيَّةِ الْاَعْظَمِ الْمُمِدِّ لِبِحَارِ اَمْوَاجِ صُوَرِ الْكَوْنِ الظَّاهِرَةِ مِنْ فُيُوْضِ حَقَآئِقِ اَنْفَاسِهٖ، قَلَمِ الْقُدْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ الْعَظَمُوِيَّةِ الْكَاتِبِ فِيْ لَوْحِ نَفْسِهٖ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ مِنْ مَحَاسِنِ مُبْدَعَاتِ الْعَالَمِ وَ تَقَلُّبَاتِهٖ وَ مَجَالِ كُلِّ صُوْرَةٍ اِلٰهِيَّةٍ وَّ سِرِّ حَقِيْقَتِهَا غَيْبًا وَّ شَهَادَةً، وَ جَلَالِ كُلِّ مَعْنًى كَمَالِيْ بَدْأً وَّ اِعَادَةً، لِسَانِ الْعِلْمِ الْاِلٰهِيِّ الْمُطْلَقِ التَّالِيْ لِقُرْاٰنِ حَقَآئِقِ حُسْنِ ذَاتِهٖ، مِنْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ غَيْبِ كُنْهِ صِفَاتِهٖ، جَمْعِ الْجَمْعِ وَ فَرْقِ الْفَرْقِ، مِنْ حَيْثُ لَا جَمْعَ وَلَا فَرْقَ، لَا لِسَانَ لِمَخْلُوْقٍ يَّبْلُغُ الثَّنَآءُ عَلَيْكَ صَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلَانَا يَا مُحَمَّدُ عَلَيْكَ۔

185 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ الْاَعْدَادِ كُلِّهَا مِنْ حَيْثُ اِنْتِهَآؤُهَا فِيْ عِلْمِكَ وَ مِنْ حَيْثُ لَا اَعْدَادَ مِنْ حَيْثُ اِحَاطَتُكَ بِمَا تَعْلَمُ لِنَفْسِكَ مِنْ غَيْرِ اِنْتِهَآءٍ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

186 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَنَالُ بِبَرَكَتِهَا التَّسْلِيْمَ فِيْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُدْرِكُ بِبَرَكَتِهَا الْاِخْلَاصَ فِيْ سَآئِرِ الْاَعْمَالِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تُصْلِحُ لِيْ بِبَرَكَتِهَا الْاَقْوَالَ وَ الْاَفْعَالَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اَحْفَظُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَعْصَمُ بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الشَّهَوَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً اُعَاذُ بِهَا مِنْ كُلِّ الْغَفَلَاتِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِيْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفِيَّ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا صَفْوَةَ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَحْبُوْبَ الْحَضَرَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا يَعْسُوْبَ الْحَظَآئِرِ الرَّبَّانِيَّةِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا مَطْلُوْبَ النَّظَرَاتِ الْحَقِيَّةِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَئِيْسَ دِيْوَانِ الْكِبْرِيَآءِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا فَرِيْدَ الْاَصْفِيَآءِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا اِمَامَ اَهْلِ بِسَاطِ الْقُرْبِ۔

- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا ذَا الْجَمَالِ الْمَحْبُوْبِ لِاَهْلِ الْحُبِّ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا جَبَلَ قَافِ عَظَمَةِ التَّجَلِّيَاتِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا بَحْرَ مُحِيْطِ اَسْرَارِ الصِّفَاتِ۔
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَّسَلَامًا يَّكُوْنَانِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ الذَّاتِ، وَآلِكَ وَصَحْبِكَ وَالزَّوْجَاتِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى جَمَالِ حَضَرَاتِكَ، وَ جَمِيْلِ مَصْنُوْعَاتِكَ، وَ مِرْآةِ ذَاتِكَ، وَ مَجْلٰى صِفَاتِكَ، قِبْلَةِ تَجَلِّيَاتِكَ، وَ وَجْهَةِ عَظَمَاتِكَ، وَ مَنْحَهِ هِبَاتِكَ، وَ عَظِيْمِ مَمْلَكَتِكَ، اِنْسَانِ عَيْنِ مُكَوَّنَاتِكَ، وَ فَرِيْدِ جَلِيْلِ مَخْلُوْقَاتِكَ، اَلْمُصَفّٰى الْمُصْطَفٰى، وَ الْمُوَفّٰى ذِي الْوَفَا، وَ الْمُنَقّٰى الْمُنْتَقٰى وَ الْمُرْتَقَى الْمُرَقّٰى، وَ الْحَبِيْبِ الْمُجْتَبٰى، وَسِيْلَةِ آدَمَ وَ الْخَلِيْلِ وَاسِطَةِ مُوْسٰى وَ نُوْحِ الْجَلِيْلِ، وَ مُمِدِّ عِيْسٰى وَ دَاوٗدَ خَلِيْفَتِكَ الْجَمِيْلِ الْفَيَّاضِ عَلٰى كُلِّ نَبِيٍّ وَّ رَسُوْلٍ، اَلْوَاهِبِ لِكُلِّ وَلِيٍّ فَاضِلٍ وَّ مَفْضُوْلٍ خِزَانَةِ عَطَاءِ مَلَائِكَتِكَ الْكِرَامِ، وَوَلِيِّ خِزَانَتِكَ لِكُلِّ الْكَائِنَاتِ بِلَا كَلَامٍ۔

اَللّٰهُمَّ امْلَأْ سُوَيْدَاءَنَا مِنْ سَنَاهُ، وَ قُلُوْبَنَا مِنْ نَّعْمَاهُ، وَ اَهِّلْنَا لِمُجَالَسَتِهٖ فِيْ كُلِّ دِيْوَانٍ، وَّ اَلْحِقْنَا بِجَلَالَتِهٖ فِيْ كُلِّ مَشْهَدٍ يَّنَالُهٗ اِنْسَانٌ، اِنَّكَ وَلِيُّ الْعَطَاءِ وَ الْاِمْتِنَانِ، آمِيْنَ يَا مُعْطِيْ يَا وَهَّابُ يَا حَنَّانُ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى حَبِيْبِنَا الصَّافِيْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى طَبِيْبِنَا الشَّافِيْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مَوْعِدِنَا الْمُوَافِيْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى خِلِّنَا الْوَافِيْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى غِيَاثِنَا الْكَافِيْ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى بَحْرِ الْعَظَمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ بَرِّ الْاَسْرَارِ الْاِلٰهِيَّةِ، بَاطِنِ الْعُلُوْمِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَ ظَاهِرِ الْاَنْوَارِ الْوُجُوْدِيَّةِ، قُطْبِ كَثِيْبِ الزِّيَارَاتِ فِي الْجِنَانِ، وَ غَوْثِ حَضْرَةِ الْوَسِيْلَةِ وَ الْاِحْسَانِ، السَّارِيْ سِرُّهٗ فِيْ جَمِيْعِ الْاَعْيَانِ، وَ الْفَائِضِ نُوْرُهٗ عَلٰى سَائِرِ الْخِلَّانِ، مُحَمَّدِكَ الْمَحْمُوْدِ وَ صَفِيِّكَ يَا رَحْمٰنُ۔

اَللّٰهُمَّ صِفْنَا بِصِفَاتِهٖ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ اَخِلَّائِهٖ، وَ صَدِّرْنَا فِيْ صَدْرِ دِيْوَانِ اَوْلِيَائِهٖ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّدُوْمَانِ بِدَوَامِ عَطَائِهٖ۔

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى

نَفسِی تُقَرِّبُنِیْ مِنَ الشَّرِّ وَ تُبعِدُنِی مِنَ الْخَیْرِ وَاِنِّی لَآ اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّی عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْنِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ الصِّحَةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِیْ لِمَحْمُوْدِكَ الْمُنْتَقٰى، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ اَهْلِ الْاِرْتِقَآءِ۔

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْٓءًا وَّ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ۔

187 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بِجَمِيْعِ الشُّؤُوْنِ، فِی الظُّهُوْرِ وَالْبُطُوْنِ، عَلٰى مَنْ مِّنْهُ انْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ الْكَامِنَةُ فِیْ ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ ظُهُوْرًا، وَانْفَلَقَتِ الْاَنْوَارُ الْمُنْطَوِيَّةُ فِیْ سَمَآءِ صِفَاتِهِ السَّنِيَّةِ بُدُوْرًا،

وَفِيْهِ ارْتَقَتِ الْحَقَآئِقُ مِنْهُ اِلَيْهِ، وَتَنَزَّلَتْ عُلُوْمُ آدَمَ بِهٖ فِيْهِ عَلَيْهِ، فَاَعْجَزَ كُلًّا مِّنَ الْخَلَآئِقِ فَهْمُ مَآ اُوْدِعَ مِنَ السِّرِ فِيْهِ، وَلَهٗ تَضَآءَلَتِ الْفُهُوْمُ وَكُلٌّ عَجْزِهٖ يَكْفِيْهِ، فَذٰلِكَ السِّرُّ الْمَصُوْنُ لَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَابِقٌ فِیْ وُجُوْدِهٖ، وَلَا يُبْلِغُهٗ لَاحِقٌ عَلٰى سَوَابِقِ شُهُوْدِهٖ، فَاَعْظِمْ بِهٖ مِنْ نَّبِیٍّ رِّيَاضُ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ الزَّاهِرِ مُوْنَقَةٌ، وَحِيَاضُ مَعَالِمِ الْجَبَرُوْتِ بِفَيْضِ اَنْوَارِ سِرِّهِ الْبَاهِرِ مُتَدَفِّقَةٌ، وَلَا شَیْءَ اِلَّا وَهُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ، وَبِسِرِّهِ السَّارِیْ مَحُوْطٌ، اِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ فِیْ كُلِّ صُعُوْدٍ وَّ هُبُوْطٍ، لَذَهَبَ كَمَا قِيْلَ الْمَوْسُوْطُ، صَلَاةً تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ اِلَيْهِ، وَ تَتَوَارَدُ بِتَوَارُدِ الْخَلْقِ الْجَدِيْدِ وَالْفَيْضِ الْمَدِيْدِ عَلَيْهِ، وَسَلَامًا يُجَارِیْ هٰذِهِ الصَّلَاةَ فَيْضَهٗ وَفَضْلَهٗ، كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ، وَعَلٰى اٰلِهٖ شُمُوْسِ سَمَآءِ الْعُلَا، وَاَصْحَابِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَلَا۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ سِرُّكَ الْجَامِعُ لِكُلِ الْاَسْرَارِ، وَنُوْرُكَ الْوَاسِعُ لِجَمِيْعِ الْاَنْوَارِ وَدَلِيْلُكَ الدَّآلُّ بِكَ مِنْكَ عَلَيْكَ، وَقَآئِدُ رَكْبِ عَوَالِمِكَ اِلَيْكَ، وَحِجَابُكَ الْاَعْظَمُ الْقَآئِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَلَا يَصِلُ وَاصِلٌ اِلَّا اِلٰى حَضْرَتِهِ الْمَانِعَةِ، وَلَا يَهْتَدِیْ حَآئِرٌ اِلَّا بِاَنْوَارِهِ اللَّامِعَةِ۔

اَللّٰهُمَّ اَلْحِقْنِیْ بِنَسَبِهِ الرُّوْحِیْ، وَحَقِّقْنِیْ بِحَسَبِهِ السُّبُّوْحِیْ، وَعَرِّفْنِیْ اِيَّاهُ مَعْرِفَةً اَشْهَدُ بِهَا مُحَيَّاهُ، وَاَصِيْرُ بِهَا مَجْلَاهُ، كَمَا يُحِبُّهٗ وَيَرْضَاهُ، وَاَسْلَمُ بِهَا مِنْ وُّرُوْدِ مَوَارِدِ الْجَهْلِ بِعَوَارِفِهٖ، وَاَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَّوَارِدِ الْفَضْلِ بِمَعَارِفِهٖ، وَاحْمِلْنِیْ عَلٰى نَجَآئِبِ لُطْفِكَ، وَرَكَآئِبِ حَنَانِكَ وَعَطْفِكَ، وَسِرْ بِیْ فِیْ سَبِيْلِهِ الْقَوِيْمِ، وَصِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيْمِ، اِلٰى حَضْرَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَضْرَتِكَ الْقُدْسِيَّةِ، الْمُتَبَلِّجَةِ بِتَجَلِّيَاتِ مَحَاسِنِهِ الْاُنْسِيَّةِ، حَمْلًا مَّحْفُوْفًا ، بِجُنُوْدِ نُصْرَتِكَ، مَصْحُوْبًا ، بِعَوَالِمِ اُسْرَتِكَ، وَاقْذِفْ بِیْ عَلَى الْبَاطِلِ بِاَنْوَاعِهٖ فِیْ جَمِيْعِ بَقَاعِهٖ، فَاَدْمَغُهٗ بِالْحَقِّ عَلَى الْوَجْهِ الْاَحَقِّ، وَزُجَّ بِیْ فِیْ بِحَارِ الْاَحَدِيَّةِ الْمُحِيْطَةِ، بِكُلِّ مُرَكَّبَةٍ وَّ بَسِيْطَةٍ وَّ انْشُلْنِیْ مِنْ اَوْحَالِ التَّوْحِيْدِ اِلٰى فَضَآءِ التَّفْرِيْدِ، الْمُنَزَّهِ عَنِ الْاِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيْدِ، وَاَغْرِقْنِیْ فِیْ عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ شُهُوْدًا، حَتّٰى لَآ اَرٰى وَلَآ اَسْمَعَ وَلَآ اَجِدَ وَلَآ اُحِسَّ اِلَّا بِهَا نُزُوْلًا وَّ صُعُوْدًا، كَمَا هُوَ كَذٰلِكَ لَنْ يَّزَالَ وُجُوْدًا۔

وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ الْحِجَابَ الْاَعْظَمَ حَيَاةَ رُوْحِیْ كَشْفًا وَّ عِيَانًا، اِذِ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ رَحْمَةً مِّنْكَ وَحَنَانًا۔

وَّ اجْعَلِ اللّٰهُمَّ رُوْحَهٗ سِرَّ حَقِيْقَتِیْ ذَوْقًا وَّ حَالًا، وَحَقِيْقَتَهٗ جَامِعَ عَوَالِمِیْ فِیْ مَجَامِعِ مَعَالِمِیْ حَالًا وَّ مَآلًا، وَّ

حَقِّقْنِىْ بِذٰلِكَ، عَلٰى مَا هُنَالِكَ، بِتَحْقِيْقِ الْحَقِّ الْاَوَّلِ وَ الْاٰخِرِ، وَ الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ، يَآ اَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ يَآ آخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ يَا ظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ يَا بَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِسْمَعْ نِدَآئِىْ فِىْ بَقَآئِىْ وَ فَنَآئِىْ، بِمَا سَمِعْتَ بِهٖ نِدَآءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا، وَ اجْعَلْنِىْ عَنْكَ رَاضِيًا وَّ عِنْدَكَ مَرْضِيًا، وَ انْصُرْنِىْ بِكَ لَكَ، عَلٰى عَوَالِمِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الْمَلَكِ، وَ اَيِّدْنِىْ بِكَ لَكَ، بِتَأْيِيْدِ مَنْ سَلَكَ فَمَلَكَ وَ مَنْ مَّلَكَ فَسَلَكَ، وَ اجْمَعْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ، وَ اَزِلْ عَنِ الْعَيْنِ غَيْنَكَ، وَ حُلْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ، وَ اجْعَلْنِىْ مِنْ اَئِمَّةِ خَيْرِكَ وَ مَيْرِكَ اللّٰهُ، اَللّٰهُ مِنْهُ بُدِئَ الْاَمْرُ، اَللّٰهُ الْاَمْرُ اِلَيْهِ يَعُوْدُ، اَللّٰهِ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ، وَ مَا سِوَاهُ مَفْقُوْدٌ {اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ} فِىْ كُلِّ اِقْتِرَابٍ وَّ اِبْتِعَادٍ وَّ اِنْتِهَاضٍ وَّ اِقْتِعَادٍ {رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا} وَ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اهْتَدٰى بِكَ فَهُدٰى، حَتّٰى لَا يَقَعَ مِنَّا نَظَرٌ اِلَّا عَلَيْكَ، وَلَا يَسِيْرَ بِنَا وَطَرٌ اِلَّآ اِلَيْكَ، وَ سِرْ بِنَا فِىْ مَعَارِجِ مَدَارِجِ {اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}۔

اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَ سَلِّمْ مِّنَّا عَلَيْهِ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَ اَكْمَلَ التَّسْلِيْمِ، فَاِنَّا لَا نَقْدِرُ قَدْرَهُ الْعَظِيْمَ، وَلَا نُدْرِكُ مَا يَلِيْقُ بِهٖ مِنَ الْاِحْتِرَامِ وَ التَّعْظِيْمِ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ سَلَامُهٗ وَ تَحِيَّاتُهٗ، وَ رَحْمَتُهٗ وَ بَرَكَاتُهٗ، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ، وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّآمَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ۔

{اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}۔ 188

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى مَنْ جَعَلْتَهٗ سَبَبًا لِّاِنْشِقَاقِ اَسْرَارِكَ الْجَبَرُوْتِيَّةِ وَ انْفِلَاقِ اَنْوَارِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ، فَصَارَ نَآئِبًا عَنِ الْحَضْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَ خَلِيْفَةِ اَسْرَارِكَ الذَّاتِيَّةِ، فَهُوَ يَاقُوْتَةُ اَحَدِيَّةِ ذَاتِكَ الصَّمَدِيَّةِ، وَ عَيْنُ مَظْهَرِ صِفَاتِكَ الْاَزَلِيَّةِ، فَبِكَ مِنْكَ، صَارَ حِجَابًا عَنْكَ، وَ سِرًّا مِّنْ اَسْرَارِ غَيْبِكَ حُجِبْتَ بِهٖ عَنْ كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَهُوَ الْكَنْزُ الْمُطَلْسَمُ، وَ الْبَحْرُ الزَّاخِرُ الْمُطَمْطَمُ۔

فَنَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ بِجَاهِهٖ لَدَيْكَ، وَ بِكَرَامَتِهٖ عَلَيْكَ، اَنْ تُعَمِّرَ قَوَالِبَنَا بِاَفْعَالِهٖ، وَ اَسْمَاعَنَا بِاَقْوَالِهٖ، وَ قُلُوْبَنَا بِاَنْوَارِهٖ، وَ اَرْوَاحَنَا بِاَسْرَارِهٖ، وَ اَشْبَاحَنَا بِاَحْوَالِهٖ، وَ سَرَآئِرَنَا بِمُعَامَلَتِهٖ وَ بَوَاطِنَنَا بِمُشَاهَدَتِهٖ، وَ اَبْصَارَنَا بِاَنْوَارِ مُحَيَّا جَمَالِهٖ، وَ خَوَاتِمَ اَعْمَالِنَا فِىْ مَرْضَاتِهٖ حَتّٰى نَشْهَدَكَ بِهٖ وَ هُوَ بِكَ فَاَكُوْنُ نَآئِبًا عَنِ الْحَضْرَتَيْنِ بِالْحَضْرَتَيْنِ وَ اَدُلُّ بِهِمَا عَلَيْهِمَا۔

وَ نَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَّ تَسْلِيْمًا يَّلِيْقَانِ بِجَنَابِهٖ وَ عَظِيْمِ قَدْرِهٖ وَ تَجْمَعَنِىْ بِهِمَا عَلَيْهِ وَ تُقَرِّبَنِىْ بِخَالِصِ وُدِّهِمَا لَدَيْهِ، وَ تَنْفَحَنِىْ بِسَبَبِهِمَا نَفْحَةَ الْاَتْقِيَآءِ، وَ تَمْنَحَنِىْ مِنْهُمَا مِنْحَةَ الْاَصْفِيَآءِ لِاَنَّهُ السِّرُّ الْمَصُوْنُ وَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ الْمَكْنُوْنُ فَهُوَ الْيَاقُوْتَةُ الْمُنْطَوِيَّةُ عَلَيْهَآ اَصْدَافُ مَكْنُوْنَاتِكَ، وَ الْغَيْهُوْبَةُ الْمُنْتَخِبُ مِنْهَآ اَصْنَافُ مَعْلُوْمَاتِكَ فَكَانَ غَيْبًا مِّنْ غَيْبِكَ وَ بَدَلًا مِّنْ سِرِّ رُبُوْبِيَّتِكَ حَتّٰى صَارَ بِذٰلِكَ مَظْهَرًا نَّسْتَدِلُّ بِهٖ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لَا يَكُوْنُ كَذٰلِكَ وَ قَدْ اَخْبَرْتَنَا بِذٰلِكَ فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِكَ بِقَوْلِكَ {

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ؛ فَقَدْ زَالَ عَنَّا بِذٰلِكَ الرَّيْبُ وَحَصَلَ الْإِنْتِبَاهُ.

وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ دَلَالَتَنَا عَلَيْكَ بِهٖ مُعَامَلَتَنَا مَعَكَ مِنْ أَنْوَارِ مُتَابَعَتِهٖ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَلٰى مَنْ جَعَلْتَهُمْ مَحَلًّا لِّلْإِقْتِدَارِ، وَصَيَّرْتَ قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحَ الْهُدٰى، الْمُطَهَّرِيْنَ مِنْ رَّقِّ الْأَغْيَارِ، وَشَوَآئِبِ الْأَكْدَارِ، مَنْ بَدَتْ مِنْ قُلُوْبِهِمْ دُرَرِ الْمَعَانِيْ فَجَعَلْتَ قَلَآئِدَ التَّحْقِيْقِ لِأَهْلِ الْمَبَانِيْ وَاخْتَرْتَهُمْ فِيْ سَابِقِ الْإِقْتِدَارِ، أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ الْمُخْتَارِ، وَرَضِيْتَهُمْ لِإِنْتِصَارِ دِيْنِكَ فَهُمُ السَّادَةُ الْأَخْيَارُ.

وَضَاعِفِ اللّٰهُمَّ مَزِيْدَ رِضْوَانِكَ عَلَيْهِمْ مَعَ الْآلِ وَالْعَشِيْرَةِ وَالْمُقْتَفِيْنَ لِلْآثَارِ.

وَاغْفِرِ اللّٰهُمَّ ذُنُوْبَنَا وَوَالِدِيْنَا وَمَشَايِخِنَا وَإِخْوَانِنَا فِي اللهِ وَجَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُطِيْعِيْنَ مِنْهُمْ وَأَهْلَ الْأَوْزَارِ.

189 اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الْإِلٰهِ الْمَعْبُوْدِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَآءَ بِالْأَحْكَامِ وَالْحُدُوْدِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَالًّا عَلَى الْحَقِّ الْمَشْهُوْدِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُفِيْضَ الشُّهُوْدَ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْوُجُوْدِ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِرَّ كُلِّ مَوْجُوْدٍ.
- اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى ضَجِيْعِكَ وَآلِكَ وَجَمِيْعِ صَحْبِكَ مَا دَامَ التَّعَرُّفِ، وَاسْتَحَالَ التَّعْطِيْلُ وَالتَّوَقُّفُ، بِسْمِ اللهِ الْبَاعِثِ لَكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَمُغِيْثًا لِّلْمُسْتَغْثِيْنَ، وَرَأْفَةً لِّلْمُسْتَرْئِفِيْنَ، وَجَامِعًا لِشَمْلِ الْمُتَفَرِّقِيْنَ، وَوُصْلَةً لِّلْمُنْقَطِعِيْنَ، وَأَمَانًا لِّلْخَائِفِيْنَ، وَدَلِيْلًا لِّلْحَائِرِيْنَ، وَعِصْمَةً لِّلْمُسْتَعْصِيْنَ، أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِكَ أَسْئَلُكَ يَا حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، بِوَجْهَتِكَ وَمُوَاجَهَتِكَ وَتَوْجِيْهِكَ وَوَجَاهَتِكَ وَجَاهِكَ وَكَرَامَتِكَ وَتَخْصِيْصِكَ وَخُصُوْصِيَّتِكَ وَبِمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ وَبِمَا لَا يَعْلَمُهٗ إِلَّا هُوَ وَبِمَآ أَعْطَاكَ مِنْ عِلْمٍ وَّشُهُوْدٍ وَّمَقَامٍ وَّعُهُوْدٍ، وَكَمَالٍ وَّعُقُوْدٍ، وَّوُصْلَةٍ وَّحَقٍّ وَّحَقِيْقَةٍ وَّرَأْفَةٍ وَّرَحْمَةٍ وَّعِنَايَةٍ وَّشَفْقَةٍ عَلٰى عَبِيْدِهٖ مِنْ أُمَّتِكَ الَّآئِذِيْنَ بِجَنَابِكَ، الْوَاقِفِيْنَ بِأَرْوَاحِهِمْ وَأَشْبَاحِهِمْ عَلٰى بَابِكَ، الْمُتَوَسِّلِيْنَ بِتُرَابِ أَعْتَابِكَ، الْمُتَوَسِّمِيْنَ بِكَ مِنْ مَّوْلَاكَ فَوْقَ مَا فِيْ آمَالِهِمْ، فِيْ دُنْيَاهُمْ وَمَآلِهِمْ، فَبَالِغِيْنَ بِكَ ذٰلِكَ فَهَا عَبْدُكَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَقَلُّهُمْ وَأَذَلُّهُمْ إِلَى اللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَدَيْكَ يَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَالرَّحْمَةَ الشَّامِلَةَ، وَالْعَفْوَ وَالرَّأْفَةَ الْعَآمَّةَ الْكَامِلَةَ، وَالتَّوْفِيْقَ إِلٰى طَاعَتِهٖ وَإِتِّبَاعَ سَبِيْلِهٖ بِكَ،

مُعَافِيْ مِنْ جَمِيْعِ مَا لَا يُرْضِيْهِ، مُسْتَهْلِكًا جَمِيْعَ حَرَكَاتِهٖ وَ سَكَنَاتِهِ الْبَاطِنَةِ وَ الظَّاهِرَةِ مِنْ مَّدَارِكِهٖ اَبَدًا فِيْ مَرَاضِيْهِ، مُشَاهِدًا لَّهٗ بِهٖ مَا دَامَ دَوَامُهٗ لِيَبْلُغَ الْعَبْدُ بِذٰلِكَ رِضَاهُ وَ رِضَاكَ اِتِّسَامًا ء بِعُبُوْدِيَّتِهٖ، وَ قِيَامًا ء بِبَعْضِ وَفَآءِ حُقُوْقِ رُبُوْبِيَّتِهٖ، حَسْبُمَا يُمْكِنُهٗ مِنْ طَاقَتِهٖ، مَعَ تَرْجِيْحِ ذٰلِكَ بِنَوْعِ قَابِلِيَّتِهٖ، بِوُفُوْرِ نَصِيْبِهٖ مِنَ الْحُبِّ الْعَآمِّ وَ لَوَازِمِهٖ، وَ الْخَاصِّ وَ مَعَالِمِهٖ، لَكَ وَ لِرَبِّكَ بَالِغًا ء بِذٰلِكَ رُتْبَةَ الْفَنَآءِ فِيْهِ وَ الْفَنَآءُ عَنِ الْفَنَآءِ بِشُهُوْدِهٖ اِيَّاهُ بِهٖ فِيْ حَضْرَةِ وَحْدَتِهٖ بِالْبَقَآءِ مَعَهٗ فِيْ جَمِيْعِ مَعَالِمِهٖ وَ مُشَاهَدِهٖ، شَيْئٌ لِّلّٰهِ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، شَيْئٌ لِّلّٰهِ يَا حَبِيْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَ يَا خِيَرَتَهٗ مِنْ خَلْقِهٖ، وَ يَا مَعْدِنَ ظُهُوْرِ سِرِّ حَقِّهٖ، عَلَيْكَ اُصَلِّيْ وَ اُسَلِّمُ وَ عَلٰى ضَجِيْعَيْكَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ اٰلِكَ وَ صَحْبِكَ وَ اَتْبَاعِكَ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ بِدَوَامِ قُرْبِكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ قُرْبِ رَبِّكَ مِنْكَ، وَ بِدَوَامِ ظُهُوْرِ مَا ظَهَرَ وَ يَظْهَرُ مِنْ تَعَرُّفِ اَسْمَآئِهٖ وَ شُمُوْسِ اَفْلَاكِ صِفَاتِهٖ، وَ جَوَامِعِ كَمَالِهٖ، بِجَلَالِهٖ وَ جَمَالِهٖ، فِيْ غَيْبِ حَضْرَةِ ذَاتِهٖ۔

اَلْوِرْدُ السَّابِعُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}

190 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَاةٍ عَلٰى اَفْضَلِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ، وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اَجْرِ لُطْفَكَ فِيْ اُمُوْرِنَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا كَانَ وَ عَدَدَ مَا يَكُوْنُ وَ عَدَدَ مَا هُوَ كَآئِنٌ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ۔
- وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ۔

- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اِسْمِهٖ فِى الْاَسْمَآءِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ وَالْغَمَامَةِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ اَبْهٰى مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حَسَنَاتِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَبَاتِ الْاَرْضِ وَاَوْرَاقِ الشَّجَرِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الَّذِىْ جَمَعْتَ بِهٖ شَتَّاتَ النُّفُوْسِ، وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ جَلَّيْتَ بِهٖ ظَلَامُ الْقُلُوْبِ، وَحَبِيْبِكَ الَّذِى اخْتَرْتَهٗ عَلٰى كُلِّ حَبِيْبٍ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَآءَ بِالْحَقِّ الْمُبِيْنِ، وَاَرْسَلْتَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْمَلِيْحِ، صَاحِبِ الْمَقَامِ الْاَعْلٰى وَاللِّسَانِ الْفَصِيْحِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِىْ لِشَرَفِ نُبُوَّتِهٖ وَلِعَظِيْمِ قَدْرِهِ الْعَظِيْمِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ۔
- وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ الْمُطَاعِ الْاَمِيْنِ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ، وَعَلٰى اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ، وَعَلٰى اَخِيْهِ مُوْسَى الْكَلِيْمِ، وَعَلٰى رُوْحِ اللّٰهِ عِيْسَى الْاَمِيْنِ، وَعَلٰى دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعَلٰى اٰلِهِمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔
- اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى عَيْنِ الْعِنَايَةِ، وَزَيْنِ الْقِيَامَةِ، وَكَنْزِ الْهِدَايَةِ، وَطِرَازِ الْحُلَّةِ وَعَرُوْسِ الْمَمْلَكَةِ، وَلِسَانِ الْحُجَّةِ، وَشَفِيْعِ الْاُمَّةِ، وَاِمَامِ الْحَضْرَةِ، وَنَبِىِّ الرَّحْمَةِ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰدَمَ وَنُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ، وَعَلٰى اَخِيْهِ مُوْسَى الْكَلِيْمِ، وَعَلٰى رُوْحِ اللّٰهِ عِيْسَى الْاَمِيْنِ، وَعَلٰى دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعَلٰى اٰلِهِمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِمُ الْغَافِلُوْنَ۔

191 اَللّٰهُمَّ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِجَاهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ صَلَاةَ الرِّضَا فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ تَعْظِيْمًا لِّحَقِّهٖ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى سِوَاكَ وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ۔

192 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيْرًا۔

193 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَنَا عَلَى اللّٰهِ بَابًا مَّشْهُوْدًا، وَعَنْ اَعْدَآئِهٖ حِجَابًا مَّسْدُوْدًا، وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

194 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْاَعْظَمِ الْمَكْتُوْبِ مِنْ نُّوْرٍ وَجْهِكَ الْاَعْلَى الْمُؤَبَّدِ، الدَّآئِمِ الْبَاقِي الْمُخَلَّدِ، فِیْ قَلْبِ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْاَعْظَمِ الْوَاحِدِ بِوَحْدَةِ الْاَحَدِ، الْمُتَعَالِیْ عِنْ وَّحْدَةِ الْكَمِّ وَ الْعَدَدِ، الْمُقَدَّسِ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ وَّ بِحَقِّ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ} {قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۚ اَللهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ} اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سِرِّ حَيَاةِ الْوُجُوْدِ، وَ السَّبَبِ الْاَعْظَمِ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ، صَلَاةً تُثَبِّتُ فِیْ قَلْبِی الْاِيْمَانَ، وَ تُحَفِّظُنِی الْقُرْاٰنَ، وَ تُفَهِّمُنِیْ مِنْهُ الْاٰيَاتِ، وَ تَفْتَحُ لِیْ بِهَا نُوْرَ الْجَنَّاتِ، وَ نُوْرَ النَّعِيْمِ، وَ نُوْرَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

195 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَهَبُ لَنَا بِهَا اَكْمَلَ الْمُرَادِ وَ فَوْقَ الْمُرَادِ، فِیْ دَارِ الدُّنْيَا وَ دَارِ الْمَعَادِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَ زِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَ مِلْءَ مَا عَلِمْتَ۔

196 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ عِلْمُكَ وَ جَرٰى بِهٖ قَلَمُكَ وَ نَفَذَ بِهٖ حُكْمُكَ۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهٖ خَزَآئِنُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ يَّقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْ تُعَافِيَنِیْ مِنَ الدَّيْنِ وَ تُغْنِيَنِیْ مِنَ الْفَقْرِ وَ اَنْ تَرْزُقَنِیْ رِزْقًا حَلَالًا وَّ اسِعًا مُّبَارَكًا فِيْهِ وَ صَلِّ اَللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ۔

197 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ، شَافِی الْعِلَلِ وَ مُفَرِّجِ الْكُرُوْبِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ۔

198 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً كَامِلَةً دَآئِمَةً يُّشَارِكُ فِيْهَا الْاَزَلُ الْاَبَدُ، وَلَا يُشَارِكُهٗ فِيْهَا مِنْ خَلْقِ اللهِ اَحَدٌ، صَلَاةً لَّا تُخْبِرُ فَتَحَدَّ، وَلَا تَحْصُرُ فَتَعَدَّ صَلَاةً نِّهَايَةً اَعْلٰى دَرَجَاتِ الْمُقَرَّبِيْنَ لَا تَصِلُ اِلٰى بِدَايَتِهَا فِی الْاَزَلِ وَلَا بِدَايَةَ، وَلَمْ تَزَلْ دَآئِمَةَ التَّرَقِّیْ فِیْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ لَنْ تَزَالُ كَذٰلِكَ فَلَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ وَّ عَلٰى اٰلِهِ الْاَقْرَبِيْنَ، وَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ صَحْبِهٖ نُجُوْمِ الْمُهْتَدِيْنَ، وَ رُجُوْمِ الْمُعْتَدِيْنَ، وَ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَتَمَّهَا، وَ اَدْوَمَهَا وَ اَعَمَّهَا، صَلَاةً تُعَادِلُ جَمِيْعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِیْ صَلَّيْتَهَا عَلَيْهِ فِی الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَ تُمَاثِلُ مَا صَلّٰی وَ يُصَلِّیْ عَلَيْهِ جَمِيْعَ خَلْقِكَ كَالْاِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ الْمَلَآئِكَ، صَلَاةً تَفُوْقُ الْحَدَّ وَالْعَدَّ فَلَا يُبْلِغُ حَدُّهَا وَ عَدُّهَا جَمِيْعَ الْاَلْفَاظِ وَ الْاَعْدَادِ، تَجْعَلُنِیْ بِهَا مِنْ اَسْعَدِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفَآئِزِيْنَ بِرِضَاكَ وَ رِضَاهُ فِی الْمَعَاشِ وَ الْمَعَادِ، وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَقْرِبَآئِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِهٖ، وَ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ تَشَرَّفُوْا بِرُؤْيَةِ ذَاتِهِ الشَّرِيْفَةِ وَ مُشَاهَدَةِ مُعْجِزَاتِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

• اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ اَفْضَلَ صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا اَوْ تُصَلِّيْهَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ

عِبَادِكَ الْاَبْرَارِ وَ الْمُقَرَّبِيْنَ تَكُوْنُ صَلَاتُكَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ آلِهٖ مَعَ كَمَالِهَا بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهَا كَالذَّرَّةِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى جَمِيْعِ الْعَالَمِيْنَ وَ عَلٰى اِخْوَانِهِ الْاَنْبِيَآءِ الَّذِيْنَ تَقَدَّمُوْهُ فِي الزَّمَانِ تَقَدُّمُ الْاُمَرَآءِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَ اَصْحَابِهٖ نُجُوْمِ الْهُدٰى وَ اَئِمَّةِ اُمَّتِهٖ وَ مَنْ بِهِمُ اقْتَدٰى وَ سَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيْمًا كَذٰلِكَ فَالْكُلُّ مَمْلُوْكٌ وَّ اَنْتَ وَحْدَكَ الْمَالِكُ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَاةٍ وَّ اَكْمَلَهَا وَ اَدْوَمَهَا، وَ اَشْمَلَهَا، عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ بِالسِّيَادَةِ الْعَآمَّةِ فَهُوَ سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ عَلَى الْاِطْلَاقِ، وَ رَسُوْلِكَ الَّذِيْ بَعَثْتَهٗ بِاَحْسَنِ الشَّمَآئِلِ وَ اَوْضَحِ الدَّلَآئِلِ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ، صَلَاةً تُنَاسِبُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ مِنَ الْقُرْبِ، الَّذِيْ مَا فَازَ بِهٖ اَحَدٌ، وَّ تَشَاكُلُ مَا لَدَيْكُمَا مِنَ الْحُبِّ، الَّذِيْ انْفَرَدَ بِهٖ فِي الْاَزَلِ وَ الْاَبَدِ صَلَاةً لَّا يَعُدُّهَا وَلَا يَحُدُّهَا قَلَمٌ وَلَا لِسَانٌ، وَّلَا يَصِفُهَا وَلَا يَعْرِفُهَا مَلَكٌ وَّلَا اِنْسَانٌ، صَلَاةً تَسَوَّدُ كَآفَّةَ الصَّلَوَاتِ كَسِيَادَتِهٖ عَلٰى كَآفَّةِ الْمَخْلُوْقَاتِ، صَلَاةً يَّشْمَلُنِيْ نُوْرَهَا مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِيْ فِيْ جَمِيْعِ اَوْقَاتِيْ وَ يُلَازِمُ جَمِيْعَ ذَرَّاتِيْ فِيْ حَيَاتِيْ وَ بَعْدَ مَمَاتِيْ وَ عَلٰى آلِهِ الْاَطْهَارِ وَ اَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ صَلَاةً لَّا صَلَاةَ اَفْضَلَ مِنْهَا لَدَيْكَ وَ لَدَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ اَحَبُّ مِنْهَآ اِلَيْكَ وَ اِلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ اَنْفَعُ مِنْهَا لَهٗ وَ لِكُلِّ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ، صَلَاةً تَجْمَعُ مَا فِيْ جَمِيْعِ الصَّلَوَاتِ، مِنَ الْفَضَآئِلِ وَ الْكَمَالَاتِ، بِجَمِيْعِ الْاَعْدَادِ وَ الْمُضَاعَفَاتِ، مَعَ جَمِيْعِ التَّقْدِيْرَاتِ وَ الْاِعْتِبَارَاتِ، الْمَطْلُوْبَةِ لَهٗ مِنْ جَمِيْعِ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِيْنَ وَ السَّمٰوَاتِ، فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ زِنَةَ جَمِيْعِ الْمَخْلُوْقَاتِ، وَ مِلْئَ جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ كُلُّ مَنْ دَخَلَ اِلٰى دِيْنِكَ الْمُبِيْنِ مِنْ بَابِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

- صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ خَيْرِ خَلْقِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ صَلَاةً وَّ سَلَامًا دَآئِمَيْنِ يَمْلَآنِ بِكَمَالِهَا دَآئِرَةِ الْاِمْكَانِ وَ يَنْفَرِدَانِ بِجَمْعِهَا كُلَّ مَا يَقْتَضِيْهِ الْكَرَمُ الْاِلٰهِيُّ مِنْ اَنْوَاعِ الْحُسْنِ وَ الْاِحْسَانِ، وَ يَجْمَعَانِ فَضَآئِلَ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيْمَاتِ الَّتِيْ اَرَدْتَّهَا لَهٗ اَوْ لِسِوَاهُ فِي الْمَاضِيْ وَ الْحَالِ وَ الْاِسْتِقْبَالِ، وَلَا يَشُذُّ عَنْهُمَا خَيْرٌ قَدَّرْتَهٗ لِاَحَدٍ فِي الدَّارَيْنِ مِنْ مَّحَاسِنِ الصِّفَاتِ وَ الْاَسْمَآءِ وَ الْاَفْعَالِ، تُطَهِّرُنِيْ بِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ مِنْ اَفْعَالٍ اَوْ اَقْوَالٍ اَوْ نِيَّاتٍ وَّ تَكْفِيْنِيْ كُلَّ ضَيْرٍ وَّ تُوَلِّيْنِيْ كُلَّ خَيْرٍ فِي الْحَيَاةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ۔

- اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَ اَنْفَعَهَا وَ اَشْمَلَهَا وَ اَوْسَعَهَا وَ اَجْمَلَهَا وَ اَجْمَعَهَا وَ اَحْسَنَهَا وَ اَبْدَعَهَا وَ اَنْوَارَهَا وَ اَكْمَلَهَا وَ اَرْفَعَهَا وَ اَعْلَاهَا مَكَانَةً لَدَيْكَ، وَ اَحَبَّهَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ اِلَيْكَ، مَشْفُوْعَةً بِسَلَامٍ مِّنْكَ يُمَاثِلُهَا، لَا يَفْضِلُهٗ وَلَا يَفْضِلُهَا صَلَاةً وَّ سَلَامًا يَّصْدُرَانِ مِنْ فَيْضِ فَضْلِكَ الَّذِيْ


لَا يَنۡفُدُ، وَيَتَوَارِدَانِ عَلٰى اَحَبِّ عَبِيۡدِكَ اِلَيۡكَ اَبِى الۡقَاسِمِ سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَعۡلُوۡمَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، فِيۡمَا كَانَ بِغَيۡرِ بِدَايَةٍ، وَّفِيۡمَا يَكُوۡنُ بِغَيۡرِ نِهَايَةٍ، لَوۡ قَسَمۡتَ جَمِيۡعَ الۡعَوَالِمِ اِلٰى اَصۡغَرِ اَجۡزَآئِهَا لَنَفِدَتۡ قَبۡلَ نَفَادِهَا، وَ مَا بَلَغَتۡ عَشۡرَ مِعۡشَارِ اَعۡدَادِهَا، تَتَوَالٰى عَلَيۡهِ فِىۡ كُلِّ لَمۡحَةٍ مُّسۡتَكۡمِلَةٍ فَضۡلُهَا مَضۡرُوۡبَةٌ فِىۡ مَجۡمُوۡعِ مَا قَبۡلَهَا حَتّٰى تَصَاحَبَ سَوَابِقَ الۡاٰبَادِ تَعۡجِزُ عَنۡ لُّحُوۡقِهَا جَمِيۡعَ الۡاَعۡدَادِ تَفۡضُلُ جَمِيۡعَ الصَّلَوَاتِ كَفَضۡلِهٖ عَلٰى جَمِيۡعِ الۡمَخۡلُوۡقَاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحۡبِهٖ اَجۡمَعِيۡنَ وَ كُلُّ مَنۡ دَخَلَ تَحۡتَ حِيۡطَةِ دِيۡنِهِ الۡمُبِيۡنِ۔

199 صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوۡلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصۡحَابِهٖ وَزَوۡجَاتِهٖ مُنۡتَهٰى مَرۡضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَرۡضَاتِهٖ۔

200 عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰهِ مِنۡ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَتَسۡلِيۡمَاتِهٖ وَتَحِيَّاتِهٖ وَبَرَكَاتِهٖ فِىۡ كُلِّ لَحۡظَةٍ مَا يُمَاثِلُ فَضۡلَكَ الۡعَظِيۡمَ وَ يُعَادِلُ قَدۡرَكَ الۡفَخِيۡمَ وَيَجۡمَعُ لَكَ فَضَآئِلَ جَمِيۡعِ اَنۡوَاعِ الصَّلَاةِ وَالتَّسۡلِيۡمِ۔

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ عَزِيۡزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيۡصٌ عَلَيۡكُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِىَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَهُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡمِ ﴿١٢٩﴾



المكتبة القادرية

WAH MODEL TOWN, WAH CANTT. PAKISTAN
Cell : 0092-3335187573, 0092-3445009536
E-mail : info@salat-o-salam.com, salat.o.selam@gmail.com
Website : www.salat-o-salam.com